

فَقِيهٌ وَأَجِدُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ نَفِ عَائِدٍ

فتاویٰ عالمگیری جدید

مترجم

مولانا سید امیر علی رحمانی

تسہیل و عنوانات

مولانا ابو عبد اللہ

مکتبہ رحمانیہ

قرمہ سٹر۔ عزیزی سٹریٹ۔ اردو بازار۔ لاہور

فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

فتاوی عالمگیری جدید

جلد سوم

تسهیل و عنوانات

مولانا ابو عبید اللہ

خطیب جامع مسجد تلمیذ العلماء
ڈیفنس روڈ لاہور

مترجم

مولانا سید امیر علی رحمہ اللہ

مصنف تفسیر مواہب الرحمن و عین الہدایہ وغیرہ

◦ کتاب العتاق ◦ کتاب الایمان ◦ کتاب الحدود
◦ کتاب السرقة ◦ کتاب السیر ◦ کتاب اللقیط
◦ کتاب اللقطہ ◦ کتاب الالباق ◦ کتاب المفقود

مکتبہ رحمانیہ

اقرا سنٹر - غزنی سٹریٹ - اردو بازار - لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔

نام کتاب — فتاویٰ عالمگیری جدید

مترجم — مولانا سید امیر علی رحمہ اللہ

تسہیل و عنوانات — مولانا ابو عبید اللہ

تصحیح — طارق اسماعیل صاحب ایم اے اسلامیات

مطبع — علی اعجاز پرنٹرز

ناشر — مکتبہ رحمانیہ

استدعا

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت، طباعت، تصحیح اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔

بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرمادیں۔ ان شاء اللہ از الہ کیا جائے گا۔ نشاندہی کے لئے ہم بے حد شکر

(ادارہ)


گزارہوں گے۔

فہرست

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۶	فصل ☆ کفارہ کے بیان میں	۷	کتاب العتاق
۱۱۶	باب: ۳		باب: ۱
۱۳۳	دخول و سکنی پر قسم کھانے کے بیان میں		عتاق کی تفسیر شرعی اور اس کے رکن و حکم و انواع و شرط و سبب و الفاظ کے بیان میں اور ملک و غیرہ کے سبب سے عتق واقع ہونے کے بیان میں
	باب: ۴	۱۷	فصل: ۱
	نکلنے اور آنے اور سوار ہونے وغیرہ کی قسم کھانے کے بیان میں		ملک و غیرہ کی وجہ سے آزاد ہونے کے بیان میں
۱۳۸	باب: ۵	۱۹	باب: ۲
	کھانے اور پینے وغیرہ کی قسم کھانے کے بیان میں		معتق البعض کے بیان میں
۱۶۴	باب: ۶	۳۴	باب: ۳
	کلام پر قسم کھانے کے بیان میں		دو غلاموں میں سے ایک کے عتق کے بیان میں
۱۸۷	باب: ۷	۴۹	باب: ۴
	طلاق و عتاق کی قسم کے بیان میں		عتق کے ساتھ قسم کھانے کے بیان میں
۱۹۰	باب: ۸	۵۶	باب: ۵
	خرید و فروخت و نکاح وغیرہ میں قسم کھانے کے بیان میں		عتق بعجل کے بیان میں
۲۰۵	باب: ۹	۶۷	باب: ۶
	حج و نماز و روزہ میں قسم کھانے کے بیان میں		عتق کے ساتھ قسم کھانے کے بیان میں
۲۲۱	باب: ۱۰	۸۰	باب: ۷
	کپڑے پہننے و پوشش و زیور وغیرہ کے قسم کھانے کے بیان میں		استیلاء کے بیان میں
۲۱۷	باب: ۱۱	۹۱	کتاب الایمان
	ضرب و قتل وغیرہ کی قسم کے بیان میں		باب: ۱
۲۲۶	باب: ۱۲		بیمین کی تفسیر شرعی، اس کے رکن و شرط و حکم کے بیان میں
	تقاضائے دراہم میں قسم کھانے کے بیان میں	۹۴	باب: ۲
			ان صورتوں کے بیان میں جو قسم ہوتی ہیں اور جو نہیں ہوتی ہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۱۸	باب : ۴ قطاع الطريق کے بیان میں	۲۳۲	❦ کتاب الحدود ❦ باب : ① حد کی تفسیر شرعی اور اس کے رکن کے بیان میں
۳۲۲	❦ کتاب السیر ❦ باب : ① اس کی تفسیر شرعی و شرط و حکم کے بیان میں	۲۳۲	باب : ② زنا کے بیان میں
۳۳۱	باب : ② قتال کی کیفیت کے بیان میں	۲۵۱	باب : ③ جو وطی موجب حد ہے اور جو نہیں ہے اُس کے بیان میں
۳۳۶	باب : ③ مصالحہ اور امان کے بیان میں	۲۵۸	باب : ④ زنا پر گواہی دینے اور اس سے رجوع کرنے کے بیان میں
۳۵۲	باب : ④ غنائم اور اس کی تقسیم کے بیان میں	۲۷۱	باب : ⑤ شراب خوری کی حد میں
	فصل : ① غنائم کے بیان میں	۲۷۳	باب : ⑥ حد القذف اور تعزیر کے بیان میں
۳۶۶	فصل : ② کیفیت قسمت میں	۲۸۴	فصل ☆ در بیان تعزیر
۳۷۴	فصل : ③ تتفیل کے بیان میں	۲۹۱	❦ کتاب السرقة ❦ باب : ① سرقة اور اس کے ظہور کے بیان میں
۳۸۸	باب : ⑤ استیلاء کفار کے بیان میں	۳۰۰	باب : ② ان صورتوں کے بیان میں جن میں ہاتھ کاٹا جائے گا اس میں تین فصلیں ہیں
۴۰۳	باب : ⑥ مستامن کے بیان میں	۳۰۰	فصل : ① جن میں ہاتھ کاٹا جائے گا
	فصل : ① مستامن کے امان لے کے دارالحرب میں داخل ہونے کے بیان میں	۳۰۶	فصل : ② حرز اور حرز سے لینے کے بیان میں
۴۰۷	فصل : ② حربی کے امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہونے کے بیان میں	۳۱۱	فصل : ③ کیفیت قطع واسکے اثبات کے بیان میں
		۳۱۶	باب : ③ سارق مال سرقة میں جو شے پیدا کر دے اُس کے بیان میں

مضمون	مضمون
۴۳۴	ظاہر میں مسلمان ہو کر پھر آخر کو پھر گئے
۴۶۸	باب : ۱۰ باغیوں کے بیان میں
۴۷۲	کتاب اللقیط
۴۷۸	کتاب اللقطة
۴۸۷	کتاب الالباق
۴۹۴	کتاب المفقود
۴۱۱	فصل : ۳ ایسے ہدیہ کے بیان میں جو بادشاہ اہل حرب مسلمانوں کے سردار لشکر کے پاس بھیجے
۴۱۲	باب : ۷ عشر و خراج کے بیان میں
۴۲۲	باب : ۸ جزیہ کے بیان میں
۴۲۶	فصل : اگر ذمیوں نے جدید بیعوں یا کنسیوں کو بنانا چاہا
۴۳۴	باب : ۹ مرتدوں کے احکام میں یعنی جو لوگ خالی زبان سے



کتاب العتاق

اس میں سات ابواب ہیں

باب : ①

عتاق کی تفسیر شرعی اور اس کے رکن و حکم و انواع و شرط و سبب و الفاظ کے بیان میں اور ملک وغیرہ کے سبب سے عتق واقع ہونے کے بیان میں

عتق کی تفسیر شرعی :

عتق ایسی قوتِ حکمیہ ہے کہ جس موقع پر واقع ہوتی ہے اس میں لیاقت مالک ہونے کی اور اہلیت و لایات و شہادات کی پیدا کر دیتی ہے کذانی محیط السرحسی۔ حتیٰ کہ وہ اس عتق کی وجہ سے غیر دہل پر تصرف کرنے اور غیروں کا تصرف اپنی ذات سے دور کرنے پر قادر ہو جاتا ہے یہ تبیین میں لکھا ہے۔

اعتاق کا رکن و حکم :

اعتاق کا رکن ہر ایسا لفظ ہے جو عتق پر فی الجملہ دلالت کرے یا اس کے قائم مقام ہو یہ بدائع میں لکھا ہے اور اعتاق کا حکم یہ ہے کہ رقیق کی گردن سے دنیا میں مالک کی ملکیت اور رقیقیت زائل ہو جاتی ہے اور اگر مالک نے اس کو خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے آزاد کیا ہو تو عاقبت میں بڑا ثواب پاتا ہے۔ یہ محیط میں ہے۔

اعتاق کی اقسام :

اعتاق کی چار قسمیں ہیں : ① واجب ② مستحب ③ مباح ④ حرام۔ بس واجب وہ اعتاق ہے جو کفارہ قتل و ظہار قسم و افطار میں ہوتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ قتل و ظہار و افطار (عمداً روزہ توڑنا) کی صورت میں اگر بردہ آزاد کرنے کی قدرت ہو تو اس پر یہی واجب ہوگا اور قسم کی صورت میں باوجود قدرت کے تخیر کے ساتھ واجب ہے یعنی چاہے بردہ آزاد کرے یا دوسرے طور پر کفارہ ادا کرے اور مستحب وہ اعتاق ہے جو بدوں اس پر واجب ہونے کے اس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے آزاد کیا ہے اور مباح وہ اعتاق ہے جو اس نے بدوں نیت کے آزاد کیا ہو اور حرام وہ اعتاق ہے جو اس نے شیطان کی راہ پر آزاد کیا ہو کذافی بحر الرائق پس اگر کسی نے شیطان یا بت کے واسطے اپنا غلام آزاد کیا تو وہ آزاد ہو جائے گا مگر یہ شخص کافر کہلائے گا یہ سراج و ہاج میں ہے۔

اعتاق کی شرائط :

اعتاق کی شرط یہ ہے کہ آزاد کرنے والا خود آزاد بالغ عاقل مالک ہو جو اپنی ملک سے اس کا مالک ہے یہ نہایہ میں ہے۔ پس نابالغ اور مجنون آزاد کرنے کی لیاقت نہیں رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے اگر ان دونوں نے ایسی حالت کی طرف عتق کی اضافت کی

مثلاً یوں کہا میں نے اس کو نابالغی کی حالت میں آزاد کیا ہے یا جنون کی حالت میں آزاد کیا ہے حالانکہ اس کا جنون معبود ہے تو غلام آزاد نہ ہوگا اسی طرح اگر نابالغی یا جنون کی حالت میں کہا کہ جس وقت میں بالغ ہوں یا مجھے (افاق) ہو تو یہ غلام آزاد ہے تو حقیقاً منعقد نہ ہوگا یہ تبیین میں ہے۔

اصل یہ ہے کہ اگر اعتاق کو ایسی حالت کی جانب مضاف کیا جس کا واقع ہو جانا معلوم ہے حالانکہ وہ ایسی حالت میں آزاد کرنے کی لیاقت نہیں رکھتا تھا تو اس کے قول کی تصدیق ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے اپنے جنون کی حالت میں اس غلام کو آزاد کیا ہے حالانکہ اس کا جنون معلوم نہیں ہوا تو اس کے قول کی تصدیق نہیں ہوگی۔ یہ بدائع میں ہے اور جو شخص کبھی مجنون ہو جاتا ہے اور کبھی اس کو افاقہ ہو جاتا ہے تو وہ افاقہ کی حالت میں عاقل قرار دیا جائے گا اور جنون کی حالت میں مجنون یہ بحر الرائق میں ہے اور جو شخص باکراہ آزاد کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے آزاد کیا یا نشہ کے مست نے آزاد کیا تو آزاد ہو جائے گا۔ یہ بدائع میں ہے اور عتق کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ آزاد کرنے والا معتوہ نہ ہو اور مدہوش نہ ہو اور اس کو برسام کی بیماری نہ ہو اور نہ ایسا شخص ہو جس پر بدون نشہ کے بیہوشی طاری ہوئی ہو اور سویا ہوا نہ ہو چنانچہ ان لوگوں میں سے کسی کا آزاد کرنا صحیح نہیں ہے اور اگر کسی شخص نے کہا میں نے اپنے غلام کو سونے کی حالت میں آزاد کیا ہے تو قول اسی کا قبول ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے اپنی پیدائش سے پہلے یا غلام کی پیدائش سے پہلے غلام کو آزاد کیا ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور آزاد کرنے والے کا بطوع خود آزاد کرنا ہمارے نزدیک آزاد ہونے کی شرط نہیں ہے اور نیز اس کا قصد کرنے والا ہونا بھی بالاجماع شرط نہیں ہے حتیٰ کہ اگر اس نے ہزل و دل لگی سے بدون قصد آزاد کیا تو صحیح ہوگا اور اسی طرح عمدہ ہونا بھی شرط نہیں ہے حتیٰ کہ بھولے سے آزاد کرنے والے کا اعتاق صحیح ہوگا اور اسی طرح اعتاق میں شرط اختیار نہ ہونا بھی شرط نہیں ہے خواہ اعتاق بعوض یا بغیر عوض ہو بشرطیکہ خیار مولیٰ کے واسطے ہو حتیٰ کہ عتق واقع ہوگا اور شرط باطل ہوگی اور اگر خیار غلام کے واسطے ہو تو اس کے خیار شرط سے خالی ہونا اعتاق صحیح ہونے کی شرط ہے حتیٰ کہ اگر غلام نے ایسی حالت میں عقد رد کر دیا تو فسخ ہو جائے گا اور اسی طرح آزاد کرنے والے کا مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے پس کافر کی طرف سے آزاد کرنا صحیح ہے لیکن اگر مرتد نے آزاد کیا ہو تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فی الحال نافذ نہ ہوگا بلکہ موقوف رہے گا اور اگر مرتدہ عورت نے آزاد کیا تو بالاتفاق نافذ ہوگا اور اسی طرح آزاد کرنے والے کا تندرست ہونا شرط نہیں ہے پس اگر ایسے مریض نے آزاد کیا جو اسی مرض میں مر گیا تو حقیقاً صحیح ہے لیکن مریض کا آزاد کرنا اس کے ایک تہائی ترکہ سے اعتبار کیا جائے گا اور اسی طرح زبان سے کلام کرنا بھی شرط نہیں ہے پس اگر اعتاق اس طرح تحریر کر دیا جو مثبت ہے یا اس طرح اشارہ کیا جس سے اعتاق سمجھا جاتا ہے تو یہ آزاد ہو جائے گا یہ بدائع میں ہے۔

اگر غلام نے اپنے مولیٰ سے کہا کہ میں آزاد ہوں حالانکہ مولیٰ بیمار پڑا ہے پس مولیٰ نے اپنا سر ہلایا یعنی ہاں کہا تو غلام آزاد نہ ہوگا۔ یہ سراج الوہاب میں ہے۔ ایک شخص کے قبضہ میں اس کا ایک غلام ہے اس شخص سے کسی نے کہا کہ تو نے اپنا یہ غلام آزاد کیا ہے؟ پس اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں تو یہ غلام آزاد نہ ہوگا اس واسطے کہ یہ شخص زبان سے کہنے پر قادر ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور یہ شرط نہیں ہے کہ آزاد کرنے والا یہ جانتا ہو کہ یہ میرا مملوک ہے چنانچہ اگر غاصب نے مالک سے کہا کہ یہ غلام آزاد کر دے پس اس نے آزاد کر دیا حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ میرا یہ غلام تھا تو غلام آزاد ہو جائے گا اور مالک اس غاصب سے کچھ نہیں لے سکتا۔ اسی طرح بائع نے مشتری سے کہا کہ تو یہ غلام آزاد کر دے اور بیع کی طرف اشارہ کیا پس مشتری نے اس کو آزاد کر دیا اور یہ نہ جانا کہ میرا غلام ہے تو اس کا آزاد کرنا صحیح ہوگا اور یہ امر مشتری کے قبضہ کرنے میں شمار ہوگا اور مشتری کے

ذمہ نمن لازم ہوگا یہ کشف کبیر میں ہے کذافی بحر الرائق۔

اعتاق کی شرطوں میں سے ایک نیت ہے:

شیخ ابو بکر نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے دوسرے سے کہا کہ تو کہہ کل عبیدی احرار (میرے سب غلام آزاد ہیں) پس اس نے یہ لفظ کہا حالانکہ وہ عربی نہیں سمجھتا ہے تو اس کے سب غلام آزاد ہو جائیں گے اور میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کے غلام آزاد نہ ہوں گے۔ اگر اس سے کہا کہ تو کہہ: انت حوریس (تو آزاد ہے) اس نے کہا حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس لفظ سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ محکمہ قضا میں آزاد ہو جائے گا لیکن فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ آزاد نہ ہوگا یہ نیا بیع میں ہے۔ اور اعتاق کی شرطوں میں سے ایک نیت ہے مگر یہ اعتاق کی دو قسموں یعنی صریح و کنایہ میں سے فقط کنایہ میں شرط ہے۔ یہ بدائع میں ہے۔ اور عتق کا سبب جو اس کا ثابت کرنے والا ہے وہ کبھی نسب کا دعویٰ ہوتا ہے اور کبھی نسبی ناتے دار میں نفس ملکیت ہوتی ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے سامنے ایک شخص کی حریت کا اقرار کیا تو یہ عتق کا سبب ہو سکتا ہے چنانچہ اس شخص غلام کو اگر کبھی اس شخص نے خریدا یا کسی طور سے اس کا مالک ہو تو آزاد ہو جائے گا اور کبھی دار الحرب میں داخل ہونا سبب ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر حربی نے ایک مسلمان غلام خریدا اور اس کو دار الحرب میں لے گیا اور یہ حال معلوم نہ ہو تو امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک یہ غلام آزاد ہو جائے گا اور اسی طرح اگر اس کا قبضہ غلام سے زائل ہو گیا یا اس طور کہ غلام اپنے حربی مالک کے پاس سے دارالاسلام میں بھاگ آیا تو وہ آزاد ہوگا یہ فتح القدر میں ہے۔

عتق کے الفاظ تین اقسام کے ہوتے ہیں:

اگر حربی کا غلام مسلمان ہو گیا مگر دارالاسلام میں نکل نہ آیا تو وہ آزاد نہ ہوگا اگر اس کا مالک بھی مسلمان ہو گیا ہو پھر اہل اسلام نے اس ملک کو فتح کر لیا تو اس کا غلام اس کا غلام رہے گا اور اگر حربی کا غلام مسلمان ہو گیا پھر اس کے مولیٰ نے دار الحرب میں اس کو کسی مسلمان کے ہاتھ فروخت کیا تو امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک مشتری کے قبضہ سے پہلے وہ غلام آزاد ہوگا اور اسی طرح اگر کسی ذمی کے ہاتھ فروخت کیا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر حربی دار الحرب کو لوٹ گیا اور دارالاسلام میں اپنی اُم ولد چھوڑ گیا یا ایسا غلام مدبر چھوڑا جس کو اس نے دارالاسلام میں مدبر کیا ہے تو ان دونوں کے آزاد ہو جانے کا حکم دیا جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور عتق کے الفاظ تین اقسام کے ہوتے ہیں ایک صریح دوم جو صریح کے ساتھ ملحق ہیں سوم کنایہ پھر جاننا چاہئے کہ صریح مثل حریت و عتق والا وغیرہ الفاظ کے ہیں اور جو ان سے مشتق ہوں وہ بھی صریح ہیں اور ایسے الفاظ سے جو عتق ہو اس میں نیت کی حاجت نہیں ہے۔ پس اگر ایسے الفاظ سے اپنے مملوک کا وصف کیا یا خبر دی یا پکارا مثلاً اپنے غلام یا باندی سے کہا کہ تو حر ہے یا معتق ہے یا محرر ہے یا عتق ہے یا کہا کہ قد حررتک یعنی میں نے تجھے آزاد کیا ہے یا قد اعتفتک یعنی میں نے تجھے آزاد کیا ہے یا یوں کہا کہ اے حر یا اے عتق یا اے مولیٰ یا کہا کہ یہ میرا مولیٰ ہے تو سب صورتوں میں آزاد ہو جائے گا اور اگر اس نے ان الفاظ میں دعویٰ کیا کہ میری مراد عتق نہ تھی تو محکمہ قضا میں اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی یہ حادی قدسی میں ہے۔

اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میری مراد ہے کہ یہ شخص پہلے حر تھا پس اگر یہ غلام جہاد میں قید ہو کر آیا ہے تو از روئے دیانت اس کے قول کی تصدیق ہوگی مگر محکمہ قضا میں تصدیق نہ ہوگی اور اگر اس غلام کی پیدائش یہیں کی ہو تو کسی طرح تصدیق نہ ہوگی اور اگر غلام سے کہا کہ تو اس کام سے حر ہے یا کہا کہ تو آج کے دن اس کام سے حر ہے تو قضا آزاد ہو جائے گا۔ یہ محیط سرحی میں ہے۔ اور اگر کسی شخص نے غلام سے کہا کہ انت حر البتہ یعنی تو البتہ آزاد ہے۔ لیکن یہ شخص ہنوز البتہ کا لفظ نہ کہنے پایا تھا کہ غلام مذکور مر گیا تو وہ

غلام مرے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص نے گواہ کر لیئے کہ میرے غلام کا نام حر ہے پھر اس کو اے حر کہہ کر پکارا تو آزاد نہ ہوگا۔ یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔ اور اگر اس لفظ سے اس کی مراد انشاء عتق ہو تو آزاد ہو جائے گا۔ یہ اختیار شرح مختار میں ہے۔ اور اگر اس کو فارسی میں پکارا کہ اے آزاد تو آزاد ہو جائے گا اور اگر آزاد اس کا نام رکھا پھر آزاد کہہ کر پکارا تو آزاد نہ ہوگا لیکن اگر عربی میں یا حر کہہ کر پکارا تو آزاد ہو جائے گا یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔ ایک شخص نے اپنا غلام کسی شہر کو بھیجا اور اس سے کہا کہ جب کوئی آدمی تیرے سامنے پڑے اور تیرا قصد کرے تو کہنا کہ میں حر ہوں پھر ایک شخص اس سے معترض ہوا اور غلام نے کہا کہ میں حر ہوں پس اگر مولیٰ نے بھیجنے کے وقت اس سے کہا ہو کہ میں نے تیرا نام حر رکھا ہے اور کوئی تیرا قصد کرے تو اس سے کہنا کہ میں حر ہوں تو غلام مذکور آزاد نہ ہوگا اور اگر مولیٰ نے اس سے یہ نہ کہا کہ میں نے تیرا نام حر رکھا ہے بلکہ یہی کہا کہ جب کوئی تیری طرف قصد کرے تو تو کہنا کہ میں حر ہوں پھر غلام نے اپنی طرف قصد کرنے والے سے کہا کہ میں حر ہوں تو قضاء آزاد ہو جائے گا اور جب تک غلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں آزاد ہوں تب تک آزاد نہ ہوگا جیسے کہ اگر اپنے غلام سے کہا کہ تو کہہ کہ میں آزاد ہوں تو جب تک یہ نہ کہے کہ میں آزاد ہوں تب تک آزاد نہ ہوگا اور اگر کسی شخص سے کہا کہ تو میرے غلام سے کہہ کہ تو آزاد شدہ ہے یا کہا کہ وہ آزاد ہے تو فی الحال آزاد ہو جائے گا اور اگر ایک شخص کو حکم کیا کہ میرے غلام سے کہہ کہ تو آزاد ہے تو آزاد نہ ہوگا جب تک کہ یہ مامور اس سے اس طرح نہ کہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر ایک آدمی سے کہا کہ اے سالم تو آزاد ہے پھر یہ آدمی اس کا دوسرا غلام نکلا.....؟

اگر اپنے غلام سالم نام کو پکارا کہ اے سالم پس مرزوق نے جواب دیا کہ جی پس مولیٰ نے کہا کہ تو آزاد ہے حالانکہ اس کی نیت نہ تھی تو وہی آزاد ہو جائے گا جس نے جواب دیا ہے اور اگر مولیٰ نے اس صورت میں کہا کہ میں نے سالم کی نیت کی تھی تو حکم قضاء میں دونوں آزاد ہو جائیں گے مگر فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ خاصاً وہی آزاد ہوگا جس کی نیت کی تھی اور اگر ایک آدمی سے کہا کہ اے سالم تو آزاد ہے پھر یہ آدمی اس کا دوسرا غلام نکلا یا کسی غیر کا غلام نکلا تو سالم آزاد ہوگا یہ بدائع میں ہے۔ ایک مرد نے دوسرے شخص سے کہا کہ کیا یہ آزاد نہیں ہے اور اپنے غلام کی طرف اشارہ کیا تو قضاء وہ آزاد ہو جائے گا یہ ظہیر یہ میں ہے۔ فتاویٰ ابوالیث میں ہے کہ اگر اپنے غلام سے کہا کہ (انت حر و انت ضمیر مؤنث مخاطبہ کی ہے اور حرۃ صیغہ مؤنث ہے) یا باندی سے کہا کہ انت حر (انت ضمیر مذکر خطاب اور حر صیغہ مذکر) تو غلام مذکور یا باندی مذکورہ آزاد ہو جائے گی یہ محیط و فتاویٰ کبریٰ میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ العتاق علیک یعنی تجھ پر عتاق وارد ہوا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے اور اگر کہا کہ تیرا آزاد کرنا مجھ پر واجب ہے تو آزاد نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر غلام سے کہا کہ تیرا آزاد کرنا واجب ہے تو آزاد نہ ہوگا یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔ اور اگر کہا کہ انت عتق یعنی تو عتق ہے تو آزاد ہو جائے گا اگرچہ نیت نہ کی ہو یہ محیط سرحی میں ہے۔

اگر غلام سے کہا کہ انت حر اولاً یعنی تو آزاد ہے یا نہیں ہے تو بالا جماع آزاد نہ ہوگا۔ یہ سراج الوہاب میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ انت اعتق من فلان اور فلان کے لفظ سے اپنا دوسرا غلام مراد لیا اور اس کلام سے اس کی مراد یہ ہے کہ تو فلان مذکور سے پہلے سے میری ملک میں ہے یعنی اعتق سے پرانے کے معنی مراد لیے تو حکم قضا میں اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی بلکہ غلام مذکور آزاد ہو جائے گا لیکن فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اگر اس کی یہی مراد تھی تو سچا ہوگا اور اگر کہا کہ انت اعتق من هذا فی ملکي اوقال فی السن لینے تو میری ملک میں بہ نسبت اس غلام کے پرانا ہے یا سن میں اس سے پرانا ہے تو کسی طرح آزاد نہ ہوگا اور اسی

۱۔ کیا یہ آزاد نہیں ہے یعنی ہے بنظر محاورہ اور نیت کا حال خدا تعالیٰ جانتا ہے۔

طرح اگر کہا کہ تو عتیق السن ہے (پرانا عمر میں ہے) تو بھی یہی حکم ہے یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ انت حر (تو حر ہے) یعنی حسن میں یکتا ہے تو قضاء اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر کہا کہ انت عتیق (تو آزاد ہے) اور دعویٰ کیا کہ میری مراد یہ تھی کہ میری ملک میں پرانا ہے تو قضاء تصدیق نہ ہوگی اور اگر ایک شخص نے غلام کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا تو وہ آزاد ہو جائے گا اگرچہ اس نے آزادی کی نیت نہ کی ہو اور یہی مختار ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا تو حر السن ہے یا حر الحسن ہے یا جمال و حسن میں حر الوجه (چہرہ) ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو اپنے اخلاق میں حر النفس ہے تو آزاد نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اجناس میں مذکور ہے کہ اگر غلام سے کہا کہ اے حر النفس تو قضاء آزاد ہو جائے گا یہ غایۃ البیان میں ہے منقہ میں ہے کہ ایک شخص کا غلام ہے جس پر قصاص لازم آنے کی وجہ سے مولیٰ کو اس کا خون حلال ہو گیا ہے پس مولیٰ نے اس سے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا پھر دعویٰ کیا کہ میری مراد یہ تھی کہ میں نے تجھے خون کے مواخذہ سے آزاد کیا تو حکم قضا میں یہ کلام رقیق سے آزاد کرنے پر محمول ہوگا (یعنی آزاد ہو جائے گا) اور باوجود اس کے اس پر عفو کرنا بھی لازم ہوگا کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے اس لئے کہ یہ اس کی نیت تھی اور اگر یہ نہ کہا ہو کہ میں نے قتل سے آزاد کرنے کی نیت کی تھی تو عفو کرنا اس پر لازم نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے خون کے قصاص سے اس کو خالصۃ لوجه اللہ تعالیٰ آزاد کیا ہے تو جو اس نے کہا ہے اسی پر محمول کیا جائے گا یہ محیط میں ہے ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ تیرا نب حر ہے یا کہا کہ تیری اصل حر ہے پس اگر یہ معلوم ہو کہ وہ سب (جہاد کا گرفتار شدہ) ہے تو آزاد نہ ہوگا اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ وہ گرفتار شدہ ہے تو آزاد ہو جائے گا اور اگر کہا کہ تیرے ماں و باپ آزاد ہیں تو آزاد نہ ہوگا اس واسطے کہ احتمال ہے کہ وہ دونوں اس کی پیدائش کے بعد آزاد کئے گئے ہوں۔ ایک شخص کا ایک غلام ہے اور اس غلام کا ایک بیٹا ہے پس مولیٰ نے کہا کہ تیرا بیٹا آزاد ہے تو بیٹا آزاد ہے اور باپ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد کا بیٹا ہے تو باپ آزاد ہوگا اور بیٹا آزاد نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

عربیت سے "مخصوص" مسائل کا بیان:

قال المترجم اب ایسے مسائل کا بیان ہوتا ہے جو ایک گونہ عربیت سے متعلق ہیں پس ان کو اصل زبان عربی کے ساتھ ملحوظ رکھنا چاہئے قال اور اگر عتیق کو ایسے جزو بدن کی طرف مضاف کیا جس سے تمام بدن سے تعبیر کی جاتی ہے مثلاً کہا کہ تیرا سر یا تیری گردن یا تیری زبان آزاد ہے تو آزاد ہو جائے گا اور اگر ایسے جزو بدن کی طرف مضاف کیا جس سے تمام بدن سے تعبیر نہیں کی جاتی ہے تو آزاد نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے قال المترجم فرج عرب کی زبان میں وہ جسم کہ جس کو شرمگاہ خواہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو اور ذکر خاص مرد کا آلہ تناسل اور قبل خاص عورت کا جسم اگلا پس اب سننا چاہئے کہ کتاب میں فرمایا کہ اگر باندی یا غلام سے کہا کہ تیری فرج آزاد ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا بخلاف لفظ ذکر کے اور یہ ظاہر الروایہ کا حکم ہے اور اگر باندی سے کہا کہ تیری فرج جماع سے آزاد ہے تو امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ قضاء آزاد ہو جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور دربر (یعنی جماع کئے جانے سے) یا است کی طرف اگر مضاف کیا تو اصح یہ ہے کہ آزاد ہو جائے گا کذا فی النہد الفائق اور بعض نے فرمایا یہ آزاد نہ ہوگا اور یہی اصح ہے اور اگر کہا کہ تیری عتیق (گردن) آزاد ہے تو بعض نے فرمایا کہ جیسے رقیق کہنے سے آزاد ہوتا ہے اسی طرح عتیق کہنے سے بھی

۱۔ قال المترجم قولہ اعتقک اللہ تعالیٰ جب دعا کے موقع پر ہو تو انشای عتیق نہیں ہے اور اختلاف سے اسی طرف اشارہ ہے۔ ۲۔ اقول ظاہر لوجہ یہ ہے کہ کناردار الحرب میں سب رقیق ہیں اگرچہ مملوک مقبوض نہ ہوں بلکہ اقالو انا فہم۔ ۳۔ قال دربر پاخانہ کا مقام اور است مقعد چو ترو کون سب اور کبھی فقط چو ترو مراد ہوتے ہیں اور کبھی کون فقط۔

آزاد ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ عتق اگرچہ بدن بمعنی گردن ہے لیکن آزاد نہ ہوگا اس واسطے کہ رقبہ بول کر تمام بدن کی تعبیر کرنا مستعمل ہے اور عتق سے تمام بدن کی تعبیر کا استعمال نہیں ہے جیسے دبر کا ایسا استعمال نہیں ہے یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر کہا کہ تیرا سر آزاد ہے یا تیرا منہ آزاد کا منہ ہے یا تیرا بدن آزاد کا بدن ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اسی طرح اگر کہا کہ تیرا سر مثل آزاد کے سر کے ہے یا تیرا منہ مثل آزاد کے منہ کے ہے یا تیرا بدن مثل آزاد کے بدن کے ہے تو آزاد نہ ہوگا اور اگر یوں کہا کہ تیرا سر آزاد ہے یا تیرا چہرا آزاد چہرا ہے یا تیرا بدن آزاد بدن ہے تو آزاد ہو جائے گا اسی طرح اگر کہا کہ تیری فرج آزاد فرج ہے تو باندی آزاد ہو جائے گی کذا فی السراج الوہاج قلت اور اگر غلام سے کہا تو وہ بھی آزاد ہوگا قائل فیہ اور اگر کہا تو مثل آزاد کے ہے تو بدون نیت کے آزاد نہ ہوگا یہ جمع و کافی میں ہے اور اگر کہا کہ اہل بلخ کے غلام آزاد ہیں یا کہا کہ اہل بغداد کے غلام آزاد ہیں مگر اس نے اپنے غلاموں کی نیت نہ کی حالانکہ وہ بھی بغداد کا رہنے والا ہے یا کہا کہ اہل بغداد کا ہر غلام آزاد ہے یا کہا کہ ہر غلام جو زمین پر ہے یا ہر غلام جو دنیا میں ہے آزاد ہے تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اس کے غلام آزاد نہ ہوں گے اور امام محمد نے فرمایا کہ آزاد ہو جائیں گے مگر فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے اور اگر ایسی صورت میں یوں کہا کہ ہر غلام جو اس کوچہ میں ہے آزاد ہے حالانکہ اس کا غلام بھی اس کوچہ میں ہے یا کہا کہ ہر غلام جو جامع مسجد میں ہے تو اس میں بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور اگر کہا کہ ہر غلام جو اس دار میں ہے آزاد ہے حالانکہ اس کے غلام بھی اس دار میں ہیں تو بالاتفاق اس کے غلام آزاد جائیں گے اور اگر کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سب آزاد ہیں تو بالاتفاق اس کے غلام آزاد نہ ہوں گے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر اپنے غلام سے کہا کہ تو نہیں ہے مگر آزاد تو وہ آزاد ہو جائے گا یہ ہدایہ میں ہے اور اگر ایک آزاد عورت سے کہا کہ تو ایسی ہی آزاد ہے اور ایسے کے لفظ سے اپنی باندی کی طرف اشارہ کیا اور مراد لیا تو اس کی باندی آزاد ہو جائے گی اور اگر اس نے پھر دعویٰ کیا کہ میری مراد عتاق نہ تھی تو قضاء اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر اپنی باندی سے کہا کہ تو آزاد ہے جیسے یہ عورت حالانکہ یہ عورت کسی دوسرے شخص کی باندی ہے تو اس کی باندی آزاد ہو جائے گی۔ یہ جامع الجوامع سے تا تاریخانیہ میں نقل ہے اور اگر اپنی باندی سے کہا تو ایسی ہے جیسی یہ عورت حالانکہ یہ عورت ایک آزاد عورت ہے تو اس کی باندی آزاد نہ ہوگی الا جب کہ اس عتق کی نیت کی ہو اور اسی طرح اگر کسی آزاد عورت سے کہا کہ تو ایسی ہے جیسی یہ عورت اور یہ عورت اس کی باندی ہے تو اس کی باندی آزاد نہ ہو جائے گی الا اس صورت میں کہ اس کے عتق کی نیت کی ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نے اپنے مملوک کے سلعے ہوئے کپڑے کو کہا کہ یہ آزاد کی سلائی ہے یا مملوک کے چوپایہ کو کہا کہ یہ آزاد کا چوپایہ ہے یا مملوک کی چال کو کہا کہ یہ آزاد کی چال ہے یا مملوک کی باتوں کو کہا کہ یہ آزاد کی باتیں ہیں تو بدوں نیت کے آزاد نہ ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے۔ قال المتزجم ہماری زبان میں قولہ یہ آزاد کا چوپایہ ہے آزاد ہونا اظہر ہی فافہم ایک شخص نے کہا کہ آزاد ہے پس اس سے پوچھا گیا کہ تیری کیا مراد تھی اس نے کہا کہ میرا غلام تو اس کا غلام آزاد ہو جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ملحق بصریح الفاظ کا بیان:

مالک نے کہا کہ میں نے تیرا نفس تیرے واسطے بہہ کیا یا تیرا نفس تجھے بہہ کیا یا تیرے نفس کو تیرے ہاتھ فروخت کیا تو مملوک اس کلام سے آزاد ہو جائے گا خواہ غلام قبول کرے یا نہ کرے خواہ مولیٰ نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو یہ حاوی قدسی میں ہے اور اسی طرح اگر کہا کہ میں نے تیری گردن تیرے واسطے بہہ کر دی پس غلام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں تو آزاد ہو جائے گا کذا فی اقوال یہ اختلاف اصول میں معروف ہے اسی واسطے میں نے کل ترجمہ سب نہیں کیا تاکہ اختلاف اصول جاری رہے فافہم۔

المحیط اور یہی اصح ہے۔ یہ ابوالکارم کی شرح نقایہ میں ہے اور اگر غلام سے کہا کہ میں نے تیرا نفس تیرے ہاتھ اتنے کو بیچا تو یہ غلام کے قبول پر موقوف ہوگا یہ فتح القدر میں ہے اور اگر کہا کہ میں نے تیرا نفس تجھے صدقہ دے دیا تو آزاد ہو جائے گا خواہ عتق کی نیت ہو یا نہ ہو خواہ غلام نے قبول کیا یا نہ کیا ہو اور اگر کہا کہ میں نے تیرا عتق تجھے بہہ کیا اور دعویٰ کیا کہ میری مراد عتق سے اعراض تھی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں چنانچہ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو مولیٰ فلاں کا ہے (یعنی اپنا نام نہ لیا) یا کہا کہ فلاں عتق ہے تو قضاء آزاد ہو جائے گا اور اگر کہا کہ تجھے فلاں نے آزاد کیا تو امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

کنایات عتق کا بیان:

مثلاً غلام سے کہا کہ لا ملک لی علیک یعنی میری تجھ پر ملک نہیں ہے قال المترجم ہماری زبان میں آزاد ہونا اظہر ہے اور کنایہ نہ ہوگا بخلاف زبان عرب کے کہ قابو میں چلتا ہے تو بھی ایسا کہتے ہیں یا کہا کہ لا سبیل لی علیک میرے واسطے تجھ پر کوئی راہ نہیں ہے یا کہا کہ قد خرجت عن ملکي تو میرے ملک سے باہر ہو گیا یا خلیت سبیلک میں نے تیری راہ خالی کر دی (یعنی خود مختار کر دیا) پس اگر اس سے حریت کی نیت کی تو آزاد ہو جائے گا اور اگر یہ نیت نہ کی تو آزاد نہ ہوگا۔ یہ حاوی قدسی میں ہے اور اگر غلام سے کہا کہ میرے واسطے تجھ پر کوئی راہ نہیں ہے سوائے ولاء^(۱) کے تو قضاء آزاد ہو جائے گا اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میری مراد عتق نہ تھی تو تصدیق نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میرے واسطے تجھ پر کوئی راہ نہیں ہے سوائے راہ موالات کے تو قضاء اس کے قول کی تصدیق ہوگی یہ بدائع میں ہے ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ میرا رقبہ تجھ پر نہیں ہے پس اگر عتق کی نیت کی تو آزاد ہو جائے گا ورنہ نہیں یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے تو امام رحمۃ اللہ کے قول کے موافق آزاد نہ ہوگا اگر چہ عتق کی نیت کی ہو اور یہی مختار ہے یہ جوہر اخلاطی میں ہے اور اگر کہا کہ میں نے تجھ کو خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے کر دیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اگر چہ اس نے عتق کی نیت کی اور صاحبین سے مروی ہے کہ وہ آزاد ہوگا یہ فتح القدر میں ہے۔

ایک شخص نے اپنے مرض میں اپنے غلام سے کہا کہ تو لوجه اللہ تعالیٰ ہے تو یہ باطل ہے اور اگر کہا کہ میں نے تجھ کو لوجه اللہ تعالیٰ کر دیا خواہ صحت میں کہا یا مرض میں یا وصیت میں اور کہا کہ میں نے عتق کی نیت نہیں کی یا کچھ بیان نہ کیا یہاں تک کہ مر گیا تو یہ غلام فروخت کیا جائے گا اور اگر عتق کی نیت کی ہو تو آزاد ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کا غلام ہے تو بلا خلاف وہ آزاد نہ ہوگا یہ غیاشیہ میں ہے اور اگر اپنے غلام یا باندی سے کہا کہ میں تیرا غلام ہوں پس اگر آزادی کی نیت کی تو آزاد ہو جائے گا یہ وجیز کردری میں ہے۔

امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اگر اپنی باندی سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور مراد عتق تھی تو وہ آزاد ہو جائے گی اور اگر کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے اور مراد عتق ہے تو ہمارے نزدیک آزاد نہ ہوگی۔ یہ بدائع میں ہے اور اگر باندی سے کہا کہ تیری فرج مجھ پر حرام ہے اور عتق کی نیت کی تو آزاد نہ ہوگی اور اگر اپنے غلام سے بطور ہجاء یوں کہا کہ تو حر ہے پس اگر عتق کی نیت ہو تو آزاد ہوگا ورنہ نہیں اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ لا سلطان لی علیک یعنی مجھے تجھ پر کچھ غلبہ حاصل نہیں ہے یا کہا کہ جہاں

۱۔ قال المترجم پس اگر غلام نے قبول کیا تو فی الحال آزاد ہو جائے گا اور معاوضہ اس پر قرضہ ہوگا۔

(۱) اس واسطے کہ یہ عتق کے استعمال میں حقیقت ہو گیا ہے یہی عرف معروف ہے۔

چاہے چلا جایا کہا کہ جدھر جی چاہے توجہ کر تو وہ آزاد نہ ہوگا اگرچہ نیت کی ہو اور اگر اپنی باندی سے کہا کہ تو طلاق ہے یا تو باندہ ہے یا تو مجھ سے باندہ ہوگئی یا میں نے تجھے حرام کیا یا تو خلیہ ہے یا بر یہ ہے یا کہا کہ تو اختیار کر پس باندی نے کہا میں نے اختیار کیا یا کہا کہ تو نکل یا استبراء کر پس اس نے ایسا ہی کیا تو ہمارے نزدیک آزاد نہ ہوگی اگرچہ مالک نے عتق کی نیت کی ہو اور اسی طرح اگر کہا کہ تو میری باندی نہیں ہے یا کہا کہ میرا تجھ پر کوئی حق نہیں ہے تو آزاد نہ ہوگی اگرچہ عتق کی نیت کی ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور طلاق کا لفظ خواہ صریح لفظ ہو یا بکنایہ ہو باندی آزاد نہ ہوگی اگرچہ عتق کی نیت کرے یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر غلام سے کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ میں ہے یا کہا کہ تو اختیار کر تو نیت (مولیٰ کی) پر موقوف ہے اور (کذا فی النسخة الحاضرة) اگر غلام سے کہا کہ تیرا امر آزادی تیرے ہاتھ میں ہے یا کہا کہ میں نے تیرا حق تیرے ہاتھ میں کر دیا یا کہا کہ تو عتق کو اعتبار کر یا کہا کہ میں نے عتق کے مقدمہ میں تجھے اختیار دیا یا تیرے عتق میں تجھے مختار کیا تو اس سب میں نیت کی کچھ حاجت نہیں ہے اس واسطے کہ یہ صریح ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ غلام عتق اختیار کرے مگر یہ اختیار مولیٰ کی طرف سے اسی مجلس تک کے واسطے ہوگا کہ اگر غلام نے اسی مجلس میں عتق اختیار کیا تو آزاد ہوگا ورنہ نہیں یہ بدائع میں ہے۔

ایک مرد کے پاس ایک باندی اس کی ملک میں ہے پس اس کی بیوی نے اس باندی کے معاملہ میں شوہر کو کچھ ملامت کی پس شوہر نے بیوی سے کہا کہ اس کے کام کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے پس بیوی نے اس کو آزاد کر دیا پس اگر شوہر نے اس کام سے اس کے عتق کے کام میں نیت کی ہو تو باندی مذکورہ آزاد ہو جائے گی ورنہ نہیں اس واسطے یہ اختیار معاملہ بیع کے واسطے ہوگا یعنی بیع کر دے لیکن اگر اس طرح کہا کہ اس باندی کے حق میں جو تو کرے وہ جائز ہے تو یہ آزاد کرنے وغیرہ سب کے واسطے ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر اپنی باندی سے کہا کہ تو اپنے نفس کو آزاد کر دے پس باندی نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو یہ باطل ہے یہ مبسوط میں ہے اور اگر غلام سے کہا کہ اپنے نفس کے معاملہ میں جو تو چاہے وہ کر پس اگر غلام نے مجلس سے اٹھنے سے پہلے اپنے نفس کو آزاد کر دیا تو آزاد ہو جائے گا اور اگر اپنے نفس کو آزاد کرنے سے پہلے اٹھ کھڑا ہو تو بعد مجلس سے کھڑے ہو جانے کے اپنے نفس کو آزاد نہیں کر سکتا ہے اور اس کو اختیار ہوگا کہ ایسی صورت میں جس کو چاہے اپنے نفس کو بہہ کر دے یا فروخت کر دے یا صدقہ میں دیدے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ تو غیر مملوک ہے تو اس کی طرف سے یہ عتق نہ ہوگا لیکن اس کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کے ملک کا دعویٰ کرے اور اگر وہ غلام مر گیا تو بوجہ ولاء کے اس کا وارث بھی نہیں ہو سکتا ہے اور اگر اس کے بعد غلام مذکور نے کہا کہ میں اس کا مملوک ہوں اور اس نے غلام کے قول کی تصدیق کی تو غلام اس کا مملوک ہوگا یہ ابراہیم نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کی ہے یہ محیط میں ہے اور اگر ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا باندی سے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے پس اگر مملوک مذکور اس کے فرزند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو یعنی سن اس کا ایسا ہو کہ اس مدعی کا بیٹا یا بیٹی ہو سکے اور وہ مجبول النسب بھی ہو کہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کس کا نطفہ ہے تو نسب ثابت ہو جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا خواہ غلام انجمن جلیب ہو یعنی غیر ملک سے لایا گیا ہو یا وہیں کی پیدائش ہو اور اگر مملوک مذکور اس کے فرزند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو لیکن اس کا نسب معروف ہو تو بالاتفاق مملوک مذکور آزاد ہو جائے گا مگر نسبت ثابت نہ ہوگا اسی طرح اگر مملوک مذکور اس کے فرزند ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو بھی نسب ثابت نہ ہوگا مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے موافق مملوک آزاد ہو جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور یہی صحیح ہے یہ زاد میں ہے۔

اگر اپنے غلام سے کہا کہ یہ میرا باپ ہے حالانکہ اتنی بڑی عمر کا آدمی ایسے شخص کی اولاد میں نہیں ہو سکتا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غلام آزاد ہو جائے گا:

اگر اپنے غلام سے کہا کہ یہ میرا باپ ہے یا اپنی باندی سے کہا یہ میری ماں ہے اور مملوک نے تصدیق کی تو نسب ثابت ہوگا ورنہ نہیں اور ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ فرزند کی دعویٰ میں بھی بدون تصدیق مملوک کے نسب ثابت نہ ہوگا اور صحیح یہ ہے کہ مملوک کی تصدیق شرط نہیں ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ یہ میرا باپ ہے حالانکہ اتنی بڑی عمر کا آدمی ایسے شخص کی اولاد میں نہیں ہو سکتا ہے (مثلاً برابر عمر ہے یا مالک بہ نسبت غلام زیادہ سن رکھتا ہے) تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غلام آزاد ہو جائے گا اور صاحبین کے نزدیک نہ ہوگا یہ جوہرہ نیرہ میں ہے اور اگر طفل صغیر سے کہا کہ یہ میرا دادا ہے تو بعض نے فرمایا کہ اس میں بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور بعض نے فرمایا کہ بالا جماع آزاد نہ ہوگا۔ یہ ہدایہ میں ہے اور اگر غلام سے کہا کہ یہ میرا چچا ہے تو بعض روایات میں مذکور ہے کہ آزاد ہو جائے گا اور صحیح یہ ہے کہ آزاد نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور عتابیہ میں لکھا ہے کہ اگر غلام سے کہا کہ یہ میرا چچا ہے یا ماموں ہے تو آزاد ہو جائے گا اور یہی مختار ہے انتہی اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے یا باندی سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے اور بعض نے فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ مسئلہ اتفاقی ہے کہ آزاد نہ ہوگا اور یہی اظہر ہے یہ محیط میں ہے۔

اگر کہا کہ یہ میرا بھائی ہے یا میری بہن ہے تو ظاہر الراویہ میں آزاد نہ ہوگا اور یہی روایت اصل ہے لیکن اگر نیت ہو تو آزاد ہو جائے گا یہ غایہ سروجی میں ہے اور اگر کہا کہ یہ میرا پدری بھائی ہے یا مادری بھائی ہے تو آزاد ہو جائے گا یہ محیط میں ہے اور اگر غیر کے غلام سے کہا کہ یہ زنا سے میرا بیٹا ہے پھر اس کو خریدتا تو آزاد ہو جائے گا لیکن نسب ثابت نہ ہوگا۔ یہ سراج الوہاب میں ہے اور اگر اپنی باندی سے کہا کہ یہ عورت میری خالہ یا پھوپھی زنا سے ہے تو آزاد ہو جائے گی اور اسی طرح اگر کہا کہ یہ میرا بیٹا یا بھائی یا بہن زنا سے ہے تو بھی آزاد ہو جائے گا یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ اے بیٹے یا اے بھائی تو آزاد نہ ہوگا اور یہی صحیح ہے کذا فی الکافی اور یہی ظاہر ہے لیکن تحفہ میں مذکور ہے کہ اگر نیت کی ہو تو آزاد ہو جائے گا یہ غایہ سروجی میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ اے میرے بیٹے یا باندی سے کہا کہ اے میری بیٹی تو آزاد نہ ہو جائے گی اگرچہ حق کی نیت ہو جیسے اگر کہا کہ اے بیٹے یا اے بیٹی تو آزاد نہیں ہوتی ہے یعنی فقط اے بیٹا یا اے بیٹی بدون اپنی طرف اضافت کرنے کے کہا تو نہیں آزاد ہوتی ہے اگرچہ نیت عتق کی ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ نوادر بن رستم میں امام محمد سے مروی ہے کہ اگر غلام سے کہا کہ اے میرے باپ یا اے میرے دادا یا اے میرے چچا یا اے میرے ماموں یا باندی سے کہا کہ اے میری پھوپھی یا اے میری خالہ یا اے میری بہن تو ان سب صورتوں میں آزاد نہ ہوگا اور تحفۃ الفقہاء میں اس قدر عبارت زائد کی ہے کہ لیکن اگر نیت کی ہو تو آزاد ہوگا یہ نہر الفائق میں ہے۔

شیخ ابوالقاسم صفار سے منقول ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کی باندی چراغ لا کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی پس مولیٰ نے اس سے کہا کہ اے پری چہرہ میں چراغ لے کر کیا کروں کہ تیرا چہرہ خود چراغ سے زیادہ روشن ہے تو ایسی کہ میں تیرا

۱۔ قال المترجم یہاں اور اس کے مثال میں باپ یا بیٹے کے دعویٰ کرنے سے مراد یہ تھی کہ دعویٰ کرے نہ یوں کہ مثل رواج کے بڑے کو باپ یا چھوٹے کو بیٹا کہہ دیتے ہیں اور واضح رہے کہ مالک کے دعویٰ کرنے میں یہ قید نہیں لگائی کہ مالک مجہول النسب ہو و ہذا ہو الظاہر فلیتدبر۔

غلام ہوں تو شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب مہربانی کے کلمات قرار دے جائیں گے اور باندی آزاد نہ ہوگی اور یہ اس سورت میں ہے کہ مولیٰ نے عتق کی نیت نہ کی ہو اور اگر نیت کی تو امام محمدؒ سے اس میں دو روایتیں ہیں یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ اے سردار یا اے میرے سردار یا اپنی باندی سے کہا کہ اے سردار یا اے میری سردار پس اگر ان صورتوں میں عتق کی نیت کی ہو تو بلا خلاف عتق ثابت ہو جائے گا اور اگر عتق کی نیت نہ کی ہو تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور فقہیہ ابو الیث کے نزدیک مختار یہ ہے کہ آزاد نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر غلام سے کہا کہ اے آزاد مرد یا باندی سے کہا کہ اے آزاد عورت یا باندی سے کہا کہ میری کد بانویا اے کد بانو پس اگر عتق کی نیت کی تو آزاد ہوگا اور اس میں کچھ اختلاف نہیں اور اگر عتق کی نیت نہ ہو تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور فقہیہ ابو الیث کا مختار یہ ہے کہ آزاد نہ ہوگا اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ اے آزاد مرد یعنی بدون الف کے زاد فقط کہا تو فقہیہ ابو بکر رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اگرچہ عتق کی نیت کی ہو یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص نے اپنے تین غلاموں سے کہا کہ تم لوگ آزاد ہو سواے فلاں و فلاں و فلاں کے تو یہ سب غلام آزاد ہو جائیں گے:

اگر اپنی باندی سے کہا کہ اے مولیٰ زادہ تو وہ آزاد نہ ہوگی یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اے نیم آزاد (یعنی نصف آزاد) تو یہ قول بمنزلہ اس کلام کے ہے کہ غلام سے کہا کہ تیرا نصف حصہ آزاد ہے۔ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ جب تک تو غلام تھا تب تک میں تیرے عذاب میں گرفتار تھا اب کہ تو نہیں ہے تب بھی تیرے عذاب میں گرفتار ہوں تو مشائخ نے فرمایا کہ یہ کلام اس کی طرف سے غلام کے عتق کا اقرار ہے پس قضاء غلام آزاد ہو جائے گا۔ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا تو مجھ سے زیادہ آزاد ہے پس اگر عتق کی نیت کی ہو تو آزاد ہو جائے گا ورنہ نہیں ایک غلام نے اپنے مولیٰ سے کہا کہ میری آزادی پیدا کریں مولیٰ نے کہا کہ تیری آزادی میں نے پیدا کی اور نیت عتق نہ کی تو آزاد نہ ہوگا قلت (قال المترجم سقوط فی اصل) قضاء آزاد ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر غلام سے کہا کہ اے میرے مالک تو بلا نیت آزاد نہ ہوگا یہ کافی میں ہے۔ ایک شخص کا ایک غلام ہے پس اس نے کہا کہ میں نے اپنا غلام آزاد کر دیا تو آزاد ہو جائے گا یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اگر زید نے عمرو سے کہا کہ میں تیرے باپ کا مولیٰ ہوں کہ تیرے باپ نے میرے باپ و ماں کو آزاد کیا ہے تو زید مذکور عمرو کا غلام نہ ہوگا اور اسی طرح اگر زید نے کہا کہ میں تیرے باپ کا مولیٰ ہوں اور یہ نہ کہا کہ مجھے تیرے باپ نے آزاد کیا ہے تو بھی یہی حکم ہے اور زید حر ہوگا اگر زید نے کہا کہ میں تیرے باپ کا مولیٰ ہوں اور مجھے تیرے باپ نے آزاد کیا ہے پس اگر عمرو نے باپ کے آزاد کرنے سے انکار کیا تو زید اس کا مملوک ہوگا لیکن اگر زید گواہ لائے کہ عمرو کے باپ نے اس کو آزاد کیا ہے تو زید کے گواہ مقبول ہوں گے اور وہ آزاد ہو گا۔ اگر کسی شخص نے اپنے غلام کو آزاد کیا اور غلام کے پاس مال ہے تو یہ مال مولیٰ کا ہوگا سواے اتنے کپڑے کے جو غلام کی ستر پوشی کرے اور یہ بھی مولیٰ کے اختیار میں ہے کہ کپڑوں میں سے جو کپڑا چاہے دیدے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص نے اپنے تین غلاموں سے کہا کہ تم لوگ آزاد ہو سواے فلاں و فلاں و فلاں کے تو یہ سب غلام آزاد ہو جائیں گے یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔

قال المترجم جم اس وجہ سے کہ مستثنیٰ منہ کے ساتھ حکم حریت متعلق ہوا پس استثناء کا آمد نہ ہوگا و قبل الاستثناء باطل فتدبر۔ ایک شخص کے پانچ غلام ہیں پس اس نے کہا کہ دس میرے مملوکوں میں سے آزاد ہیں الا ایک تو سب آزاد ہوں گے اور اگر کہا کہ میرے مملوک دسوں آزاد ہیں الا واحد تو چار آزاد ہوں گے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر مرد آزاد کرنا چاہے تو چاہئے کہ غلام

آزاد کرے اور عورت کو چاہئے کہ باندی آزاد کرے یہ مستحب ہے تاکہ مقابلہ اعضاء ٹھیک مستحق ہو یہ ظہیر یہ میں ہے۔ قال المترجم حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ جو شخص بندہ آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو بمقابلہ اعضاء بندہ کے آتش دوزخ سے آزاد فرماتا ہے پس استحباب مسئلہ مذکور پر بنائے حدیث موصوف ہے فافہم اور یہ مستحب ہے کہ جب آدمی سات برس کسی بندہ سے خدمت لے لے تو اس کو آزاد کر دے یا کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دے کہ شاید وہ آزاد کر دے یہ تاتار خانہ میں حجۃ سے منقول ہے اور مستحب ہے کہ آزاد کرنے والا بندہ کو ایک عتاق نامہ لکھ کر اس پر ثقہ لوگوں کی گواہی کرادے تاکہ غلام کے حق میں مضبوطی رہے اور باہم اختلاف اور انکار سے حفاظت ہو یہ محیط سرحسی میں ہے۔

فصل : ۱

ملک وغیرہ کی وجہ سے آزاد ہونے کے بیان میں

جو شخص اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہو۔ وہ اس کی طرف سے فوراً آزاد ہو جائے گا خواہ یہ مالک صغیر یا کبیر ہو (خواہ مذکر ہو یا مؤنث) عاقل ہو یا مجنون ہو یہ غایۃ البیان میں ہے اور ذی رحم محرم سے ہر ایسا قرابت دار مراد ہے جس سے نکاح ہمیشہ کے واسطے حرام ہو پس رحم عبارت ہے قرابت سے اور محرم عبارت ہے حرمت مناکحت سے پس اگر محرم بلا رحم کا مالک ہو تو وہ آزاد نہ ہوگا مثلاً اپنے پسر کی زوجہ یا باپ کی زوجہ یا چچا کی بیٹی کا جو اس کی رضاعی بہن ہے مالک ہو تو کوئی آزاد نہ ہو جائیگی اسی طرح اگر رحم ہو مگر محرم نہ ہو تو بھی یہی حکم ہے مثلاً ماموں یا چچا کی اولاد کا مالک ہو تو وہ آزاد نہ ہوگی یہ کافی میں ہے اور اگر کوئی ایسے آدمی کا مالک ہو جو بسبب رضاعت یا مصاہرت کے اس پر دائمی حرام ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر بیوی و مرد میں سے کوئی دوسری کا مالک ہو تو اس کی طرف سے آزاد نہ ہو جائے گا یہ مبسوط میں ہے اور مالک خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو دارالاسلام میں اس حکم کے واسطے کچھ فرق نہ ہوگا اور اسی طرح جس ذی رحم محرم کا مالک ہو ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو کچھ فرق نہیں ہے یہ غایۃ البیان میں ہے اور چونکہ یہ حکم دارالاسلام میں ہے لہذا اگر دارالحرب میں کوئی حربی اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہو تو وہ اس کی طرف سے آزاد نہیں ہو جائے گا۔ یہ جوہرہ نیرہ میں ہے اور اگر کوئی حربی اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہو کر امان لے کر دارالاسلام میں آیا تو مملوک مذکور اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر مملوک نے اپنی اولاد کو خرید لیا (اس واسطے کہ وہ در واقع مالک نہ ہو) تو وہ آزاد نہیں ہو جائے گا یہ جوہرہ نیرہ میں ہے۔

اگر غلام ماذون نے ایسا مملوک خریدا جو اس کے مالک کا ذی رحم محرم ہے اور اس پر اس قدر قرضہ نہیں ہے جو بالکل محیط ہو تو مولیٰ کی طرف سے آزاد ہو جائے گا اور اگر قرضہ محیط ہو تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آزاد نہ ہوگا اور اگر مکاتب نے اپنے مولیٰ کا بیٹا خریدا تو بالاتفاق آزاد نہ ہو جائے گا یہ تاتار خانہ میں حجۃ سے منقول ہے اور اگر مکاتب نے ایسے لوگوں کو خرید جن کی فروخت کا مجاز نہیں ہے جیسے والدین و اولاد وغیرہ پھر مولیٰ نے ان کو آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہو جائیں گے یہ مضمورات میں ہے اور جو شخص غلام خریدنے کے واسطے وکیل کیا گیا ہے اگر اس نے موکل کا ذی رحم محرم خریدا تو وہ (اس وجہ سے کہ بیع بحق وکیل نافذ ہوگی) آزاد نہ ہو جائے گا یہ سراجیہ میں ہے اور ایک شخص نے اپنے پسر کے واسطے اپنے مرض الموت میں ہزار درہم کا اقرار کیا اور اس شخص کا سوائے اس کے

۱۔ قال المترجم یہ لفظ شامل تر ہے خواہ انکار از جانب آزاد کنندہ ہو یا اس کے وارث کی طرف سے ہو۔

۲۔ قال المترجم واضح ہو کہ ملک سے مراد حقیقی مؤثر حقیق ہے۔

کوئی وارث نہیں ہے اور کچھ مال بھی نہ چھوڑا سوائے ایک مملوک کے کہ وہ اس پسر کا ماں کی طرف سے بھائی ہے اور اس مملوک کی قیمت اسی قدر ہے جس قدر قرضہ کامیت نے اپنے پسر کے واسطے اقرار کیا ہے تو محمدؐ نے فرمایا کہ مملوک آزاد ہو جائے گا اس واسطے کہ مرض میں جو اقرار ہو وہ گویا وصیت ہے پس جب پسر مذکور اس کا مالک ہو تو وہ اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا اور اگر اقرار مذکور حالت صحت میں واقع ہوا ہو تو مملوک مذکور آزاد نہ ہو جائے گا اس واسطے کہ وارث مذکور اس کا مالک نہیں ہو اب دین وجہ کہ قرضہ مذکور کی میت کے ترکہ کو محیط ہے اور اس بیان سے یہ فائدہ ثابت ہوا کہ جب ترکہ میں وارث کا قرضہ ہو تو وہ وارث کے ترکہ کے مالک ہونے سے مانع ہوتا ہے یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر ایسی باندی خریدی جو اس کے باپ کے نطفہ سے پیٹ سے ہے حالانکہ وہ باندی اس کے باپ کے سوائے کسی غیر کی ملک ہے تو خرید جائز ہوگی اور جو اس کے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا اور باندی آزاد نہ ہوگی اور جب تک وضع حمل نہ ہو تب تک اس کو فروخت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی بیع جائز نہ ہوگی اور بعد وضع حمل کے اس کو فروخت کر سکتا ہے یہ بدائع میں ہے۔

اگر بچہ جننے کے وقت اپنی باندی سے کہا کہ تو حرہ ہے:

اگر حاملہ باندی کو آزاد کیا تو اس کا حمل بھی آزاد ہو جائے گا اور اگر فقط حمل کو آزاد کیا تو بدون باندی کے فقط حمل آزاد ہوگا اگر کسی قدر مال پر حمل کو آزاد کیا تو حمل آزاد ہوگا اور مال واجب نہ ہوگا اور عتق کے وقت حمل موجود ہونا اسی طرح دریافت کر سکتا ہے کہ وقت عتق سے چھ مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہو یہ ہدایہ میں ہے اور اگر وقت عتق سے چھ مہینہ یا زیادہ میں بچہ جنی تو آزاد نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ حمل میں جوڑ یا دو بچہ ہوں کہ پہلا بچہ چھ مہینے سے کم میں پیدا ہوا پھر دوسرا چھ مہینہ یا زیادہ میں پیدا ہوا یا یہ باندی طلاق یا وفات کی عدت میں ہو پس وقت فراق سے دو برس سے کم میں بچہ جنی پس اگر چہ وقت اعتاق سے چھ مہینہ سے زیادہ میں جنی ہو بہر حال اس صورت میں حمل آزاد ہوگا یہ فتح القدر میں ہے۔ باندی کا بچہ جو اس کے مولیٰ سے ہو آزاد ہے اور جو اس کے شوہر سے پیدا ہو وہ اس کے مولیٰ کا مملوک ہے بخلاف مفزور کے بچہ کے کہ اس کو فریب دیا گیا ہو اس کا یہ حکم نہیں ہے کہ مان کا تابع ہو اور آزاد عورت کا بچہ ہر حال میں آزاد ہوتا ہے اس واسطے کہ عورت کا پلہ بھاری ہے پس حریت کے وصف میں عورت کا تابع ہوگا جیسے کہ مملوکیت و مرقوقیت و تدبیر و امومیۃ الولد و کتابت میں یہ وصف بچہ کو ماں کا ملتا ہے یہ ہدایہ میں ہے اور اگر بچہ جننے کے وقت اپنی باندی سے کہا کہ تو حرہ ہے اور حالت یہ ہے کہ تھوڑا بچہ باہر نکل چکا ہے پس اگر نصف سے کم نکلا ہو تو بچہ بھی آزاد ہوگا اور اگر زیادہ ہو تو آزاد نہ ہوگا اور ہشام اور معلیٰ نے امام ابو یوسفؒ سے روایت کی ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی حاملہ باندی سے درحالیہ کہ اس کا بچہ کچھ نکل چکا ہے کہا کہ تو آزاد ہے تو امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ اگر سوائے سر کے نصف بدن خارج ہوا ہے تو وہ مملوک ہوگا اور اگر سر کی جانب سے نصف بدن خارج ہوا ہے تو وہ آزاد ہوگا اور اس کے معنی یہ ہیں کہ مع سر کے نصف خارج ہوا ہے تو آزاد ہے یہ محیط میں ہے۔ منقہ میں ہے کہ اگر باندی سے کہا کہ بڑا بچہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہے پس اس کے جوڑ یا دو بچہ پیدا ہوئے تو جو پہلے نکلا وہ بڑا ہے وہی آزاد ہوگا اور اگر اپنی باندی سے کہا کہ علقہ یا مضغہ (خون کا لوتھڑا) جو تیرے پیٹ میں ہے آزاد ہے تو جو اس کے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

ایک شخص نے غیر کی باندی کو آزاد کیا پھر مولیٰ نے بعد باندی کے بچہ پیدا ہونے کے عتق کی اجازت دی تو بچہ آزاد نہ ہوگا اور اگر اپنی باندی سے کہا کہ میرا مملوک سوائے تیرے آزاد ہے تو باندی کا حمل آزاد نہ ہوگا ایک شخص نے اپنی حاملہ باندی سے

۱۔ مرقوقیت محض رقیق غلام ہونا تدبیر مدبر کرنا امومیۃ یعنی ام ولد ہونا۔ ۲۔ اگر ماں مملوک الغیر ہے تو بچہ مملوک و مرقوق ہوگا اور مدبرہ ہے تو مدبر علی ہذا۔

حالت صحت میں کہا کہ تو یا جو تیرے پیٹ میں ہے آزاد ہے پس دوسرے دن باندی مذکورہ کے ایک مردہ بچہ پیدا ہو جس کی خلقت ظاہر ہو گئی تھی تو بقیاس قول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے باندی آزاد ہوگی اور اگر خود بچہ پیدا نہ ہوا بلکہ کسی آدمی نے دوسرے روز اس کے پیٹ میں صدمہ پہنچایا جس سے مردہ جنین پیٹ سے گر گیا جس کی خلقت ظاہر ہو گئی تھی تو مولیٰ کو اختیار ہوگا پس اگر اس نے ماں کو آزاد کیا تو اس کے آزاد ہونے سے بچہ بھی آزاد ہوگا اور اگر باندی مذکورہ حاملہ نہ ہو تو خود آزاد ہو جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر اپنی حاملہ باندی سے کہا کہ تو یا جو تیرے پیٹ میں ہے آزاد ہے پھر قبل اس کے کہ مولیٰ بیان کرے یعنی کسی کو معین کرے کہ دونوں میں سے کون آزاد ہے مر گیا پھر کسی آدمی نے باندی کے پیٹ میں صدمہ پہنچایا کہ جس سے جنین مردہ جس کی خلقت ظاہر ہو گئی تھی گر گیا تو فرمایا کہ مجرم پر اس جنین کے واسطے غرہ آزاد کا جرمانہ واجب ہوگا اور نصف باندی آزاد ہوگی اور نصف کے واسطے سعایت کرے گی اور جنین پر کچھ سعایت نہ ہوگی یہ محیط سرخسی میں ہے۔ اگر حربی نے اپنے غلام حربی کو دارالحرب میں آزاد کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا عتاق نافذ نہ ہوگا اور اس میں صاحبین کا خلاف ہے اور اگر حربی نے اپنے مسلمان غلام کو دارالحرب میں آزاد کیا تو بالاتفاق عتاق نافذ ہوگا اور اس کی ولاء اس حربی کو لے گی اور اگر حربی مر گیا یا قتل کیا گیا یا مسلمان کے ہاتھ میں قید ہو گیا تو اس کا مکاتب آزاد نہ ہوگا اور بدل کتابت اس کے وارثوں کو ملے گا جب کہ خود مر گیا ہے ایک شخص ہندوستان میں گیا یعنی دارالحرب میں گیا پھر وہ دارالاسلام میں آیا اور اس کے ساتھ ایک ہندو آیا جو کہتا تھا کہ میں اس کا غلام ہوں پھر یہ ہندو مسلمان ہو گیا تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر ہندو مذکور دارالحرب سے مسلمان کے ساتھ بدون اکراہ و زبردستی کے دارالاسلام میں چلا آیا ہے تو وہ آزاد ہوگا اور اس کا یہ قول کہ میں اس کا غلام ہوں باطل ہوگا اور اگر مسلمان اس کو زبردستی باکراہ نکال لایا ہے تو وہ مسلمان کا غلام ہوگا۔ یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ حربی نے اگر اپنا مسلمان غلام بیع کے واسطے پیش کیا تو وہ آزاد ہوگا اگرچہ اس کو فروخت نہ کیا ہو اور ہمارے بعضے مشائخ نے فرمایا کہ یہی صحیح ہے یہ شرح مجمع میں لکھا ہے۔

باب : ۲

معتق البعض کے بیان میں

یعنی جس کا کچھ حصہ آزاد کیا گیا ہے اور اگر اپنے غلام میں سے کچھ آزاد کیا خواہ یہ حصہ معین ہو یعنی معلوم ہو مثلاً چوتھائی وغیرہ یا ایسا نہ ہو جیسے غلام سے کہا کہ تجھ میں سے کچھ یا بعض وغیرہ یا تیرا کوئی جزو یا پارہ آزاد ہے گو فرق دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ غیر معلوم کی صورت میں مولیٰ کو بیان کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ کس قدر مراد ہے بہر حال امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑا آزاد کرنے سے سب آزاد نہ ہوگا اور صاحبین نے فرمایا کہ سب آزاد ہو جائے گا پھر امام کے نزدیک ایسا غلام اپنی باقی قیمت کے واسطے اپنے مولیٰ کو دینے کے لئے سعایت کرے گا یہ نہر الفائق میں ہے اور مضمورات میں لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح ہے انتہی اور اگر کہا کہ تیرا ایک سہم آزاد ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چھٹا حصہ آزاد ہوگا اس طرح اگر سہم کی جگہ شئی کا لفظ کہا تو بھی یہی حکم ہے یہ عتابیہ میں ہے اور معتق البعض مثل مکاتب کے ہوتا ہے کہ جب تک وہ معاوضہ جو اس پر ادا کرنا چاہئے ہے ادا نہ کرے تب تک اس کی آزادی موقوف رہتی ہے لیکن جو کچھ کمائے اس کا وہی مستحق ہوتا ہے اور مولیٰ کا اس پر قبضہ نہیں رہتا ہے اور نہ خدمت لینے

۱۔ قال المترجم فائدہ یہ ہے کہ مولیٰ کے بیان پر پہلے بھی موقوف تھا اب بھی موقوف ہے اور در صورت بچہ جنین مستحق الخلقہ کے آزادی پر اجنبی مجرم کو جرم کا جرمانہ کس حساب سے پڑے گا یا مملوک کے حساب سے فانیہم۔

کا استحقاق ہے اور رقیق کامل رہتی ہے کذافی النہر الفائق اور خود وارث نہیں ہو سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی وارث ہو سکتا ہے اور اس کی گواہی بھی جائز نہیں ہے اور دو عورتوں سے زیادہ کے ساتھ نکاح کر کے ان کو جمع نہیں کر سکتا ہے یہ تا تاریخانیہ میں ہے اور بدون اجازت مولیٰ کے نکاح نہیں کر سکتا اور نہ کچھ بہہ یا صدقہ دے سکتا ہے الا بہت خفیف چیز اور کسی کی طرف سے کفالت نہیں کر سکتا ہے اور کسی کو قرض نہیں دے سکتا ہے مگر اس میں اور مکاتب میں اتنا فرق ہے کہ اگر معتق البعض اپنے معاوضہ ادا کرنے سے عاجز ہو تو وہ رقیق نہیں کیا جائے گا یہ غایۃ البیان میں ہے۔ الا جس قدر آزاد ہونے کو باقی ہے اس کو سعایت کر کے ادا کرے آزاد ہونا چاہنے یا مولیٰ باقی بھی آزاد کر دے اور جب کل ملک زائل ہو جائے گی تب وہ سب آزاد ہو جائے گا یہ کافی میں ہے۔

تنگدستی اور خوشحالی میں حکم کی نوعیت بدل جاتی ہے :

اگر ایک غلام دو شریکوں میں مشترک ہو اور ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہو جائے گا پس اگر شریک خوشحال ہو تو دوسرے شریک کو جس نے نہیں آزاد کیا ہے اختیار ہے کہ چاہے خود بھی آزاد کر دے اور چاہے شریک سے اپنے حصہ کا تاوان لے اور چاہے غلام مذکور سے اپنے حصہ کی سعایت کرادے یہ ہدایہ میں ہے اور جب دو شریکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ غلام آزاد کر دیا تو دوسرے شریک کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اپنے حصہ غلام کو فروخت کرے یا بہہ کرے یا مہر قرار دے اس واسطے کہ یہ غلام بمنزلہ مکاتب کے ہے یہ مبسوط امام سرحسی میں ہے اور تحفہ میں لکھا ہے کہ دوسرے شریک کو جس نے آزاد نہیں کیا ہے پانچ طرح کا اختیار ہوگا جب کہ آزاد کرنے والا شریک خوشحال ہو پس چاہے اپنا حصہ آزاد کر دے اور چاہے مکاتب کر دے اور چاہے اس سے سعایت کرادے اور چاہے آزاد کنندہ شریک سے تاوان لے اور چاہے اپنا حصہ مدبر کر دے لیکن اگر مدبر کر دیا تو اس کا حصہ مدبر ہو جائے گا مگر غلام پر فی الحال اس کے واسطے سعایت واجب ہوگی پس آزاد ہو جائے گا اور یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو مدبر کر کے یہ قید لگا دے کہ اس کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا کذافی غایۃ السرو جی اور اگر شریک آزاد کنندہ تنگدست ہو تو بھی یہی حکم ہے مگر یہ اختیار نہ ہوگا کہ شریک سے تاوان لے یہ خزانۃ المفتیین میں ہے اور جس شریک نے آزاد نہیں کیا ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اسی حال پر چھوڑ دے اور کچھ نہ کرے یہ بدائع میں ہے اور جس شریک نے آزاد نہیں کیا ہے اس کے اختیار کرنے کی یہ صورت ہے کہ مثلاً شریک سے کہے کہ میں نے یہ اختیار کیا کہ تجھ سے تاوان لوں یا یوں کہے کہ مجھے میرا حق دیدے بالجملة زبان سے جس طرح مشعر ہو اختیار کرے اور اگر فقط دل سے کوئی امر اختیار کیا تو یہ کچھ چیز نہیں ہے یہ نہایت میں ہے اور اگر شریک نے اپنا حصہ بھی آزاد کر دیا یا مکاتب یا مدبر کر دیا یا غلام سے اپنے حصہ کی سعایت کرائی تو غلام کی ولاء ان دونوں میں مشترک ہوگی اور اگر اس نے آزاد کنندہ شریک سے تاوان لے لیا تو غلام کی ولاء فقط اسی شریک کی ہوگی جس نے آزاد کیا ہے یہ محیط سرحسی میں ہے اور سعایت لینے والا آزاد کنندہ سے جو غلام نے ادا کیا ہے بالا جماع واپس نہیں لے سکتا ہے یہ جوہرہ نیرہ میں ہے اور جب آزاد کرنے والے نے شریک کو تاوان دے دیا تو اس کو اختیار ہے چاہے باقی غلام کو آزاد کرے یا مدبر کرے یا مکاتب کرے یا اس سے سعایت کرادے یہ بدائع میں ہے۔

اگر شریک نے آزاد کرنے والے کو تاوان سے بری کر دیا تو اس کو اختیار ہوگا چاہے غلام کی جانب رجوع کرے اور اس کی ولاء اسی آزاد کنندہ کے واسطے ہوگی اور جو شریک کہ ساکت رہا ہے اس کا غلام سے سعایت کرانے کا استحقاق باطل ہو گیا یہ عتابیہ میں ہے اور اگر شریک نے جس نے آزاد نہیں کیا ہے آزاد کرنے والے کے ہاتھ اپنا حصہ فروخت کیا یا بعوض بہہ کیا تو قیاساً مثل تضمین^۱

۱ قال المترجم اور اگر شریک آزاد کنندہ تنگدست ہو تو دوطرح کا اختیار ہے چاہے خود بھی آزاد کر لے اور چاہے غلام سے سعایت کرادے۔

۲ ضمان لے لینے کے طور پر جواز قیاس ہے۔

کے جائز ہوگا مگر استحساناً نہیں جائز یہ نہایت میں ہے اور جب ساکت نے شریک آزاد کنندہ سے تاوان لینا اختیار کیا در حالیکہ شریک مذکور خوشحال ہے پھر چاہا کہ اس سے رجوع کر کے غلام سے سعایت کرادے تو جب تک شریک مذکور نے تاوان دینا قبول نہیں کیا ہے یا قاضی حاکم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے تب تک رجوع کر سکتا ہے اور یہ ابن سماء نے امام محمد سے روایت کی ہے اور اصل میں مذکور ہے کہ جب شریک ساکت نے تاوان لینا اختیار کیا تو پھر اس کو سعایت کرانے کو اختیار کرنا جائز نہ ہوگا اور اس میں کچھ تفصیل نہیں فرمائی اور اگر غلام سے سعایت کرانا اختیار کیا تو پھر اس کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ شریک تو انگریز سے تاوان لینا اختیار کرے خواہ غلام اس سعایت پر راضی ہوا ہو یا نہ ہو اور یہ حکم سب روایتوں کے موافق ہے کذا فی المحیط لیکن اگر غلام مر جائے تو حکم اختیار بدل سکتا ہے یہ عتابہ میں ہے اور واضح رہے کہ اختیار کرنا خواہ سلطان کے روبرو ہو یا کسی دوسرے کے روبرو ہو بہر حال یکساں ہے یہ مبسوط شمس الائمہ سرخسی میں ہے پھر اگر آزاد کنندہ نے غلام سے وہ مال جو اس پر تاوان لازم آیا تھا واپس لیا پھر ساکت کو اس پر حوالہ کر دیا اور وکیل کیا کہ اس سے سعایت یا باقتضاء حق وصول کرے تو یہ جائز ہے اور پوری ولاء معتق یعنی آزاد کنندہ کی ہوگی اور اگر اس نے کچھ اختیار نہ کیا یہاں تک کہ اس کو مجروح کر دیا تو غلام کے واسطے اس پر ارش واجب ہوگا اور اس کا جنایت کر دینا اس کی طرف سے سعایت کا اختیار کرنا نہ ہوگا اور اسی طرح اگر اس سے کچھ مال غضب کر لیا جس سے غلام کی نصف قیمت ادا ہو سکتی ہے یا غلام نے اس کو قرض دیا یا اس کے ہاتھ بیع کی تو یہ مال غلام کا اس پر ہوگا یہ مبسوط شمس الائمہ سرخسی میں ہے اور یسار یعنی آسودہ حال ہونے میں اس امر کا اعتبار ہے کہ شریک کے حصہ کی مقدار قیمت کا مالک ہو یہ امام محمد کا قول ہے اور یہی صحیح ہے یہ جو اہر اخلاطی میں ہے اور عیون میں مذکور ہے کہ مختار یہ ہے کہ آسودہ حال وہ ہے جو وقت عتق کے ایسی چیز کا مالک ہو جو آزاد شدہ کی نصف قیمت کے مساوی ہو سوائے منزل و خادم و متاع بیت و تن کے کپڑوں کے یہ کافی میں ہے۔

ضمانت و سعایت کے واسطے غلام کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو بروز اعتاق تھی:

اگر زید و عمرو دو آدمیوں کے درمیان دو غلام مشترک ہوں کہ ایک کی قیمت ہزار درہم اور دوسرے کی قیمت دو ہزار درہم ہوں پھر ایک شریک نے مثلاً زید نے دونوں میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور زید کے پاس ہزار درہم ہیں تو وہ معسر یعنی تنگ دست قرار دیا جائے گا یہ ابن رستم نے امام محمد سے روایت کیا ہے اور اگر اس کے پاس ہزار سے کم ہوں تو ان دونوں میں سے جس کی قیمت کم تھی اس کا ضامن ہوگا اور اگر زید عمرو کے درمیان ایک غلام ہزار درہم قیمت کا مشترک ہے اور زید و خالد کے درمیان ایک غلام پانچ سو درہم قیمت کا مشترک ہے پھر زید نے دونوں میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور زید کے پاس پانچ سو درہم ہیں تو وہ معسر قرار دیا جائے گا اور اگر زید کے پاس پانچ سو درہم سے کم ہوں تو وہ پانچ سو درہم والے غلام کے شریک کے حق میں موسر قرار دیا جائے گا یہ ظہیر یہ میں ہے اور ضمانت و سعایت کے واسطے غلام کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو بروز اعتاق تھی چنانچہ اگر روز اعتاق کی قیمت معلوم ہو پھر اس کی قیمت بڑھ گئی یا گھٹ گئی یا باندی تھی کہ اس کے بچہ پیدا ہوا تو ان امور کی طرف التفات نہ کیا جائے گا یہ بدائع میں ہے اور اگر وہ بروز اعتاق صحیح ہو پھر وہ اندھا ہو گیا تو اس کی نصف قیمت صحیح کی واجب ہوگی اور اگر بروز عتق اس کی آنکھ میں سپیدی ہو پھر اس کی آنکھ کی سپیدی کھل گئی اور آنکھ روشن ہو گئی تو اس کی نصف قیمت اعمی ہونے کی حالت کی واجب ہوگی یہ فتح القدر میں ہے اسی طرح آزاد کنندہ کا یسار و عسار بھی اسی روز کا معتبر ہے جس روز اس نے آزاد کیا ہے حتیٰ کہ اگر موسر ہونے کی حالت میں آزاد کیا پھر وہ معسر ہو گیا تو تاوان دینے کا حق باطل نہ ہوگا اور اگر اس نے عسار کی حالت میں آزاد کیا پھر وہ موسر ہو گیا تو شریک ساکت کو تاوان

۱۔ سوائے ضروریات کے فاضل بقدر نصف قیمت ہو۔ ۲۔ اوقاف شریک ساکت کا تاوان لینے کا حق باطل نہ ہوگا۔

لینے کا حق ثابت نہ ہوگا اور اگر روز حقیق کے غلام کی قیمت میں دونوں نے اختلاف کیا پس اگر غلام قائم ہو تو فی الحال اس کی قیمت اندازہ کی جائے گی اور اگر تلف ہو چکا ہے تو آزاد کنندہ کا قول قبول ہوگا اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ اعتاق اس اختلاف پر سابق ہے تو آزاد کنندہ کا قول قبول ہوگا۔ خواہ غلام قائم ہو یا تلف ہو گیا ہو اور اگر دونوں نے وقت و قیمت میں اختلاف کیا چنانچہ آزاد کنندہ نے کہا کہ میں نے اس کو فلاں روز آزاد کیا اور اس کی قیمت یہ تھی اور شریک ساکت نے کہا کہ تو نے اس کو فی الحال آزاد کیا ہے اور اس کی قیمت دو سو درہم ہے تو فی الحال آزاد کئے جانے کا حکم دیا جائے گا اور اسی طرح اگر شریک ساکت اور خود غلام نے قیمت غلام میں اختلاف کیا تو بھی اسی تفصیل سے حکم ہے یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر شریک ساکت و شریک آزاد کنندہ کے وارثوں میں غلام کی قیمت میں اختلاف واقع ہو تو ویسا ہی حکم ہوگا جیسا خود شریک ساکت و آزاد کنندہ کے درمیان قیمت غلام میں اختلاف کرنے کی صورت میں مذکور ہوا ہے یہ محیط میں ہے اور اگر دونوں نے یسار و عسار میں اختلاف کیا تو نظر کریں کہ اگر دونوں کا اختلاف در حال اعتاق ہو تو قول آزاد کنندہ کا اور گواہ دوسرے کے مقبول ہوں گے یہ بدائع میں ہے۔

عتق مقدم ہو جانے کے بعد دونوں نے یسار و عسار میں اختلاف کیا تو؟

اگر عتق مقدم ہو جانے کے بعد دونوں نے یسار و عسار میں اختلاف کیا پس اگر ایسی مدت گذری ہو کہ جس میں یسار و عسار بدلا جاسکتا ہے تو آزاد کنندہ کا قول قبول ہوگا اور اگر ایسی مدت ہو کہ بدل نہیں سکتا ہے تو فی الحال کا اعتبار کیا جائے گا پس اگر آزاد کنندہ کافی الحال موسر ہونا معلوم ہو تو اختلاف کے کچھ معنی نہیں ہیں اور اگر نہ معلوم ہو تو آزاد کنندہ کا قول قبول ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے معتق البعض^۱ اگر مکاتب کیا گیا پس اگر اس کو درہموں یا دیناروں پر مکاتب کیا پس اگر مکاتب بقدر اس کی قیمت کے ہو تو جائز ہے اور اگر اس کی قیمت سے کم پر مکاتب کیا تو بھی جائز ہے اور اگر اس کی قیمت سے زیادہ پر مکاتب کیا پس اگر زیادتی اسی قدر ہو کہ لوگ اپنے انداز میں اس قدر خسارہ اٹھا لیتے ہیں تو بھی جائز ہے اور اگر اس قدر زیادتی ہو کہ ایسے معاملہ میں لوگوں کے انداز سے بڑھ گئی ہے تو اس میں سے زیادتی طرح دے دی جائے گی اور اگر کتابت عروض (اسباب) پر ہو تو قلیل و کثیر سب طرح جائز ہے اور اگر حیوان پر ہو تو بھی جائز یہ بدائع میں ہے۔ اگر غلام کو عروض پر مکاتب کیا اور وہ ادائے کتابت سے عاجز ہو گیا تو جن عروض کے ادا کرنے کا اس نے التزام کیا تھا وہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائیں گے اور وہ اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرنے پر مجبور کیا جائے گا جیسا کہ قبل کتابت کے تھا اور اس شریک ساکت کو یہ اختیار حاصل نہ ہوگا کہ شریک آزاد کنندہ سے کچھ ضمان لے سکے یہ مبسوط میں ہے اور اگر غلام آزاد کرنے والے کا شریک طفل یا مجنون ہو جس کا باپ یا دادا یا وصی موجود ہے تو اس کے ولی یا وصی کو اختیار ہوگا چاہے آزاد کنندہ سے اس کے حصہ کا تاوان لے اور چاہے غلام سے سعایت کرانا اختیار کرے اور چاہے اس کو مکاتب کرے مگر اس کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ غلام مذکور کو آزاد کرے یا مدبر کرے اور اسی طرح اگر شریک مکاتب ہو یا ایسا ماذون التجارة ہو کہ اس پر قرضہ ہو تو ان میں سے ہر ایک کو بھی تضمین و سعایت و مکاتب کرنے کا اختیار ہوگا اور یہ اختیار نہ ہوگا کہ اپنا حصہ آزاد کر دے اور اگر غلام ماذون پر قرضہ نہ ہو تو اختیار اس کے مولیٰ کو حاصل ہوگا پس اگر شریک ساکت نے غلام سے سعایت کرانی اختیار کی تو در صورت یہ کہ شریک طفل یا مجنون ہو تو ولاء انہی دونوں کو حاصل ہوگی اور در صورت یہ کہ مکاتب یا ماذون ہو تو ولاء اس کے مولیٰ کو ملے گی یہ بدائع میں ہے اور اگر طفل کا باپ نہ ہو اور نہ باپ کا وصی ہو مگر ان کا وصی ہو اور یہ غلام ایسا ہے کہ صغیر مذکور نے اس کو ماں کی میراث میں پایا ہے تو امام احمد نے یہ صورت کتاب میں ذکر نہیں فرمائی ہے اور حاکم ابو محمد سے منقول ہے کہ

^۱ دو شریکوں میں سے ایک نے جس کا بعض حصہ آزاد کیا ہے اور باقی شریک نے اپنا حصہ مکاتب کیا۔

انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد فقہ ابو بکر بلخی سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں کا وصی ہو اور کوئی اس کا وصی نہ ہو تو اس وصی کو اختیار ہوگا کہ آزاد کنندہ سے تاوان لے اور چاہے غلام سے سعایت کرادے اگرچہ سعایت کرانا کتابت کے معنی میں ہے مگر وصی مادر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو مکاتب کرے یہ محیط میں ہے۔

اگر صغیر و مجنون کا کوئی ولی و وصی نہ ہو پس اگر وہاں کوئی حاکم شرعی ہو تو حاکم ایسے شخص کو مقرر کرے گا جو ان کے واسطے ان امور تضمین و استعلاء و مکاتبت (تضمین تاوان لینا استعلاء کمائی کرانا مکاتبت نوش لکھ دینا) میں سے جو بہتر ہے اختیار کرے اور اگر وہاں کوئی حاکم نہ ہو تو امر موقوف رہے گا یہاں تک کہ طفل بالغ ہو اور مجنون کو افاقہ حاصل ہو پھر یہ دونوں خود ہی پانچوں اختیارات میں سے جو چاہیں گے اختیار کریں گے یہ بدائع میں ہے اور اگر شریک ساکت کے کوئی امر اختیار کرنے سے پہلے غلام مر گیا اور شریک آزاد کنندہ موسر سے پس شریک ساکت نے اس سے ضمان لینا اختیار کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور روایت کے موافق اس کو یہ اختیار حاصل ہے اور شیخ الاسلام نے اپنی شرح میں ذکر فرمایا کہ اگر غلام مر گیا اور بعد آزاد ہونے کے جو اس نے کمائی کی وہ چھوڑی تو شریک ساکت کو بلا خلاف یہ اختیار ہے کہ شریک آزاد کنندہ سے تاوان لے لیکن غلام کی کمائی میں سے سعایت لے سکتا ہے یا نہیں اس میں مشائخ کا اختلاف ہے اور عامہ مشائخ کے نزدیک اس کو یہ اختیار نہیں ہے اور اسی طرف امام محمد نے اصل میں اشارہ فرمایا ہے اور یہ اس وقت ہے کہ شریک ساکت کے کوئی امر اختیار کرنے سے پہلے غلام مر گیا اور شریک آزاد کنندہ موسر ہے اور اگر شریک آزاد کنندہ معسر ہو اور باقی مسئلہ بحالہ ہو تو اگر غلام کے بعد آزاد ہونے کی کمائی موجود ہو تو بلا خلاف شریک ساکت کو اس میں سے سعایت لے لینے کا اختیار ہوگا اور اگر ایسا کچھ مال نہ ہو جس کو غلام مذکور نے بعد آزادی کے کمایا ہے تو مال سعایت غلام کی گردن پر قرضہ باقی رہے گا (قال المترجم ظاہر ایہ احکام دنیا میں صحیح ہیں آخرت میں وہ مقروض نہ رہے گا قائل فیہ) یہاں تک کہ غلام کا کچھ مال ظاہر ہو یا کوئی شخص احسان کر کے غلام پر جو قرضہ ہے ادا کر دے یا خود ساکت اس کو بری کر دے یہ محیط میں ہے۔

اگر شریک ساکت مر گیا تو اُسکے وارثوں کو اختیار ہوگا کہ چاہیں اعتاق اختیار کریں، تضمین یا سعایت:

اگر شریک آزاد کنندہ نے تاوان دیا تو جس قدر اس نے تاوان دیا ہے وہ غلام کے ترکہ میں سے لے لے گا اگر اس کا کچھ ترکہ ہو اور اگر نہ ہو تو وہ غلام پر قرضہ ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر غلام نے ایسا مال چھوڑا جس میں سے کچھ اس نے قبل آزادی کے کمایا اور کچھ بعد آزادی کے پس جو اس نے قبل آزاد ہونے کے کمایا ہے وہ دونوں مولاؤں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا اور جو اس نے بعد آزاد ہونے کے کمایا ہے وہ غلام کا ترکہ ہوگا وہ ساکت لے لے گا یا اگر آزاد کنندہ نے تاوان دے دیا ہو تو آزاد کنندہ لے لے گا اور بعد حق بھرے لینے کے اگر کچھ باقی رہا تو وہ آزاد کنندہ کو میراث ملے گا اور اگر دونوں شریکوں نے اس میں اختلاف کیا چنانچہ ایک نے کہا کہ یہ وہ مال ہے جو اس نے قبل عتق کے کمایا ہے اور یہ سب ہمارے درمیان میں مشترک ہے اور دوسرے نے کہا کہ بعد عتق کے کمایا ہے تو وہ بمنزلہ بعد عتق کے کمائے ہوئے کے قرار دیا جائے گا اور جو شخص دونوں میں سے تاریخ سابق (یعنی حق سے تاریخ سابق بیان کرے) کا مدعی ہوگا اس کا قول قبول نہ ہوگا الا کجبت یہ مبسوط میں ہے اور اگر شریک ساکت مر گیا تو اس کے وارثوں کو اختیار ہوگا کہ چاہیں اعتاق اختیار کریں یا تضمین یا سعایت یہ محیط سرحسی میں ہے پس اگر وارثوں نے آزاد کنندہ سے ضمان لے لی تو پوری ولاء آزاد کنندہ کو ملے گی اور اگر وارثوں نے اپنا حصہ آزاد کر دینا یا غلام سے سعایت کرنا اختیار کیا تو ان کے حصہ کی میراث میت کے وارثوں میں سے مذکوروں کو ملے گی نہ مؤنثوں کو اور اگر بعضوں نے سعایت کو اختیار کیا اور بعضوں نے ضمان لیا تو ہر ایک کو ان میں سے وہی ملے گا جو اس نے اختیار کیا ہے اور حسن نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ وارثوں کو ایسے تفرق کا اختیار نہیں

ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چاہیں ضمان لینے پر اتفاق کریں یا سعایت کرانے پر اتفاق کریں اور یہی اصح ہے یہ مبسوط میں ہے اور اگر آزاد کنندہ مر گیا پس اگر اس نے اپنی مصحت میں آزاد کیا ہو تو بلا خلاف اس کے ترکہ میں سے غلام کی نصف قیمت لے لی جائے گی اور اگر حالت مرض (یعنی مرض الموت) میں آزاد کیا ہو تو وہ ضامن نہ ہو گا تا کہ اس کے ترکہ سے کچھ لیا جائے اور یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ بدائع میں ہے۔

غلام مذکور اپنے مولیٰ کے واسطے (جس نے آزاد نہیں کیا ہے) امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سعایت کرے گا یہ محیط میں ہے اور اگر ایک غلام دو آدمیوں میں مشترک ہو جن میں سے ایک نے اپنا حصہ غلام آزاد کیا پھر شریک ساکت نے چاہا کہ اپنے حصہ میں سے نصف کی ضمان آزاد کنندہ سے لے اور نصف کے واسطے غلام سے سعایت کرادے تو آیا یہ اختیار اس کو ہے یا نہیں تو فقہ ابو لیسٹ نے فرمایا کہ اس مسئلہ کی کوئی روایت نہیں ہے اور کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو یہ اختیار ہے اور کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کو یہ اختیار نہیں ہے ایسا ہی زیادات کی کتاب الغصب میں ذکر فرمایا ہے یہ ظہیر یہ میں ہے منقحی میں امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ ایک غلام دو آدمیوں میں مشترک ہے اس کو ایک نے آزاد کیا حالانکہ وہ معسر ہے یہاں تک کہ غلام پر سعایت واجب ہوئی پھر اس نے سعایت کرنے سے انکار کیا تو وہ غلام معنی بمنزلہ ایسے آزاد کے ہے جس پر قرضہ ہو یہاں تک کہ قرضہ کو ادا کرے اور اس کے حق میں حکم یہ دیا جائے گا اگر وہ سمجھ دار ہے اور اپنے ہاتھ سے کام کر سکتا ہے یا اس کا کوئی کام معروف ہے جیسے نجاری وغیرہ تو وہ کسی کو اجرت پر دیا جائے گا اور اس کی اجرت لے کر اجرت سے اس کا قرضہ دیا جائے گا اور نیز منقحی میں مذکور ہے کہ ایک غلام صغیر دو آدمیوں میں مشترک ہے اس کو ایک شریک نے آزاد کیا در حالیکہ وہ معسر ہے پس دوسرے نے اس کو اجرت پر دینا چاہا پس اگر غلام سمجھ دار ہو اور وہ اس پر راضی ہو تو یہ مواجرہ غلام پر جاری ہوگا اور یہ اجرت اس شریک کو ملے گی جس نے آزاد نہیں کیا ہے اور یہ اس کے حق میں محسوب ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر دو شریکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ اپنے شریک کی اجازت سے آزاد کیا تو اس پر تاوان واجب نہ ہوگا ہاں ظاہر الروایہ کے موافق اس کو غلام سے سعایت کرانے کا اختیار حاصل ہوگا یہ بحر الرائق میں ہے نصف کے مضارب نے اگر ہزار درہم سے جو اس المال ہے غلام خریدے جس میں سے ہر ایک کی قیمت ہزار درہم ہے پس ان دونوں کو رب المال نے آزاد کر دیا تو دونوں آزاد ہو جائیں گے اور مضارب کے حصہ کا ضامن ہوگا خواہ موسر ہو یا معسر ہو یہ کافی میں ہے۔

اگر ایک غلام ایک کثیر جماعت کے درمیان مشترک ہو کہ ان میں سے ایک نے اپنا حصہ کا غلام آزاد کیا.....؟

امام ابو یوسف نے فرمایا کہ دو غلام دو شخصوں میں مشترک ہیں اور ایک نے کہا کہ ان میں سے ایک غلام آزاد ہے حالانکہ کہنے والا شریک فقیر ہے پھر وہ غنی ہو گیا پھر اس نے عتق کے واسطے ایک کو معین (کلام عتق کا اعتبار نہ کیا بلکہ وقت تعیین کے تو نگر ہو جانا معتبر رکھا) کر دیا تو بعد عتق کے اس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور اسی طرح اگر وہ کسی کو عتق کے واسطے معین کرنے سے پہلے مر گیا حالانکہ وہ قبل موت کے غنی ہو گیا تھا تو دونوں میں سے ہر ایک کی قیمت کی چوتھائی کا ضامن (جو اس کے ترکہ سے وصول ہوگی) ہوگا اور امام محمد نے فرمایا کہ قیمت وہ معتبر ہوگی جو اس کے کلام عتق کہنے کے روز تھی کذا فی فی الايضاح اور اگر ایک غلام ایک جماعت کے درمیان مشترک ہو کہ ان میں سے ایک نے اپنا حصہ کا غلام آزاد کیا اور باقی شریکوں میں سے بعض نے اپنے حصہ کی سعایت کرانی اختیار کی اور بعض نے آزاد کرنا اختیار کیا اور بعض نے آزاد کنندہ سے ضمان لینی پسند کی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر ایک کو وہ ملے گا جو اس

نے اپنے حصہ کی بابت اختیار کیا ہے یہ محیط میں ہے اور امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ ایک غلام تین آدمیوں میں مشترک ہے کہ ایک نے اپنا حصہ آزاد کیا پھر اس کے بعد دوسرے نے اپنا حصہ آزاد کیا تو تیسرے کو یہ اختیار ہوگا کہ چاہے اول آزاد کنندہ سے اپنے حصہ کی ضمانت لے اگر وہ موثر ہو یا چاہے آزاد کر دے یا مدد بریامکاتب کر دے یا سعایت کرادے اور یہ اختیار نہ ہوگا کہ دوسرے آزاد کنندہ سے تاوان لے اگر چہ وہ موثر ہو پس اگر اس نے اول آزاد کنندہ سے تاوان لینا اختیار کیا تو اول کو اختیار ہوگا چاہے آزاد کر دے یا مدد بریامکاتب کر دے اور چاہے سعایت کرادے اور یہ اختیار اس کو حاصل نہ ہوگا کہ دوسرے آزاد کنندہ سے تاوان لے یہ بدائع میں ہے اور اگر ایک شریک نے آزاد کیا اور ساتھ ہی دوسرے نے اس کو مکاتب اور تیسرے نے اسی وقت مدد بریامکاتب ان میں سے کسی شریک کو دوسرے سے رجوع کا اختیار نہ ہوگا اور اگر ایک نے پہلے اس کو مدد بریامکاتب دوسرے نے اس کو آزاد کیا پھر تیسرے نے اس کو مکاتب کیا تو مدد بریامکاتب کرنے والے کو آزاد کنندہ سے اپنے حصہ کی قیمت لینے کے لئے رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہوگا اور مکاتب کرنے والا کسی سے رجوع نہیں کر سکتا ہے اور اگر پہلے نے مدد بریامکاتب اور پھر تیسرے نے آزاد کیا تو مدد بریامکاتب کرنے والے کو آزاد کرنے والے کا حکم وہی ہے جو مذکور ہوا ہے اور ہا مکاتب کرنے والا پس اگر غلام مذکور ادائے کتابت سے عاجز ہو جائے تو آزاد کنندہ سے اپنے حصہ کی قیمت لے لے گا اور اگر پہلے نے مکاتب کیا پھر دوسرے نے اس کو مدد بریامکاتب اور پھر تیسرے نے آزاد کیا پس اگر غلام ادائے کتابت سے عاجز نہ ہو تو مکاتب کنندہ کی طرف سے آزاد ہو جائے گا اور اس پر کچھ ضمان واجب نہ ہوگی اور اگر عاجز ہو تو مدد بریامکاتب کرنے والے سے تہائی قیمت لے گا نہ آزاد کنندہ سے لے گا یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر ایک غلام تین آدمیوں میں مشترک ہو پس اس کو ایک نے مدد بریامکاتب دوسرے نے اس کو آزاد کیا اور یہ دونوں موثر ہیں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدد بریامکاتب کی تدبیر اس کے حصہ ہی تک رہے گی اور دوسرے کا آزاد کرنا صحیح ہے پھر ساکت کو اختیار ہوگا کہ مدد بریامکاتب سے تہائی قیمت غلام کی ضمانت لے اور آزاد کنندہ سے تاوان نہیں لے سکتا ہے اور اگر چاہے تو غلام سے اس کی تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرادے اور اگر چاہے تو اس کو آزاد کر دے۔ جب مدد بریامکاتب نے تاوان دے دیا تو اس کو اختیار ہوگا کہ غلام سے یہ مال تاوان لے لے پس غلام مذکور اس قدر مال کے لئے اس کے واسطے سعایت کرے گا یہ مبسوط شمس الائمہ سرخسی میں ہے اور اگر مدد بریامکاتب معسر ہو تو تیسرے ساکت کو غلام سے سعایت کرانے کا اختیار ہوگا نہ تاوان لینے کا۔ پھر جب ساکت نے مدد بریامکاتب سے تاوان لینا اختیار کیا اور لے لیا تو غلام کی دو تہائی ولاء مدد بریامکاتب کی ہوگی اور ایک تہائی آزاد کنندہ کی ہوگی اور اگر اس نے غلام سے سعایت کرانی اختیار کی تو اس کی ولاء ان تینوں میں تین تہائی ہوگی۔ یہ غایۃ البیان میں ہے۔

مدد بریامکاتب کے اختیار کا بیان:

مدد بریامکاتب کو بھی اختیار ہے کہ جس نے آزاد کیا ہے اس سے غلام کی تہائی قیمت لے یا اس صفت کہ ایسے غلام کی در صورت یہ کہ مدد بریامکاتب قیمت ہے جو اس کی تہائی قیمت لے اور یہ اختیار نہیں ہے کہ جس قدر اس نے ساکت کو اس کے حصہ کی قیمت تاوان دی ہے وہ آزاد کنندہ سے تاوان لے اور اس غلام کی ولاء مدد بریامکاتب اور آزاد کنندہ کے درمیان تین تہائی اس طرح ہوگی کہ دو تہائی مدد بریامکاتب کی اور ایک تہائی آزاد کنندہ کی ہوگی یہ مبسوط شمس الائمہ سرخسی میں ہے اور مدد بریامکاتب کو اختیار ہے چاہے اپنے حصہ کو جس کو مدد بریامکاتب ہے آزاد کر دے اور چاہے غلام سے سعایت کرادے اور اگر اس نے اپنے اختیار سے یہ امر اختیار کیا کہ آزاد کنندہ سے تاوان لے تو آزاد کنندہ کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ غلام سے اس حصہ کی بابت سعایت کرادے یہ بدائع میں ہے۔ اگر آزاد کنندہ معسر ہو تو مدد بریامکاتب کو تضمین کا اختیار نہ ہوگا ہاں غلام سے سعایت کرانے کا اختیار ہوگا یہ غایۃ البیان میں ہے اور اگر ساکت نے مدد بریامکاتب

کنندہ سے اپنے حصہ کا تاوان لیا پھر تیسرے شریک نے اس کو آزاد کر دیا تو مدبر کنندہ کو اختیار ہوگا کہ آزاد کنندہ سے غلام کی دو تہائی قیمت تاوان لے جس میں سے ایک تہائی قیمت غلام کی مدبر ہونے کے ساتھ جو قیمت ہو اس میں سے ہوگی اور ایک تہائی محض غلام ہونے کے ساتھ جو قیمت ہے اس میں سے ہوگی یہ نہایتی میں تماشائی سے منقول ہے اور واضح رہے کہ محض غلام کی جو قیمت ہو اس کی تہائی غلام مدبر کی قیمت ہوتی ہے اور بعض نے فرمایا کہ محض غلام کی نصف قیمت ہوتی ہے اور اسی طرف صدر الشہیدؒ نے میل کیا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے یہ کافی میں ہے اور اگر ایک غلام تین رہط (رہط جماعت کم از وہ اور یہاں نفر مراد ہے ۱۲) میں مشترک ہو پھر ایک رہط نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اور دوسرے نے مدبر کیا اور تیسرے نے مکاتب کیا اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اول کون ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بنا بر قول امام اعظمؒ کے آزاد کنندہ کا آزاد کرنا نافذ ہوگا اور کسی پر اس کی ضمان نہیں ہو سکتی ہے اور مدبر کنندہ کا مدبر کرنا بھی اپنے حصہ میں نافذ ہوگا اور اس کو اختیار حاصل ہوگا چاہے غلام سے تہائی قیمت غلام مدبر کے واسطے سعایت کرادے یا استحساناً آزاد کنندہ سے ششم حصہ قیمت (یعنی غلام مدبر کی قیمت کا ششم حصہ ۱۲) غلام تاوان لے اور ششم حصہ قیمت کے واسطے غلام سے سعایت کرادے اور رہا مکاتب کرنے والا پس اگر غلام اپنی کتابت پر رہا اور مال کتابت اس نے ادا کیا تو خیر اور اس کی ولاء ان سب میں تین تہائی مشترک ہوگی اور اگر غلام ادائے کتابت سے عاجز ہو گیا تو مکاتب کنندہ کو اختیار ہوگا کہ آزاد کنندہ و مدبر کنندہ ہر دو فریق سے اپنے حصہ کی بابت نصف نصف قیمت لے لے گا بشرطیکہ دونوں موخر ہوں اور یہ دونوں جو کچھ تاوان دیں وہ غلام سے واپس لے سکتے ہیں اور اس غلام کی ولاء انہیں دونوں میں نصف نصف مشترک ہوگی یہ مبسوط میں ہے

امام اعظمؒ کے نزدیک عتق و تدبیر کا حکم:

مکاتب کنندہ در صورت عجز غلام چاہے تو اپنا حصہ بھی آزاد کر دے اور چاہے غلام سے سعایت کرادے یہ نیا بیع میں ہے اور اگر غلام پانچ رہط نفر میں مشترک ہو پس ایک نے اپنا حصہ آزاد کیا اور دوسرے نے اس کو تدبیر کیا اور تیسرے نے اپنا حصہ مکاتب کیا اور چہارم نے اپنا حصہ فروخت کیا اور پنجم وصول کر لیا اور پانچویں نے اپنے حصہ پر کسی عورت سے نکاح کیا اور یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اول کون ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بقول امام اعظمؒ کے عتق و تدبیر کا حکم وہی ہے جو ہم نے اول صورت میں بیان کیا ہے فقط فرق یہ ہے کہ تضمین یا سعایت کرانا اول صورت میں تہائی کی بابت ہوگا اور یہاں پانچویں حصہ میں ہوگا اور رہی بیع پس اگر باہم اتفاق کیا کہ یہ بیع بعد عتق تدبیر کے واقع ہوئی یا بائع نے کہا کہ قبل عتق کے تھی اور غلام اس کے قبضہ میں ہے اور مشتری نے کہا کہ بعد عتق کے واقع ہوئی ہے تو بیع باطل ہوگی اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ قبل عتق و تدبیر کے واقع ہوئی ہے تو مشتری کو اختیار ہوگا چاہے بیع توڑ دے اور چاہے عقد بیع کو پورا کر دے اور اپنا حصہ خواہ آزاد کر دے یا اس سے سعایت کرالے پس اس کی ولاء اس مشتری کی ہوگی اور چاہے آزاد کنندہ مدبر کنندہ سے اپنے حصہ کی قیمت تاوان لے بشرطیکہ دونوں موخر ہوں پھر دونوں اس مال تاوان کو غلام سے واپس لیں گے اور رہی عورت پس اگر دونوں نے باہم اتفاق کیا کہ تزویج بعد عتق و تدبیر کے واقع ہوا ہے تو نکاح صحیح ہوگا اور عورت کے واسطے اس کے شوہر پر غلام کے پانچویں حصہ کی قیمت واجب ہوگی اور اگر دونوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ تزویج قبل عتق و تدبیر کے واقع ہوا ہے تو عورت کو اختیار ہوگا چاہے مسمیٰ یعنی غلام مذکور کا حصہ ترک کر کے شوہر سے اس کے پانچویں حصہ کی قیمت تاوان لے اور چاہے اجازت دے کر اپنا حصہ آزاد کر دے یا غلام سے اس کے پانچویں حصہ کی قیمت کے واسطے سعایت کرادے اور پانچویں حصہ غلام کی ولاء عورت کی ہوگی اور چاہے تو آزاد کنندہ و مدبر کنندہ دونوں سے پانچویں حصہ غلام کی قیمت نصف نصف تاوان لے پھر اگر کچھ زیادتی ہو تو عورت مذکورہ دوبارہ زیادتی کے سچی سمجھی جائے گی بخلاف مشتری کے اور رہا حصہ

مکاتب کنندہ تو اس کی وہی حالت ہے جو ہم نے ذکر کر دی ہے کہ اگر غلام نے بدل کتابت اس کو ادا کر دیا تو اس کی جانب سے آزاد ہو جائے گا اور اگر عاجز رہا تو اس کو اختیار ہوگا کہ آزاد کنندہ و مدبر کنندہ سے اپنے حصہ کی قیمت نصفاً نصفاً تاوان لے بشرطیکہ دونوں موسر ہوں اور اگر غلام میں کوئی چھٹا حصہ کا شریک ایسا ہو کہ جس نے اپنے حصہ صغیر فرزند کو ہبہ کر دیا اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے قبل عتق کے ایسا کیا یا بعد عتق کے تو اس میں اس فرزند کے باپ کا قول قبول ہوگا پس اگر اس نے کہا کہ بعد عتق کے ہبہ واقع ہوا تو باطل ہے اور اگر اس نے کہا کہ قبل عتق کے واقع ہوا تو ہبہ جائز ہے پھر اس طفل صغیر کا باپ اپنے فرزند کے قائم مقام اس حصہ میں قرار دیا جائے گا کہ وہ تصرف کر سکتا ہے جیسے فرزند اپنے بالغ ہونے پر تصرف کرتا چنانچہ باپ کو ضمان لینے یا غلام سے سعایت کرانے کا اختیار ہوگا لیکن یہ اختیار نہ ہوگا کہ حصہ مذکور آزاد کر دے پس اگر آزاد کنندہ و مدبر کنندہ دونوں موسر ہوں تو پدر مذکور ہر ایک سے ششم حصہ کی قیمت نصف لے لے گا اور چاہے تو غلام سے ششم حصہ قیمت کے واسطے اپنے فرزند کے لئے سعایت کرالے یہ مبسوط شمس الائمہ سرحسی میں ہے۔

ہشام نے امام محمدؒ سے روایت کی ہے کہ اگر مملوک تین آدمیوں میں مشترک ہو کہ ان میں سے ایک کا نصف اور دوسرے کا تہائی اور تیسرے کا ششم حصہ ہے پس آدھے و تہائی کے شریکوں نے اپنا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو ششم حصہ والے کے حصہ کے نصف مصف دونوں ضامن ہوں گے اور نصف حصہ والے کی نصف و لاء بسبب اپنے حصے کے اور چھٹے حصہ کی نصف بسبب تاوان دینے کے ہوگی اور تہائی والے کی تہائی و لاء بسبب اس کے حصہ کے اور ششم حصہ کی نصف و لاء بسبب تاوان دینے کے ہوگی یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر کوئی شخص اپنے فرزند کا معاً دوسرے مرد کے بوجہ خرید یا صدقہ یا وصیت یا میراث کے مالک ہو تو باپ کا حصہ آزاد ہو جائے گا خواہ دوسرا شریک یہ جانتا ہو کہ وہ میرے شریک کا بیٹا ہے یا نہ جانتا ہو اور باپ اپنے شریک کے حصہ کا ضامن بھی نہ ہوگا یہ یعنی شرح کنز میں ہے خواہ باپ موسر ہو یا معسر ہو یہ تا تاریخانیہ میں نیا بیع سے منقول ہے اور باپ کے شریک کو اختیار ہوگا چاہے اپنا حصہ آزاد کرے یا غلام سے اپنے حصہ کی بابت سعایت کرادے اور اس کے سوائے اس کو کچھ اختیار نہیں ہے اور یہ امام اعظمؒ کے نزدیک ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ سوائے صورت میراث کے اور وجوہ ملک میں باپ شریک کے حصہ کی قیمت کا ضامن ہوگا بشرطیکہ موسر ہو اور اگر معسر ہوگا تو ابن مذکور شریک مذکور کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گا یہ یعنی شرح کنز میں ہے اور اس امر پر اجماع ہے کہ اگر باپ اور اجنبی دونوں نے میراث میں پایا ہو تو باپ ضامن نہ ہوگا اور یہی حکم ہر ایسے قریب میں ہے جو بسبب قرابت رحم کے خود آزاد ہو جاتا ہے یہ فتح القدر میں ہے اور اگر ابتدا میں اجنبی نے نصف پسر کو خرید پھر اس کے (یعنی پسر کے ۱۲) باپ نے نصف باقی کو خریدا اور باپ موسر ہے تو اجنبی کو اختیار حاصل ہوگا چاہے باپ سے تاوان لے اور چاہے پسر سے اس کی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرادے اور یہ امام اعظمؒ کے نزدیک ہے کذا فی الہدایۃ اور چاہے اپنا حصہ آزاد کر دے یہ غایۃ البیان میں ہے اور اگر کسی شخص نے اپنا نصف غلام فروخت کیا یا ہبہ کیا اور یہ فروخت و ہبہ اس غلام کی کسی ذی رحم محرم کے ساتھ ہے تو جس شخص کی طرف سے یہ غلام خود بخود بسبب ذی رحم قرابت ہونے کے آزاد ہو گیا ہے وہ اپنے شریک کے واسطے کچھ ضامن نہ ہوگا خواہ شریک کو یہ امر معلوم ہو یا نہ ہو ہاں غلام اس شریک کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گا یہ امام اعظمؒ کا قول ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔

شریک موسر ہوں یا معسر یا ایک موسر اور دوسرا معسر ہے تو حکم:

ہمارے اصحاب نے اجماع کیا ہے کہ اگر دو شریکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ غلام کسی قریب ذی رحم کے ہاتھ فروخت

کیا تو شریک دیگر کو یہ اختیار ہوگا کہ اس مشتری سے اپنے حصہ کی بابت تاوان لے بشرطیکہ وہ موسر ہو اور اس کو بائع سے تاوان لینے کا اختیار نہ ہوگا یہ غایہ سروجی میں ہے اور غلام مذکور سعایت کرے گا اگر وہ معسر (شری) ہو اس پر اجماع ہے یہ نیا بیع میں ہے۔ دو بھائیوں نے اپنے باپ کی میراث میں ایک غلام پایا پھر ایک نے ان دونوں میں سے کہا کہ یہ میرا بھائی از جانب پدر ہے اور دوسرے نے انکار کیا تو اقرار کنندہ دوسرے کے واسطے کچھ ضامن نہ ہوگا ہاں غلام مذکور اس کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی از جانب مادر ہے حالانکہ اس کا کوئی بھائی معروف از جانب مادر نہیں ہے تو دوسرے کے حصہ کا ضامن نہ ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر ایک باندی جو زید اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے۔ زید نے آزاد کر دی پھر وہ بچہ جنی تو شریک کو اختیار ہوگا کہ زید سے اپنے حصہ کی وہ قیمت لے جو آزاد کرنے کے روز تھی اور بچہ کی قیمت میں سے کچھ تاوان نہیں لے سکتا ہے یہ مبسوط میں ہے اور اگر دو شریک باندی میں سے ایک نے باندی کے پیٹ میں جو ہے آزاد کیا پھر جو وہ جوڑ یا یا دو بچے جنے مگر دونوں مردے تو اس پر ضمان واجب نہ ہوگی اور اگر زندہ تو ام (تو ام دو جز یا بچے ۱۲) جنی تو ضامن ہوگا یہ بحر الرائق میں ہے اور اگر دو شریک باندی میں سے ایک نے باندی کو آزاد کیا حالانکہ وہ حاملہ تھی پھر دوسرے نے جو اس کے پیٹ میں ہے وہ آزاد کر دیا پھر چاہا کہ اپنے شریک سے جس نے باندی کو آزاد کیا ہے باندی کی نصف قیمت تاوان لے تو اس کو یہ اختیار نہ ہوگا اور جو فعل اس نے کیا ہے وہ اس کی طرف سے اختیار سعایت ہو جائے گا اور اگر دونوں نے جو باندی کے پیٹ میں ہے آزاد کیا پھر دونوں میں سے ایک نے باندی کو آزاد کیا اور وہ موسر ہے تو دوسرے شریک کو اختیار ہوگا کہ شریک آزاد کنندہ سے باندی کی نصف قیمت تاوان لے اگر چاہے اور حمل بنی آدم میں نقصان شمار کیا جاتا ہے پس جس نے باندی کو آزاد کیا ہے وہ حاملہ باندی کی نصف قیمت تاوان دے گا یہ مبسوط میں ہے اور اگر غلام کے دو شریکوں میں سے ایک نے غلام کی آزادی کو دوسرے روز فلاں کے کسی فعل پر معلق کیا مثلاً یوں کہا کہ اگر کل کے روز زید دار میں داخل ہوا تو آزاد ہے اور دوسرے شریک نے اس کے برعکس کیا یعنی اگر کل کے روز زید دار میں داخل نہ ہوا تو آزاد ہے پھر کل کا روز گزر گیا اور یہ معلوم نہ ہوا کہ زید دار میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا تو نصف غلام آزاد ہو جائے گا اور اپنی نصف قیمت کے واسطے ان دونوں شریکوں کے لئے سعایت کرے گا جس کو دونوں نصفانہ تقسیم کر لیں گے اور امام اعظمؒ کے نزدیک ہے خواہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں یا ایک موسر اور دوسرا معسر ہے اور یہی امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ہے بشرطیکہ دونوں معسر ہوں یہ یعنی شرح کنز میں ہے۔ دو غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہیں مثلاً زید و بکر کے درمیان دو غلام مشترک ہیں پس زید نے ایک غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے اگر فلاں اس دار میں آج کے روز داخل نہ ہو اور بکر نے دوسرے غلام سے کہا کہ اگر فلاں اس دار میں آج کے روز داخل ہو تو آزاد ہے پھر وہ دن گذر گیا اور دونوں نے اتفاق کیا کہ ہم کو نہیں معلوم کہ فلاں مذکور داخل ہوا تھا یا نہیں تو ان دونوں غلاموں میں سے ہر ایک کا چوتھائی حصہ آزاد ہو جائے گا اور ہر ایک اپنی تین چوتھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جو دونوں مولاؤں کے درمیان نصفانہ مشترک ہوگی اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہؒ کے قیاس قول پر یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اپنی پوری قیمت کے واسطے سعایت کرے جو دونوں مولاؤں میں نصفانہ ہوگی یہ بدائع میں ہے۔

اگر دو شریکوں میں سے ایک نے غلام سے کہا کہ اگر تو اس دار میں امروز داخل ہوا تو آزاد ہے اور دوسرے شریک نے کہا کہ اگر تو اس دار میں امروز داخل نہ ہوا تو آزاد ہے پھر یہ دن گزر گیا اور یہ معلوم نہ ہوا کہ وہ داخل ہوا یا نہیں داخل ہوا تو اس کا نصف آزاد ہو جائے گا اور نصف کے واسطے سعایت کرے گا جو دونوں کے درمیان نصفانہ مشترک ہوگی۔ یہ امام اعظمؒ کے نزدیک ہے خواہ دونوں شریک موسر (خوشحال) یا معسر (تنگ دست) ہوں یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر غلام دو شریکوں میں مشترک ہے

کہ ایک نے اس کے عتق کی قسم کھائی کہ وہ دار میں داخل ہو اور دوسرے نے اس کے عتق کی قسم کھائی کہ وہ نہیں داخل ہو تو نصف غلام آزاد ہو گیا اور اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جو دونوں میں مشترک ہوگی خواہ وہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں یہ امام اعظم کا قول ہے یہ ایضاً میں لکھا ہے۔ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے تجھے کل کے روز گذشتہ کو تیرا حصہ خریدا ہو تو یہ غلام آزاد ہے اور دوسرے نے کہا کہ اگر میں نے گذشتہ کل کے روز اپنا حصہ تیرے ہاتھ فروخت نہیں کیا ہے تو یہ آزاد ہے تو غلام آزاد ہو جائے گا اس واسطے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک یہ گمان کرتا ہے کہ دوسرا حانث ہے پس مدعی بیع سے کہا جائے گا کہ تو اپنے گواہ قائم کر پس اگر اس نے گواہ قائم کئے تو بیع ہونے اور ثمن کی ڈگری کر دی جائے گی اور مشتری کی طرف سے غلام بغیر سعایت آزاد ہو جائے گا اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں اور اس نے مشتری سے قسم لینی چاہی تو اس کو یہ اختیار ہوگا پس اگر مشتری نے قسم کھانے سے نکول کیا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر اس نے قسم کھالی تو غلام مذکور مملوک رقیق نہ چھوڑا جائے گا مگر امام اعظم کے نزدیک بعد اس کے منکر کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعی کرے گا خواہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں یا مدعی بیع موسر ہو یا معسر ہو اور صاحبین کے نزدیک اگر دونوں معسر ہوں یا مدعی بیع معسر ہو تو ایسا ہی حکم ہے اور اگر دونوں موسر ہوں یا مدعی بیع موسر ہو تو غلام سعایت نہ کرے گا چنانچہ روایت ابو حفص میں مذکور ہے کہ مدعی بیع کے واسطے غلام سعایت نہ کرے گا خواہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں یا ایک موسر ہو اور دوسرا معسر ہو اور یہ بالا جماع ہے اور یہی صحیح ہے پھر جب منکر خرید نے قسم کھالی تو اس کو اختیار ہوگا کہ بائع سے قسم لے اگر وہ موسر ہے پس اگر بائع نے قسم سے انکار کیا تو اس کے ذمہ موجب نکول (یعنی تاوان) لازم ہوگا اور اگر وہ قسم کھا گیا تو سعایت کا حکم وہی ہوگا جو ہم نے بیان کر دیا ہے اور قاضی کو بدوں درخواست منکر خرید کے بائع سے قسم لینے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر بائع نے کہا کہ اگر میں اپنا حصہ اس غلام میں سے تیرے ہاتھ فروخت کر چکا ہوں تو یہ آزاد ہے اور مشتری نے کہا کہ اگر تو اس میں سے اپنا حصہ میرے ہاتھ نہیں فروخت کر چکا ہے تو یہ آزاد ہے تو مدعی خرید کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے گواہ قائم کرے پس اگر اس نے گواہ قائم کئے تو غلام رقیق قرار دیا جائے گا اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو فقیر ابو اسحاق سے روایت ہے کہ وہ قسم کھانے پر مجبور نہ کیا جائے گا لیکن اگر قسم کھالے تو بیع نہ کیا جائے گا اور اگر مدعا علیہ نے قسم کھالی تو بیع ثابت نہ ہوگی پس غلام مذکور امام اعظم کے نزدیک اپنی پوری قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جو دونوں میں مشترک ہوگی خواہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں اور صاحبین کے نزدیک اگر دونوں معسر ہوں تو دونوں کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر دونوں موسر ہوں یا مدعی خرید موسر ہو تو مدعی خرید کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعایت کرے گا اور اگر دونوں شریکوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے تیرا حصہ خریدا ہے اگر میں نے نہ خریدا ہو تو یہ آزاد ہے اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنا حصہ فروخت نہیں کیا بلکہ میں نے تیرا حصہ تجھ سے خریدا ہے اگر میں نے اس کو فروخت کیا ہو تو یہ آزاد ہے تو دونوں کو قاضی حکم دے گا کہ اپنے اپنے گواہ لائیں پس اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو ظاہر ہوا کہ دونوں میں سے ہر ایک اپنی قسم میں سچا ہے اور غلام مذکور دونوں کے درمیان مشترک رقیق باقی رہے گا اور اگر فقط ایک نے گواہ قائم کئے تو پورا غلام اس کا رقیق ہوگا اور اگر دونوں میں سے کسی ایک نے گواہ قائم نہ کئے تو قاضی دونوں (میں سے کسی سے) سے قسم نہ لے گا لیکن اگر قسم لی تو جائز ہے پس اگر دونوں نے قسم سے نکول کیا تو غلام مذکور دونوں کے درمیان مشترک رقیق رہ جائے گا جیسا کہ دونوں کے گواہ قائم کرنے کی صورت میں ہوا تھا اور دونوں میں سے جو نکول کرے گا اس کے ذمہ دوسرے کا دعویٰ ثابت ہوگا پس جو قسم کھا گیا ہے غلام اس کی ملک ہونے کا حکم دیا جائے گا اور اگر دونوں نے قسم کھالی تو غلام مذکور سعایت سے خارج ہو کر آزاد ہو جائے گا یہ بمسوط جامع کبیر حصیری میں ہے

دو شریکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو نے اس غلام کو مارا تو وہ آزاد ہے.....:

جامع کبیر میں لکھا ہے کہ دو شریکوں میں سے اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو نے اس غلام کو مارا جو میرے تیرے درمیان مشترک ہے تو وہ آزاد ہے پھر اس کو مارا حتیٰ کہ اس کا حصہ (قسم کھانے والے کا حصہ) آزاد ہو گیا تو مارنے والے کے حصہ کا قسم کھانے والا ضامن ہوگا بشرطیکہ موسر ہو یہ غایۃ البیان میں ہے۔ دو شریکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو نے اس غلام کو مارا تو وہ آزاد ہے اور دوسرے نے کہا کہ اگر میں نے اس کو آج نہ مارا تو وہ آزاد ہے پھر اس نے غلام کو مارا تو پہلا قسم کھانے والا مارنے والے کے حصہ کا ضامن ہوگا یہ تمر تاشی میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ ہر مملوک جس کا میں آئندہ مالک ہوں تو وہ آزاد ہے پھر وہ دوسرے کے ساتھ مشترک کسی مملوک کا مالک ہو تو آزاد (مملوک) نہ ہوگا پھر اگر اس نے اپنے شریک کا حصہ بھی خرید لیا تو اب آزاد ہو جائے گا اور اگر اس نے اپنے حصہ پہلے کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا پھر شریک کا حصہ خود خرید لیا تو آزاد نہ ہوگا اور اگر کسی مملوک معین سے کہا کہ جب میں تیرا مالک ہوں تو تو آزاد ہے پھر اس کا نصف خرید لیا پھر باقی نصف خرید لیا تو آزاد ہو جائے گا یہ مبسوط میں ہے ابن سماعہ نے امام ابو یوسفؒ سے روایت کی ہے کہ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے پس ایک نے کہا کہ میرے شریک نے اس کو سال بھر ہوا کہ آزاد کر دیا ہے اور خود میں نے اس کو آج کے روز آزاد کیا ہے اور اس کے شریک نے کہا کہ میں نے اس کو آزاد نہیں کیا ہاں آج تو نے اس کو آزاد کیا ہے پس تو مجھے میرے حصہ نصف کی ضمان دے تو جس نے زعم کیا کہ شریک نے سال بھر سے آزاد کیا ہے اس پر ضمان واجب نہ ہوگی اور اسی طرح اگر کہا کہ میں نے اس کو کل کے روز گذشتہ میں آزاد کیا ہے اور میرے شریک نے سال بھر سے اس کو آزاد کیا ہے تو بھی یہی حکم ہے اور اگر اس نے اپنے آزاد کرنے کا اقرار نہ کیا لیکن گواہ قائم کئے کہ اس نے کل کے روز گذشتہ میں آزاد کیا ہے تو وہ اپنے شریک کے واسطے ضامن ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ میرے شریک نے اس غلام کو ایک مہینہ سے آزاد کیا ہے اور میں نے دو دن سے تو وہ ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے اپنے اوپر ضمان کا اقرار نہیں کیا ہے یہ ظہیر یہ میں ہے۔

ایک باندی دو شخصوں (مردوں میں) میں مشترک ہے کہ ایک نے کہا کہ یہ میرے شریک کی ام ولد ہے اور اس کے شریک نے اس سے انکار کیا تو وہ ایک روز تک موقوف رہے گی یعنی خدمت نہ کرے گی اور ایک روز منکر کے واسطے خدمت کرے گی اور منکر کے واسطے اس پر سعایت کرنی واجب نہ ہوگی اور جو شریک مقرر ہوا ہے اس کے واسطے باندی مذکور پر کوئی راہ نہیں ہے یہ کافی میں ہے اور اس کی نصف ولاء اور نصف کمائی منکر کے واسطے ہوگی اور باقی نصف موقوف رہے گی اور اس کا نفقہ خود اس کی کمائی سے ہوگا اور اگر کمائی نہ ہو تو نصف نفقہ منکر پر ہوگا اور وہ مقرر کے واسطے ضامن نہ ہوگا اور اگر منکر مر گیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بوجہ اقرار مقرر کے وہ آزاد ہو جائے گی اور منکر کے حصہ کے لئے اس کے وارثوں کے واسطے سعایت کرے گی اور اگر دونوں شریکوں میں سے ہر ایک نے اقرار کیا کہ یہ دوسرے شریک کی ام ولد ہے اور دوسرے نے اس سے انکار کیا تو یہ باندی موقوف رہے گی اور کسی شریک کے واسطے دوسرے شریک پر کوئی راہ نہ ہوگی اور نیز باندی پر بھی کوئی راہ (یعنی ۱۲ دان) نہ ہوگی پھر اگر کوئی ایک مر گیا تو وہ آزاد ہو جائے گی اور اس کی ولاء موقوف رہے گی یہ تمر تاشی میں ہے۔ اگر ایک شریک نے کہا کہ آزاد کیا میں نے اس غلام کو اور تو نے یا اس کے برعکس کیا (یعنی تو نے اور میں نے) یا کہا کہ ہم دونوں نے اس غلام کو آزاد کیا پس اگر دوسرے شریک نے اس کی تصدیق کی تو وہ دونوں کی طرف سے آزاد ہوگا اور اگر تکذیب کی تو وہ اول کی طرف سے آزاد ہوگا یہ تارخانیہ میں ہے اور اگر دو شریکوں میں سے ایک نے دوسرے پر اعناق (اعتاق آزاد کرنا) کی شہادت دی مثلاً غلام دو شریکوں میں مشترک تھا پس ایک نے دوسرے پر شہادت

دی تو اس کا اقرار اپنی ذات پر جائز ہوگا دوسرے پر جائز نہ ہوگا اور شہادت دینے والے کا حصہ آزاد نہ ہوگا اور وہ اپنے شریک کے واسطے ضامن نہ ہوگا اور غلام اپنی قیمت کے واسطے سچی کرے گا جو دونوں شریکوں کے درمیان مشترک ہوگی خواہ دونوں خوشحال ہوں یا دونوں تنگ دست ہوں یہ امام اعظم کا قول ہے پھر اگر اس کے بعد دونوں میں سے ہر ایک نے غلام کی سعایت کرانے سے پہلے اپنا حصہ آزاد کیا تو امام اعظم کے نزدیک جائز ہے اس واسطے کہ نصیب منکر اپنی ملک پر ہے اور ایسا ہی شہادت دینے والے کا بھی حصہ امام اعظم کے نزدیک اس کی ملک میں ہے اس واسطے کہ اعتاق اس کے نزدیک متجری ہوتا ہے پس جب دونوں نے اس کو آزاد کیا تو دونوں کا آزاد کرنا جائز ہو گیا اور اس کی ولاء ان دونوں میں مشترک ہوگی۔ اسی طرح اگر غلام نے سعایت کر کے اپنی قیمت ادا کر دی تو بھی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی یہ بدائع میں ہے۔

اگر دو شریکوں میں سے ایک نے کسی دوسرے گواہ کے ساتھ اپنے شریک پر گواہی دی کہ اس نے سعایت وصول پائی ہے تو امام اعظم کے نزدیک اس کی گواہی جائز نہ ہوگی:

جب دونوں کے واسطے سعایت واجب ہوئی اگر دونوں میں سے ایک نے دوسرے پر شہادت دی کہ اس نے غلام سے سعایت پوری بھر پائی ہے تو اس کی گواہی قبول نہ ہوگی اور اسی طرح اگر ایک نے اپنا حصہ سعایت وصول پانے کے بعد دوسرے پر گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ سعایت وصول پایا ہے تو شہادت قبول نہ ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر دو شریکوں میں سے ایک نے کسی دوسرے گواہ کے ساتھ اپنے شریک پر گواہی دی کہ اس نے سعایت وصول پائی ہے تو امام اعظم کے نزدیک اس کی گواہی جائز نہ ہوگی اور اسی طرح اگر غلام کے واسطے شریک پر غصب مال یا جراثیم بدن یا کسی اور ایسی چیز کی جس کی وجہ سے اس پر مال واجب ہو گواہی دی تو اس کی گواہی رد کر دی جائے گی یہ مبسوط میں ہے اور اگر دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے پر شہادت دی اور دوسرے نے انکار کیا تو ہر ایک سے دوسرے کے دعویٰ پر قسم لی جائے گی اور جب دونوں نے قسم کھالی تو امام اعظم کے نزدیک غلام مذکور ہر ایک کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعایت کرے گا اور امام اعظم کے نزدیک حالت تنگ دستی و خوشحالی میں کوئی فرق نہ ہوگا کذا فی البدائع اور یہی صحیح ہے کذا فی المصمورات اور اس کی ولاء ان دونوں کے واسطے ہوگی یہ ہدایہ میں ہے اور اگر دونوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے اس کو ایک ساتھ آزاد کیا ہے یا آگے پیچھے آزاد کیا ہے تو واجب ہے کہ دونوں میں سے کوئی دوسرے کے واسطے ضامن نہ ہو بشرطیکہ دونوں موسر ہوں اور غلام بھی سعایت نہ کرے گا اور اگر دونوں میں سے ایک نے اعتراف کیا اور دوسرے نے انکار کیا تو واجب ہے کہ منکر سے قسم لی جائے یہ فتح القدر میں ہے اور اگر ایک غلام تین نفر کے درمیان مشترک ہو جن میں سے دو نفر نے تیسرے پر یہ گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے اور اس تیسرے نے جس پر گواہی دی گئی ہے انکار کیا تو غلام مذکور ان تینوں کے واسطے سعایت کرے گا جو باہم ان میں تین تہائی مشترک ہوگی اور اگر کسی نے غلام کی سعایت میں سے کچھ وصول کیا تو باقی دو کو اختیار ہوگا کہ اس میں سے اپنا دو تہائی حصہ اس سے واپس کریں جو باہم نصف تقسیم کر لیں گے یہ محیط میں ہے اور اگر شریک تین ہوں پس ہر دو نے تیسرے پر گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو گواہی نامقبول ہوگی یہ فتح القدر میں ہے۔ اگر تین شریکوں میں سے ایک نے باقی دونوں میں سے ایک پر گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اور شریک دیگر نے شاہد اول پر گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو قاضی دونوں میں سے کسی پر آزاد کرنے کا حکم نہ دے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر شریکوں میں سے دو شریکوں نے تیسرے پر گواہی دی:

اگر (تین شریکوں میں سے) دو شریکوں نے تیسرے پر یہ گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ سعایت غلام سے وصول پایا ہے تو دونوں کی گواہی جائز نہ ہوگی اور اسی طرح اگر یہ گواہی دی کہ اس نے سب مال ہم دونوں سے وکیل ہو کر غلام سے وصول کیا ہے تو دونوں کی گواہی اس پر جائز نہ ہوگی لیکن غلام ان دونوں کے حصہ سعایت سے بری ہو جائے گا اور جس شریک پر گواہی دی ہے وہ اپنا حصہ غلام سے وصول کرے گا اور اس میں باقی دونوں شریک جنہوں نے گواہی دی تھی بٹائی کی شرکت نہیں کر سکتے ہیں یہ مبسوط میں ہے۔ زید و عمرو کے درمیان ایک باندی مشترک ہے پھر دو گواہوں نے ان دونوں میں سے خاص ایک پر زید یا عمرو پر یہ گواہی دی کہ اس نے باندی کو آزاد کیا ہے اور باندی نے اس کی تکذیب کی مگر باندی نے دوسرے شریک پر دعویٰ کیا کہ اس نے آزاد کیا ہے مگر اس نے انکار کیا اور قاضی کے سامنے قسم کھا گیا کہ میں نے اس کو آزاد نہیں کیا ہے تو باندی مذکورہ گواہان مذکور کی گواہی سے آزاد ہو جائے گی اگرچہ باندی کی طرف سے دعویٰ نہیں پایا گیا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر زید و عمرو کے درمیان باندی مشترک ہو پھر ان دونوں میں سے ایک کے دو بیٹوں نے دوسرے شریک پر گواہی دی کہ اس نے اس باندی کو آزاد کیا ہے تو دونوں کی گواہی باطل ہوگی اور اگر دونوں نے اپنے باپ پر گواہی دی کہ اس نے آزاد کیا ہے تو گواہی جائز ہوگی پس اگر ان گواہوں کا باپ موسر یعنی خوشحال ہو پھر باندی مذکورہ مرگئی اور اس نے کچھ مال چھوڑا اور حال یہ ہے کہ بعد حق کے اس کے ایک بچہ بھی ہوا ہے پھر شریک نے چاہا کہ اس بچہ سے سعایت کرادے تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے جیسے اس بچہ کی ماں کی زندگی میں تھا کہ اس کو اس بچہ سے سعایت کرانے کی کوئی راہ نہ تھی ایسے ہی بعد موت اس کی ماں کے بھی یہی رہے گا در صورتیکہ اس کی ماں نے مال چھوڑا ہے لیکن اس کو یہ اختیار ہوگا کہ اپنے شریک موسر سے تاوان لے جیسے کہ باندی کی زندگی میں یہ اختیار تھا پھر شریک ضامن جو کچھ تاوان دے گا وہ اس باندی کے ترکہ میں سے لے لے گا جیسے اس کی زندگی کی صورت میں بھی واپس لے سکتا تھا پھر جو کچھ مال اس کے ترکہ میں سے باقی رہے گا وہ اس کے پسر کی میراث ہوگا اور اگر باندی مذکورہ نے کچھ مال نہ چھوڑا ہو تو شریک ضامن مال تاوان کو اس کے پسر سے لے لے گا اور اگر باندی مذکورہ مری نہ ہو اور شریک نے یہ اختیار کیا کہ باندی مذکورہ سے سعایت کرادے تو اس سعایت میں یہ باندی بمنزلہ مکاتبہ کے ہوگی یہ مبسوط میں ہے۔

اگر گواہوں نے شریک (خواہ تنہا ہو) پر یوں گواہی دی کہ اس نے یوں اقرار کیا ہے کہ بائع اس

غلام کو مدبر کر چکا ہے:

اگر غلام دو مردوں میں مشترک ہو پھر دو گواہوں نے ان میں سے ایک معین شریک پر گواہی دی کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے اس غلام کو آزاد کیا ہے اور یہ شریک موسر ہے تو قاضی اس غلام کے آزاد ہونے کا حکم دے گا اور اس کے شریک کو یہ اختیار ہوگا کہ اپنے حصہ کی بابت اس سے تاوان لے یہ محیط میں ہے۔ مگر شریک ضامن اس مال تاوان کو غلام سے واپس لے گا اور غلام کی پوری ولاء اسی کی ہوگی اگرچہ وہ اپنا حصہ آزاد کرنے سے منکر ہوا ہو یہ مبسوط میں ہے اور اگر گواہوں نے شریک معین پر یوں گواہی دی ہو کہ اس نے یہ اقرار کیا ہے کہ یہ غلام حر الاصل (اصلی آزاد) ہے تو قاضی اس کی آزادی کا حکم دے گا مگر مقرر مذکور کی ولاء اس آزاد شدہ پر ثابت نہ ہوگی اور شریک دیگر کو اس مقرر سے تاوان لینے کا اختیار حاصل نہ ہوگا اور اگر گواہوں نے یہ گواہی دی کہ اس نے یہ اقرار کیا ہے کہ جس نے اس کو فروخت کیا تھا اس نے قبل فروخت کے اس کو آزاد کیا تھا تو یہ غلام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے

آزاد ہو جائے گا یہ محیط میں ہے۔ اس کی ولاء موقوف رہے گی اس واسطے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو اس کی اپنی ذات سے دور کرتا ہے اس لئے کہ بائع کہتا ہے کہ میں نے اس کو آزاد نہیں کیا تھا بلکہ مشتری کے اقرار سے آزاد ہوا ہے پس اس کی ولاء مشتری کی ہوگی اور مشتری کہتا ہے کہ بائع نے اس کو آزاد کیا پس ولاء اس کی ہوگی لہذا اس کی ولاء توقف میں رہے گی یہاں تک کہ دونوں میں سے کوئی دوسرے کی تصدیق کی طرف رجوع کرے پس ولاء اس کی ہو جائے گی اور اگر گواہوں نے شریک (خواہ شریک ہو یا تنہا ہو یہ جواب بہر حال جاری ہے) پر یوں گواہی دی کہ اس نے یوں اقرار کیا ہے کہ بائع اس غلام کو مدبر کر چکا ہے یا باندی تھی کہ اس کی نسبت یوں اقرار کیا ہے کہ بائع اس کو قبل بیع کے ام ولد بنا چکا ہے تو خواہ غلام ہو یا باندی ہو اس کی ملک سے خارج ہو جائے گا اور وہ بائع سے اپنا شمس واپس نہیں لے سکتا ہے اور ان دونوں مملوکوں میں سے کوئی آزاد نہ ہوگا یہاں تک کہ بائع مر جائے پھر جب بائع مر گیا تو دونوں (یعنی باندی مرد غلام) آزاد ہو جائیں گے بشرطیکہ مدبر اس کے تہائی مال سے برآمد ہوتا ہو اور اگر ان دونوں پر کسی نے جنایت کی تو ایسی ہے جیسے مملوک پر جنایت کی یہ اس وقت تک ہے کہ جب تک بائع زندہ رہے اور امام اعظم کے نزدیک ان دونوں کی جنایت موقوف رہے گی یہ مبسوط میں ہے۔

اگر دونوں شریکوں میں سے ایک نے اقرار (نانذکاً) کیا کہ میرے حلق شریک نے حلق (غلام) کا ناذکاً اقرار کیا ہے تو اس پر حرام ہوگا کہ پھر غلام سے خدمات غلامی لے یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اگر غلام تین آدمیوں میں مشترک ہو جن میں سے ایک غائب ہو گیا پھر دو حاضروں نے اس غائب پر گواہی دی کہ اس نے اس غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے تو ان دونوں حاضرین اور غلاموں کے درمیان روک کر دی جائے گی پھر جب غائب مذکور آجائے گا تو غلام سے کہا جائے گا کہ اپنے گواہوں کا اعادہ کرے پھر جب اس نے اپنے گواہ بمقابلہ غائب مذکور کے اس پر قائم کئے تو غائب کے حصہ کے آزاد ہونے کا حکم دیا جائے گا یہ محیط میں ہے اور اگر دو گواہوں نے دو شریکوں میں سے ایک شریک پر یہ گواہی دی کہ اس کے شریک غائب نے اس غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو امام اعظم کے نزدیک ایسی گواہی قبول نہ ہوگی کذا فی الظہیریۃ لیکن غلام اور اس شریک کے درمیان روک کر دی جائے گی تا کہ اس سے خدمات غلامی نہ لے سکے یہاں تک کہ شریک غائب حاضر آئے اور یہ استحسان ہے پھر جب غائب مذکور حاضر ہوگا تو اس پر گواہی کا اعادہ کرنا ضروری ہے تا کہ حکم آزادی ثابت ہو اور اگر دونوں شریک غائب ہوں پھر دونوں میں سے ایک معین شریک پر گواہ قائم ہوئے کہ اس نے اپنا حصہ اس غلام میں سے آزاد کیا ہے تو بدون اس کے کہ کوئی خصومت از قبیل قذف (یعنی غلام پر سی نے قذف کا دعویٰ کیا ۱۲) و جنایت وغیرہ کسی وجہ سے ہو ایسی گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر اس قبیل سے کوئی خصومت پائی گئی تو ایسی گواہی مقبول ہوگی جبکہ گواہوں نے یہ گواہی دی کہ اس کے ہر دو مولاؤں نے اس کو آزاد کر دیا ہے یا دونوں میں سے ایک نے اس کو آزاد کیا اور دوسرے نے اس سے اپنا حصہ سعایت وصول کر لیا ہے یہ مبسوط میں ہے اور اگر ایک غلام تین شریکوں میں مشترک ہو کہ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنا حصہ ہزار درہم پر آزاد کیا ہے اور غلام نے کہا کہ اس نے مفت آزاد کیا ہے اور باقی دو شریکوں نے گواہی دی کہ اس نے ہزار درہم پر آزاد کیا ہے تو ان کی گواہی جائز ہوگی اور اسی طرح اگر ہر دو شریک کے باپوں یا بیٹوں نے ایسی گواہی دی تو بھی جائز ہے۔ اگر ان شریکوں میں سے بعض نے غلام مشترک کو آزاد کیا اور اس غلام کے قبضہ میں بہت مال ہے جس کو اس نے خود کمایا ہے مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کب (یعنی قبل حلق کے یا بعد حلق کے) کمایا ہے (قال ظاہر آنکہ قسم سے قول قبول ہوگا واللہ اعلم) اور اس مال کی بابت شریکوں اور غلام میں جھگڑا ہوا چنانچہ شریکوں نے کہا کہ اس نے یہ مال قبل حلق کے کمایا ہے اور غلام نے کہا کہ میں نے بعد حلق کے کمایا ہے تو قول غلام کا قبول ہوگا یہ محیط میں ہے۔

دو غلاموں میں سے ایک کے عتق کے بیان میں

قال المترجم یعدیٰ طرح کہ ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے بدون تعین کے فافہم جب مجہول کی طرف عتق مضاف کیا جائے تو صحیح ہے اور مولیٰ کے واسطے اختیار تعین حاصل ہوگا جس کو چاہے معین کرے خواہ اس نے یوں کہا ہو کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے یا یوں کہا ہو کہ آزاد یا وہ آزاد ہے یا اس نے نام لیا ہو کہ سالم آزاد ہے یا غانم یا ایضاح میں ہے اور اگر یوں کہا کہ یہ آزاد ہے ورنہ وہ تو یہ کہنا مثل اس قول کے ہے کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے یہ خزانۃ المفتیین میں ہے اور اگر دونوں غلاموں نے حاکم کے پاس نالش کی تو مولیٰ کو حاکم مذکور بیان کرنے پر مجبور کرے گا یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر دونوں نے حاکم کے پاس نالش کی تو مولیٰ نے دونوں میں سے ایک کا عتق بطور تعین اختیار کر لیا تو اختیار کرتے ہی اس پر عتق واقع ہوگا اور قبل اس طرح اختیار کرنے کے جب تک خیار مولیٰ باقی رہے گا تب تک وہ مثل (یعنی احکام میں) دو غلاموں کے ہوں گے اور یہ بنا بر اصل امام اعظم و امام ابو یوسف کے ہے یہ سراج دہاج میں ہے اور قبل اختیار کرنے کے مولیٰ کو روا ہے کہ ان دونوں سے خدمت لے اور نیز روا ہے کہ دونوں کو کرایہ پردے یا ان سے کمائی کرائے اور کرایہ و کمائی مولیٰ کی ہوگی اور اگر قبل اختیار مولیٰ کے ان دونوں پر جنایت کی گئی پس اگر جنایت از جانب مولیٰ ہو پس اگر قتل نفس سے کم ہو مثلاً اس نے غلاموں کے ہاتھ کو قطع کیا تو مولیٰ پر کچھ واجب نہ ہوگا خواہ دونوں کا ہاتھ ایک ساتھ کاٹا ہو یا آگے پیچھے اور اگر جنایت قتل نفس ہو بس اگر مولیٰ نے آگے پیچھے دونوں کو قتل کیا تو پہلا غلام ہوگا یعنی اس نے غلام کو قتل کیا اور دوسرا آزاد ہونے کے واسطے متعین ہو گیا پھر جب اس کو قتل کیا تو آزاد کو قتل کیا پس مولیٰ پر دیت واجب ہوگی جو وارثان غلام کو ملے گی اور مولیٰ کو اس میں سے کچھ نہ ملے گا اور اگر دونوں کو ایک ساتھ ایک ضرب واحد سے قتل کیا تو مولیٰ پر واجب ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک کے وارثوں کو اس کی نصف دیت دیدے اور اگر جنایت از جانب اجنبی ہو پس اگر قتل نفس سے کم ہو مثلاً کسی اجنبی نے ہر ایک غلام کا ہاتھ کاٹ ڈالا تو اس اجنبی پر غلام کے ہاتھ کا ارش واجب ہوگا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کی نصف قیمت اور یہ ارش ان کے مولیٰ کا ہوگا خواہ اجنبی مذکور نے آگے پیچھے قطع کیا ہو یا ایک ساتھ کاٹا ہو اور اگر جنایت قتل نفس ہو تو قاتل یا ایک ہوگا یا دو ہوں گے پس اگر قاتل ایک ہو تو اگر اس نے معاد دونوں کو قتل کیا تو قاتل پر دونوں میں سے ہر ایک کی نصف قیمت واجب ہوگی اور یہ مولیٰ کی ہوگی اور نیز قاتل پر ہر ایک کی نصف دیت واجب ہوگی اور یہ دونوں کے وارثوں کی ہوگی اور اگر قاتل نے دونوں کے آگے پیچھے قتل کیا تو قاتل پر اول مقتول کی قیمت اس کے مولیٰ کے واسطے واجب ہوگی اور دوسرے مقتول کی دیت اس کے وارثوں کے واسطے واجب ہوگی۔ اور اگر قاتل دو ہوں اور ہر ایک نے ایک ایک کو قتل کیا پس اگر ہر ایک کا قتل کرنا ایک ساتھ واقع ہو تو ہر ایک قاتل پر قیمت کامل واجب جس میں سے نصف وارثان مقتولان کو اور نصف مولا نے مقتولان کی ہوگی اور اگر قاتلوں کا قتل کرنا آگے پیچھے واقع ہو تو قاتل اول پر اپنے مقتول کی قیمت کامل اس کے مولیٰ کے واسطے واجب ہوگی اور قاتل دوم پر اپنے مقتول کی دیت اس کے وارثوں کے واسطے واجب ہوگی یہ بدائع میں ہے۔

اگر مولیٰ کے اختیار کرنے سے پہلے دونوں باندیوں سے شبہ میں وطی کی گئی تو دونوں باندیوں کا

عقر واجب ہوگا:

اگر اس نے اپنی دو باندیوں سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک حرہ ہے پھر دونوں میں سے ہر ایک کے ایک بچہ پیدا ہو یا دونوں میں سے ایک کے ایک بچہ پیدا ہو تو جس باندی کا عتق مولیٰ اختیار کرے گا اس کا بچہ آزاد ہوگا اور اگر دونوں باندیاں ایک ساتھ مر گئیں یا دونوں ایک ساتھ قتل کی گئیں تو مولیٰ کو اختیار ہوگا کہ ان بچوں میں سے جس کے حق میں چاہے عتق اختیار کر کے واقع کرے مگر جس بچہ کو عتق کے واسطے متعین کرے گا اس کو اپنی مادر مقتول کے جرم قتل کے معاوضہ میں سے کچھ ارث نہ ملے گا یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر دونوں باندیوں کی زندگی میں ایک کا بچہ مر گیا تو اس پر التفات نہ کیا جائے گا۔ بخلاف اس کے اگر دونوں باندیوں کی موت کے بعد کسی کا بچہ مر گیا تو التفات ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر مولیٰ کے اختیار کرنے سے پہلے دونوں باندیوں سے شبہ میں وطی کی گئی تو دونوں باندیوں کا عقر^(۱) واجب ہوگا اور یہ دونوں عقر مولیٰ کو ملیں گے یہ بدائع میں ہے اور اگر مولیٰ کے اختیار کرنے سے پہلے ان میں سے ایک باندی نے کوئی جنایت کی پھر مولیٰ نے جنایت کا حال معلوم کرنے کے بعد اسی باندی پر عتق واقع کرنا اختیار کیا تو مولیٰ اس جنایت کا اختیار^(۲) کرنے والا ہوگا اور اگر قبل بیان کے مولیٰ مر گیا تو ہر ایک باندی میں سے اس کا نصف آزاد ہو جائے گا اور ہر ایک اپنی نصف قیمت کے لیے مولیٰ کے وارثوں کے واسطے سعایت کرے گی اور جس باندی نے جنایت کی ہے مولیٰ پر اپنے مال سے اس کی قیمت واجب ہوگی جیسے کہ اگر اس نے جنایت کا حال معلوم ہونے سے پہلے اسی کو آزاد کر دیا جس نے جنایت کی ہے تو یہی حکم ہے یہ مبسوط میں ہے اور اگر دونوں کو اس نے ایک ہی صفحہ میں بیع کر دیا تو یہ بیع دونوں کی باطل ہوگی یہ ایضاً میں ہے اور اگر دونوں کو ایک ہی صفحہ میں بیع کر دیا اور دونوں کو مشتری کے سپرد کر دیا یا پھر دونوں کو مشتری نے آزاد کیا تو بائع بیان پر مجبور کیا جائے گا کہ کس کو اس نے مراد لیا ہے پھر جب بائع نے دونوں میں سے کسی ایک میں عتق کو معین کیا تو ملک فاسد دوسرے کے حق میں متعین ہوگی اور دوسرا مشتری کی طرف سے بقیہ آزاد ہوگا اور اگر بائع مذکور قبل بیان کرنے کے مر گیا تو اس کے وارثوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ بیان کرو جب انہوں نے کسی ایک کو عتق کے واسطے متعین کیا تو دوسرا مشتری کی طرف سے بقیہ آزاد ہو جائے گا اور دونوں غلاموں میں عتق شائع نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر مشتری نے آزاد نہ کیا یہاں تک کہ بائع مر گیا تو عتق دونوں میں منقسم ہوگا یہاں تک کہ قاضی بیع فسخ کر دے پھر جب بیع کو فسخ کر دیا تو عتق منقسم ہوگا اور دونوں میں سے نصف نصف آزاد ہو جائے گا اور اگر مالک نے قبل اختیار کرنے کے کہ کون دونوں میں سے آزاد ہونے کے واسطے متعین ہوا ہے اس نے دونوں کو ہبہ کیا یا صدقہ میں دے دیا یا دونوں پر کسی عورت سے نکاح کیا تو مجبور کیا جائے گا کہ کسی ایک میں عتق اختیار کرے پس دوسرے کا ہبہ و صدقہ و مہر قرار دینا جائز ہوگا اور اگر مولیٰ کسی ایک میں عتق معین کرنے سے پہلے مر گیا تو دونوں کا ہبہ و صدقہ باطل ہو جائے گا اور مہر مقرر کرنا بھی باطل ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر دونوں کو اہل حرب یعنی کافر جو مسلمانوں سے لڑائی کرتے ہیں گرفتار کر لیے گئے تو مولیٰ کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے کسی ایک میں عتق کو متعین کرے پس دوسرا اہل حرب کی ملک (بظاہر) ہوگا اور اگر مولیٰ نے کسی ایک میں عتق معین نہ کیا یہاں تک کہ خود مر گیا تو اہل حرب کی ملکیت دونوں میں سے باطل ہوگی اس واسطے کہ حریت دونوں میں شائع ہو گئی ہے اور اگر دونوں کو کسی نے حربی سے خرید کیا تو

۱۔ مولیٰ کی موت کے بعد وارثوں سے تعین کرائی جائے گی اور یہ نہ ہوگا کہ ایک عتق دونوں میں پھیل جائے کہ جس سے ہر ایک کا نصف آزاد ہو جائے اور مشتری کا عتق و خرید صحیح نہ ہو غیر ذالک من المفاسد ۱۴۔

(۱) خواہ وطی کنندہ ایک ہو یا ہر ایک کے ساتھ علیحدہ ہو ۱۴۔ (۲) اس کا جرمانہ اپنے ذمہ لیا ۱۴۔

مولیٰ کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے جس میں چاہے عتق کو معین کرے پس دوسرے کو مشتری مذکور اس کے حصہ ثمن کے عوض لے لے گا۔

اگر اپنی دو باندیوں سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک حرہ ہو پھر اس نے ان دونوں میں سے ایک سے وطی کی اور وہ حامل نہ ہوئی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسری آزاد نہ ہو جائے گی:

اگر اہل حرب سے کسی نے ایک کو خرید کیا اور مولیٰ نے اسی کا عتق اختیار کیا تو آزاد ہو جائے گا اور خرید باطل ہو جائیگی اور اگر مولیٰ نے اس کو جس کو خرید کیا ہے ثمن کے عوض خرید لیا تو دوسرا آزاد ہو جائیگا اور اگر اہل حرب نے ایک کو قید کیا تو آزاد نہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر مولیٰ نے ایک کو کافر سے خرید کیا تو دوسرا آزاد ہوگا یہ خزانہ المفتین میں ہے۔ ایک شخص نے اپنی صحت میں دو مملوک سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے پھر وہ مرض الموت میں گرفتار ہوا پھر اس نے عتق کو ان میں سے ایک کی طرف راجع کیا تو یہی غلام مولیٰ کے تمام مال سے آزاد ہو جائے گا اگرچہ اس کی قیمت تہائی مال مولیٰ سے زائد ہو یہ شرح طحاوی میں ہے۔ بیان تین طرح کا ہوتا ہے۔ نص و دلالت و ضرورت۔ نص کی مثال یہ ہے کہ مولیٰ نے ایک معین سے کہا کہ میں نے تجھے مراد لیا یا نیت کی یا ارادہ کیا تھا اس لفظ سے جو میں نے ذکر کیا تھا یا میں نے اختیار کیا یا کہا کہ تو حر ہے اس لفظ سے جو میں نے کہا تھا یا اس لفظ سے جو میں نے ذکر کیا تھا یا اس اعتاق سے یا میں نے عتق سابق سے تجھے آزاد کیا ہے اور مثل اس کے اور الفاظ جو اس معنی میں ہوں اور اگر یوں کہا کہ تو حر ہے یا میں نے تجھے آزاد کیا اور یہ نہ کہا کہ لفظ مذکور یا عتق سابق پس اگر اس سے عتق جدید مراد لیا ہے تو دونوں آزاد ہو جائیں گے یہ غلام بسبب عتق جدید کے اور وہ سبب لفظ سابق کے اور اگر اس نے کہا کہ میں نے جدید عتق مراد نہیں لیا بلکہ وہی مراد لیا جو مجھ پر بسبب میرے قول (تم میں سے ایک حر ہے) کے لازم آیا ہے تو قضاء بھی اس کی تصدیق ہوگی اور اس کا قول کہ میں نے تجھے آزاد کیا اس پر محمول ہوگا کہ اس نے عتق اختیار کیا یعنی گویا یوں کہا کہ میں نے تیرا عتق اختیار کیا اور دلالت کی صورت یہ ہے کہ مولیٰ دونوں میں سے ایک کو اپنی ملک سے نکال دے بسبب بیع کے یا بایں طور کہ دونوں میں سے ایک کو رہن کر دے یا ایک کو اجارہ دیدے یا مکاتب کر دے یا مدبر کر دے یا باندی ہو اور اس کو ام ولد بنا دے یہ بدائع میں ہے۔ اور اگر دونوں میں سے ایک کو فروخت کیا بطور قطعی یا اپنے واسطے خیار کی شرط کر کے فروخت کیا یا مشتری کے واسطے خیار کی شرط کر کے فروخت کیا یا بطور بیع فاسد فروخت کیا خواہ اس پر نہیں کیا یا سپرد کر دیا یا چکا یا ایک کے دینے کی وصیت کر دی یا ایک پر نکاح کر دیا یا ایک ^(۱) آزادی پر قسم کھائی تو یہ سب دوسرے کے حق میں عتق کا اختیار کرنا ہے بطور دلالت یہ محیط میں ہے اور اگر اپنی دو باندیوں سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک حرہ ہے پھر اس نے ان دونوں میں سے ایک سے وطی کی اور وہ حامل نہ ہوئی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسری آزاد ^(۲) نہ ہو جائے گی اور اگر وہ حامل ہوگئی تو دوسری بالاتفاق آزاد ہو جائیگی یہ فتح القدیر میں ہے۔ ان دونوں سے اس کو وطی کرنا امام علیہ الرحمۃ کے مذہب کے موافق حلال ہے مگر اس کا فتویٰ نہ دیا جائے گا (احتیاطاً) یہ ہدایہ میں ہے۔

اگر کسی نے اپنی دو باندیوں سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے پھر اس نے ایک سے خدمت لی تو یہ امر بالاتفاق سب ^(۳) کے نزدیک اختیار نہیں ہے یہ ظہیر یہ میں ہے اور بیان بضرورت کی یہ صورت ہے کہ مثلاً قبل اختیار کرنے کے دونوں میں

(۱) مثلاً کہا جائے کہ اگر میں شراب پیوں تو میرا یہ غلام آزاد ہے۔ (۲) متعین نہ ہوگی۔ (۳) جس سے خدمت لی اس کے سوائے دوسری کا عتق

سے ایک مر گیا تو یہ ضرورت دوسرا آزاد ہو جائے گا اور اسی طرح اگر دونوں میں سے ایک قتل کیا گیا خواہ اس کو مولیٰ نے قتل کیا یا کسی دوسرے نے اس کو قتل کیا یہی حکم ہے فرق اس قدر ہے اگر مولیٰ نے قتل کیا ہو تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا اور اگر اجنبی نے قتل کیا تو اس پر غلام مقتول کی قیمت مولیٰ کے واسطے واجب ہوگی اور اگر ایسی صورت میں مولیٰ نے مقتول کا عتق اختیار کیا تو زندہ سے عتق مرتفع نہ ہوگا بلکہ وہ ضرور آزاد ہوگا لیکن مقتول کی قیمت اس صورت میں مقتول کے وارثوں کو ملے گی اور اگر دونوں میں سے ایک کا ہاتھ کاٹا گیا تو دوسرا آزاد نہ ہوگا خواہ مولیٰ نے اس کا ہاتھ کاٹا ہو یا کسی اجنبی نے قطع کیا ہو اور اگر اجنبی نے ان میں سے ایک کا ہاتھ کاٹ ڈالا پھر مولیٰ نے عتق کو بیان کیا پس اگر جس پر جنایت واقع ہوئی ہے اس کے سوائے دوسرے کے حق میں عتق اختیار کیا تو بلاشبہ ارش جنایت مولیٰ کو ملے گا اور اگر اس نے اس غلام کا عتق اختیار کیا جس پر جنایت واقع ہوئی ہو تو قدری نے اپنی شرح میں ذکر کیا کہ اس صورت میں بھی ارش جنایت مولیٰ کا ہوگا اور جس پر جنایت واقع ہوئی ہو اس کو کچھ ارش نہ ملے گا اور قاضی نے شرح مختصر الطحاوی میں ذکر کیا ہے کہ ارش^(۱) اس غلام کا ہوگا جس پر جنایت واقع ہوئی ہے اور ایسا ہی قاضی نے در صورتیکہ مولیٰ نے خود ہاتھ کاٹا اور عتق اسی غلام کا جس پر جنایت واقع ہوئی اختیار کیا ہے بیان فرمایا کہ آزاد آدمیوں کے ہاتھ کاٹنے کا ارش جس قدر ہوتا ہے وہ واجب ہوگا اور وہ سب غلام کو ملے گا^(۲) اور اگر غیر مجنبی علیہ یعنی دوسرے غلام کا عتق اختیار کیا تو مولیٰ پر کچھ واجب نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے۔ ابن سماعہ نے امام حمد سے روایت کی کہ اگر دو غلاموں کی نسبت مولیٰ نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک میرا بیٹا ہے یا دو باندیوں کی نسبت کہا کہ ان دونوں میں سے ایک میری ام ولد ہے پھر دونوں میں سے ایک آدمی مر گیا تو جو باقی ہے وہ حریت یا استیلا د کے واسطے متعین نہیں ہو جائیگا۔ یہ ایضاً میں ہے۔

اگر کسی شخص کے تین غلام ہوں پس اس نے کہا کہ آزاد ہے اور یا تو اول آزاد ہو جائے گا :

اگر مولیٰ نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے حالانکہ ایک غلام کے سوائے اس کا کوئی غلام نہیں ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا پھر اگر مولیٰ نے کہا کہ میرا ایک اور غلام ہے اور میں نے اسی کو مراد لیا تھا تو قضاء اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ وہ گواہ قائم کرے کہ میرا دوسرا غلام بھی ہے اور ما بینہ و بین اللہ تعالیٰ عز وجل اس کی تصدیق ہوگی یہ بدائع میں ہے اور اگر مولیٰ نے کہا کہ میرے غلام میں کا ایک آزاد ہے یا میرے غلاموں میں کا ایک آزاد ہے حالانکہ ایک غلام کے سوائے اس کا کوئی غلام نہیں ہے تو یہی غلام آزاد ہو جائے گا یہ مبسوط میں ہے اور اگر مولیٰ نے اپنے دو غلاموں سے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے پس اس سے کہا گیا کہ تو نے ان میں سے کس کو مراد لیا ہے پس اس نے کہا کہ میں نے اس غلام کو مراد نہیں لیا ہے تو دوسرا غلام آزاد ہو جائے گا پھر اگر اس کے بعد اس نے اس دوسرے کی نسبت بھی کہا کہ میں نے اس کو مراد نہیں لیا تھا تو پہلا بھی آزاد ہو جائے گا یہ اختیار شرح مختار میں ہے۔ اور اگر کسی شخص کے تین غلام ہوں پس اس نے کہا کہ ہ غلام آزاد ہے اور یا یہ اور یہ تو تیسرا آزاد ہو جائے گا اور اول دونوں کی نسبت اس کو بیان کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ ان میں سے کسی کی نسبت عتق اختیار کرے اور اگر یوں کہا کہ یہ آزاد ہے اور یہ یا یہ تو اول آزاد ہو جائے گا اور پچھلے دونوں کی نسبت اس کو بیان کرنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر ایک غلام ایک آزاد کے ساتھ مخلط ہو گیا مثلاً ایک شخص کا ایک غلام تھا کہ وہ ایک آزاد کے ساتھ مخلط ہو گیا پھر دونوں میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور مولیٰ کہتا

۱۔ قولہ مخلط ہو گیا اس کی بہت صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً زید نے اندھیری رات میں دو غلاموں کو کوٹھری میں بند کر کے پھر دیر کے بعد ایک کا ہاتھ پکڑ کے اس کو آزاد کر دیا اور بعد چھوڑ کر چلا گیا پھر صبح کو ہر ایک مدعی ہوا کہ میرا ہاتھ پکڑا تھا۔

(۱) جس کا عتق مولیٰ نے اختیار کیا ہے۔ (۲) تمہ قولہ قاضی علیہ الرحمہ۔

ہے کہ تم میں سے ایک میرا غلام ہے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قسم لے تا وقتیکہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ آزاد ہے پس اگر مولیٰ نے ایک کی نسبت قسم کھالی اور دوسرے کی نسبت قسم سے انکار کیا تو جس کی نسبت قسم سے انکار کیا وہ آزاد ہوگا نہ دوسرا اور اگر اس ان دونوں کی نسبت قسم سے انکار کیا تو دونوں حر ہیں اور اگر دونوں کی نسبت قسم کھالی تو امر مختلف ہو گیا پس قاضی باحتیاط حکم کرے گا کہ دونوں میں سے ہر ایک کا نصف مفت آزاد کرے گا اور نصف بعوض نصف قیمت کے آزاد کرے گا (حکم دے گا) اور اسی طرح اگر تین غلام ہوں تو ان تینوں میں سے ہر ایک میں سے تہائی آزاد ہوگا اور ہر ایک اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اسی طرح اگر دس ہوں تو ان میں بھی یہی اعتبار ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر اپنے غلام کے ساتھ ایسی چیز جمع کی جس پر حقیق ہی واقع نہیں ہوتا ہے جیسے چوپایہ و دیوار وغیرہ اور کہا کہ میرا غلام آزاد ہے یا یہ چیز یا کہا کہ ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا غلام آزاد ہو جائے گا یہ محیط میں ہے۔

خواہ اس نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو یہ بدائع میں ہے اور اگر اپنے غلام اور غیر کے غلام دونوں سے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے تو بالاجماع اس کا غلام آزاد نہ ہو جائے گا الا اس صورت میں کہ اس کی نیت میں اپنے غلام کا حقیق ہو اور اسی طرح اگر باندی زندہ و باندی مردہ میں جمع کر کے یوں کہا کہ تو آزاد ہے یا یہ یا یوں کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو اس کی باندی آزاد نہ ہوگی اور اگر اپنے غلام و آزاد کے درمیان جمع کر کے یوں کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو اس کا غلام آزاد نہ ہو جائے گا الا اس صورت میں کہ نیت ہو یہ سراج و ہاج میں ہے۔ فتاویٰ اہل سمرقند میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ میرے مملوکوں میں سے ایک باندی اور ایک غلام آزاد ہے اور اس نے بیان نہ کیا (کہ کس کو مراد لیا ہے) یہاں تک کہ مر گیا اور اس کے دو غلام اور ایک باندی ہے تو باندی آزاد ہو جائیگی اور ہر دو غلام میں سے ہر ایک کا نصف حصہ آزاد ہو جائے گا اور ہر ایک اپنے باقی نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کے تین غلام اور ایک باندی ہو تو باندی آزاد ہو جائیگی اور غلاموں میں سے ہر ایک میں سے ایک تہائی آزاد ہوگا اور ہر ایک اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کے تین غلام اور تین باندیاں ہوں تو ہر ایک باندی اور ہر ایک غلام میں سے اس کا تہائی حصہ آزاد ہو جائے گا اور ہر ایک اپنے باقی کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کے تین غلام اور دو باندیاں ہوں تو ہر باندی میں سے نصف آزاد ہوگی اور باقی نصف کے واسطے ہر ایک سعایت کرے گی اور ہر غلام میں سے ایک تہائی آزاد ہو جائے گا اور باقی دو تہائی کے واسطے ہر ایک سعایت کرے گا اور اسی قیاس پر اس جنس کے مسائل کو بھی استخراج کرنا چاہئے یہ محیط میں ہے اور اگر اس نے اپنے دو غلاموں سے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے حالانکہ اس کی نیت میں کوئی معین نہیں ہے۔ پھر قبل بیان کے مر گیا تو ہر ایک میں سے نصف آزاد ہو جائے گا اور ہر ایک اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا یہ بدائع میں ہے اور مولیٰ کا وارث بیان کے حق میں قائم مقام مولیٰ کا نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔ ایک مرد کے تین غلام ہیں ان میں سے دو غلام اس کے روبرو گئے پس اس نے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے پھر ان دونوں میں سے ایک باہر نکل آیا اور تیسرا غلام داخل ہوا پس اس نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو جب تک مولیٰ زندہ ہے اس کو بیان کرنے کا حکم دیا جائے گا پس اگر بیان کیا اور کہا کہ میں نے کلام اول سے وہ غلام مراد لیا تھا جو اندر رہ گیا تھا تو وہی آزاد ہو جائے گا اور دوسرا کلام باطل ہو گیا اور اگر اس نے کہا کہ میں نے کلام اول سے اس کا حقیق مراد لیا تھا جو باہر نکل آیا تھا تو کلام اول سے وہ غلام آزاد ہو جائے گا جو باہر نکل آیا تھا پھر مولیٰ کو حکم دیا جائے گا کہ دوسرے کلام کی مراد بیان کرے اور یہ اس وقت ہے کہ اس نے پہلے کلام کی مراد بیان کرنے سے شروع کیا ہو اور اگر دوسرے کلام کی مراد بیان کرنی شروع کی اور کہا کہ میں نے دوسرے کلام سے اس غلام کا حقیق مراد لیا تھا جو اندر رہ گیا تھا تو کلام اول سے وہ غلام

آزاد ہو جائے گا جو باہر نکل آیا تھا اور ایجاب اول باطل نہ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ میں نے دوسرے کلام سے وہ غلام مراد لیا ہے جو اندر داخل ہوا ہے تو جو داخل ہوا ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور کلام اول کے بیان کے واسطے حکم دیا جائے گا اور اگر مولیٰ نے کچھ بیان نہ کیا اور ان میں سے ایک مرگیا تو موت بھی بیان ہے پس اگر نکل آنے والا مراد ہو تو جو اندر رہ گیا ہے وہ با ایجاب اول آزاد ہو جائے گا اور دوسرا ایجاب باطل ہو جائے گا اور اگر وہ غلام مرگیا جو اندر رہ گیا ہے تو باہر نکلنے والا با ایجاب اول آزاد ہو جائے گا اور داخل ہونے والا با ایجاب دوم آزاد ہو جائے گا اور اگر وہ غلام مرگیا جو پیچھے داخل ہوا ہے تو ایجاب اول کے حق میں وہ مختار کیا جائے گا پس اگر اس نے باہر نکلنے والے کو مراد لیا تو جو اندر رہ گیا ہے وہ با ایجاب دوم آزاد ہو جائے گا اور اگر وہ مراد لیا جو اندر رہ گیا تو ایجاب دوم باطل ہو جائے گا اور اگر ان میں سے کوئی نہیں مرا بلکہ مولیٰ قبل بیان کے مرگیا تو حقیق ان سب میں باعتبار احوال کے شائع ہو جائے گا۔

ہر ایک شخص کے تین غلام سالم غانم و مبارک ہیں پس اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم حر ہے یا سالم و غانم دونوں حر ہیں یا سالم و غانم و مبارک سب آزاد ہیں:

باہر نکلنے والے سے نصف اور جو اندر داخل ہوا ہے اس میں سے نصف اور جو موجود رہا ہے اس میں سے تین چوتھائی آزاد ہو جائے گا اور اگر مولیٰ سے یہ فعل اس کے مرض الموت میں صادر ہو پس اگر مولیٰ کی ملک میں مال اس قدر ہو کہ اس کی تہائی سے قدر آزاد شدہ برآمد ہو یعنی ایک رقبہ کامل اور تین چوتھائی حصہ رقبہ بر بنائے قول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ و امام ابو یوسف یا اس کی تہائی سے برآمد نہ ہو لیکن اس کے وارثوں نے اجازت دے دی تو حکم یہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اور اگر مولیٰ کا کچھ مال سوائے ان غلاموں کے نہ ہو اور وارثوں نے اجازت بھی نہ دی تو بقدر تہائی کے ان سب میں بطریق مذکورہ بالا تقسیم کر دیا جائے گا اور اس کی توضیح یوں ہے کہ باہر نکلنے والے کا حق بقدر نصف کے اور داخل ہونے والے کا حق بھی اسی قدر اور جو اندر رہ گیا ہے اس کا حق بقدر تین چوتھائی کے ہے پس ایسا عدد چاہیے کہ اس کا نصف در بربع برآمد ہو اور یہ کم سے کم چار ہے پس حق خارج شونہ و سهم اور حق ثابت شونہ تین سهم اور حق داخل شونہ دو سهم پس جملہ سهام حقیق سات تک پہنچے پس مولیٰ کے تہائی مال کے سات حصے کیے جائیں گے اور جب تہائی مال کے سات حصے ہوئے تو دو تہائی مال کے چودہ حصے ہوئے اور یہی سهام سعایت ہیں اور پورے مال کے اکیس حصہ ہوئے اور یہ مقروض ہے کہ اس کا باقی یہی ترین غلام ہیں پس ہر غلام کے ساتھ حصے ہوئے پس جو غلام باہر نکل آیا تھا اس کے سات حصوں میں سے دو حصہ آزاد ہوں گے اور اپنے پانچ سهام کے واسطے سعایت کرے گا اور نیز داخل شونہ بھی دو سهام کے آزاد ہونے کے بعد اپنے پانچ سهام کے واسطے سعایت کرے گا اور جو غلام اندر رہی رہا تھا اس میں سے تین حصے آزاد ہو کر چار حصوں کے واسطے سعایت کرے گا پس سهام و صایا کا مجموعہ سات ہو اور سهام سعایت کا مجموعہ چودہ ہو پس تہائی دو تہائی ظاہر ہوا کہ ٹھیک ہے یہ کافی میں ہے۔ ایک شخص کے تین غلام سالم غانم و مبارک ہیں پس اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم حر ہے یا سالم و غانم دونوں حر ہیں یا سالم و غانم و مبارک سب آزاد ہیں پس اگر اس نے اپنے بیان میں خالی سالم پر حقیق واقع کیا تو سالم تہا آزاد ہو جائے گا اور اگر اس نے غانم پر حقیق واقع کیا تو سالم بھی اس کے ساتھ آزاد ہوگا اور اگر مبارک پر حقیق واقع کیا تو یہ سب آزاد ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر اس نے کہا ہو کہ اور نصف غانم اور تہائی مبارک آزاد ہے اس واسطے کہ اصابت کے واسطے (حاصل کرنا پالینا) ایک ہی حالت ہے اور محروم ہونے کے واسطے کئی احوال ہیں اور اگر اس نے مرض میں ایسا کہا پس اگر اس کا کچھ مال سوائے ان کے ہوئے حتیٰ کہ ایک

۱۔ قال سهام و صایا اس وجہ سے کہ مریض کا آزاد کرنا باطل ہوتا ہے لہذا بقدر ایک تہائی جو بطور وصیت دیا جاتا ہے لہذا ایسا فرمایا ۱۲۔ ۲۔ تو بھی یہی حکم ہے اس

رقبہ کامل اور پانچ چھٹے حصے ایک رقبہ کے اس کے تہائی مال سے برآمد ہوں تو حکم ایسا ہی ہے۔ اگر اس کا کچھ مال سوائے ان کے نہ ہو اور وارثوں نے اجازت دے دی تو بھی ایسا ہی حکم ہے اور اگر وارثوں نے اجازت نہ دی تو یہ غلام اس کے تہائی مال میں بقدر اپنے اپنے حقوق کے شریک کیے جائیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے تہائی مال کے چھ حصے کیے جائیں کیونکہ ہم کو نصف و تہائی کی حاجت ہے۔ پس سالم چھ کا اور غانم اس کے نصف یعنی تین (۳) کا اور مبارک اس کے تہائی یعنی دو (۲) کا شریک کیا جائے گا جس کا مجموعہ گیارہ (۱۱) ہے پس تہائی مال کے گیارہ حصے کیے جائیں گے اور باقی دو تہائی مال کے اس کے دو چند بانس حصے ہوں گے پس تمام مال کے (۳۳) حصے ہوئے اور کل مال (۳) غلام ہیں پس ہر غلام کے (۱۱) حصے ہوئے پس سالم میں سے (۶) حصے آزاد ہوں گے اور پانچ (۵) حصے کے واسطے سعایت کرے گا اور غانم میں سے تین (۳) حصے آزاد ہوں گے اور آٹھ حصوں کے واسطے سعایت کرے گا اور مبارک میں سے دو (۲) حصے آزاد ہوں گے اور (۹) حصوں کے واسطے سعایت کرے گا پس سهام و صایا کا مجموعہ (۱۱) ہو اور سهام سعایت کا مجموعہ اس کا دو چند (۲۲) پس تہائی و دو تہائی ٹھیک برآمد ہوئی اور اگر اس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم و سالم دونوں آزاد ہیں یا مبارک و سالم آزاد ہیں تو اس کو اختیار ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ عتق ان تینوں میں سے جس پر چاہے واقع کرے تو اس نے جس پر عتق واقع کیا اس ایجاب میں جو جو شامل ہوگا وہ آزاد ہو جائے گا اور اگر وہ قبل بیان مر گیا تو پورا سالم آزاد ہوگا اور باقی دونوں میں سے ہر ایک میں سے ایک تہائی آزاد ہوگا اور اگر اس نے مرض میں ایسا کہا اور حال یہ ہے کہ اس کا مال اس قدر ہے کہ ایک رقبہ اور دو تہائی رقبہ اس کے تہائی مال سے برآمد ہوتا ہے یا نہیں نکلتا ہے مگر وارثوں نے اس عتق کی اجازت دے دی تو بھی یہی حکم ہے اور اگر وارثوں نے اجازت نہ دی تو کل مال کی تہائی میں یہ سب غلام بقدر اپنے اپنے حقوق کے مشترک ہونگے پس سالم کا حق پورے رقبہ کا ہو اور غانم و مبارک ہر ایک کا حق تہائی رقبہ کا ہے اور کم سے کم ایسا عدد جس کی تہائی برآمد ہو (۳) ہے پس حق سالم (۳) ہو اور باقی ہر ایک کا حق ایک ایک ہو پس مجموعہ سهام عتق (۵) ہو پس یہ تہائی مال کے حصص ہوئے پس پورے مال کے (۱۵) حصے ہوئے پس ہر رقبہ کے (۵) حصے ہوئے از انجملہ سالم میں سے (۳) آزاد اور دو کے واسطے سعایت کرے گا اور غانم و مبارک ہر ایک میں سے ایک حصہ آزاد اور چار حصوں کے واسطے سعایت کرے گا پس سهام عتق کا مجموعہ (۵) ہو اور سهام سعایت کا مجموعہ (۱۰) ہو یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور اگر کہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم و سالم یا مبارک و سالم تو یا کے بعد ہر جگہ خبر مقدر ہوگی اور یہ سب ایجابات مختلفہ ہوں گے اور ایجابات مختلفہ میں کلمہ یا موجب تخریر ہوتا ہے پس سالم ہر حال میں آزاد ہو جائے گا اور مبارک و غانم میں سے ہر ایک ایک حال میں آزاد اور دو حال میں غیر آزاد ہوں گے پس سالم اور باقی دونوں میں سے ایک تہائی حصے آزاد ہوں گے اور بعض نے کہا کہ سالم ثانیاً مبتدأ و آخر المعطوف علیہ ہے پس وہ اس سے آزاد نہ ہوگا اور باقی دونوں بتعمین لیکن قبل عطف کے جواز عتق مانع عتق ہے اور اگر یوں کہا کہ سالم آزاد ہے یا سالم و غانم یا سالم و مبارک تو سب آزاد ہو جائیں گے اس واسطے کہ یا لغو ہو گیا بسبب اتحاد اسم و خبر کے لیکن وہ مثل سکوت کے ہے کہ مانع عطف نہیں ہے اور بعض نے فرمایا کہ جو حکم یہاں مذکور ہے وہ صاحبین کا قول ہے اور امام اعظم کے نزدیک غانم و مبارک آزاد نہ ہوں گے لیکن اول اصح ہے (یعنی بالاجماع سب کا قول ہے) اور اگر اس نے سالم و غانم سے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے یا سالم تو سالم میں سے تین چوتھائی آزاد ہوگا اور غانم سے ایک چوتھائی اور اگر کہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم یا سالم تو ہر ایک میں سے نصف نصف آزاد ہوگا اس واسطے کہ سوم عین اول ہے پس اس کا ذکر لغو ہو گیا شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

اگر اس کے دو غلام ہوں پس اس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یا سالم و غانم آزاد ہیں پھر بدون بیان کے مرگیا تو پورا سالم و نصف غانم آزاد ہو جائے گا:

ایک شخص کے چار غلام ہیں سالم، غانم، فرقد، مبارک، ان سب کی قیمت برابر ہے پس اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم و غانم آزاد ہیں یا غانم و فرقد آزاد ہیں یا فرقد و مبارک آزاد ہیں تو تینوں ایجابات صحیح ہیں پس مولیٰ کو اختیار دیا جائے گا۔ چنانچہ جس ایجاب کو اس نے اختیار کیا اس ایجاب میں جتنے شامل ہیں سب آزاد ہوں گے اور باقی باطل ہوئے اور اگر مولیٰ قبل بیان کے مرگیا تو سالم میں سے ایک تہائی حصہ آزاد ہوگا اور دو تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور یہی حال مبارک کا ہے اور رہا غانم پس وہ دو حال میں آزاد ہوگا اس واسطے کہ وہ دو ایجابوں اول و دوم میں داخل ہے پس اس میں سے دو تہائی حصہ آزاد ہوں گے اور ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور یہی حال فرقد کا ہے اس واسطے کہ وہ ایجاب دوم و سوم دونوں میں داخل ہے اور احوال اصابت بنا بر روایت اس کتاب کے احوال متفرقہ قرار دیے جاتے ہیں پس اصابت ایجاب دوم علیحدہ ہے اور اصابت ایجاب سوم علیحدہ معتبر ہے۔ اگر یہ قول مرض میں اس نے کہا اور یہ غلام اس کے تہائی مال سے برآمد ہوتے ہیں یا برآمد نہیں ہوتے ہیں کہ وارثوں نے اجازت دے دی تو حکم ایسا ہی ہے اور اگر برآمد نہ ہوئے اور وارثوں نے اجازت بھی نہ دی تو تہائی مال ان سب پر بقدر ان کے استحقاق کے تقسیم ہوگا پس سالم و مبارک میں سے ہر ایک کا حق ایک سہم ہے اور غانم و فرقد میں سے ہر ایک کا حق دو سہم ہے اور اگر ایک شخص نے اپنے تین غلاموں کو جن کی قیمت برابر ہے کہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم آزاد ہے یا غانم و مبارک آزاد ہیں تو وہ مختار ہوگا جس ایجاب کو اس نے اختیار کیا جو غلام اس ایجاب میں شامل ہے وہ آزاد ہوگا اور اگر وہ بیان سے پہلے مرگیا تو سالم میں سے ایک تہائی اور مبارک میں سے ایک تہائی اور غانم میں سے دو تہائی آزاد ہوگی۔ اگر اس میت کا کچھ مال سوائے ان غلاموں کے نہ ہو اور وارثوں نے اجازت نہ دی تو اس کا تہائی مال ان سب غلاموں پر بقدر ان کے حقوق تقسیم ہوگا اور اگر اس نے دو غلاموں کو کہا کہ سالم آزاد ہے یا مبارک آزاد ہے یا دونوں آزاد ہیں اور قبل بیان کے مرگیا تو ہر ایک میں سے تین چوتھائی آزاد ہو جائے گا اور اگر سوائے ان کے اس کا کچھ مال نہ ہو تو میت کا تہائی مال ان دونوں میں نصفاً نصف ہوگا یعنی ہر ایک میں سے تہائی حصہ آزاد ہوگا اور اگر اس نے تین غلاموں سے کہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم آزاد ہے یا مبارک و غانم و سالم آزاد ہیں تو اس کو اختیار ہوگا جس ایجاب کو اس نے اختیار کیا جس غلام کو یہ ایجاب شامل ہے وہ آزاد ہوگا اور وہ قبل بیان کے مرگیا تو مبارک سے ایک تہائی حصہ آزاد ہو جائے گا اور سالم و غانم ہر ایک میں سے دو تہائی حصہ آزاد ہوگا اور اگر اس کا کچھ مال سوائے ان کے نہ ہو اور وارثوں نے اجازت نہ دی تو تہائی مال ان سب میں بقدر ان کے حقوق کے تقسیم ہوگا یہ شرح زیادات عتاقی میں ہے اور اگر اس کے دو غلام ہوں پس اس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یا سالم و غانم آزاد ہیں پھر بدون بیان کے مرگیا تو پورا سالم و نصف غانم آزاد ہو جائے گا اگر یہ قول اس نے مرض میں کہا اور ان دونوں کے سوائے اس کا کچھ مال نہیں ہے تو اس کے تہائی مال میں دونوں بقدر اپنے اپنے حقوق کے شریک کئے جائیں گے پس سالم کا حق پورے رقبہ کا ہے اور حق غانم اس کے نصف میں ہے پس حق سالم دو سہام ہوئے اور حق غانم ایک سہم ہے پس کل تین سہام ہوئے اور یہی تہائی مال ہے پس کل مال کے نو حصص ہوئے کہ ہر رقبہ کے مقابلہ میں ساڑھے چار حصہ ہوئے پس سالم میں سے دو حصے آزاد ہوئے اور ڈھائی حصوں کے واسطے وہ سعایت کرے گا اور غانم میں سے ایک سہم آزاد ہوگا اور وہ ساڑھے تین سہام کے

واسطے سعایت کرے گا یہ شرح جامع کبیرھیری میں ہے۔

اگر سالم و غانم کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ تم میں سے ایک غلام رہے پھر غلام و مبارک کو جمع کر کے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ تم میں سے ایک غلام رہے پھر مر گیا تو اس کا اختیار اول باطل ہو گیا:

اگر اس نے تین غلاموں سے کہا کہ تو آزاد ہے یا تم دونوں^(۱) میں سے ایک آزاد ہے یا تم سب^(۲) میں سے ایک آزاد ہے اور بیان سے پہلے مر گیا تو اول سے چار نویں حصے آزاد ہوں گے اور باقی دونوں میں سے ہر ایک سے ڈھائی نویں حصے آزاد ہوں گے اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے اور اس ایک اور دوسرے سے کہا کہ یا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اور پھر سب سے کہا کہ تم سب میں سے ایک آزاد ہے تو اول میں سے ساڑھے پانچ نویں حصہ آزاد ہوں گے اور ڈھائی نویں حصے دوسرے میں سے آزاد ہوں گے اور تیسرے میں سے ایک نواں حصہ آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے یا تو آزاد ہے ایک دوسرے غلام سے کہا یا تم سب میں سے ایک آزاد ہے تو اول دوم میں سے ہر ایک میں سے چار نویں حصے اور تیسرے میں سے ایک نواں حصہ آزاد ہوگا یہ کافی میں ہے اور اگر کہا کہ اے سالم آزاد ہے یا تو اے غانم آزاد ہے یا اے مبارک آزاد ہے تو وہ مختار ہوگا اور اگر اس نے غانم و سالم کو جمع کر کے کہا کہ تم میں سے ایک ہے تو دونوں میں سے ایک درمیان سے نکل گیا اور حقیق درمیان مبارک اور درمیان ان دونوں میں سے ایک کے دائرہ ہا کہ ان میں سے جس کے حق میں چاہے بیان کرے اور اگر قبل بیان کے مر گیا تو نصف مبارک میں سے آزاد ہوگا اور باقی نصف درمیان سالم و غانم کے مشترک ہوگا کہ ہر ایک میں سے چہارم آزاد ہوگا کیونکہ دونوں مساوی ہیں اور جامع میں مذکور ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ تم دونوں میں سے ایک غلام ہے لغو ہے اور اگر اس نے یہ نہ کہا کہ تم میں سے ایک غلام ہے بلکہ یوں کہا کہ تم دونوں میں سے ایک مدبر ہے تو ان دونوں میں سے ایک مدبر ہو جائے گا اور قطعی حقیق ان دونوں میں سے ایک اور مبارک کے درمیان دائرہ رہے گا پس اگر وہ قبل بیان کے مر گیا تو نصف مبارک آزاد ہو جائے گا اور اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور سالم و غانم ہر ایک میں سے چوتھائی آزاد ہو جائے گا بائیں بائیں اور ہر ایک میں سے نصف مدبر ہو جائے گا اور اس کا اعتبار میت کے تہائی مال سے ہوگا اور اگر مولا سے میت کا کچھ اور مال ہو کہ تہائی سے برآمد ہوں تو ہر ایک میں سے تین چوتھائی آزاد ہوگا کہ جس میں سے ایک چوتھائی بسبب قطعی کے اور نصف بسبب تدبیر کے اور ایک چہارم کے واسطے ہر ایک سعایت کرے گا اور اگر اس کا کچھ مال نہ ہو تو ایک تہائی مال ان دونوں میں نصفانصف ہوگا اور چونکہ مال میت وقت موت کے دو رقبہ ہیں پس اس میں سے تہائی مال دو تہائی رقبہ ہو جو ان دونوں میں مشترک ہو پس ہر ایک کے واسطے ایک تہائی رقبہ ہوگا پس حساب میں ضرورت ایسے عدد کی ہے کہ اس کی تہائی و چوتھائی نکلتی ہو اور کمتر ایسا عدد (۱۲) ہے پس ہم نے ہر غلام کے بارہ حصے کیے جس میں مبارک میں سے نصف یعنی چھ حصہ آزاد ہوئے بسبب ایجاب قطعی حقیق کے اور وہ اپنے چھ حصوں یعنی نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور سالم و غانم ہر ایک میں سے ایک چہارم بسبب ایجاب قطعی کے آزاد ہو یعنی تین تین سہام اور ایک تہائی بسبب مدبر ہونے کے اور وہ چار سہام ہوئے اور ہر ایک اپنے پانچ سہام کے واسطے سعایت کرے گا پس سہام و صایا آٹھ ہوئے اور سہام سعایت (۱۶) ہوئے پس تخریج مستقیم ہوئی اور اگر اس نے سالم و غانم کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ تم میں سے ایک غلام رہے پھر غلام و مبارک کو جمع کر کے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ

تم میں سے ایک غلام رہے پھر مر گیا تو اس کا اختیار اول باطل ہو گیا تو آزاد کرنا درمیان سالم و دونوں میں سے ایک کے دائرہ ہوگا تو سالم کے حصہ میں نصف عتق آیا اور باقی نصف باقی دونوں میں نصفاً نصف ہوگا یہ شرح زیادات عثمانی میں ہے۔

اگر اس نے سالم و غانم سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے یا سالم آزاد ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ کسی پر واقع کرنا اختیار کر:

اگر اس نے چار غلاموں سے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے پھر اس نے سالم و غانم سے کہا کہ تم میں سے ایک غلام ہے پھر غانم و فرقد سے کہا کہ تم میں سے ایک غلام ہے پھر فرقد و مبارک سے کہا کہ تم میں سے ایک غلام ہے پھر قبل بیان کے مر گیا تو اخیر کا اختیار کرنا پہلے اختیارات کا نسخ ہے اور فرقد و مبارک دونوں میں سے ایک اس درمیان سے خارج ہو گیا اور عتق درمیان سالم و غانم و باقی دونوں میں سے ایک کے دائرہ ہوا پس تہائی سالم اور تہائی غانم اور چھٹا حصہ فرقد و چھٹا مبارک کا آزاد ہوا اور ہر غلام کے چھ حصہ ہوئے اور اگر اپنی صحت میں اپنی بیوی اور اپنے غلام سے کہا کہ تو طالق ہے یا وہ آزاد ہے اور یہ عورت غیر مدخولہ ہے اور وہ بلا بیان کے مر گیا تو غلام میں سے نصف آزاد ہو گیا اور اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور عورت کو پورا مہر اور میراث ملے گی اور یہ امام اعظم کے نزدیک ہے کہ کافی میں ہے اور اگر اس نے سالم و غانم سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے یا سالم آزاد ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ کسی پر واقع کرنا اختیار کر پس اگر اس نے ایجاب اول کو اختیار کیا تو دوبارہ اس کو بیان کرنے کا حکم دیا جائے گا پس اگر قبل بیان کے مر گیا تو سالم میں سے تین چوتھائی حصہ آزاد ہو جائے گا اور غانم سے ایک چوتھائی حصہ آزاد ہوگا اور اگر قبل بیان کے مر گیا اور اس کا کچھ مال سوائے ان غلاموں کے نہیں ہے تو ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے حق کے حساب سے اس کے تہائی مال میں شریک کئے جائیں گے اور ان میں سے ایک کا حق تین چوتھائی کا ہے اور دوسرے کا ایک چوتھائی کا پس ہم نے ہر چوتھائی کا ایک سہم مقرر کیا پس ایک کے حق کے (۳) سہام اور دوسرے کے حق کا ایک سہم ہوا پس جملہ (۴) سہام ہوئے اور یہ تہائی مال ہے پس کل مال کے بارہ سہام ہوئے پس ہر رقبہ کے چھ ۶ سہام ہوئے پس سالم میں سے (۳) آزاد ہوں گے اور تین سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور غانم میں سے ایک سہم آزاد ہوگا اور پانچ سہام کے واسطے سعایت کرے گا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔

ایک مرد نے کہا کہ میں نے اپنا غلام قدیم الصحت آزاد کیا تو اس میں مشائخ نے تکلم کیا ہے:

اگر مولیٰ نے صیغہ عتاق کو دو غلاموں میں سے ایک معین کی طرف مضاف کیا پھر بھول گیا تو اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے ایک قبل بیان کے آزاد ہے اور اس کے متعلق احکام دو طرح کے ہیں ایک طرح کے وہ جو حیات مولیٰ میں متعلق ہیں اور دوم وہ کہ اس کی موت کے بعد متعلق ہیں پس ہم اول کا بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک مرد نے اپنی دو باندیوں میں سے ایک معین کو آزاد کر دیا پھر اس کو بھول گیا یا دس باندیوں میں سے ایک معین کو آزاد کر کے اس کو بھول گیا تو مولیٰ کو منع کر دیا جائے گا کہ ان میں سے کسی سے واپس نہ کرے اور نہ ان میں سے کسی سے خدمت لے اور تخری دل و گمان غالب سے ایک کو نکال کر باقی کسی سے واپس نہ کرنا حلال نہیں ہے اور اس کا حیلہ یہ ہے کہ ان سب سے عقد نکاح باند لے تو ان میں سے جو آزاد ہے وہ بسبب عقد نکاح کے اس پر حلال ہو جائے گی اور جو مملوکہ ہیں وہ مملوکہ ہونے کی وجہ سے حلال رہیں گی اور اگر کسی نے مبہم طور پر دو غلاموں سے ایک کو آزاد کیا

اور یہ دونوں غلام مولیٰ کو قاضی کے پاس لے گئے اور اس سے بیان کی درخواست کی اور قاضی اس کو حکم دے گا کہ بیان کرے اور اگر اس نے بیان سے انکار کیا تو قاضی اس کو بیان کرنے کے واسطے قید کرے گا ایسا ہی شیخ کرخی نے ذکر فرمایا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ میں ہی آزاد ہوں حالانکہ اس کے پاس گواہ نہیں ہیں اور مولیٰ نے اس سے انکار کیا اور دونوں نے اس کی قسم طلب کی تو قاضی ان دونوں میں سے ہر ایک کے واسطے مولیٰ سے قسم لے گا کہ باللہ عزوجل میں نے اس کو آزاد نہیں کیا ہے پھر اگر مولیٰ نے ان دونوں کی قسم سے انکار کیا تو دونوں آزاد ہو جائیں گے اور اگر دونوں کے واسطے قسم کھا گیا تو مولیٰ کو بیان کرنے کا حکم دیا جائے گا اور قاضی نے شرح مختصر الطحاوی میں ذکر کیا ہے کہ جب بعد آزاد کرنے کے جہالت پیدا ہو گئی ہو اور مولیٰ کو یاد نہ آئے تو مولیٰ بیان کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا پھر واضح ہو کہ ایسی حالت میں بیان دو طرح کا ہوتا ہے نص یا دلالت یا ضرورت پس نص کی یہ صورت ہے کہ مولیٰ ان دونوں میں سے ایک متعین سے کہہ دے کہ یہی ہے جس کو میں نے آزاد کیا تھا اور بھول گیا تھا اور دلالت و ضرورت کی صورت یہ ہے کہ فعل یا قول اس سے ایسا صادر ہو کہ جو بیان پر دلالت کرے مثلاً دونوں میں سے ایک کے ساتھ کوئی ایسا تصرف کرے کہ بدون ملک کے اس کی صحت نہیں ہو سکتی جیسے بیع و ہبہ و صدقہ و وصیت و اعناق و اجارہ و رہن و کتابت و تدبیر و استیلا و جبکہ دونوں باندیاں ہوں اور اگر دس باندیوں میں سے ایک آزاد ہو پھر مولیٰ نے ان میں سے ایک سے وطی کی تو جس سے وطی کی ہے یہ تو رقیقیت کے واسطے متعین ہو جائے گی اور یہ بھی بدلالت یا ضرورت متعین ہو جائے گا کہ آزاد شدہ ان باقیوں میں سے پس بیان صریح یا دلالت سے متعین ہو سکتی ہے اور اسی طرح اگر اس نے دوسری و تیسری سے وطی شروع کی یہاں تک کہ نو تک نو بت پہنچی تو جو باقی رہی ہے یعنی دسویں وہ عتق کے واسطے متعین ہو جائے گی اور حسن یہ ہے کہ ان میں سے کسی سے وطی نہ کرے اور اگر وطی کی تو حکم وہی ہوگا جو ہم نے ذکر کر دیا ہے اور اگر قبل بیان کے ان میں سے کوئی ایک مرگئی تو احسن یہ ہے کہ قبل بیان کے ان باقیوں سے وطی نہ کرے اور قبل بیان کے وطی کی تو جائز ہے اور اگر دو ہوں پھر ایک مرگئی تو جو باقی رہی ہے وہ عتق کے واسطے متعین نہ ہو جائے گی ہاں اس کا عتق بیان پر موقوف رہے گا خواہ بیان صریح ہو یا بدلالت اور اگر مولیٰ نے کہا کہ میری مملوک ہے اور ان دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا تو دوسری باندی بدلالت یا ضرورت عتق کے واسطے متعین ہو جائے گی اور اگر دس غلام ہوں ان سب کو ایک صفد میں فروخت کیا تو سب کی بیع فسخ ہو جائے گی اور اگر تنہا فروخت کیا تو نو تک کی بیع جائز ہوتی جائے گی اور دسواں واسطے عتق کے متعین ہوگا۔ دس آدمیوں میں سے ہر ایک کی ایک باندی ہے پس ان میں سے ایک نے ایک باندی اپنی آزاد کر دی اور بطور متعین وہ معلوم نہیں ہوتی ہے تو ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنی اپنی باندی سے وطی کرے اور مالکوں کے مانند اس میں تصرف کرے اور اگر یہ سب باندیاں ان میں سے ایک کی ملک میں آئیں تو ایسا ہوگا کہ گویا یہ سب اسی کی ملک میں تھیں جن میں سے اس نے ایک کو آزاد کیا پھر اس کو بھول گیا اور دوم آنکہ مولیٰ قبل بیان کے مر گیا تو دونوں میں سے ہر ایک میں سے اس کا نصف حصہ آزاد ہو جائے گا اور اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گا یعنی اپنی نصف قیمت کے واسطے مولائے میت کے وارثوں کے لئے سعایت کرے گا یہ بدائع میں ہے۔ ایک مرد نے کہا کہ میں نے اپنا غلام قدیم الصحبت آزاد کیا تو اس میں مشائخ نے تکلم کیا ہے اور مختار یہ ہے کہ قدیم الصحبت وہ ہے جس کی صحبت کو ایک سال گزر گیا ہو یہ جنینس و مزید میں ہے۔ اگر باندی سے کہا کہ تو آزاد ہے یا تیرا حمل۔ پھر ولادت کے بعد مولیٰ مر گیا تو بچہ آزاد ہوگا اور باندی مذکورہ میں سے نصف حصہ آزاد ہوگا یہ خزانة المفتیین میں ہے۔

اگر اپنی باندی سے کہا کہ اول بچہ جو تو جنے گی اگر لڑکا ہو تو تو آزاد ہے پس وہ باندی ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنی اور یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اول کون جنی ہے باوجودیکہ باندی اور اس کا مولیٰ دونوں ان دونوں بچوں کی ولادت پر اتفاق کرتے ہیں تو نصف

باندی اور نصف لڑکی آزاد ہوگی اور لڑکا غلام رہے گا اور اگر باندی نے دعویٰ کیا کہ اول لڑکا ہی پیدا ہوا ہے اور یہ لڑکی صغیرہ سے پس مولیٰ نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ نہیں بلکہ لڑکی اول ہوئی ہے تو قسم سے مولیٰ کا قول قبول ہوگا اور مولیٰ سے اس کے علم پر قسم لی جائے گی پس اگر مولیٰ قسم کھا گیا تو ان میں سے کوئی آزاد نہ ہوگا لیکن اگر باندی اس کے بعد گواہ قائم کرے کہ وہ پہلے لڑکا ہی جنی ہے تو حکم آزادی دیا جائے گا اور اگر مولیٰ نے قسم کھانے سے انکار کیا تو باندی اور لڑکی دونوں آزاد ہو جائیں گی اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ اول لڑکا ہی ہوا ہے تو باندی و لڑکی آزاد ہوگی اور لڑکا رقیق رہے گا اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ اول لڑکی پیدا ہوئی ہے تو کوئی آزاد نہ ہوگی اور اگر باندی نے دعویٰ کیا کہ اول غلام ہی پیدا ہوا اور لڑکی نے باوجودیکہ وہ کبیرہ ہوگئی ہے کچھ دعویٰ نہ کیا نہ تو مولیٰ سے قسم لی جائے گی پس اگر اس نے قسم کھالی تو کچھ ثابت نہ ہوگا اور اگر اس نے انکار کیا تو باندی آزاد ہو جائے گی نہ دختر اور اگر لڑکی نے دعویٰ کیا در حالیکہ وہ کبیرہ ہے کہ اول لڑکا پیدا ہوا ہے اور باندی نے دعویٰ نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں لڑکی ہی آزاد ہوگی نہ اس کی ماں یہ کافی میں ہے۔

اگر باندی سے کہا کہ پہلا بچہ جس کو تو جنے گی اور وہ لڑکا ہوگا تو وہ آزاد ہے اور اگر لڑکی ہو تو تو آزاد ہے پس وہ دو لڑکے اور دو لڑکیاں جنی پس اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پہلا بچہ لڑکا ہوا ہے تو وہ آزاد ہوگا اور باقی سب مملوک رہیں گے اور اگر یہ معلوم ہو کہ اول وہ لڑکی جنی ہے تو یہ لڑکی رقیق رہے گی اور باقی سب کے سب آزاد ہو جائیں گے۔ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں سے اول کون پیدا ہوا ہے تو باندی میں سے نصف حصہ آزاد ہوگا اور دونوں لڑکوں میں سے ہر ایک کا تین چوتھائی حصہ آزاد ہو جائے گا اور ایک چوتھائی (قیمت ۱۲) کے واسطے سعایت کرے گا اور دونوں لڑکیوں میں سے ہر ایک کا چوتھائی حصہ آزاد ہوگا اور ہر ایک اپنی چوتھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گی اور اگر باندی و مولیٰ نے اتفاق کیا کہ یہ لڑکا پہلے ہوا ہے تو یہی آزاد ہوگا جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے اور باقی سب رقیق رہیں گے اور اگر دونوں نے کسی پسر کے حق میں اختلاف کیا تو قسم سے مولیٰ کا قول قبول ہوگا مگر مولیٰ سے اس کے علم پر بھی قسم لی جائے گی کہ واللہ میں جانتا ہوں کہ باندی اس کو پہلے جنی ہے اور اگر باندی سے کہا کہ اگر تیرا حمل لڑکا ہو تو تو حرہ ہے اگر لڑکی ہوئی تو وہ حرہ ہے پھر اس کا حمل ایک لڑکا اور ایک لڑکی نکلی تو کوئی آزاد نہ ہوگا اور اسی طرح اگر اس نے کہا کہ جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے اگر وہ الی آخرہ تو بھی یہی حکم ہوگا اور اگر اس نے یوں کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں لڑکا ہو تو تو حرہ ہے اور اگر لڑکی ہو تو وہ حرہ ہے تو صورت مذکورہ میں لڑکی و لڑکا آزاد ہو جائے گا اور اگر باندی سے کہا کہ اگر اول بچہ کہ تو اس کو جنے گی لڑکا ہو تو تو آزاد ہے اور اگر لڑکی ہو تو وہ آزاد ہے پھر ان دونوں کو جنی پس اگر معلوم ہے جائے کہ اول وہ لڑکا جنی ہے تو باندی مع لڑکی کے آزاد ہو جائے گی اور لڑکا رقیق ہوگا اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پہلے وہ لڑکی جنی تو یہ لڑکی آزاد ہو جائے گی اور باندی مع لڑکا دونوں رقیق رہیں گے اور اگر کچھ معلوم نہ ہو مگر باندی و مولیٰ نے کسی امر پر اتفاق کیا تو اسی کے موافق حکم ہوگا اور اگر دونوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں تو لڑکا رقیق رہے گا اور لڑکی آزاد ہوگی اور نصف باندی آزاد ہوگی یہ مبسوط میں ہے۔

اگر باندی نے غلام پہلے پیدا ہونے کا دعویٰ کیا تو قسم سے مولیٰ کا قول قبول ہوگا یہ تہمتی میں ہے۔ اگر کسی نے اپنی باندی سے کہا کہ اگر تو جنی ایک لڑکا پھر ایک لڑکی تو تو آزاد ہے اور اگر تو جنی ایک لڑکی پھر ایک لڑکا تو لڑکا آزاد ہے۔ پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی پس اگر پہلے لڑکا جنی تو باندی آزاد ہو جائے گی اور لڑکا و لڑکی دونوں رقیق ہوں گے اور اگر پہلے لڑکی جنی تو لڑکا آزاد ہو جائے گا اور باندی و لڑکی دونوں رقیق رہیں گی اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں سے کون پہلے پیدا ہوا ہے اور دونوں نے اتفاق کیا کہ ہم اس کو نہیں جانتے ہیں تو لڑکی رقیق ہوگی اور لڑکا و باندی ہر ایک میں سے نصف حصہ آزاد ہو جائے گا اور باقی نصف قیمت کے

واسطے ہر ایک سعایت کرے گا اور اگر دونوں نے اختلاف کیا تو مولیٰ سے اس کے علم پر قسم کے ساتھ مولیٰ کا قول قبول ہوگا اور یہ اس وقت ہے کہ وہ لڑکا و لڑکی ایک ایک جنمی ہو اور اگر وہ دو لڑکے اور دو لڑکیاں جنمی اور باقی مسئلہ بحالہ ہو پس اگر پہلے دو لڑکے جنمی پھر دو لڑکیاں تو باندی آزاد ہو جائے گی اور اس کی آزادی سے دوسری لڑکی بھی آزاد ہوگی اور دونوں لڑکے اور پہلی لڑکی سب رقیق باقی رہیں گے اور اگر وہ پہلے ایک لڑکا جنمی پھر دو لڑکیاں پھر ایک لڑکا تو باندی اور دوسری لڑکی دونوں آزاد ہو جائیں گی اور دوسرا لڑکا اپنی ماں کے آزاد ہونے سے آزاد ہوگا اور اگر ایک لڑکا پہلے جنمی پھر لڑکی جنمی پھر ایک لڑکا جنمی تو باندی اور دوسرا لڑکا اور دوسری لڑکی بسبب آزادی اپنی ماں کے آزاد ہو جائیں گے اور پہلا لڑکا اور پہلی لڑکی رقیق رہ جائیں گے اور اگر وہ پہلے دو لڑکیاں جنمی پھر دو لڑکے جنمی تو پہلے لڑکا فقط آزاد ہوگا اور باقی سب رقیق رہیں گے اور اسی طرح اگر وہ پہلے ایک لڑکی جنمی پھر دو لڑکے پھر ایک لڑکی تو بھی فقط پہلا لڑکا آزاد ہوگا اور اسی طرح اگر وہ پہلے ایک لڑکی جنمی پھر ایک لڑکا پھر ایک لڑکی تو فقط پہلا لڑکا آزاد ہوگا اور اگر نقدیم و تاخیر کچھ معلوم نہ ہو پس اگر سب نے اتفاق کیا کہ یہ معلوم نہیں کہ اول کون پیدا ہوا ہے تو ہر واحد اولاد میں سے چوتھائی حصہ آزاد ہوگا اور باندی یعنی ان کی ماں سے نصف حصہ آزاد ہوگا اور باقی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گی اور اگر سب نے اختلاف کیا تو مولیٰ سے اس کے علم پر قسم لے کر اسی کا قول قبول کیا جائے گا یہ بدائع میں ہے۔

مسئلہ مذکور میں ہمارے اصحاب میں سے بعض نے جواب کتاب کی تصحیح میں تکلف کیا:

اگر باندی سے کہا کہ اول بچہ کہ جس کو تو جنے گی وہ آزاد ہے پس وہ پہلے ایک مردہ بچہ جنمی پھر ایک زندہ جنمی تو زندہ آزاد ہوگا اور اگر باوجود اس کے یوں کہا کہ تو آزاد ہے تو وہ مردہ بچہ کے ساتھ آزاد ہوگی یہ خزانة المفتیین میں ہے اور اگر ایک شخص نے اپنی دو باندیوں سے کہا کہ جو تم دونوں میں سے ایک کے پیٹ میں ہے آزاد ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے جس پر چاہے حلق واقع کرے پس اگر کسی مرد نے ان دونوں میں سے ایک کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مردہ بچہ وقت تکلم حلق سے چھ مہینے سے کم میں ڈال گئی تو وہ رقیق ہوگا اور دوسرا واسطے حلق کے متعین ہوگا اور اگر ہر ایک باندی کے پیٹ میں ایک ایک مرد نے ایسا مارا کہ وقت تکلم حلق سے چھ مہینے سے کم میں ہر ایک مردہ بچہ ڈال گئی تو ہر ایک کے بچہ کے واسطے اس جنایت کنندہ پر وہ واجب ہوگا جو باندی کے جنین کے واسطے واجب ہوتا ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر اس نے تین باندیوں سے کہا کہ جو کچھ اس (۱) باندی کے پیٹ میں موجود ہے وہ حرق ہے اور جو کچھ اس (۲) باندی کے پیٹ میں ہے یا جو کچھ اس (۳) باندی کے پیٹ میں تو جو کچھ پہلی باندی کے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا اور دونوں باقیوں کے حق میں مولیٰ کو اختیار ہوگا کہ جس ایک پر چاہے حلق واقع کرے یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ اگر میری باندی کے پیٹ میں جو ہے وہ لڑکا ہے تو اس طفل کو آزاد کرو اور اگر لڑکی ہو تو اس کو آزاد کرو پھر وہ مر گیا پھر وہ باندی ایک لڑکا و ایک لڑکی دونوں جنمی تو وصی پر واجب ہے کہ ان دونوں کو آزاد کرے مگر اس کے تہائی مال سے آزاد کرے اور اگر اپنی باندی سے کہا کہ اگر اول بچہ جو تو جنے گی وہ لڑکا ہو تو آزاد ہے اور اگر لڑکی پھر لڑکا ہو تو وہ دونوں آزاد ہیں پھر وہ ایک لڑکا اور دو لڑکیاں جنمی اور یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان میں سے اول کون ہے تو باندی اور اس کے پسر ہر ایک کا نصف حصہ آزاد ہوگا اور دونوں لڑکیوں میں سے ہر ایک سے چوتھائی حصہ آزاد ہوگا اور باقی تین چوتھائی قیمت کے واسطے ہر ایک سعایت کرے گی اور شیخ ابو عصمہ نے فرمایا کہ یہ غلط

۱۔ تہائی الخ اس لئے کہ میت کی وصیت اس کے ادائے قرضہ کے بعد تہائی سے نافذ ہوتی ہے الا آنکہ زائد کے لئے ورثہ اجازت دیں جن کی اجازت معتبر ہو۔

(۱) اول ۱۲ - (۲) دوسری ۱۲ - (۳) تیسری ۱۲۔

ہے اور صحیح یہ ہے کہ دونوں لڑکیوں میں سے ہر ایک کا تین چوتھائی حصہ آزاد ہوگا اور ہر ایک اپنی ایک چوتھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گی قال المترجم بعض نسخوں میں یہ عبارت بھی زائد موجود ہے کہ ہمارے اصحاب میں سے بعض نے جواب کتاب کی تصحیح میں تکلف کیا اور کہا کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک مقصود بعق ہے ایک حالت میں پس باوجود اس امر کے جانب تبعیت ان دونوں میں اعتبار نہ کی جائے گی اور جب کہ تبعیت کا اعتبار ساقط ہوا تو دونوں میں ایک لڑکی فی الحال دون حال آزاد ہوگی پس اس میں سے نصف حصہ آزاد ہوگا لہذا یہی نصف حصہ ان دونوں میں مشترک رہا پس ہر ایک میں سے چوتھائی حصہ آزاد ہوا۔ مگر اس صورت میں یہ مسئلہ مسائل متقدمہ سے تخریج میں مخالف ہوگا پس اصح وہی ہے جو شیخ ابو عصمہ نے فرمایا ہے یہ مبسوط میں ہے۔

اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اپنے غلام سالم کو آزاد کیا ہے اور سالم کو وہ پہچانتے ہیں اور اس مشہود علیہ کا ایک ہی غلام سالم نام ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا:

اگر دو مردوں نے ایک شخص پر گواہی دی کہ اس نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک کو آزاد کیا ہے (۱) تو امام اعظمؒ کے نزدیک ایسی گواہی باطل ہے اور اگر دونوں نے اس پر گواہی دی کہ اس نے اپنی دو باندیوں میں سے ایک آزاد کی ہے تو امام اعظمؒ کے نزدیک مقبول نہیں ہے اگرچہ اس میں دعویٰ شرط نہیں ہے اور یہ سب اس وقت ہے کہ دونوں گواہوں نے گواہی دی ہو کہ اس نے اپنی صحت میں اپنے دو غلاموں میں سے ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ اگر دونوں نے گواہی دی کہ اس نے اپنے مرض الموت میں دو غلاموں میں سے ایک آزاد کیا ہے یا اپنی صحت یا مرض میں دو میں سے ایک کو مدبر کیا ہے اور یہ گواہی اس شخص کی حالت مرض میں یا بعد وفات کے ادا کی ہے تو استحساناً مقبول ہوگی اور اگر دونوں نے اس کے مرنے کے بعد گواہی دی کہ اس نے اپنی صحت میں کہا تھا کہ دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو بعض نے کہا کہ گواہی قبول نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ قبول ہوگی کذا فی الہدایۃ اور اصح یہ ہے کہ گواہی قبول ہوگی یہ کافی میں ہے اور اگر دونوں نے گواہی دی کہ اس نے ان دونوں میں سے ایک معین کو آزاد کیا تھا مگر ہم اسکو بھول گئے ہیں تو دونوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی۔ یہ تمر تاشی میں ہے اور اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اپنے غلام سالم کو آزاد کیا ہے اور سالم کو وہ پہچانتے ہیں اور اس مشہود علیہ کا ایک ہی غلام سالم نام ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا اور اگر اس کے دو غلام سالم نام کے ہوں اور مولیٰ اس عتق سے منکر ہے تو امام اعظمؒ کے نزدیک ان دونوں میں سے کوئی آزاد نہ ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر دو گواہوں نے ایک غلام کے عتق کی گواہی دی اور ان کی گواہی پر اس کے آزاد ہونے کا حکم ہو گیا پھر دونوں نے اپنی اس گواہی سے رجوع کیا پس دونوں نے اس کی قیمت اس کے مولیٰ کو تاوان دی پھر ان دونوں کی گواہی کے بعد اور دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس کے مولیٰ نے اس کو آزاد کیا تھا تو بالاتفاق ہر دو گواہان سابق سے تاوان ساقط نہ ہوگا اور اگر پچھلے دونوں گواہوں نے صریح کہا کہ پہلے دونوں گواہوں کی گواہی سے پہلے غلام کے مولیٰ نے اس کو آزاد کیا تھا تو بھی امام اعظمؒ کے نزدیک مقبول نہ ہوگی اور جو کچھ پہلے گواہوں نے تاوان دیا ہے اس کو واپس نہ لے سکیں گے یہ کافی میں ہے۔

ایک شخص کے چار غلام ہیں دو گورے ہیں اور دو کالے ہیں پس مولیٰ نے کہا کہ یہ دونوں گورے آزاد ہیں یا یہ دونوں کالے یا عتق کی اضافت وقت کی جانب کر کے کہا.....:

جامع میں ہے کہ اگر ایک مرد نے اپنے دو غلاموں سے کہا کہ جب کل کاروز آجائے تو تم میں سے ایک آزاد ہے پھر دونوں میں سے ایک آج ہی کے روز مر گیا یا مولیٰ نے اس کو آزاد کر دیا یا فروخت کر دیا یا کسی کو بہہ بقبضہ کر دیا یا پھر کل کاروز ہوا تو دوسرا غلام آزاد ہوگا اور اگر مولیٰ نے کل کاروز آنے سے پہلے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ جب کل کاروز آئے تو خاص اس غلام پر عتق واقع ہو تو یہ باطل ہے اور نیز جامع میں مذکور ہے کہ اگر کسی نے اپنے دو غلاموں سے کہا کہ جب کل کاروز آئے تو تم میں سے ایک آزاد ہے پھر ان میں سے ایک کو فروخت کر دیا پھر کل کاروز آنے سے پہلے اس کو خرید لیا پھر کل کاروز ہوا تو ان میں سے ایک آزاد ہو گیا مگر بیان کا اختیار مولیٰ کو ہوگا اور اگر اس نے ایک کو فروخت کر کے پھر کل کاروز ہونے سے پہلے خرید لیا پھر دوسرے کو فروخت کر دیا مگر اس کو خریدنا نہیں تھا یہاں تک کہ کل کاروز آ گیا تو جو غلام کل کاروز ہونے پر اس کی ملک میں ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور بیع کرنے سے اس کی قسم باطل نہ ہوگی اور اگر ایک میں سے نصف فروخت کر دیا پھر کل کاروز ہوا تو جو غلام پورا اس کی ملک میں ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور اگر اس نے دونوں میں نصف نصف فروخت کر دیا پھر کل کاروز ہوا تو دونوں میں سے ایک آزاد ہو گیا مگر بیان کا اختیار مولیٰ کو ہے یہ محیط میں ہے ایک شخص کے چار غلام ہیں دو گورے ہیں اور دو کالے ہیں پس مولیٰ نے کہا کہ یہ دونوں گورے آزاد ہیں یا یہ دونوں کالے یا حقیق کی اضافت وقت کی جانب کر کے کہا کہ یہ دونوں گورے آزاد ہیں یا یہ دونوں کالے جب کل کاروز آئے پھر کل کاروز ہونے سے پہلے دونوں گورے غلاموں میں سے ایک مر گیا یا مولیٰ نے اس کو فروخت کر دیا پھر کل کاروز ہوا تو دونوں کالے غلام آزاد ہو جائیں گے اور مولیٰ کو کوئی اختیار حاصل نہ ہوگا۔ اگر گوروں میں سے ایک اور کالوں میں سے ایک مر گیا تو کل کاروز آنے پر مولیٰ کو اختیار حاصل ہوگا اور اگر دونوں گورے مر گئے تو دونوں کالے آزاد ہو جائیں گے یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔

ایک نے دو غلام اور ایک آزاد ان تینوں کے مجموعہ کو کہا کہ تم میں سے دو آزاد ہیں تو دو کے لفظ میں سے ایک بجانب آزاد راجع کیا جائے گا:

اگر یوں کہا کہ هذا حر هذا حر تو دونوں غلام آزاد ہو جائیں گے اور اگر کہا کہ هذا هذا حر تو دوسرا غلام آزاد ہو جائے گا اور اگر کہا کہ او هذا حر هذا ان دخل الدار تو پہلانی الحال آزاد ہو جائے گا اور دوسرا وقت شرط پائی جانے کے آزاد ہوگا یہ ظہیر میں ہے اور اگر کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے جب کہ کل کاروز ہو تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے۔ پھر کل کاروز ہوا تو دونوں آزاد ہو جائیں گے اور اگر دونوں میں سے ایک مر گیا یا مولیٰ نے اس کو فروخت کر دیا تو باقی آزاد ہو جائے گا اور اسی طرح اگر دونوں میں سے ایک میں سے کوئی حصہ فروخت کر دیا تو بھی یہی حکم ہے یہ خزانہ المفتین میں ہے ایک نے دو غلام اور ایک آزاد ان تینوں کے مجموعہ کو کہا کہ تم میں سے دو آزاد ہیں تو دو کے لفظ میں سے ایک بجانب آزاد راجع کیا جائے گا اور ایک بجانب غلام پس دونوں غلاموں میں سے فقط ایک آزاد ہوگا گویا اس نے یوں کہا کہ دونوں غلاموں میں سے ایک آزاد ہے پس اس کو حکم دیا جائے گا کہ بیان کرے کہ ان دونوں میں سے کون مراد ہے پس اگر مولیٰ قبل بیان کے مر گیا تو دونوں میں سے ہر ایک کا نصف حصہ آزاد ہو جائے گا یہ شرح طحاوی میں ہے۔

۱۔ جس کے حق میں بیان کرے گا اس کا بیع کرنا باطل ہو جائے گا ۱۲۔ ۲۔ ہذا حر یعنی یہ آزاد ہے یہ ایسی عبارت میں دونوں اشارہ علیحدہ مستقل معتبر ہوتے تو ضرور ہے کہ اخیر کی خبر یہ کہ آزاد ہے بخلاف ہذا حر کے کہ اول مہمل ہے اور دوم آزاد ہوگا اور قول ان دخل الخ نے یہ شرط صرف اخیر والے سے ملحق ہے ۱۲۔

باب : ۴

عتق کے ساتھ قسم کھانے کے بیان میں

ایک شخص نے کہا کہ جب میں اس دار میں داخل ہوں تو ہر مملوک میرا جس روز ایسا ہوا وہ آزاد ہے حالانکہ اس روز اس کا کوئی مملوک نہیں ہے پس اس نے ایک مملوک خرید لیا پھر وہ داخل ہوا تو آزاد ہو جائے گا۔ اگر قسم کھانے کے روز اس کی ملک میں کوئی غلام ہو اور وہ برابر اس کی ملک میں باقی رہا یہاں تک کہ وہ دار مذکور میں داخل ہوا تو آزاد ہو جائے گا خواہ رات میں داخل ہوا ہو یا دن میں اور اگر اس نے جس روز ایسا ہوا کا لفظ نہ کہا ہو تو جس غلام کا وہ بعد قسم کے مالک ہوا ہے آزاد نہ ہوگا یہ کافی میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوا تو آزاد ہے پھر اس غلام کو دار میں داخل ہونے سے پہلے فروخت کر دیا تو قسم بیکار ہو جائے گی اور اگر وہ دار میں داخل نہ ہوا یہاں تک کہ اس کو دوبارہ خرید لیا پھر دار میں داخل ہوا تو وہ آزاد ہو جائے گا اس واسطے کہ زوال ملک کی وجہ سے قسم منحل نہیں ہوتی ہے یہ بدائع میں ہے۔ خالد بن صبیح نے امام ابو یوسفؒ سے روایت کی ہے کہ اگر ایک مرد نے کہا کہ ہر بار جبکہ میں اس دار میں داخل ہوا تو میرا غلام آزاد ہے۔ حالانکہ اس کے چند غلام ہیں پس وہ شخص اس دار میں چار مرتبہ داخل ہوا تو اس پر ہر بار کے داخل ہونے کے لئے ایک غلام آزاد کرنا واجب ہوا کہ یہ عتق جس غلام پر چاہے واقع کرے ایک بعد دوسرے کے چار آزاد کرے یہ محیط میں ہے اور اگر اپنی باندی سے کہا کہ اگر تو اس دار میں داخل ہوئی تو آزادہ ہے پھر اس کو آزاد کر دیا پھر وہ مرتدہ ہو کر دار الحرب میں چلی گئی پھر وہاں سے قید کر کے لائی گئی اور یہی شخص اس کا مالک ہوا پھر یہ باندی اس دار میں داخل ہوئی تو ہمارے نزدیک وہ آزاد نہ ہوگی یہ ینایع میں ہے۔ اپنے غلام سے کہا کہ اگر تو اس دار میں آج کے روز داخل ہوا تو آزاد ہے پھر دن گزر جانے کے بعد اس غلام نے دعویٰ کیا کہ میں اس دار میں داخل ہوا تھا پس مولیٰ نے انکار کیا تو قول مولیٰ کا قبول ہوگا اور اگر غلام سے کہا کہ اس دار میں داخل ہوا تو آزاد ہے تو یہ بمنزلہ اس کلام کے ہے کہ جب تو اس دار میں داخل ہوا تو آزاد ہے یہ سراجیہ میں ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں فرمایا کہ اگر مولیٰ نے کہا کہ اول غلام جو میرے پاس آئے وہ آزاد ہے

پس اول اس کے پاس ایک غلام مردہ داخل کیا گیا پھر زندہ تو زندہ آزاد ہوگا:

اگر اپنے غلام سے کہا کہ اگر تو ان دونوں گھروں میں داخل ہوا تو آزاد ہے پھر ان گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اس کو فروخت کر دیا پھر وہ ان گھروں میں سے ایک میں داخل ہوا پھر اس کو خرید کیا پھر وہ دوسرے گھر میں بھی داخل ہوا تو ہمارے نزدیک آزاد ہو جائے گا اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ اگر تو اس دار میں داخل ہوا تو آزاد ہے اگر تو نے فلاں سے کلام کیا۔ تو دار میں داخل ہونے کے وقت بھی اعتبار قیام ملک کا ہوگا۔ یہ بدائع میں ہے۔ امام محمد نے اصل میں فرمایا کہ اگر مولیٰ نے کہا کہ اول غلام جو میرے پاس آئے وہ آزاد ہے پس اول اس کے پاس ایک غلام مردہ داخل کیا گیا پھر زندہ تو زندہ آزاد ہوگا اور اس میں کوئی اختلاف ذکر نہیں فرمایا پس بعض مشائخ نے کہا کہ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور بعضوں نے کہا کہ یہ سب کا قول ہے اور یہی صحیح ہے۔ یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور اگر دو غلام ایک ساتھ اس کے پاس داخل کئے گئے تو ان میں سے کوئی آزاد نہ ہوگا پھر اگر ان کے بعد کوئی غلام تنہا اس کے پاس داخل کیا گیا تو وہ آزاد نہ ہوگا۔ یہ مبسوط میں ہے اور اگر اپنے غلام سالم سے کہا کہ تو آزاد ہے

اگر تو اس دار میں داخل ہوا نہیں بلکہ غانم یعنی اپنے دوسرے غلام کا نام لیا تو دوسرا بدون دخول دار کے آزاد نہ ہوگا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور اگر کہا کہ ہر عورت میری کہ جو اس دار میں داخل ہو تو وہ طالق ہے اور میرے غلاموں میں سے ایک غلام آزاد ہے پھر اس کی دو عورتیں داخل ہوئیں تو دونوں طالق ہو جائیں گی اور غلام ایک ہی آزاد ہوگا اور اس کو اختیار ہوگا کہ جس غلام کو چاہے معین کرے اور اگر اس نے کہا کہ ہر بار کہ داخل ہوئی میری کوئی عورت اس دار میں تو وہ طالق ہے اور ایک غلام میرے غلاموں میں سے آزاد ہے پس دو عورتیں داخل ہوئیں یا ایک ہی عورت دو مرتبہ داخل ہوئی تو دونوں عورتیں طالق ہو جائیں گی اور دو غلام آزاد ہوں گے ایک شخص کی باندیاں ہیں اور ان کے اولاد ہے اور اس کے غلام بھی ہیں پس اس نے کہا کہ ہر باندی میری جو اس دار میں داخل ہو تو وہ آزاد ہے اور اس کا بیٹا اور ایک غلام میرے غلاموں میں سے آزاد ہے۔ پس سب باندیاں داخل ہوئیں تو سب آزاد ہو جائیں گی اور ان کی اولاد بھی آزاد ہوگی اور ایک غلام آزاد ہوگا مگر واضح رہے کہ ہر باندی کا فقط ایک بیٹا آزاد ہوگا اور اگر یہ غلام ان باندیوں کے شوہر ہوں پس اس نے کہا کہ ہر باندی میری جو اس دار میں داخل ہو تو وہ آزاد ہے اور اس کا شوہر اور اس کا بچہ پھر سب باندیاں داخل ہوئیں تو سب آزاد ہو جائیں گی اور ان کے شوہر اور ان کی اولاد بھی آزاد ہوگی اور اگر کہا کہ ہر بار کہ میری کوئی باندی اس دار میں داخل ہوئی تو یہ اور اس کا شوہر اور اس کا بچہ اور ایک غلام میرے غلاموں میں سے آزاد ہے پھر سب باندیاں داخل ہوئیں تو سب آزاد ہوں گی اور ان کے شوہر و اولاد بھی آزاد ہوگی اور ہر باندی کے مقابلہ میں ایک ایک غلام آزاد ہوگا اور شرح کرنی میں لکھا ہے کہ اگر مولیٰ فی کہا کہ ہر بار کہ داخل ہوا میں اس دار میں اور میں نے فلاں سے کلام کیا یا فلاں کے ساتھ کلام کیا تو میرے غلاموں میں سے ایک غلام آزاد ہے پھر وہ کئی بار دار میں داخل ہوا اور فلاں سے اس نے ایک ہی بار کلام کیا تو فقط ایک ہی غلام آزاد ہوگا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔

ایک مرد کی دو باندیاں ہیں پس اس نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی اس دار میں داخل ہوئی تو یہ آزاد ہے.....:

اگر اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے اگر تو اس دار میں داخل ہو یا اس دار میں تو جس دار میں داخل ہوگا آزاد ہو جائے گا اور اگر کہا کہ اس دار میں داخل ہوا اور اس دار میں تو جب تک دونوں میں داخل نہ ہوا آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو آج کے روز آزاد ہے اگر تو اس دار میں داخل ہوا تو جب تک آج اس دار میں داخل نہ ہو آزاد نہ ہوگا۔ یہ حادی قدسی میں ہے اور اگر کہا کہ ہر مملوک کہ اس کو میں نے خرید کیا جب میں اس دار میں داخل ہو گیا تو وہ آزاد ہے تو یہ قسم انہی غلاموں کے حق میں ہوگی جس کو بعد میں دار مذکور میں داخل ہونے کے خرید کرے یہ ایضاً میں ہے ایک غلام نے کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوا تو میرا غلام آزاد ہے یا اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو میری بیوی طالق ہے پس اگر وہ پہلے دار میں داخل ہوا تو اس کا غلام آزاد ہوگا اور فلاں سے کلام کرنے کا انتظار نہ کیا جائے گا اور اگر پہلے فلاں سے کلام کیا تو بیوی طالق ہو جائے گی اور دار میں داخل ہونے کا انتظار نہ کیا جائے گا پس جب ان دونوں شرطوں میں سے کوئی پائی گئی اور اس کا حکم مترتب ہو گیا تو دوسری باطل ہوگی اور اگر دونوں شرطیں ایک ساتھ پائی گئیں تو دونوں جزاؤں میں سے ایک نازل ہوگی مگر تعین کا اختیار اس کو حاصل ہوگا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔ ایک مرد کی دو باندیاں ہیں پس اس نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی اس دار میں داخل ہوئی تو وہ آزاد ہے پھر اس نے ایک کو فروخت کر دیا پھر وہ دار میں داخل ہوئی پھر جو اس کے پاس باقی ہے وہ داخل ہوئی تو یہ آزاد نہ ہوگی اور اگر مبیعہ کے داخل ہونے سے پہلے جو اس کے پاس ہے وہ داخل

ہوئی تو یہ آزاد ہو جائے گی یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر ایک مرد نے کہا: ان دخلت الدار ان کلمت فلانا و اذا کلمت و متی کلمت او اذا قدم فلاں فعبدی حر تو کیا حکم ہے؟

ایک مرد نے کہا کہ اگر میں دار میں داخل ہوا تو میری بیوی طالق ہے اور میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو یہ دو قسمیں قرار دی جائیں گی پس جس قسم کی شرط پائی جائے گی اس کی جزا نازل ہوگی اور اگر اس نے اس کے آخر میں انشاء اللہ تعالیٰ کہہ دیا تو یہ استثناء ان دونوں قسموں (۱) کی طرف راجع ہوگا اور اسی طرح اگر فلاں کی مشیت (۲) پر معلق کیا تو بھی فلاں کی مشیت ان دونوں قسموں کی طرف راجع ہوگی پس اگر فلاں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں تو دونوں قسمیں باطل ہو جائیں گی اور اسی طرح اگر ان دونوں میں سے ایک کو اس نے نہ چاہا تو بھی دونوں باطل ہو جائیں گی۔ اگر فلاں نے مجلس میں چاہا تو دونوں قسمیں صحیح ہو جائیں گی پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے فلاں سے کلام کیا تو غلام آزاد ہو جائے گا اور اگر دار مذکور میں داخل ہوا تو بیوی طالق ہو جائے گی ایک مرد نے کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوا تو میری بیوی طالق ہے اور میرا غلام آزاد ہے تو بدون دخول دار کے کچھ جزا واقع نہ ہوگی اور اگر دار میں داخل ہوا تو دونوں جزائیں واقع ہوں گی اور اسی طرح اگر اس نے جزا کو مقدم کیا بایں طور کہ میری بیوی طالق ہے اور مجھ پر میرا غلام آزاد ہے اگر میں دار میں داخل ہوا یا شرط کو وسط میں بیان کیا بایں طور کہ میری بیوی طالق ہے اگر میں دار میں داخل ہوا اور میرا غلام آزاد ہے تو بھی یہی حکم ہے اور اگر کہا کہ اگر میں دار میں داخل ہوا تو میری بیوی طالق ہے اور مجھ پر پیدل حج کرنا واجب ہے اور میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے فلاں سے کلام کیا اور اس شخص کی کچھ نیت نہیں کی ہے تو پیدل حج کرنا اور بیوی پر طلاق معلق بدخول دار ہوگی اور غلام کا عتق معلق بکلام فلاں ہوگا اور اگر کہا کہ میری بیوی طالق ہے اگر میں دار میں داخل ہوا اور میرا غلام آزاد ہے انشاء اللہ تو یہ ایک ہی قسم ہوگی اور استثناء مذکور پوری قسم سے متعلق ہوگا اور اسی طرح اگر کہا کہ انشاء اللہ تعالیٰ فلاں (۳) یعنی اگر فلاں نے چاہا تو بھی یہی حکم ہے ایک مرد نے کہا کہ (۴) ان دخلت الدار ان کلمت فلانا و اذا کلمت او متی کلمت او اذا قدم فلاں فعبدی حر (۵) اور اس شخص کی کچھ نیت نہیں ہے تو قسم یوں ہوگی کہ بعد فلاں سے کلام کرنے یا بعد فلاں کے آجانے کے دار مذکور میں داخل ہو چنانچہ اگر پہلے داخل ہو کر پھر فلاں سے کلام کیا تو غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر کلام کر کے پھر داخل ہوا تو آزاد ہو جائے گا اور اگر جزا کو دونوں شرطوں پر مقدم کیا یعنی کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں دار میں داخل ہوا۔ اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو شرط ہے کہ بعد کلام کے دار مذکور میں داخل ہونا پایا جائے یہ شرح جامع کبیر حیسری میں ہے۔

اگر کہا میرا ہر مملوک مذکور آزاد ہے اسکی ایک باندی حاملہ ہے پھر اسکے زینہ بچہ پیدا ہوا تو آزاد نہ ہوگا:

اگر اس نے اپنے اس قول سے کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوا اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو تو آزاد ہے یہ نیت کی کہ دخول دار مقدم ہو اور وہی شرط انعقاد ہو اور کلام بفلاں مؤخر ہو تو اس کی نیت صحیح ہوگی اور اسی طرح تقدیم جزاء کی صورت میں اگر اس نے ایسی نیت کی یعنی کلام متاخر ہو تو اس کی نیت صحیح ہوگی لیکن اگر اس نیت میں اس کے حق میں کوئی نفع ہو یا بایں طور پر کہ مثلاً اس نیت سے اس کے حق میں تخفیف ہو تو بسبب تہمت کے قضاء اس کی نیت رد کردی جائے گی (۶) اور اگر اس نے دو گھروں کے واسطے کہا کہ میں اس دار میں داخل ہوا اگر میں اس دار دیگر میں داخل ہوا تو تو آزاد ہے تو حائث ہونے کی شرط دوسرے دار میں داخل ہونا ہوگی

(۱) یعنی دونوں باطل ہوں گی ۱۲۔ (۲) یعنی اگر فلاں چاہے ۱۲۔ (۳) جس وقت آیا فلاں ۱۲۔ (۴) اگر میں دار میں داخل ہوا اگر میں نے فلاں

سے کلام کیا ۱۲۔ (۵) تو میرا غلام آزاد ہے ۱۲۔ (۶) یعنی تصدیق نہ ہوگی ۱۲۔

پس اگر وہ پہلے دار میں اولاً داخل ہوا تو حانت نہ ہوگا اور اگر دوسرے دار میں داخل ہونے کے بعد داخل ہوا تو حانت ہوگا اور اگر اس نے ایک ہی دار کے حق میں کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوا تو تو آزاد ہے پھر اس میں ایک بار داخل ہوا تو حانت ہو جائے گا خواہ جزا مقدم ہو یا موخر ہو یہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے اور اگر اس نے جزا کو وسط میں بیان کیا یا اس طور کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوا تو میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے فلاں سے کلام کیا یا کہا کہ اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو میرا غلام آزاد ہے اگر فلاں شخص آیا تو قسم کا انعقاد اس امر پر ہوگا کہ فعل اول واقع ہو پھر فعل ثانی پایا جائے یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔ اگر کہا کہ میرا ہر مملوک مذکور آزاد ہے اور اس کی ایک باندی حاملہ ہے پھر اس کے زینہ بچہ پیدا ہوا تو آزاد نہ ہوگا اگر چہ وقت قسم سے چھ مہینہ سے کم میں جنی ہو یہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔

ایک مرد نے کہا کہ ہر میرا مملوک کہ جس کا میں مالک ہوں آئندہ زمانہ میں وہ آزاد ہے الا ان مملوکوں کا اوسط۔ پھر اس نے کوئی غلام خریدتا تو اسی وقت آزاد ہو جائے گا پھر اگر اس نے دوسرا خریدتا تو آزاد نہ ہوگا پھر اس نے نہ خریدا یہاں تک کہ مر گیا تو وہ آزاد ہو جائے گا پھر اگر تیسرا خریدتا تو ان دونوں میں سے کوئی آزاد نہ ہوگا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے پھر اگر وہ چوتھے غلام کا مالک ہوگا تو دوسرا غلام آزاد ہوگا اسی طرح جب آٹھویں غلام کا مالک ہوگا تو چوتھا آزاد ہو جائے گا اور علیٰ ہذا القیاس کذا فی شرح تلخیص الجامع الکبیر و حاصل آنکہ جب وہ عدو غلام جفت خریدے گا تو جو غلام نصف اول میں واقع ہوگا وہ فی الحال آزاد ہو جائے گا اس واسطے کہ اس کا اوسط ہونا مقصود نہیں ہے اور جو غلام نصف ثانی میں واقع ہوگا اس کا حکم موقوف رہے گا حتیٰ کہ اگر اس نے چھ غلام خریدے ایک بعد دوسرے کے تو اول کے تین غلام آزاد ہو جائیں گے اور باقیوں کا حکم موقوف رہے گا پھر اگر اس نے چوتھا خریدتا تو چوتھا آزاد نہ ہوگا اس واسطے کہ جو اس سے متاخر ہے وہ مثل مقدم کے ہے پس مستثنیٰ ہوگا اور اگر وہ مر گیا حالانکہ چھ غلام کا مالک ہوا تھا تو سب آزاد ہو جائیں گے اور اگر طاق عدد کا مالک ہو تو سوائے درمیانی کے سب آزاد ہو جائیں گے اور یہ ذکر نہیں فرمایا کہ وقت خرید سے آزاد ہوں گے یا وقت موت کے کچھ پہلے سے اور فقیر ابو جعفر نے شیخ ابو بکر بن ابوسعید سے ذکر کیا کہ برقیاس قول امام ابو یوسف و امام محمد کے موت سے بلا فصل پہلے سے آزاد ہوں گے اور امام اعظم کے قول پر وقت خرید سے آزاد ہوں گے اور بعض نے فرمایا کہ اصح یہ ہے کہ بالاتفاق عتق انہی غلاموں پر مقصود رہے گا اس واسطے کہ استثناء سے خارج ہونے کی شرط یہ تھی کہ صفت و وسطیت منقہ ہوئے اور یہ جب منقہ ہوگی کہ اس کے بعد کوئی غلام خریدے پس حکم اسی پر مقصود رہا اور اگر ایک غلام کا مالک ہو پھر دوسرے غلام کا مالک ہو پھر دو غلاموں کا ایک بارگی مالک ہو تو سب آزاد ہو جائیں گے اور اگر کہا کہ ہر غلام جس کو میں خریدوں وہ آزاد ہے الا ان میں کا اول پھر اس نے ایک غلام خریدتا تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اس کے ماسوائے سب آزاد ہو جائیں گے چاہے جس طرح ان کو خریدے اور اگر اولاً دو خریدے تو دونوں آزاد ہو جائیں گے اور اگر اس نے یوں کہا ہو کہ الا ان میں کا آخر پھر اس نے ایک غلام خریدتا تو آزاد ہو جائے گا اور اگر دوسرا خریدتا تو آزاد نہ ہوگا پھر اگر تیسرا خریدتا تو دوسرا آزاد ہو جائے گا علیٰ ہذا القیاس اور اگر ایک غلام خریدتا پھر دو غلام خریدے تو سب آزاد ہو جائیں گے یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔

اگر کہا کہ ہر مملوک جس کا میں مالک ہوں تو وہ آزاد ہے اور اس کا ایک مملوک موجود ہے پھر اس نے ایک مملوک خریدتا تو آزاد وہی ہوگا جو اس کی ملک میں تھا اور جو بعد قسم کے خریدتا ہے وہ آزاد نہ ہوگا لیکن اگر اس نے اس کی بھی نیت کی ہو تو یہ بھی آزاد ہو جائے گا اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ جو میری ملک میں تھا اس کے عتق کی میں نے نیت نہیں کی تھی تو اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی یہ

شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ ہر مملوک جس کا میں اس ساعت مالک ہوں وہ آزاد ہے تو یہ قسم انہی مملوک کے حق میں ہوگی جو پہلے سے اس کی ملک میں موجود ہیں اور جن کا وہ اس ساعت بطور جدید مالک ہوگا وہ آزاد نہ ہوں گے اگر اس نے لفظ ساعت سے وہ معنی مراد لئے جو تخم مراد لیتے ہیں تو ساعت تک جو مملوک اس کے ملک میں آئیں ان کو بھی آزادوں میں داخل کر سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو سابق سے اس کی ملک میں ہیں ان سے عتق کو پھیر دے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ ہر مملوک کہ میں اس کا سر ماہ مالک ہوں وہ آزاد ہے تو اس کے جس مملوک پر سر ماہ آجائے اور وہ چاند رات اور اس دن میں اس کا مالک ہو تو امام محمد کے نزدیک وہ آزاد ہو جائے گا اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ یہ قسم اس جدید مملوک کے حق میں ہوگی جس کا وہ چاند رات اور اس کے دن میں مالک ہو جائے یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ ہر مملوک جس کا میں کل کے روز مالک ہوں وہ آزاد ہے اور کچھ نیت نہیں کی تو امام محمد نے فرمایا کہ جو اس کی ملک میں فی الحال ہیں اور جن کا کل تک مالک ہو اور جن کا کل مالک ہو سب آزاد ہو جائیں گے اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ فقط وہی آزاد ہوں گے جن کا وہ بسبب جدید کل کے روز مالک ہو جائے اور اگر کہا کہ ہر مملوک جس کا میں جمعہ کے روز مالک ہوں وہ آزاد ہے تو امام ابو یوسف کے نزدیک وہی آزاد ہوں گے جو جمعہ کے روز جدید اس کی ملک میں آئیں اور اگر کہا کہ میرا ہر مملوک جمعہ کے روز آزاد ہے تو ان میں وہ مملوک بھی داخل ہوں گے جو اس کی ملک میں فی الحال موجود ہیں کہ وہ جمعہ کے روز آزاد ہو جائیں گے اور اگر کہا کہ ہر مملوک کہ میں اس کا مالک ہوں پس وہ آزاد ہے جبکہ کل کے روز آئے تو یہ قسم بالا جماع انہی مملوکوں پر واقع ہوگی جو فی الحال اس کی ملک میں ہیں اور اگر کہا کہ ہر مملوک کہ میں اس کا مالک ہوں تا تیس ۳۰ سال پس وہ آزاد ہے تو اس میں وہ شامل ہوں گے جس کا وقت قسم سے تیس ۳۰ سال تک جدید مالک ہو جائے اور وہ شامل نہ ہوں گے جن کا وہ پہلے سے وقت قسم سے مالک ہو۔ علیٰ ہذا اگر کہا کہ ایک سال تک یا ہمیشہ تک یا موت تک تو بھی یہی حکم ہے کہ وقت قسم سے آئندہ اس مدت تک جن کا مالک ہو وہ آزاد ہوں گے۔ نہ وہ جن کا اول سے وقت قسم کے مالک تھا اور اگر اس نے کہا کہ سال تک کہنے سے میری مراد یہ تھی کہ جو میری ملک میں ایک سال تک باقی رہے تو قضاء اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی مگر فیما بینہ و بین اللہ اس کے قول کی تصدیق ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر اس نے کہا کہ ہر مملوک کہ میں اس کا مالک ہوں وہ بعد کل کے روز کے آزاد ہے یا کہا کہ میرا مملوک بعد کل کے روز کے آزاد ہے اور اس کا ایک مملوک ہے پھر دوسرا اس کی ملک میں آیا پھر کل کے روز بعد کا وقت آیا تو وہی آزاد ہوگا جو وقت قسم کے اس کی ملک میں تھا نہ وہ جس کا وہ بعد قسم کے مالک ہوا ہے یہ کافی میں ہے اور اگر کہا کہ ہر مملوک کہ جس کا میں مالک ہوں یا کہا کہ میرا مملوک پس وہ بعد میری موت کے آزاد ہے اور اس کا ایک مملوک ہے پھر اس نے ایک غلام خرید کیا تو جو وقت قسم کے اس کی ملک تھا وہ مدبر ہو گیا اور دوسرا جو بعد قسم کے اس کی ملک میں آیا ہے وہ مدبر نہ ہوگا اور اگر وہ مر گیا تو دونوں اس کے تہائی مال سے آزاد ہو جائیں گے یہ ہدایہ میں ہے اور یہ حکم اس وقت ہے کہ اس کی کچھ نیت نہ ہو اور اگر اس نے نیت شمول تمام کی تو یہ قسم سب کو شامل ہوگی کیونکہ اس نے ایسی نیت بیان کی جس سے اس کے نفس پر سختی بڑھتی ہے پس اس کے قول کی تصدیق ہوگی یہ تمییز میں ہے اور اگر کہا کہ ہر غلام جس کو میں خریدوں تو وہ آزاد ہے تا سال بھر اس نے ایک غلام خرید لیا تو وہ آزاد نہ ہوگا یہاں تک کہ وقت خرید سے اس پر ایک سال گزر جائے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے آج یا کل تو آزاد نہ ہوگا جب تک کل کا روز نہ آئے الا اس صورت میں کہ اس کے مولیٰ نے آج یا کل کہنے سے آج کے روز آزاد ہونے کی نیت کی ہو پس آج ہی آزاد ہو جائے

گا اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے آج کل تو آج ہی آزاد ہو جائے گا اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے کل آج تو کل کے روز آزاد ہوگا یہ تا تاریخانیہ میں ہے اور اگر کہا کہ صبح غدا حرا کل کے روز تو صبح کرے گا درحالیہ آزاد ہوگا یا صبح غدا اشرب الماء حرا تو صبح کرے گا کل کے روز در حالیہ پانی پیے گا آزاد تو کل کے روز آزاد ہو جائے گا اگر چہ اس نے پانی نہ پیا اسی طرح اگر کہا کہ کھڑا ہوگا یا بیٹھے گا آزاد تو بھی فی الحال آزاد ہو جائے گا اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے گذشتہ کل کے روز حالانکہ وہ اس مملوک کا آج ہی مالک ہوا ہے تو آزاد ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کہا کہ تو آزاد ہے قبل از آنکہ میں نے تجھے خرید کیا تو آزاد ہو جائے گا اور اگر کہا کہ ہر بار کہ جب کوئی دن گذرے تو تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے پھر وہ دن گذرے تو دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ یہ عتابیہ میں ہے۔

اگر اس نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر فلاں اس دار میں کل کے روز داخل نہ ہوا ہو اور میری بیوی طالقہ ہے اگر وہ داخل ہوا ہو اور معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ آیا داخل ہوا تھا یا نہیں تو عتق و طلاق دونوں واقع ہوں گی اس واسطے کہ اس نے اول قسم میں دخول دار کا اقرار کیا اور اس کو قسم سے موکد کیا پس اس کی طرف سے طلاق کا اقرار ہوگا اور دوسری قسم میں دخول سے انکار کیا اور اس کو قسم سے موکد کیا پس اس کی طرف سے اقرار یقین ہوگا یہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے ایک مہینہ پہلے موت فلاں و فلاں سے پھر ان دونوں میں سے ایک شخص اس گفتگو سے ایک مہینہ پر مر گیا تو غلام آزاد ہو جائے گا یہ محیط میں ہے ایک نے اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے قبل فطر و اضحیٰ کے ایک مہینہ تو اول رمضان میں آزاد ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ جامع میں مذکور ہے کہ اگر غلام ماذون یا مکاتب نے کہا کہ ہر مملوک جس کا میں مالک ہوں آئندہ زمانہ میں تو وہ آزاد ہے پھر وہ خود آزاد ہونے کے بعد ایک مملوک کا مالک ہو تو آزاد نہ ہوگا امام اعظمؒ کے نزدیک ہے اور صاحبین کے نزدیک آزاد ہو جائے گا اور ایسا ہی اختلاف ہے اگر کہا کہ ہر مملوک جس کو میں خرید کروں تو وہ آزاد ہے پھر بعد اپنے آزاد ہونے کے خرید کیا تو امام اعظمؒ کے نزدیک وہ آزاد نہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک آزاد ہو جائے گا اور اگر اس نے یوں کہا کہ جب میں آزاد ہو جاؤں پھر جس مملوک کا میں مالک ہوں وہ آزاد ہے یا جب میں آزاد ہو جاؤں پھر جس مملوک کو میں خرید کروں وہ آزاد ہے پھر بعد میں آزاد ہونے کے وہ ایک مملوک کا مالک ہو یا بعد آزادی کے خرید کیا تو بالا جماع وہ آزاد ہو جائے گا یہ محیط میں ہے۔ اگر حربی نے کہا کہ ہر مملوک جس کا میں آئندہ زمانہ میں مالک ہوں وہ آزاد ہے پھر دارالاسلام میں آکر مسلمان ہو گیا اور ایک غلام خرید تو امام اعظمؒ کے نزدیک آزاد نہ ہوگا اگر کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو ہر مملوک جس کا میں مالک ہوں وہ آزاد ہے پھر مسلمان ہوا اور اس نے ایک غلام خرید تو بالا جماع آزاد ہو جائے گا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور اگر ایک شخص نے ایک حرہ سے کہا کہ جب میں تیرا مالک ہوں تو آزاد ہے پھر یہ عورت مرتد ہو کر دارالحرب میں چلی گئی اور وہاں سے جہاد میں قید ہو کر آئی جس کو اس شخص نے خرید کیا تو امام اعظمؒ کے نزدیک آزاد نہ ہوگی اور اگر کہا کہ جب تو مرتد ہو کر پھر قید ہو کر دارالحرب سے آئے اور میں تجھے خرید کروں تو تو آزاد ہے پھر ایسا ہی واقع ہوا تو وہ بالا جماع آزاد ہو جائے گی یہ سراج و ہاج میں ہے۔

امام محمدؒ نے جامع میں فرمایا کہ اگر کسی مرد نے دوسرے سے کہا کہ میرے غلاموں میں سے تو جس کی آزادی چاہے اس کو آزاد کر دے پھر مخاطب نے ایک ساتھ سب کی آزادی چاہی تو سوائے ایک کے سب آزاد ہو جائیں گے:

اگر غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے اگر تو چاہے تو مجلس ہی میں اس کے چاہنے سے آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ فلاں چاہے تو فلاں کی مجلس ہی میں چاہنے سے آزاد ہوگا اگر فلاں مذکور اس مجلس میں موجود ہو ورنہ فلاں کی مجلس علم میں چاہنے سے آزاد ہوگا یہ نیا بیع میں ہے۔ اگر کہا کہ تو آزاد ہے اگر فلاں نے نہ چاہا پس اگر فلاں نے اپنی مجلس علم میں کہا کہ میں نے چاہا تو یہ غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں تو آزاد ہو جائے گا لیکن میں نہیں چاہتا ہوں اس کہنے سے نہ آزاد ہوگا کیونکہ اس کو اسی مجلس میں چاہنے کا اختیار باقی ہے بلکہ اس طرح پر نہ چاہے کہ اس سے اعراض کر کے دوسرے کام میں مشغول ہو کر اس مجلس کو باطل کر دے یہ بدائع میں ہے اور اگر مولیٰ نے کہا کہ تو آزاد ہے اگر میں چاہوں پس اگر اس نے آخر عمر تک نہ چاہا تو آزاد نہ ہوگا اور یہ نہ چاہنا اسی مجلس تک مقصود نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں نہ چاہوں تو (۱) دو صورتیں ہیں اگر اس نے کہا کہ میں نے چاہا تو آزاد نہ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تو بھی واقع نہ ہوگا اس واسطے کہ موت تک اس کو اس کے چاہنے کا اختیار ہے یہ سراج و بانج میں ہے۔ پھر جب مر گیا تو نہ چاہنا متحقق ہو جائے گا تو اس کی موت سے پہلے بلا فصل آزاد ہوگا مگر تہائی مال سے اعتبار کیا جائے گا یہ بدائع میں ہے اور اگر اپنی باندیوں میں سے ایک سے کہا کہ تو آزاد ہے اور فلاں نہ اگر تو چاہے پس اس نے کہا کہ میں نے اپنی آزادی چاہے تو آزاد نہ ہوگی۔ امام محمد نے جامع میں فرمایا کہ اگر کسی مرد نے دوسرے سے کہا کہ میرے غلاموں میں سے تو جس کی آزادی چاہی اس کو آزاد کر دے پھر مخاطب نے ایک ساتھ سب کی آزادی چاہی تو سوائے ایک کے سب آزاد ہو جائیں گے یہ امام اعظم کا قول ہے اور اس کے نکال لینے کا اختیار مولیٰ کو ہے اور صاحبین کے نزدیک سب آزاد ہو جائیں گے یہ مسئلہ ایسا ہی روایت ابو سلیمان میں مذکور ہے اور روایت ابو حفص میں مذکور ہے کہ پھر مامور (۲) نے ان سب کو ایک ساتھ آزاد کر دیا تو سوائے ایک کے سب آزاد ہو جائیں گے۔ امام اعظم کے نزدیک یہی روایت صحیح ہے اس واسطے کہ مامور کی مشیت پر اعتاق (۳) معلق ہے نہ عتق (۴)۔ اگر کہا کہ میرے غلاموں میں سے جس کا عتق تو چاہے وہ آزاد ہے پس اس نے ان سب کا عتق ایک بارگی چاہا تو بھی مثل مذکورہ بالا اختلاف ہے کہ امام اعظم کے نزدیک سوائے ایک کے سب آزاد ہوں گے اور صاحبین کے نزدیک سب آزاد ہونگے اور اگر کہا کہ میرے غلاموں میں سے جو اپنا عتق چاہے اس کو آزاد کر دے پس اس نے سب کو ایک بارگی آزاد کر دیا تو بالا جماع آزاد ہو جائیں گے۔ اگر اس نے اپنی دو باندیوں سے کہا کہ تم دونوں آزاد ہو اگر تم چاہو پھر ایک نے ان میں سے چاہا تو یہ باطل ہے اور اگر اس نے کہا کہ تم میں سے جو عتق کو چاہے وہ آزاد ہے پس دونوں نے چاہا تو دونوں آزاد ہو جائیں گی اور اگر ایک نے چاہا تو وہی آزاد ہو جائیگی اور اگر دونوں نے چاہا پھر مولیٰ نے کہا کہ میں نے تم میں سے ایک کے چاہنے کو مراد لیا ہے تو براہ دیانت اس کی تصدیق ہوگی قضاء تصدیق نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔ ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اپنے غلام کے عتق کا اختیار تجھے دیا تو پھر اس کو منع نہیں کر سکتا ہے۔ پس اس دوسرے کو اس مجلس تک اختیار رہے گا اور اسی طرح اگر کہا کہ ان دو غلاموں میں سے جس کو تو چاہے آزاد کر دے تو بھی یہی حکم ہے اور اسی طرح اگر عتاق بجعل ہو۔ اگر کسی سے اپنی صحت یا مرض میں کہا کہ جب میں مروں تو میرا یہ غلام تو آزاد کر دے اگر چاہے یا کہا کہ جب میں مروں تو میرے اس غلام کے عتق کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا کہا کہ میں نے اس غلام کے عتق کا اپنی موت کے بعد اختیار تیرے ہاتھ میں دیا پس اس نے اس امر کو اس سے قبول نہ کیا یہاں تک کہ اس مجلس سے اٹھ کھڑا ہو تو اس شخص کو اختیار

۱۔ جس جلسہ میں فلاں کو خبر پہنچی اسی جلسہ میں بدون کسی اور کام میں مشغول ہونے کے اگر چاہے تو آزاد ہوگا ۱۲۔ ۲۔ اگر کل غلام اس کے تہائی مال سے برآمد

ہو تو آزاد ہو گیا ورنہ بقدر کمی سعایت کرے گا ۱۲۔ ۳۔ جعل وہ مال جو بمقابلہ فعل آزاد کرنے کے ٹھہرا گیا ۱۲۔

(۱) تو بھی مقصود بر مجلس نہیں ہے ۱۲۔ (۲) مخاطب ۱۲۔ (۳) آزاد کرنا ۱۲۔ (۴) نہ آزاد ہونا ۱۲۔

ہوگا کہ اس کے بعد مولیٰ کے تہائی مال سے اس کو آزاد کر دے اور اگر کہا کہ یہ میرا غلام بعد میری موت کے آزاد ہے تو چاہے پس اگر اس کی موت کے بعد اس نے چاہا تو غلام آزاد ہوگا پھر اگر بعد موت مولیٰ کے مجلس سے یہ شخص بدون کچھ کہنے کے کھڑا ہو گیا پھر اس کے بعد کہا کہ میں نے چاہا تو وصیت واجب ہوئی^(۱) اور غلام مذکور آزاد نہ ہوگا جب تک کہ اس کو وارث لوگ یا وصی یا قاضی آزاد نہ کرے اور مولیٰ مذکور نے اپنی حیات میں جس کے چاہنے پر رکھا تھا اس کو منع کر دیا تو ممانعت^(۲) جائز ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر کہا کہ جب کل کا روز آئے تو تو آزاد ہے اگر تو چاہے تو چاہنے کا اختیار کل کی فجر طلوع ہونے کے بعد سے ہوگا۔ یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ پس اگر اس نے فی الحال چاہا تو آزاد نہ ہوگا جب تک کہ کل کے روز نہ چاہے اور اگر کہا کہ اگر تو چاہے تو تو آزاد ہے کل کے روز تو اس کو فی الحال مشیت کا اختیار ہے پس اگر اس نے فی الحال چاہا تو کل کے روز آزاد ہو جائے گا یہ بدائع میں ہے۔

اصل میں مذکور ہے کہ اگر اپنے غلام سے کہا کہ: انت حرمتی ماشنت او اذا ماشنت و کلما شنت^(۳) پھر غلام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں پھر مولیٰ نے اس کو فروخت کر دیا پھر اس کو خرید کیا پھر غلام نے عتق چاہا تو آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ انت حر حیث شنت^(۴) پھر غلام مجلس سے کھڑا ہو گیا تو عتق باطل ہو گیا اور اگر کہا کہ انت حر کیف شنت^(۵) تو امام اعظم کے نزدیک بدوں چاہنے کے آزاد ہو جائے گا یہ محیط میں ہے۔

باب : ۵

عتق بجعل کے بیان میں

(یعنی عتق پر اجرت و عوض مقرر کیا بمقابلہ فعل کے فہم)

اگر اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے بعوض ہزار درہم کے پس غلام نے کہا کہ میں نے نصف میں قبول کیا یعنی اپنے نفس کی آزادی کو نصف کے عوض قبول کیا تو یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں:

ایک شخص نے اپنا غلام مال پر آزاد کیا اور اس نے قبول کیا تو آزاد ہو جائے گا مثلاً کہا کہ تو آزاد ہے ہزار درہم پر یا ہزار درہم یا برائیکہ تو مجھے ہزار درہم دے یا برائیکہ تو مجھے ہزار درہم ادا کر یا برائیکہ تو مجھے ہزار درہم عطا کر دے یا برائیکہ تجھ پر میرے ہزار درہم ہیں یا ہزار درہم پر کہ ان کو تو مجھے ادا کرے یا کہا کہ میں نے تیرا نفس تیرے ہاتھ اتنے پر فروخت کیا یا میں نے تیرا نفس تجھے بیہ کیا برائیکہ تو مجھے اس قدر معاوضہ دے تو یہ سب صحیح ہے اور جو کچھ غلام کے ذمہ شرط کیا ہے وہ اس پر قرضہ ہے گا حتیٰ کہ غلام کی طرف سے مولیٰ کے لئے اس کی کفالت صحیح ہے اور جیسے اس مال کی کفالت صحیح ہے ویسے ہی یہ بھی روا ہے کہ مولیٰ اس کے عوض جو چاہے ہاتھوں ہاتھ بدل لے مگر اس کے ادھار میں خیر نہیں ہے اور غلام کا قبول کرنا ضرور ہے پس اگر وہ مجلس ایجاب میں حاضر ہو تو اسی مجلس تک اسکے قبول کا اعتبار ہے اور اگر غائب ہو تو اس کی مجلس علم کا اعتبار ہے اور یہ بھی ضرور ہے کہ کل میں غلام قبول کرے

۱۔ قال المترجم مراد یہ ہے کہ مثل کتابت کے نہیں ہے بلکہ غلام بہر حال آزاد ہے خواہ یہ معاوضہ ادا کرے یا نہ کرے کبھی رفیق نہیں گناجا سکتا ہے ہاں جو معاوضہ ٹھہرا ہو وہ غلام پر قرضہ ہے ۱۲۔ ۲۔ اطلاق لفظ عدم خیر سے اسحیح یہ ہے کہ مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے اور قبل الاغیر ذلک من الاقوال ۱۲۔

(۱) یہ توکیل ہے ۱۲۔ (۲) اس وجہ سے کہ توکیل ہے ۱۲۔ (۳) تو آزاد ہے جس وقت تو چاہے جب تو ہر بار کہ تو چاہے ۱۲۔ (۴) تو آزاد ہے جہاں تو چاہے ۱۲۔ (۵) تو آزاد ہے بہر کیف کہ تو چاہے ۱۲۔

چنانچہ اگر اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے بعوض ہزار درہم کے پس غلام نے کہا کہ میں نے نصف میں قبول کیا یعنی اپنے نفس کی آزادی کو نصف کے عوض قبول کیا تو یہ امام اعظمؒ کے نزدیک جائز نہیں ہے بلکہ پورا غلام بعوض پورے مال کے آزاد ہو جائے گا یہ بحر الرائق میں ہے اور اس کی اولاد اس کے مولیٰ کی ہوگی۔ یہ بدائع میں ہے اور اگر حیوان یا کپڑا ان کی جنس غرس و حمار وہ ہردی و مردی وغیرہ بیان کرنے کے بعد اس کو عوض قرار دیا ہو تو غلام کے ذمہ ان میں سے اوسط درجہ کا اسی جنس کا لازم آئے گا اور اگر غلام اس اوسط کی قیمت لایا تو بنا بر مشہود کے مولیٰ اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر جنس کا بیان نہ کیا گیا ہو مثلاً غلام سے کہا کہ تجھ پر ایک حیوان یا کپڑا چوپایہ ہے اور غلام نے اس کو قبول کیا تو آزاد ہو جائے گا مگر غلام پر اپنی قیمت واجب ہوگی اور اگر غلام نے جو چیز قرار پائی تھی وہ ادا کر دی یعنی حیوان یا کپڑا وغیرہ پھر وہ استحقاق میں لے لیا گیا پس اگر عقد میں وہ غیر معین تھا یعنی حیوان یا کپڑا نہ تھا بلکہ جنس بیان کر کے اسی جنس کا اوسط درجہ کا دیا تھا تو غلام پر اس کے مثل دینا لازم ہوگا اور اگر معین ٹھہرا ہو مثلاً کہا کہ میں نے تجھ کو اس غلام یا اس کپڑے پر آزاد کیا یا میں نے تجھے تیرے ہاتھ اس باندی پر فروخت کیا اور غلام اس کو قبول کر کے آزاد ہو گیا اور عوض کو مولیٰ کے سپرد کیا پھر وہ استحقاق میں لے لیا گیا تو امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک غلام سے اس کی ذات کی قیمت لے لے گا اور اگر مال عوض کی جنس یا مقدار میں اختلاف واقع ہوا کہ مولیٰ نے کہا کہ میں نے تجھے غلام پر آزاد کیا ہے اور غلام مذکور نے کہا کہ گڑ گیہوں پر یا ہزار درہم پر آزاد کیا ہے یا مولیٰ نے کہا کہ ہزار درہم پر اور غلام نے کہا کہ سو درہم پر تو قسم سے غلام کا قول قبول ہوگا اور اسی طرح اگر غلام نے اصل مال سے انکار کیا یعنی سرے سے کچھ مال نہیں ٹھہرا ہے تو بھی قسم سے قول اس کا اور گواہ مولیٰ کے قبول ہوں گے یہ فتح القدیر میں ہے۔

اگر مولیٰ نے کہا کہ میں نے تجھے کل کے روز ہزار درہم پر آزاد کیا تھا مگر تو نے قبول نہیں کیا اور غلام نے کہا کہ میں نے قبول کیا تھا تو قسم سے مولیٰ کا قول قبول ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر اپنے مولیٰ سے کہا کہ مجھے ہزار درہم پر آزاد کر دے پس مولیٰ نے اس کا نصف حصہ آزاد کر دیا تو نصف مفت میں آزاد ہو جائے گا اور اگر کہا کہ مجھے ہزار درہم کے عوض آزاد کر دے پس مولیٰ نے نصف آزاد کیا تو امام اعظمؒ کے نزدیک^۱ نصف بعوض پانچ سو درہم کے آزاد ہوگا۔ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے ان میں سے ایک نے کہا کہ تو آزاد ہے بعوض ہزار درہم کے اور اس نے قبول کیا تو اس کا نصف^۲ حصہ بعوض پانچ سو درہم کے آزاد ہوگا لیکن اگر دوسرے نے اجازت دے دی تو ہزار درہم دونوں میں مشترک ہوں گے۔ یہ امام اعظمؒ کا قول ہے اور اگر کہا کہ میں نے اپنا حصہ بعوض ہزار درہم کے آزاد کیا اور غلام نے قبول کیا تو غلام پر ہزار درہم آزاد کنندہ کے واسطے لازم آئیں گے اور اس میں اس کا شریک مشارک نہ ہوگا اور اگر ایک نے کہا کہ جب تو نے مجھے ہزار درہم ادا کر دیے تو تو آزاد ہے پھر غلام نے کمائی کر کے اس کو ہزار درہم ادا کئے تو اس کا حصہ آزاد ہو گیا اور دوسرے کو اس مال میں شرکت کرنے کا اختیار ہے اس واسطے کہ اس نے یہ مال حالت رقیقیت میں کمایا ہے پس اگر شریک نے حصہ بانٹ لیا تو آزاد کنندہ غلام سے واپس نہیں لے سکتا ہے اس واسطے کہ غلام نے جو شرط کی تھی اس کو ادا کر دیا اور اگر اس نے یوں کہا کہ جب تو مجھے ہزار درہم ادا کر دے تو میرا حصہ آزاد ہے تو شریک سے جو دوسرے شریک نے لے لیا ہے اس قدر غلام سے واپس لے گا یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ تو ہزار درہم پر آزاد ہے پھر قبل اس کے کہ غلام

۱۔ جس مجلس میں آگاہ ہوگا۔ ۲۔ صاحبین کے نزدیک کل آزاد ہوگا۔ ۳۔ بشرطیکہ دونوں مساوی شریک ہوں۔ ۴۔

(۱) یعنی اگر فلاں چاہے۔ (۲) جس وقت آیا فلاں۔ (۳) اگر میں دار میں داخل ہوا اگر میں نے فلاں سے کلام کیا۔ (۴) تو میرا غلام آزاد ہے۔ (۵) یعنی تصدیق نہ ہوگی۔

قبول کرے کہا کہ تو سو دینار پر آزاد ہے پس غلام نے کہا کہ میں نے دونوں مالوں کے عوض قبول کیا تو آزاد ہو جائے گا اور دونوں مال اس پر لازم آئیں گے اور یہ اس وقت ہے کہ غلام نے کہا ہو کہ میں نے دونوں مالوں کے عوض قبول کیا یا آنکہ اس نے فقط یوں کہا کہ میں نے قبول کیا اور اگر کہا کہ میں نے دونوں میں سے ایک مال درہم یا دینار کو قبول کیا تو آزاد نہ ہوگا یہ شرح طحاوی میں ہے۔
اگر اپنے غلام سے کہا کہ ادا کر دے مجھے ہزار درہم تو تو آزاد ہے تو جب تک ہزار درہم ادا نہ کرے تب تک آزاد نہ ہوگا:

اگر غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے اور مجھے ہزار درہم ادا کر دے تو غلام مفت آزاد ہو جائے گا یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ ادا کر دے مجھے ہزار درہم تو تو آزاد ہے تو جب تک ہزار درہم ادا نہ کرے تب تک آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ مجھے ہزار درہم ادا کر دے پس تو آزاد ہے تو فی الحال آزاد ہو جائے گا۔ یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر کہا کہ مجھے ہزار درہم ادا کر دے تو آزاد ہے تو فی الحال آزاد ہو جائے گا خواہ ادا کئے یا نہ کئے ہوں یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے اور تجھ پر ہزار درہم ہیں تو فی الحال آزاد ہو جائے گا اور ہزار درہم اس پر واجب نہ ہوں گے خواہ اس نے قبول کیا یا نہ کیا۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ اگر اس نے قبول کیا تو آزاد ہو جائے گا اور ہزار درہم لازم آئیں گے اور اگر نہ قبول کیا تو آزاد نہ ہوگا یہ نیا بیع میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ میری طرف سے ایک غلام آزاد کر دے اور تو آزاد ہے یا میری طرف سے یہ لفظ نہ کہا یا یوں کہاں کہ جب تو نے میری طرف سے ایک غلام آزاد کیا تو تو آزاد ہے تو صحیح ہے اور غلام کا لفظ راجع بوسط ہوگا یعنی اوسط درجہ کا غلام آزاد کر دے اور یہ غلام ماذون التجارة ہو جائے گا پھر اگر اس نے ادنیٰ درجہ یا اعلیٰ درجہ کا غلام آزاد کیا تو نہیں جائز ہے۔ پس اگر اس نے اوسط درجہ کا غلام آزاد کیا تو دونوں بلا سعایت آزاد ہو جائیں گے بشرطیکہ اس نے حالت صحت میں کہا ہو اور اگر حالت مرض ^(۱) میں کہا ہو اور ان دونوں کے سوائے اس کا کچھ مال نہ ہو تو ایک تہائی ان دونوں کے درمیان موافق ان کے سہام کے تقسیم ہوگی پس اگر مامور کی قیمت ساٹھ دینار ہوں اور دوسرے کی قیمت چالیس دینار ہوں تو مامور کا دو تہائی حصہ بلا سعایت آزاد ہو جائے گا اس واسطے کہ وہ بعوض ہے پس وہ وصیت نہ ہوگی اور ایک تہائی بلا عوض ہے پس مال میت تہائی حصہ اس مامور کا اور پورا غلام وسط ہے کہ مجموعہ اس کا ساٹھ دینار ہوئے وہ ان دونوں میں دونوں کے حقوق کے موافق تقسیم ہوگا جس میں سے تہائی مامور کا حصہ یعنی چھ درہم و دو تہائی حصہ درہم ہو پس اس قدر بلا سعایت آزاد ہو جائے گا اور باقی تیرہ درہم ایک تہائی حصہ درہم کے واسطے سعایت کرے گا اور غلام اوسط سے تیرہ ۱۳ درہم و ایک تہائی حصہ درہم بلا سعایت آزاد ہوگا اور باقی چھبیس ۲۶ دو تہائی حصہ درہم کے واسطے سعایت کرے گا پس سہام وصیت میں ہوئے اور سہام سعایت چالیس ہوئے پس تہائی و دو تہائی ٹھیک برآمد ہوئی۔ اگر غلام وسط کی قیمت مثل سہام مامور کے یا زیادہ ہو تو پورا غلام مامور بلا سعایت آزاد ہو جائے گا اور بدل مذکور یعنی غلام وسط تہائی سے آزاد ہوگا اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ میری طرف سے میری موت کے بعد ایک غلام آزاد کر دے اور تو آزاد ہے تو یہ صورت سابق دونوں یکساں ہیں فرق یہ ہے کہ اگر اس صورت میں درمیانی درجہ کا غلام آزاد کیا تو مامور آزاد نہ ہوگا الا باعتاق وارث یا وصی یا قاضی اور صورت سابق میں جب مامور نے اوسط درجہ کا غلام آزاد کر دیا تو بدون کسی کے آزاد کے آزاد کرنے کے خود آزاد ہو جائے گا اور اگر مولیٰ کی موت کے بعد وارثوں نے غلام مامور سے کہا کہ تو غلام آزاد کرو نہ ہم تجھ کو فروخت کر دیں گے تو ان کو یہ اختیار حاصل نہ ہوگا لیکن قاضی اس غلام مامور کو

تین روز یا زیادہ کی مہلت موافق اپنی رائے کے دے گا یہ کافی میں ہے پھر جس مدت کے قاضی نے اس کو مہلت دی ہے اگر اس مدت میں اس نے ایک غلام وسط آزاد کیا تو قاضی مامور کو آزاد کرے گا ورنہ اس کو وارثوں کو دے دے گا اور اس کی بیع کی اس کو اجازت دے دے گا اور ابطال وصیت کا حکم دے دے گا اور اگر مولیٰ نے اپنے وارثوں سے کہا ہو کہ جب میری موت کے بعد یہ ایک غلام آزاد کر دے تو اس کو آزاد کر تو یہ صورت اور جب کہ یوں کہا کہ جب تو میری موت کے بعد ایک غلام آزاد کر دے تو تو آزاد ہے دونوں یکساں ہیں یہ محیط میں ہے۔

اگر غلام نے اپنے مولیٰ سے کہا کہ فروخت کر دے میرے ہاتھ میرا نفس اور مولیٰ نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو غلام آزاد ہو جائے گا:

ابن ساعد نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ اگر اپنے غلام سے کہا کہ میں نے فروخت کیا تیرا نفس تیرے ہاتھ اور یہ ہزار درہم جو تیرے ہاتھ میں ہیں بعوض ہزار درہم کے تو فرمایا کہ وہ آزاد ہے اور جو غلام کے ہاتھ میں ہے وہ مولیٰ لے لے گا اور اس پر کچھ اور واجب نہ ہوگا اور اسی طرح اگر اس کے غلام نے اس سے کہا کہ فروخت کر دے میرے ہاتھ میرا نفس اور یہ ہزار درہم بعوض سو درہم کے تو مولیٰ پورے ہزار درہم لے لے گا اور غلام مفت آزاد ہو جائے گا اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ فروخت کیا میں نے تیرا نفس تیرے ہاتھ اور یہ سو دینار بعوض ہزار درہم کے اور غلام نے اس کو قبول کیا اور غلام کی قیمت سو دینار کے برابر ہے تو ہزار درہم میں سے پانچ سو درہم بمقابلہ غلام کے اور پانچ سو بمقابلہ دیناروں کے ہوں گے پس اگر قبل افراق کے غلام نے ہزار درہم دے دے تو یہ دینار غلام کے ہوں گے اور غلام آزاد ہو جائے گا اور اگر قبل ادا^(۱) کرنے کے دونوں جدا ہو گئے تو ہزار میں سے دیناروں کا حصہ باطل ہو گیا یعنی بیع صرف باطل ہوئی پس دینار مولیٰ کے ہوئے اور پانچ سو درہم جس کے عوض غلام آزاد ہو گیا وہ غلام پر قرضہ رہے۔ ہشام نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ اگر غلام نے اپنے مولیٰ سے کہا کہ فروخت کر دے میرے ہاتھ میرا نفس اور مولیٰ نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو غلام آزاد ہو جائے گا اور اپنی پوری قیمت کے واسطے سعایت کرے گا۔ یہ محیط سرحسی میں ہے اور اپنے غلام کو آزاد کیا بعوض ایسے مال کے کہ اس کو کسی اجنبی پر رکھا اور اجنبی نے اس کو قبول کیا تو مال اس کے ذمہ لازم نہ ہوگا یہ بسوط میں ہے اور اگر کسی مرد نے دوسرے سے کہا کہ تو اپنے غلام کو اپنی طرف سے بعوض ایسے ہزار درہم کے آزاد کر دے کہ وہ مجھ پر میں پس اس نے آزاد کر دیا تو اس مرد پر مال لازم نہ آئے گا اور اگر ادا کر دیا تو بھی اس کو واپس کر لینے کا استحقاق ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ کسی آدمی نے اپنے غلام کو شراب (خمر) یا سور پر آزاد کر دیا تو قبول کرنے سے آزاد ہو جائے گا اور مستمی کی قیمت لازم ہوگی اور اگر قبل وصول خمر کے دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو شیخین کے نزدیک غلام پر اپنی قیمت واجب ہوگی اور امام محمد کے نزدیک شراب کی قیمت واجب ہوگی یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ جب تو نے مجھے ہزار درہم ادا کیے تو تو آزاد ہے یا ہر گاہ کہ تو نے ادا کیے تو یہ صحیح ہے اور اسی مجلس تک مقصود نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگر تو نے مجھے ہزار درہم ادا کیے تو تو آزاد ہے تو یہ مجلس ہی تک مقصود ہے اور ان سب صورتوں میں غلام مازون التجارة ہو جائے گا اور جب اس نے مال ادا کیا تو آزاد ہو جائے گا پھر دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے یہ مال قبل اس کلام مولیٰ کے کمایا ہے تو غلام آزاد ہوا اور مال سب مولیٰ کا ہوگا اور غلام کے ذمہ دوسرے ہزار درہم واجب ہوں گے اور اگر ایسا مال ہے کہ اس نے بعد اس کلام کے کمایا ہے تو غلام آزاد ہوگا اور وقت آزاد ہونے تک جو کچھ کمائی ہے وہ مولیٰ کی ہوگی اور ہزار درہم

معاوضہ میں سے غلام پر کچھ نہ ہوگا یہ نیا بیع میں ہے اور قبل ادا کرنے کے مولیٰ کو اس کے فروخت کا اختیار ہے اور اگر اس نے بدل میں سے کچھ ادا کرنا چاہا تو مولیٰ نے اس کے قبول پر مجبور کیا جائے گا لیکن غلام آزاد نہ ہوگا جب تک کہ کل ادا نہ کرے اور اگر مولیٰ نے اس کو کل سے یا بعض سے بری کیا تو بری نہ ہوگا اور آزاد نہ ہوگا یہ سراج و باج میں ہے۔

غلام نے اگر مال حاضر کیا یا بیٹور کہ مولیٰ اور مال کے درمیان سے روک اٹھادی کہ مولیٰ اس کے قبضہ پر قادر ہے تو حاکم مولیٰ کو مجبور کرے گا اور اس کو بمنزلہ قابض کے قرار دے گا اور غلام کے آزاد ہونے کا حکم دے دے گا خواہ مولیٰ نے قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ تبین میں ہے اور اگر مولیٰ نے اجنبی سے کہا کہ جب تو مجھے ہزار درہم ادا کر دے تو میرا یہ غلام آزاد ہے پھر وہ اجنبی ہزار درہم لایا اور مولیٰ کے سامنے رکھے تو مولیٰ اس کو قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر مولیٰ نے قسم کھائی ہو کہ ہزار مذکور پر قبضہ نہیں کیا تو حادث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر مولیٰ نے غلام سے کہا کہ جب تو مجھے ہزار درہم ادا کر دے تو تو آزاد ہے پھر غلام نے مولیٰ سے کہا کہ تو بجائے اس کے مجھ سے سو دینار لے لے پس مولیٰ نے لے لئے تو غلام آزاد نہ ہوگا الا آنکہ مولیٰ نے اس کی درخواست مذکور کے وقت کہا ہو کہ اگر تو نے مجھے یہ ادا کیے تو تو آزاد ہے تو بسبب اس دوسری قسم کے آزاد ہو جائے گا جیسے کہ اگر مولیٰ نے کہا کہ جب تو مجھے ہزار درہم ادا کر دے تو تو آزاد ہے پھر کہا کہ اگر تو مجھے پانچ سو درہم ادا کر دے تو تو آزاد ہے پس اس نے پانچ سو درہم ادا کر دیئے تو بسبب دوسری قسم کے آزاد ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر مولیٰ مر گیا تو غلام مذکور قیق ہوگا کہ غلام مع اس کی کمائی کے مولیٰ کی میراث ہوگا اس واسطے کہ غلام اور جو کچھ اس نے کمایا ہے مولیٰ کی ملک ہے اور اس کمال میں سے غلام کی طرف سے ادا نہ کیا جائے گا یہ نہر الفائق میں ہے اور اگر مولیٰ نے کہا کہ اگر تو نے مجھے ہزار درہم ادا کر دیئے تو تو آزاد ہے پھر اس غلام کو فروخت کیا پھر مولیٰ نے اس کو خرید کیا یا بسبب عیب یا خیار رویت یا خیار شرط کے مولیٰ کو واپس دیا گیا پھر غلام مذکور ہزار درہم لایا تو مولیٰ اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر اس نے قبول کر لئے تو غلام آزاد ہو جائے گا یہ شرح زیادات عثمانی میں ہے۔

اگر اپنے غلام سے کہا کہ جب تو مجھے ہزار درہم ادا کر دے تو تو آزاد ہے پس غلام نے کسی سے ہزار درہم قرض لے کر مولیٰ کو دے دیئے تو غلام آزاد ہو گیا اور قرض خواہ مذکور مولیٰ سے رجوع کر کے اپنے ہزار درہم وصول کر لے گا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ جب تو مجھے فلاں چیز اسباب میں سے دے دے تو تو آزاد ہے پس غلام نے یہ چیز دے دی تو آزاد ہو جائے گا لیکن جاننا چاہئے کہ اگر یہ چیز ایسی ہو کہ صورت کتابت میں بدل کتابت ہو سکتی ہے تو مولیٰ اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا (۱) جائے گا اور اگر صورت کتابت میں بدل کتابت ہونے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو تو مولیٰ اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا لیکن اگر اس نے قبول کر لیا تو غلام آزاد ہو جائے گا یہ مبسوط میں ہے اور اگر غلام سے کہا کہ تو نے مجھے ایک کپڑا ادا کر دیا یا کہا کہ اگر تو نے مجھے درہم ادا کر دئے تو تو آزاد ہے پس غلام نے ایک کپڑا لا کر دے دیا یا تین درہم یا زیادہ لا کر دے دیئے تو مولیٰ اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور باوجود اس کے اگر اس نے اس کو قبول کر لیا تو شرط پائی جانے کی وجہ سے آزاد ہو جائے گا یہ کافی میں ہے اور اگر کہا کہ جب فلاں آئے پس تو مجھے ہزار درہم ادا کر دے تو تو آزاد ہے پس فلاں آیا اور اس نے ہزار درہم ادا کئے تو مولیٰ اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا پھر دیکھا جائے گا کہ یہ ہزار درہم ایسے ہوں کہ غلام نے فلاں کے آنے سے پہلے کمائے ہیں تو غلام مذکور آزاد تو ہو جائے گا مگر مولیٰ اس سے دوسرے ہزار درہم لے لے گا یہ شرح زیادات عثمانی میں ہے اور اگر غلام سے کہا کہ

جب تو نے مجھے ایک غلام دے دیا تو تو آزاد ہے اور یہ نہ بتلایا کہ کس قیمت کا غلام یا کس جنس کا غلام تو یہ جائز ہے اور جب غلام کی طرف سے قبول پایا گیا تو اس کے ذمہ ایک غلام ثابت ہوگا پھر اگر وہ اوسط درجہ کا ایک غلام لایا تو مولیٰ اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اسی طرح اگر اعلیٰ درجہ کا لایا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر ادنیٰ درجہ کا لایا تو مجبور نہ کیا جائے گا لیکن اگر مولیٰ نے قبول کر لیا تو غلام آزاد ہو جائے گا اور اگر غلام ایک اوسط درجہ کے غلام کی قیمت لایا تو مولیٰ اس کے قبول پر مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر مولیٰ نے اس کو پسند کر کے قبول کر لیا تو غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جب تو نے مجھے ایک اوسط درجہ کا غلام دے دیا یا کہا کہ اوسط درجہ کا ایک کر لیا تو تو آزاد ہے پھر غلام اعلیٰ درجہ کا غلام یا کر لیا تو مولیٰ اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر قبول کیا تو غلام آزاد نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ اگر تو نے مجھے سفید تھیلی میں ادا کئے تو آزاد ہے پس غلام نے سوائے سفید کے دوسرے تھیلی میں ادا کئے تو آزاد نہ ہوگا یہ مراجیہ میں ہے۔

اگر مولیٰ نے کہا کہ میں تجھے اس چیز پر جو اس صندوق میں ہے درہموں سے آزاد کیا اور غلام نے قبول کیا تو غلام آزاد ہو جائے گا:

اگر اپنی باندی سے کہا کہ جب تو نے مجھے ہزار درہم ماہواری سود رہم کے ادا کر دیئے تو تو آزاد ہے اور باندی نے قبول کیا تو یہ مکاتبہ نہیں ہے اور جب تک اس نے ادا نہیں کئے ہیں تب تک مولیٰ کو اس کے فروخت کر دینے کا اختیار ہے اور اگر باندی نے ایک مہینہ خالی دیا کہ کچھ اور نہیں کیا اور پھر تو آزاد نہ ہوگی اور یہ ابو حفص کی روایت میں مذکور ہے اور یہی صحیح ہے اور اس کی صحت کی دلیل یہ ہے کہ اگر باندی سے کہا کہ جب تو نے مجھے اس مہینہ میں ہزار درہم ادا کر دیئے تو تو آزاد ہے پھر اس نے اس مہینہ میں ادا نہ کیے اور دوسرے مہینہ میں ادا کئے تو آزاد نہ ہوگی یہ بدائع میں ہے اور اگر مولیٰ نے کہا کہ میں تجھے اس چیز پر جو اس صندوق میں ہے درہموں سے آزاد کیا اور غلام نے قبول کیا تو غلام آزاد ہو جائے گا اور اس پر اپنی قیمت واجب ہوگی یہ سراجیہ میں ہے اور اگر غلام سے کہا کہ میری و میرے پسر کی ایک سال تک خدمت کر دے تو تو آزاد ہے یا کہا کہ جب تو نے میری اور میرے پسر کی ایک سال خدمت کر دی تو تو آزاد ہے پھر مولیٰ سال گزرنے سے پہلے مر گیا تو غلام آزاد نہ ہوگا اور اسی طرح اگر پسر مر گیا تو بھی اس کے مرنے سے شرط حق کی جاتی رہی پھر اس کے بعد وہ آزاد نہ ہوگا وہ مبسوط میں ہے اور اگر غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے اس شرط پر کہ تو چار برس میری خدمت کر دے پس غلام نے قبول کر لیا تو آزاد ہو گیا مگر اس پر چار برس اس کی خدمت کرنی واجب ہوگی اور اگر قبل خدمت کر دے پس غلام نے قبول کر لیا تو آزاد ہو گیا۔ مگر اس پر چار برس اس کی خدمت واجب ہوگی اور قبل خدمت کے مولیٰ مر گیا تو خدمت باطل ہو گئی اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ و امام ابو یوسف کے نزدیک غلام پر اپنی قیمت واجب ہوگی اور اگر ایک سال خدمت کے بعد مولیٰ مرا تو شیخین کے نزدیک غلام پر اس کی تین چوتھائی واجب ہوگی۔ اور اسی طرح اگر غلام مر گیا اور مال چھوڑا تو شیخین کے نزدیک اس میں سے غلام کی قیمت مولیٰ کو ادا کی جائے گی یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر کہا کہ تو نے ایک سال میری خدمت کر دی تو تو آزاد ہے پس غلام نے ایک سال سے کم خدمت کی یا خدمت کے عوض کوئی مال دے دیا تو آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگر تو نے میری و میری اولاد کی سال بھر کی خدمت کر دی تو تو آزاد ہے پھر سال میں اس کی اولاد میں سے بعض مر گیا تو آزاد نہ ہوگا یہ غایہ سروجی میں ہے اور اگر وصیت کے وقت اپنی باندی سے کہا کہ اگر تو نے میرے بسرو دختر کی اس وقت تک خدمت کر دی کہ وہ بے

پروا ہو جائیں تو تو آزاد ہے پس اگر دونوں صغیر ہوں تو مراد یہ ہوگی کہ اس وقت تک خدمت کر دے کہ وہ دونوں اور ایک کو پہنچ جائیں اور اگر کبیر ہوں تو اس پر محمول ہوگا کہ دختر کی اس وقت تک خدمت کرے کہ اس کا نکاح ہو جائے اور پسر کی اس وقت تک کہ اس کو ایک باندی کا ثمن حاصل ہو جائے اور اگر دختر کا نکاح ہو گیا اور پسر باقی رہا تو دونوں کی خدمت کرے اور اگر دونوں میں سے ایک مر گیا خواہ دونوں صغیر تھے یا کبیر تھے تو وصیت باطل ہوگئی یہ محیط میں ہے۔

ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ اپنی میں باندی کو آزاد کر دے ہزار درہم پر بدیں شرط کہ مجھے اس کا نکاح کر دے پس مولیٰ نے اس کو آزاد کر دیا پھر باندی آزاد شدہ نے اس مرد سے نکاح کرنے سے انکار کیا تو عتق از جانب مولیٰ واقع ہوگا:

اور اگر اپنی باندی سے کہا کہ جب تو نے مجھے ہزار درہم ادا کر دیئے تو تو آزاد ہے پھر اس کے ایک بچہ پیدا ہوا پھر اس نے ہزار درہم ادا کئے تو اس کا بچہ اس کے ساتھ آزاد نہ ہوگا اور اگر اس نے ہزار درہم مال مولیٰ سے ادا کئے تو بسبب وجود شرط کے آزاد ہو جائے گی اور مولیٰ کو اختیار ہوگا کہ اس کے مثل اس سے لے لے اور اگر مولیٰ اس قول کے کہنے کے وقت کہ جب تو ہزار درہم ادا کرے تو تو آزاد ہے بیمار ہو پس باندی نے کمائی کر کے مال مذکور ادا کیا پھر مولیٰ اسی مرض سے مر گیا تو قیاساً مولیٰ کے تہائی مال سے آزاد ہوگی اور استحساناً اس کے پورے مال سے آزاد ہوگی اور اگر مولیٰ نے کہا کہ ہر گاہ تو مجھے ہزار درہم ادا کر دے تو تو آزاد ہے پھر قبل ادا کرنے کے مولیٰ مر گیا تو یہ قول باطل ہو گیا یہ مبسوط میں ہے۔ ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ اپنی باندی کو آزاد کر دے ہزار درہم پر بدیں شرط کہ مجھے اس کا نکاح کر دے پس مولیٰ نے اس کو آزاد کر دیا پھر باندی آزاد شدہ نے اس مرد سے نکاح کرنے سے انکار کیا تو عتق از جانب مولیٰ واقع ہوگا اور مرد مذکور پر کچھ واجب نہ ہوگا اور اگر مرد مذکور^(۱) نے یوں کہا کہ اپنی باندی کو میری طرف سے ہزار درہم پر آزاد کر دے اور باقی مسئلہ بحال ہے تو ہزار درہم اس کی قیمت اور اس کے مہر مثل پر تقسیم ہوں گے پس جو کچھ اس کی قیمت کے پڑتے میں پڑیں وہ مرد مذکور پر واجب ہوں گے اور جس قدر مہر مثل کے پڑتے میں پڑیں وہ اس سے ساقط ہوں گے اور اگر باندی مذکور نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو ہزار میں سے جو کچھ اس کی قیمت کے پڑتے میں پڑیں وہ اول صورت میں ساقط ہوں گے اور دوسری صورت میں مولیٰ کے ہوں گے اور جس قدر مہر مثل کے پڑتے میں پڑیں وہ دونوں صورتوں میں باندی کا مہر ہوں گے یہ کافی میں ہے۔

اگر اپنی ام ولد کو بدیں شرط آزاد کیا کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے پس ام ولد نے قبول کیا تو آزاد ہو جائے گی پھر اگر مولیٰ سے اپنا نکاح کرنے سے انکار کیا تو اس پر سعایت واجب نہ ہوگی اور اگر باندی کو اس شرط پر آزاد کیا کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے پھر اس نے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کیا تو باندی پر اپنی قیمت کے واسطے سعایت واجب ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے ایک عورت نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے تجھے ہزار درہم پر آزاد کیا بدیں شرط کہ تو دس درہم پر مجھے اپنے نکاح میں لے لے پس اس نے قبول کیا پھر اس نے نکاح کرنے سے انکار کیا تو اس پر ہزار درہم واجب ہوں گے اور اگر اس کی قیمت ہزار سے زیادہ ہوں تو پوری قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر عورت نے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا بدیں شرط کہ تو مجھے اپنے نکاح میں لے لے اور ہزار درہم میرا مہر دے پس اس نے قبول کیا پھر نکاح کر لینے سے انکار کیا تو آزاد ہو جائے گا اور اس پر اپنی قیمت کے واسطے

سعایت واجب ہوگی اور اگر عورت سے سو درہم پر نکاح کر لیا اور وہ راضی ہوگئی تو غلام مذکور پر سعایت واجب نہ ہوگی اور اگر غلام نے اس سے ہزار درہم پر نکاح کرنے کو کہا مگر عورت نے انکار کیا تو بھی غلام پر سعایت لازم نہ ہوگی یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر اپنے دو غلاموں سے کہا کہ جب تم دونوں ہزار درہم ادا کر دو تو تم آزاد ہو۔ تو دونوں کے ادا کرنے کا اعتبار ہے۔ اگر ایک نے سب مال اپنے پاس سے ادا کیا بایں طوز کہ کہا کہ پانچ سو درہم میری طرف سے اور پانچ سو درہم بطور احسان کے اپنے ساتھی کی طرف سے دیتا ہوں تو آزاد نہ ہوں گے لیکن اگر اس نے کہا کہ پانچ سو درہم میری طرف سے اور پانچ سو درہم میرے ساتھی نے بھیجے ہیں تو اس وقت دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ اگر کسی اجنبی نے ہزار درہم ادا کئے تو یہ دونوں آزاد نہ ہوں گے الا آنکہ یوں کہے کہ میں ان دونوں کی آزادی کے واسطے ہزار درہم دیتا ہوں یا کہا کہ بدیں شرط کہ وہ دونوں آزاد ہیں تو مولیٰ کے قبول کر لینے سے وہ دونوں آزاد ہو جائیں گے اور اس ادا کرنے والے کو یہ اختیار ہوگا کہ مولیٰ سے یہ مال لے لے یہ محیط میں ہے۔

اگر کسی نے اپنے دو غلاموں سے کہا کہ تم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے تو جب تک دونوں اس مجلس میں قبول نہ کریں تب تک کوئی آزاد نہ ہوگا پس اگر دونوں نے قبول نہ کیا یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے تو ایجاب مذکور باطل ہو گیا اور اگر دونوں میں سے ایک نے قبول کیا اور دوسرے نے قبول نہ کیا تو آزاد نہ ہوگا اور اگر دونوں نے قبول کیا مگر اس طرح کہ ہر ایک نے کہا کہ بعوض پانچ سو درہم کے میں نے قبول کیا تو دونوں میں سے کوئی آزاد نہ ہوگا اور اگر دونوں میں سے ہر ایک نے کہا میں نے بعوض ہزار درہم کے قبول کیا یا ہزار درہم کا لفظ نہ کہا یا ایک نے کہا کہ میں نے ہزار درہم کے عوض قبول کیا تو مولیٰ سے کہا جائے گا کہ تو بیان کر پس جب اس نے ان دونوں میں سے ایک کا عتق بیان کیا تو وہ آزاد ہوگا اور اس پر ہزار درہم لازم آئیں گے اور اگر قبل بیان کے مر گیا تو یہ رقبہ ان دونوں میں برابر تقسیم ہوگا پس ہر ایک میں سے نصف آزاد ہوگا بعوض پانچ سو درہم کے اور باقی نصف (۱) کے واسطے ہر ایک سعایت کرے گا یہ شرح طحاوی میں ہے۔ ایک مرد نے اپنے دو غلاموں سے کہا کہ تم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے پس دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا پھر کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بعوض پانچ سو کے آزاد ہے پس دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا تو پہلا ایجاب صحیح ہو اور دوسرا باطل ہے اور جب کلام اول صحیح ہوا تو جب تک مولیٰ زندہ ہے بیان کے واسطے اس کی طرف رجوع کیا جائے گا اور جب وہ قبل بیان کے مر گیا تو عتق ان دونوں میں شائع ہو گیا اور مال بھی عتق کی تبعیت میں شائع ہو جائے گا پس ہر ایک کا نصف حصہ بعوض پانچ سو درہم کے آزاد ہوگا اور ہر ایک اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے پس ہنوز ان دونوں نے قبول نہ کیا تھا کہ اس نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بعوض سو دینار کے آزاد ہے پھر دونوں نے قبول کیا تو دونوں ایجاب صحیح ہوں گے اور جب دونوں صحیح ہوئے اور دونوں نے قبول کیا تو ان کا قبول ان دونوں کلاموں کی طرف راجع کیا جائے گا اور مولیٰ کو اختیار دیا جائے گا چاہے دونوں پر بعوض ہر دو مال (۲) کے عتق واقع کرے اور چاہے دونوں میں سے ایک بر بعوض دونوں مالوں کے عتق واقع کرے اور بیان مولیٰ کے اور پر جس کو چاہے بیان کرے اور اگر قبل بیان کے مر گیا تو ہر ایک کا تین چوتھائی حصہ بعوض نصف دونوں مالوں کے آزاد ہوگا اور ہر ایک اپنی چوتھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا یہ کافی میں ہے۔

اگر اپنے غلام معین سے کہا کہ تو ہزار درہم پر آزاد ہے پھر قبل اس کے وہ قبول کرے اس کو اور ایک دوسرے اپنے غلام کو جمع کر کے کہا کہ تم میں ایک بعوض سو دینار کے آزاد ہے پس دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا تو مولیٰ کو اختیار ہے چاہے ہر دو کلام کو

اول غلام معین کی طرف راجع کرے اور وہ بعوض ہر دو مال کے آزاد ہوگا اور چاہے ہر دو غلام میں سے ایک غلام کو دوسرے غلام کی طرف راجع کرے اور معین مذکور بعوض ہزار درہم کے اور غیر معین بعوض سو دینار کے آزاد ہوگا اور اگر قبل بیان کے مولیٰ مر گیا تو معین مذکور پورا آزاد ہوگا اور غیر معین میں سے نصف حصہ بعوض پچاس دینار کے آزاد ہوگا اور یہ حکم اس وقت ہے کہ معین و غیر معین کی شناخت ہو اور اگر معلوم نہ ہو اور ہر ایک نے دونوں میں سے دعویٰ کیا کہ میں ہی اول معین ہوں تو ہر ایک میں سے تین چوتھائی حصہ بعوض ہر دو مال کے نصف کے آزاد ہوگا یعنی ہزار درہم کا نصف سو دینار کا نصف ہر ایک پر واجب ہوگا اور ہر ایک اپنی چوتھائی کی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اپنے دو غلاموں سے کہا کہ تم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے اور دوسرا بعوض پانچ سو درہم کے آزاد ہے پس اگر دونوں نے ساتھ کہا کہ ہم نے قبول کیا یا ہر ایک نے کہا کہ میں نے دونوں مالوں کے عوض قبول کیا یا ہر ایک نے کہا کہ میں نے ہر دو مال میں سے زیادہ کے عوض قبول کیا تو دونوں آزاد ہو جائیں گے پس دونوں میں سے ہر ایک کے ذمہ پانچ سو درہم لازم آئیں گے اور اگر دونوں میں سے ایک نے زیادہ مال اور دوسرے نے کم مال کے عوض قبول کیا تو وہی آزاد ہوگا جس نے دونوں مالوں میں سے زیادہ کے عوض قبول کیا ہے پس اس پر پانچ سو درہم^(۱) لازم آئیں گے کذا فی البدائع اور اگر دونوں نے ہر دو مال میں سے کم کے عوض قبول کیا تو کوئی آزاد نہ ہوگا یہ شرح طحاوی میں ہے۔

اگر دو غلاموں سے کہا کہ تم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے اور دوسرا بعوض دو ہزار درہم کے آزاد ہے پس ایک نے کہا کہ میں نے قبول کیا یعنی مطلقاً^۱ کہا یا یوں کہا کہ میں نے دو ہزار درہم کے عوض قبول کیا تو وہ آزاد ہو جائے گا اور اگر کہا کہ بعوض ہزار درہم کے قبول کیا تو آزاد نہ ہوگا اور اگر ہر دو مال از روی جنس کے مختلف ہوں مثلاً کہا کہ تم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے اور دوسرا بعوض سو دینار کے آزاد ہے پس ایک نے قبول کیا اس طرح کہ میں نے بعوض ہزار درہم کے قبول کیا تو آزاد نہ ہوگا اور اگر اس نے مطلقاً کہا کہ میں نے قبول کیا یا کہا کہ میں نے دونوں مالوں کے عوض قبول کیا تو آزاد ہو جائے گا اور غلام کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے جس کو چاہے اپنے ذمہ لازم کرے یہ شرح زیادات عثمانی میں ہے اور اگر کہا کہ تم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے اور دوسرا مفت آزاد ہے پس دونوں نے ایک ساتھ قبول کیا تو دونوں مفت آزاد ہو جائیں گے اور اگر ایک نے بعوض ہزار درہم کے قبول کیا تو مولیٰ سے کہا جائے گا کہ تو نے جو ایجاب بغیر بدل کیا ہے اس کو ان میں سے ایک کی طرف راجع کر پس اگر اس نے قبول کرنے والے کے سوائے دوسرے کی طرف راجع کیا تو وہ مفت آزاد ہو گیا اور قبول کنندہ بعوض ہزار درہم کے آزاد ہو اور اگر اس نے قبول کرنے والے کی طرف راجع کیا تو وہ مفت آزاد ہو گیا اور دوسرا بعوض بدل ہزار درہم کے آزاد ہوگا بشرطیکہ وہ اسی مجلس میں قبول کرے اور اسی طرح اگر دونوں میں سے کسی نے قبول نہ کیا یہاں تک کہ مولیٰ نے جو ایجاب مفت ہے ان میں سے ایک کی طرف راجع کیا تو وہ مفت آزاد ہو جائے گا اور دوسرا معاوضہ سے آزاد ہوگا بشرطیکہ اس نے مجلس میں قبول کیا ہو ورنہ آزاد نہیں ہو سکتا ہے اور اگر مولیٰ قبل بیان کے مر گیا تو جس نے قبول کیا ہے وہ سب آزاد ہو جائے گا اور اس پر پانچ سو درہم لازم ہوں گے اور دوسرے کا نصف حصہ آزاد ہوگا اور اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا یہ بدائع میں ہے۔

اگر کہا کہ تم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے پس دونوں نے قبول کیا پھر کہا کہ تم میں

۱۔ مطلقاً یعنی بالیقین کسی مقدار کے قبول کر لیا۔ ۱۲۔

سے ایک مفت آزاد ہے تو ایجاب اول صحیح ہوا:

اگر دونوں سے کہا کہ تم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے اور دوسرا بعوض سو دینار کے پس دونوں نے ساتھ ہی قبول کیا تو دونوں آزاد ہو جائیں گے اور ان پر کچھ لازم نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تم میں سے ایک مفت آزاد ہے تم میں سے ایک بعوض سو دینار کے آزاد ہے پس دونوں نے قبول کیا تو دونوں میں سے ایک مفت آزاد ہو جائے گا اور مولیٰ کو اختیار ہوگا کہ جس کو چاہے معین کرے اور دوسرا ایجاب باطل ہو گیا اور اسی طرح اگر کہا کہ تم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے پس دونوں نے قبول کیا پھر کہا کہ تم میں سے ایک مفت آزاد ہے تو ایجاب اول صحیح ہوا اور مولیٰ مختار ہوگا کہ جس کو چاہے معین کرے اور دوسرا ایجاب باطل ہے اور اگر کہا کہ تم میں سے ایک بعوض ہزار کے آزاد ہے تم میں سے ایک مفت آزاد ہے پس دونوں نے قبول کیا تو مفت آزاد ہو جائیں گے اور کسی پر کچھ واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ جس پر بدل واجب ہو اور ا مجہول ہے یہ کافی میں ہے اور اپنے دو غلاموں سے کہا کہ اے میمون تو آزاد ہے اسی مبارک ہزار درہم پر تو یہ مال اخیر پر واجب ہوگا اور اگر کہا کہ اے مبارک میں نے تجھے مکاتب کیا ہزار درہم پر اے میمون تو یہ کتابت اول پر ہوگی اس واسطے کہ دوسرے کی ندا کرنے سے پہلے جملہ تمام ہو گیا ہے۔ ایک شخص کے تین غلام ہیں پس اس نے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے سو درہم پر اور دوسرا دو سو درہم پر اور تیسرا تین سو درہم پر پھر ان سب نے سو میں قبول کیا اور مولیٰ قبل بیان کے مر گیا اور یہ امر اس کی صحت میں واقع ہوا تھا تو سب آزاد ہو جائے گے مگر ہر ایک اپنی دو تہائی قیمت اور سو کی تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر سب نے دو سو میں قبول کیا تو ہر ایک اپنی دو تہائی قیمت اور دو سو کی تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر انہوں نے فقط تین سو میں قبول کیا تو ہر ایک تہائی حصہ آزاد ہوگا اور اپنی دو تہائی قیمت اور سو درہم کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر دو غلاموں میں سے ایک سے کہا کہ تو آزاد ہے ہزار میں سے اپنے حصہ پر کہ جب ہزار تجھ پر اور دوسرے کی قیمت پر تقسیم کیے جائیں پس اس نے قبول کیا تو آزاد ہوگا اور شیخین کے نزدیک اس پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور امام محمد کے نزدیک ہزار سے زیادہ نہ ملے گی۔ یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے بعد میری موت کے ہزار درہم کے عوض تو قبول کرنا۔ اس کی موت کے بعد ہوگا اور جب اس نے بعد موت مولیٰ کے قبول کیا تو آزاد نہ ہو جائے گا جب تک وارث یا وصی آزاد نہ کرے یا وارث کے انکار پر قاضی آزاد کرے اور یہی اصح ہے اور اس کی ولاء میت کی ہوگی اور اگر وارث نے اس کو کفارہ میت سے آزاد کیا تو کفارہ سے آزاد نہ ہوگا۔ بلکہ میت کی طرف سے آزاد ہوگا یہ نہر الفائق میں ہے۔ پھر جاننا چاہیے کہ وصی کا اس غلام کا آزاد کرنا تحقیقا صحیح ہے یعنی خالص بلا تعلیق آزاد کر دے اور تعلیقاً نہیں صحیح ہے چنانچہ اگر یوں کہا کہ جب تو اس دار میں داخل ہو تو آزاد ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور وارث اس کو تحقیقا و تعلیقاً دونوں طرح آزاد کر سکتا ہے چنانچہ اگر کہا کہ جب تو اس دار میں داخل ہو تو آزاد ہے تو صحیح ہے اور دار میں داخل ہونے پر آزاد ہو جائے گا یہ غایبہ البیان میں ہے اور اگر مولیٰ نے کہا کہ جب میں مرا تو ہزار پر آزاد ہے یا کہا کہ جب تو نے بعد میری موت کے ہزار درہم مجھے ادا کیے تو تو آزاد ہے پس اس نے مولیٰ کی موت کے بعد ہزار درہم اس کے وارث کو دیے تو وہ اعتاق کا مستحق ہوگا یہ ترمثاشی میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ میری موت کے بعد ایک حج میری طرف سے کر اور تو آزاد ہے اور اس کے سوائے اس کا کچھ مال نہیں ہے تو مولیٰ کی طرف سے ایک حج وسط ادا کرے پھر وارث اس کو آزاد کر دیں گا اور وہ اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کریں گا۔ اور اگر باوجود اس کے میت نے کسی کے واسطے اپنے تہائی

۱۔ یعنی ہزار اس پر اور دوسرے کی قیمت دونوں قیمتوں پر تقسیم کئے جائیں جو کچھ اس کے پڑتے ہیں وہی اس کا حصہ ہے ۱۲۔

۲۔ یعنی یہ آزاد کرنا اسی میت کی جانب منسوب ہوگا ۱۲۔

مال کی وصیت کی ہو تو یہ تہائی اس موصی لہ اور غلام کے درمیان چار حصے ہوگی جس میں سے تین حصہ غلام کو ملیں گے اور باقی ایک حصہ گئی واسطے موصی لہ کے لیے سعایت کریں گا اور کل کی دو تہائی کی واسطے وارثوں کے لئے سعایت کریں گا یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ میری موت کے بعد میرے وصی لہ کو ایک حج کی قیمت دے کہ وہ میری طرف سے اس سے حج ادا کرے اور تو آزاد ہے تو درمیانی درجہ کے حج کی قیمت رکھی جائے گی یعنی اس کلام سے مراد یہ ہوگی کہ جب اس نے درمیانی درجہ کی قیمت ادا کر دی تو اس کا اعتاق واجب ہو اور حقیق کا نافذ کرنا حج ادا ہونے تک موقوف نہ رہے گا اور جب وہ آزاد ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر درمیانی حج کی قیمت اس کی قیمت کے برابر زیادہ ہو تو اس پر سعایت واجب نہ ہوگی۔ پھر وصی مذکور میت کی طرف سے اس قیمت سے تہائی سے حج کرادیں گا۔ جہاں سے ہو سکے اور اگر باوجود اس کے اس نے کسی کے واسطے تہائی مال کی وصیت بھی کی ہو تو دو تہائی قیمت حج وارثوں کی اور تہائی درمیان موصی لہ اور حج کے چار حصے ہوگی جس میں سے تین حصہ حج کے واسطے اور ایک حصہ موصی لہ کو دیا جائے گا اور اگر حج کی قیمت غلام کی دو تہائی قیمت ہو تو تہائی غلام خود غلام کے واسطے وصیت بھی ہو گیا پس یہ تہائی اس غلام اور موصی لہ حج کے درمیان چار حصہ ہوگی جس میں سے ایک حصہ غلام کو وصیت میں ملے گا کہ جو آزاد ہو جائے گا اور ایک حصہ موصی لہ کو ملے گا اور دو حصے حج کے واسطے ہوں گے جہاں سے پہنچ سکے یعنی غلام موصی لہ اور حج کے حصص کے واسطے سعایت کر کے ادا کرے گا یہ شرح زیادات عثمانی میں ہے۔ اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ میرے وصی کو ایک حج کی قیمت دے پھر جب تو نے دی اور میری طرف سے حج ادا کر دیا گیا تو تو آزاد ہے تو ایسی صورت میں حج ہو جانے تک اس کی تنفیذ عتق موقوف رہے گی اور اگر غلام حج وسط کی قیمت لایا تو وصی اس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور جب اس نے ادا کر دی اور حج ہو گیا تو حقیق کا نافذ کرنا واجب ہو اور جب وہ آزاد ہو گیا تو وارثوں کے واسطے اپنی دو تہائی قیمت کے لیے سعایت کرے گا خواہ حج کی قیمت کم ہو یا زیادہ ہو اور جو کچھ غلام نے وصی کو دیا ہے اس میں سے وارث لوگ کچھ نہیں لے سکتے ہیں اور قبل حج کے اس سے سعایت نہیں کر سکتے ہیں اور اگر باوجود اس کے میت نے کسی کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہو تو جو کچھ غلام نے ادا کیا ہے وصی اس سے حج کرادے گا پھر غلام کو آزاد کر دیں گا پھر غلام اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے وارثوں کے لیے اور تہائی کو چوتھائی قیمت کے واسطے موصی لہ کے لیے سعایت کریں گا یہ کافی میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ بعد میری موت کے میری طرف سے ایک حج کر اور تو آزاد ہے پھر مولیٰ شوال میں مر گیا پس غلام نے حج کے واسطے جانا چاہا تو وارثوں کو اختیار ہے کہ اس سال اس کو منع کریں بلکہ آئندہ سال تک تاخیر کرے پس غلام مذکور دو تہائی خدمت سے اس کا حق پورا کر دیں گا پھر اپنی ایک تہائی سے حج ادا کریں گا چنانچہ اگر مولیٰ حج کو جانے کے وقت چار مہینہ پہلے مر گیا اور حج کی آمد روفت کی مسافت دو مہینہ ہے تو چار مہینہ وارثوں کی خدمت کریں گا اور دو مہینہ حج کے واسطے صرف کریں گا تاکہ تہائی و دو تہائی ٹھیک ہو جائے اور اگر مولیٰ شوال میں مر اور وارثوں نے غلام سے کہا کہ تو حج کو جاؤ نہ ہم تجھ کو فروخت کرتے ہیں پس وہ نہ گیا تو وصیت بدون اس کی رضامندی کے باطل نہ ہوگی اور اگر مولیٰ نے کہا کہ تو اسی سال میری طرف سے حج کر دے اور تو آزاد ہے پھر مولیٰ شوال میں مر گیا تو وارثوں کو اختیار ہے کہ بسبب اپنے دو تہائی حق خدمت کے اس کو اس سال جانے سے منع کریں پھر جب انھوں نے اس کو روکا اور وقت گذر گیا تو اس کی وصیت باطل ہوگئی بسبب شرط عتق جاتے رہنے کے یعنی اسی سال حج کر دینا اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ میری موت کے بعد پانچوں برس حج کر دے اور تو آزاد ہے تو وہ برابر وارثوں کی خدمت کرتا

۱۔ موصی لہ وہ شخص جس کے واسطے وصیت کی گئی ہو ۱۲۔

۲۔ حج کی قیمت سے مراد یہ ہے کہ جس قدر خرچ سے حج وہاں سے ممکن ہے اور اس کو حج کی قیمت بجا معروف ہے اور تنفیذ کی معنی نافذہ پورا کرنا ۱۳۔

رہے گا یہاں تک کہ یہ سال آئے پھر جب یہ سال آیا تو جا کر حج کرے اور بعد فراغ کے اس کا اعتاق واجب ہو ایسے بعد آزادی کے وہ وارثوں کے لیے اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کریں گا اور اگر غلام سے کہا کہ تجھے ہزار درہم ادا کر دے میں اس سے حج کروں گا پس تو آزاد ہے تو آزاد ہونا ادائے ہزار درہم پر موقوف ہو گا نہ ادائے حج پر بخلاف اس کے اگر کہا کہ جب تو نے مجھے ہزار درہم ادا کیے جس سے میں نے حج کر لیا تو تو آزاد ہے تو جب تک حج نہ کر لے گا تب تک آزاد نہ ہو گا یہ شرح زیادات عثمانی میں ہے۔ فقیہ ابو جعفر سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ تو میری طرف سے ایک روزہ رکھ اور تو آزاد ہے یا کہا کہ میری طرف سے دو رکعت نماز پڑھ اور تو آزاد ہے تو فرمایا کہ غلام آزاد ہو گیا خواہ اس نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر اپنے وارثوں سے کہا کہ جب تم کو میرے فلاں غلام نے میری موت کے بعد ایک گریہوں ادا کر دیے تو وہ آزاد ہے یا کہا کہ تو اس کو آزاد کر پھر غلام مذکور ردی ایک کر گے ہوں لایا اور وارث نے قبول کر لیے تو آزاد نہ ہو گا اور اگر درمیانی درجہ کے لایا تو بھی آزاد نہ ہو گا جب تک وارث یا وصی یا قاضی آزاد نہ کرے یہ کافی میں ہے۔

باب : ۶

تدبیر کے بیان میں

قال المترجم مراد تدبیر سے یہ ہے کہ غلام کی آزادی کو اپنی موت کے بعد پر معلق کرنا یعنی بعد مرنے کے آزاد ہے ولی رجوع الیالمقدتہ۔ تدبیر دو نوع پر ہے مطلق و مقید تدبیر مطلق یہ ہے کہ غلام کا عتق فقط اپنی موت پر معلق کیا بدون انضمام کسی دوسری چیز کے کذا فی الینا بیع مثلاً کہا کہ تو مدبر^(۱) ہے اور اس کے واسطے چند الفاظ ہیں کہ کبھی بصریح لفظاً ہوتا ہے مثلاً کہا کہ تو مدبر ہے یا میں نے تجھے مدبر کیا اور کبھی بلفظ تحریر و اعتاق^(۲) ہوتا ہے جیسے کہا کہ تو حر ہی بعد میری موت کے یا میں نے تجھے محرر کیا بعد اپنی موت کے یا تو معتق یا عتق ہے بعد میری موت کے اور کبھی بلفظ نہیں ہوتا ہے مثلاً کہا کہ اگر میں مر گیا تو تو آزاد ہے یا کہا کہ جب میں مر گیا یا ہر گاہ کہ میں مر گیا یا کہا کہ اگر میرے واسطے حادثہ واقع ہو یا ہر گاہ میرے واسطے حادثہ واقع ہو تو تو آزاد ہے اور اس طرح اگر ان الفاظ میں بجائے موت کے لفظ وفات یا ہلاک ذکر کیا تو بھی یہی حال ہے اور کبھی بہ لفظ وصیت ہوتی ہے اور اس کی یہ صورت ہے کہ غلام کے واسطے اس کے نفس کی وصیت کرے یا اس کے رقبہ کی یا اس کی عتق یعنی گردن کی یا ایسی وصیت کی کہ منجملہ اس کے وہ اپنے رقبہ کل کا یا بعض کا مستحق ہو مثلاً کہا کہ میں نے تیرے واسطے وصیت کی تیرے نفس کی یا تیرے رقبہ کی یا تیری گردن کی یا اور ایسا لفظ کہا کہ جس سے تمام بدن سے تعبیر کی جاتی ہے اور اس طرح اگر اس سے کہا کہ میں نے تیرے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی تو یہ بھی تدبیر ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر اپنے غلام کے واسطے اپنے مال سے ایک ہم کی وصیت کی تو آزاد ہو گا اور اگر ایک جزو کی وصیت کی

۱۔ قولہ آزاد نہ ہو گا یعنی مستحق عتق نہ ہو گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام کا مرجع وسط ہے اور اس پر اعتراض کیا گیا کہ جب وصف درمیانی صریح مذکور نہیں ہے تو حکم اس سے متعلق نہ ہو گا اور جواب دیا گیا کہ اطلاق کو تصریح کے ساتھ ملایا گیا جہاں اسی طرف مرجع ہے اور اس کو تامل سے دیکھنا چاہئے کیونکہ اصل تو اس کے خلاف ہے ۱۲۔ بطور قسم کے اپنے اوپر ایک امر لازم کر لینا خواہ بلفظ قسم ہو یا نہ ہو ۱۳۔ اعتراض ہو کہ حرج (اگر) تو شکوک پر داخل ہوتا ہے اور موت یقینی ہے جواب یہاں وقت خاص پر یقین نہیں ملا وہ اس کے مراد صرف صورت مسئلہ ہے ۱۲۔ وجہ یہ ہے کہ مستحق مال بعد آزادی کے ہو گا بدیں حیثیت کہ اس کی ملک ہے پس اگر یہی گلام مالی ہو تو تہائی کا مستحق ہو کر آزاد ہو گا ورنہ اگر تہائی سے برآمد ہو تو کل اور زیادہ میں بقدر زیادات مال پائے گا اور آزاد بھی نہ ہو گا ۱۲۔

(۱) میرے پیچھے آزاد شدہ ہے یعنی موت کے بعد ۱۲۔ (۲) میرے پیچھے آزاد شدہ ہے یعنی موت کے بعد ۱۲۔

تو نہیں یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ تقدیر ہے بعد میری موت کے تو فی الحال سے مدبر ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا پس تو بعد میری موت کے حر ہے یا میری موت کے پیچھے حر ہے یا میری موت میں یا میری موت کے ساتھ حر ہے تو بھی یہی حکم ہے یہ محیط سرحسی میں ہے اور مدبر مطلق کا حکم یہ ہے کہ جب تک مولیٰ زندہ ہے اس کا بیع دہبہ نہیں جائز ہے اور نہ اس کو مہر قرار دے کر نکاح جائز ہے اور نہ اس کا صدقہ دینا اور نہ رہن کرنا جائز ہے اور اس کا آزاد کر دینا یا مکاتب کر دینا جائز ہے۔ یہ سراج و ہاج میں ہے۔

اگر مدبر مطلق کو فروخت کیا اور قاضی نے جواز بیع کا حکم دے دیا تو اس کی قضا نافذ ہو جائے گی اور یہ حکم قضاء مدبر کرنے کا فسخ کرنا قرار دیا جائے گا حتیٰ کہ اگر بعد بیع کے کسی وجہ سے وہ کبھی اس کی ملک میں آگیا۔ تو بعد اس کی موت کے آزاد نہ ہوگا یہ ظہر یہ میں ہے اور مولیٰ کو اس سے خدمت لینے اور اس کو مزدوری پر دینے کا اختیار ہے اور اگر باندی کو مدبرہ مطلقہ کیا تو اس سے وطی کر سکتا ہے اور اس کا جس مرد سے چاہے نکاح کر سکتا ہے یہ کافی میں ہے اور غلام کی کمائیاں اور مدبرہ کا مہر اور رارش سب مولیٰ کا ہوگا یہ نیا بیع میں ہے اور جب مولیٰ مر گیا تو مدبر اس کے تہائی مال سے آزاد ہوگا حتیٰ کہ اگر مولیٰ کا کچھ مال سوائے اس مدبر کے نہ ہو تو اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کریں گا یہ کافی میں ہے اور اگر مولیٰ پر اس قدر قرضہ ہو کہ اس کے تمام مال کو مع رقبہ اس مدبر کے محیط ہو تو قرض خواہاں مولیٰ کے واسطے مدبر مذکور اپنی تمام قیمت کے لیے سعی کریں گا یہ غایت البیان میں ہے اور مدبر کی ولاء اسی کی ہوگی جس نے اس کو مدبر کیا ہے اور اس سے منتقل نہ ہوگی اگر چہ یہ غلام دوسرے کی طرف سے آزاد ہو گیا ہو اور اس کی صورت یہ کہ مدبرہ باندی دو شریکوں میں مشترک ہے پھر اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کے نسب کا ایک شریک نے دعوے کیا چنانچہ اس سے اس بچہ کا نسب ثابت ہو گیا اور اس نے اپنے شریک کو تاوان دے دیا پھر یہ ام ولد اس کے شریک کی موت کے بعد آزاد ہو گئی تو اس کی ولاء ان دونوں شریکوں کی ہوگی اور اسی طرح اگر ایک غلام مدبر دو شریکوں میں مشترک تھا پس اس کو ایک نے آزاد کر دیا اور وہ مالدار ہے پس اس نے شریک کو تاوان دیا تو اس کی ولاء نہ بدلے گی بلکہ دونوں کی ہوگی یہ ایضاً میں ہے۔

تدبیر مقید کا بیان:

تدبیر مقید اس طرح ہے کہ اپنے غلام کا عتق اپنی موت پر معلق کرے مگر موصوف بھفتے یا موت اور کسی اور شرط پر معلق کرے مثلاً یوں کہا کہ اگر میں اپنے اس مرض میں مر جاؤں یا اپنے اس سفر میں مر جاؤں تو تو آزاد ہے یا مثل اس کے کوئی صفت بیان کی جس میں احتمال ہے کہ اس کی موت اس صفت کے ساتھ ہوگی یا نہ ہوگی یا بات کے ساتھ کوئی ایسی شرط ذکر کی جس کے واقع ہونے اور نہ ہونے کا احتمال ہے تو ایسی تدبیر سے وہ مدبر مقید ہوگا یہ جامع میں ہے۔ مدبر مقید کا یہ حکم ہے کہ اگر وہ اس صفت یا شرط کے ساتھ مرے تو مثل مطلق کے آزاد ہو جائے گا اور مولیٰ کو اپنی زندگی میں اختیار ہے کہ ایسے مدبر مقید کے ساتھ تمام طرح تصرفات بیع و تمایک وغیرہ عمل میں لائے یہ سراج و ہاج میں ہے جس نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ اگر مولیٰ نے کہا کہ اگر میں مر گیا اور ذفن کیا گیا یا غسل دیا گیا یا کفن دیا گیا تو تو آزاد ہے تو یہ مدبر نہیں ہے اور اگر وہ مر گیا در حالیکہ یہ اس کی ملک میں تھا تو اس کے حق میں مستحب ہے کہ تہائی مال سے آزاد کیا جائے یہ نیا بیع میں ہے اور منجملہ تدبیر مقید کے یہ ہے کہ اگر میں ایک سال ختم ہونے پر مر گیا یا اس سال تک مر گیا تو تو آزاد ہے یہ ہدایہ میں ہے اور اگر اتنی مدت کی قید لگائی کہ ایسے شخص کے اتنی مدت تک جینے کا احتمال نہیں ہے مثلاً ساٹھ برس کے مولیٰ نے کہا کہ اگر میں سو برس کے بعد مرے تو تو آزاد ہے تو حسن بن زیاد کے نزدیک یہ مدبر مطلق ہے اور یہی مختار

ہے یہ تبیین میں ہے اور اگر غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے جس دن میں مروں اور اس نے دن ہی دن میں مرنے کی نیت نہیں کی تو مدبر مطلق ہوگا اور اگر یہ نیت کی کہ دن میں مروں نہ رات میں تو مدبر مقید ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے قبل میری موت کے ایک مہینہ پھر مہینہ گذرا پس وہ مر گیا تو بالا جماع آزاد ہو جائے گا لیکن شیخ ابو بکر اسکاف کے نزدیک تہائی سے آزاد ہوگا اور فقیہ ابو القاسم نے کہا کہ تمام مال سے آزاد ہوگا اور یہی امام اعظم کا قول ہے اور فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ یہی غیاثیہ میں ہے اور اگر مہینہ گذرنے سے پہلے مر گیا تو آزاد نہ ہوگا یہ شرح طحاوی میں ہے اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے میری موت کے ایک روز بعد تو یہ مدبر نہ ہوگا اور مولیٰ کو اس کے فروخت کرنے کا اختیار ہے اور اگر مولیٰ ایسی حالت میں مرا کہ یہ غلام اس کی ملک میں تھا تو ایک روز کے بعد اس کے تہائی مال سے گزار ہوگا اور بدون وارث کے آزاد کرنے کے آزاد نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

استحساناً وارثوں کو اس کے آزاد کر دینے کا حکم کیا جائے گا۔ یہ تہذیب میں ہے اور اگر کہا کہ تو میری موت اور فلاں کی موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ بعد موت فلاں میری موت کے تو آزاد ہے تو یہ فی الحال مدبر مطلق نہ ہوگا پس اگر فلاں پہلے مر گیا اور ہنوز وہ غلام اس مولیٰ کی ملک میں ہے تو اب مطلق مدبر ہو جائے گا اور اگر مولیٰ قبل موت فلاں کے مر گیا تو وہ مدبر نہ ہوگا اور وارثوں کو اس کے فروخت کرنے کا اختیار ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ انت^(۱) حر الساقی بعد موتی تو بعد موتی کے آزاد ہوگا۔ یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ کسی کو بعد میری موت کے تجھ پر کوئی راہ نہ ہوگی تو مشائخ نے فرمایا کہ وہ مدبر ہو جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

حسن نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ اگر کہا کہ تو فلاں کی طرف سے مدبر ہے تو وہ اس مولیٰ کی طرف سے مدبر ہوگا۔ یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر کہا کہ میں نے تیرے رقبہ کی تیرے واسطے وصیت کر دی پس غلام نے کہا کہ میں نہیں قبول کرتا ہوں تو وہ مدبر ہو گیا اور اس کا رد کر دینا کچھ نہیں^(۲) یہ خزانہ المفتین میں ہے۔

ایک شخص نے اپنے دو غلاموں سے کہا کہ تم میں سے ایک بعد میری موت کے آزاد ہے اور اس کے واسطے سودر ہم کی وصیت ہے پھر وہ مر گیا تو دونوں آزاد ہو جائیں گے اور سودر ہم کی وصیت دونوں کے واسطے نصفاً نصف ہوگی اور اگر کہا کہ تم دونوں میں سے ہر ایک کے واسطے سودر ہم کی وصیت مذکورہ میں سودر ہم کی وصیت باطل ہوگی اس واسطے کہ دونوں میں سے ایک غلام ہے پس اس کے حق میں وصیت صحیح نہ ہوگی۔ یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں تیرا مالک ہوں تو مدبر ہے پھر اس کے حصہ کا مالک ہوا تو مدبر نہ ہو جائے گا یہ عتابیہ میں ہے۔

ایک شخص نے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے میری موت کے بعد اگر تو نے شراب نہ پی پھر مولیٰ کی موت کے بعد چھ مہینہ تک اس نے شراب نہ پی پھر شراب پی لی اور ہنوز آزاد نہیں ہوا تھا تو عتق باطل ہو گیا: اگر کسی باندی سے کہا کہ اگر میں نے تجھے خریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے تجھے خریدا پھر میں

۱۔ اعتراض کیا گیا کہ ہر ایک کے واسطے سودر ہم کی وصیت مقتضی ہے کہ دونوں آزاد ہوں پھر ایک کی آزادی بوجہ مدبر ہونے کے اور دوسرے کی آزادی بمقتضائے وصیت کے کیوں نہیں ٹھہرائی جواب یہ کہ حق جان بطور اقتضاء کے مقدر ہوتا ہے وہ ضرورت ہے اور یہاں کچھ ضرورت نہیں علاوہ اس کے اس میں ذاتی خسارہ ہے قتال فیہ ۱۲۔

(۱) تو آزاد ہے اس دم بعد موت میری کے ۱۲۔ (۲) اس واسطے کہ حقیقت وصیت میں ہے ۱۲۔

مرگیا تو تو آزاد ہے پھر اس کو خرید تو وہ مدبرہ ہو جائے گی۔ پھر اگر اس کو آزاد کر دیا پھر وہ مرند ہو کر دار الحرب میں چلی گئی پھر جہاد میں قید ہو کر آئی اور اس شخص نے اس کو خرید تو اب مدبرہ نہ ہوگی چنانچہ اگر مولیٰ مرگیا تو آزاد نہ ہو جائے گی یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔ اور اگر کسی باندی سے کہا کہ اگر میں تیرا مالک ہو تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے پھر اس کے بچہ پیدا ہوا پھر اس شخص نے اس کو خرید تو باندی مدبرہ ہو جائے گی نہ اس کا بچہ اور اگر مولیٰ نے کہا کہ تو قبل مدبرہ ہونے کے بچہ جنی ہے اور باندی نے کہا کہ نہیں بلکہ اس کے بعد تو مولیٰ کا قول اس کے علم پر قسم لے کر مقبول ہوگا اور گواہ باندی کے قبول ہوں گے اور گواہ باندی کے قبول ہوں گے اور اگر دو باندیوں سے کہا کہ میں تم دونوں کا مالک ہو تو تم میری موت کے مہینہ بھر بعد آزاد ہو پھر ایک کا مالک ہو اور وہ اس کے پاس بچہ جنی پھر دوسری کا مالک ہو تو اس کی موت کے بعد دونوں آزاد ہو جائیں گی اور پہلی باندی کا بچہ رقیق رہے گا یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر غلام سے کہا کہ تو بعد میری فلاں سے کلام کرنے کے اور بعد میری موت کے آزاد ہے پس اس نے فلاں سے کلام کر لیا تو مدبرہ ہو جائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ جب تو نے فلاں سے کلام کیا تو میری موت کے بعد آزاد ہے پس اس نے فلاں سے کلام کیا تو مدبرہ ہو جائے گا یہ بدائع میں ہے۔ ایک شخص نے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے میری موت کے بعد اگر تو نے شراب نہ پی پھر مولیٰ کی موت کے بعد چھ مہینہ تک اس نے شراب نہ پی پھر شراب پی لی اور ہنوز آزاد نہیں ہوا تھا تو حق باطل ہو گیا اور اگر مولیٰ کی موت کے بعد شراب پینے سے پہلے قاضی کے یہاں مرافعہ کیا گیا اور قاضی نے اس کے آزاد ہونے کا حکم نافذ کر دیا پھر اس نے شراب پی تو پھر وہ رقیق نہیں کیا جائے گا یہ ظہیر یہ میں ہے۔

امام محمد نے اصل میں فرمایا کہ اگر اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے بعد میری موت کے اگر تو نے اس دم چاہا پس غلام نے اسی دم چاہا تو مولیٰ کی موت کے بعد وہ تہائی سے آزاد ہوگا اور اگر مرد مذکور نے یہ مراد لی ہے کہ اس دم یعنی موت کے بعد تو غلام کو چاہنے کا اختیار نہ ہوگا یہاں تک کہ مولیٰ مر جائے پھر جب مولیٰ مر اور اس کے مرنے کے وقت غلام نے چاہا تو بدون مدبرہ ہونے کے وہ تہائی مال سے آزاد ہوگا یہ نیا بیع میں ہے۔ اور شیخ ابو بکر رازی نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ وہ بدون وارث کے یا وصی کے آزاد کرنے آزاد نہ ہوگا اور حاکم نے بھی اپنے مختصر میں اسی پر جزم کیا ہے یہ نہر الفائق میں ہے۔ پھر بنا بر ظاہر جواب کے مولیٰ کی موت کے بعد غلام کا چاہنا اسی مجلس میں معتبر ہوگا۔ یہ عایہ سروجی میں ہے۔

اگر اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے اگر تو نے چاہا بعد میری موت کے پھر مولیٰ مر گیا اور جس مجلس میں غلام کو مولیٰ کی موت کا علم ہوا ہے اس سے اٹھ کھڑا ہو یا دوسرا کام شروع کر دیا تو اس سے کوئی بات جو غلام کے اختیار میں دی گئی ہے باطل نہ ہوگی یعنی ہنوز اس کو چاہنے کا اختیار رہے گا باطل نہ ہوگا۔ یہ بدائع میں ہے۔

اگر کسی دوسرے سے کہا کہ میرے غلام کو مدبرہ کر دے پس مامور نے اس کو آزاد کر دیا تو نہیں صحیح ہے اور اگر کسی نے ایک طفل سے کہا کہ تیرا جی چاہے میرے غلام کو مدبرہ کر دے پس اس نے مدبرہ کر دیا تو جائز ہے خواہ طفل سمجھ دار ہو یا نہ ہو یعنی جانتا ہو کہ مدبرہ کرنے سے ایسا حکم ہو جاتا ہے یا نہیں۔ یہ محیط میں ہے اور اگر دو شخصوں سے کہا کہ تم میرا غلام مدبرہ کر دو پس ایک نے اس کو مدبرہ کر دیا تو جائز ہے اور اگر کہا کہ میرے غلام کے مدبرہ کرنے کا کام تم دونوں کے حوالہ ہے پس ایک نے اس کو مدبرہ کیا تو نہیں جائز ہے یہ فتح القدیر میں ہے۔ ایک مرد نے کہا کہ تم آزاد کرو بعد میری موت کے میرے غلام کو انشاء اللہ تعالیٰ تو استثناء صحیح نہیں ہے اور اگر کہا کہ وہ بعد میری موت کے آزاد ہے انشاء اللہ تعالیٰ تو استثناء صحیح ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور زیادات میں مذکور ہے کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو ہزار درہم پر مدبرہ کیا اور اس نے قبول کیا تو وہ مدبرہ ہو جائے گا اور اس پر کچھ واجب نہ ہوگا یہ محیط سرخسی میں

ہے۔ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے کہ ان میں سے ایک نے اس کو مدبر کیا اور دوسرا ساکت رہا تو بنا بر قول امام اعظم کے فقط مدبر کنندہ کا حصہ مدبر ہوگا اور شریک ساکت کو اپنے حصہ کی بابت پانچ طرح کا اختیار ہوگا بشرطیکہ مدبر کنندہ مالدار ہو اور وہ اختیارات یہ ہیں کہ چاہے اپنا حصہ وہ بھی مدبر کر دے پس وہ مدبر دونوں میں مشترک ہوگا پس اگر دونوں میں سے ایک مر گیا تو اس کا حصہ اس کے تہائی مال سے آزاد ہو جائے گا اور غلام مذکور دوسرے کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لیے سعایت کریں گا لیکن اگر دوسرا بھی قبل وصول سعایت کے مر گیا تو سعایت باطل ہو جائے گی اور چاہے آزاد کر دے پس اگر اس نے آزاد کر دیا تو حق صحیح ہوگا اور مدبر کنندہ کو اختیار ہوگا کہ آزاد کنندہ سے اپنے حصہ کی قیمت غلام مدبر کے حساب سے لے لے اور اس کی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی اور آزاد کنندہ کو اختیار ہوگا کہ جو اس نے تاوان دیا ہے وہ غلام سے لے لے اور خواہ مدبر کنندہ آزاد کر دے اور خواہ غلام سے سعایت کرا لے اور چاہے شریک ساکت غلام سے سعایت کرا دے پس جب وہ سعایت کر کے نصف قیمت ادا کر دیں گا تو آزاد ہو جائے گا پھر مدبر کنندہ کو اختیار ہوگا کہ غلام سے سعایت کرا دے پس جب اس کی سعایت بھی ادا کر دی تو پورا آزاد ہوگا اور اگر مدبر کنندہ مال سعایت لینے سے پہلے مر گیا تو سعایت باطل ہوگئی اور اس کا حصہ غلام ان کے تہائی مال سے آزاد ہو جائے گا اور چاہے اس کو یوں ہی چھوڑ دے پھر جب وہ مر گیا تو اس کا حصہ میراث ہوگا کہ اس کے وارثوں کو ملے گا پس اس کے وارثوں کو اس حصہ کی بابت حق و سعایت وغیرہ کا اختیار حاصل ہوگا اور اگر مدبر کنندہ مر گیا تو اس کا نصف حصہ اس کے تہائی مال سے آزاد ہو جائے گا۔ شریک ساکت کو اختیار ہوگا کہ غلام سے اپنے حصہ کی نصف قیمت غلام کی سعایت کرا دے اور جب وہ ادا کر کے پورا آزاد ہو گیا تو اس کی ولاء ان دونوں میں شریک ہوگی اور چاہے شریک ساکت دوسرے مدبر کنندہ سے اپنے حصہ کی قیمت تاوان لے بشرطیکہ وہ مالدار ہو تو اس کی پوری ولاء مدبر کنندہ کی ہوگی اور مدبر کنندہ کو اختیار ہوگا کہ جو کچھ اس نے تاوان دیا ہے وہ غلام مذکور سے لے لے اور اگر اس نے نہ لیا یہاں تک کہ مر گیا تو اس کا نصف اس کے تہائی مال سے آزاد ہو جائے گا اور وارثوں کے واسطے غلام مذکور اپنی نصف قیمت کا مل کی بمقابلہ حصہ دیگر کے سعایت کریں گا اور اگر مدبر کنندہ تنگ دست ہو تو شریک ساکت کو اس مدبر کنندہ سے اپنے حصہ کا تاوان لینے کا اختیار نہ ہوگا اور باقی چار طرح کا اختیار حاصل رہے گا یعنی چاہے اپنا حصہ آزاد کر دے چاہے مدبر کرے چاہے غلام سے سعایت کرا دے چاہے یوں ہی چھوڑ دے یہ تاوان خانیہ میں ہے۔ ایک غلام دو شریکوں میں مشترک ہے دونوں نے ساتھ ہی اس کو مدبر کر دیا چنانچہ ہر ایک نے کہا کہ میں نے تجھ کو مدبر کیا یا تجھ میں سے میرا حصہ مدبر ہے یا جب میں مروں تو تو آزاد ہے یا جب میں مروں تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ میری موت کے بعد آزاد ہے اور دونوں کے کلام ایک ساتھ ہی زبان سے نکلے تو یہ غلام دونوں کا مدبر ہو گیا۔ یہ شرح طحاوی میں ہے۔

ایک مدبرہ باندی دو شخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور دونوں میں سے کسی

نے اس بچہ کا دعویٰ نہ کیا تو وہ بھی مثل اپنی ماں کے دونوں کے مدبر ہوگا:

پھر جب ایک مر گیا تو اس کا حصہ اس کے تہائی سے آزاد ہوگا اور دوسرے کو اختیار حاصل ہو چاہے اپنا حصہ آزاد کر دے چاہے مکاتب کر دے اور چاہے سعایت کرا دے اور یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو اسی حال پر چھوڑ دے اور اگر دوسرا بھی قبل وصول

۱ واضح ہو کہ شریک ساکت کا مال سعایت محض غلام کی نصف قیمت ہوگی اور ایک مدبر کنندہ کی نصف قیمت بحساب غلام مدبر کی قیمت کے ہوگی پس دونوں

سعایت کے مرگیا تو سعایت باطل ہوگئی اور اس کا حصہ بھی آزاد ہو گیا بشرطیکہ اس کے تہائی مال سے برآمد ہوتا ہو اور اگر دونوں نے کہا کہ جب ہم دونوں مریں تو تو آزاد ہے یا تو ہم دونوں کی موت کے بعد آزاد ہے اور دونوں کے کلام ساتھ ہی زبان سے نکلے تو وہ مدبر نہ ہوگا الا آنکہ دونوں میں سے ایک پہلے مر جائے تو جو زندہ رہا ہے اس کا حصہ مدبر ہو جائے گا اور جو مر گیا اس کا حصہ اس کے وارثوں کی میراث ہوگا تو جو زندہ رہا ہے اس کا حصہ مدبر ہو جائے گا اور جو مر گیا اس کا حصہ اس کے وارثوں کی میراث ہوگا پس وارثوں کو اختیار حاصل ہوں گے چاہیں اپنا حصہ آزاد کر دیں اور چاہیں مدبر اور چاہیں مکاتب کریں اور چاہیں سعایت کرادیں اور چاہیں شریک مدبر کنندہ سے تاوان لیں اگر وہ مالدار ہو اور جب دوسرا بھی مرے گا تو اس کا حصہ اس کے تہائی مال سے آزاد ہو جائے گا۔ ایک مدبرہ باندی دو شخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ پیدا ہو اور دونوں میں سے کسی نے اس بچہ کا دعویٰ نہ کیا تو وہ بھی مثل اپنی ماں کے دونوں کے مدبر ہوگا اور اگر دونوں میں سے کسی نے اس کا دعویٰ کیا تو استحساناً اس سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا اور نصف باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور باقی نصف اپنے حال پر دوسرے شریک کی مدبرہ رہے گی اور مدعی اس کا نصف عقردوسرے شریک کو تاوان دے گا اور بچہ کی مدبر ہونے کے حساب سے قیمت دے گا اور باندی کی نصف قیمت نہ دے گا پھر اگر مدعی پہلے مر گیا تو اس کا نصف حصہ مفت آزاد ہو گیا اور شریک کے واسطے وہ کچھ ضامن^(۲) نہ ہوگا اور باندی مذکورہ اس شریک کے نصف حصہ کے لیے اپنی نصف قیمت کی سعایت کرے گی مگر بے حساب مدبرہ ہونے کے اور اس حکم میں اتفاق ہے پھر اگر وصول سعایت سے پہلے دوسرا بھی مر گیا تو سعایت باطل ہوئی اور باندی پوری آزاد ہو جائے گی بشرطیکہ اس کے مال کی تہائی سے اس کا حصہ نصف برآمد ہوتا ہو یہ امام اعظم کا قیاس ہے اور اگر شریک غیر مدعی^(۱) پہلے مرے تو اس کے تہائی مال سے اس کا حصہ آزاد ہوگا اور امام اعظم کے قول میں شریک مدعی کے واسطے سعایت نہ کرے گی کذافی البدائع۔ اور اگر دونوں میں سے کوئی نہیں مرا یہاں تک کہ اس کے دوسرا بچہ پیدا ہو اور اس کے نسب کا دعویٰ دوسرے شریک نے کیا تو استحساناً ثابت ہوگا اور وہ بچہ کی قیمت اپنے شریک کو تاوان نہ دے گا یہ قول امام اعظم کا ہے اس وجہ سے کہ یہ شریک کی ام ولد کا بچہ ہے اور امام اعظم کے نزدیک ام ولد کے بچہ کی کچھ قیمت نہیں ہوتی ہے مگر باندی کے نصف عقرد کا ضامن ہوگا اور اگر شریک اول ہے تو نے اس بچہ کے نسب کا بھی دعویٰ کیا تو اس کی نصف قیمت کا بے حساب مدبر ہونے کے ضامن ہوگا اور اس پر دوسری وطنی کی بابت نصف عقرد دیگر واجب ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے۔ ایک مدبرہ دو شخصوں میں مشترک ہے اس کے بچہ پیدا ہو اور دونوں نے اس کے نسب کا ساتھ ہے دعویٰ کیا تو دونوں سے اس کا نسب ثابت ہوگا اور یہ باندی دونوں کی ام ولد ہو جائے گی اور مدبر ہونا باطل ہو جائے گا یہ بدائع میں ہے۔ ایک مرد نے اپنے وصیت نامہ میں تحریر کیا کہ میرا فلاں غلام بعد میری موت کے آزاد ہے اور اس سے کسی نے اس کو نہیں سنا پھر وہ مر گیا پھر جو وصیت نامہ میں پایا گیا ہے اس سے وارثوں نے انکار کیا تو غلام مذکور مملوک رہے گا اس واسطے کہ وارثوں نے اس کے آزاد کرنے سے انکار کیا اور اگر غلام نے دعویٰ کیا کہ یہ وارث لوگ جانتے ہیں تو وارثوں سے ان کے علم پر قسم لے کر انھیں کا قول قبول کیا جائے گا یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔

اگر کسی نے جو اس کی باندی کے پیٹ میں ہے مدبر کیا تو جائز ہے پس اگر اس کے بعد وہ چھ مہینہ سے کم میں بچہ جنی تو بچہ مدبر ہوگا اور اگر اس سے زیادہ میں جنی تو مدبر نہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے۔

۱۔ قولہ وصول سعایت یہ مجاز متعارف ہے معنی یہ کہ جو اس کا کر دینا اس کے ذمہ ٹھہرا ہے اس کے وصول ہو جانے سے پہلے ۱۲۔

(۱) جس نے بچہ کے نسب کا دعویٰ نہیں کیا ہے ۱۲۔

اگر وہ جو اس کی باندی کے پیٹ میں ہے مدبر کیا تو جب تک وضع حمل نہ ہو اس کو فروخت (۱) نہ کرے گا اور بہت نہ کرے گا اور مہر قرار نہیں دے گا۔ یہ محیط سرخسی میں ہے۔ اگر ایسی باندی دو بچہ جنی ایک چھ سے کم میں اور دوسرا چھ مہینہ سے ایک روز زائد میں تو یہ دونوں مدبر ہوں گی۔ نیا بیچ میں ہے۔

اگر ماں نے بدل کتابت ادا نہ کیا یہاں تک کہ مولیٰ مر گیا تو بچہ بسبب مدبر ہونے کے آزاد ہو جائے گا اور اس کی ماں اپنے حال پر مکاتبہ رہے گی:

اگر کسی نے جو اس کی باندی کے پیٹ میں ہے مدبر کیا پھر اس باندی کو مکاتبہ کر دیا تو جائز ہے پس اگر اس کے بعد چھ مہینہ سے کم میں بچہ جنی تو وہ مدبر ہوگا کہ مولیٰ کی طرف سے بالقصد مدبر کیا ہوا ہے اور اپنی ماں کی طرف سے بالقیح وہ بھی داخل کتابت ہوگا پس اگر اس کی ماں نے بدل کتابت مولیٰ کو ادا کر دیا تو دونوں بحکم کتابت آزاد ہو جائیں گے اور اگر ماں نے بدل کتابت ادا نہ کیا یہاں تک کہ مولیٰ مر گیا تو بچہ بسبب مدبر ہونے کے آزاد ہو جائے گا اور اس کی ماں اپنے حال پر مکاتبہ رہے گی اور اگر مولیٰ نہیں مرا بلکہ اس کی ماں مر گئی تو بچہ اپنی ماں کی قسطوں پر مال سعایت ادا کرتا رہے گا اور اگر اس کے بعد مولیٰ مر گیا اور یہ بچہ اس کے تہائی مال سے برآمد ہوتا ہے تو مدبر ہونے کی وجہ سے آزاد ہو جائے گا اور بدل کتابت سے بری ہو جائے گا اور اگر اس کے تہائی مال سے برآمد نہ ہوتا ہو تو جس قدر اس کے تہائی مال سے نکلتا ہو اس قدر بوجہ مدبر ہونے کے آزاد ہو جائے گا اور اپنے باقی رقبہ کے واسطے اس پر سعایت لازم ہوگی۔ بجهت مدبر ہونے کے پھر اس کے بعد اس کو اختیار دیا جائے گا چاہے کتابت کو اختیار کرے اور اس کو پورا کرے اور چاہے مدبر ہونے کی جہت سے سعایت کو پورا کرے اگر چہ بدل کتابت زیادہ ہو اور یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور اگر ایک باندی دو شخصوں میں مشترک ہو اور جو اس کے پیٹ میں ہے اس کو ایک نے مدبر کیا تو جائز ہے پس اگر اس کے بعد چھ مہینہ سے کم میں وہ بچہ جنی تو اس مدبر کنندہ کا حصہ مدبر ہوگا یہ امام اعظم کے نزدیک ہے یعنی مدبر کنندہ ہی کا فقط حصہ مدبر ہو امام اعظم کا قول ہے اور شریک ساکت کو اپنے حصہ کی بابت پانچ اختیارات حاصل ہوں گے بشرطیکہ مدبر کنندہ مالدار ہو اور اگر چھ مہینہ یا زیادہ میں بچہ ہو تو اس کا حصہ مدبر نہ ہوگا۔ ایک باندی دو شخصوں میں مشترک ہے ایک نے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ میری موت کے بعد آزاد ہے اور دوسرے نے باندی سے کہا کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے پھر اس گفتگو کے بعد چھ مہینہ سے کم میں بچہ جنی تو پورا بچہ ان دونوں میں مشترک مدبر ہو جائے گا اور اس کی بابت دونوں میں سے کوئی دوسرے کے لیے ضامن نہیں ہو سکتا ہے اور رہی باندی تو جس نے باندی کو مدبر نہیں کیا ہے اس کو امام اعظم کے نزدیک باندی کی بابت پانچ قسم کے اختیارات حاصل ہوں گے بشرطیکہ مدبر کنندہ مالدار ہو اور اگر اس گفتگو سے چھ مہینہ سے زیادہ میں جنی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس نے باندی کو مدبر کیا ہے اس کا نصف حصہ باندی مدبر ہو گیا اور اس کی تہجیت میں نصف بچہ بھی مدبر ہو گیا اور دوسرے شریک کو اختیارات حاصل ہوئے

۱۔ اس میں ایک یوم کی قید اتفاق ہے اور مراد یہ ہے کہ مدت حمل چھ ماہ کتر سے بھی کم میں جنی جس سے معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں بچہ ایک ہی حمل سے توام ہیں اور وہ چھ ماہ سے کم ہے اگر چہ ایک ہی روز کی کمی ہو ۱۲۔ ۲۔ قسطوں پر یعنی جس میعاد سے اس کی ماں کی بسطن ٹھہری تھیں ۱۲۔ ۳۔ ورنہ چار طرح کے اختیارات حاصل ہوں گے چنانچہ سابق میں گذرے ۱۲۔ ۴۔ قال فی الاقل دان جارت لاکثر من شتہ اشہر الخ اس عبارت میں سمجھنے والے کے اعتماد پر سہولت فرمائی کیونکہ زیادہ ہونا ضروری انحصار نہیں ہے بلکہ اگر کم نہ ہو بلکہ پورے چھ ماہ ہوں تو بھی یہی حکم ہے ۱۲۔

(۱) یعنی ایسے تصرفات نہیں کر سکتا ہے ۱۲۔

پھر اگر دوسرے شریک ساکت نے اس کے بعد مد برکنندہ سے اپنے حصہ باندی کا تاوان لینا اختیار کیا تو مد برکنندہ پر بچہ کی طرف سے کچھ تاوان دینا لازم نہ ہوگا اور اگر دوسرے شریک ساکت نے باندی سے اپنے حصہ کی بابت سعایت لینی چاہی تو پھر وہ بچہ سے سعایت نہیں کر سکتا ہے اگرچہ نصف بچہ بھی مد بر ہو گیا ہے اور وجہ یہ ہے کہ بچہ جمعاً مد بر ہو گیا ہے پس جیسے مدبیر میں تابع ہوا ہے ویسے ہی سعایت میں بھی اپنی ماں کے تابع ہوگا یعنی ماں کی سعایت وہی اس کی سعایت ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر ایک باندی حاملہ دو شریکوں میں مشترک ہو پس ایک نے جو اس کے پیٹ میں ہے مد بر کیا اور دوسرے نے باندی کو آزاد کر دیا تو مد برکنندہ کو آزادکنندہ سے باندی کی نصف قیمت تاوان لینے کا اختیار ہے مگر مد برکنندہ کو حمل کی بابت تاوان لینے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ نیا بیع میں ہے۔

نابالغ آدمی کا اپنے غلام کو مد بر کرنا صحیح ہے خواہ فی الحال مد بر کر دے خواہ معلق بہ بلوغ خود چنانچہ اگر نابالغ نے کہا کہ جب میں بالغ ہوں تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے تو نہیں صحیح ہے اور اسی طرح مجنون و معنویہ غالب کہ ان کی مدبیر بھی نہیں صحیح ہے اور جو شخص نشہ میں ہو اس کا مد بر کرنا صحیح ہے اور اسی طرح جو شخص مجبور کیا گیا اور اس نے مد بر کیا تو صحیح ہے اور مکاب نے اگر اپنی کمائی کے مملوک کو مد بر کیا تو نہیں صحیح ہے اور اس طرح غلام مازون التجار نے اگر مد بر کیا تو نہیں صحیح ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر کسی نے اپنے غلام کو مد بر کیا پھر اس کی عقل جاتی رہی تو مدبیر اپنے حال پر صحیح رہے گی بخلاف اس کے اگر غلام کے رقبہ کی کسی کے واسطے وصیت کر دی پھر مجنوں ہو گیا پھر مر گیا تو وصیت باطل ہوگی یہ خزانہ المفتیین میں ہے۔

ذی نے اپنے غلام کو مد بر کیا پھر غلام، مسلمان ہو گیا تو سعایت آزاد ہو جائے گا اور اگر سعایت سے فارغ ہونے سے پہلے مولیٰ مر گیا تو وہ آزاد ہو جائے گا اور سعایت باطل ہوگی اور اگر مولیٰ نے اس سے اس کی قیمت سے زیادہ مال پر بدون حکم قاضی صلح کر لی اور غلام عاجز آیا تو بقدر زیادتی کے صلح لوٹ جائے گی اور بقدر اپنی قیمت کے سعایت کرے گا۔ حربی ہمارے ملک میں امان لے کر داخل ہوا پس اس نے غلام کو مد بر کیا پھر حربی دار الحرب سے قید کر کے لایا گیا تو مد بر نہ کرے اور آزاد کیا جائے گا اور اگر دار الحرب میں مد بر کیا اور ہمارے یہاں امان لے کر داخل ہوا پھر غلام یہاں مسلمان ہو گیا تو حربی مذکور اس کے بیع کرنے پر مجبور کیا جائے گا غلام مد بر مرتد ہو کر دار الحرب میں چلا گیا کافر ان حربی اس کو قید کر لے گئے پھر مسلمانوں نے اس کو پکڑا اور لے آئے اور وہ مسلمان ہو گیا تو وہ اپنے مولائے سابق کر دیا جائے گا اور مد بر ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے۔ ایک نے اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے یا مد بر ہے تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ بیان کرے پس اگر اس نے کہا کہ میں نے آزاد ہونا مراد لیا ہے تو غلام آزاد ہو جائے گا اور اگر کہا کہ مد بر ہونا مراد لیا ہے تو مد بر ہو جائے گا اور اگر قبل بیان کے مر گیا اور صحت میں اس نے یہ قول کہا تھا تو نصف غلام اس کے تمام مال سے مفت آزاد ہو جائے گا اور نصف بوجہ مد بر ہونے کے آزاد ہوگا اگر اس کے مقائی مال سے برآمد ہو اور اگر اس کے سوائے اس کا کچھ اور مال نہ ہو تو نصف مفت آزاد ہوگا اور باقی نصف کی دہتہائی کے واسطے سعایت کرے گا یعنی کل کی ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر دو غلام ہوں اور اس نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد یا مد بر ہے اور قبل بیان کے مر گیا اور ان دونوں کے سوائے اس کا کچھ مال نہیں ہے اور یہ قول حالت صحت میں کہا ہے تو ہر ایک غلام کا چہارم حصہ مفت تمام مال سے آزاد ہوگا اور ایک چہارم بوجہ مدبیر کے تہائی مال سے آزاد ہوگا اور ہر ایک اپنی نصف قیمت کے واسطے ہر حال میں سعایت کرے گا اور اگر اس نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں آزاد ہو یا مد بر ہو اور باقی صورت وہی ہوئی جو مذکور ہوئی ہے تو ہر ایک کا نصف حصہ بوجہ عتق قطعی کے اور نصف بوجہ مدبیر کے آزاد ہوگا اور یہ سب اس وقت ہے کہ قول مذکور اس نے صحت میں کہا ہو اور اگر مرض میں کہا تو فقط تہائی مال سے اس کا اعتبار کیا جائے گا یہ شرح طحاوی میں ہے۔

اگر اپنی صحت میں اپنے غلام اور ایک مدبر سے کہا کہ تم میں سے ایک مدبر اور دوسرا آزاد ہے اور ان دونوں کے سوائے اس کا کچھ مال نہیں ہے اور قبل بیان کے مرگیا تو جو محض غلام ہے وہ کل مال سے اور مدبر تہائی مال سے آزاد ہوں گے اور اگر اس کے برعکس یوں کہا کہ تم میں سے ایک آزاد اور دوسرا مدبر ہے تو بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی حکم ہے اس واسطے کہ یہ خبر دنیا ہے مقدم و موخر بیان میں ہونا یکساں ہے اور امام محمد کے نزدیک ہر ایک کا نصف حصہ کل مال سے اور باقی نصف حصہ بوجہ تدبیر کے تہائی مال سے آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے اور دیگر تو مدبر ہے یعنی یوں کہا کہ والآخر المدبر تو قن آزاد ہوگا اور مدبر بحال خود مدبر رہے گا اور یہ بالاتفاق ہے یہ کافی میں ہے۔

اگر یوں کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے اور باقی دونوں میں سے ایک مدبر ہے تو نصف عتق قطعی کا مستحق قن (غلام محض) ہوگا:

اگر اپنے دو مدبر غلاموں سے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے پھر ان دونوں مدبروں میں سے ایک باہر نکل گیا اور ایک موجود رہا اور اس کا ایک تیسرا غلام آیا پس اس نے اس مدبر موجود اور اس غلام سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک مدبر ہے تو جو مدبر باہر نکل گیا ہے وہ اسی وقت سے آزاد ہو گیا جس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے اور جو اس کے پاس رہ گیا تھا وہ ویسا ہی مدبر رہا جو غلام داخل ہوا تھا وہ غلام رہا اس میں سے کچھ آزاد نہ ہوگا اور اگر اپنی صحت میں اپنے دو مدبروں اور ایک قن سے کہا کہ تم میں سے ایک مدبر ہے اور دونوں باقی میں سے ایک آزاد ہے اور قبل بیان کے مرگیا تو قن میں سے نصف بطور عتق قطعی آزاد ہوگا اور باقی نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور نصف عتق دونوں مدبر میں شریک ہوگا پس ہر مدبر میں سے چہارم حصہ بسبب عتق قطعی کے کل مال سے آزاد ہوگا اور تین چوتھائی بوجہ تدبیر کے تہائی مال سے آزاد ہوگا اور اس طرح اگر برعکس یوں کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے اور باقی دونوں میں سے ایک مدبر ہے تو نصف عتق قطعی کا مستحق قن ہوگا اور نصف عتق دونوں مدبروں کے درمیان ہر ایک کے واسطے چہارم چہارم ہوگا اور یہ زیادات کی روایت ہے اور امام قاضی خان نے فرمایا کہ جو زیادات میں مذکور ہے وہی صحیح ہے یہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

اگر تینوں سے کہا کہ تم میں سے ایک مدبر ہے اور دونوں باقی آزاد ہیں تو قن کل آزاد ہو جائے گا اور ہر دو مدبر میں سے نصف عتق قطعی آزاد ہوگا اور اگر عتق کو مقدم کر کے یوں کہا کہ تم میں سے ایک آزاد اور دونوں باقی مدبر ہیں تو ہر ایک کا تہائی اس عتاق سے آزاد ہوگا اور اگر اس نے ایک مدبر اور دو قن سے کہا کہ تم میں سے ایک مدبر ہے اور دونوں باقی آزاد ہیں۔ تو دونوں قن مال سے آزاد ہوں گے اور پہلا جملہ خبر یہ قرار دیا جائے گا۔ اور اگر کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے اور باقی دونوں مدبر ہیں تو ہر ایک کی تہائی بسبب عتاق کے آزاد ہو جائے گی اور ہر ایک کی دو تہائی بسبب تدبیر کے تہائی مال سے آزاد ہوگی اور اسی طرح اگر سب محض غلام ہوں اور اس نے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے اور دونوں باقی مدبر ہیں تو بھی ہر ایک کا تہائی حصہ کل مال سے بسبب عتاق کے آزاد ہو جائے گا اور باقی دو تہائی حصہ تہائی مال سے بسبب تدبیر کے آزاد ہوگا اور اگر برعکس یوں کہا کہ تم میں سے ایک مدبر ہے اور باقی دونوں آزاد ہیں تو ہر ایک کی دو تہائی کل مال سے آزاد ہوگی اور باقی تہائی مال سے بسبب تدبیر کے آزاد ہو

۱۔ قن یعنی غلام محض اور مدبر جس کے واسطے بعد موت کے یا کسی وقت پر آزادی کا قول کہا ہو ۱۲۔

۲۔ تم میں سے ایک مدبر ہے اور جملہ انشائیہ قرار دیا جائے گا ۱۳۔

کی یہ کافی میں ہے۔

اگر اس نے تین غلاموں سے جن میں سے ایک مدبر ہے کہا کہ تم میں سے دو آزاد ہیں یا دو مدبر ہیں اور قبل بیان کے مرگیا اور یہ قول اس نے حالت صحت میں کہا ہے تو ہر ایک میں سے ایک تہائی حصہ بسبب ایجاب قطعی کے آزاد ہوگا اور مدبر میں سے دو تہائی حصہ جیسا مدبر ویسا ہی رہے گا اور ہر دو غلام میں سے چہارم حصہ مدبر ہو جائے گا پس اگر اس کا کچھ مال ہو جس کی تہائی میں سے ایک رقبہ اور چھٹا حصہ رقبہ برآمد ہو تو مدبر معروف پورا آزاد ہو جائے گا اور ہر دو غلام میں سے ہر ایک کے تین چھٹے حصے اور نصف چھٹا حصہ آزاد ہوگا یعنی ایک تہائی بسبب عتق قطعی کے اور ایک چہارم بسبب مدبر ہونے کے قال المتر جم یعنی بارہ حصوں میں سے سات حصے آزاد ہوں گے اور اگر اس کا کچھ اور مال نہ ہو تو اس کا تہائی مال ان غلاموں پر بے حساب ان کے سهام کے تقسیم ہوگا اور مدبر معروف کا حق دو تہائی ہے اور ہر دو غلام کا حق نصف ہے اور کم سے کم ایسا عدد جس کا نصف و ثابت نکلتا ہے (۶) ہے اور مدبر معروف کا حق (۴) اور ہر دو غلام کا حق (۳) ہے پس سهام وصیت کا مبلغ سات ہو یا تہائی مال رکھا گیا پس کل مال کے (۲۱) سهام ہوئے پس ہر غلام کی دو تہائی (۷) ہوئے اس واسطے کہ عتق قطعی کی منہائی کے بعد ہر غلام میں دو تہائی رہی ہے اور جب دو تہائی سات ہوئی تو کل غلام کے ساڑھے دس ہوئے پس کس واقع ہوئی لہذا ہم نے دو چند کر دیا تو ہر غلام میں کے (۲۱) سهام ہوئے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ مدبر معروف میں سے بسبب عتق قطعی کے ایک تہائی یعنی سات سهام آزاد ہوئے اور بسبب تدبیر کے بعد دو چند کریں گے اس میں (۸) سهام آزاد ہوئے پس وہ (۶) سهام کے واسطے سعایت کریں گا یعنی (۱۵) سهام مجموعہ آزاد ہوئے اور باقی (۲۱) میں سے (۶) رہے جن کے واسطے سعایت کریں گا اور ہر ایک غلام میں سے بسبب عتق قطعی کے تہائی یعنی سات سهام آزاد ہوئے اور بسبب تدبیر کے بعد نصف کے ہر ایک سے (۳) سهام آزاد ہوئے پس جملہ (۱۰) سهام نکال کر باقی (۱۱) سهام کے واسطے ہر ایک سعایت کریں گا۔ پس جملہ سهام وصیت (۱۴) ہوئے اور سهام سعایت (۲۸) ہوئے پس تخریج ٹھیک ہوئی اور اگر مولیٰ قبل بیان کے مرگیا پھر غلاموں میں سے ایک مرگیا تو دیکھا جائے کہ اگر مدبر معروف مرگیا تو وہ اپنی وصیت کا آٹھوں حصہ کا پورا لے لینے والا ہو گیا اور چھ حصے جو اس پر سعایت کے تھے وہ تلف ہو گئے اور یہ ڈوب جانا وارثوں کی حق تلفی اور جو موصلی لہ ہیں ان کی حق تلفی مشترک ہوئی اور یہ اس طرح ہوگا کہ باقی ان سهاموں پر تقسیم ہو جو ڈوب جانے سے پہلے تھے چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ وارثوں کا حق (۲۸) سهام تھا اور ہر دو غلام باقی کا حق (۶) سهام کہ جملہ (۳۴) سهام ہوئے پس ہر دو غلام باقی میں سے ہر ایک کی دو تہائی (۱۷) ہوئے جس میں سے ہر ایک میں سے بسبب تدبیر کے (۳) سهام آزاد ہوئے اور باقی (۱۴) سهام کے واسطے سعایت کرے گا اور مدبر معروف اپنا حق پورا لے چکا ہے یعنی سهام وصیت کے (۸) سهام پس جملہ سهام وصیت (۱۴) ہوئے اور سهام سعایت (۲۸) ہوئے اور تہائی دو تہائی ٹھیک ہو گئی پس تخریج مستقیم ہے اور اگر مدبر معروف نہیں مرا بلکہ ہر دو غلام میں سے کوئی مرگیا تو وہ اپنی وصیت کے (۳) سهام پورے لے گیا اور جو اس پر سعایت تھی وہ ڈوب گئی اور یہ نقصان وارثوں دونوں باقیوں پر مشترک ہوگا چنانچہ باقی حق دار وارثان (۲۸) اور حق مدبر معروف (۸) اور حق غلام باقی (۳) پر تقسیم ہوگا پس جملہ سهام (۲۹) ہوئے پس دو ثلث ہر ایک غلام باقی اور مدبر و ثلث ساڑھے انیس ہوئے از انجملہ مدبر کے (۸) سهام نکل گئے اور باقی ساڑھے گیارہ سهام کے واسطے سعایت کریں گا اور غلام زندہ کے (۳) سهام نکل گئے اور باقی ساڑھے سولہ سهام کے لیے سعایت کرے گا اور غلام میت اپنے (۳) سهام وصیت لے گیا ہے لہذا مبلغ سهام وصیت (۱۴) ہوئے اور مبلغ سهام سعایت (۲۸) ہوئے پس تخریج مستقیم ہوئی اور اگر ہر دو غلام مر گئے اور مدبر رہے گا دونوں اپنے سهام وصیت پورے (۲) سهام لے گئے اور دونوں پر جو سهام سعایت تھے ڈوب گئے پس یہ حق تلفی کل پر ہو

گئی پس باقی سهام وارثان (۲۸) اور حق مدبر (۸) پر تقسیم ہوں گے پس جملہ سهام (۲۶) ہوئے پس دو ٹکٹ رقبہ مدبر (۳۲) رہے از انجملہ (۸) سهام وصیت مدبر آزاد ہوئے اور باقی (۳۸) سهام کے واسطے سعایت کریں گا اور چونکہ ہر دو غلام مردہ اپنا حصہ لے چکے ہیں یعنی (۶) سهام لہذا جملہ سهام وصیت (۱۳) ہوئے اور سهام سعایت (۲۸) ہیں پس تہائی دو تہائی ٹھیک نکلی و تخریج مستقیم ہوئی اور اگر مولیٰ نہ مرا بلکہ غلاموں میں سے ایک مر گیا پھر اس کے بعد مولیٰ مرا تو ہم کہتے ہیں کہ اگر مدبر قیل موت مولیٰ کے مر گیا تو عتق قطعی میں اس کی مزاحمت باطل ہوئی اور عتق قطعی ہر دو باقی میں رہے گا اور جب مولیٰ مر گیا تو وہ ان دونوں میں شائع ہو گیا کہ جس سے نصف ہر ایک کا باسباب قطعی آزاد ہو گیا اور ہر ایک کا چوتھائی حصہ بسبب تدبیر کے مدبر ہو گیا پس اگر مولیٰ کا کچھ مال زائد ہو کہ اس کی تہائی سے نصف رقبہ برآمد ہوتا ہو تو ہر ایک میں سے تین چوتھائی حصہ آزاد ہو جائے گا از انجملہ نصف بسبب عتق قطعی کے اور چہارم بسبب تدبیر کے اور ہر ایک اپنی چوتھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کا کچھ اور مال نہ ہو تو ایک تہائی ان دونوں میں نصفاً نصف تقسیم ہوگی اور اس کا مال وقت موت کے رقبہ واحدہ ہے پس تہائی مال تہائی رقبہ ہوگا جو دونوں میں نصفاً نصف ہوگا چنانچہ ہر ایک میں سے دو تہائی حصہ آزاد ہوگا جس میں (۱) سے نصف رقبہ بسبب عتق قطعی کے اور چھٹا حصہ بسبب مدبر ہونے کے اور ہر ایک اپنی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر مدبر نہیں مرا بلکہ ہر دو غلام میں سے ایک مر گیا پھر مولیٰ مر گیا تو غلام میت کی مزاحمت دور ہوگئی اور عتق قطعی اس غلام باقی اور مدبر معروف کے درمیان رہا کہ ہر ایک کا نصف حصہ بسبب عتق قطعی کے آزاد ہو جائے گا اور ہر ایک کا نصف باقی مدبر ہوا چنانچہ اگر مولیٰ کا مال کچھ زائد ہو کہ اس میں سے تہائی ایک رقبہ ہوتا ہو تو دونوں آزاد ہو جائے گے اور اگر نہ ہو تو تہائی حق میت ان دونوں میں نصفاً نصف تقسیم ہوگی چنانچہ ہر ایک میں سے دو تہائی حصہ آزاد ہوگا اور ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے گا جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔

مندرجہ ذیل صورت میں سهام کی تقسیم:

اگر مولیٰ نے کہا کہ تم میں سے دو آزاد ہیں یا مدبر ہیں اور یہ اس نے مرض میں کہا تو اس کا کلام ان دونوں کے حق میں تہائی سے معتبر ہوگا پس تہائی ان سب پر بقدر ان کے سهام کے تقسیم ہوگی پس مدبر معروف کا حق تمام رقبہ کا ہے جس کے (۶) سهام مفروضہ ہیں اور حق ہر دو غلام بحکم تدبیر کے نصف یعنی (۳) میں اور بحکم عتق قطعی دو تہائی یعنی (۴) میں ہے پس سهام وصیت ہر دو غلام سات ہوئے اور سهام وصیت مدبر (۶) ہوئے جن کا مجموعہ کل (۱۳) سهام وصیت ہوئے اور یہ تہائی مال ہوا پس کل مال کے (۳۹) سهام ہوئے پس ہر غلام کے (۱۳) سهام ہوئے جن میں سے مدبر میں سے (۶) سهام آزاد ہوئے اور (۷) سهام کے واسطے سعایت کرے گا اور ہر دو غلام میں سے سات سهام یعنی ہر ایک سے ساڑھے تین سهام آزاد ہوئے تو ہر ایک ساڑھے نو سهام کے لیے سعایت کرے گا پس جملہ سهام وصیت (۱۳) اور سهام سعایت (۲۶) ہوئے پس تخریج تہائی دو تہائی مستقیم ہے۔ اور اگر مدبر موت مولیٰ کے مر گیا تو اس پر سعایت باطل ہوگئی اور خسارہ کل پر ہوا ہے اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ باقی ہر دو غلام کی مقدار سهام (۷) پر اور مقدار سهام وارثوں (۲۶) پر تقسیم ہوگی پس جملہ (۳۳) ہوئے کہ ہر غلام کے جملہ ساڑھے سولہ سهام ہوئے پس ہر ایک میں سے ساڑھے تین آزاد اور باقی (۱۳) کے واسطے سعایت کرے گا اور مدبر میت اپنے سهام وصیت لے چکا ہے لہذا جملہ سهام وصیت (۱۳) اور سهام سعایت (۲۶) ہوئے پس تخریج مستقیم ہے اور اگر ہر دو غلام میں سے ایک مر گیا تو اس پر کی سعایت ڈوب گئی اور

ڈوبنا سب پر رہا پس طور کہ باقی طور کہ باقی مقدار حق سهام وارثان (۲۶) پر اور مقدار حق سهام غلام باقی ساڑھے تین اور مقدار حق سهام مدبر (۶) پر تقسیم ہو پس جملہ ساڑھے پچیس سهام ہوئے پس ہر ایک کے مقابلہ میں (۱۷) سهام اور تین چوتھائی حصہ سهام ہوا جس میں سے مدبر سے (۶) سهام آزاد ہوئے اور باقی گیارہ سهام اور تین چوتھائی سہم کے واسطے سعایت کرے گا اور غلام میں سے ساڑھے تین سهام آزاد ہوئے اور باقی (۱۳) سهام و چوتھائی سہم کے واسطے سعایت کرے گا اور چونکہ غلام مردہ اپنا حق وصیت لے چکا ہے لہذا مبلغ سهام وصیت (۱۳) ہو اور مبلغ سعایت (۲۶) ہوئے پس تخریج مستقیم ہوئی اور اگر دونوں غلام مر گئے اور مدبر رہے گیا تو سعایت جو دونوں پر تھی ڈوب گئی پس باقی حق سهام وارثان (۲۶) پر اور سهام مدبر چھ پر تقسیم ہو گئی کہ جس کے جملہ (۳۲) سهام ہوئے جس میں سے مدبر کے (۶) سهام آزاد ہوں گے اور باقی (۲۶) سهام کے واسطے سعایت کرے گا اور چونکہ ہر دو غلام میت اپنے سهام وصیت پا چکے ہیں لہذا مبلغ سهام وصیت (۱۳) اور مبلغ سهام سعایت (۲۶) ہوئے پس تخریج مستقیم ہوئی اور اگر مدبر مع ایک غلام کے مر گیا تو ان پر جو کچھ سعایت تھی وہ ڈوب گئی تو باقی حق وارثان (۲۶) اور حق غلام باقی ساڑھے تین مجموعہ ۲۹/۲ پر تقسیم ہوگی از انجملہ ساڑھے تین سهام غلام میں سے آزاد ہوں گے اور باقی (۲۶) کے واسطے سعایت کرے گا اور چونکہ مدبر اور غلام میت نے اپنا اپنا حصہ لے لیا ہے یعنی ساڑھے نو سهام پس جملہ سهام وصیت (۱۳) ہوئے اور سهام سعایت (۲۶) میں پس تخریج مستقیم ہوئی اور اگر مدبر قبل موت مولیٰ کے مر گیا تو عتق قطعی میں اس کی مزاحمت جاتی رہی اور ایک رقبہ کامل اور نصف رقبہ باقی دونوں غلاموں میں رہا پس اگر مولیٰ کا اس قدر مال ہو کہ اس کی تہائی سے ڈیڑھ رقبہ برآمد ہوتا ہو تو ہر غلام میں سے تین چوتھائی بوجہ عتق قطعی کے آزاد ہو جائے گا اور اپنی چوتھائی کے واسطے ہر ایک سعایت کرے گا اور اگر اس کا کچھ اور مال نہ ہو تو اس کا تہائی مال یعنی دو تہائی رقبہ ان دونوں میں مشترک ہوگا پس ہر ایک میں سے تہائی رقبہ آزاد ہو جائے گا اور اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر مولیٰ سے پہلے ایک غلام مر گیا تو اس کی مزاحمت عتق قطعی میں سے باطل ہو گئی اور ایجاب قطعی درمیان غلام اور مدبر کے رہا ہر ایک کے واسطے نصف رقبہ پہنچا اور نصف غلام باقی بھی مدبر ہو گیا پس اگر مولیٰ کا اس قدر مال ہو کہ اس کی تہائی سے یہ دونوں بقدر مملو کیت برآمد ہوئے ہوں تو دونوں مفت بلا سعایت آزاد ہو جائے گے اور اگر اس کا کچھ اور مال نہ ہو تو اس کا تہائی مال یعنی دو تہائی رقبہ ان دونوں کو مشترک پہنچے گا جس طرح کہ ہم نے بیان کیا ہے اور اگر اس نے اپنی صحت میں کہا کہ تم سب آزاد ہو یا مدبر ہو اور قبل بیان کے مر گیا تو اس کا یہ قول کہ تم سب آزاد ہو ان سب کے حق میں صحیح ہے اور اس کا یہ قول کہ یا تم سب مدبر ہو اس کے مدبر معروف کے حق میں لغو ہوا اور ہر دو غلام کے حق میں صحیح ہے گویا اس نے کہا کہ یہ دونوں غلام مدبر میں پس نسب ایجاب قطعی کے ڈیڑھ رقبہ آزاد ہوا جو ان سب میں مشترک ہوگا کہ ہر ایک میں سے نصف رقبہ آزاد ہوگا اور نسب ایجاب ثانی کے ایک رقبہ مدبر ہوا جو ہر دو غلام میں مشترک ہوگا کہ ہر ایک میں سے نصف مدبر ہو جائے گا اور مدبر معروف کا نصف مدبر ہوا اور اگر مولیٰ کا اور مال ہو کہ جس کی تہائی سے نصف رقبہ ایک رقبہ کامل برآمد ہوتا ہو تو سب آزاد ہو جائے گے اور اگر کچھ اور مال نہ ہو تو اس کا تہائی مال تقسیم کیا جائے گا اور وقت موت کے اس کا تہائی مال ڈیڑھ رقبہ ہے پس اس کی تہائی نصف رقبہ ہوا جو ان سب میں مساوی تقسیم ہوگا پس ہر ایک کے حصہ میں چھٹا حصہ رقبہ کا پہنچا پس جملہ دو تہائی رقبہ ہر ایک میں سے آزاد ہوگا اس طرح کہ نصف ہر ایک ایجاب قطعی اور چھٹا حصہ بسبب تدبیر کے آزاد ہوگا اور باقی ایک تہائی کے واسطے ہر ایک سعایت کرے گا اور اگر ایجاب مذکور حالت مرض میں واقع ہوا ہو تو تہائی مال سے سب اسی طرح^(۱) آزاد ہوں گے جیسے ہم نے بیان کر دیا ہے اور اسی طرح اگر کہا کہ تم میں سے ہر ایک آزاد ہے یا تم

۱۔ مستقیم ہوئی یعنی ٹھیک اتری کیونکہ امتحان سے دریافت کر لیا گیا مزاحمت یعنی خالی اس کو ملنے میں مزاحم ہوگا ۱۲۔

سب مدبر ہو تو یہ بمنزلہ اس قول کے ہے کہ تم سب آزاد ہو یا تم سب مدبر ہو اور اسی طرح اگر کہا کہ تم سب آزاد ہو یا یہ تو یہ سب مدبر ہیں تو بھی یہی حکم ہے کہ یہ بمنزلہ اس قول کے ہے کہ یا تم سب مدبر ہو۔ اور اگر ان میں سے کوئی مدبر نہ ہو اور اس نے کہا کہ تم سب آزاد ہو یا یہ تو یہ مدبر ہیں ایجاب صحیح ہیں پس ہر دو کلام میں سے ہر ایک کے مقتضی کا نصف ثابت ہوگا چنانچہ ہر ایک میں سے نصف با ایجاب قطعی آزاد ہو جائے گا اور باقی نصف ہر ایک کا مدبر بھی ہوگا اور تدبیر کا اعتبار تہائی میں سے ہوگا اور اگر ایجاب بحالت مرض واقع ہو تو سب تہائی مال سے آزاد ہوں گے جس قدر آزاد ہو سکیں جیسے ہم نے بیان کیا ہے اور اگر ان میں سے ایک مدبر ہو اور اس نے کہا کہ تم سب آزاد ہو یا تم میں سے ایک مدبر ہے تو یہ سب کلام باطل ہے اس واسطے کہ قولہ تم میں سے ایک مدبر ہے لغوی ہے اور ہا ایجاب اول وہ ایجاب نے حال دون حال ہے پس شک کے ساتھ ایجاب نہ ہوگا اور اگر کہا کہ ہر ایک تم میں سے آزاد ہے یا مدبر ہے تو ہر دو کلام حق مدبر میں باطل ہیں اور ہر دو غلام کے حق میں صحیح^(۲) ہیں اس واسطے کہ اس نے ہر فرد کے حق میں علیحدہ ایجاب کیا ہے گویا اس نے ہر ایک کے واسطے کہا کہ تو آزاد ہے یا مدبر ہے پس مدبر کے حق میں باطل ہوگا اور ہر ایک غلام کے حق میں صحیح ہوگا پس ہر کلام کے متقضا کا نصف ثابت ہوگا پس ہر ایک غلام میں سے نصف با ایجاب قطعی ثابت ہوگا اور نصف ہر ایک کا مدبر ہو جائے گا اور تدبیر کا اعتبار تہائی سے ہوگا اور اگر قول مذکور مرض میں صادر ہو تو تہائی سے سب آزاد ہوں گے اور اسی طرح حساب لگایا جائے گا جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اور اگر اس نے یوں کہا کہ تم سب آزاد ہو یا یہ مدبر ہے اور مدبر اسی کو کہا جو معروف مدبر ہے یا یہ ہے یا یہ ہے اور قبل بیان کے مرگیا تو سب مدبر ہو جائیں گے اس واسطے کہ ہر دو ایجاب میں سے التزام ہے اور دلالت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس نے تدبیر کو اختیار کیا ہے اور دلالت اس طرح ہے کہ اس نے ثانی و ثالث کو اول تدبیر پر عطف کیا ہے پس اختیار ثابت ہو اس واسطے کہ عطف تقضی مشارکت ہے درمیان معطوف علیہ کے ایسے وصف میں جو بیان ہوا ہے اور صفت تدبیر میں مشارکت ثابت نہ ہوگی الا ایسی صورت میں کہ معطوف علیہ میں ایجاب میں اس کا تدبیر کا اختیار کرنا اعتبار کیا جائے اور اگر ان غلاموں میں کوئی مدبر نہ ہو پس اس نے کہا کہ تم سب آزاد ہو یا یہ مدبر ہے یا یہ ہے سب مدبر ہو جائیں گے اور اگر کہا کہ تم سب آزاد ہو یا یہ مدبر ہے اور یہ تو ایجاب اول باطل ہو گیا اور جس غلام کو تدبیر شامل ہے اور دوسرا جو اس پر عطف ہے دونوں مدبر ہو جائیں گے اور تیسرا تو باقی رہے گا اور وجہ یہ ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے اور اگر اس نے کہا کہ تم سب آزاد ہو اور یہ دونوں مدبر ہیں حالانکہ ان میں کوئی غلام پہلا مدبر نہ تھا تو دونوں ایجاب ثابت ہوں گے پس ایجاب اول سے ڈیڑھ رقبہ آزاد ہوگا جو ان سب میں مشترک ہوگا اور دوسرے ایجاب سے ایک رقبہ کا مدبر ہونا ثابت ہوگا مگر خاص انھیں دونوں کے حق میں جن کی طرف تدبیر کی نسبت کی ہے اور اس تدبیر کا اعتبار تہائی مال سے ہوگا یہ شرح زیادات عثمانی میں ہے اور اگر اپنے تین غلاموں سے کہا کہ تم آزاد ہو یا یہ اور یہ دونوں مدبر ہیں تو ہر ایجاب^(۳) کی تہائی ثابت ہوگی اور یہ عامہ مشائخ کا قول ہے پس کلام اول سے ایک رقبہ کا عتق ثابت ہوگا جو ان سب میں مشترک ہوگا اور دوسرے کلام سے تہائی عتق ثابت ہوگا جو فقط اسی کے واسطے ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا ہے پس اس کے واسطے دو تہائی رقبہ کا عتق ثابت ہوگا اور تیسرے کلام سے دو تہائی رقبہ کی تدبیر انھیں دونوں کے واسطے جن کی طرف اشارہ کیا ہے ثابت ہوگی پس ان میں سے ہر ایک کا تہائی حصہ مدبر بھی ہو جائے گا یہ کافی میں ہے۔

۱۔ تہائی میں سے جو کچھ جس کے پڑتے ہیں پڑے اس قدر آزاد ہوگا اور باقی کے واسطے سعایت کرے گا ۱۲۔

(۱) فیض عتاق ۱۲۔ (۲) تہائی میں سے جو کچھ جس کے پڑتے ہیں پڑے اس قدر آزاد ہوگا اور باقی کے واسطے سعایت کرے گا ۱۲۔ (۳) متقضا ہے

ہر ایجاب میں سے تہائی ثابت ہوگی ۱۲۔

پس اگر اس کا کچھ اور مال ہو کہ جس کی تہائی سے دو تہائی رقبہ نکلتا ہو تو ہر ایک میں سے دو تہائی آزاد ہو جائے گی اور اپنی ایک تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر کچھ اور مال نہ ہو تو وقت موت کے جس قدر مال اس کا تھا اس کی ایک تہائی دونوں کے درمیان نصفاً نصف ہوگی اور موت کے وقت اس کا مال ایک رقبہ کامل اور ایک رقبہ کی دو تہائی تھا پس اس کی تہائی یعنی پانچ نویں۔ (بجائے ساتویں، نویں) حصے ان دونوں میں تقسیم ہوں گے کہ ہر ایک کو دو ساتویں حصے اور نصف ساتواں حصہ پہنچے گا اور ہر ایک اپنے تین ساتویں حصے اور نصف ساتویں حصے کے واسطے سعایت کرے گا اور مفرد اپنے تہائی کے واسطے سعایت کرے گا پس مجموعہ سهام وصیت پانچ ہوئے اور جملہ سهام سعایت دس ہوئے کہ تہائی و دو تہائی ٹھیک رہے پس تخریج مستقیم ہے شرح زیادات عثمانی میں ہے۔

باب : ۷

استیلاء کے بیان میں

استیلاء یہ ہے کہ باندی اپنے مولیٰ مملوکہ تامہ اپنے مولیٰ سے بچہ جنی خواہ ملک وقت علوق تحقیقی ہو یا تقدیری ہکذا قبیل و اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ جب باندی اپنے مولیٰ سے بچہ جنی تو وہ اس کی ام ولد ہوگئی۔ خواہ بچہ زندہ جنی یا مردہ یا ساقط ہو گیا ایسا کہ جس کی پوری خلقت ظاہر ہوگئی تھی یا کچھ خلقت جبکہ اقرار کیا کہ یہ میرا نطفہ ہے تو باندی کے ام ولد ہو جانے کے واسطے یہ بچہ بمنزلہ زندہ کامل الخلق جتنے کے ہے اور اگر ایسا پیٹ ساقط ہوا کہ اس کی خلقت میں سے کچھ ظاہر نہیں ہوا ہے مثلاً لوتھڑا یا تھکا خون کا یا ٹکڑا ساقط ہوا اور مولیٰ نے دعویٰ کیا کہ یہ میرے نطفہ سے ہے تو اس سے باندی اس کی ام ولد نہ ہوگی یہ سراج و ہاج میں ہے۔ ام ولد کی بیع جائز نہیں ہے اور اس طرح ہر ایسا تصرف روا نہیں ہے جس سے حق جو بسبب استیلاء کے باندی کے واسطے ثابت ہوا ہے باطل ہوتا جیسے ہبہ و صدقہ و وصیت و رہن کوئی جائز نہیں ہے اور جو تصرف کہ موجب بطلان حق مذکور نہ ہو وہ جائز ہے جیسے اجارہ پر دینا اور خدمت لینا اور کوئی کمائی کرانا اور کرایہ پر چلانا اور خود اس سے وطنی کرنا یا امتناع کرنا روا ہے اور اجرت و کمائی و کرایہ مولیٰ کا ہوگا اور اگر کسی نے اس سے شبہ سے وطنی کی تو اس کا عقرب مولیٰ کا ہوگا اور اگر مولیٰ نے کسی سے اس کا نکاح کر دیا تو مہر مولیٰ کا ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر ایک قاضی نے ام ولد کی بیع کے جواز کا حکم دے دیا تو قضاء نافذ نہ ہوگی بلکہ دوسرے قاضی پر موقوف رہے گی اگر دوسرے قاضی نے اس کی قضا کو بحال رکھا تو نافذ ہوگی اور اگر باطل کر دیا تو باطل ہوگئی یہ ذخیرہ میں ہے اور مولیٰ کو اختیار ہے کہ کسی سے اس کا نکاح کر دے مگر جب اس سے ایک حیض سے استبراء نہ کرالے تب تک نکاح کر دینا نہیں چاہیے یہ بدائع میں ہے اور اگر بدون استبراء کے اس کا نکاح کر دیا پھر وہ چھ مہینہ سے کم میں بچہ جنی تو یہ بچہ مولیٰ کا ہوگا اور نکاح فاسد ہے اور اگر چھ مہینہ سے زیادہ میں جنی تو بچہ کا نسب شوہر سے ثابت ہو اور اگر مولیٰ نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب شوہر ہی سے ثابت رہے گا اگر مولیٰ کے دعویٰ کی وجہ سے وہ آزاد ہو گیا یہ مسبوٹ میں ہے اور اگر مولیٰ نے اس کا نکاح کر دیا اور نکاح سے اس کے بچہ ہو تو بچہ بھی اپنی ماں کے حکم میں ہوگا کہ مولیٰ کو اس کی بیع و ہبہ و رہن وغیرہ جائز نہیں ہے اور وہ کسی کے واسطے سعایت نہ کریں گا اور مولیٰ کے مرنے پر اس کے کل مال سے آزاد ہو جائے گا ہاں مولیٰ کو اس سے خدمت لینا اور اس کا اجارہ پر دینا وغیرہ جائز ہے لیکن اگر بچہ لڑکی ہو تو مولیٰ کو اس سے امتناع جائز نہیں ہے اور یہ مسئلہ اجماعی ہے اور اگر نکاح فاسد واقع ہوا ہو تو حق احکام میں یہ نکاح فاسد محقق بہ نکاح صحیح کیا جائے گا۔

فتح القدر میں ہے۔ اپنی باندی کا نکاح اپنے غلام سے کر دیا پھر اس کے بچہ پیدا ہوا پھر مولیٰ نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب ثابت نہ ہوگا بلکہ نسب غلام ہی ثابت ہوگا لیکن مولیٰ کے اقرار کی وجہ سے یہ بچہ آزاد ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور جب ام ولد کا مولیٰ مرے تو وہ آزاد ہو جائے گی خواہ مولیٰ نے اس کو کسی مرد سے بیاہ دیا ہو یا نہ بیاہا ہو اور نیز اس کا حق تمام مال سے معتبر ہوگا پس آزاد ہو جائے گی خواہ تہائی مال سے برآمد ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو اور اس پر سعایت مولیٰ کے وارث یا مولیٰ کے قرض خواہ کسی کے واسطے کسی طرح واجب نہ ہوگی یہ غایتہ البیان میں ہے اور یہ احکام ام ولد کے واسطے بہر حال ثابت ہوں گے خواہ مولیٰ حقیقتاً مر گیا یا حکماً مر گیا باہیں طور کہ مرتد ہو اور دار الحرب میں چلا گیا اسی طرح اگر حربی امان لیکر دارالاسلام میں آیا اور یہاں کوئی باندی خریدی اور اس کو ام ولد بنایا پھر دار الحرب کو چلا گیا پھر جہاد میں قید ہوا تو یہ باندی آزاد ہو جائے گی۔ یہ بدائع میں ہے۔

ام ولد کا عتق تبکرار ملک تسکر ہوگا جیسے عتق محارم:

جب ام ولد مولیٰ کے مرنے سے آزاد ہوئی تو اس وقت جو کچھ مال اس کے پاس ہے وہ مولیٰ کا ہوگا الا آنکہ مولیٰ نے اس کے واسطے اس مال کی وصیت کر دی ہو یہ بحر الرائق میں قاضی خان سے منقول ہے اور ام ولد کا عتق تبکرار ملک تسکر ہوگا جیسے عتق محارم اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ام ولد کو اس کے مولیٰ نے آزاد کر دیا پھر وہ مرتد ہو کر دار الحرب میں چلی گئی پھر قید ہو کر انی اور مولیٰ نے اس کو خرید تو پھر ام ولد ہوگی یعنی اس کا ام ولد ہونا عود کرے گا اور اس طرح اگر ذی رحم محرم کا کسی طور سے مالک ہو اور وہ اس کی طرف سے آزاد ہو گیا پھر وہ مرتد ہو کر دار الحرب میں چلا گیا پھر اس نے خرید تو آزاد ہو جائے گا اور اسی طرح دو بارہ سے بارہ بتنی دفعہ واقع ہوئے یہی حکم ہے اور یہی حکم ام ولد میں ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر نصرانی کی ام ولد مسلمان ہو گئی تو اس کے مولیٰ پر اسلام پیش کیا جائے گا پس اگر اس نے انکار کیا تو قاضی اس باندی کو اس کی ولایت سے نکال دے گا بایں طور کہ اس کی قیمت اندازہ کر کے اس باندی پر اقساط مقرر کر دے گا اور یہ مکاتبہ ہو جائے گی مگر فرق اس قدر ہے کہ یہ عورت دو بارہ رقیق نہ کی جائے گی اگر چہ اپنے آپ کو عاجز کر دے اور اگر اسلام پیش کرنے کے وقت نصرانی مذکور مسلمان ہو گیا ہو تو عورت اپنے حال پر اس کی ام ولد رہے گی۔ بخلاف اس کے کہ اگر اس وقت کے بعد مسلمان ہو گیا تو ایسا نہ ہوگا اور اگر اس کا مولیٰ نصرانی مر گیا تو آزاد ہو جائے گی اور اس کے ذمہ سے سعایت ساقط ہو جائے گی یہ فتح القدر میں ہے اور اگر قاضی نے اس پر قیمت دینے کا حکم دیا ہو پھر وہ مر گئی اور اس کا ایک بچہ ہے جس کو وہ حالت سعایت میں جنمی ہے تو کچھ اس پر واجب ہے وہ اس کا بچہ سعایت کر کے ادا کرے گا یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر زید کی باندی کے عمرو سے ایک بچہ پیدا ہوا بنکاح یا بوطی شہہ پھر عمرو اس باندی کا مالک ہو تو بچہ کا عمرو سے نسب ثابت ہوگا اور یہ باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر حاملہ باندی کی نسبت مولیٰ نے اقرار کیا کہ اس کا حمل مجھ سے ہے تو وہ اس کی ام ولد ہو جائے گی:

واضح رہے کہ ہمارے نزدیک اس کی ام ولد اس وقت سے ہو جائے گی جب سے اس کا مالک ہوا ہے نہ اس وقت سے کہ جب سے بچہ کا نطفہ قرار پایا ہے یہ نہر الفائق میں ہے اور اگر زنا سے کسی باندی سے استیلاء کیا پھر اس کا مالک ہو گیا تو استحساناً اس کی ام ولد نہ ہو جائے گی اور یہ ہمارے علمائے ثلثہ کا قول ہے۔ یہ ذخیرہ میں ہے مگر بچہ آزاد ہو جائے گا اور اس کی ماں کے فروخت کا اس کو اختیار ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے اور اگر زید نے کہا کہ میں نے اس باندی سے نکاح کیا اور یہ مجھ سے بچہ جنمی ہے اور یہ بات

صرف اس کے قول سے معلوم ہوتی ہے اور مولیٰ جس کی وہ باندی ہے اس سے انکار کرتا ہے تو یہ بات ثابت نہ ہوگی پھر جب زید اس باندی کا مالک ہو جائے گا تو باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور یہ ہمارے علمائے ثلثہ کا قول ہے اور اگر اپنی صحت میں اقرار کیا کہ میری اس باندی کی مجھ سے اولاد ہوئی ہے تو ہمارے علمائے ثلثہ کے نزدیک اس کی ام ولد ہو جائے گی اور تمام مال سے آزاد ہوگی خواہ اس کے ہاتھ بچہ موجود ہو یا نہ ہو یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر اپنے مرض میں اپنی باندی سے کہا کہ تو مجھ سے جنی ہے پس اگر اس وقت اس کو حمل ہو یا اس کے ساتھ بچہ موجود ہو تو یہ باندی اس کے کل مال سے آزاد ہوگی ورنہ تنہائی مال سے آزاد ہوگی یہ محیط سرخسی میں ہے۔ اگر حاملہ باندی کی نسبت مولیٰ نے اقرار کیا کہ اس کا حمل مجھ سے ہے تو وہ اس کی ام ولد ہو جائے گی اسی طرح اگر کہا کہ اگر یہ حاملہ ہو تو اس کا حمل مجھ سے ہے پھر اس کے بچہ پیدا ہوا یا وہ پیٹ میں ڈال گئی جس کی پوری خلقت یا بعض خلقت ظاہر ہو گئی تھی اور مولیٰ نے اس کا اقرار کیا تو باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی بشرطیکہ چھ مہینہ سے کم میں پیدا ہوا ہو اور اگر مولیٰ نے ولادت سے انکار کیا پھر ولادت پر ایک قابلہ نے گواہی دی تو جائز ہے اور مولیٰ سے بچہ کا نسب ثابت ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر باندی چھ مہینے یا زیادہ میں جنی تو بچہ مولیٰ کو لازم نہ ہوگا اور نہ باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ اس باندی کا حمل مجھ سے ہے یا کہا کہ جو اس کے پیٹ میں ہے بچہ وہ میرا ہے پھر اس کے بعد دعویٰ کیا کہ یہ ریح تھی بچہ نہ تھا پس باندی نے اس کی تصدیق کی یا تکذیب کی تو اس کی ام ولد ہو جائے گی اور اگر کہا کہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ میرا ہے اور حمل و ولد کا نام نہ لیا پھر کہا کہ اس کے پیٹ میں ریح تھی پس باندی نے اس کی تصدیق کی تو اس کی ام ولد نہ ہو جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر باندی نے تکذیب کی اور کہا کہ نہیں بلکہ بچہ تھا اور وہ ساقط ہو گیا اور اس کی خلقت ظاہر ہو گئی تھی تو قول باندی کا قبول ہوگا اور مولیٰ کی ام ولد ہوگی۔ یہ محیط سرخسی میں ہے۔

ایک مرد نے اقرار کیا کہ میری یہ باندی مجھ سے حاملہ ہے پھر دو برس سے زیادہ میں اس کے بچہ پیدا ہوا اور ایک عورت نے ولادت پر گواہی دی اور باندی نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ وہی حمل ہے اور مولیٰ نے وہی حمل ہونے سے انکار کیا تو باندی اس کی ام ولد ہوگی اور بچہ کا نسب اس سے ثابت نہ ہوگا اور اگر مولیٰ نے اقرار کیا کہ یہ وہی حمل ہے اور یہ میرا ہے حالانکہ اقرار سے دو برس بعد جنی ہے تو یہ بچہ مولیٰ کی اولاد سے ہوگا اور مولیٰ کا یہ قول کہ یہ وہی حمل ہے تہود باطل^۱ قرار دیا جائے گا اور اگر ایک مرد پر دو گواہوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ اس نے اپنی اس باندی کی نسبت کہا کہ یہ مجھ سے جنی ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے اس باندی کی نسبت کہا کہ وہ مجھ سے حاملہ ہے تو وہ اس کی ام ولد ہوگی کہ البتہ دونوں نے اس پر اتفاق کیا ہے اور اسی طرح اگر ایک نے کہا کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ مجھ سے پسر جنی اور دوسرے نے کہا کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ مجھ سے دختر جنی ہے تو بھی یہی حکم ہے کیونکہ دونوں گواہوں کی گواہی میں اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ باندی اس کی ام ولد ہے یہ محیط میں ہے۔ ایک مرد نے اپنی باندی سے کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں لڑکا ہو تو وہ میرے نطفہ سے ہے اور اگر لڑکی ہو تو مجھ سے نہیں ہے تو بچہ کا نسب اس سے بہر حال ثابت ہوگا خواہ لڑکی جنی یا لڑکا اور اگر کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہو تو مجھ سے ہے تو دو سال^(۱) پھر وہ چھ مہینے سے کم میں جنی تو بچہ کا نسب اس^(۲) سے ثابت ہوگا اور اگر چھ مہینہ سے زیادہ میں جنی تو نسب اس سے ثابت نہ ہوگا اور وقت مقرر کرنا باطل ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

۱ یعنی مدار ثبوت نسل یہ قول ہوگا کہ یہ میرا نہ آ نکہ یہ وہی حمل ہے پس خلاصہ آ نکہ ام ولد ہونا اقرار جدید سے ہے نہ اقرار قدیم سے ۱۲۔

(۱) یعنی مدت کثیر نہ دو برس سے ۱۲۔ (۲) اگر مولیٰ نے دعویٰ کیا تو اس کے اقرار پر آزاد ہو جائے گا مگر نسب ثابت نہ ہوگا ۱۲۔

اگر ایک باندی خریدی جس کے تین اولاد ہیں پھر ان میں سے ایک کے نسب کا دعویٰ کیا پس اگر یہ سب ایک ہی بطن سے پیدا ہوئے ہوں تو سب اس سے ثابت ہوگا اور مختلف بطنوں سے پیدا ہوئے ہوں تو فقط اسی کا نسب اس سے ثابت ہوگا جس کا دعویٰ کیا ہے اور باقی دونوں رقیق رہیں گے کہ چاہے ان کو فروخت کر دے اور اگر اس کی ملک میں یہ اولاد پیدا ہوئی ہو مثلاً ایک شخص کی باندی تین اولاد مختلف بطنوں سے جنی پس اگر مولیٰ نے سب سے چھوٹے کے نسب کا دعویٰ کیا تو اسی کا نسب مولیٰ سے ثابت ہوگا اور باقی دونوں رقیق ہیں چاہے ان کو فروخت کر دے اور یہ بالاتفاق ہے اور اگر اس نے سب سے بڑے کے نسب کا دعویٰ کیا تو اس کا نسب مولیٰ سے ثابت ہوگا اور باقی دونوں اپنی ماں کے تابع بمنزلہ اپنی ماں کے ہوں گے کہ ان کو فروخت نہیں کر سکتا ہے مگر مولیٰ سے انکار نسب ثابت نہ ہوگا۔ یہ مسبوط میں ہے ایک مرد کی ایک باندی ہے کہ اس سے وطی کرتا ہے اور ہر بار عزل کر لیتا ہے پھر یہ باندی کہیں غائب ہوئی یعنی ایک زمانہ تک اس کے حضور سے غائب رہی پھر لوٹ آئی اور وقت غائب ہونے سے چھ مہینے پر بچہ جنی ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر ایسے شخص کی طرف گئی تھی جو اس سے متم تھا اور مولیٰ کا غالب گمان یہ ہے کہ اس باندی نے مجبور کیا ہے تو مولیٰ کو اس کے بچہ کی نفی کر دینے کی گنجائش ہے کہ یہ میرا نہیں ہے اور اگر اس کا فحور ظاہر نہ ہو اور مولیٰ کی غالب رائے یہ ہے کہ عقیقہ ہے تو مولیٰ کو اس کے بچہ کا نفی کرنا نہ چاہیے اور چاہیے کہ گواہ کر دے کہ یہ میری ام ولد ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی موت کے بعد اس کا بچہ رقیق بنایا جائے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر کسی باندی نے کسی مرد کو دھوکا دیا اور کہا کہ میں حرہ ہوں پس اس نے نکاح کیا اور اس سے اولاد ہوئی پھر باندی کے مولیٰ نے اپنا استحقاق ثابت کیا تو مولیٰ کے واسطے امن باندی کے ملنے اور اولاد کی قیمت ملنے اور وطی کنندہ سے عقرب ملنے کا حکم دیا جائے گا:

اگر اپنی باندی سے وطی کرتا ہے اور عزل نہیں کرتا ہے اور اس کو محفوظ کر لیا ہے پھر اس کے بچہ پیدا ہوا تو دیانت کی راہ سے فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ مولیٰ کو روایا نہیں ہے کہ اس بچہ کو فروخت کرے اور اس پر واجب ہے کہ اعتراف کرے کہ یہ میرا ہے اور اگر اس سے عزل کرتا ہو اور اس کو محفوظ نہ کیا ہو تو امام اعظم کے نزدیک مولیٰ کو روایا ہے کہ اس کے بچہ کی نفی کرے یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر کسی کی ام ولد اس پر ہمیشہ کے واسطے حرام ہو گئی بائیں طور کہ مولیٰ کے پسر نے اس ام ولد سے وطی کر لی یا باپ نے وطی کر لی یا مولیٰ نے اس کی دختر یا ماں سے وطی کر لی پھر چھ مہینہ سے زیادہ کے بعد اس کے بچہ پیدا ہوا تو بعد تحریم کے جو بچہ اس کا ہوا ہے بدون مولیٰ کے دعویٰ کے اس کا نسب مولیٰ سے ثابت نہ ہوگا اور اگر مولیٰ نے دعویٰ کیا تو نسب ثابت ہو جائے گا اس واسطے کہ حرام ہو جانے سے ملک زائل نہیں ہوتی ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر کسی باندی نے کسی مرد کو دھوکا دیا اور کہا کہ میں حرہ ہوں پس اس نے نکاح کیا اور اس سے اولاد ہوئی پھر باندی کے مولیٰ نے اپنا استحقاق ثابت کیا تو مولیٰ کے واسطے امن باندی کے ملنے اور اولاد کی قیمت ملنے اور وطی کنندہ سے عقرب ملنے کا حکم دیا جائے گا پھر جب وہ آزاد ہو جائے گی تو اولاد کا باپ اس سے اولاد کی قیمت واپس لے گا اور اگر اولاد کے باپ نے نصف باندی اس کے مولیٰ سے خریدی تو اس کی ام ولد ہو جائے گی اور اس کی نصف قیمت اس کے مولیٰ کو تاوان بھی دے دے گا۔ یہ مسبوط میں ہے۔

زید نے بکر کی ام ولد کو عمر و سے خریدا اور زید کو اس کا علم نہیں ہے پھر زید سے اس کے ایک بچہ پیدا ہوا پھر بکر نے اس کا دعویٰ کیا اور اس کے واسطے حکم ہو گیا تو زید بکر کے واسطے بچہ کی قیمت بسبب دھوکے کے واجب ہوگی یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر اپنے

ایسے غلام کی نسبت کہا کہ یہ میرا لڑکا ہے کہ ایسی عمر کا بیٹا ایسے شخص کے نہیں ہو سکتا ہے تو امام اعظم کے نزدیک اس کی طرف سے آزاد ہو گیا اور آیا اس کی ماں اس کی ام ولد ہوگی یا نہیں تو اس صحیح یہ ہے کہ اقرار اس کی ماں کے ام ولد ہونے کا اقرار ہے یہ سراج و ہاج میں ہے۔ اگر اپنے باپ کے تصرف و طمی میں آئی ہوئی باندی سے استیلاء کیا تو بچہ کا نسب اس سے ثابت ہوگا یہ قینہ میں ہے۔

اگر باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے و طمی کی اور اس کے بچہ پیدا ہوا اور باپ نے اس کا دعویٰ کیا تو باپ سے اس کا نسب ثابت ہوگا اور یہ باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی خواہ بیٹے نے اس کی تصدیق کی ہو یا تکذیب کی ہو خواہ باپ نے شبہ کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ سراج و ہاج میں ہے اور باپ پر اس باندی کی قیمت واجب ہوگی مگر عقر اور بچہ کی قیمت نہیں واجب ہوگی یہ کافی میں ہے اور اس استیلاء کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ باندی وقت علق سے تا وقت دعویٰ نسب پر کی ملک میں ہو اور باپ اس وقت سے اہلیت دعویٰ بھی رکھتا ہو۔ چنانچہ اگر بیٹے نے باندی کو فروخت کر دیا پھر خریدایا اس کو واپس دی گئی اور وقت بیع سے چھ مہینے سے کم میں جنی پس باپ نے دعویٰ کیا تو صحیح نہ ہوگا اور اس صورت میں کہ بیٹا اس کے دعویٰ کی تصدیق کرے جیسے کوئی اجنبی دعویٰ کرے اور بیٹا تصدیق کرے تو بھی یہی حکم ہے اور تیرا اگر باپ کافر ہو پھر مسلمان ہو گیا یا غلام ہو پھر آزاد ہو گیا یا مجنون ہو پھر اس کو افاقہ ہو گیا پھر وقت اسلام یا عتق یا افاقہ سے چھ مہینے سے کم میں تا وقت دعویٰ وہ جنی پس اس نے دعویٰ کیا تو صحیح نہیں ہے کیونکہ باپ کو اہلیت دعویٰ حاصل نہ تھی لیکن اگر بیٹا تصدیق کرے تو نسب ثابت ہوگا یہ فتح القدر میں ہے۔ پس اگر بیٹے نے تصدیق کر لی تو بچہ کا نسب اس کے باپ سے ثابت ہوگا مگر باپ اس باندی کا مالک نہ ہوگا اور یہ بچہ اس کے پسر یعنی باندی کے مولیٰ کی طرف سے آزاد ہو جائے گا اس واسطے کہ اس کے زعم کے موافق وہ اپنے بھائی کا مالک ہو یا یہ تبیین میں ہے اور اگر معتوہ نے اپنے افاقہ کے وقت دعویٰ کیا حالانکہ وہ وقت افاقہ سے چھ مہینے سے کم میں جنی ہے تو قیاساً نہیں صحیح ہے اس واسطے کہ علق کے وقت وہ اہلیت نہیں رکھتا تھا اور استحساناً صحیح ہے اس واسطے کہ عتہ مبطل حق و ولایت نہیں ہے بلکہ بجز از (۱) عمل ہے یہ فتح القدر میں ہے۔

اگر پسر نے اپنی باندی اپنے باپ کے نکاح میں دے دی اور اس سے بچہ پیدا ہوا تو باندی اس کی ام ولد نہ ہو جائے گی اور باپ پر اس بچہ کی قیمت کچھ نہ ہوگی ہاں اس پر مہر واجب ہوگا اور بچہ آزاد ہوگا یہ اختیار شرح مختار میں ہے اور اگر باندی مذکورہ پسر کی مدبر و یا ام ولد ہو کہ قیمت سے باپ کی ملک میں منتقل نہ ہو سکتی ہو تو باپ کا دعویٰ کرنا باطل ہوگا یہ کفایہ میں ہے اور دادا نے اگر سگے پوتے کی باندی سے و طمی کی پھر اس کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب ثابت نہ ہوگا اگر باپ موجود ہو اس واسطے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا کی ولایت منقطع ہے پھر جب باپ مر گیا اور اس کے بعد دادا نے دعویٰ کیا تو اس سے نسب ثابت ہوگا اور اسی طرح اگر باپ موجود ہو مگر ایسا ہو کہ اس کی ولایت کچھ نہیں ہے جیسے غلام یا کافر و مجنون وغیرہ ہو تو ولایت دادا کی ثابت ہے پس اس کا دعویٰ نسب صحیح ہوگا اور اگر باپ کی ولایت عود کیا مثلاً دادا کے دعویٰ سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا یا آزاد کر دیا گیا یا افاقہ ہو گیا تو پھر دادا کا دعویٰ قبول نہ ہوگا اور اگر باپ مرتد ہو تو امام اعظم کے نزدیک اس کا دعویٰ نسب غلام سے موقوف رہے گا پس اگر باپ مسلمان ہو گیا تو دادا کا دعویٰ صحیح نہ ہوگا اور اگر حالت روت پر مر یا دار الحرب میں چلا گیا اور اس کے دار الحرب میں جاننے کا حکم دے دیا گیا تو دادا کا دعویٰ صحیح ہو جائے گا اور اگر مولیٰ نے باندی کو فروخت کیا اور وہ حاملہ ہے پھر دوبارہ خرید لینے سے اس کی ملک میں واپس آئی یا

۱۔ مثلاً پچاس برس کا غلام ہے اور مولیٰ پچپن برس کا ہے یا چالیس برس کا ہے ۱۲۔ جس وقت افاقہ ہو اس وقت سے شمار کیا گیا تو چھ مہینے سے کم ہوئے تھے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ برابر اس کو افاقہ رہا پھر چھ مہینے سے کم گزرے تھے کہ بچہ ہو افاقہ ۱۲۔

(۱) کہ معاف ولایت کے کار بند نہیں ہو سکتا ہے ۱۲۔

بسبب عیب یا خیار شرط یا فساد بیع کے اس کو واپس دی گئی اور وقت بیع سے چھ مہینے سے کم میں بچہ جنی تو دادا کا یا باپ کا دعویٰ صحیح نہ ہوگا الا آنکہ بیٹا یا پوتا تصدیق کرے تو اس سے نسب ثابت ہو جائے گا اور باندی بقیعت اس کی ام ولد ہوگی مگر بچہ مفت آزاد ہوگا یہ خاتیہ البیان میں ہے۔ اور اگر اپنی بیوی یا باپ یا دادا کی باندی سے وطی کی اور وہ بچہ جنی اور بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب ثابت نہ ہوگا مگر اس کے ذمہ سے حد زنا شبہ ساقط کی جائے گی اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میرے واسطے اس کے مولیٰ نے حلال کر دی تو نسب ثابت نہ ہوگا الا آنکہ حلال کر دینے کے دعویٰ میں مولیٰ تصدیق کرے اور اس امر کی تصدیق کرے کہ بچہ اسی کا ہے پس اگر دونوں باتوں کی تصدیق کی تو نسب ثابت ہوگا ورنہ نہیں اور اگر مولیٰ نے تکذیب کی پھر کبھی کسی وقت اس باندی کا مالک ہو تو نسب ثابت ہو جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر مولیٰ نے اپنے مکاتب کی باندی سے وطی کی اور اس سے بچہ پیدا ہوا اور اس کا دعویٰ کیا پس اگر مکاتب نے تصدیق کی تو نسب مولیٰ سے مولیٰ سے ثابت ہوگا اور مولیٰ پر اس باندی کا عقر اور اس بچہ کی قیمت واجب ہوگی اور باندی اس کی ام ولد نہ ہو جائے گی اور اگر مکاتب نے تکذیب کی تو نسب ثابت نہ ہوگا یہ ہدایہ میں ہے اور یہ بچہ جس کے نسب کا مولیٰ نے دعویٰ کیا ہے اور بسبب انکار مکاتب کے مولیٰ سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوا ہے اگر کبھی مولیٰ اس بچہ کا مالک ہو تو ملک کے وقت مولیٰ سے اس کا نسب ثابت ہوگا اور مسبوط میں مذکور ہے کہ در صورت تصدیق مکاتب کے اگر مولیٰ اس باندی کا کبھی مالک ہو تو یہ اس کی ام ولد ہو جائے گی یہ نہایت میں ہے اور اگر کسی مرد نے اپنی باندی کو مکاتب کیا اور اس کے بچہ پیدا ہوا جس کا نسب معروف نہیں ہے پس مولیٰ نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو مولیٰ سے اس کا نسب ثابت ہوگا خواہ مکاتب اس کی تصدیق کرے یا تکذیب اور خواہ وقت کتابت سے چھ مہینے پر جنی ہو یا کم میں یا زیادہ میں بہر حال نسب مولیٰ سے ثابت ہوگا جبکہ وہ دعویٰ کرے اور بچہ آزاد ہوگا اور مولیٰ پر اس کی بابت کچھ ضمان بھی واجب نہ ہوگی پھر اگر مکاتب مذکورہ وقت کتابت سے چھ مہینے سے زیادہ پر جنی ہو تو مولیٰ پر اس کا عقر واجب ہوگا پھر مکاتب کو اختیار ہے چاہے اپنی کتابت پر رہے اور چاہے عاجز بن کر ام ولد ہو جائے یا بدائع میں ہے۔ اور ماذون میں مذکور ہے کہ غلام ماذون نے اگر ایک باندی خریدی اور اس کے بچہ ہو پس ماذون نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہوگا اور اگر مجبور ہو تو ثابت نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ شبہ^(۱) کا دعویٰ کرے۔ یہ عتابیہ میں ہے۔

اگر ایک باندی دو مردوں میں مشترک ہو پس دونوں کی ملک میں وہ حاملہ ہوئی پھر اسکے بچہ پیدا

ہوا اور ایک نے اس کا دعویٰ کیا تو اس سے نسب ثابت ہوگا اور پوری باندی اسکی ام ولد ہو جائیگی:

اگر ایسی باندی خریدی جو اس سے ایک بچہ جنی ہے مع اس بچہ کے اور مع باندی کی ایک دختر کے جو کسی دوسرے مرد سے پیدا ہوئی ہے خریدی تو باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور اس کو اس باندی کے فروخت کا اختیار نہ رہے گا ہاں اس کی دختر کو جو دوسرے مرد سے ہوئی تھی فروخت کر سکتا ہے اور اگر اس ام ولد کو کسی دوسرے کے نکاح میں دے دیا اور اس سے ایک بچہ جنی تو اس کو اس بچہ کے فروخت کا بھی اختیار نہیں ہے اور اگر اس نے ان سب کو آزاد کر دیا اور پھر بعد ان کے مرتد ہو جانے اور مقید کر کے لائے جانے کے ان کو خرید کیا تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک جیسے تھیں ویسے ہی عود کریں گی کہ باندی اور اس کی دوسری دختر اخیرہ کے

۱۔ یہ مکاتبہ کسی مرد کے نکاح میں نہیں ہے ۱۲۔

(۱) وطی شبہ واقع ہوئی ۱۲۔

فروخت کا مختار نہ ہوگا اور پہلی دختر کو فروخت کر سکتا ہے اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ باندی کو نہیں فروخت کر سکتا ہے اور ہر دو دختر کو فروخت کر سکتا ہے یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر ایک باندی دو مردوں میں مشترک ہو پس دونوں کی ملک میں وہ حاملہ ہوئی پھر اس کے بچہ پیدا ہوا اور ایک نے اس کا دعویٰ کیا تو اس سے نسب ثابت ہوگا اور پوری باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی یعنی نصف قیمت شریک کو تاوان دے دے گا خواہ یہ مدعی تنگ حال ہو یا مالدار ہو اور نصف عتق کا بھی ضامن ہوگا اور قیمت ولد میں کچھ ضامن نہ ہوگا اور اگر دونوں نے ساتھ ہی اس کا دعویٰ کیا تو وہ دونوں کا ولد قرار دیا جائے گا اور باندی دونوں کی ام ولد ہوگی ایک روز ایک کی خدمت کرے گی اور دوسرے روز دوسرے کی اور کوئی شریک دوسرے کے واسطے اس باندی کی قیمت میں سے کچھ ضامن نہ ہوگا ہاں ہر ایک دوسرے کے واسطے نصف عتق کا ضامن ہوگا تو وہ قصاص ہو جائے گا یہ بدائع میں ہے اور یہ بچہ ان دونوں میں سے ہر ایک پسر کی کامل میراث پائے گا مگر یہ دونوں اس سے ایک باپ کی کامل میراث پائیں گے یہ ہدایہ میں ہے اور اگر اس باندی کو ایک نے آزاد کر دیا یا مرگیا تو بالاتفاق کل باندی آزاد ہو جائے گی اور اس پر سعایت بھی لازم نہ آئے گی اور آزاد کنندہ پر امام اعظمؒ کے نزدیک ضمان بھی لازم نہ ہوگی۔ یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک باندی دو شخصوں میں مشترک ہے جس میں سے ایک کا نواں حصہ ہے اور دوسرے کا نو دسواں حصہ ہے پھر وہ ایک بچہ جنی اور دونوں نے ساتھ ہی اس کا دعویٰ کیا تو وہ دونوں کا پسر ہوگا اور ہر ایک کا پورا پسر ہوگا پھر اگر وہ مرگیا تو دونوں اس کے وارث ہوں گے اس طرح کہ ہر ایک کو نصف میراث پد ملے گی اور اگر اس نے کوئی جنایت کی تو دونوں کی روگار برادری اس کے جرم کے جرمانہ کو نصف نصف ادا کرے گی اور اگر باندی نے جنایت کی تو دسویں حصہ کے مالک پر اور باقی والے پر باقی جرمانہ واجب ہوگا اور اسی طرح اس باندی کی ولاء بھی اسی حساب سے دونوں کی ہوگی یہ ظہیر یہ میں ہے۔ اگر ایک باندی تین یا چار یا پانچ میں مشترک ہو اور اس کے بچہ کا ان سب نے ساتھ ہی دعویٰ کیا تو اس کا نسب ان سب سے ثابت ہوگا اور باندی ان سب کی ام ولد ہو جائے گی۔ یہ امام اعظمؒ کا قول ہے اگرچہ ان سب کے حصص مختلف ہوں مثلاً ایک کا چھٹا حصہ اور دوسرے کا چوتھائی اور تیسرے کا تہائی اور باقی چوتھے کا ہو بہر حال اس کے بچہ کا نسب ان سب سے برابر ثابت ہوگا یعنی ہر ایک کا پورا بیٹا ہوگا اور باندی میں سے ہر ایک کے حصہ کے قدر باندی اس کی ام ولد ہوگی اور متعدی حصہ شریک نہ ہوگی حتیٰ کہ اس کی خدمت و کمائی و حاصلات ان سب میں بقدر ان کے حصص کے ہر ایک کو ملے گی یہ بدائع میں ہے ایک باندی دو مردوں میں مشترک ہے اس کے دو بچہ ایک ہی پیٹ^(۱) سے ہوئے (یعنی جڑواں) پس دونوں میں سے ایک نے بڑے کا یعنی جو پہلے پیدا ہوا ہے دعویٰ کیا اور دوسرے نے چھوٹے کا دعویٰ کیا تو دونوں بڑے کے مدعی ہوں گے اور اگر دونوں دو بطن سے پیدا ہوئے (یعنی جڑواں نہ ہوئے) تو بڑا اس کے مدعی کا ہوگا اور باندی اسی کی ام ولد ہو جائے گی۔ اور اس کا مدعی باندی کی نصف قیمت اور نصف عتق شریک کو تاوان دے گا اور بچہ کی قیمت میں کچھ تاوان نہ دے گا۔ اس واسطے کہ اس کا علق آزادی کے ساتھ ہوا ہے اور دو چھوٹے بچہ کا نسب اس کے مدعی سے استحساناً ثابت ہوگا مگر وہ بچہ کی تمام قیمت کا شریک اول کے واسطے ضامن ہوگا یہ عتابیہ میں ہے۔ اور اگر ایک باندی دو مردوں میں شریک ہو پس ایک نے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں ہے اگر لڑا ہو تو وہ مجھ سے ہے اور اگر لڑکی ہو تو مجھ سے نہیں ہے اور دوسرے نے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں ہے اگر لڑکی ہو تو وہ میرا نطفہ ہے اور اگر لڑکا ہو تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس مسئلہ میں دو صورتیں ہیں اور آنکہ یہ دونوں کلام ان دونوں کے

۱ اولاد بلا ہو جائے گا نہ وہ دے نہ وہ ۱۲۔

(۱) جوڑا پیدا ہوئے آگے پیچھے ۱۲۔

ساتھ ہی صادر ہوئے اور اس صورت میں اس بطن سے جو پیدا ہوا وہ ان دونوں کا ہوگا خواہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اور اگر کسی سے ان دونوں سے پہلے کلام صادر ہوا تو جو پیدا ہوا اور وہ اسی کا ہوگا خواہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو بشرطیکہ ان دونوں کلاموں سے چھ مہینے سے کم میں پیدا ہوا اور اگر کلام اول سے چھ مہینے پر اور کلام ثانی سے چھ مہینے سے کم میں پیدا ہوا تو وہ دوسرے کا ہوگا خواہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اور اگر دونوں کلاموں سے چھ مہینے پر پیدا ہوا تو اس کا نسب ان دونوں میں سے کسی سے ثابت نہ ہوگا الا آنکہ دعویٰ از سر نو پایا جائے یہ محیط میں ہے۔

اگر دو شریکوں کی مملو کہ مشترک باندی دونوں کے مالک ہونے کے وقت سے چھ مہینے پر بچہ جنی پس ایک شریک نے باندی کا دعویٰ کیا کہ یہ میری دختر ہے اور دوسرے شریک نے اس بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور حال یہ ہے کہ ہر ایک نے جس کے نسب کا دعویٰ کیا ہے ایسا بچہ اس کے پیدا ہو سکتا ہے اور دونوں کلام ساتھ ہی خارج ہوئے تو بچہ کی دعوت لی ہوگی اس واسطے کہ وہ باندی کی دعوت کے لیے اسبق ہے از راہ تقدیر بدیں وجہ کہ بچہ کے نسب کی دعوت استیلاء دی ہے اور باندی کے نسب کا دعویٰ دعوت تحریر ہے اور دعوت استیلاء مستند ہے اور دعویٰ تحریر مقتصر بقدر ضرورت ہوتا ہے پس بچہ کے نسب کا دعویٰ مستند ہوگا پس اس کے مدعی پر باندی کی نصف قیمت اور نصف عقردوسرے کے واسطے واجب ہوگا اور یہ نہ ہوگا کہ چونکہ مدعی نسب کینر نے اس کی تحریر کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ میری دختر ہے لہذا بچہ کا مدعی تاوان سے بری ہو جائے اور اگر باندی دونوں کی مملو کہ ہونے کے وقت سے چھ مہینے سے کم میں بچہ جنی تو ہر ایک شریک کا دعویٰ صحیح ہوگا کیونکہ کسی کے دعویٰ کا کوئی مرجح نہیں ہے اس واسطے کہ دونوں کی دعوت اس صورت میں دعویٰ تحریر ہے پس کسی کو دوسرے پر سبقت نہ ہوگی پس بچہ کا نسب اس کے مدعی سے اور باندی کا نسب اس کے مدعی سے ثابت ہوگا پھر مدعی ولد اپنے شریک کو بابت ولد کے کچھ تاوان نہ دے گا اور اس پر اتفاق ہے اور باندی کے مدعی پر باندی کی بابت بھی امام اعظم کے نزدیک کچھ تاوان نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ اس دعویٰ میں ایسا ہوا کہ گویا اس نے شریک کی ام ولد کو آزاد کر دیا اور ام ولد کی رقیق امام اعظم کے نزدیک کچھ متقوم نہیں ہوئی ہے یعنی قیمت وار ہونے میں داخل نہیں ہے اور مدعی ولد پر کچھ عقرو واجب نہ ہوگا اور اگر باندی دونوں کی ملک میں آنے کے وقت سے چھ مہینے پر ایک لڑکی جنی پھر یہ لڑکی اپنے وقت پر ایک لڑکی جنی پھر دونوں میں سے ہر ایک نے ایک ایک لڑکی کا دعویٰ کیا تو ہر دو دعویٰ صحیح ہوں گے اور دختر اول کے مدعی پر باندی کی نصف قیمت اپنے شریک کے واسطے واجب ہوگی لیکن اگر یہ باندی قبل ایسے دعویٰ کے واقع ہونے کے قتل کی گئی تو ایسی صورت میں اول دختر کا مدعی اپنے شریک کے واسطے اصل باندی یعنی دختر اول کی ماں کی کچھ قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور نیز اس پر دختر اول کی کچھ قیمت جس کے نسب کا دعویٰ کرتا ہے واجب نہ ہوگی یہ امام اعظم کا قول ہے اور دوسری دختر کے مدعی پر اول کے واسطے تمام عقرو واجب ہوگا۔ اور اگر ہر دو کی مملو کہ ہونے سے چھ مہینے سے کم میں لڑکی جنی پھر یہ لڑکی اپنے وقت پر ایک لڑکی جنی اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو معتبر دوسری ہے دختر کے نسب کا دعویٰ ہوگا اور پہلی دختر کا دعویٰ نسب صحیح نہ ہوگا اس واسطے کہ دختر دوم کا دعویٰ نسب مدعی استیلاء ہے پس بسبب استقلال کے مقدم ہے اور دعویٰ دختر اول دعویٰ تحریر ہے اس واسطے کہ اس کا علوق ان دونوں کی ملک میں نہ تھا اور دوسری دختر کا مدعی اپنے شریک کے واسطے دختر اول کی نصف قیمت اور نصف عقرو کا ضامن ہوگا اور دختر اول کے مدعی پر اپنے شریک کے واسطے اس کی ماں کی بابت کچھ تاوان واجب نہ

۱۔ دعویٰ تحریر یہ ہے کہ باندی پر اس کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا حالانکہ اسے علوق اس کی ملک میں نہ تھا اور دعویٰ استیلاء آنکہ جس کے ولد ہونے کا مدعی اس کا علوق ممکن ہے کہ اس کی ملک میں ہوا ہو و الکلام المفصل نے باب نے نے النسب فی الجاہد الثالث ان شیخ قارح مناک ۱۲۔ ۳۔ دختر اول کی ماں اور دوسری دختر کی ماں ۱۲۔ ۳۔ قولہ دختر اول کے واسطے اور نہ کہا کہ اس کے مدعی کے واسطے اس واسطے کہ وہ دختر آزاد ہے ۱۲۔

ہوگا جیسا کہ پہلی صورت مذکورہ بالا میں واجب ہوا تھا یہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

ایک باندی دو مردوں میں مشترک ہے اس کے ایک ہی بطن سے دو بچہ پیدا ہوئے ایک زندہ اور دوسرا مردہ.....:

س۔ زید و عمرو کے درمیان ایک باندی مشترک ہے پس خالد سے اس کے بچہ پیدا ہوا اور خالد نے کہا کہ تم دونوں نے میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تھا پس ہر دو شریک میں سے ایک نے مثلاً زید نے اس کی تصدیق کی اور عمرو نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم نے اس کو تیرے ہاتھ فروخت کیا تھا تو نصف باندی ام ولد موقوفہ رہے گی اور وہ کسی کی خدمت نہ کرے گی اور باقی نصف اس کی رقیق ہوگی جو تزویج کا مقرر ہے یعنی زید کی مگر خالد کو اس باندی سے وطی حلال نہ ہوگی اس واسطے کہ زید و خالد نے باہم نصف باندی کی بابت نکاح میں اتفاق کیا ہے اور اس قدر مفید حلت نہیں ہے اور نصف بچہ حصہ مقرّبیع یعنی عمرو کا نصف حصہ دار آزاد ہوگا اور بانی نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور جو مقرّب نکاح ہے اس کو خالد سے تاوان لینے کا اختیار نہ ہوگا اور نہ وہ مقرّبیع سے تاوان لے سکتا ہے اور خالد پر اس کا عقر کامل واجب ہوگا جو زید و عمرو دونوں میں مشترک ہوگا پس مقرّبیع یعنی عمرو اس میں سے نصف عقر بطریق ثمن لے لے گا اور عقر نکاح یعنی زید باقی نصف کو بطریق مہر لے لے گا اور مقرّبیع سے کہا جائے گا کہ تو اس کو اسی جہت سے لے (۱) لے جس کا تو مدعی ہے اور اگر خالد مر گیا تو باندی مقرّب نکاح ایسی زید کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لیے سعایت کرے گی اور اگر زید و عمرو دونوں نے کہا کہ ہم نے تیرے ہاتھ اس کو فروخت کیا ہے تو خالد ان دونوں کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا ہاں اس کے عقر کا دونوں کے لیے ضامن ہے اور اگر باندی مجبولہ ہو کہ اس کا مولیٰ نہ معلوم ہوتا ہو پس خالد نے کہا کہ تم دونوں نے اس کو میرے نکاح میں دیا ہے اور ان دونوں نے کہا کہ ہم نے تیرے ہاتھ اس کو فروخت کیا ہے تو باندی اس کی ام ولد ہوگی اور بچہ آزاد ہوگا اور خالد پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور بچہ کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور آیا عقر کا ضامن ہوگا یا نہیں سو کتاب میں اس کو ذکر نہیں فرمایا اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ ضامن ہوگا اور بعض نے کہا کہ نہیں ضامن ہوگا اور خالد نے ہبہ کا دعویٰ کیا اور زید و عمرو نے بیع کا دعویٰ کیا اور باندی مجبولہ ہے یا زید و عمرو نے کہا کہ تو نے اس کو غصب کر لیا ہے پس خالد نے کہا کہ تم دونوں سچے ہو تو باندی اس کی ام ولد ہوگی اور اس پر باندی و بچہ دونوں کی قیمت واجب ہوگی اور اگر باندی نے ان سب کے قول کی تصدیق کی تو اس کے قول کی اس کے حق میں تصدیق کی جائے گی چنانچہ وہ رد کر کے زید و عمرو کی رقیق کر دی جائے گی اور اگر خالد نے خرید کا دعویٰ کیا اور جو باندی کا مولیٰ ہے اس نے نکاح کر دینے کا دعویٰ کیا تو نسب ثابت ہوگا مگر بچہ آزاد نہ ہوگا اور یہ حکم اس وقت ہے کہ یہ معلوم ہو کہ باندی اسی مقرر کی ہے اور اگر یہ معلوم (۲) نہ ہو تو بچہ آزاد بھی ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے۔ ایک باندی دو مردوں میں مشترک ہے اس کے ایک ہی بطن سے دو بچہ پیدا ہوئے ایک زندہ اور دوسرا مردہ پس دونوں میں سے ایک نے مردہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور زندہ کی نفی کی تو زندہ اور زندہ کی نفی کی تو زندہ اور دوسرا مردہ پس دونوں میں سے ایک نے مردہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور زندہ کی نفی کی تو زندہ اور زندہ کی نفی نہیں کر سکتا ہے اور اسی طرح اگر ہر ایک نے مردہ کے نسب کا دعویٰ کیا یا ہر ایک نے ہر دو بچہ کا دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب ان دونوں سے ثابت ہوگا یہ مسبوط میں ہے۔ اگر باندی زید و اس کے پسر و اس کے پدران سب کے درمیان مشترک ہو پھر اس کے بچہ پیدا ہوا اور ان سب نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو زید کا باپ اولیٰ ہے یعنی اسی سے نسب ثابت رکھا جائے گا یہ

۱۔ اگرچہ زید و عمرو مثلاً مدعی ہوں کہ یہ ہماری ہے ۱۲۔

(۱) بطور ثمن بالغ سے ۱۲۔ (۲) اگر باندی مجبولہ ہو ۱۲۔

ظہیر یہ میں ہے۔

اگر باندی زید اور اس کے پسر کے درمیان مشترک ہو اور اس کے بچہ کا ان دونوں نے دعویٰ کیا تو استحساناً زید اولیٰ ہے اور زید اس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور ہا نصف عقرب سوزید اس کے نصف عقرب کا اپنے پسر کے واسطے اور پسر اس کے نصف عقرب کا زید کے واسطے ضامن ہوگا پس باہم قصاص کریں گے یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر دو شریکوں میں سے ایک مسلمان ہو اور دوسرا ازمی ہو پس مشترک باندی کے بچہ کا دونوں نے ساتھ ہی دعویٰ کیا تو مسلمان اولیٰ ہے اور یہ اس وقت ہے کہ زمی دعویٰ نسب سے کچھ پہلے مسلمان نہ ہو گیا ہو اور اگر زمی مسلمان ہو گیا پھر باندی کے بچہ ہو پھر دونوں نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں سے اس کا نسب ثابت ہوگا اس واسطے کہ حالت میں دونوں یکساں ہیں اور اگر دعویٰ نسب درمیان مرتد و زمی کے ہو تو بچہ مرتد کا ہوگا اور ہر ایک دونوں میں سے دوسرے کے لیے نصف عقرب باندی کا ضامن ہوگا یہ غایۃ البیان میں ہے۔ اور اگر ایسا جھگڑا درمیان کتابی اور محوسی کے ہو تو کتابی اولیٰ ہے اور اگر غلام و مکاتب کے درمیان ہو تو مکاتب اولیٰ ہے اور اگر غلام مسلمان اور آزاد کافر کے درمیان ہو تو کافر آزاد اولیٰ ہے اور اگر دونوں میں سے کسی کا دعویٰ نسب مقدم ہو تو جس نے پہلے دعویٰ کیا ہے وہی اولیٰ ہوگا چاہے کوئی ہو یہ سراج و ہاج میں ہے۔

اگر زید سے کوئی باندی بچہ جنی پھر زید نے اور عمرو نے مل کر اس کو خرید کیا تو وہ زید کی ام ولد ہو جائیگی:

امام محمد سے روایت ہے کہ دو مردوں نے ایک کی زوجہ خریدی یعنی زید و عمرو دونوں نے زید کی زوجہ کو جو خالد کی باندی ہے خالد سے خرید^(۱) کیا پھر ایک مہینہ کے بعد اس کے بچہ پیدا ہو تو شوہر سے اس کا نسب ثابت ہوگا اور وہ بچہ کی کچھ قیمت کا ضامن نہ ہوگا۔ اور اگر دو بھائیوں نے ایک حاملہ باندی خریدی پس اس کے بچہ پیدا ہو پھر ایک نے اس کا دعویٰ نسب کیا تو اس پر بچہ کی نصف قیمت تاوان لازم ہوگی اور یہ بچہ بسبب قرابت کے اپنے چچا کی طرف سے آزاد نہ ہو جائے گا اس واسطے کہ دعویٰ نسب مقدم ہو چکا ہے پس حکم مضاف بجانب دعویٰ ہوگا نہ بجانب قرابت کذانی الظہیر یہ۔ اگر زید سے کوئی باندی بچہ جنی پھر زید نے اور عمرو نے مل کر اس کو خرید کیا تو وہ زید کی ام ولد ہو جائے گی اور زید اس کی نصف قیمت کا عمرو کے واسطے ضامن ہوگا خواہ خوشحال ہو یا تنگ دست ہو۔ اس طرح اگر زید و عمرو دونوں نے اس کو میراث میں پایا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر باندی کے ساتھ اس کا بچہ بھی میراث میں پایا جو زید کا پسر ہے اور دوسرا شریک عمرو اس بچہ کا ذی رحم محرم ہوتا ہے تو یہ بچہ ان دونوں سے آزاد ہو جائے گا اور اگر شریک عمرو اس کا ذی رحم محرم نہ ہو بلکہ اجنبی ہو تو حصہ زید اس ولد میں سے آزاد ہو جائے گا اور حصہ عمرو کے واسطے سعایت کرے گا اور اسی طرح اگر دونوں نے اس بچہ کو خرید لیا وہ ان کو ہبہ کیا گیا تو بھی امام اعظم کے نزدیک یہی حکم ہے خواہ شریک اجنبی کو خرید سے پہلے یہ بات معلوم ہو کہ میراث شریک اس کا باپ ہے یا نہ معلوم ہو زید عمرو کی مشترک باندی خالد سے بچہ جنی پس خالد نے زید سے اس کا حصہ باندی و بچہ خرید کیا حالانکہ زید مالدار ہے تو زید اپنے شریک عمرو کے حصہ باندی کا ضامن ہوگا اور عمرو کو بچہ کی بابت اپنے حصہ میں اختیار ہے چاہے زید سے تاوان لے اور چاہے اس سے سعایت کرادے اور چاہے آزاد کر دے بر بنائے قول امام اعظم ہے یہ مبسوط میں لکھا ہے۔

۱۔ یہ بچہ یعنی یہ تو دوسرے بھائی کا بھتیجا ہو پھر کیونکر آزاد نہ ہو بلکہ نصف قیمت لازم آئی تو جواب دیا کہ قرابت سے پہلے ایک بھائی نے اس کا دعویٰ کیا اور نصف قیمت اس پر لازم ہوئی تب وہ بوجہ دعویٰ کے اس کا بیٹا ہوا تب بھائی کا بھتیجا ہو پس اب آزاد ہوگا لیکن بے فائدہ ہے کیونکہ نصف قیمت دے چکا اور قرابت سابقہ ظاہر نہیں ہے تاکہ دعویٰ سے پہلے آزاد ہو فافہم ۱۲۔

(۱) پس نکاح ٹوٹ گیا ۱۲۔

ایک باندی دو مردوں میں مشترک ہے دونوں نے اپنی صحت میں کہا کہ یہ باندی ہم میں سے ایک کی ام ولد ہے پھر دونوں میں سے ایک مر گیا تو زندہ کو حکم دیا جائے گا کہ تو بیان کر اور مردہ کے وارثوں کو یہ حکم نہ دیا جائے گا پس اگر اس نے کہا کہ یہ میری ام ولد ہے تو وہ اسی کی ام ولد کر دی جائے گی اور اس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور کچھ عقرب کا ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ بعد ملک کے اس کے ساتھ وٹھی کا اس نے اقرار نہیں کیا ہے پس احتمال ہے کہ شاید قبل ملک کے بذریعہ نکاح کے اس سے اولاد ہوئی ہو اور اگر اس نے کہا کہ یہ میت کی ام ولد ہے تو آزاد ہو جائے گی خواہ وارثان میت اس کے قول کی تصدیق کریں یا نہ کریں اور اس پر زندہ کے واسطے سعایت لازم نہ ہوگی اور نہ وارثان میت کے واسطے سعایت کرے گی۔ اور اگر یہ کلام دونوں سے حالت مرض میں صادر ہوا اور وارثان میت نے کہا کہ ہمارے مورث نے تجھ کو مراد لیا تھا تو اس کی سماعت نہ ہوگی اور اگر میت کے وارثوں نے کہا کہ ہمارے مورث نے اپنے آپ کو مراد لیا تھا مگر ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں تو شریک زندہ کے واسطے اس باندی کی نصف قیمت ترک میت میں واجب ہوگی اور باندی اس کے تہائی مال سے آزاد ہو جائے گی یہ کافی میں ہے۔

اگر دو شریکوں کی ملک میں باندی مشترک بچہ جنی اور ہر ایک نے اقرار کیا کہ ہم میں سے ایک کا یہ بچہ ہے یعنی ایک کا نطفہ ہے پھر دونوں میں سے ایک مر گیا تو بچہ آزاد ہوگا اور بیان کرنا زندہ شریک پر ہے پس اگر اس نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے تو اس سے نسب ثابت ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور باندی کی نصف قیمت و نصف عقرب کا شریک کے واسطے ضامن ہوگا اور اس میں صحت و مرض یکساں ہے پس اگر اس نے صحت میں کہا کہ یہ میرے شریک کا ولد ہے تو اس بچہ کا نسب ان دونوں میں سے کسی سے ثابت نہ ہوگا اور بچہ مفت آزاد ہو جائے گا اور اسی طرح باندی بھی مفت آزاد ہو جائے گی اور اگر یہ قول ان دونوں کی طرف سے شریک میت کے مرض میں واقع ہوا ہو پس وارثوں کی ام ولد ہے تو باندی و بچہ دونوں آزاد ہو جائیں گے اور ضمان و سعایت کچھ نہ ہوگی اور اگر وارثوں نے کہا کہ ہمارے مورث نے اقرار کیا کہ یہ میرا ولد ہے مگر ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں تو باندی اور بچہ دونوں آزاد ہو جائے گے اور وارثوں پر واجب ہوگا کہ میت کے ترکہ سے باندی کی نصف قیمت و نصف عقرب شریک زندہ کو تاوان دیں اور باندی مذکورہ پر جو ام ولد میت ہو کر آزاد ہوگئی ہے کسی کے واسطے سعایت واجب نہ ہوگی اور بچہ کا نسب شریک میت سے استحساناً ثابت ہوگا یہ محیط سرحی میں لکھا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

۱۔ تہائی یعنی میت کا ترکہ دیکھا جائے گا اگر اس قدر ہو کہ باندی اس کی تہائی ہو سکتی ہے تو کل بغیر سعایت آزاد ہوئی اور اگر کل نہ نکلی تو بقدر تہائی کے منہا کر کے باقی وارثوں کو کمائی کر کے ادا کرے لیکن وہ آزاد ہوگی ۱۲۔

کتاب الایمان

اس میں بارہ ابواب ہیں

باب: ①

یمین کی تفسیر شرعی واس کے رکن و شرط و حکم کے بیان میں

قال المترجم اور بعض نسخ میں یہ بھی مذکور ہے کہ ظالموں کے قسم دلانے اور مستخلف^(۱) کی نیت کے سوائے حالف کے قسم کھانے کے بیان میں۔ قال المترجم جمع یمین قسم ایمان جمع یمین۔ حلف قسم۔ حالف قسم کھانے والا مستخلف قسم لینے والا۔ تحلیف قسم دلانا مخلوف جس کو قسم دلائی ہے تعلیق قسم یہ کہ اگر ایسا ہو تو آزاد ہے اور تجیر یہ کہ واللہ میں تجھے ماروں گا کہ وہ کسی امر پر معلق نہیں ہے اور جزاء جو قسم پر قرار دی ہے در صورتیکہ جھوٹی ہو جائے حث قسم میں جھوٹا ہو جانا مثلاً کہا کہ واللہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا پھر کھایا تو حائث ہو گیا۔ بر قسم کو پورا کرنا مثلاً مثال مذکور میں گوشت تا موت نہ کھایا تو بارہوا فاحفظ الجملة ولترجع الی ترجمۃ الکتاب شرع میں یمین ایسے عقد سے عبارت ہے کہ اس کے ہاتھ حالف کا عزم کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر قوی ہو جائے۔ یہ کفایہ میں ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں ایک قسم اللہ تعالیٰ یا اس کی صفات کے ساتھ دوم قسم بغیر اللہ تعالیٰ و بغیر صفات اللہ تعالیٰ اور وہ اس طور پر ہے کہ جزاء کو کسی شرط پر معلق کرے یہ کافی میں ہے۔

پھر واضح ہو کہ جو قسم بغیر اللہ تعالیٰ ہو اس میں دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ اپنے باپ و دادا وغیرہ یا انبیاء علیہم السلام یا ملائکہ علیہم السلام یا نماز اور روزہ یا دیگر شرائع اسلام یا کعبہ و حرم و زمزم وغیرہ ایسی چیزوں کے ساتھ ہو تو ان میں سے کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ دوم آنکہ شرط و جزاء کے طور پر ہو اور یہ قسم منقسم بدو نوع ہے ایک یمین بقرب دوم یمین بغیر قرب پس یمین بقرب اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھ پر روزہ یا نماز واجب ہے یا حج یا عمرہ یا ہدی یا عتق رقبہ یا صدقہ یا مثل اس کے واجب ہے اور یمین بغیر قرب اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ اگر ایسا کروں تو میری بیوی پر طلاق یا میرا غلام آزاد ہے یہ بدائع میں ہے۔

شرط صالح سے مراد:

قسم باللہ تعالیٰ کا رکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام پاک ذکر کرے یا جس صفت سے قسم کھائی ہے وہ صفت قسم میں ذکر کرے اور قسم کے بغیر اللہ تعالیٰ کا رکن یہ ہے کہ شرط صالح و جزائے صالح بیان کرے یہ کافی میں ہے اور شرط صالح سے یہ مراد ہے کہ بالفعل معدوم ہو مگر اس کے وجود کا احتمال و خطر ہو اور جزائے صالح سے یہ مراد ہے کہ شرط پائی جانے پر اس کا پایا جانا یقینی ہو یا بگمان غالب پائی جائے اور اس کی صورت یہ ہے کہ جزا مضاف ملک ہو یا بسبب ملک ہو اور یہ شرط ہے کہ جزا ایسی چیز ہو کہ اس کے ساتھ قسم کھائی

۱۔ جزا ایسی چیز مقرر کرے جس سے قربت الہی حاصل ہوتی ہے بنظر ثواب فعل من میث الاصل ۱۲۔

(۱) یعنی قسم لینے والے نے جس ظاہری امر پر قسم دلائی ہے قسم کھانے والا یمین اس کے سوائے کچھ اور نیت کر کے قسم کھا گیا ۱۲۔

جاتی ہو حتیٰ کہ اگر ایسی نہ ہوگی تو یہ قسم نہ ہوگی چنانچہ اگر کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو زید میرا وکیل ہے یا میرا غلام ماذون التجارت ہے تو وکالت یا اذن تجارت کو جزا قرار دے کر قسم کھانے سے قسم نہ ہوگی ایسا ہی امام خواہر زادہ نے ذکر فرمایا ہے یہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

قسم باللہ تعالیٰ کے شرائط بہت ہیں از انجملہ قسم کھانے والا عاقل و بالغ ہو پس مجنوں کی قسم نہیں صحیح ہے اور طفل کی قسم بھی نہیں صحیح ہے اگرچہ عاقل ہو۔ از انجملہ یہ کہ مسلمان ہو پس کافر کی قسم نہیں صحیح ہے چنانچہ اگر کافر نے قسم کھائی پھر وہ مسلمان ہو گیا اور حادث ہو تو ہمارے نزدیک اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

جس بات پر قسم کھائی ہے اس کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وقت قسم کے اس کا وجود متصور ہو سکتا ہو:

مرتد ہونے سے قسم باطل ہو جاتی ہے پھر اگر اس کے بعد وہ مسلمان ہو تو قسم کا حکم اس کو لازم نہ ہوگا یہ اختیار شرح مختار میں ہے اور آزاد ہونا شرط نہیں ہے پس مملوک کی قسم ہے مگر حادث ہونے سے اس پر فی الحال کفارہ بمال لازم نہ ہوگا اس واسطے اس کی کچھ ملک نہیں ہے ہاں اس پر روز دن سے کفارہ واجب ہوگا مگر مولیٰ کو اختیار ہے کہ اس کو روزہ رکھنے سے منع کرے اور اسی طرح ہر ایسے روزہ سے منع کر سکتا ہے جس کے سبب وجوب کا مباشر غلام ہو جیسے نذر کے روزے اور اگر مولیٰ نے اس غلام کو قبل اس کے کہ وہ روزہ سے کفارہ ادا کرے آزاد کر دیا تو اس پر مال سے کفارہ دینا واجب ہوگا اور نیز ہمارے نزدیک بطوع خود ہونا قسم کے واسطے شرط نہیں ہے پس جس پر قسم کھانے کے واسطے اکراہ و زبردستی کی گئی ہو اس کی قسم صحیح ہے اور اسی طرح جد و عمد بھی ہمارے نزدیک شرط نہیں ہے پس جس نے ہزل سے قسم کھائی یا خطا سے اس کی قسم صحیح ہو جائے گی اور جس بات پر قسم کھائی ہے اس کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وقت قسم کے اس کا وجود متصور ہو سکتا ہو اور یہ انعقاد قسم کی شرط ہے پس جو حقیقت مستحیل الوجود ہو اس پر قسم منعقد نہ ہوگی اور اگر متصور الوجود ہونے کے بعد ایسی حالت ہو گئی کہ وہ مستحیل الوجود ہو گیا تو قسم باقی نہ رہے گی اور یہ امام اعظم و امام محمد کا قول ہے اور جو امر کہ حقیقت مستحیل الوجود نہیں ہے مگر عادت کی راہ سے مستحیل الوجود ہے تو ہمارے اصحاب ثلاثہ نے فرمایا کہ متصور الوجود شرط نہیں ہے چنانچہ جو امر عادت کی راہ سے مستحیل الوجود ہے مگر حقیقت میں مستحیل الوجود نہیں ہے اس پر قسم منعقد ہو جائے گی اور نفس رکن میں یہ شرط ہے کہ استثناء سے خالی ہو مثلاً ایسے الفاظ نہ ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ اور الا ان شاء اللہ تعالیٰ اور ما شاء اللہ تعالیٰ اور الا انکے مجھے اس کے سوائے اور امر ظاہر ہو کہ قریب بمصلحت ہو اور الا انکے میری رائے میں اس کے سوائے دوسرا امر آئے یا اس کے سوائے دوسرا امر مجھے پسند یا یوں کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ مدد دے یا اللہ تعالیٰ مجھ پر آسان کرے یا کہا کہ بمعونۃ الہی یا تیسیر الہی یا مثیل اس کے چنانچہ اگر ان میں سے کوئی لفظ اس نے قسم سے ملا کر کہا تو قسم منعقد نہ ہوگی اور اگر جدا کر کے کہا تو قسم منعقد ہوگی اور قسم بغیر اللہ کی صورت میں یعنی جملہ شرطیہ کی صورت میں قسم کھانے والے میں جو شرط جواز طلاق و عتاق کی ہے وہی سب ان دونوں کے ساتھ قسم منعقد ہونے کی شرط ہے اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے اور مخلوف علیہ یعنی جس پر قسم کھائی ہے اس میں یہ شرط ہے کہ ایسا امر ہو کہ زمانہ آئندہ میں ہو پس جو امر موجود ہے اس کی اس پر قسم نہ ہوگی بلکہ تبخیر ہوگی چنانچہ اگر اپنی بیوی سے کہا کہ تو طالق ہے اگر آسمان

۱۔ قال المترجم جہاں فقہ میں عاقل شرط ہے وہاں یہ مراد ہے کہ وہ اس عقد کے حکم کو جانتا ہو اور معنی عام یعنی فقط دانائی و سمجھ نہیں مراد ہے ۱۲۔ ۲۔ بطوع خود بغیر زبردستی کے جد جو قصد ہو ہزل جو ٹھنڈول ہو مستحیل الوجود یعنی جس کا پایا جانا حقیقت محال ہو۔ متصور الوجود جس کا تصور ممکن ہو اگرچہ عادت کی راہ سے نہ پایا

ہمارے اوپر ہو تو طلاق میں الحال واقع ہو جائے گی اور جس کی طلاق باعناق کی قسم کھائی ہے اس میں یہ شرط ہے کہ ملک قائم ہونا اضافت بجانب ملک یا بسبب ملک ہو اور نفس رکن میں وہی شرط ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قسم کھانے میں مذکور ہوئی ہے اور اگر یہ لفظ بھی زیادہ کیا اگر اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے یا بمعونت آلہی پس اگر اس لفظ سے استثناء کی نیت ہو تو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ استثناء کنندہ ہوگا مگر قضاء اس کے یعنی تعلیق نہ ہوگی بلکہ تجیر ہو جائے گی یہ بدائع میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قسم ہوتی ہے وہ تین نوع کی ہے غموس و لغو و منعقدہ پس بمین غموس ایسی قسم ہے کہ کسی چیز کی اثبات یا نفی بزمانہ حال یا ماضی یا ماضی پر عمد ادروغ کے ساتھ ہوئے اور ایسی قسم کھانے والا آدمی سخت گنہگار ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ تو بہ و استغفار کرے اور اس پر کفارہ نہیں ہوتا ہے اور قسم لغویہ ہے کہ کسی چیز پر زمانہ ماضی یا حال میں قسم کھائے در حالیکہ اس کا گمان ہو کہ بات یوں ہی ہے جیسے کہتا ہے حالانکہ امر اس کے برخلاف ہو مثلاً کہے کہ واللہ میں نے ایسا کیا ہے حالانکہ اس نے در واقع نہیں کیا ہے اس کی یاد میں یوں ہی ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے یا کہا کہ واللہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے حالانکہ اس نے ایسا کیا ہے مگر اس کا گمان یوں ہی ہے میں نے نہیں کیا ہے یا دور سے ایک شخص کو دیکھ کر گمان کیا کہ وہ زید ہی ہے پس کہا کہ واللہ وہ زید ہے حالانکہ وہ عمر و تھا یا کسی اور کو دیکھ کر کہا واللہ وہ کو ہے در حالیکہ اس کے گمان میں وہ کو ہے لیکن در واقع وہ چیل تھی تو ایسی قسم میں امید ہے کہ قسم کھانے والا ماخوذ نہ ہو اور قسم زمانہ ماضی میں اگر بدوں قصد ہو تو ہمارے نزدیک دنیا و آخرت میں اس کا کچھ حکم نہیں ہے یعنی لغو ہے اور قسم منعقدہ یہ ہے کہ زمانہ مستقبل میں کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے قسم کھائے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر حادث ہو تو اس پر کفارہ لازم ہوگا یہ کافی میں ہے۔ پھر قسم منعقدہ باعتبار وجوب حفظ کے چار طرح کی ہوتی ہے یعنی واجب ہے حفاظت کرے اور ٹوٹنے نہ پائے یا توڑ دینا مستحب یا واجب ہو پس ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اس میں پورا کرنا واجب ہے اور اس کی یہ صورت ہے جب قسم منعقدہ ایسے فعل کے کرنے پر ہو جو طاعت الہی ہے کہ اس کے ساتھ مامور ہے یا ایسے فعل کے نہ کرنے پر جو معصیت ہے کہ جس کے نہ کرنے پر مامور ہے تو حفاظت قسم واجب ہے کہ یہ امر اس پر قبل قسم کے فرض تھا اور قسم سے زیادہ تاکید ہو گئی۔ دوم آنکہ اس کی حفاظت جائز نہیں ہے اور اس کی یہ صورت ہے کہ ترک طاعت یا فعل معصیت پر قسم کھائی یعنی طاعت نہ کرے گا اور معصیت کرے گا تو اس کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے اور تیسری قسم یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنے و نہ کرنے دونوں میں مختار ہے مگر قسم کا توڑ دینا حفاظت کرنے سے اچھا ہے تو اس میں توڑ دینا مستحب ہے اور چہارم آنکہ اس میں پورا کرنا یا توڑ دینا مساوی ہے پس دونوں باتوں میں مختار ہوگا اور ایسی قسم کی حفاظت اولیٰ ہے یہ مبسوط شمس الائمہ سرحسی میں ہے۔

وہی قسم بطلاق و عناق اور اس کے مانند چیزوں کے ساتھ سوان میں سے جو قسم ایسے امر پر ہو کہ مستقبل میں اس کا وجود ہوئے یا نہ ہوئے تو وہ مثل قسم منعقدہ کے ہے اور جو امر متعلق زمانہ ماضی پر ہے پس اس میں لغویا غموس تو متحقق نہ ہوگا لیکن جب اس کے برخلاف ہونا معلوم ہو یا کچھ معلوم نہ ہو تو جزاء مثلاً طلاق واقع ہوگی اور سی طرح اگر نذر کے ساتھ قسم کھائی تو بھی یہی حکم ہے اس واسطے کہ یہ تحقیق و تجیر ہے یہ ایضاً میں ہے چنانچہ اگر کہا کہ اگر یہ زید نہ ہو تو مجھ پر حج واجب ہے اور وہ زید نہ نکلا حالانکہ اس کو وقت کلام کے زید ہونے میں شک نہ تھا تو اس پر حج واجب ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور جس امر پر قسم کھائی تھی اس کو عمداً کیا یا نسیان سے کیا یا ہا کرہ کیا تو یہ سب یکساں ہیں اور وہ حادث ہو جائے گا اور اسی طرح اگر اس پر بیہوشی طاری ہوئی یا مجنون ہو پھر اس نے کیا تو بھی حادث ہو جائے گا۔ یہ سراج و ہاج میں ہے اور جو شخص سوتا ہے خواب میں اس کی قسم صحیح نہیں ہے اور یہ اختیار شرح مختار ہے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا مکروہ تو نہیں ہے لیکن زیادہ قسم کھانے سے کم کھانا بہتر ہے اور قسم بغیر اللہ تعالیٰ بعض کے نزدیک مکروہ ہے اور عامہ

علماء کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اس واسطے کہ اس سے وثیقہ بعود حاصل نہیں ہوتا ہے خصوصاً ہمارے زمانہ میں یہ کافی میں ہے۔

باب : ۲

ان صورتوں کے بیان میں جو قسم ہوتی ہیں اور جو نہیں ہوتی

قسم ہوتی ہے بنام اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے دوسرے نامائے پاک میں سے کسی نام کے ساتھ جیسے رحمن یا رحیم اور اللہ تعالیٰ کے سب نام پاک اس امر میں برابر ہیں خواہ لوگوں میں اس نام سے قسم کا رواج ہو یا نہ ہو اور یہی ہمارے اصحاب کا ظاہر مذہب ہے اور یہی صحیح ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے کسی صفت سے جس کے ساتھ قسم کھانے کا لوگوں میں رواج ہو جیسے غرة اللہ و جلال اللہ و کبریاء اللہ اور یہ مشائخ ماوراء النہر کا مختار ہے کذانی الکافی اور اصح یہ ہے کہ ذکر صفات میں اعتبار رواج کا ہے یہ شرح نقایہ ہر جندی میں ہے۔ اگر کہا کہ قسم میرے رب کی یا کہا کہ قسم رب العرش کی یا قسم رب العالمین کی تو حالف ہو جائے گا یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ قسم حق کی میں ایسا نہ کروں گا تو بلا خلاف یہ قسم ہے اور اگر کہا کہ بالحق اللہ میں ایسا نہ کروں گا تو قسم ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا: وقوة الله وارادته ومشية ومجته وكلامه تو حالف ہوگا:

اگر کہا کہ حق اللہ لا فعل کذا تو امام اعظم و امام محمد کے نزدیک قسم نہ ہوگی قال المترجم اگر ہماری زبان میں اس کا ترجمہ یوں کیا کہ قسم حق اللہ تعالیٰ کی میں ایسا نہ کروں گا تو قسم ہوگی واللہ تعالیٰ اعلم اور امام یوسف سے دو روایتوں میں سے ایک روایت موافق قول طرفین کے ہے اور یہی صحیح ہے اور اگر کہا کہ وحرمة اللہ تو شمس الائمہ حلوائی نے کہا کہ یہ بمنزلہ وحق اللہ کے ہے یہ خلاصہ میں ہے قال المترجم وحق اللہ میں داد قسم جارہ ہے لہذا اگر اس کا ترجمہ بصریح لفظ قسم ہو تو قسم ہو جائے گی فظن ان الفاظ الباب اکثر ہا تعلق بالعربیہ اور اگر کہا کہ وعظمتہ اللہ تعالیٰ یا کہا وکملوتہ و قدلتہ تو یہ قسم ہوگی خواہ نیت قسم ہو یا نہ ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا و جبروت اللہ تو یہ قسم ہے یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر کہا کہ وقوة الله وارادته ومشية ومجته وكلامه تو حالف ہوگا۔ یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ و امانتہ اللہ تو قسم ہوگی اور طحاوی نے ذکر کیا کہ یہ قسم نہ ہوگی اور یہ امام ابو یوسف سے بھی ایک روایت ہے اور اگر کہا کہ وعہد اللہ یا ذات اللہ تو قسم ہوگی اور اگر کہا کہ گواہی دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کروں گا یا کہا کہ گواہی دیتا ہوں ساتھ اللہ کے کہ ایسا نہ کروں گا یا کہا کہ قسم کھاتا ہوں یا کہا کہ قسم اللہ کی کھاتا ہوں یا کہا کہ حلف کرتا ہوں یا حلف اللہ تعالیٰ کی کرتا ہوں یا عزم کرتا ہوں یا ساتھ اللہ کے عزم کرتا ہوں یا کہا کہ مجھ پر عہد ہے یا مجھ پر عہد اللہ ہے کہ ایسا نہ کروں گا یا کہا کہ مجھ پر ذمہ اللہ ہے کہ ایسا نہ کروں گا تو یہ قسم ہوگی اور اگر کہا کہ مجھ پر بیعت ہے یا مجھ پر بیعت اللہ ہے یا کہا کہ تعمر اللہ یا کہا کہ مجھ پر نذر اللہ ہے کہ ایسا نہ کروں گا تو یہ قسم ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ بسم اللہ میں ایسا نہ کروں گا تو قول مختار میں یہ قسم نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ اس نے قسم کی نیت کی ہو یہ فتاویٰ

غیاثیہ میں ہے۔

اگر کہا کہ بسم اللہ تو قسم ہوگی یہ خلاصہ میں ہے اور اگر کہا کہ دائم اللہ میں ایسا نہ کروں گا تو قسم ہوگی اور اس طرح وایمن اللہ

۱۔ قولہ قسم بغير اللہ تعالیٰ اور مراد اس سے خاص قسم جائز ہے جس کو اوپر بیان کیا ہے یعنی قسم بشرط و جزائے طلاق و عتاق وغیرہ ورنہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نام کی قسم کو مطلقاً ناجائز فرمایا ہے فافہم ۱۲۔ ۲۔ الگ الگ ہر ایک سے بلفظ داد قسم کھائی چنانچہ کہا کہ وکلام اللہ و ارادة اللہ وغیرہ ذلک ۱۲۔ ۳۔ بلام قسم ۱۲۔

و یم اللہ تعالیٰ کسر ہمزہ دمن اللہ ومن بمیم قاعدہ بہر شہ حرکات و اعرابات ثلث یہی حکم رکھتے ہیں۔ یہ ظہیر یہ میں ہے۔
 اگر کہا کہ ومیثاق اللہ قسم ہوگی یہ کافی میں ہے اور اس طرح اگر کہا کہ مجھ پر یمن اللہ ہے یا کہا کہ مجھ پر میثاق اللہ ہے تو
 بھی قسم ہوگی یہ ایضاح میں ہے اور اگر کہا کہ الطالب والغالب لا افعل کذا تو یہ قسم ہے مگر یہ رواج اہل بغداد کا ہے یہ محیط میں ہے اور
 اگر عربی زبان میں کہا کہ باللہ لا افعل کذا یعنی لفظ اللہ کے آخر ہائے ہوز کو ساکن کیا یا نصب دیا یا رفع دیا تو قسم ہوگی حالانکہ
 اعراب بکسرہ بوجہ جر کے چاہیے تھا اور اگر کہا کہ اللہ افعلن کذا اور ہائے ہوز کو ساکن کیا یا نصب دیا تو یمن نہ ہوگی کیونکہ حرف قسم
 کوئی نہیں ہے لیکن اگر اعراب جری دئے تو قسم ہوگی اس واسطے کہ کسرہ مقتضی ہے کہ سابق میں کوئی حرف جار ہے اور وہ حرف قسم ہے
 اور اگر کہا کہ بلہ لا افعل کذا تو مشائخ نے فرمایا کہ قسم نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے نام خدا ذکر نہیں کیا ہے لیکن اگر اس کو کسرہ کا
 اعراب دیا اور قسم کا قصد کیا تو قسم ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ اللہ اللہ تو قسم ہے یہ عتابہ میں ہے۔
 اگر براءت کی قسم کھائی یعنی کہا کہ میں کعبہ سے بری ہوں اگر میں ایسا کروں تو قسم ہوگی:

اگر کہا کہ اللہ تو قسم ہوگی اور اجناس میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ واللہ ان دخلت الدار یعنی واللہ اگر میں وار میں داخل ہوا تو قسم
 ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ میں مجوس سے بدتر ہوں اگر ایسا کروں تو یہ قسم ہے اور اسی طرح اگر کہا کہ میں شریک یہود یا شریک
 کفار ہوں اگر ایسا کروں تو بھی قسم ہوگی یہ خلاصہ میں ہے۔ امام محمد سے مردی ہے کہ اگر کہا کہ میں نے ایلاء کیا یا میں نے عزم کیا کہ
 ایسا نہ کروں گا تو یہ قسم ہے یہ ایضاح میں ہے تجرید میں ہے کہ امام محمد نے فرمایا کہ اگر شرطیہ ایسی بات کہی جس کے ساتھ قسم نہیں کھائی
 جاتی ہے مثلاً کہا کہ اگر میں کھڑا ہوا یا میں بیٹھا تو تو طالق ہے تو قسم ہوگی یہ خلاصہ میں ہے۔ جس نے سوائے خدائے تعالیٰ کے
 دوسرے کی قسم کھائی وہ حالف نہ ہوگا چنانچہ اگر نبی علیہ السلام یا کعبہ کی قسم کھائی تو قسم کھانے والا نہ ہوگا یہ ہدایہ میں ہے لیکن اگر اس
 نے براءت کی قسم کھائی یعنی کہا کہ میں کعبہ سے بری ہوں اگر میں ایسا کروں تو قسم ہوگی یہ اختیار شرح مختار میں ہے۔ امام محمد نے اصل
 میں فرمایا کہ اگر کہا کہ والقرآن بوا قسم تو قسم نہ ہوگی اس کو امام محمد نے مطلقاً ذکر کیا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کی قسم کھانا
 متعارف نہیں ہے پس ایسا ہو گیا کہ و علم اللہ اور بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے زمانہ کا عرف ہے اور ہمارے زمانہ میں یہ قسم ہو
 گی اور ہم اسی کو لیتے ہیں اور ایسا ہی حکم کرتے ہیں اور یہی اعتقاد کرتے ہیں اور اسی پر ہمارا اعتماد ہے اور محمد بن مقاتل رازی نے
 فرمایا کہ اگر قرآن کی قسم کھائی تو قسم ہوگی اور اسی کی ہمارے جمہور مشائخ نے لیا ہے مضمرات میں ہے اور اگر یوں کہا کہ میں بری از نبی
 یا قرآن ہوں تو یہ قسم ہوگی یہ کافی میں ہے شیخ عبدالکفریم بن محمد سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے کہا کہ میں شفاعت سے بری ہوں اگر
 ایسا کروں تو فرمایا کہ یہ قسم ہوگی اور ان کے سوائے دوسروں نے کہا کہ یہ قسم نہ ہوگی اور یہی صحیح ہے یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر کہا کہ میں
 نے ایسا کیا تو میں بری ہوں قرآن یا قبلہ یا نماز یا روزہ رمضان سے تو یہ سب قسم ہوں گی اور یہی مختار ہے۔

ایسے ہی توریت وانجیل وزبور سے بریت میں بھی یہی حکم ہے اور ایسا ہے ہر امر شرعی جس کی سماعت کفر ہو یہی حکم ہے یہ
 خلاصہ میں ہے اور اگر کہا کہ میں صحف سے بری ہوں تو یہ قسم نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں بری ہوں اس چیز سے جو صحف میں ہے تو قسم ہو
 گی یہ کافی میں ہے اور اگر کتاب فقہ یا دختر حساب جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے اٹھائی اور کہا کہ میں بری اس سے جو اس میں
 ہے اگر میں ایسا کروں پس یہی فعل کیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بری ہوں گی قسم کھانے اور حائث
 ہونے کی صورت میں حکم ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ میں بری ہوں مغلط سے یا جو مغلط میں ہے تو قسم نہیں ہے الا

اُس صورت میں کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے اور اُس سے برأت کی نیت کی قسم ہو جائے گی یہ خلاصہ میں ہے اور اگر کہا کہ میں بری ہوں، مؤمنین سے تو مشائخ نے فرمایا کہ قسم ہو جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ میں ان میں دنوں یعنی رمضان سے بری ہوں اگر ایسا کروں پس اگر فرضیت اس رمضان سے برأت کی نیت کی ہے تو قسم ہوگی جیسے کہ میں بری ہوں ایمان سے اگر ایسا کروں اور اگر اُس کے اجر و ثواب سے بریت کی قسم نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ امر غیب ہے اور اگر اُس کی کچھ نیت نہ ہو تو بوجہ شک کے حکماً قسم نہ ہوگی مگر احتیاطاً کفارہ دے دے (۱) اور اگر کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں بری ہوں اس حج سے جو میں نے کیا ہے تو یہ قسم نہ ہوگی بخلاف اس کے اگر کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں بری ہوں اُس قرآن سے جس کو میں نے پڑھا ہے تو یہ قسم ہوگی اور اگر کہا کہ میں بری ہوں حج سے اور نماز سے تو قسم ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ میں بری ہوں اپنے روزہ و نماز سے یا جو میں نے نماز پڑھی ہے اور جو روزے رکھے ہیں تو قسم نہ ہوگی یہ عتابیہ میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میں یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا اسلام سے بیزار یا کافر یا غیر اللہ کا پرستش کرنے والا یا بندگان صلیب سے یا مثل اس کے جس کا اعتقاد کفر ہے ہوں تو استحساناً یہ قسم ہوگی یہ بدائع میں ہے۔

اگر اس قسم کھانے والے کے نزدیک یہ بات ہو کہ اگر میں ایسا کروں گا تو کافر ہو جاؤں گا پھر اُس نے شرط مذکور کو کیا تو کافر ہو جائے گا:

چنانچہ اگر اس نے یہ فعل کیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اور آیا وہ کافر ہو جائے گا یا نہیں تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور شمس الائمہ سرخسی نے فرمایا کہ فتویٰ کے واسطے مختار یہ ہے کہ اگر اس قسم کھانے والے کے نزدیک یہ بات ہو کہ اگر میں ایسا کروں گا تو کافر ہو جاؤں گا پھر اُس نے شرط مذکور کو کیا تو کافر ہو جائے گا اس وجہ سے کہ ہو کفر پر راضی ہو اور اُس کا کفارہ یہ ہوگا کہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اگر اس کے نزدیک یہ بات ہو کہ وہ ایسا کرنے سے کافر نہ ہو جائے گا تو کافر نہ ہوگا اور یہ اُس وقت ہے کہ جب اُس نے ان الفاظ سے ایسے امر پر قسم کھائی جو مانہ آئندہ میں ہوگا اور اگر ایسے امر پر جو زمانہ ماضی میں ہوا ہے قسم کھائی مثلاً کہا کہ وہ یہودی یا نصرانی یا مجوسی ہے اگر اُس نے کل گزرے ہوئے میں ایسا کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں ایسا کر چکا ہوں تو بلا شک ہمارے نزدیک اُس پر کفارہ لازم نہ ہوگا اس واسطے کہ یہ یمن غموس ہے اور آیا کافر ہو جائے گا یا نہیں سو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور شمس الائمہ سرخسی نے فرمایا کہ فتویٰ کے واسطے مختار یہ ہے کہ اگر اس کے نزدیک یہ بات ہے کہ یہ قسم ہے اس کے حانث ہونے سے کافر نہ ہوگا تو کافر نہ ہوگا اور اگر اُس کے نزدیک یہ بات ہو کہ اس طرح قسم کھانے سے کافر ہو جائے گا تو بسبب کفر پر راضی ہونے کے کافر ہو جائے گا اور اگر کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے ایسا کیا حالانکہ خود جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے یا کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا خود جانتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے عائمہ مشائخ نے نزدیک کافر ہو جائے گا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر کہا کہ بضعہ اللہ لا افعل کذا (۲) تو یہ قسم نہ ہوگی اور اگر کہا کہ و علم اللہ لا افعل کذا تو ہمارے نزدیک قسم نہ ہوگی اور اگر کہا ورحمة اللہ لا افعل کذا تو امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک قسم نہ ہوگی اور اگر کہا کہ وعذاب اللہ وغضب اللہ یا کہا ورضاء اللہ ثواب اللہ یا

۱۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ اعتراض کا جواب ہے۔ تقریر یہ ہے کہ سابق میں بیان ہوا کہ اس پر کفارہ لازم آئے گا اور کفارہ مسلمان پر لازم آتا ہے تو پھر یہ اختلاف کیوں ہے کہ وہ کافر ہو یا نہ ہو جواب یہ ہے کہ یہاں کفارہ سے مراد جو اس کے گناہ کے واسطے مقرر ہے خاص وہ جو بعد قسم کے دینا پڑتا ہے پس یہ کفارہ کفر ہے۔ ۲۔ پس کفارہ قسم ادا کرے گا۔

(۱) اگر حانث ہو جائے ۱۲۔ (۲) بہ بائے قسم ۱۲۔

کہا و عبادۃ اللہ تو قسم نہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

جاہلانہ طور پر خلط ملط کھائی گئی قسم کا بیان:

اور اگر کہا کہ اشہد اللہ ان لا الہ الا اللہ تو یہ قسم نہ ہوگی یہ خلاصہ میں ہے اور اگر کہا کہ دوجہ اللہ تو بر قول امام اعظم و امام محمد کے قسم نہ ہوگی شیخ ابوشجاع نے امام اعظم سے ایک حکایت نقل کی اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ ان جاہلوں کی قسم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے واسطے جو ارج ذکر کرتے ہیں اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ امام نے اس کو قسم نہیں قرار دیا یہ مبسوط میں ہے اور اگر کسی قائل نے کہا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اگر ایسا کرے یا کہا کہ اس پر عذاب اللہ ہے یا اس پر اہلۃ اللہ ہے اگر ایسا کرے تو یہ قسم نہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ ایسا کروں تو مجھ پر غضب اللہ یا سخط اللہ^(۱) ہے تو حالف نہ ہوگا یہ ہدایہ میں ہے اور اگر کہا کہ و سلطان اللہ لا فعل کذا^(۲) تو اس صورت مسئلہ میں صحیح جواب یہ ہے کہ اگر اُس نے سلطان سے قدرت مراد لی ہے تو یہ قسم ہے جیسے قولہ و قدرت اللہ کذانی المبسوط اور اگر کہا کہ و دین اللہ تو قسم نہ ہوگی اسی طرح قولہ و طاعة اللہ و شریعة اللہ بھی قسم نہیں ہے و نیز اگر عرش اللہ و حدود اُس کے قسم کھائی تو حالف نہ ہوگا اور اسی طرح اگر کہا کہ و بیت اللہ^(۳) یا حجر اسود یا مشعر حرام یا صفایا بمرودہ یا بمنبر یا بروضہ یا بصلوۃ یا بصیام یا بکعبہ تو ان سب صورتوں میں حالف نہ ہوگا اور اسی طرح اگر کہا و حمد اللہ و عبادۃ اللہ تو قسم نہیں ہے اور اسی طرح اگر آسمانوں یا زمین یا قمر یا ستاروں یا سورج کی قسم کھائی تو حالف نہ ہوگا یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر بحت الرسول یا بحت القرآن یا بحت الایمان یا بحت المساجد یا بحت یا بحت الصلوۃ^(۴) قسم کھائی تو قسم نہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا بحت محمد علیہ السلام تو قسم نہ ہوگی لیکن حق آنحضرت ﷺ کا بہت ہی بڑا ہے یہ خلاصہ میں ہے اور اگر کہا کہ اگر ایسا کر جس اللہ مجھے عذاب دوزخ میں گرفتار کرے یا جنت سے محروم کرے تو یہ قسم نہ ہوگی یہ مبسوط میں ہے اور اگر کہا کہ لا الہ الا اللہ البتہ میں ایسے چیزوں کا^(۵) تو یہ قسم نہیں ہے الا آنکہ اُس نے قسم کی نیت کی ہو اور اسی طرح سبحان اللہ و اللہ اکبر ضرور میں ایسا کروں گا تو بھی یہی حکم ہے یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اگر ایسا^(۶) کیا یا جو اس نے مجھ پر فرض کیا ہے اُس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اگر ایسا کیا تو یہ قسم نہیں ہے یہ ایضاح میں ہے اور اگر کہا کہ ایسا کروں تو میں زانی یا چور یا شراب خوار یا سود خوار ہوں تو یہ قسم نہیں ہے یہ کافی میں ہے اور ابن سلام سے روایت ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں نے اپنے اوپر زنا باندھی جیسی زنا نصابی باندھتے ہیں تو فرمایا کہ قسم ہوگی یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں اپنی بیوی کی طلاق کی قسم^(۷) کھاؤں پھر اپنی بیوی سے کہا کہ تو طالق ہے^(۸) اگر تو چاہے تو اُس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور یہ جو اُس نے اپنی بیوی سے کہا ہے قسم نہیں ہے اور اسی طرح اگر کہا کہ جب تجھے کوئی حیض آجائے تو بھی اُس کا غلام آزاد نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو کوئی پروردگار آسمان میں نہیں ہے تو یہ قسم ہے اور کافر نہ ہوگا یہ عتابیہ میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ کذاب ہے تو یہ قسم ہوگی اور اگر کہا کہ اللہ تعالیٰ کذب^(۹) ہے اگر میں ایسا کروں تو بھی قسم ہوگی اور اگر اُس نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھ پر نصرانیت کی گواہی دو تو قسم ہوگی اور اسی طرح اگر کہا کہ جو میں نے روزہ نماز کیا وہ حق نہ تھا اگر میں ایسا کروں تو یہ قسم ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

۱۔ احکام قسم ثابت ہوں گے اگرچہ بغیر اللہ قسم کھانے سے کنبہ گار ہوگا ۱۲۔ ۲۔ میں کہتا ہوں کہ اہل الظواہر کے قول پر بھی کافر ہونے کا حکم ہونا چاہئے ۱۲۔
 (۱) غضب ۱۲۔ (۲) غلبہ ۱۲۔ (۳) قسم بیت اللہ کی ۱۲۔ (۴) نماز ۱۲۔ (۵) ضرور کروں گا ۱۲۔ (۶) یعنی کروں ۱۲۔ (۷) بلکہ تفویض طلاق ہے ۱۲۔ (۸) یعنی تو طالق ہے ۱۲۔ (۹) نعوذ باللہ من ذالک ۱۲۔

ماکولات میں استیعاب طعام کا اعتبار نہیں ہے بلکہ فقط قدر معقاد کا اعتبار ہے:

اور اگر کہا کہ اے میرے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں تجھے گواہ کرتا ہوں اور تیرے ملائکہ کو گواہ کرتا ہوں کہ ایسا نہ کروں گا پھر اُس نے یہی فعل کیا تو اُس پر کفارہ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ سے استغفار و توبہ کرے یہ خلاصہ میں ہے ایک دوسرے سے کہا کہ واللہ میں تیری ضیافت میں آؤں گا پھر ایک تیسرے نے اس حالف سے کہا کہ اور میری ضیافت میں بھی نہ آئے گا اُس نے کہا کہ ہاں تو اُس کے حق میں بھی ہاں کہنے سے حالف ہو جائے گا چنانچہ اگر اول یا دوم کی ضیافت میں گیا تو حائث ہو جائے گا اور بقالی میں ہے کہ اگر طعام یا اُس کے مثل اپنے اوپر حرام کر لیا تو یہ قسم اُسی قدر پر ہوگی جس کو عادت کے موافق کھانے کی چیزوں میں کھاتا ہے اور پہننے کی چیزوں میں پہنتا ہے الا آنکھ اُس کی نیت میں اس مضمون کے سوائے کچھ اور ہو اور فرمایا کہ اسی طرح اور اشیاء کے تصرفات میں بھی اسی طرح اعتبار ہے اور فرمایا کہ طعام کا (۱) استیعاب کھانے کے ساتھ معتبر نہیں ہے اور اگر کہا کہ مجھے حلال نہیں ہے کہ ایسا کروں (۲) پس اگر اپنے اوپر اُس کے حرام کر لینے کی نیت کی تو یہ قسم ہوگی اور اگر کہا کہ یہ کپڑا مجھ پر حرام ہے اگر میں اس کو پہنوں پھر اس کو پہنا اور اتارا نہیں تو قسم میں حائث ہوا۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے یا کہا کہ میں نے تجھے اپنے اوپر حرام کیا تو یہ قسم ہے چنانچہ اگر عورت مذکورہ جماع میں اُس کی مطاوعت کرے گی تو اُس پر کفارہ لازم ہوگا اور نیز اگر مرد نے باکراہ اُس سے جماع کر لیا تو عورت پر کفارہ لازم ہوگا اور اگر کسی مرد نے کہا کہ وہ مردار کھاتا ہے اگر ایسا کرے تو یہ قسم نہ ہوگی اور اسی طرح اگر کہا کہ وہ مردار کو حلال جانتا ہے یا شراب یا سوہ کو حلال جانتا ہے اگر اُس نے ایسا کیا تو بھی قسم نہ ہوگی حالانکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قسم ہو جائے گی کیونکہ استحلال حرام کفر ہے لیکن در واقع میں نہیں ہے اور حاصل یہ ہے کہ جو شے حرام بخرمت ابدی ہے کہ اُس کی حرمت کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی ہے جیسے کفر وغیرہ تو اُن کا استحلال معلق بشرط قسم ہو جائے گا اور جو شے اس طرح حرام ہے کہ کسی حال میں اُس کی حرمت بھی ساقط ہو جاتی ہے جیسے مردار و شراب وغیرہ تو ان کا استحلال معلق بشرط قسم نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اور اگر کہا کہ ہر حلال مجھ پر حرام ہے تو یہ قسم کھانے اور پینے کی چیزوں پر قرار دی جائے گی الا آنکھ اُس نے اس کے سوائے نیت کی ہو اور قیاس یہ چاہتا ہے کہ وہ فارغ ہوتے ہی حائث ہو جائے اور یہ قسم عورت کو شامل نہ ہوگی الا آنکھ اُس نے نیت کی ہو پس اگر اُس نے عورت کی بھی نیت کی ہو تو اُس سے ایلاء ہو جائے گا اور قسم سے کھانا پینا خارج نہ ہوگا اور یہ سب ظاہر الروایۃ کے موافق جواب ہے اور فتویٰ اسی امر پر ہے کہ ایسی قسم سے طلاق بلا نیت واقع ہو جائے گی کیونکہ غالب استعمال اُس کا ارادہ طلاق میں ہو گیا ہے اور اسی طرح اگر اُس نے فارسی میں کہا کہ حلال بروئے حرام یا حلال خدا یا حلال اللہ یا حلال المسلمین بروئے حرام تو بھی یہی حکم ہے اور اگر اُس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو قضاء اُس کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر فارسی میں کہا کہ ہر چہ بدست راست گیرم برمن حرام یعنی جو داپنے ہاتھ سے لوں وہ مجھ پر حرام ہے تو بعض نے کہا کہ بلا نیت طلاق قرار دیا جائے گا اور یہی مشائخ سمرقند نے اختیار کیا ہے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ مجھے اب تک لوگوں میں اُس کا رواج ظاہر نہیں ہوا ہے پس صحیح یہ ہے کہ جواب میں تفصیل کی جائے کہ اگر اُس

۱۔ پس اگر اس نے تمام طعام و لباس مراد لیا ہے تو قضاء دو یا نسا اس کی تصدیق ہوگی اور اگر خاص مراد لیا ہے تو فقط دو یا نسا تصدیق ہوگی نہ قضاء فافہم ۱۲۔

۲۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ حکم قضاء ہوگی ۱۲۔ ۳۔ ہمارے عرف میں طلاق نہیں ہے ۱۲۔

(۱) ماکولات میں استیعاب طعام کا اعتبار نہیں ہے بلکہ فقط قدر معقاد کا اعتبار ہے ۱۲۔ (۲) حالانکہ ایسا کرنا اس پر مباح یا اس کے مانوق ہے ۱۲۔

نے طلاق کی نیت کی ہو طلاق ہوگی اور بدون دلالت کے احتیاط یہ ہے کہ آدمی اس میں توقف کرے اور خلاف (۱) متقدمین کے نہ کرے اور اگر کہا کہ ہرچہ بدست چپ گیرم برمن حرام یعنی جو باتیں ہاتھ میں لوں مجھ پر حرام ہے تو یہ طلاق نہ ہوگی فلا نیت کے ساتھ اور اگر کہا ہرچہ بدست گیرم برمن حرام تو بعض نے فرمایا کہ بدون نیت کے طلاق نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ بلا نیت طلاق ہوگی نیت شرط نہیں ہے اور اگر کہا کہ حلال خدا مجھ پر حرام ہے حالانکہ اُس کی دو بیویاں ہیں تو اظہر قول کے موافق ان میں سے ایک طلاق واقع ہوگی اور تعین کرنے کا اختیار اُس کو ہوگا جس کو چاہے معین کر یہ کافی میں ہے۔

اور اگر کہا کہ واللہ کلام نہ کروں گا فلاں سے آج اور کل اور پرسوں تو یہ ایک ہی قسم ہے:

شیخ ابو بکرؓ سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے کہا کہ یہ شراب مجھ پر حرام ہے پھر اُس کو پی لیا فرمایا کہ اس میں امام اعظمؒ و امام ابو یوسفؒ کے درمیان اختلاف ہے چنانچہ ایک امام نے فرمایا ہے کہ حائث ہوگا اور دوسرے نے فرمایا کہ حائث نہ ہوگا اور فتویٰ کے واسطے مختار یہ ہے کہ اگر اس نے اس کی حرمت کا ارادہ کیا ہے تو حائث ہوگا اور اُس پر کفارہ لازم آئے گا اور اُس کی کچھ نیت نہ ہو یا اُس نے شراب کے حرام ہونے کی خبر بیان کرنے کی نیت کی ہو تو کفارہ لازم نہ ہوگا اور اسی کو صدر شہیدؒ نے اختیار فرمایا ہے یہ ظہیر یہ میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قسم کھانی محتمل تعلیق ہے جیسے کہا کہ جب کل کا روز آئے تو واللہ میں اس وار میں داخل نہ ہوں گا اور محتمل تاقیت بھی ہے جیسے کہ قسم بغیر اللہ ہے جیسے کہا کہ واللہ میں اس وار میں داخل نہ ہوں گا ایک سال تک پس سال بھر گزرنے پر قسم کی بھی انتہا ہو جائے گی۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ واللہ میں تجھ سے کلام نہ کروں گا ایک روز اور ایک روز تو مثل اس کے ہے کہ کہا کہ واللہ تجھ سے دو روز کلام نہ کروں گا یعنی دو روز گزرنے پر قسم ملتی ہو جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور ان دونوں میں بیچ کی رات (۲) بھی داخل ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ واللہ تجھ سے کلام نہ کروں گا ایک روز اور دو روز تو مثل اُس کے کہا کہ واللہ تجھ سے تین روز تک کلام نہ کروں گا اور اگر کہا کہ واللہ میں فلاں سے کلام نہ کروں گا آج اور نہ کل اور نہ پرسوں تو اس کو رات میں اس سے کلام کرنا جائز ہے اس واسطے کہ یہ تین قسمیں ہیں اور اگر کہا کہ واللہ کلام نہ کروں گا فلاں سے آج اور کل اور پرسوں تو یہ ایک ہی قسم ہے گویا اُس نے کہا کہ اُس سے تین روز تک کلام نہ کروں گا پس بیچ کی راتیں قسم میں داخل ہوں گی یہ مبسوط میں ہے۔

اور اگر کسی شخص نے کہا کہ واللہ والرحمن میں ایسا نہ کروں گا تو یہ دو قسمیں ہیں چنانچہ اگر ایسا فعل کرنے سے وہ حائث ہو تو اس پر دو کفارے لازم ہوں گے یہ ظاہر الروایۃ کا حکم ہے اور اس جنس کے مسائل میں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے والے نے اگر دو نام ذکر کیے اور دونوں پر بنیاد قسم رکھی پس اگر دوسرا نام صفت اسم اول ہو اور دونوں کے درمیان حرف علت ذکر نہ کیا ہو تو با اتفاق جملہ روایات پر ایک ہی قسم ہوگی جیسے اللہ الرحمن میں ایسا نہ کروں گا اور اگر دوسرا اسم پہلے اسم کی لغت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو مگر اُس نے بیچ میں حرف عطف بیان کر دیا ہے تو ظاہر الروایۃ کے موافق دو قسمیں ہو جائیں گی جیسے کہا کہ واللہ والرحمن ایسا نہ کروں گا کذانی محیط اور اگر مشائخ اسی ظاہر الروایۃ (۳) پر ہیں یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر دوسرا اسم پہلے نام کی لغت ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو پس اگر دونوں کے درمیان حرف عطف بیان کیا جیسے واللہ واللہ میں ایسا نہ کروں گا تو ظاہر الروایۃ کے موافق دو قسمیں ہوں گی اور یہی صحیح ہے اور اگر دونوں کے بیچ میں حرف عطف بیان نہ کیا تو بالاتفاق جملہ روایت یہ ایک ہی قسم ہوگی ایسا ہی شیخ الا سلام نے ذکر کیا ہے یہ محیط میں ہے اور اگر اُس نے اُس سے دو قسمیں کی نیت کی ہو تو دو قسم ہوں گی پاس اُس کا قول اللہ بخدمت حرف قسم ابتدائی ہوگی اور ایسی قسم صحیح ہے

(۱) جس کے نزدیک طلاق ہے ۱۲۔ (۲) یعنی اگر رات میں کیا تو حائث ہو جائے گا ۱۲۔ (۳) یعنی یہی مختار ہوان کے نزدیک ۱۲۔

یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ واللہ والرحمن ایسا نہ کروں گا پھر کیا اس پر بالاتفاق سب کے بز دیک دو کفارے لازم آئیں گے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کسی نے ایک امر پر قسم کھائی کہ اس کو کبھی نہ کروں گا پھر اس نے اسی امر پر اسی مجلس میں قسم کھائی کہ اس کو کبھی نہ کروں گا پھر کیا تو اس پر دو کفارے دو قسموں کے واجب ہوں گے اور یہ حکم اس وقت ہے کہ اس نے دوسری قسم کی نیت کی ہو یا تغلیظ کی نیت کی ہو یا کچھ نیت نہ کی ہو اور اگر دوسرے کلام سے وہی پہلی قسم کی نیت کی ہو تو اس پر ایک ہی کفارہ واجب ہوگا اور امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ اس نے حج یا عمرہ یا نماز یا روزہ یا صدقہ کی قسم کھائی ہو اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہو تو اس کی نیت کچھ صحیح نہ ہوگی اور اس پر دو کفارہ لازم ہوں گے اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ یہ احسن اس کا ہے جو ہم نے امام سے سنا ہے اور اگر اس نے ایک قسم صحیح اور دوسری بنا نام اللہ تعالیٰ کھائی تو حادث ہونے پر اس پر ایک حج و ایک کفارہ لازم ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

اگر کہا کہ میں یہودی ہوں اگر ایسا کروں اور میں نصرانی ہوں اگر ایسا کروں تو یہ دو قسمیں ہیں:

توازل میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ واللہ میں تجھ سے ایک روز کلام نہ کروں گا واللہ میں تجھ سے ایک مہینہ کلام نہ کروں گا واللہ میں تجھ سے ایک سال کلام نہ کروں گا پھر بعد ساعت کے اس سے کلام کیا تو اس پر تین قسموں کی جزا لازم ہوگی اور اگر ایک روز کے بعد کلام کیا تو اس پر دو قسموں کا کفارہ لازم ہوگا اور اگر ایک مہینہ کے بعد کلام کیا تو اس پر ایک ہی قسم ہوگا اور اگر ایک سال کے بعد کلام کیا تو اس پر کچھ نہ ہوگی یہ خلاصہ میں ہے اور اگر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بیزار ہوں اگر میں نے کل ایسا کیا ہے حالانکہ اس نے ایسا کیا تھا اور جانتا تھا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور مختار برائے فتویٰ یہ ہے کہ اگر اس کے زعم میں ہو کہ یہ کفر ہے تو کافر ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے کل ایسا کیا ہو تو میں قرآن سے بری ہوں حالانکہ ایسا کر چکا اور جانتا ہے تو جواب مختار اس میں بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بیزاری کی صورت میں مذکور ہوا ہے یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ ایسا کروں تو اللہ و اس کے رسول سے بری ہوں پھر حادث ہوا تو یہ ایک ہی قسم ہے کہ اس پر ایک ہی کفارہ لازم ہوگا اور اگر کہا کہ اگر ایسا کروں تو اللہ تعالیٰ سے بری ہوں اور رسول اللہ سے بری ہوں تو یہ دو قسمیں ہیں کہ حادث ہونے پر اس پر دو کفارہ لازم آئیں گے اور کہا اگر ایسا کروں تو اللہ تعالیٰ سے بری ہوں اور رسول اللہ سے بری ہوں اور اللہ و رسول مجھ سے بری ہوں پھر حادث ہوا تو اس پر چار قسم کے کفارے لازم آئیں گے اور امام محمد سے روایت ہے کہ اگر کہا کہ میں یہودی ہوں اگر ایسا کروں اور میں نصرانی ہوں اگر ایسا کروں تو یہ دو قسمیں ہیں^(۱) اور اگر کہا کہ میں یہودی ہوں نصرانی ہوں اگر ایسا کروں تو یہ ایک ہی قسم ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ ایسا کروں تو میں چاروں کتابوں سے بیزار ہوں تو یہ ایک ہی قسم ہے اور اسی طرح اگر کہا کہ اگر ایسا کروں تو میں قرآن و انجیل اور توریت و زبور سے بری ہوں تو حادث ہونے پر ایک ہی کفارہ لازم آئے گا اس لیے کہ یہ ایک ہی قسم ہے اور اگر کہا کہ ایسا کروں تو میں قرآن سے بیزار ہوں اور میں انجیل سے بیزار ہوں اور میں توریت سے بیزار ہوں اور میں زبور سے بیزار ہوں تو یہ چار قسمیں ہیں کہ اگر حادث ہوگا تو اس پر چار کفارے لازم آئیں گے یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ میں بری ہوں اس چیز سے جو صحیفوں میں اتری تو یہ ایک ہی قسم ہے اور اسی طرح اگر کہا کہ میں بری ہوں ہو آیت سے جو مصحف میں ہے تو بھی ایک ہی قسم ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

شمس الاسلام سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے کہا کہ واللہ اگر این کار کنم یعنی واللہ اگر یہ کام کروں تو ایسا تو شیخ نے فرمایا کہ

۱ ظاہراً کچھ اور بھی اس مسئلہ میں سنا ہوگا واللہ اعلم ۱۲۔ ۲ قرآن مجید و انجیل و زبور و توریت ۱۲۔

(۱) دونوں قسمیں علیحدہ ہوں گی ۱۲۔

میرے استاد نے یہ اختیار کیا تھا کہ یہ قسم نہ ہوگی پھر رجوع کیا اور فرمایا کہ قسم ہوگی یہ خلاصہ میں ہے ایک نے کہا کہ سوگندم خورم کہ اس کارکنم یعنی قسم کھاؤں یا کھاتا ہوں کہ یہ کام نہ کروں گا تو بعض نے فرمایا کہ قسم ہوگی اور بعض نے کہا کہ نہ ہوگی اور اگر کہا کہ سوگندم خورم کہ اس کارکنم یعنی قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام نہ کروں گا تو قسم ہوگی اس واسطے کہ ایسا کلام تحقیق کے واسطے ذکر کیا جاتا ہے نہ وعدہ کے طور پر جیسے کہا جاتا ہے گواہی میدہم یعنی گواہی دیتا ہوں اور اگر کہا سوگند خورم بطلاق کہ اس کارکنم تو قسم نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ وعدہ و تخویف ہے اور اگر کہا کہ سوگند کوریٰ تو قسم ہوگی بمنزلہ سوگند منخورم کے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ مرا سوگند بطلاق مست کہ شراب نخورم یعنی مجھے قسم بطلاق ہے کہ شراب نہ پیوں گا پھر شراب پی تو اس کی بیوی طالق ہو جائے گی اور اگر کہا کہ میں نے قسم نہیں کھائی تھی بلکہ یہ جو میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھ پر قسم بطلاق ہے اس واسطے کہہ دیا تھا کہ لوک مجھے تعرض نہ کریں تو قضاء اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی یہ کافی میں ہے۔

اگر کہا: مصحف خدا بدست من سوخته اگر این کارکنم؟

اور اگر اس نے کہا کہ سوگند خوردہ ام یعنی میں نے قسم کھائی ہے اگر سچا ہے تو قسم (۱) ہوگی اور اگر جھوٹا ہے تو اس پر کچھ نہیں ہے یہ محیط میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ بر من سوگند است کہ اس کارکنم پس اگر اسی قدر کہا تو یہ خبر دیتا ہے پس اس کی قسم کھانے کا اقرار قرار دیا جائے گا اور اگر اس سے کچھ زیادہ کہا کہ یوں کہا کہ مجھ پر قسم بطلاق ہے اس پر طلاق لازم آئے گی اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے یہ کلام دروغ کہہ دیا تھا کہ ہم جلیس تعرض نہ کریں یا مثل اس کے کوئی عرض بیان کی تو قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر کہا کہ باللہ العظیم کہ بزرگ تر اللہ العظیم سے نہیں ہے کہ میں یہ کار نہ کروں گا تو قسم ہوگی جیسے یا اللہ العظیم الاعظم کہنے میں ہوتا ہے اور ایسی زیادات واسطے تاکید کے ہوتی ہیں پس فاصل (۲) قرار نہ دی جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور فتاویٰ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ سوگندم خورم بطلاق تو تعلقہ نہیں ہے اس واسطے کہ لوگوں میں قسم بطلاق کا اس طرح رواج نہیں ہے اور تجرید میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ مرا سوگند خانہ است یعنی مجھے گھر کی قسم ہے تو اس کی بیوی طالق ہو جائے گی اور یہ شرط نہیں ہے کہ خانہ سے اس نے بیوی کی نیت کی ہو اور یہی اصح ہے قال المترجم ہمارے عرف میں قسم نہ ہوگی اور یہی اصح ہے اور فتاویٰ میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ باللہ کہ بزرگ تر اس سے کوئی نام نہیں ہے بزرگ تر اس سے قسم نہیں ہے یا جو بزرگ تر اس نام ہے کہ میں ایسا کروں گا یا نہ کروں گا تو یہ قسم ہے اور قولہ بزرگ تری فاصل قرار نہ دیا جائے گا اور مجموع النوازل میں لکھا ہے کہ شیخ الاسلام سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے اس صورت میں دعویٰ کیا کہ میں نے کرنے یا نہ کرنے کی قسم نہیں کھائی بلکہ میری مراد یہ تھی کہ باللہ یہ سب قسموں سے بڑی قسم ہے یا میرے نزدیک اس سے بڑھ کر قسم نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اس واسطے کہ اس نے فعل کا کرنا یا نہ کرنا اس سے ملا دیا ہے اور یہ جو اس نے دعویٰ کیا کہ کلام مذکور اول پر مقصود ہے یہ خلاف ظاہر ہے کذافی الخلاصہ اور اگر کہا کہ مصحف خدا بدست من سوخته اگر این کارکنم یعنی مصحف خدا میرے ہاتھ میں سوختہ اگر یہ کام کروں تو قسم نہ ہوگی اور اگر کہا کہ ہو امید بخدا دارم نا امیدم اگر این کارکنم تو یہ قسم ہوگی قال المترجم ضرور ہے کہ یوں ہو کہ ہر امیدے (۳) کہ بخدا دارم الی آخرہ ورنہ ہمارے عرف میں قسم نہ ہوگی واللہ اعلم اور اگر کہا کہ مسلمانی نہ کردہ ام خداے را اگر این کارکنم یعنی میں نے خدا کے واسطے اپنے کام میں مسلمانی نہیں کی اگر یہ کام کروں پھر کیا تو فقیہ ابوللیث نے فرمایا کہ اگر اس نے اس

۱۔ یہ عرف اس ملک و زمانہ کا ہے ورنہ ہمارے نزدیک مہمل ہے بیشتر از اول ۱۲۔

۲۔ اگر طلاق کی قسم ہے مثلاً پھر ثابت ہو تو اس کے اقرار پر اس کی بیوی طالق ہوگی اور اصل حال خدا جانے ۱۲۔

(۱) کفارہ در صورت جنت ۱۲۔ (۲) تاکہ کئی قسمیں ہو جائیں یا قسم ہی نہ ہو ۱۲۔ (۳) خدا سے رکھتا ہوں نا امید ہوں اگر یہ کام کروں ۱۲۔

سے یہ مراد لی ہے کہ اُس نے عبادات کی ہیں وہ حق نہیں تھیں تو یہ قسم ہوگی ورنہ نہیں اور اگر کہا کہ ہرچہ مسلمانی کرداہ ام بہ کافران (۱) اداوم اگر ایں کارکنم پھر کیا تو کافر نہ ہوگا اور اُس پر کفارہ لازم نہ ہوگا اور اگر کہا کہ واللہ کہ بفلاں (۲) سخن نہ گویم یہ یک روز نہ دو روز تو یہ ایک ہی قسم ہے کہ دو روز گزرنے پر منتہی ہو جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ حرام است با تو سخن گفتن یعنی تجھ سے بات کرنی حرام ہے تو قسم ہوگی یہ ظہیر یہ میں ہے قال المتر جم ہمارے عرف میں جب ہے کہ اُس نے انشاء کی نیت کی ہو اور اگر نہیں تو نہیں فافہم واللہ اعلم اور قاضی علی بن حسین سفدی سے دریافت کیا گیا کہ پدر قسم کہ چین نہ کنم اور کچھ نیت نہیں کی ہے تو فرمایا کہ قسم ہوگی یہ خلاصہ میں ہے اور کسی نے کہا کہ پذیر قسم خداے را کہ فلاں کار نہ کنم تو یہ قسم ہوگی جیسے کہا کہ میں نے نذر کر لی ہے کہ ایسا نہ کروں گا اور اگر کہا کہ خداے را و پیغمبر را پذیر قسم کہ فلاں کار نہ کنم تو یہ قسم نہ ہوگی اس واسطے کہ قولہ پیغمبر را پذیر قسم یہ قسم نہیں ہے تو جب ذکر اللہ تعالیٰ اور شرط کے درمیان ایسی چیز متخلل ہوگئی جو قسم نہیں ہے تو فاصل ہوگئی پس قسم نہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے شیخ نجم الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر فلاں کام کروں تو آتش پرست سے بدتر ہوں تو فرمایا کہ یہ قسم ہے کہ حانث ہونے پر اس کا کفارہ واجب ہوگا اور اگر کہا کہ تین سو ساٹھ (۳۶۰) آیات قرآن سے بیزار ہے اگر یہ کام کرے تو یہ ایک ہی قسم ہے اور اگر یوں کہا کہ اگر من ایں کارکنم مراغ خوانیت و تہود خوانیت و سنگسار کنیت پھر کیا تو اُس کے ذمہ کچھ لازم نہیں ہے اور اگر کہا کہ ہرچہ مغان معنی کردہ اندو جہودان جہودی کردہ اندو گردن من کہ ایں کار نہ کردہ ام یعنی جو کچھ آتش پرستوں نے آتش پرستی کی ہے اور یہودیوں نے یہودگی کی ہے وہ میری گردن پر کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے حالانکہ اُس نے یہ کام کیا ہے تو اُس پر کچھ لازم نہیں ہے اور اگر کہا کہ میں یہ کام کروں تو کافر مجھ پر شرف رکھتا ہے تو قسم نہ ہوگی یہ ظہیر یہ میں ہے۔

عورت نے کہا کہ میں تجھ سے طالق ہوں اگر تو شطرنج کھیلا کرے پس شوہر نہ کہا کہ اگر میں شطرنج کھیلا

کروں پس عورت نے کہا کہ پھر یہ کیا؟ پس شوہر نے کہا وہی جو تو کہتی ہے.....؟

اگر کہا کہ ہزار آتش پرست و بت پرست سے بدتر ہوں اگر ایسا کروں تو یہ قسم (۳) ہے یہ محیط میں ہے اور ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ تو شطرنج کھیلا چھوڑ دے اُس نے کہا کہ اچھا پس عورت نے کہا کہ میں تجھ سے طالق ہوں اگر تو شطرنج کھیلا کرے پس شوہر نہ کہا کہ اگر میں شطرنج کھیلا کروں پس عورت نے کہا کہ پھر یہ کیا پس شوہر نے کہا وہی جو تو کہتی ہے پھر اس کے بعد اس نے شطرنج کھیلی تو طلاق واقع نہ ہوگی یہ خلاصہ میں ہے۔ شیخ نجم الدین عمر نسعی سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے کہا کہ ہرچہ بدست راست گرفتم بر من حرام کہ فلاں کار نہ کنم یعنی جو میں نے داہنے ہاتھ سے لیا مجھ پر حرام ہے کہ فلاں کار نہ کروں پھر یہ کام کیا تو فرمایا کہ حانث ہوگا اس واسطے کہ اگر عرف طلاق ہے تو اس قول میں ہے کہ ہرچہ بدست راست گیرم اور اس میں نہیں ہے کہ ہرچہ بدست راست گرفتم یہ ظہیر یہ میں ہے قال المتر جم او پر بیان کر دیا گیا کہ ہمارے یہاں بالکل یہ عرف ہے وقد منا الاصل الی ہذا فافہم اور اگر کہا کہ پذیر قسم یا خدا کہ از خریدہ تو کہ بیاری نخورم یعنی میں نے خدا سے نذر کر لی ہے کہ تیری خریدی ہوئی چیز سے کہ تولائے نہ کھاؤں گا تو بعض نے فرمایا ہے کہ اگر نیت کرے گا تو قسم ہوگی اور اصح یہ ہے کہ بدون نیت کے قسم ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

۱۔ قال المتر جم اور اگر یوں کہا کہ بفلاں سخن نہ گویم یک روز و دو روز تو دو قسم ہوں گی ۱۲۔ ۲۔ میں نے اپنے اوپر لیا ہے کہ ایسا نہ کروں گا پس یہ لفظ بمعنی نذر کرنے کے مستعمل ہے ۱۲۔ ۳۔ بجائے خوانید کے خوانیت کہا پس اگر خوانید ہوتا تو یہ ترجمہ ہے کہ اگر یہ کام کروں تو مجھے مجوسی کہا الی آخرہ قال المتر جم ہمارے عرف میں اگر اس نے خوانید بھی کہا ہو یا کہا کہ مجھے مجوسی کہا اگر یہ کام کروں تو بھی ظاہر قسم نہ ہوگی واللہ اعلم ۱۲۔

(۱) میں نے کافروں کو دی ۱۲۔ (۲) واللہ کہ فلاں سے بات نہ کروں گا نہ ایک روز نہ دو روز ۱۲۔ (۳) چاہے ہزار کہے یہ ایک ۱۲۔

☆ فصل

ظالموں کے قسم دلانے میں اور حالف کی غیر نیت مستحلف پر قسم کھانے کے بیان میں

فتاویٰ اہل سمرقند میں مذکور ہے کہ سلطان نے ایک شخص کو پکڑا پس اُس سے قسم دلائی کہ بایزد یعنی قسم ایزد^(۱) کی پس اُس شخص نے مثل اس کے کہا یعنی اُس نے بھی کہا لیا کہ قسم بایزد پھر سلطان نے کہا کہ روز آدینہ بیانی یعنی بروز جمعہ تو آئے پس اُس شخص نے مثل اس کے کہا لیا^(۲) پھر وہ جمعہ کے روز نہ آیا تو اس پر کچھ لازم نہ آئے گا کیونکہ جب اُس نے کہا کہ بایزد اور سکوت کیا اور یہ نہ کہا کہ بایزد کہ اگر ایسا نہ کروں تو یہ ہو تو قسم منعقد نہ ہوئی اور ابراہیم نخعی سے منقول ہے کہ اُنہوں نے فرمایا کہ شخص مظلوم کی قسم اُس کی نیت پر ہوتی ہے اور اگر ظالم ہو تو قسم دلانے والے کی نیت پر ہوتی ہے اور اسی کو ہمارے اصحاب نے لیا ہے مثال اول^(۳) آ نکہ ایک شخص^(۴) ایک چیز معین کی بیع پر جو اُس کے ہاتھ میں ہے مجبور کیا گیا پس اُس نے قسم کھائی کہ میں نے یہ چیز فلاں کو دے دی اور مراد یہ لی کہ اس سے مباحثت^(۵) کی ہے تاکہ مجبور کرنے والے کے خیال میں آئے کہ جو اُس کے ہاتھ میں ہے وہ دوسرے کی ملک میں ہے تاکہ پھر اُس کو اس کے بیع کرنے پر مجبور نہ کرے تو قسم اس کی نیت پر ہوگی اور جو اُس نے قسم کھائی ہے یہ یمن غموس نہ ہوگی نہ حقیقت اور نہ معنا اور مثال دوم^(۶) آ نکہ زید کے مقبوضہ مال معین پر عمرو نے دعویٰ کیا کہ یہ چیز میں نے تجھ سے سودرہم کی خریدی ہے اور زید نے اُس کے فروخت سے انکار کیا اور عمرو نے اُس سے قسم لی کہ تو قسم کھا کہ واللہ مجھ پر یہ چیز عمرو کو سپرد کرنا واجب نہیں ہے پس زید اسی طرح قسم کھا گیا اور سپرد کرنے سے یہ نیت کی کہ بطور ہبہ یا صدقہ سپرد کرنا واجب نہیں ہے اور یہ نیت نہ کی کہ بطور بیع سپرد کرنا واجب نہیں ہے تو اگر چہ وہ اپنی نیت کی قسم^۱ میں سچا رہا اور حقیقت میں یہ یمن غموس نہ ہوئی اس لیے کہ اُس نے اپنی لفظ سے وہ بات مراد لی جو اُس کی لفظ کے تحتلات میں سے ہے لیکن معنی یہ یمن غموس ہے اس واسطے کہ اُس نے اس قسم سے مرد مسلمان کا حق کاٹ دیا پس اُس کی نیت معتبر نہ ہوگی اور شیخ امام زاہد معروف بخواہر زادہ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں ہے اگر اُس نے طلاق یا عتاق کی قسم کی اور قسم کھانے والا ظالم یا مظلوم ہے پس اُس نے خلاف ظاہر نیت کی مثلاً قید سے طلاق یعنی ربائی کی یا فلاں کام سے عتاق یعنی چھکارے یا آزادی کی نیت کی یا دروغ خبر دینے کی طلاق یا عتاق کے بارہ میں نیت کی تو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ سچا ہوگا حتیٰ کہ فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ طلاق و عتاق واقع نہ ہوگا لیکن در صورت یہ کہ وہ مظلوم ہوگا تو اُس پر یمن غموس کا گناہ بھی نہ ہوگا اور در صورت یہ کہ ظالم ہوگا تو اس پر ایسی قسم سے وہ گناہ ہوگا جو یمن غموس میں ہوتا ہے اگرچہ حقیقت میں جو اُس نے نیت کی ہے اس میں سچا ہے امام قدوری نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ یہ جو ابراہیم نخعی سے منقول ہے کہ اگر حالف ظالم ہو تو قسم مستحلف کی نیت پر ہوتی ہے یہ امر واقع شدہ قاضی کے حق میں صحیح ہے اس واسطے کہ واجب یہ یمن کا فریاقم ہے و ہر گاہ وہ ظالم ہے تو وہ اپنی قسم میں گناہ گار ہوا اگرچہ اُس نے اپنے لفظ کے تحتلات میں سے ایک معنی مراد لیے ہیں بدین وجہ کہ اُس نے اس قسم سے غیر پر ظلم کرنے کا مقصود حاصل کیا ہے اور یہ بات امر مستقبل کی قسم میں حاصل نہیں ہے پس اس میں بہر حال حالف کی نیت معتبر ہوگی یہ محیط میں ہے۔

فتاویٰ میں لکھا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی طرف گذرا پس اُس نے اُس کی تعظیم کے واسطے اُنھنا چاہا پس اُس نے کہا کہ واللہ کہ ٹخیزی یعنی واللہ آپ نہ اٹھیے گا مگر وہ اُنھ کھڑا ہوا تو گذرنے والے پر کچھ لازم نہ ہوگا۔ نوادر بن سماعہ میں امام ابو یوسف سے

۱۔ جو امر واقع ہو چکا اگر مظلوم نے اس میں اس نیت سے قسم کھائی تو ہو سکتا ہے اور جو آئندہ ہوگا اس میں ایسی نیت بیکار ہے ۱۲۔

(۱) خدا کی ۱۲۔ (۲) ظاہر کہا کہ روز آدینہ بیا ۱۲۔ (۳) صورت اول ۱۲۔ (۴) حالف مظلوم ۱۲ (۵) اگر چیز سپرد نہیں کی ہے ۱۲۔ (۶) دوم صورت ۱۲۔

روایت ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو کل فلاں کے گھر گیا تھا اُس نے کہا کہ ہاں پس پوچھنے والے نے کہا کہ واللہ تو گیا تھا پھر اُس نے کہا کہ ہاں تو یہ قسم ہے وہ قسم کھانے والا ہو گیا اسی طرح اگر نہ جانے کا ذکر کیا ہو پھر کہا کہ واللہ تو نہیں گیا تھا اُس نے کہا کہ ہاں تو بھی یہی حکم ہے اور بشر نے امام ابو یوسفؒ سے روایت کی ہے کہ زید نے عمرو سے کہا کہ اگر تو نے خالد سے کلام کیا تو تیرا غلام آزاد ہے پس عمرو نے کہا لا تیری اجازت سے تو یہ مجیب (یعنی قسم ہوگی) قرار دیا جائے گا چنانچہ اگر بغیر اجازت زید کے خالد سے کلام کرے گا تو حائث ہو جائے گا یہ خلاصہ میں ہے۔ ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ واللہ تو ایسا و ایسا ضرور کرے اور مخاطب سے قسم لینے کی نیت نہ کی اور نہ اپنے اوپر قسم قرار دینے کی تو دونوں میں سے کسی پر کچھ لازم نہ ہوگا در صورت یہ کہ مخاطب نے ایسا و ایسا نہ کیا اور اگر کہنے والے نے اپنی قسم کی نیت کی ہو تو حالف ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کہا باللہ تو ضرور ایسا و ایسا کرے اور اگر کہا کہ واللہ تو ضرور ایسا و ایسا کرے گا اور مخاطب سے قسم لینے کی نیت کی تو یہ اختلاف ہے اور دونوں میں کسی پر کچھ لازم نہ ہوگا ورنہ اگر کچھ نیت نہ ہوگی تو خود حالف ہو جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہ مثلاً زید نے عمرو سے کہا کہ واللہ تو ضرور ایسا کرے گا^(۱) یا کہا کہ واللہ تو ضرور ایسا کرے گا پس عمرو نے کہا کہ ہاں پس اگر زید نے قسم کی نیت کی اور عمرو نے بھی قسم کی نیت کی تو دونوں میں سے ہر ایک حالف ہو جائے گا اور اگر زید نے قسم لینے کی اور عمرو نے حلف کی نیت کی تو حالف ہوگا اور اگر دونوں میں سے کسی نے کچھ نیت نہ کی تو در صورت یہ کہ اللہ تو ضرور ایسا کرے گا کہا ہے عمرو حالف ہوگا اور در صورت یہ کہ واللہ تو قسم کہا ہے خود زید حالف ہوگا اور اگر زید نے قسم لینے کی اور عمرو نے یہ نیت کی کہ اس پر قسم نہیں ہے اور ہاں کہنا پس معنی ہے کہ ایسا ایسا کرنے کا وعدہ کیا بدون قسم کے تو اپنی اپنی نیت پر ہوگا اور دونوں میں سے کسی پر قسم نہ ہوگی یہ خلاصہ و وجیز کرداری و محیطہ حسنی میں ہے اور اگر زید نے عمرو سے کہا کہ میں نے قسم رکھی کہ تو ضرور ایسا کرے گا یا کہا کہ میں نے اللہ کی قسم رکھی ہے یا کہا کہ میں نے شاہد کیا اللہ کو یا کہا کہ حلف رکھی میں نے اللہ کی کہ تو ضرور ایسا کرے گا خواہ ان سب صورتوں میں یہ کہا کہ تجھ پر یا نہ کہا تو ان سب صورتوں میں قسم کھانے والا زید ہوگا اور عمرو پر قسم نہ ہوگی اور اگر دونوں نے نیت کی ہو تو جواب دینے والا بھی حالف ہوگا یعنی عمرو والا آنکہ زید نے اپنے قول سے فقط استفہام کی نیت کی یعنی کہا تو یہ قسم کھاتا ہے پس اگر زید کی یہ نیت ہو تو زید پر قسم نہ ہوگی۔ زید نے عمرو سے کہا کہ تجھ پر اللہ کا عہد ہے اگر تو ایسا کرے پس عمرو نے کہا کہ ہاں تو زید پر کچھ نہ ہوگا اگرچہ اُس نے قسم کی نیت کی ہو اور یہ قول زید کا عمرو سے قسم لینے پر ہو۔ ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے ایسا و ایسا کیا ہے اُس نے کہا کہ میں نے نہیں کیا ہے پس مرد نے کہا کہ اگر تو نے کہا ہو تو تو طالق ہے پس عورت نے کہا کہ اگر میں نے کیا ہو تو میں طالق ہوں تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر مرد نے اس قول سے اگر تو نے کیا ہے تو تو طالق ہے عورت کی قسم کی نیت کی ہو یعنی یہ مراد ہو کہ بھلا کیا اگر تو نے ایسا کیا ہو تو تو طالق تو عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی۔ چند فاسق لوگ باہم جمع ہوئے کہ بعض ان میں سے بعض کے ساتھ صفحہ لکرتے تھے پس ایک نے ان میں سے کہا کہ اب پھر جو کوئی کسی سے صفحہ کرے تو اُس کی بیوی کو تین طلاق ہیں پس ایک نے ان میں سے فارسی میں کہا کہ بلا یعنی بھلا پھر اسکے بعد ان میں سے ایک نے دوسرے کو صفحہ کیا اور اُس نے بھی اس کو صفحہ کیا تو مشائخ نے فرمایا کہ جس نے بلا کہا ہے اُسکی بیوی طالق نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ کلام فاسد ہے قسم نہیں ہے۔ ایک مرد نے کہا کہ مجھ پر پاپیادہ حج واجب ہے اور میرا ہر مملوک آزاد ہے اور میری ہر عورت طالق ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں پس دوسرے نے کہا کہ مجھ پر مثل اسکے ہے جو تو نے اپنے اوپر قرار دیا ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں پھر دوسرا اس دار میں داخل ہو تو اس پر پاپیادہ حج واجب ہوگا اور طلاق و عتاق کچھ واقع نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

۱۔ گدی کی دھپ بازی ۱۲۔

(۱) اگر اُس نے ایسا و ایسا نہ کیا تو حائث ہوگا ۱۲۔

ایک شخص اپنے امیر کے ساتھ سفر کو نکلا پس امیر نے اس سے قسم لے لی کہ بدون میری اجازت کے واپس نہ ہو پھر اُس کا کپڑا یا تھیلی گر گئی جس کے لینے کے واسطے وہ واپس ہوا تو حادثہ نہ ہوگا:

ایک شخص کو سرہنگان سلطان نے قسم دلائی کہ کل کوئی کام نہ کرے جب تک فلاں نہ آجائے پھر اس قسم کھانے والے نے دوسرے روز اپنے موزے پہنے پھر ایک میت کے پاس گیا اور فلاں کے آنے سے پہلے اُس کا سر اُس کی جگہ سے ہٹا دیا تو شیخ محمد بن سلمہ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ حادثہ نہ ہوگا پس اُس کی قسم اس کام سے سوائے پر ہوگی۔ ایک شخص اپنے امیر کے ساتھ سفر کو نکلا پس امیر نے اس سے قسم لے لی کہ بدون میری اجازت کے واپس نہ ہو پھر اُس کا کپڑا یا تھیلی گر گئی جس کے لینے کے واسطے وہ واپس ہوا تو حادثہ نہ ہوگا اس واسطے کہ ایسی واپسی پر اُس کی قسم نہیں واقع ہوئی تھی ایک مرد چغل خور ہے کہ سلطان سے لگائی بھائی کر کے لوگوں کو ضرر پہنچاتا ہے کہ سلطان سے چغلیاں کھاتا ہے اور ناحق جنایات ان سے لی جاتی ہے پس اس نے قسم کھائی کہ اگر میں نے دس درہم سے زیادہ کی بابت کسی کی لگائی بھائی کی تو میری بیوی طالق ہے پھر اس کی بیوی نے دس درہم سے زیادہ کی بابت لگائی بھائی کی تو شیخ الاسلام نجم الدین نے ذکر فرمایا ہے کہ اُس کی بیوی طالق نہ ہوگی یہ ظہیر یہ میں ہے سلطان نے ایک مرد سے کہا کہ تیرے پاس فلاں امیر کا مال ہے اُس نے انکار کیا پس سلطان نے اُس سے اُس کی بیوی کی طلاق کی قسم لی کہ تیرے پاس (۱) فلاں امیر کا مال نہیں ہے پس اُس نے قسم کھائی حالانکہ اس مرد حالف کے پاس بہت سا مال تھا جس کو امیر مذکور کی بیوی نے اُس کے پاس بھیجا تھا اور جو اس مال کو لایا تھا اُس نے یہی کہا تھا کہ یہ فلاں امیر کی بیوی کا مال ہے اور حالت یہ تھی کہ اس عورت کا بھی اس قدر مال (یعنی متول تھی) ہو سکتا ہے تھا۔ پھر عورت مذکورہ نے اقرار کیا کہ یہ مال اُس کے شوہر کا ہے تو اُس سے حالف کی بیوی طالق نہ ہوگی تا وقتیکہ حالف اُس کی تصدیق نہ کرے یا بعد دعویٰ صحیحہ کے قاضی پہ گواہی گواہان عادل اس کا حکم نہ دے دے تب البتہ حالف مذکور حادثہ ہو جائے گا ایک شخص بیس (۲۰) بکریاں ایک شہر سے دوسرے شہر کو فروخت کے واسطے لے گیا اور سب بکریاں دوسرے شہر کے اندر داخل کر دیں لیکن ان میں سے دس بکریاں اپنی دکان پر ظاہر کیں پس خطیرہ کے سردار نے اُس سے قسم لی کہ وہ فقط دس بکریاں لایا ہے اور شہر کے باہر کچھ نہیں چھوڑ آیا ہے پس اُس نے قسم کھالی اور نیت یہ کی کہ فقط دس ہی بکریاں لایا ہوں یعنی بازار میں فقط دس ہی لایا ہوں اور باہر کچھ نہیں چھوڑ آیا ہے یعنی بازار سے باہر تو مشائخ نے فرمایا ہے کہ یہ شخص حادثہ نہ ہوگا اس واسطے کہ اُس نے ایسی بات مراد لی ہے جو اُس کے لفظ سے نکلتی ہے مگر قضاء اُس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی۔ ایک شخص مر گیا اور اُس نے ایک وارث اور کسی پر اپنا قرضہ چھوڑا پس وارث نے قرضدار سے قرضہ کی بابت مخاصمہ کیا پس قرض دار نے قسم کھائی کہ مدعی کا مجھ پر کچھ نہیں ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر قرضدار کو موت مورث کی خبر نہ تھی تو امید ہے کہ وہ حادثہ نہ ہوگا اور اگر اُس کو موت مورث سے آگاہی تھی تو صحیح یہ ہے کہ وہ حادثہ ہو جائے گا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو نے میرے کتنے پھل کھائے ہیں اُس نے کہا کہ میں نے پانچ (پانچ بھی دس میں داخل ہیں) پھل کھائے ہیں اور قسم کھا گیا حالانکہ اُس نے دس پھل کھائے تھے تو جھوٹا حادثہ نہ ہوگا اور اگر قسم بطلاق و عتاق ہوگی تو طلاق و عتاق واقع نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی سے کہا گیا کہ تو نے یہ غلام کتنے میں خریدا ہے اُس نے کہا کہ سو درہم میں حالانکہ اُس نے دو سو درہم میں خریدا ہے تو جھوٹا نہ ہوگا اور اگر اُس پر طلاق و عتاق کے ساتھ قسم کھائی ہو تو کچھ جزا لازم نہ ہوگی اور یہ نظیر اس کی ہے جو جامع میں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ اس کپڑے کو دس درہم میں نہ خریدوں گا پھر اُس کو بارہ درہم کو خریدا تو قسم میں حادثہ ہو جائے گا۔ ایک مرد بھاگ کر دوسرے کے مکان میں چھپا پس مالک مکان نے قسم کھالی کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے اور مراد یہ لی کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے مکان میں وہ کس جگہ ہے تو حادثہ نہ ہوگا۔ ایک

۱۔ تو ان و ذائد ۱۲۔ ۲۔ جھوٹی قسم کھانے کا گنہگار ہوگا ۱۲۔ ۳۔ احتمال ہو کہ اصل میں شمر یعنی چھو بارے ہوں والمراد واحد ۱۲۔

(۱) اگر تیرے پاس فلاں امیر کا مال ہو تو تیری بیوی طالق ہے ۱۲۔

نے سلطان کے قسم دلانے سے قسم کھائی کہ مجھے یہ بات نہیں معلوم ہے پھر اُس کو یاد آئی کہ اُس کو معلوم تھی لیکن وقت قسم کے اُس کو فراموش تھی تو مشائخ نے فرمایا کہ امید ہے کہ وہ حادث نہ ہوگا اس لیے کہ وقت قسم کے وہ نہیں جانتا تھا۔ ایک نے اپنی بیوی کی طلاق کی قسم کھائی کہ اس رات میں میرے گھر میں شور با نہیں ہے حالانکہ اُس کے گھر میں شور با تھا تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر شور با اس قدر کم تھا کہ اگر اس کو معلوم تھا کہ تو وہ یہ نہ کہتا کہ میرے گھر میں شور با ہے تو قسم میں حادث نہ ہوگا اور اگر شور با زیادہ تھا مگر وہ خراب ہو گیا تھا ایسا کہ اُس کو کوئی نہیں کھا سکتا تھا تو بھی حادث نہ ہوگا اس واسطے کہ قسم میں ایسا شور با مراد نہیں ہو سکتا ہے اور اگر ایسا بگڑا تھا کہ بعض اس کو نہیں کھا سکتے تھے اور بعض (فقیر محتاج وغیرہ) کھا سکتے تھے تو وہ اپنی قسم میں حادث ہو جائے گا اور ایک شخص نے اپنی بیوی کی زمین میں روئی بوئی پھر قسم کھائی کہ اگر اس زمین کی پیداوار میرے گھر میں داخل ہو تو حلال مجھ پر حرام ہے پھر اس کی عورت یہ روئی اپنے سر پر رکھ کر ڈھنیے کو دینے کے واسطے لے چلی اور راہ میں اپنے سر پر رکھے ہوئے اپنے شوہر کے گھر میں داخل ہوئی پھر نکل کر ڈھنیے کے یہاں لے گئی تو مرد مذکور اپنی قسم میں حادث ہو جائے گا۔ یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص کو سلطان نے طلب کیا تا کہ اس کو تہمت میں گرفتار کرے پھر ایک شخص کو پکڑ کر اُس سے کہا کہ تو اُس کے قرضداروں یا اقرباؤں کو بتلاتا کہ اُس کے قرضداروں سے یا اقرباؤں سے مال لے لے لے پس اُس نے جاننے سے انکار کیا پس اُس سے قسم لی کہ تو اُس کے قرضداروں یا اقرباؤں کو نہیں جانتا ہے حالانکہ اگر وہ بتلا دے تو اس میں مسلمانوں پر ضرر کثیر ہے پس اگر جانتا ہے تو اُس کے قسم کھالینے کی گنجائش نہیں ہے لیکن حیلہ یہ ہے کہ اس مرد کا نام بیان کے جس کو سلطان نے طلب کیا ہے مگر اس نام کا دوسرا آدمی ارادہ کر کے قسم کھالے اور ایسی قسم و حیلہ خصاف کے نزدیک صحیح ہے اگر چہ ظاہر الروایات کے موافق نہیں صحیح ہے پس اگر حالف مذکور مظلوم ہوگا تو امام خصاف کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ طلاق الفتاویٰ میں مذکور ہے کہ زید نے عمرو پر مال کا دعویٰ کیا اور عمرو نے انکار کیا پس قاضی نے عمرو سے قسم لی کہ تجھ پر اس کا اس قدر ایسا مال نہیں ہے پس عمرو نے اپنی آستین کے اندر سے انگلی سے ایک دوسرے شخص کی طرف اشارہ کر کے قسم کھالی کہ اس کا مجھ پر کچھ نہیں ہے تو دیا اُس کی تصدیق ہوگی نہ قضاء (یہ بیمن غموس میں ہے کہ سخت گنہگار ہوگا) یہ خلاصہ میں ہے۔

☆ فصل

کفارہ کے بیان میں

حادث ہونے پر قسم کا کفارہ واجب ہوتا ہے اور کفارہ تین چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر قدرت رکھتا ہو تو ایک بردہ آزاد کر دے اور جو بردہ کفارہ ظہار میں جائز ہے وہ یہاں بھی روا ہے یا دس مسکینوں کو لباس دے دے کہ ہر ایک کو ایک کپڑا یا زیادہ دے اور ادنیٰ لباس اس قدر ہے کہ جس میں نماز جائز ہو جاتی ہے یا دس مسکینوں کو کھانا دے اور کفارہ قسم میں کھانا دینا ویسا ہی ہے جیسے کفارہ ظہار میں دیا جاتا ہے یہ فتاویٰ حاوی قدسی میں ہے۔

امام ابوحنیفہ اور امام محمد سے روایت ہے کہ ادنیٰ لباس اس قدر ہے کہ اُس کے اکثر بدن کو چھپائے حتیٰ کہ خالی ایک پانچامہ دے دنیا کافی نہیں ہے اور یہی قول صحیح ہے یہ ہدایہ میں ہے اور اگر ان تین چیزوں میں سے کسی کے دینے کی اُس کو قدرت نہ ہوئی تو پے در پے تین روز روزہ رکھے اور یہ تنگ دست کا کفارہ ہے اور اولیٰ کفارہ یسار ہے اور اس کفارہ کے واسطے خوشحالی اسی قدر معتبر ہے کہ اُس کی کفایت سے اس قدر پختا ہو کہ جس سے کفارہ قسم ادا کر دے اور یہ حکم اس وقت ہے کہ جو منصوص علیہ ہے وہ اُس کی ملک میں نہ ہو اور اگر

عین منصوص علیہ اُس کی ملک میں ہو یعنی اُس کی ملک میں کوئی غلام ہے یا دس مسکینوں کا لباس یا کھانا موجود ہو تو اُس کو روزے سے کفارہ دینا کافی نہ ہوگا خواہ اس پر قرضہ ہو یا نہ ہو اور اگر اُس کی ملک میں عین منصوص علیہ موجود نہ ہو تو اُس وقت تنگی و خوشحالی کا اعتبار ہوگا یہ سراج و باج میں ہے پھر واضح ہو کہ تنگی و خوشحالی کا اعتبار ہمارے نزدیک اس وقت ہوگا جب کفارہ دینے کا قصد کرتا ہے۔ چنانچہ اگر قسم سے حانث ہونے کے وقت وہ خوشحال تھا پھر جب کفارہ دینے کا قصد کیا اس وقت تنگ دست ہو گیا تو ہمارے نزدیک روزے اُس کے حق میں کافی ہوں گے اور اگر اس کے برعکس ہو تو کافی نہ ہوں گے یہ فتح القدیر میں ہے اور یہ جو فرمایا ہے کہ خوشحالی سے یہاں یہ مراد ہے کہ اُس کے کفاف سے کچھ زائد بچتا ہو تو کفاف کی مقدار یہ ہے کہ رہنے کے مکان سے اور ستر عورت کے قدر کپڑے سے اور روزینہ کھانے سے فاضل رہتا ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر اس کا مال غائب ہو یا لوگوں پر اُس کا قرضہ ہو اور سر دست ہو اس قدر نہیں پاتا ہے کہ اُس سے بردہ آزاد کرے یا مسکینوں کو لباس دے یا کھانا دے تو اُس کو روزے رکھنے کافی ہوں گے ایسا ہی امام محمدؒ نے ذکر فرمایا ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ لوگوں پر قرضہ ہونے کی صورت میں بھی روزے سے جواز کا حکم جو امام محمدؒ نے دیا ہے اُس کی تاویل یہ ہے کہ اُس کا قرضہ تنگ دست لوگوں پر ہو جو ادا کرنے پر قادر ہیں اور اگر اس کا قرضہ مال داروں پر ہو کہ اس کے ادا کرنے پر قادر ہیں کہ اگر اُن سے تقاضا کر کے وصول کرے تو کفارہ بے اراداً کرنے پر قادر ہو جائے تو اس کو روزے کافی نہ ہوں گے ایسا ہی امام محمدؒ سے ابن سماعہ نے روایت کی ہے اور ایسا ہی مشائخ نے عورت کے حق میں کہا ہے کہ جب اس پر کفارہ لازم آیا اور اُس کے ہاتھ میں کچھ مال نہیں ہے حالانکہ اُس کا مہر اس کے شوہر پر ہے کہ اگر تقاضا کرے تو وہ ادا کر دے تو عورت کو روزے سے کفارہ دینا روانہ ہوگا اور اگر ایک شخص کے پاس مال ہو حالانکہ اس پر لوگوں کا قرضہ بھی اسی قدر ہے کہ جتنا مال ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے تو اس کو یہ قرضہ اس مال سے ادا کرنے کے بعد روزے سے کفارہ روا ہے ایسا ہی امام محمدؒ نے اصل میں ذکر کیا ہے اور یہ ظاہر ہے اور قبل قضائے قرضہ (ادائے قرضہ) مذکور کے آیا اُس کو روزے سے کفارہ دینا روا ہے یا نہیں سو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے کذا فی المحیط اور اصح یہ ہے کہ روزے سے کفارہ دینا اس صورت میں بھی روا ہے یہ مبسوط میں ہے۔

کپڑے میں قابض کا حال معتبر ہے کہ اگر وہ قابض کے واسطے صالح ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں:

اگر ہر مسکین کو نصف کپڑا دیا یا ایک کپڑا دس مسکینوں کو دیا بہ نیت کفارہ قسم تو لباس سے کفارہ ادا نہ ہوگا اور جب لباس سے کفارہ ادا نہ ہو پس اگر اُس کی قیمت اس قدر ہو کہ جس سے دس مسکینوں کا کھانا دیا جاتا ہے تو کیا کھانے سے اعتبار کر کے کفارہ ادا ہو جائے گا یا نہیں تو شیخ الاسلام خواہر زادہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہمارے اصحاب سے ظاہر روایت کے موافق کافی ہو جائے گا خواہ اُس نے نیت کی ہو کہ یہ کپڑا طعام کے بدلے (۱) میں ہے یا یہ نیت نہ کی ہو یہ ظہیر یہ میں ہے اور ٹوپی اور موزہ لباس سے کفارہ دینے میں کافی نہیں ہے اور کھانے سے کافی ہے اور کپڑے میں قابض کا حال معتبر ہے کہ اگر وہ قابض کے واسطے صالح ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں اور ہمارے بعضے مشائخ نے فرمایا کہ اوسط درجہ کے لوگوں کے سوائے ہو تو جائز ہے اور شمس الائمہ سرحسی نے فرمایا کہ یہ قول اشبہ بالصواب ہے یہ خلاصہ میں ہے اور اگر ہر مسکین کو ایک عمامہ دید یا پس اگر اس قدر کپڑا ہے کہ وہ ایک قمیص یا چادر تک پہنچتا ہے تو لباس سے کفارہ ادا ہو جائے گا ورنہ لباس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا مگر طعام سے کفارہ ہو جائے گا بشرطیکہ اُس کی قیمت اتنی ہو کہ طعام سے کفارہ کے مثل ہو (۲) یہ مبسوط میں ہے

۱۔ جس وقت اس نے کفارہ دینا چاہا اس وقت دیکھا جائے گا کہ کیا حال ہے نہ اس وقت جب حانث ہوا ہے ۱۲۔

۲۔ قال المترجم: یہاں اب یہ بیان ہے کہ کپڑا کس درجہ کا ہو ۱۲۔

(۱) اگر کچھ مقدار طعام کو پہنچے ۱۲۔ (۲) قیمت طعام کے برابر ہو ۱۲۔

اور اگر دس مسکینوں کو ایک کپڑا بھاری قیمت کا سب میں مشترک ایسا دیا کہ ان کی اوسط لباس واجبی کی قیمت کے مثل یا زیادہ اس میں سے ہر ایک کے حصے میں پہنچتا ہے تو یہ کپڑا ان کے کفارہ لباس سے کافی نہ ہوگا اس واسطے کہ لباس مخصوص علیہ ہے پس وہ اپنے نفس کا بدل نہ ہو گا ہاں غیر کا بدل ہو سکتا ہے چنانچہ اگر اس کپڑے میں سے ہر ایک کے حصے میں طعام کی قیمت کے مثل قیمت کا حصہ پہنچتا ہو تو طعام سے کفارہ ادا ہو جائے گا اور جیسے اس کے برعکس کہ اگر ہر مسکین کو چہارم صاع دیے جو ایک صاع چھوہارے کے برابر ہیں تو طعام سے کفارہ ادا نہ ہوگا ہاں اگر اس چہارم صاع دیے ہوں کی قیمت ان کے لباس کی قیمت کے مثل ہو تو لباس سے کفارہ ادا ہو جائے گا یہ بدائع میں ہے جس پر کفارہ قسم واجب ہے اگر اُس نے ایک پرانا کپڑا مسکین کو دیا تو مشائخ نے فرمایا کہ قیمت کے عوض جائز نہیں ہے و لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ایسا ہو کہ اس سے نئے کپڑے کی نصف مدت تک انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جائز ہے اور جدید کپڑے سے چھ مہینہ انتفاع ہو سکتا ہے اور اُس سے چار مہینے یعنی نصف سے زائد مدت تک تو جائز ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر ایک ہی مسکین کو دس کپڑے ایک ہی دفعہ دے دیئے تو اُس کے کفارہ کی طرف سے کافی نہ ہوں گے جیسے طعام میں ہوتا ہے اور اگر اُس کو ہر روز کر کے ایک ایک کپڑا دیا یہاں تک کہ دس کپڑے دس روز میں پورے کر دیئے تو کفارہ ادا ہو گیا جیسے طعام میں ہے اور اگر مسکینوں کو غلام یا چوپایہ جس کی قیمت دس مسکینوں کے کپڑے کے برابر ہے دیا تو باعتبار قیمت کے اُس کا کفارہ لباس سے ادا ہو گیا جیسے درہم دینے میں ہوتا ہے اور اگر غلام یا چوپایہ کی قیمت دس مسکینوں کے لباس کے برابر نہ پہنچی مگر دس مسکینوں کے طعام کے برابر پہنچی تو کفارہ طعام سے ادا ہو گیا اور اگر کسی مرد نے گواہ قائم کیے کہ یہ کپڑا میرا ہے یا یہ چوپایہ میرا ہے پس بعد ثبوت و حکم قاضی کے اس کو لے لیا تو اُس پر واجب ہوگا کہ از سر نو کفارہ قسم ادا کرے اور اگر زید کی طرف سے عمرو نے زید کے حکم سے دس مسکینوں کو لباس دے دیا تو زید سے کفارہ ادا ہو گیا اگر چہ عمرو نے زید سے اُس کا ثمن نہ پایا ہو اور اگر عمرو نے بدون حکم زید کے اور بدون رضائے زید کے ایسا کیا تو زید کی طرف سے جائز نہ ہوگا اور اگر کسی نے اپنی قسم کے کفارات میں سے میتوں کے کفنوں میں یا مسجد کی عمارت میں یا میت کے ادائے قرضہ میں یا حرق رقبہ میں دیا تو جائز نہیں ہے اور اگر اس میں سے کسی ابن سہیل کو جس کا توشہ مسافرت میں نہیں رہا ہے دے دیا تو جائز ہے اور اگر ایک شخص نے جس پر دو قسموں کا کفارہ ہے واجب ہے دو دو کپڑے دس مسکینوں کو دونوں قسموں کی طرف سے دیئے تو امام اعظم و امام ابو یوسف کے قول میں اس کی ایک ہی قسم کی طرف سے ادا ہوں گے اور اگر کسی نے ایک مسکین کو اپنے کفارہ قسم میں لباس دیا تھا پھر یہ مسکین مر گیا پس اُس کا ورثہ اُس کو ملا اور اُس نے وہی کپڑا میراث میں پایا یا مسکین کی زندگی میں اُس سے خرید لیا یا مسکین نے اُس کو بہہ کر دیا تو اُس کا کفارہ مذکور فاسد نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

اگر کسی نے کفارہ قسم میں کھانا دینا اختیار کیا تو وہ دو (۲) نوع پر ہے ایک طعام تملیک اور دوم طعام اباحت پس طعام تملیک اس طرح ہے کہ دس مسکینوں میں سے ہر ایک کو نصف صاع دیے یا آٹا یا ستودے یا ایک صاع جو دے جیسے صدقہ فطر میں مذکور ہے اور اگر اس صورت میں اُس نے دس مسکینوں میں ہر ایک کو چہارم صاع دیا پس اگر دو بارہ انہیں کو چہارم صاع دے دیا تو جائز ہو گیا اور اگر دو بارہ ان کو نہ دیا تو از سر نو طعام دے اور اسی طرح اگر کسی نے وصیت کر دی کہ میرے کفارہ قسم میں میری طرف سے دس مسکینوں کو طعام دیا جائے پس وصی نے دس مسکین کو صبح کا کھانا کھلایا پھر یہ مسکین مر گئے قبل اس کے کہ ان کو شام کا کھانا کھلائے تو اس پر لازم آئے گا کہ از سر نو کھانا دے مگر وصی ضامن نہ ہوگا اور ایک شخص نے ایک ہی مسکین کو اپنے کفارہ قسم میں پانچ صاع دیے ہوں دے دیئے تو کفارہ ادا نہ ہوگا لہذا آنگہ ایک ہی مسکین کو دس روز میں دے پس تعداد یا مقام تعدد مسکین قائم ہوگی اور اگر ایک مسکین کو دیے یعنی نصف صاع اور دوسرے کو جو دیئے یعنی نصف صاع اور دوسرے کو جو دیئے یعنی ایک صاع تو ظاہر الروایۃ کے موافق

جائز ہے۔

اگر کسی نے کفارہ طعام بطور اباحت اختیار کیا تو احناف کے نزدیک روا ہے:

اور اگر کسی نے پانچ مسکینوں کو طعام دیا اور پانچ کو لباس دیا پس اگر اُس نے بطور تملیک دیا تو کفارہ ادا ہوگا اور طعام و لباس دونوں میں سے جو پیش قیمت ہوگا وہ دوسرے کم قیمت کا بدل قرار پائے گا چاہے کوئی ہو اور اگر اُس نے طعام نہ بطور اباحت دیا ہے پس اگر طعام کم قیمت ہوگا بہ نسبت لباس کے تو کفارہ ادا ہو جائے گا اور اگر یہ طعام بیش قیمت ہوگا تو جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ لباس میں تملیک ہے اور طعام بطور اباحت دیا ہے بطور تملیک اور اباحت میں تملیک نہیں ہے پس جب کہ طعام کم قیمت ہوگا تو لباس کو طعام کا بدل قرار دینا جائز ہوگا اور اگر اُس کے برعکس ہوگا تو نہیں ہو سکے گا اور اگر کسی نے کفارہ طعام بطور اباحت اختیار کیا تو ہمارے نزدیک روا ہے اور طعام اباحت اس طرح ہے کہ دو وقت صبح و شام یا دو دن صبح کو یا دو دن شام کو یا شام و سحری کو پیٹ بھر کے کھلائے یعنی کہہ دے کہ پیٹ بھر کے کھا لو اور مستحب یہ ہے کہ صبح و شام دونوں وقت روٹی کے ساتھ سالن ہو یعنی جو چیز روٹی کے ساتھ کھائی جائے (ردھی نہ ہو ۱۲) اور اس صورت میں ان کا پیٹ بھر جانا معتبر ہے مقدار طعام معتبر نہیں ہے (قسم اول کے بخلاف) چنانچہ اگر تین روٹیاں دس مسکینوں کے سامنے رکھیں اور انہوں نے کھایا کہ سیر ہو گئے تو جائز ہے یہ امام ابوحنیفہ سے روایت کیا گیا ہے اور اگر دس مسکینوں میں سے ایک کا پیٹ پھر ہوا ہو (پہلے سے ۱۲) تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اگر پیٹ بھرنے سے بھی اُس کے طعام میں سے اس قدر جتنا اوروں نے کھایا ہے کھالیا تو جائز ہو گیا اور بعضوں نے کہا کہ نہیں جائز ہے اس واسطے کہ دس مسکینوں کا سیر کر دینا واجب تھا اور یہ نہیں پایا گیا اور اگر دس مسکینوں کو صبح و شام سیر ہو کر کھلا دیا مگر ان میں ایک دودھ چھوڑا یا ہوا بچہ ہے تو جائز نہ ہو اور اس پر واجب ہے کہ بجائے اس کے ایک دوسرے مسکین کو کھلا دے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اور اگر دس مسکینوں کو روکھا بغیر سالن کے کھانا دیا پس اگر روٹی گیہوں کی دی تو جائز ہے اور اگر دوسری چیز ہو تو سالن ضرور ہے اور اگر ان کو روٹی و کھجور یا ستو و کھجور یا کالی ستو کھلائے تو کفارہ ادا ہو گیا بشرطیکہ یہی اس کے اہل و عیال کا کھانا ہو اور اگر اُس نے ایک مسکین کو دس روز تک صبح و شام کھلایا تو کفارہ ادا ہو گیا اگر چہ اُس نے ہر روز کے کھانے میں ایک ہی روٹی کھائی ہو اور اگر اُس نے صبح کو دس مسکینوں کو کھانا دیا پھر شام کو دوسرے دس مسکینوں کو ان کے سوا کھانا کھلایا تو جائز نہیں ہے اور اسی طرح اگر اُس نے دس روز تک صبح کو ایک مسکین کو اور شام کو دوسرے مسکین کو کھلایا تو بھی جائز ہے اور اگر اُس نے حصہ ایک مسکین کا دو مسکینوں پر بانٹ دیا تو بھی جائز نہیں ہے اور اگر صبح کو ایک مسکین کو کھانا کھلایا اور شام کے کھانے کے اُس کو دام دیئے پیسے یا درہم تو کافی ہے اور اسی طرح اگر دس مسکینوں کی صورت میں اُس نے ایسا ہی کیا کہ ان کو صبح کا کھانا کھلا دیا اور ان کے شام کے کھانے کے ان کو پیسے یا درہم دے دیئے تو جائز ہے اور اگر دس مسکینوں کو اُس نے ایک وقت کھانا کھلایا اور پھر انہیں کو چہارم چہارم صاع گیہوں دے دیئے تو کفارہ ادا ہو گیا اور ہشام نے بروایت امام محمد فرمایا کہ اگر ایک مسکین کو بیس روز تک صبح کو کھانا کھلایا یا رمضان میں بیس (۲۰) رات اس کو کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا ہو گیا اور اگر کسی نے کفارہ قسم میں روزے رکھے حالانکہ اس کی ملک میں غلام یا طعام تھا جس کو وہ بھول گیا تھا پھر بعد روزے پورے ہونے کے اس کو یاد آیا تو بالا جماع اس کے کفارہ کے واسطے یہ روزے کافی نہ ہوں گے یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر کسی نے پانچ مسکینوں کو کھانا دیا پھر وہ فقیر ہو گیا تو اُس پر واجب ہوگا کہ اگر روزے سے کفارہ ادا کرنا چاہے تو از سر نو روزے سے کفارہ ادا کرے یہ مبسوط میں ہے اور اگر کسی نے دس مسکینوں میں سے ہر ایک کو چہارم چہارم صاع گیہوں اپنے کفارہ قسم میں دیئے پھر یہ لوگ غنی ہو گئے پھر فقیر ہو

۱ واضح رہے کہ طعام تملیک یہ ہے کہ ان کی ملک میں کر دیا کہ چاہو جو کرو اور طعام اباحت یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھالو ۱۲۔

گئے پھر اس نے ان کو چہارم چہارم صاع دیا تو امام ابو یوسفؒ سے روایت ہے کہ یہ کفارہ جائز نہ ہو جیسے مکاتب کو چہارم صاع دیا پھر وہ عاجز ہو کر رقیق کر دیا گیا پھر دوبارہ مکاتب کیا گیا پھر اُس نے اُس کو چہارم صاع دیا تو یہ کفارہ ادا ہونے کے واسطے نہیں کافی ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کسی شخص نے اپنی قسموں کے کفارات میں دس مسکینوں میں سے ہر ایک کو ہزار ہزار من گیہوں ایک بارگی دے دیئے تو امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک یہ ایک ہی قسم کے کفارہ سے جائز ہوں گے یعنی ایک ہی کفارہ ادا ہوگا یہ خلاصہ میں ہے جس پر کفارہ قسم ہے اگر اُس نے پانچ صاع گیہوں دس مسکینوں کے سامنے رکھے پس انہوں نے چھینا جھپٹی کر کے لوٹ لیا تو فقط ایک ہی مسکین کی طرف سے کافی ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے ان کو کفارہ دینا بھی جائز نہیں ہے جیسے والدین و اولاد وغیرہ مگر کفارہ زمی فقیروں کو دینا جائز ہے بخلاف زکوٰۃ کے اور یہ امام ابو حنیفہ و امام محمدؒ کے نزدیک ہے اور حرابی فقیروں کو دینا بالاجماع نہیں ہے یہ سراج و ہاج میں ہے۔

اگر مملوک نے باجارت ولی مال سے کفارہ ادا کر دیا تو جائز نہ ہوا:

روزہ کفارہ ایام تشریق میں نہیں روا ہے یہ مبسوط میں ہے اگر تنگ دست نے روزہ سے کفارہ دینا چاہا پس دو روزے رکھ کر تیسرے روز بیمار ہوا کہ اس کو افطار کرنا پڑا تو از سر نو روزے رکھے اسی طرح اگر عورت تین ایام کے اندر حائض ہو گئی تو از سر نو ادا کرے یہ ظہیر یہ میں ہے اگر متفرق قسموں کے کفارات لازم آئے پس اُس نے کفاروں کی گنتی پر بردے آزاد کیے کہ ہر قسم کے مقابلہ کوئی رقبہ معین نہیں کیا یا ہر رقبہ کو ان سب کی طرف سے کفارے کی نیت سے آزاد کیا تو استحساناً کفارات ادا ہو جائیں گے اور اسی طرح اگر ایک کفارہ کی طرف سے بردہ آزاد کیا اور دوسرے سے کھانا دیا اور تیسرے سے کپڑا دیا تو جائز ہے اس واسطے کہ ان انواع میں سے ہر نوع سے کفارہ مطلقاً ادا ہو جاتا ہے پس ان سب میں حکم یکساں ہوگا اور مملوک جب تک آزاد نہ ہو اس کا کفارہ روزے سے ہے اور اگر اس کے مولیٰ نے اس کی طرف سے کھانا دیا یا بردہ آزاد کیا یا کپڑا دیا تو کافی نہیں ہے یہ مبسوط (۱) میں ہے اور اگر مملوک نے باجارت ولی مال سے کفارہ ادا کر دیا تو جائز نہ ہوا یہ سراجیہ میں ہے اور اس حکم میں مکاتب و مد بردام و ولد مثل تن کے ہیں اور جو سعایت کرتا ہو وہ بھی امام اعظمؒ کے نزدیک اسی حکم میں شامل ہے اس واسطے کہ وہ مثل مکاتب کے (نزدیک) ہے۔ اگر کسی (آزاد نے ۱۲) نے کفارے میں دو روزے رکھے پھر تیسرے روز اس کو اس قدر ملے گیا کہ طعام یا لباس سے کفارہ ادا کر سکتا ہے تو روزہ جائز نہ ہوگا اور اس پر طعام یا لباس سے کفارہ دینا واجب ہو جائے گا اور اگر تنگ دست نے دو روز روزہ رکھ کر تیسرے روز اس قدر پالیا کہ رقبہ آزاد کر سکتا ہے تو اس پر مال سے کفارہ دینا لازم ہوگا اور اس روز کا روزہ بہتر ہے کہ تمام کرے اور اگر اس نے توڑ دیا تو اس پر قضا لازم نہ ہوگی اور یہ مبسوط شمس الائمہ سرحسی میں ہے۔

عورت اگر تنگ دست ہو اور اس نے روزہ سے کفارہ دینے کا قصد کیا تو اس کے شوہر کو اختیار ہے کہ اس کو روزے سے منع کرے یہ جوہرہ تیرہ میں ہے اور اگر غلام نے کفارہ قسم کے روزے رکھے پھر قبل اس سے فارغ ہونے کے آزاد کر دیا گیا اور اس نے مال پایا تو روزے اس کے کافی نہ ہوں گے اور اگر فقیر نے چھ روزے دو قسموں کے کفارہ میں رکھے تو اس کو کافی ہیں اگرچہ اس نے تین دن کی ہر ایک کے واسطے نیت نہ کی ہو اور اگر اس کے پاس ایک کفارہ کا کھانا ہو پس اس نے ایک کفارے سے روزے رکھ لئے پھر دوسرے کفارہ میں یہ کھانا دیا تو جائز نہ ہوگا اور بعد کفارہ طعام دینے کے اس کو دوبارہ دوسرے کفارہ کے روزے رکھنے لازم آئیں گے اور کسی کا دوسرے کی طرف سے روزہ رکھنا خواہ زندہ ہو یا مردہ خواہ کفارہ میں ہو یا غیر کفارہ میں جائز نہیں ہے یہ مبسوط شمس الائمہ سرحسی

۱۔ نو مسکینوں کا دینا اس پر باقی رہا ۱۲۔

میں ہے۔ اگر کسی پر کفارہ قسم واجب ہو اور اس نے اس قدر نہ پایا کہ بردہ آزاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا یا کپڑا دے دے اور وہ ایسا بڈھا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور نہ اس سے اس کی کچھ امید ہے پس لوگوں نے چاہا کہ اس کی طرف سے روزہ کے عوض ایک مسکین کو کھانا دے دیں یا وہ مر گیا اور وصیت کر گیا کہ میرے طرف سے اس طرح ادا کر دیا جائے تو جائز نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کھانا دے دیں^(۱) اور نہ اس کو کافی ہوگا الا آنکہ وہ خود دس مسکینوں کو کھانا دے دے یا اس کی طرف سے دیا جائے بشرط وصیت اور اگر اس نے وصیت نہ کی اور لوگوں نے خود چاہا کہ اس کی طرف سے کفارہ دے دیں تو دس مسکینوں کے کھانے یا کپڑے سے کم کافی نہ ہوگا اور یہ روا نہیں ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے بردہ آزاد کریں یہ سراج و ہاج میں ہے اور ایک مرد نے ایک بردہ اپنے کفارہ قسم میں آزاد کر دیا اور نیت فقط اپنے دل میں کی اور زبان سے کچھ نہ کہا آزاد کر دینے کو تو کافی ہے یہ مبسوط میں ہے اور ایک شخص نے قسم کھائی کہ ایسا نہ کروں گا پھر بھول گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی تھی یا طلاق کی یا روزہ کی تو مشائخ نے فرمایا کہ اس پر کچھ نہیں ہے یہاں تک کہ اس کو یاد آئے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور شیخ محمد بن شجاع سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے قسم کھائی بطلاق اور یہ اس کو یاد ہے مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں اس وقت بالغ تھا یا نہ تھا تو فرمایا کہ اس پر حائث ہونے کی جزا کچھ نہ ہوگی جب تک یہ نہ جانے کہ اس وقت وہ بالغ تھا جب قسم کھائی تھی زید نے عمرو کی بیوی کو زنا کی تہمت دی پس عمرو نے کہا کہ وہ بے طلاق طالق ہے اگر آج کے روز اس کا زنا ظاہر نہ ہو پھر دن گذر گیا اور اس کا زنا ظاہر نہ ہوا تو طلاق واقع ہوگی اور ظاہر ہونے کی یہی صورت ہے کہ چار مرد گواہی دیں یا وہ عورت خود اقرار کرے ایک مرد اپنی بیوی کا کپڑا لے کر رنگریز کے پاس گیا تاکہ وہ رنگ کر دے پس اس کی بیوی نے کہا کہ تو اس واسطے لے گیا کہ اس کو فروخت کر دے پس شوہر کو غصہ آیا اور کہا کہ اگر میں نے اس کو رنگا ہے تو تو طالق ہے پھر رنگریز نے اس کے بعد اس کو رنگا تو وہ حائث نہ ہوگا یہ ظہیر میں ہے اور اگر ایک شخص پر کفارہ قسم ہے اور وہ اس حالت میں مر گیا یا قتل کیا گیا تو کفارہ مذکور ساقط نہ ہوگا اور کفارہ ظہار کا بھی یہی حکم ہے ایسا ہی فقیہ ابو بکر بلخی سے منقول ہے اور فقیہ ابواللیث نے کہا کہ کفارہ ظہار ساقط ہو جائے گا بخلاف کفارہ یمین کے کہ ساقط نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر حائث ہونے سے پہلے کفارہ ادا کر دیا تو کافی نہ ہوگا اگر اس کو مسکین سے واپس لے سکتا ہے اس واسطے کہ یہ صدقہ ہوا ہے اور یہ ہدایہ میں ہے اور اس کے متصلات میں مسائل نذر ہیں اور جس کسی نے نذر مطلق کی اس پر اس کا وفا کرنا واجب ہے کذانی الہدایہ اور اگر کسی نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھ پر حج یا عمرہ یا نماز یا روزہ یا صدقہ وغیرہ کوئی امر طاعت واجب ہے پھر وہ فعل کیا تو یہ چیز جو اپنے اوپر واجب کر لی ہے ادا کرنی واجب ہوگی اور اس صورت میں ہمارے نزدیک موافق ظاہر الروایۃ کے اس پر کفارہ قسم نہیں واجب ہوگا اور امام محمد سے مروی ہے کہ جس نے نذر ایسی شرط پر معلق کی جس کا ہونا جانتا ہے جیسے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے مریض کو شفا دے دے یا میرے غائب کو واپس بھیج دے تو پندرہ فقیر کو کھانا کھلاؤں تو ایسی صورت میں کفارہ دے کر اس سے خارج نہیں ہو سکتا ہے کذانی المبسوط بلکہ بعینہ خود بیان کیا ہے اس پر واجب ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر نذر ایسی شرط پر معلق کی جس کا ہونا نہیں جانتا ہے جیسے وار میں داخل ہونا وغیرہ تو ایسی صورت میں اس کو اختیار ہوگا کہ چاہے کفارہ قسم دے یا جو بعینہ التزام کیا ہے وہ دے دے اور مروی ہے کہ امام اعظم نے بھی اسی قول کی طرف رجوع کیا ہے کہ اس کو اسی طرح کا اختیار حاصل ہوگا

۱۔ پس اگر یاد آیا کہ اللہ کی قسم یا طلاق کی تھی تو اس کا موجب واجب ہوگا اور اگر روزہ کی تھی تو بدوں نذر کے کچھ نہیں ہے ۱۲۔ ۲۔ نذر مطلق جس کے ساتھ کسی

دن و مہینہ و جگہ وغیرہ کی قید نہ لگائی جائے ۱۲۔

(۱) یعنی ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین ۱۲۔

اور شیخ اسمعیل زہد اسی پر فتویٰ دیتے تھے اور شیخ مؤلف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی یہی مختار ہے کذانی المہبوط اور یہ تفصیل ہی صحیح ہے اور یہ ہدایہ میں ہے اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر نماز واجب ہے تو اس پر دو رکعت واجب ہوں گی اور اسی طرح اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں نماز پڑھوں یا کہا کہ نصف رکعت تو بھی یہی حکم ہے کہ دو رکعت واجب ہوں گی اور اگر کہا کہ تین رکعت تو چار رکعت واجب ہوں گی یہ فتاویٰ حاوی قدسی میں ہے۔

اگر کسی نے کسی خاص جگہ روزہ رکھنے یا نماز پڑھنے کی نذر کی تو ہمارے اصحاب نے اختلاف کیا ہے:

اگر نماز بغیر وضو کے نذر کی تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور اگر نذر کی کہ نماز بغیر قراءت کے یا ننگے پڑھے گا تو اس پر نماز واجب ہوگی اور اگر نذر کی فریضہ ظہر آٹھ رکعتیں پڑھوں یا کہا کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے دو سو درہم عطا فرمائے تو دس درہم زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے تو اس پر فقط چار رکعتیں ظہر کی اور فقط پانچ درہم زکوٰۃ کے واجب ہوں گے یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر کسی نے کسی خاص جگہ روزہ رکھنے یا نماز پڑھنے کی نذر کی تو ہمارے اصحاب نے اختلاف کیا ہے اور امام اعظمؒ و امام محمدؒ نے فرمایا کہ اس کو اختیار ہے کہ جہاں چاہے نماز پڑھ دے یا روزہ رکھ لے یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر وقت کی خصوصیت کی چنانچہ کل کے روز نماز پڑھنے کی نذر کی پھر اس نے آج ہی پڑھ دی تو امام اعظمؒ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ادا ہوگئی اور اگر نذر کی کہ کل کے روز اہم صدقہ کرے گا اور آج کے روز ہی ان کو صدقہ کر دیا تو بالاتفاق کافی ہے یہ حاوی قدسی میں ہے۔ ایک نے اپنے اوپر اس قدر سے زائد نذر میں واجب کر لئے جتنے اس کی ملک میں ہیں تو بقول مختار اس قدر واجب ہوں گے جو اس کی ملک میں ہیں چنانچہ کسی نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھ پر ہزار درہم صدقہ کرنے واجب ہیں حالانکہ اس کی ملک میں فقط سو درہم ہیں تو سو درہم صدقہ کرنے واجب ہوں گے یہ وجہ کر دہی میں ہے اور اگر اس کے پاس مال و اسباب سو درہم کا ہو تو فروخت کر کے ان کو صدقہ کر دے اور فقط دس درہم کا ہو تو دس درہم صدقہ کر دے اور اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اس پر کچھ نہیں ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ یہ بکری ہدیٰ بھیجوں حالانکہ یہ بکری دوسرے کی ملک ہے تو نذر صحیح نہیں ہے۔ اس پر کچھ لازم نہ ہوگا ہاں اگر اس نے قسم کی نیت کی ہو تو قسم منعقد ہو جائے گی اور در صورت حائث ہونے کے اس پر کفارہ قسم لازم آئے گا اور اگر کہا کہ واللہ ضرور یہ بکری ہدای بھیجوں گا تو ضرور قسم ہو جائے گی یہ محیط میں ہے۔

اسی طرح اگر عربی میں کہلا ہدین هذا الشاة یعنی بلا قسم دنوں تاکید بیان کیا تو قسم منعقد ہو جائے گی یہ وجہ کر دہی میں ہے اور اگر ایسی چیز کی نذر کی جو معصیت ہے تو نہیں صحیح ہے اور اگر اس کو کہا تو اس پر کفارہ لازم آئے گا اور اگر اپنے فرزند کے ذبح کی نذر کی تو اس پر بکری ذبح کرنی استحسانا لازم ہوگی۔ اگر فرزند قتل کرنے کی نذر کی تو صحیح نہیں ہے اور اگر غلام ذبح کرنے کی نذر کی تو امام محمدؒ کے نزدیک نذر صحیح ہے اور شیخین کے نزدیک نہیں صحیح ہے اور اگر والد یا والدہ کے ذبح کی نذر کی تو اس میں امام ابو حنیفہؒ سے دو روایتیں ہیں جن میں سے صحیح یہ ہے کہ ایسی نذر نہیں صحیح ہے یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر اپنے پوتے کے ذبح کی نذر کی تو امام اعظمؒ سے دو روایتیں ہیں جن میں سے ایک روایت میں مذکور ہے کہ اس پر کچھ لازم نہ ہوگا اور یہی اظہر ہے اور اگر نذر کے ساتھ قسم کھائی پس اگر حج یا عمرہ وغیرہ کی نیت کی تو جو اس نے نیت کی ہے اس پر واجب ہوگا اور اگر اس کی کچھ نیت نہ ہو تو اس پر کفارہ قسم واجب ہوگا اور اگر نذر کے ساتھ کسی معصیت پر قسم کھائی تو اس پر کفارہ قسم واجب ہوگا اور اگر نذر کے ساتھ قسم کھائی اور اس کی نیت میں

روزے ہیں اور کسی عدد کی نیت نہیں کی تو حائث ہونے پر اس پر تین روز کے روزے واجب ہوں گے اور اسی طرح اگر صدقہ کی نیت کی اور عدد کی نیت نہیں کی تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا ہر مسکین کے واسطے نصف صاع گےہوں واجب ہوں گے یہ مبسوط میں ہے اور ایک شخص نے کہا کہ ہزار درہم از مال میں بدرویشاں داوہ اور اس کے آگے کہنا چاہتا تھا کہ اگر ایسا کروں مگر کسی نے اس کا منہ بند کر لیا تو مشائخ نے فرمایا کہ احتیاطاً صدقہ کر دے اور اگر اس صورت میں طلاق یا عتاق کی نذر و قسم ہو تو واقع نہ ہوگی ایک شخص نے کہا کہ اگر میں کفالت مالی یا جانی کروں تو اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر ایک پیسہ صدقہ کرنا واجب ہے پھر اس نے مال یا جان کی کفالت کی تو اس پر ایک پیسہ صدقہ دینا واجب ہوگا ایک نے کہا کہ میرا مال فقراے مکہ پر صدقہ ہے اگر ایسا کروں پھر حائث ہو اور اس نے فقراے بلخ یا کسی اور شہر کے فقیروں پر صدقہ کر دیا تو جائز ہے اور نذر سے نکل گیا اور ایک نے کہا کہ اگر میں نے اس غم سے جس میں ہوں نجات پائی تو مجھ پر واجب ہے کہ دس درہم نکال کر روٹی صدقہ کروں پس اس نے دس درہم کی روٹیاں صدقہ کر دیں یا ان کا شمن دس درہم صدقہ کر دیئے بہر طور جائز ہے ایک نے کہا کہ میں نے اپنی دختر کا نکاح کر دیا تو ہزار درہم میرے مال سے صدقہ میں ہر مسکین کو ایک درہم اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور ہزار درہم ایک بارگی ایک مسکین کو دے دیئے تو جائز ہے ایک نے کہا کہ اگر میں اپنے اس مرض سے اچھا ہو گیا تو ایک بکری ذبح کروں گا پھر اچھا ہو گیا تو اس پر کچھ لازم نہ ہوگا الا آنکہ اس طور سے کہے کہ اگر میں اس مرض سے اچھا ہو گیا تو مجھ پر اللہ کے واسطے ایک بکری ذبح کرنی واجب ہے تو ذبح کرنی واجب ہوگی ایک نے کہا کہ اگر میں نے اپنے اس المال سے تجارت کی اور وہ ہزار درہم ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں نفع دیا تو میں اللہ تعالیٰ کے واسطے حج کرنے کے لئے جاؤں گا پھر اس نے تجارت کی اور اس کو کچھ بہت نہیں بڑھا تو مشائخ نے فرمایا کہ اس نذر سے اس پر کچھ لازم نہ ہوگا اور ایک نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ اپنے قرابت داروں کی ضیافت کروں پھر حائث ہو تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا اور اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر کذا کذا کھانا دینا واجب ہے تو اس پر یہ لازم آجائے گا ایک نے کہا کہ میرا مال مساکین کو بہہ ہے تو یہ نہیں صحیح ہے الا آنکہ صدقہ کی نیت کرے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیوی موافق نصیب کی تو مجھ پر ہر جمعرات کا روزہ اللہ تعالیٰ کے واسطے واجب ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ موافق بیوی وہ ہے کہ جو اس کو نفقہ دے اس نفقہ پر راضی ہو اور جو تمتع اس سے چاہے اس میں اس کو دریغ نہ ہو یہ وجہ کروری میں ہے ایک شخص نے نذر کی کہ ایک دینار کو غنی لوگوں پر صدقہ کرے تو صحیح نہ ہونی چاہئے اور بعض نے فرمایا کہ اگر ابن السبیل کی نیت ہو تو صحیح ہے جو اہر اخلاطی میں ہے ایک نے نذر کی کہ اللہ کے واسطے مجھ پر مسکینوں کا کھانا ہے تو جتنے مسکین اور جس قدر کھانا اس کی نیت ہو اسی قدر واجب ہوگا اور اگر کچھ نیت نہ ہو تو دس مسکینوں کا کھانا ہے تو جتنے مسکین اور جس قدر کھانا اس میں ہے اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر مسکین کا کھانا ہے تو اتھمانا اس پر نصف صاع گےہوں یا ایک ساع چھوارے یا جو واجب ہو گا اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر دس مسکینوں کا کھانا اور مقدار طعام بیان نہ کی پھر اس نے پانچ مسکینوں کو کھلا دیا یہ نہیں جائز ہے اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر اس مسکین کو یہ طعام دینا واجب ہے پھر دوسرے مسکین کو یہ طعام دیا تو نذر ادا ہوگئی اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر اس مسکین کو کچھ چیز کھلانا واجب ہے یعنی چیز معین نہ کی تو ضرور ہے کہ اسی مسکین کو کھلائے اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر دس مسکینوں کا طعام واجب ہے حالانکہ اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ یہ تعداد دس فقیروں کو کھلاؤں بلکہ یہ نیت ہے کہ ایک کو

۱۔ قال المترجم: یہ اس وقت ہے کہ عبارت عربی صیام اس کی نیت میں ہوں اور اگر بلفظ اردو روزے ہوں تو ظاہر یہ ہے کہ اس پر دو روزے واجب ہوں گے واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲۔ ۲۔ یعنی غنی جس کا خرچہ و توشہ بعد میں ہوگا کہ فی الحال وہ مفلس ہے ۱۲۔

اس قدر دوں کہ جو دس کو کافی ہوتا ہے تو ایک کو دینا کافی ہے اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے کچھ کھانا دینا دس کو تو واجب ہے تو جائز ہوگا جب تک کہ دس کو نہ کھلا دے یہ سب منقہی میں مذکور ہے محیط میں ہے۔

اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر ایک نسخہ آزاد کرنا ہے پس ایک اندھا جاہر آزاد کیا تو نہیں جائز:

ایک نے ہزار مسکین پر صدقہ کرنے کی نذر کی پھر اس نے جو مقدار ہزار کو دینی اپنے اوپر واجب کر لی تھی وہ ایک ہی کو دے دے تو عہدہ سے نکل (۱) جائے گا یہ تارخانیہ میں حج سے منقول ہے اور اگر درہم معین صدقہ دینے کی نذر کی پھر دوسرا درہم نذر میں صدقہ دیا تو ادا ہوگئی یہ فتح القدر میں ہے اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کے رقبہ کو آزاد کروں اور وہ اس کی ملک میں ہے تو اس پر واجب ہے کہ نذر اسی طرح وفا کرے اور اگر وفانہ کی تو گنہگار ہوگا مگر قاضی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس پر جبر کرے یہ خلاصہ میں ہے منقہی میں ہے کہ اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر ایک نسخہ آزاد کرنا ہے پس ایک اندھا جاہر آزاد کیا تو نہیں جائز ہے اور اگر کہا اللہ میں ایک نسخہ آزاد کروں گا پس اندھا آزاد کیا تو قسم پوری ہوگئی یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے ایک جزو ذبح (اونٹ زیادہ) کروں اور اس کا گوشت صدقہ کر دوں پس بجائے اس کے سات بکریاں ذبح کر دیں تو جائز ہے یہ خلاصہ میں ہے شیخ عبدالعزیز بن احمد حلوانی سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر میں نے ایک رکعت نماز پڑھی تو مجھ پر اللہ کے واسطے واجب ہوا کہ ایک درہم صدقہ کروں اور اگر میں نے دو رکعت نماز پڑھی تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ دو درہم صدقہ کروں اور اگر میں نے تین رکعت نماز پڑھی تو اللہ کے واسطے مجھ پر تین درہم صدقہ کرنا واجب ہے اور اگر چار رکعتیں پڑھیں تو اللہ کے واسطے مجھ پر چار درہم صدقہ کرنے واجب ہیں پھر اس نے چار رکعتیں پڑھیں تو فرمایا کہ اس پر دس درہم صدقہ کرنے واجب ہیں۔

اور عیسیٰ بن ابان اپنے نوادر میں اور ابن سماعہ نے وصایا میں امام محمد سے روایت ذکر کی ہے کہ ایک نے اپنے غلام معین کے آزاد کرنے کی نذر کی اور اس کو فروخت کیا پس اگر اس کے خرید لینے پر قادر ہو تو اس پر واجب ہوگا کہ اس کو خرید کر کے آزاد کر دے اور اگر اس کے خریدنے پر قادر نہ ہو اور اس سے اس معین کا آزاد کرنا ممکن نہ ہو تو اس پر کچھ نہیں واجب ہے مگر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اگر اس کی قیمت یا ثمن صدقہ کر دیا تو کافی نہ ہو اور امام محمد نے جامع میں فرمایا کہ اگر کسی نے عربی زبان میں کہا کہ ان کان مافی یدی دراهم الا ثلثة فجمیع مافی یدی صدقہ فی المساکین یعنی جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اگر درہم ہوں الا تین تو سب جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے وہ مسکینوں کو صدقہ ہے لینے سوائے تین کے اگر درہم رہیں تو سب صدقہ ہیں پھر دیکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں کل پانچ درہم یا چار درہم ہیں تو اس پر کچھ صدقہ کرنا لازم نہ آئے گا اور اگر چھ درہم یا زیادہ ہوں تو اس پر سب کا صدقہ کرنا لازم ہوگا اور اگر کہا کہ ان کان فی یدی من الدراهم الا ثلثة فجمیع مافی یدی صدقہ فی المساکین یعنی اگر میرے ہاتھ میں درہموں سے ہوں الا تین تو اب جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے مسکینوں پر صدقہ ہے پھر اس کے ہاتھ میں پانچ یا چار

۱۔ قال المترجم اس کی یہ وجہ ہے کہ چار رکعت میں ایک رکعت اور دو رکعت اور تین رکعت بھی داخل ہیں تو سب کا مجموعہ دس درہم ہوئے لیکن یہ شخص قیاس ہے اور عرف شائع یہ تھا کہ فقط چار درہم لازم آئیں کیونکہ عرف میں یہی مطلب ہوتا ہے کہ اگر فقط ایک رکعت ہو تو ایک درہم و علی ہذا تو یہاں چار رکعت کے سوائے کچھ واجب نہ ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم۔

۲۔ قال المترجم اگر اردو زبان میں کہا ہو یا فارسی میں تو پانچ ہونے کی صورت میں بھی اس پر کل صدقہ کرنا واجب ہوگا اور چار میں نہیں ۱۲۔

(۱) کافی ہو گیا۔

درہم نکلے تو اس پر سب کا صدقہ کرنا لازم ہوگا اور اگر کہا کہ ان کان مافی یدی من الدراہم الاثلاثہ فجمیع مانی یدی فی المساکین یعنی جو کچھ میرے ہاتھ میں اگر درہموں سے والاتین وہ سب مسکینوں پر صدقہ ہیں پھر اس کے ہاتھ میں پانچ یا چار نکلے تو اس پر کچھ صدقہ کرنا واجب نہیں ہے اور اگر کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں اکثر تین درہم سے ہوں تو یہ مسکینوں کو صدقہ ہیں پس اس کے ہاتھ میں پانچ یا چار درہم نکلے تو سب صدقہ کرنے واجب ہوں گے یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ ہر دانہ کہ تخم ریزی کی میں نے یا دریا میں پھینک دیا وہ صدقہ ہے پس جو بویا ہے اگر بونے کے روز وہ اس کی ملک تھا تو نذر صحیح ہوگی اور اس کے مثل دانہ یا اس کی قیمت صدقہ کر دے گا بخلاف اس کے اگر کہا کہ ہر کپڑا جب کہ میں نے جلایا وہ صدقہ ہے تو ایسا حکم نہ ہوگا اس واسطے کہ جلانے سے وہ باقی نہیں رہا ہے اور اگر میں نے یہ غلام اپنا اجرت پر دیا تو اس کی اجرت صدقہ ہے پھر اس کی اجرت خود کھالی تو اس کے مثل صدقہ کر دے اور اس میں حیلہ یہ ہے کہ اس غلام کو فروخت کر دے پھر بحکم مشتری اس کو اجرت پر دے دے پس قسم منحل ہو جائے گی پھر اس کو خرید لے پھر اپنے آپ اجرت پر دے تو اس پر کچھ لازم نہ ہوگا اور اسی طرح اگر کہا کہ اگر میں نے تیرے گھر میں یہ کپڑا پہنا یا کہا کہ جب تیرے پاس ہوں یہ کپڑا پہنا یا یہ زیور پہنا تو یہ ہدیہ ہے تو اس میں حیلہ یہ ہے کہ اس کو ہبہ کر دے پھر پہنے پس قسم منحل ہو جائے گی پھر اپنے ہبہ سے رجوع کر لے یہ عتابیہ میں ہے۔

امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نے کہا کہ اگر میں نے اپنا یہ غلام فروخت کیا تو اس کی قیمت مسکینوں پر صدقہ ہے پھر اس کو فروخت کیا اور مشتری نے غلام میں کوئی عیب پا کر بائع کو واپس کر دیا اور یہ امر قبل باہمی قبضہ کے واقع ہوا تو بائع پر اس کا صدقہ کرنا واجب نہیں ہے اور اگر دونوں نے باہم قبضہ کر لیا ہو پھر مشتری نے غلام کو بسبب عیب کے واپس کر دیا اور ثمن درہم یا دینار ہیں تو بائع پر اس کے مثل صدقہ کرنے واجب ہوں گے اور اگر ثمن کوئی اسباب ہو پس اگر مشتری نے بحکم قاضی واپس کیا ہو تو بائع پر کچھ صدقہ واجب نہ ہوگا اور اگر بغیر حکم قاضی واپس کیا ہو تو اس کی قیمت صدقہ کرے گا اور اگر مشتری نے غلام پر قبضہ کر لیا مگر ثمن اس کو نہیں دیا یہاں تک کہ غلام مذکور بسبب کے بحکم قاضی واپس کیا تو بائع پر کچھ صدقہ کرنا واجب نہیں ہے خواہ ثمن درہم و دینار عروض کسی جنس سے ہو اور اگر رد کر دینا بغیر حکم قاضی واقع ہوا ہے تو اس کے مثل صدقہ کر دے اور اگر بائع نے ثمن پر قبضہ کر لیا اور ثمن اسباب ہے اور مشتری کو غلام نہیں سپرد کیا یہاں تک کہ غلام اس کے پاس ہلاک ہو گیا تو ثمن مشتری کو واپس کر دے اور کچھ صدقہ کرنا اس پر واجب نہیں ہے اور اگر ثمن اس صورت میں درہم و دینار ہوں تو اس کے مثل صدقہ کر دے اور اگر غلام مذکور قبل قبضہ کے یا بعد قبضہ کے استحقاق میں لے لیا گیا یعنی کسی نے اپنا استحقاق ثابت کر کے لے لیا تو بعینہ ثمن کو واپس کر دے خواہ کسی جنس سے ہو اور اس پر واجب نہیں ہے کہ کچھ صدقہ کرے۔ اگر غلام معین کفارہ سے آزاد کرنے کی نذر کی پھر کفارہ کھانا دے کر ادا کر دیا تو نذر باطل ہوگئی اور اسی طرح اگر نذر کی کہ یہ بدنہ (اونٹ نہ ہوگا) بعوض جزائے صید کے جو اس پر واجب ہے ہدیہ بھیجوں گا پھر روزے رکھ لئے یا کھانا دے دیا تو نذر باطل ہوگئی اور اسی طرح اگر نذر کی کہ یہ کپڑے کفارہ میں دے دوں گا پھر کھانا دے دیا تو نذر باطل ہوگئی اور اگر اناج کفارہ میں دیا مگر اناج (صورت ہائے مذکورہ میں) اس کی قیمت کو نہیں پہنچتا ہے تو بقدر زیادتی کے صدقہ کر دے یہ محیط میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں نے ان درہموں کے عوض تیرے ہاتھ کچھ فروخت کیا اس گھر (ایک لڑکیوں) کے عوض کچھ فروخت کیا تو یہ دونوں صدقہ ہیں پھر ان کے عوض کچھ فروخت کیا تو گھر کو صدقہ کر دے جبکہ قبضہ کرے اور درہموں کا صدقہ کرنا اس پر واجب نہیں

۱۔ اگر درہم یا فاری میں کہا ہو تو سب صدقہ کرنے واجب ہوں گے بشرطیکہ اس کے ہاتھ میں پانچ درہم ہوں ۱۲۔ ۲۔ منحل یعنی اتر جائے گی ۱۲۔

۳۔ یعنی حالت احرام میں کوئی شکار کیا ۱۲۔

ہے اس واسطے کہ ان درہموں کا سبب ملک بیع نہیں ہے الا اس صورت میں کہ یہ درہم بائع کے ہاتھ میں ہوں کہ بلفظ بیع ان کا مالک ہو گیا تو ان کا صدقہ کرنا بھی واجب ہوگا اور اگر کہا کہ اگر میں نے ان درہموں کے عوض کچھ خرید لیا یا میں نے تجھے یہ درہم بہہ کئے تو صدقہ ہیں پھر ان درہموں کے عوض کچھ خرید لیا بہہ کئے درحالیکہ اس کے ہاتھ میں تھے تو اس پر ان کا صدقہ کرنا واجب ہوگا اور اگر سپرد کردیئے ہوں تو ان کے مثل صدقہ کرنا واجب ہوگا اس واسطے کہ وقت حائث ہونے کے اس کے قبضہ ملک میں تھے حتیٰ کہ اگر وقت خرید کے بائع کے ہاتھ میں ہوں یا وقت بہہ کے موبوب کے ہاتھ میں ہوں تو اس پر کچھ لازم نہ ہوگا یہ عتابیہ میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے یہ غلام بعوض اُس گُر کے اور بعوض ان ہزار درہم کے خرید کیا تو یہ دونوں مساکین پر صدقہ ہیں پھر ان دونوں کے عوض غلام خرید تو اس پر ہزار درہم کا صدقہ کرنا واجب ہوگا اور گُر کا صدقہ واجب نہ ہوگا اور منقہی میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے چاہا کہ ایک غلام کسی شخص سے ہزار درہم کو خریدے پس ہزار درہم مالک غلام کو دے دے پھر اس طرح قسم کھائی کہ اگر میں نے یہ غلام ان ہزار درہموں کے عوض خریدا اور انہیں ہزار درہم دیئے ہوئے کی طرف اشارہ کیا تو یہ ہزار درہم مسکینوں پر صدقہ ہیں اور مالک غلام نے کہا کہ اگر میں نے یہ غلام ان درہموں کے عوض فروخت کیا تو یہ درہم مسکینوں پر صدقہ ہیں اور اس نے بھی انہیں درہموں کی طرف اشارہ کیا پھر مالک غلام نے انہیں درہموں کے عوض غلام مذکور کو فروخت کیا تو بائع پر واجب ہے کہ ان درہموں کو صدقہ کرے نہ مشتری پر یہ محیط میں ہے۔

باب : ۳

دُخول و سکنی وغیرہ پر قسم کھانے کے بیان میں

اصل یہ ہے کہ قسموں میں جو الفاظ مستعمل ہوں ہمارے نزدیک ان کا مدار عرف پر ہے یہ کافی میں ہے۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ بیت میں داخل نہ ہوں گا قال المترجم بیت وہ ہے جہاں شب باشی کی عادت ہو پھر وہ شخص مسجد یا بیعہ یا کینہ یا آتش خانہ یا کعبہ یا حمام یا دہلیز یا قلعہ دروازہ میں داخل ہوا تو حائث نہ ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ دہلیز میں جو حکم مذکور ہوا وہ ایسی دہلیز کے حق میں ہے جو دروازہ سے خارج ہوا اور اگر داخل دروازہ ہو اور وہاں شب باشی ہو سکتی ہو تو حائث ہو جائے گا اور صحیح وہی ہے جو کتاب میں مطلقاً مذکور ہے اس واسطے کہ دہلیز میں سونے کی عادت نہیں ہے اگرچہ ممکن ہو خواہ وہ خارج درہو یا داخل ہو یہ بدائع میں ہے۔ اگر صفہ میں داخل ہوا تو حائث ہو جائے گا اور بعض نے کہا کہ یہ اس وقت ہے کہ نصف چہار دیواری کا ہو جیسے امامون رحمہ اللہ کے وقت میں صفہ ہوتے تھے اور بعض نے کہا کہ یہ جواب غلے الاطلاق ہے اور یہی صحیح ہے یہ ہدایہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس مسجد میں داخل نہ ہوگا پھر وہ مسجد منہدم ہو گئی اور وہاں گھر بنایا گیا پھر گھر توڑا کر مسجد بنائی گئی پھر وہ داخل ہوا تو حائث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر قسم کھائی کہ اس مسجد میں داخل نہ ہوگا پھر بعد اس کے منہدم ہو جانے یا بعد وہاں دوسرے مسجد بنائی جانے کے داخل ہوا تو حائث ہو جائے گا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ اس مسجد میں داخل نہ ہوں گا پھر اس میں پڑوس کے گھر سے ایک ٹکڑا بڑھایا گیا پس وہ اس بڑھائی ہوئی زمین میں داخل ہوا تو حائث نہ ہوگا:

اگر قسم کھائی کہ پڑوسی کے گھر میں اس دار میں داخل نہ ہوگا پھر اس دار میں اور بڑھایا گیا یعنی دوسرے دار کی زمین بڑھائی

گئی اور وہ بڑھتی ہوئی زمین میں داخل ہوا تو حائل ہو جائے گا اور بعض نے فرمایا کہ نہیں حائل نہ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ پڑوسی کے گھر میں داخل نہ ہوگا تو ایسی صورت میں بالاجماع حائل ہو جائے گا اور اگر قسم کھائی کہ مسجد میں داخل نہ ہوگا پھر اس مسجد میں اور بڑھائی گئی اور بڑھائی ہوئی میں داخل ہوا تو حائل ہو جائے گا یہ عتابیہ میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ اس مسجد میں داخل نہ ہوں گا پھر اس میں پڑوس کے گھر سے ایک ٹکڑا بڑھایا گیا پس وہ اس بڑھائی ہوئی زمین میں داخل ہوا تو حائل نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں قوم کی مسجد میں داخل نہ ہوں گا پھر ایسی صورت مذکورہ میں بڑھائے ہوئے ٹکڑے میں داخل ہوا تو حائل ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کہا کہ اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھر اس میں زمین بڑھائی گئی اور وہ بڑھتی میں داخل ہوا تو حائل نہ ہوگا اور اگر کہا کہ دار فلاں میں داخل نہ ہوں گا پھر زمین بڑھائی گئی اور وہ بڑھتی میں داخل ہوا تو حائل ہو جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان و ظہیر یہ میں ہے اور ایک نے قسم کھائی کہ مسجد میں داخل نہ ہوں گا پھر اس کی چھت پر کھڑا ہوا تو مختار یہ ہے کہ اس پر کھڑے ہونے سے حائل نہ ہوگا بشرطیکہ قسم کھانے والا عجمی ہو اور اسی پر فتویٰ ہے یہ جو اہر اخلاطی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھر اس کے منہدم اور میدان ہو جانے کے بعد داخل ہوا تو حائل ہو جائے گا اور اگر قسم کھائی کہ اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھر وہ خراب ہو گیا اور وہاں دوسرا دار بنایا گیا پھر اس میں داخل ہوا تو حائل ہو جائے گا اور اگر وہ مسجد یا بستان یا حمام گردانا گیا یا بیت کر دیا گیا پھر داخل ہوا تو حائل نہ ہوگا اور اسی طرح بعد حمام وغیرہ کے منہدم ہو جانے کے داخل ہوا تو بھی یہی حکم ہے یہ ہدایہ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ دار میں داخل نہ ہوں گا پھر ایک منہدم شدہ دار میں داخل ہوا تو حائل نہ ہوگا اور اگر دار کا مسجد یا حمام یا بستان بنایا گیا پھر اس میں داخل ہوا تو بھی حائل نہ ہوگا اور اگر دار صغیر تھا کہ اس کو بیت کیا یا راستہ اس کا شارع عام کی طرف نکال دیا یا کسی دوسرے دار کی طرف نکال دیا یا بعد بستان کرنے کے اس کو دار دیگر بنایا یا وہ بحر یا نہر ہو گیا پھر داخل ہوا تو بھی حائل نہ ہوگا اور یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس بیت میں داخل نہ ہوں گا یا بیت میں داخل نہ ہوں گا پھر ایک بیت یا بیت معین کے منہدم ہو جانے کے بعد جب کہ اس میں کوئی عمارت نہ تھی داخل ہوا تو حائل نہ ہوگا اور اگر دوسرا بیت کر دیا گیا پھر وہ داخل ہوا تو بیت معین میں داخل نہ ہونے کی قسم کی صورت میں حائل نہ ہوگا اور غیر معین کی صورت میں حائل ہو جائے گا اور اگر چھت گر گئی اور دیواریں قائم ہیں پھر داخل ہوا تو معین کی صورت میں حائل نہ ہوگا اور غیر معین کی صورت میں حائل نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے۔ ایک شخص نے قسم کھائی کہ اس دار میں داخل نہ ہوگا پھر سوار ہو کر یا پادوہ اس میں داخل ہوا یا اس نے کسی کو حکم دیا کہ وہ لا دکر اس کو اس دار میں لے گیا تو حائل ہو جائے گا یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر وہ جانور جس پر سوار تھا بدک گیا اور اس کے روکے سے نہ رکا حتیٰ کہ اس دار میں داخل ہو گیا تو یہ حائل نہ ہوگا اور یہ محیط میں ہے اور اگر بدون اس کے حکم کے کوئی اس کو لا دکر اندر لے گیا تو حائل نہ ہوگا خواہ اس امر سے دل سے راضی ہو یا نہ راضی ہو اور خواہ اس کی امتناع پر قادر ہو یا نہ ہو یہ عامہ مشائخ کے نزدیک ہے اور یہی صحیح ہے اور خواہ اس کو اس دار کے دروازہ سے لے گیا ہو یا اور طرف سے یہ بدائع میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس دار میں داخل نہ ہوگا پھر اس کی دیواروں میں سے کسی دیوار پر کھڑا ہوا تو اپنی قسم میں حائل ہو جائے گا اور اسی طرح اگر اس کی چھت پر کھڑا ہوا تو بھی یہی حکم ہے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ یہ حکم اماموں رحمہم اللہ کے عرف کے موافق ہے اور ہمارے عرف میں چھت پر چڑھنے یا دیوار پر چڑھنے کو دخول دار نہیں کہتے ہیں پس حائل نہ ہوگا کہ مگر وہی صحیح ہے جو کتاب میں مذکور (یعنی اول قول ۱۲) ہوا ہے یہ شرح جامع صغیر

۱۔ ظاہر امراد یہ ہے کہ یہ واقعہ عجم میں سوائے عرب کے واقع ہوا ہو اور نیز یہ شخص عربی نہ ہو اس واسطے کہ عرف عجم میں چھت کو مسجد نہیں کہتے ہیں پس مراد عرف سے عرف حالف ہے نہ عرف مقام ہے تقریر الکتاب فتل ۱۲۔ ۲۔ کیونکہ بیت چہار دیواری مع چھت دو دروازہ کو بیت کہتے ہیں اور معین جگہ کی قسم نہ تھی ۱۲۔

قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس دار میں داخل نہ ہوگا پھر اس کی چھت پر سے اترایا ایسے درخت پر چڑھا کہ اس کی شاخیں اس دار میں ہیں پس ایسی شاخ پر کھڑا ہوا کہ وہاں سے گرے تو اس دار میں گرے تو حائث ہو جائے گا اور اسی طرح اگر اس کی دیوار پر کھڑا ہوا تو بھی یہی حکم ہے شیخ ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ اگر یہ دیوار اس دار اور پڑوسی کے مکان میں مشترک ہو تو حائث نہ ہوگا اور یہ حکم اُس وقت ہے کہ قسم عربی زبان میں ہو اور اگر فارسی یا اردو میں قسم کھائی پھر ایسے درخت پر چڑھا کہ اس کی شاخیں اس دار میں یا اس کی دیوار پر کھڑا ہوا یا چھت پر چڑھا تو اپنی قسم میں حائث نہ ہوگا اور یہی مختار ہے اس واسطے کہ عجم میں اس کو دخول نہیں شمار کرتے ہیں یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

بالا خانہ کا راستہ اگر اپنے نیچے کے مکان سے نہ ہو بلکہ اس کا راستہ دوسرے دار میں سے ہو تو یہ بالا خانہ باعتبار راستہ کے دوسرے دار میں سے شمار ہوگا جس میں سے اس کا راستہ ہے۔ یہ محیط میں ہے۔ قال المترجم یہ ان کا عرف ہے اور ہماری زبان میں وہ جس دار میں سے حقیقتہً ہے اس میں شمار ہوگا فافہم 'واللہ اعلم اور اگر طاق دروازہ میں بیٹھا یا کھڑا ہو اب اس حالت کہ اگر دروازہ بند کر لیا جائے تو یہ دار سے باہر رہ جائے تو حائث نہ ہوگا یہ کافی میں ہے۔ اگر اس دار کے پانچخانہ سر راہ یا ظلمہ سر راہ میں گیا حالانکہ پانچخانہ و چھت کا راستہ اسی دار سے ہے تو حائث ہو جائے گا اور اگر طاق دروازہ کے نیچے دروازہ کی چوکھٹ پر کھڑا ہو پس اگر چوکھٹ ایسی ہو کہ اگر دروازہ بند کر لیا جائے تو باہر رہ جائے تو حائث نہ ہوگا اور اگر دروازہ بند کرنے سے اندر داخل رہے تو حائث ہو جائے گا اور اگر اپنے دونوں پاؤں میں سے ایک اندر داخل کیا تو حائث نہ ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہے کہ دار کا داخل و خارج برابر سطح ہو اور اگر داخل کی طرف نیچا ہو اور اس نے اپنا ایک پاؤں اندر داخل کیا تو حائث ہو جائے گا اس واسطے کہ ایسی صورت میں اکثر جزو اس کا اندر داخل شدہ ہو جائے گا اور شیخ امام شمس الائمہ سرخسی نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ وہ حائث نہیں ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور یہ حکم اس وقت ہے کہ وہ کھڑے کھڑے داخل ہو اور اگر وہ لیٹ کر داخل ہو خواہ چت یا پیٹ یا کروٹ اور دھنگ کر کچھ اندر داخل ہو پس اگر اس کا اکثر بدن دار میں داخل ہو گیا ہو تو وہ داخل ہونے والا ہو گیا اگر چہ اس کی پنڈلیاں باہر ہوں ایسا ہی امام محمد سے مروی ہے اور اگر اپنا سر داخل کر دیا اور دونوں پاؤں داخل نہ کئے تو حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر خالی ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز لے لی تو بھی یہی حکم ہے۔ یہ محیط میں ہے۔

اگر اپنا سر اور ایک قدم داخل کیا تو حائث ہو جائے گا اور اگر اس دار کے دروازے کی طرف دوڑتا ہوا چلا آیا اور ٹھوکر کھا کر پھسل کر اس دار میں داخل ہو گیا تو اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ وہ حائث نہ ہوگا اور اگر ہوا کے جھکورے نے اس کو پھینکا کہ وہ اس دار میں جا پڑا تو اس میں بھی اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ وہ حائث نہ ہوگا بشرطیکہ رک نہ سکا ہو اور اگر کسی آدمی نے اس کو زبردستی مکان مذکور میں داخل کر دیا پس وہ اس میں سے نکل آیا پھر خود اپنی خوشی سے اس میں داخل ہوا تو اس میں بھی اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ وہ حائث ہو جائے گا یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا الا راہ گذر (یعنی اس سے گزر جانے کے طور پر ۱۲) کے طور پر تو ابن سماعہ نے کہا کہ امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اگر وہ اس میں داخل ہو اور حالانکہ اس کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے پھر بعد اس طرح داخل ہونے کے اس کی رائے میں ایسا امر ظاہر ہوا کہ وہاں بیٹھنا چاہیے پس بیٹھ گیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر اس دار میں کسی مریض کی عیادت کے واسطے داخل ہو اور حالت ایسی ہے کہ اس عیادت میں اس کو بیٹھنا چاہئے ہے تو حائث ہو جائے گا (اگر بیٹھ گیا) اور اگر اس ارادہ سے داخل ہوا کہ بیٹھوں گا نہیں پھر اس کی رائے میں یہ مصلحت ظاہر ہوئی ہے کہ بیٹھے پس بیٹھ گیا تو حائث نہ ہوگا اور اصل میں مذکور ہے کہ اگر قسم کھائی کہ اس دار میں داخل نہ ہوگا الا بطور یہ گذر کے پھر اس میں بیٹھنے کی نیت سے

یا اس میں کسی مریض کی عیادت کی نیت سے یا اس میں کھانا کھانے کی نیت سے داخل ہوا اور وقت قسم کھانے کے اس کی کچھ نیت نہ تھی تو حائث ہو جائے گا لیکن اگر اس میں راہ روی کے طور پر داخل ہوا اور بعد داخل ہونے کے اس کی رائے میں کسی طور سے بیٹھنا مصلحت معلوم ہوا تو بیٹھنے سے حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ راہ رودہ ہے کہ وہاں سے گذر جانے کی نیت سے داخل ہو پس یہ نیت مذکورہ داخل ہونے سے حائث نہ ہوگا ہاں بغیر اس نیت کے اگر داخل ہو تو حائث ہو جائے گا پھر فرمایا کہ اگر وقت قسم کھانے کے داخل ہونے سے اس کی نیت یہ ہو کہ اس میں نہ ہوگا یعنی سکونت و نزول نہ کروں گا تو ایسی صورت میں اس کو ان سب امور مذکورہ بالا کی گنجائش ہے اور حائث نہ ہوں گا۔ یہ بدائع میں ہے۔

اگر کسی مرد نے کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوں الا آنکہ میں بھول جاؤں تو میرا غلام آزاد ہے پس بھولے سے اس دار میں داخل ہوا پھر یاد کے ساتھ اس میں داخل ہوا تو حائث نہ ہوگا:

اگر قسم کھائی کہ اس دار کے دروازہ سے داخل نہ ہوں گا پس غیر دروازہ سے اس میں داخل ہوا تو حائث نہ ہوگا اور اگر دوسرا دروازہ پھوڑا اس میں سے داخل ہوا تو حائث ہو جائے گا اور اگر قسم میں اسی دروازہ کی تعیین کر دی ہو تو دوسرے دروازہ سے داخل ہونے سے حائث نہ ہوگا اور یہ ظاہر ہے اور اگر لفظ میں اس کی تعیین نہ کی ہو لیکن دل میں نیت یہی ہو تو قضاء اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ میں اس دار میں یا دار فلاں میں داخل نہ ہوں گا پھر اس دار کے نیچے سرداب کھودا اور اس میں داخل ہوا یا نیچے کاریز ہے جس میں داخل ہوا تو حائث نہ ہوگا اور اگر کاریز میں سے کوئی جگہ دار میں کھلی ہوئی ہو پس اگر زیادہ کھلی ہو یعنی اس قدر ہو کہ اہل دار اس کاریز سے اس قدر کشادگی سے انتفاع حاصل کرتے ہوں یعنی پانی لیتے ہوں تو جب اس مقام پر پہنچے گا تو حائث ہو جائے گا اور اگر کم ہو خفیف کہ اہل دار کو اس سے کچھ انتفاع حاصل نہ ہوتا ہو یہ فقط کاریز کی روشنی کے واسطے ہو تو حائث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔ اگر کسی مرد نے کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوں الا آنکہ میں بھول جاؤں تو میرا غلام آزاد ہے پس بھولے سے اس دار میں داخل ہوا پھر یاد کے ساتھ اس میں داخل ہوا تو حائث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس دار میں داخل ہوں الا بھولے سے تو میرا غلام آزاد ہے تو یاد کے ساتھ داخل ہونے پر حائث ہو جائے گا یہ بدائع میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس دار میں داخل نہ ہوں گا حالانکہ وہ اس میں موجود ہے پھر کئی روز اس میں رہا تو استحساناً حائث نہ ہوگا یہاں تک کہ اس میں سے نکل کر پھر داخل ہو۔ یہ کافی میں ہے۔

ابن سماعہ نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں اس دار میں کوئی بار داخل ہوں الا آنکہ مجھے فلاں حکم کرے پس فلاں نے اس کو ایک بار حکم کر دیا پس اگر وہ اس بار کے حکم سے داخل ہوا تو حائث نہ ہوگا اور نیز بعد اس کے اگر بلا حکم بھی داخل ہوا تو حائث نہ ہوگا اور اس کی قسم ساقط ہوگئی اور اگر کہا کہ میں اس دار میں کوئی بار داخل ہوا الا بجکم فلاں تو میرا غلام آزاد ہے پھر فلاں نے اس کو ایک بار داخل ہونے کا حکم دے دیا پھر دوسرے بار بغیر حکم فلاں داخل ہوا تو حائث ہو جائے گا اور اس صورت میں ہر بار اجازت ضروری ہے یہ بدائع میں ہے اور شرح کرنی میں مذکور ہے کہ ابن سماعہ نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ واللہ تیرے اس دار میں آج کوئی داخل نہ ہوگا تو یہ قسم سوائے مالک مکان کے اوروں پر ہوگی چنانچہ اگر مالک مکان خود داخل ہوا تو قسم کھانے والا حائث نہ ہوگا اور اگر سوائے اس کے دوسرا گیا تو حائث ہو جائے گا اور اگر خود قسم کھانے والا گیا تو بھی حائث ہو جائے گا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس دار کو اپنے قدموں

سے طے نہ کروں گا پھر سوار ہو کر اس میں گیا تو حانث ہو جائے گا اور اگر قسم کھائی کہ اس دار میں اپنا قدم نہ رکھوں گا پھر اس میں سوار ہو کر داخل ہو تو حانث ہو جائے گا اور اگر اس نے یہ نیت کی کہ حقیقت میں قدم نہ رکھوں گا یعنی پیدل تو اس کی نیت پر ہوگا اور اسی طرح اگر اس میں جوتا پہن کر یا بغیر جوتا پہنے تو بھی یہی حکم ہے اور یہ بدائع میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اگر میں دار فلاں میں قدم رکھوں تو میرا غلام آزاد ہے پس اس نے اپنے ایک پاؤں کو اس میں داخل کیا تو ظاہر الروایت کے موافق حانث نہ ہوگا۔ یہ محیط میں ہے۔ قال المترجم ہمارے عرف میں حانث ہونا چاہئے واللہ اعلم الا آنکہ روایت کتاب میں یوں ہو کہ اگر میں اپنے دونوں قدم اس میں رکھوں اے آخرہ تو ایسا نہ ہوگا فافہم۔ ایک شخص نے قسم کھائی کہ محلہ فلاں میں داخل نہ ہوں گا پھر وہ ایسے دار میں داخل ہوا کہ اس کے دو دروازے ہیں جس میں سے ایک اس محلہ میں اور دوسرا دوسرے محلہ میں ہے تو اپنی قسم میں حانث ہوگا ایک شخص نے قسم کھائی کہ بلخ میں نہ جاؤں گا تو یہ قسم خاص شہر پر قرار دی جائے گی نہ اس کے گاؤں پر اور اگر قسم کھائی کہ مدینہ بلخ میں داخل نہ ہوں گا تو قسم شہر بلخ اور اس کے ربض (چراگاہ) پر ہوگی اس واسطے کہ ربض بھی مدینہ میں شمار ہوتا ہے اور اگر قسم کھانے والے نے خاصہ شہر کی نیت کی ہو تو اس کی نیت پر رکھا جائے گا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں گاؤں میں نہ جاؤں گا پھر اس گاؤں کی زمین میں گیا تو حانث نہ ہوگا اور قسم مذکور اس گاؤں کی آبادی پر قرار دی جائے گی اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں بلد میں نہ جاؤں گا تو یہ قسم خاص اس کی آبادی پر قرار دی جائے گی اس واسطے کہ بلد اسی قدر کا نام ہے جو ربض کے اندر ہے اور اگر قسم کھائی کہ بغداد میں داخل نہ ہوں گا تو اس کے ہر دو جانب میں سے جس جانب سے داخل ہوگا حانث ہو جائے گا اور اگر قسم کھائی کہ مدینہ السلام میں داخل نہ ہوگا تو حانث نہ ہوگا جب تک کہ ناحدیہ کوفہ سے داخل نہ ہو اس واسطے کہ نام بغداد شامل ہے ہر دو جانب کو اور مدینہ السلام ایسا نہیں ہے اور اگر قسم کھائی کہ رے میں داخل نہ ہوں گا تو شمس الائمہ سرخسی نے شرح اجارات میں ذکر کیا ہے کہ رے بنا بر ظاہر الروایت کے شہر اس کے نواح سب کو شامل ہے امام محمد نے فرمایا کہ سمرقند و اوزجند خاص مدینہ کے نام ہیں (یعنی شہر ربض) اور سغد و فرغانہ و فارس یہ شہروں مع نواح کے دیہات سب کو شامل ہیں۔ اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ فرات میں داخل نہ ہوں گا پس کشتی میں سوار ہو کر فرات سے گذرایا فرات کے پل سے گذرا تو حانث نہ ہوگا جب تک کہ خاص پانی کے اندر داخل نہ ہو۔ یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ بصرہ میں داخل نہ ہوگا پھر اس کے کسی گاؤں میں گیا تو حانث ہو جائے گا اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ بغداد میں داخل نہ ہوگا پھر کشتی میں سوار ہو کر بغداد سے گذرا تو امام محمد نے فرمایا کہ حانث ہو جائے گا اور امام ابو یوسف نے کہا کہ حانث نہ ہوگا اور اسی پر فتویٰ ہے یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں پر گنہ یا فلاں دیہ میں داخل نہ ہوگا تو اس کی زمین میں جانے سے حانث ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ اگر لفظ کورہ کہا یعنی کورہ میں داخل نہ ہوگا تو کورہ بھی خالی آباد کا نام ہے پس اس کی زمین میں داخل ہونے سے حانث نہ ہوگا اور یہی اظہر ہے اور مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ بخارا آیا آبادی کا نام ہے یا شامل نواح ہے اور فتویٰ اس پر ہے کہ وہ فقط آبادی کا نام ہے اور شام سوہ ایک ولایت کا نام ہے اور ایسے ہی خراسان اور ایسا ہی ارینہ چنانچہ اگر ان میں سے کسی میں داخل نہ ہونے کی قسم کھائی تو ان میں سے کسی کے گاؤں (۱) میں داخل ہونے سے حانث ہو جائے گا اور اسی طرح ترکستان بھی ولایت کا نام ہے اور یہ محیط میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ اس کوچہ میں داخل نہ ہوگا پھر اس کوچہ کے کسی دار میں چھتوں کی راہ سے داخل ہو گیا اور کوچہ میں قدم نہ رکھا تو فقیہ ابو بکر اسکاف نے فرمایا کہ یہ حانث نہ ہونے سے اقرب ہے اور فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ

۱۔ مدینہ شہر و قصبہ ۱۲۔ ۲ مع نواح الغرض اگر وہ مقام عموماً نواح کو بھی شامل ہو تو قسم سب پر ہوگی ورنہ فقط شہر پر ہوگی ۱۲۔

(۲) زمین میں اگر آبادی نہ ہو ۱۲۔

یہ حانث ہو جانے سے قریب تر ہے اور الواجیہ میں کہا کہ اسی پر فتویٰ ہے اور ظہیر یہ میں لکھا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا جب کہ وہ کوچہ میں نہیں نکلا ہے یہ تا تاریخانیہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے کوچہ میں نہ جاؤں گا پھر وہ اس کوچہ کی مسجد میں داخل ہو گیا پدوں اس کے کہ اس کوچہ میں داخل ہو تو حانث نہ ہوگا اور یہی مختار ہے یہ خلاصہ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں کے دارمملوکہ میں داخل نہ ہوں گا پھر ایسے گھر میں داخل ہوا جس کو اس نے دوسرے کو کرایہ پر دے دیا ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ حانث ہو جائے گا:

اگر قسم کھائی کہ فلاں کے دار میں داخل نہ ہوگا اور کچھ نیت نہیں کی ہے پھر ایسے دار میں داخل ہوا جس میں فلاں مذکور کرایہ پر یا عاریتہ رہتا ہے تو نا طقی نے ذکر کیا ہے کہ وہ حانث ہو جائے گا اور اگر فلاں مذکور کے مملوکہ دار میں داخل ہوا حالانکہ فلاں اس میں نہیں رہتا ہے تو بھی حانث ہو جائے گا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے بیت میں داخل نہ ہوگا پھر ایسے بیت میں داخل ہوا کہ جس میں فلاں مذکور کرایہ پر یا عاریتہ رہتا ہے تو حانث ہو جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے دارمملوکہ میں داخل نہ ہوں گا پھر ایسے گھر میں داخل ہوا جس کو اس نے دوسرے کو کرایہ پر دے دیا ہے تو امام محمد نے فرمایا کہ وہ حانث ہو جائے گا اور اگر قسم سے کہا کہ فلاں کی دکان میں نہ جاؤں گا پھر اس کی ایسی دکان میں داخل ہوا جس کو اس نے دوسرے کو کرایہ پر دیا ہے پس اگر فلاں کی کوئی اور دکان ہو جس میں وہ خود رہتا ہو تو وہ جس دکان میں داخل ہوا ہے اس کے داخل ہونے سے حانث نہ ہوگا اور اگر فلاں مذکور دکان میں رہنے سے معروف نہ ہو تو حانث ہو جائے گا اس واسطے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسی صورت میں حانث نے فلاں کی دکان کہنے سے سکونت مراد نہیں لی ہے بلکہ ملکیت مراد لی ہے اور اگر قسم کھائی کہ میں فلاں کے دار میں نہ جاؤں گا پھر ایسے گھر میں گیا جو فلاں کے اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے پس اگر فلاں مذکور اس میں رہتا ہو تو حانث ہو جائے گا اور اگر نہ رہتا ہو تو حانث نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ بیت فلاں میں داخل نہ ہوں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے پھر اس کے دار کے صحن میں گیا تو حانث نہ ہوگا جب تک کہ بیت میں داخل نہ ہو اور مشائخ نے فرمایا کہ یہ عرف حضرات ائمہ رحمہم اللہ کے دیار کا ہے اور ہمارے عرف میں دار و بیت ایک ہی ہے پس جب صحن دار میں داخل ہوگا تو حانث ہو جائے گا اور اس پر فتویٰ ہے۔ قال المترجم اگر بیت کی تفسیر موافق اس کی تعریف کے ہماری زبان میں کوٹھری ہو اور دار گھر ہو تو ہمارا عرف بھی موافق عرف ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ ہوگا۔
والحمد لله على ذلك و هذا هو الاقرب عندی۔ واللہ اعلم۔

ایک شخص نے قسم کھائی کہ ایسے دار میں نہ جاؤں گا جس کو فلاں خرید لے پھر فلاں نے ایک دار خریدا اور حالف کے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا پھر حالف اس میں گیا تو حانث نہ ہوگا:

ایک شخص ایک منزل کے کسی بیت میں بیٹھا ہے اس واسطے کہ اس کے ماوراء کو دار و منزل کے نام سے بولتے ہیں قال المترجم هذا اذا لیم یکن فی المنزل بیت آخر و الا فلا ینتھض هذا الاستال فافہم اور یہ حکم اس وقت ہے کہ قسم بزبان عربی ہو اور اگر قسم بزبان فارسی ہو تو قسم اس منزل اور اس دار پر واقع ہوگی قال المترجم اور ہمارے عرف میں بنا بر تفسیر مذکورہ بالا حکم موافق زبان عربی ہے واللہ اعلم اور اگر اس نے کہا کہ میں نے یہی بیت جس میں بیٹھا تھا مراد لیا تھا یعنی فارسی زبان میں قسم کھا کر یہ دعویٰ کیا

استدلال میرے نزدیک یہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ یہ مکان تو اشارہ ہے اگر سوائے اس مکان کے جہاں بیٹھا ہے دوسرا بظرف راجع ہو تو ترجیح سے مرجع بلکہ مرجوع ہے پس مراد یہی جگہ ہے کیونکہ یہی امر صحیح ہے ۱۲۔

تو دینار اس کی تصدیق کی جائے گی نہ قضاء اس واسطے کہ فارسی میں لفظ خانہ نام کل کا ہے اور بیت کے واسطے اسم خاص ہوتا ہے جیسے تابخانہ وکاشانہ وزمستانی وغیرہ اور قال المتر جم و فیہ نظر فان تابخانہ وغیرہ ذلك مما من شأنه البیتوتہ ینبغی ان یکون بیتا لایخصوص اسمہ بل بالمعنی الذی ذکرنا وان کان لكل من ذلك اسم خاص ایضاً و ذلك لا یوجب عدم صدق العام علیہ فلیتامل اور یہ سب اس وقت ہے کہ اس نے کسی بیت معین کی طرف اشارہ نہ کیا اور اگر کسی بیت معین کی طرف اشارہ کیا ہو تو اعتبار اس کے اشارہ کا ہوگا اور ایک شخص نے قسم کھائی کہ ایسے دار میں نہ جاؤں گا جس کو فلاں خرید لے پھر فلاں نے ایک دار خرید اور حالف کے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا پھر حالف اس میں گیا تو حادث نہ ہوگا اور اگر فلاں نے دار خرید کر کے حالف کو بہہ کر دیا پھر حالف اس میں گیا تو حادث ہو جائے گا اس واسطے کہ خرید اول کا حکم دوسری خرید سے مرتفع ہو گیا اور بہہ سے مرتفع نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

قال المتر جم فاذا كانت البتہ بعوض ینبغی ان لا یحنت فانہما فی معنی البیع و فیہ مسامحة فافہم اور قسم کھائی کہ دار فلاں میں داخل نہ ہوں گا اور فلاں کا ایک دار ایسا ہے کہ اس میں رہا کرتا ہے اور دوسرا دار کرایہ پر چلتا ہے تو کرایہ والے گھر میں داخل ہونے سے حادث نہ ہوگا بشرطیکہ کوئی دلیل ایسی اس مقام پر نہ ہو کہ اس کی قسم کے عام معنی دونوں کو شامل ہونے پر دلالت کرتی ہو یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر یوں کہا کہ واللہ میں اس دار فلاں میں داخل نہ ہوں گا پھر فلاں مذکور نے یہ دار کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا پھر حالف اس میں داخل ہوا تو امام اعظم و امام ابو یوسف کے نزدیک حادث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور ایک عورت نے قسم کھائی کہ اس کا شوہر اس کے دار میں داخل نہ ہوگا پس اس نے اپنے دار کو فروخت کر دیا پھر اس کا شوہر اس دار میں آیا پس اگر اس نے یہ نیت کی تھی کہ ایسے دار میں داخل نہ ہوگا جس میں وہ رہتی ہو تو بیع کرنے سے قسم باطل نہ ہوگی اور اگر اس کی کچھ نیت نہ ہو تو قسم اس کے دار مملوکہ پر وارد ہوگی پھر جب اس نے بیع کر دیا تو قسم باقی نہ رہے گی یہ امام اعظم و امام ابو یوسف کا قول ہے۔ اگر قسم کھائی کہ زید کے دار میں داخل نہ ہوں گا پھر زید نے اپنا نصف دار فروخت کیا مگر زید اس میں رہتا ہے پس حالف داخل ہوا تو حادث ہو جائے گا اور اگر اس مکان کو بدل دیا ہو تو شیخین کے نزدیک داخل ہونے سے حادث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں کے دار میں داخل نہ ہوں گا پھر فلاں نے اپنا دار فروخت کر دیا اور خود اس مکان کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں چلا گیا پھر حالف مکان مذکور میں داخل ہوا تو حادث نہ ہوگا اور یہ شیخین کا قول ہے اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ اپنی بیوی کے گھر میں داخل نہ ہوں گا پس عورت نے اپنا گھر کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا پھر حالف نے اس کو مشتری سے کرایہ پر لے لیا پس اگر قسم کھالینا عورت کی طرف سے کسی بات پر ہو تو حادث نہ ہوگا اور اگر قسم بسبب کراہت اسی دار کے ہو تو حادث ہو جائے گا ایک شخص نے فارسی میں قسم کھائی کہ دو دار فلاں داخل نشو والا چیزی شگفت بور پھر اہل دار پر قتل یا ہدم یا آگ لگنے یا موت وغیرہ کی کوئی بلانازل ہوئی پس حالف داخل ہوا تو حادث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ دار زید میں داخل نہ ہوگا پس زید نے عمرو سے ایک دار مستعار لیا بدین غرض کہ اس میں طعام ولیمہ کر دے پھر حالف اس میں داخل ہوا تو حادث نہ ہوگا لیکن اگر عمرو اس دار کو خالی کر کے دوسرے مکان میں چلا گیا اور زید کے سپرد کر دیا کہ وہ اپنا اسباب اس میں لے آیا تو پھر حالف کے داخل ہونے سے حادث ہو جائے گا اور یہ محیط میں ہے۔ ابن رستم کہتے ہیں کہ امام محمد

۱۔ حامل نظر آنکہ لفظ خانہ جبکہ اعم ہے پس یہی گھر مراد لینا قضاء بھی ممکن ہے وجہ تامل یہ ہے کہ بدریہاں عرف پر ہے یہ بحث لغت پر پس عرف مراد لیا

جائے ۱۲۔ ۲۔ فلاں کے گھر میں نہ جاؤں گا اگر آنکہ کوئی عجیب بات پیش آئے ۱۲۔

نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایک شخص معین کے مشہور دار میں داخل نہ ہونے کی قسم کھائی مثلاً قسم کھائی کہ عمرو بن حریث کے دار میں داخل نہ ہوگا اور کسی دار میں جو ایسا ہی اپنے مالک کے نام سے مشہور ہے جیسے دار حسن بن الصباح وغیر ذلک پھر عمرو بن حریث نے یا حسن بن الصباح وغیرہ نے اس دار کو جو اس کے نام سے منسوب معروف ہے فروخت کر دیا پھر حالف اس دار میں داخل ہوا تو حائث ہو جائے گا قال المترجم توضیح آنکہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ فقیر محمد خان کے احاطہ میں یا کنواں کے محل میں داخل نہ ہوں گا پھر فقیر محمد خان نے اپنا احاطہ فروخت کر دیا یا کنواں نے یہ محل بیچ ڈالا پھر اس میں قسم کھانے والا داخل ہوا تو بھی حائث ہو جائے گا اس واسطے کہ ایسے مواضع میں فقیر محمد خان و کنواں وغیرہ کا ذکر فقط شناخت کے واسطے ہے اور منظور وہ جگہ ہے کہ وہاں داخل نہ ہوگا پس جب وہاں داخل ہوگا خواہ وہ فقیر محمد خان یا کنواں کے قبضہ و ملک میں ہو یا نہ ہو بہر حال حائث ہو جائے گا فافہم اور اگر ان داروں میں سے کسی ایسے دار پر قسم کھائی جو کسی نسبت سے معروف نہیں ہے یعنی فقیر محمد خان کا احاطہ کر کے معروف نہیں ہے اگر چہ وہ مکان جس کے اندر داخل نہ ہونے کی قسم کھائی ہے وہ فقیر محمد خان کے ملک ہو پھر فقیر محمد خان کی ملک سے نکل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو حائث نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ حمام میں سردھونے کے واسطے داخل نہ ہوں گا پھر حمام میں اس غرض سے نہیں بلکہ حمامی وغیرہ کو سلام کرنے کے واسطے داخل ہوا پھر وہاں سے اس نے سر بھی دھولیا تو حائث نہ ہوگا:

اگر ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں دار فلاں میں داخل نہ ہوں گا اور فلاں مذکور اپنے باپ کے ساتھ ایک کرایہ کے مکان میں رہتا ہے جس کو اس کے باپ نے کرایہ پر لیا ہے تو حالف اسی مکان میں داخل ہونے سے حائث ہو جائے گا قیاساً بریں کہ اگر قسم کھائی کہ فلاں کے دار میں داخل نہ ہوگا پھر اس فلاں مذکور کی بیوی کے گھر میں جس میں یہ فلاں مذکور بھی رہتا ہے داخل ہوا پس اگر اس شخص کا کوئی اور دار سوائے اس دار کے ایسا نہ ہو کہ جو اس کی طرف منسوب ہو یعنی رہنے و ملک وغیرہ کی اضافت سے منسوب ہو تو حائث ہو جائے گا اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں عورت کے دار میں داخل نہ ہوں گا پھر ایسے دار میں داخل ہوا کہ وہ اس عورت کے شوہر کا ہے اور یہ عورت بھی اس میں رہتی ہے پس اگر اس عورت کا اور کوئی مکان نہ ہو تو حائث ہوگا اگر دوسرا مکان ہو تو حائث نہ ہوگا اور یہ خلاصہ میں ہے۔ نو اور میں امام ابو یوسفؒ سے روایت ہے کہ اگر قسم کھائی کہ دار فلاں میں داخل نہ ہوں گا پھر اس فلاں کے دار کی ایک دکان میں جس کا دروازہ شارع عام پر ہے داخل ہوا حالانکہ اس دکان کا کوئی دروازہ اس دار میں نہیں ہے تو اپنی قسم میں حائث ہوگا ایک نے قسم کھائی کہ حمام میں سردھونے کے واسطے داخل نہ ہوں گا پھر حمام میں اس غرض سے نہیں بلکہ حمامی وغیرہ کو سلام کرنے کے واسطے داخل ہوا پھر وہاں اس نے سر بھی دھولیا تو حائث نہ ہوگا اور بعضی مشائخ سے روایت ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ حمام میں داخل نہ ہوگا پھر بیت السلخ^(۱) میں داخل ہوا تو قسم میں حائث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور ایک مرد کا ایک دار (احاطہ) ہے اس میں بستان ہے پس زید نے قسم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھر اس دار کے بستان میں داخل ہوا اور اس بستان کا دروازہ اسی دار کے گھروں کی طرف ہے اور کوئی دروازہ نہیں ہے اور ایک ہی چہار دیواری اس دار و بستان کو محیط ہے تو امام محمدؒ نے فرمایا کہ بستان میں داخل ہونے سے زید حائث نہ ہوگا خواہ بستان اس دار سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو اور اگر یہ بستان

۱۔ عمرو بن حریث و حسن بن الصباح کے نام سے دو مکان وہاں مشہور ہیں ۱۲۔

(۱) جہاں کپڑے اتارتے ہیں ۱۲۔

وسط دار میں واقع ہو اور اس کے گرد اگر دار کے بیوت ہوں تو بستان میں داخل ہونے سے حائث ہو جائے گا اور امام ابو یوسفؒ سے اس مسئلہ میں دو روایتیں ہیں ایک روایت میں وہی حکم ہے جو امام محمد کا قول ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ بستان میں داخل ہونے سے حائث ہو جائے گا اگرچہ بستان وسط دار میں واقع نہ ہو یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے فلاں کو اپنے بیت میں داخل کیا تو میری بیوی طالق ہے تو یہ قسم اس پر ہوگی کہ فلاں مذکور اس کی اجازت سے داخل ہو اور اگر قسم کھائی کہ اگر میں نے فلاں کو چھوڑ دیا کہ میرے بیت میں داخل ہو تو میری بیوی طالق ہے تو یہ قسم اس کے علم پر ہوگی یعنی ہر گاہ جانا اور منع نہ کیا تو اس نے چھوڑ دیا کہ داخل ہو جائے پس حائث ہو جائے گا اور اگر کہا کہ اگر فلاں میرے نیت میں داخل ہو تو میری بیوی طالق ہے تو یہ فلاں مذکور کے داخل ہونے پر ہوگی خواہ حالف اس کو اجازت دے یا نہ دے یا جانے یا نہ جانے یعنی اگر وہ کسی حال میں داخل ہو تو یہ قسم کھانے والا حائث ہو جائے گا یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میرے اس دار میں کوئی داخل ہو تو میرا غلام آزاد ہے اور یہ دار اسی کا ہے یا دوسرے کا ہے پھر خود اس میں داخل ہو تو حائث نہ ہوگا اور اگر یوں کہا کہ اگر اس دار میں کوئی داخل ہو تو میرا غلام آزاد ہے تو اپنے داخل ہونے سے بھی حائث ہو جائے گا خواہ دار مذکور اسی کا ہو یا دوسرے کا ہو اور اگر کسی نے کہا کہ بقسم میں فلاں کو اپنے دار میں داخل ہونے سے منع کروں گا پس اگر اس کو ایک مرتبہ بھی منع کر دیا تو قسم میں سچا ہو گیا پھر اگر دوسری دفعہ اس کو جاتے دیکھا اور نہ منع کیا تو اس پر کچھ نہیں ہے یہ بحر الرائق میں ہے اور ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھر مالک دار نے اس دار کے پہلو میں ایک بیت خریدا اور بیت کا دروازہ اس دار میں پھوڑ دیا اور اس بیت کا راستہ اسی دار سے کر دیا اور وہ دروازہ جو پہلے اس بیت کا تھا بند کر دیا پھر قسم کھانے والا اس بیت میں بدون دار کے اندر داخل ہونے کے داخل ہو تو امام محمدؒ نے فرمایا کہ حائث ہو جائے گا اس واسطے کہ بیت مذکور بھی دار میں سے ہو گیا اور زید نے خالد بن عبداللہ سے کہا کہ اگر خالد بن عبداللہ اس دار میں داخل ہو تو خالد بن عبداللہ کی بیوی طالق ہے پس خالد بن عبداللہ نے کہا کہ تم لوگ مجھ پر اس امر کے گواہ رہو پھر خالد بن عبداللہ اس دار میں داخل ہو تو اس پر اپنی بیوی کی طلاق لازم ہوگی اور ایک شخص نے کہا کہ میں اس دار میں اور اس حجرہ میں داخل نہ ہوں گا پھر دار سے باہر نکلا پھر دار میں داخل ہوا اور حجرہ میں داخل نہ ہوا تو جب تک حجرہ میں داخل نہ ہو تب تک حائث نہ ہوگا اور یہ قسم ان دونوں میں داخل ہونے پر واقع ہوگی اور یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ زید کے دار میں داخل نہ ہوں گا اور یہ دونوں شخص سفر میں ہیں تو فرمایا کہ یہ قسم چھو لداری و خیمہ و قبہ پر اور ہر منزل پر جس میں اترنا واقع ہو واقع ہوگی۔ لیکن اگر اس نے ان تینوں چیزوں میں سے کوئی خاص چیز مراد لی تو دیانت کی راہ سے اس کی تصدیق ہوگی مگر قضاء نہ ہوگی یہ محیط سرحسی میں ہے اور قال المترجم ہمارے عرف کے موافق زید کے حضر کے گھر پر قسم واقع ہوگی اور الا آنکہ یہ لوگ صحرائی ہوں فافہم واللہ اعلم اور اگر قسم کھائی کہ اس فسطاط (بزاخیمہ ۱۲) میں داخل نہ ہوں گا حالانکہ یہ فسطاط ایک مقام پر گڑا ہوا ہے پھر وہاں سے اکھاڑ کر دوسرے مقام پر گاڑا گیا پھر اس میں داخل ہو تو حائث ہو جائے گا اور یہی حکم جو میں قبہ کی صورت میں ہے۔ اسی طرح اگر لکڑی کی سیڑھی یا منبر ہو تو اس میں بھی یہی حکم ہے اس واسطے کہ ان چیزوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے ان کے نام میں تغیر و زوال نہیں آتا ہے۔ یہ بدائع میں ہے اور قال خباء بدوں کا خیمہ بالوں کا ہوتا ہے فاحفظ اور اگر قسم کھائی کہ اس خباء میں داخل نہ ہوں گا تو اعتبار اس کی چوں بوں و نمدے دونوں کا ہے اور بعض نے فرمایا کہ اعتبار فقط چوں بوں کا ہے اور بعض نے فرمایا کہ اعتبار فقط نمدے کا ہے پس بنا بر قول ثانی کے اگر نمد بدل دیا گیا اور چوں ہیں وہی باقی ہیں پھر

اس میں داخل ہوا تو حائث ہو جائے گا اور اس کے برعکس کیا گیا تو حائث نہ ہوگا اور بنا برتیسرے قول کے اگر نمد ابدل دیا گیا اور چوبیس وہی ہیں تو اس میں داخل ہونے سے حائث نہ ہوگا اور اگر اس کے برعکس کیا گیا تو حائث ہو جائے گا اور اصح وہی قول اول ہے۔ یہ محیط میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں کے پاس بیت میں نہ جاؤں گا پھر ایک بیت میں داخل ہوا جس میں فلاں مذکور موجود تھا مگر اس نے داخل ہونے میں اس کے پاس جانے کی نیت نہیں کی تھی تو حائث نہ ہوگا۔ دو شخصوں میں سے ہر ایک نے قسم کھائی کہ میں اس دوسرے کے پاس نہ جاؤں گا پھر دونوں ساتھ ہی ایک منزل میں داخل ہوئے تو دونوں حائث نہ ہوں گے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ فلاں کے پاس نہ جاؤں گا تو شیخ الاسلام نے شرح میں ذکر فرمایا ہے کہ فلاں کے پاس جانے سے عرف میں در صورت مطلق یہ لفظ ہونے کے یہ مراد ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس اس کی زیارت و تعظیم کے واسطے ایسے مکان میں جہاں وہ اپنے ملاقاتی و زیارت کنندہ لوگوں کے واسطے بیٹھا کرتا ہے نہ جاؤں گا اور امام قدوری نے بھی اپنی کتاب میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ امام قدوری نے ذکر فرمایا کہ اگر وہ اس کے پاس کسی مسجد یا چھت یا دہلیز میں گیا تو حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر فرسطاق یا خیمہ میں اس کے پاس گیا تو بھی حائث نہ ہوگا لیکن اگر وہ بدوی ہو تو اس کے نشست کی جگہ یہی خباء خیمہ ہوگی پس حائث ہو جائے گا۔ اگر بہ نیت زیارت گیا اور حاصل یہ ہے کہ اس میں عادت کا اعتبار ہے اور ہمارے عرف میں اگر وہ مسجد میں اس کے پاس گیا تو حائث ہو جائے گا ہاں اگر وہ مسجد میں داخل ہوا اور اس کے پاس جانے کی نیت نہیں کی یا یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ اس میں ہے تو حائث نہ ہوگا اور قدوری میں لکھا ہے کہ اگر ایک قوم کے پاس گیا جن میں فلاں مذکور بھی ہے مگر اس نے اس کے پاس جانے کا قصد نہیں کیا تو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ حائث نہ ہوگا مگر قضاء^۱ اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور نیز قدوری میں فرمایا کہ فلاں کے پاس جانے کی یہ معنی ہیں کہ جاتے وقت اس کے پاس جانے کا قصد ہو خواہ وہ اپنے بیت میں ہو یا کسی دوسرے کے بیت میں ہو۔ اگر قسم کھائی کہ فلاں کے پاس اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھر وہ دار میں داخل ہوا اور فلاں اس دار کے کسی بیت میں ہے تو حائث نہ ہوگا اور اگر صحن دار میں ہوگا تو حائث ہو جائے گا اس واسطے کہ وہ فلاں کے پاس داخل ہونے والا جہی ہوگا کہ جب اس کو مشاہدہ کرے وقال المترجم ہمارے عرف میں حائث ہونا چاہیے واللہ اعلم اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں کے پاس اس گاؤں میں داخل نہ ہوں گا تو گاؤں میں داخل ہونے سے حائث نہ ہوگا الا آنکہ گاؤں مذکور میں اس کے پاس اس کے گھر میں داخل ہو جائے یہ محیط میں ہے۔ ایک شخص نے قسم کھائی کہ فلاں کے پاس داخل نہ ہوں گا پس اس کی موت کے پیچھے اس کے پاس گیا تو حائث نہ ہوگا یہ سراجیہ میں ہے۔

اگر یوں کہا کہ تو مجھ پر قسم ہے اگر میں تجھ سے قربت کروں پھر دار مذکور میں داخل ہوا تو دو ایلاء سے مولیٰ ہو جائے گا:

اگر کہا کہ ہر بار کہ داخل ہوا میں ان دونوں داروں میں سے کسی ایک دار میں تو واللہ میں تجھے نہیں ماروں گا اور پھر دونوں میں داخل ہوا پھر عورت کو مارا تو ایک سے مرتبہ حائث ہوگا اور اگر اجزا میں یوں کہا کہ تو مجھ پر قسم ہے اگر میں نے تجھے مارا پھر دونوں

۱۔ برعکس یعنی چوبیس بدلی گئیں اور نمد باقی ہے ۱۲۔ ۲۔ مثلاً اس نے یہ بھی قسم کھائی ہو کہ اگر میں اس قسم میں جھوٹا ہو جاؤں تو میری بیوی طالق ہے پھر بعد اس واقعہ کے عورت نے دعویٰ کیا کہ میں طالق ہو گئی ہوں تو قاضی اس معاملہ میں اگر اپنے حائث ہونے سے انکار کیا تو تصدیق نہ کرے گا ۱۲۔

میں داخل ہو یا ایک میں داخل ہو پھر عورت کو بار بار کے داخلہ کا کفارہ قسم اس پر واجب ہوگا۔ ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا پھر دار مذکور میں داخل ہوا تو ایلاء کرنے والا ہو جائے گا پس اگر بعد داخل ہونے کے عورت سے جماع کیا تو حائض ہو جائے گا اور قسم باطل ہو جائے گی چنانچہ اگر دوسری بار داخل ہوا تو ایلاء کنندہ نہ ہوگا کہ دوسری بار جماع کرنے سے اس پر دوسرا کفارہ لازم نہ آئے گا اور اگر دوسری بار داخل ہونے کے بعد چار مہینے بدوں جماع کے گذر گئے تو عورت اس سے بائسنہ ہوگی اور اگر پہلی بار داخل ہونے کے بعد عورت سے جماع نہ کیا یہاں تک کہ دوسری بار داخل ہوا تو وہاں ایلاء کنندہ رہے گا پس جب اول بار کے داخلہ سے چار مہینے بدوں جماع کیے گذر جائیں گے تو عورت مذکور بائسنہ ہو جائے گی اور پھر جب دوسری بار کے داخلہ سے چار مہینے پورے ہوں گے تو بعد کو بائسنہ بطلاق دیگر ہو جائے گی بشرطیکہ وہ پہلی طلاق بائسنہ کی عدت میں ہو اور اگر یوں کہا کہ تو مجھ پر قسم ہے اگر میں تجھ سے قربت کروں پھر دار مذکور میں دوبارہ داخل ہوا تو دو ایلاء سے مولیٰ ہو جائے گا اور اگر بعد ہر داخلہ کے اس سے جماع کر لیا ہو تو اس پر دو کفارے لازم آئے گے اور اگر جماع نہ کیا ویسے ہے چھوڑ دی تو پہلے داخلہ سے چار مہینے گذرنے پر بیک طلاق بائن ہو جائے گی اور جب دوسرے داخلہ سے چار مہینے پورے گذر جائیں گے اور ہنوز وہ پہلی طلاق کی عدت میں ہے تو دوسری طلاق بائسنہ بھی اس پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو طالق ثلاث ہے اگر میں تجھ سے قربت کی۔ پھر دار مذکور میں دوبارہ داخل ہوا تو قسم سچی ہونے کے حق میں ہر بار کے داخلہ میں وہ مولیٰ ہوگا چنانچہ اگر مدت کے اندر اس سے قربت کی تو وہ بہ طلاق طالق ہو جائے گی اور اگر قربت نہ کی تو چار مہینے گذرنے پر وہ بیک طلاق بائسنہ ہوگی اور جب دوسرے داخلہ سے بھی چار گذر گئے تو دوسری طلاق سے طالق ہوگی لیکن تین سے زیادہ اس پر لازم نہیں ہوں گی اور اسی طرح اگر کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو واسطے اللہ کے مجھ پر اس غلام کا آزاد کرنا ہے اگر میں نے تجھ سے قربت کی یا کہا کہ تو یہ غلام آزاد ہے اگر میں نے تجھ سے قربت کی پھر دو بار داخل ہوا تو ہر بار کے داخلہ پر وہ ایلاء کنندہ ہوگا پس اگر عورت سے قربت کر لی تو ایک قسم میں حائض ہو جائے گا اسی طرح اگر اپنی بیوی سے کہا کہ تو طالق ثلاث ہے اگر میں نے تجھ سے قربت کی پھر عورت سے بعد ایک روز کے کہا کہ تو طالق ثلاث ہے اگر میں نے تجھ سے قربت کی تو قسم سچی ہونے کے حق میں یہ دو ایلاء ہیں اور اگر قربت کی تو ایک قسم میں حائض ہوگا پس تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا پس اگر میں نے تجھ سے قربت کی تو مجھ پر ایک حج لازم ہے یا کہا کہ تو مجھ پر قسم نذر ہے پھر اس دار میں دوبارہ داخل ہوا اور ہر داخلہ کے بعد عورت سے قربت کی تو اس پر دو حج یا جزاء دو قسم واجب ہوگی اور اسی طرح اگر لزوم حج کے پیچھے شرطاً قربت بیان کی ہو تو بھی یہی حکم ہے اور اگر کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا پس میں نے تجھ سے قربت کی تو مجھ پر ایک حج واجب ہے پھر دار میں داخل ہوا پھر عورت سے قربت کی تو اس پر حج لازم ہوگا اور اگر دار میں داخل ہوا یا عورت سے قربت کی ایک بار تو اس کے ذمہ لازم نہیں ہے الا ایک ایلاء اور اگر کہا کہ ہر بار داخل ہوا میں اس دار میں تو واللہ میں نے تجھ سے قربت نہ کی تو یہ کہنا یا یہ کہنا کہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا دونوں برابر ہیں کہ ایک ہی بار حائض ہوگا قال المترجم یہ زبان عربی میں مستقیم ہے کہ کلمات دخلت هذه الدار لم اقربك واللہ اور ہماری زبان میں اس صورت میں تامل ہے واللہ علم اور اور اگر کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا ہر بار کہ میں داخل ہوا اس دار میں تو یہ قول اور قولہ ہر بار کہ میں داخل ہوا اس دار میں تو واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا دونوں یکساں ہیں اور اگر کہا کہ

۱۔ قسم سچی ہونے کے واسطے تو یہ چاہئے کہ ہر بار میں وہ مولیٰ صورت کرے اور قسم ٹوٹنے نہ دے کہ اسی طور سے قسم میں سچا رہے گا لیکن اگر حائض ہوا تو کفارہ ایک ہی قسم کا لازم ہوگا فہم ۱۲۔ ۲۔ شرط مؤخر کرنے سے کچھ فرق نہ ہوگا ۱۲۔

اگر میں نے تجھ سے قربت کی تو تو طالق ہے ہر بار کہ میں داخل ہوا اس دار میں تو وہ ایلاء کرنے والا نہ ہو جائے گا اور اگر عورت سے قربت کرنے کے بعد دار میں مذکور میں داخل ہوا تو بیک طلاق طالق ہو جائے گی یہ شرح جامع کبیر میں ہے۔

اگر دونوں کے درمیان کلمہ یا داخل کیا مثلاً کہا کہ واللہ میں اس دار میں نہ داخل ہوں گا یا اس دار دیگر میں نہ داخل ہوں گا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک میں داخل ہوا تو حائث ہو جائے گا اور اگر دونوں میں سے کسی میں داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مر گیا تو حائث نہ ہوگا۔ اور اگر کلمہ یا درمیان دو اثباتوں کے داخل کیا مثلاً کہا کہ واللہ میں اس دار میں داخل ہوں گا یا اس دار دیگر میں داخل ہوں گا پھر وہ ان میں سے ایک میں داخل ہوا تو قسم میں سچا ہو گیا اور اگر دونوں میں سے کسی میں داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مر گیا تو حائث ہو گیا اور اگر کلمہ یا درمیان نفی اور اثبات کے داخل کیا مثلاً کہا کہ واللہ میں اس دار میں داخل نہ ہوگا یا اس دار دیگر میں آج ضرور داخل ہوں گا پس اگر دوسرے دار میں داخل ہو گیا تو قسم میں سچا ہو گیا اور قسم نفی ساقط ہو گئی اور اگر دونوں داروں میں داخل ہونا اس کے ہاتھ سے فوت ہو گیا تو قسم اثبات میں حائث ہو گیا اور قسم نفی ساقط ہو گئی اور اول میں داخل ہوا تو قسم نفی میں حائث ہو گیا اور یقین اثبات ساقط ہو گئی اور ایسے مسائل میں ایک دفعہ اس کے حائث ہونے سے قسم منحل ہو جاتی ہے چنانچہ اگر دوبارہ جس شرط سے حائث ہو گیا ہے اس کو بجالایا تو مکرر حائث نہ ہوگا اور اسی طرح جس قسم میں اثبات سے ابتدا کی ہو یہی حکم ہے مثلاً کہا کہ واللہ میں اس دار میں آج ضرور داخل ہوں گا یا اس دار دیگر میں کبھی داخل نہ ہوگا لیکن بات اتنی ہے کہ قسم اثبات میں اگر آج ہے اس دار میں داخل ہو گیا تو قسم میں سچا ہوگا اور قسم نفی میں دوسرے دار میں داخل ہونے پر حائث ہوگا یہ شرح کحیف جامع کبیر میں ہے۔

اگر کہا کہ واللہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا یا اس دار دیگر میں داخل ہوں گا پس اگر دوسرے دار میں داخل ہونے سے پہلے دار اول میں داخل ہوا تو حائث ہو جائے گا اور اگر پہلے دار دیگر میں داخل ہوا تو قسم ساقط ہو گئی اور اگر اس نے تخییر کی نیت کی ہو تو اصل میں مذکور ہے کہ قسم اس کی نیت پر ہوگی پس قسم کا انعفاوان دونوں میں سے ایک پر ہوگا یعنی یا تو اول پر نہ داخل ہونے کے ساتھ یا دوسرے پر داخل ہونے کے ساتھ اور یہی حصہ مشائخ کا قول ہے اور یہی مذہب شیخ ابو عبد اللہ زعفرانی کا ہے اور یہی اصح ہے اور اگر کہا کہ واللہ میں اس دار میں داخل نہ ہوگا یا دوسرے دار میں سے ایک میں داخل ہوگا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے پس اگر پہلے وہ دار ہائے دیگر میں سے کسی میں داخل ہوا تو اپنی قسم میں سچا ہو گیا اور قسم ساقط ہو گئی اور اگر دونوں دار ہائے دیگر میں سے کسی میں داخل ہونے سے پہلے وہ دار اول میں داخل ہوا تو اپنی قسم میں حائث ہو گیا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔

اگر کہا کہ واللہ اس دار کا داخل ہونا آج ترک کروں گا یا کل کے روز اس دار دیگر میں داخل ہوں گا۔ پھر آج کے روز اس نے اس دار کا داخل ہونا ترک کیا تو اپنی قسم میں سچا ہو گیا اور قسم ساقط ہو گئی اور اگر قسم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوگا پس اگر میں اس دار میں داخل نہ ہوا تو میں اس دار دیگر میں افضل ہوں گا تو یہ استثناء باطل ہے یہ عتابیہ میں ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا مادامیکہ زید اس میں ہے پھر زید اس میں سے مع اپنے اہل و عیال کے نکل گیا پھر زید نے دوبارہ اسی مکان میں عود کیا پھر حالف اس میں داخل ہوا تو حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر کہا کہ ما دامیکہ میرے تن پر یہ کپڑا ہے یا جب تک مجھ پر یہ کپڑا ہے تو بھی یہی حکم ہے اور اگر یوں کہا کہ واللہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا در حالیکہ تو اس میں ساکن ہو یا در حالیکہ میرے تن پر یہ کپڑا ہو پھر مخاطب اس میں سے نکل گیا یعنی اٹھ گیا پھر عود کرنے کے آگیا یا حالف نے یہ کپڑا اتار دیا پھر پہن لیا پھر داخل ہوا تو حائث ہو جائے گا۔ یہ محیط شخصی میں ہے۔

قسم کھائی کہ اس دار میں سکونت نہ رکھوں گا پھر خود نکل گیا اور اپنے اہل و متاع کو اس میں چھوڑ دیا:

اگر قسم کھائی کہ میں اس دار میں سکونت نہ کروں گا پس اگر اس میں ساکن نہ ہو تو اس کے سکونت کرنے کے یہ معنی ہیں کہ خود اس میں رہے اور اثاثہ البیت اور اسباب ضرورت اس میں لاکر رکھے پس جب ایسا کرے گا تو اس وقت حانث ہو جائے گا یہ بدائع میں ہے۔ ایک شخص نے قسم کھائی کہ اس دار میں سکونت نہ رکھوں گا پھر خود نکل گیا اور اپنے اہل و متاع کو اس میں چھوڑ دیا پس اگر قسم کھانے والا کسی دوسرے کے عیال میں ہو مثل پسر بالغ کے کہ باپ کے عیال میں ہوئے یا بیوی کے کہ خاوند کے ساتھ ہوئے تو حالف حانث نہ ہوگا اور اگر حالف کسی کے عیال میں نہ ہو تو اپنی قسم میں سچا نہ ہوگا الا آنکہ اسی وقت سے منتقل کرنے میں مشغول ہو جائے اس واسطے کہ برابر اس طرح سے رہنا سکونت ہوگی پھر امام اعظمؒ کے نزدیک قسم سچی ہونے کی شرط یہ ہے اپنے اہل و عیال اور سب متاع کو اٹھالے جائے حتیٰ کہ اگر اس میں ایک کھوٹی یا جھازور ہے گی تو حانث ہوگا اور نہ بابر قول امام ابو یوسف کے اگر اپنے اہل و عیال اور اکثر اسباب کو لے گیا تو قسم میں سچا ہو گیا اور اسی قول پر فتوئے ہے اور امام محمدؒ کے قول پر اگر اہل و عیال کو اور اس قدر اسباب کو کہ خانہ داری اس سے ہو سکتی ہے لے گیا تو قسم میں سچا ہو گیا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

مشائخ نے فرمایا ہے کہ یہ احسن ہے اور لوگوں نے حق میں اس میں زیادہ آسانی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے یہ نہر الفائق میں ہے اور اس میں اتفاق ہے کہ قسم میں سچے ہونے کے واسطے اہل و عیال و خادموں کا اٹھالے جانا شرط ہے اور اگر سب کو کوچہ یا مسجد میں منتقل کر کے لے گیا اور دار مذکور کو سپرد نہ کیا تو اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ وہ حانث ہوگا جب تک کہ دوسرا مسکن نہ کرے اور اگر دوسرے کو بایں طور سپرد کر دیا کہ اپنا دار حملو کہ تھا اس کو کسی دوسرے کو کرایہ پر دے دیا یا اس میں کرایہ یا اعارت پر رہتا تھا پس خالی کر کے اس کے مالک کو سپرد کر دیا اور اپنے واسطے مسکن نہیں کر لیا تو حانث نہ ہوگا۔ ایک مرد نے قسم کھائی کہ میں دار میں نہ رہوں گا پس اس نے اپنے اہل و متاع کو اٹھالے جانا چاہا پس اس کی بیوی نے اس میں سے نکلنے سے انکار کیا تو مرد پر واجب ہے کہ اس کے نکالنے میں کوشش کرے پھر اگر وہی غالب آئی اور مرد عاجز ہو گیا اور نکل کر دوسرے دار میں جا رہا تو اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک مرد نے قسم کھائی کہ میں اس دار میں نہ رہوں گا پس جب نکلنا چاہا تو دروازہ اس طرح بند پایا کہ اس سے کھل نہیں سکتا ہے یا بیڑیاں ڈال کر نکلنے سے روکا گیا تو بعضے مشائخ نے فرمایا کہ صورت اول میں حانث ہوگا اور دوسری میں نہیں اور صحیح یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں حانث نہ ہوگا یہ غیاثیہ میں ہے۔

اگر دیوار گرا کر نکلنے پر قادر ہو تو اس پر یہ نہیں واجب ہے حانث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ اگر میں اس رات اس شہر میں رہوں تو ایسا ہے یعنی طلاق و عتاق کی قسم کھائی پھر اس کو بخارا کر ایسا حال ہو گیا کہ خود نہیں نکل سکتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو حانث ہو جائے گا اس واسطے کہ یہ ممکن تھا کہ وہ کسی کو اجارہ پر مقررہ کر لیتا جو اس کو شہر سے باہر کر دیتا اور جو شخص مقید ہے اس کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے اس واسطے کہ جس نے اس کو قید کیا ہے وہ اس کو نکل جانے کے لیے روکے گا حتیٰ کہ اگر اس کو نزو کتا ہو تو مقید بھی مثل مریض کے ہوگا اور یہی صحیح ہے یہ محیط میں ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو اسی دار میں ساکن رہی تو تو طالق ہے اور حال یہ ہے کہ مکان کی چار دیواری ہے اور دروازہ بند متغفل ہے تو یہ عورت معذور ہے یہاں تک کہ دروازہ کھولا جائے اور عورت پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ دیوار پھاند جائے اور فقیہ نے فرمایا کہ ہم اسی کو لیتے ہیں یہ غیاثیہ میں ہے نہ اور اگر اس نے گھر میں اپنا اسباب چھوڑ کر دوسرے گھر کی تلاش میں گیا تو صحیح قول کے موافق حانث نہ ہوگا اس

واسطے کہ دوسرے گھر کی تلاش بھی اٹھ جانے کے کاموں میں سے ایک کام ہے اور جب تک تلاش کرے تب تک کی مدت بحکم عرف اس میں سے مستثنیٰ ہوگی بشرطیکہ تلاش کی مدت میں افراط نہ کر دے یہ شرح جمع البحرین میں ہے۔

اگر فارسی میں قسم کھائی کہ: واللہ سن بدین خانہ اندر بناشم پھر خود اس قصد سے نکل گیا کہ عود نہ کرے گا تو اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا:

ایک شخص نے قسم کھائی کہ اس دار میں نہ رہوں گا پھر خود نکل کر دوسرے گھر کی تلاش میں گیا تا کہ اس میں اہل و عیال و اسباب کو منتقل کر کے لے جائے پھر دوسرا مکان ان کو چند روز تک نہ ملا اور اس کو یہ ممکن ہے کہ اپنا اسباب اس میں سے نکال کر باہر رکھے تو حانث نہ ہوگا اسی طرح اگر کوئی لادنے کا جانور تلاش کرنے میں مشغول ہو کہ اس پر لاد کر لے جائے یا آدھی رات میں ایسی قسم کھائی کہ صبح ہونے تک اس کو اٹھ جانا ممکن نہیں ہے یا اسباب بہت ہے اور خود نکل گیا اور آپ ہی اسباب منتقل کرتا ہے حالانکہ یہ ممکن ہے کہ وہ کرایہ پر منتقل کر لے مگر ایسا نہیں کرتا ہے تو ان سب صورتوں میں وہ حانث نہ ہوگا۔ اور یہ اس وقت ہے کہ وہ خود اسباب کو اس طرح منتقل کرتا ہو جیسے لوگ منتقل کر لیا کرتے ہیں اور اگر وہ ایسے منتقل نہ کرتا ہو جیسے لوگ منتقل کر لیتے ہیں تو حانث ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ یہ حکم اس وقت کہ عربی زبان میں قسم کھائی ہو اور اگر فارسی میں قسم کھائی کہ: واللہ سن بدین خانہ اندر بناشم پھر خود اس قصد سے نکل گیا کہ عود نہ کرے گا تو اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا اور اگر اس قصد سے نکل گیا کہ عود کرے گا تو حانث ہو جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو اس دار میں ساکن رہی تو تو طالق ہے اور یہ قسم آدھی رات کو کھائی تو عورت معذور ہوگی اور اگر اس نے اس طرح کی قسم اپنے حق میں کھائی ہو تو وہ معذور نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ رات میں نہیں ڈرتا ہے حتیٰ کہ اس کے حق میں بھی خوف چوروں^(۱) وغیرہ کی طرف سے ثابت ہو تو وہ بھی معذور ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس دار میں ساکن نہ ہوگا حالانکہ اس میں رہتا ہے پھر اس پر متاع مذکور منتقل کر لیا جانا گراں^(۲) معلوم ہو تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ متاع مذکور ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کر دے جس پر اس کو اعتماد ہوئے اور خود نکل کر دوسرے مکان میں چلا جائے پھر جب اس کو آسانی معلوم ہو اس وقت اس سے خریدے یہ فتاویٰ سراجیہ میں ہے۔

اگر کسی گاؤں کی نسبت اس طرح کی قسم کھائی کہ اس میں نہ رہوں گا تو وہ بمنزلہ شہر کے ہے:

اگر ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ ایک دار میں رہتا ہو پھر ان میں سے ایک نے قسم کھائی کہ اس دوسرے کے ساتھ نہ رہوں گا پس اگر اس نے منتقل کرنا شروع کر دیا حالانکہ فی الحال ممکن بھی ہے تو خیر ورنہ حانث ہو جائے گا اور اگر حالف نے اپنا اسباب اس دوسرے کو ہبہ کر دیا یا اس کے پس دو بیعت رکھایا عاریت دیا پھر مکان کی تلاش میں نکلا اور چند روز تک کوئی مکان نہ ملا لیکن اس دار میں جس میں دوسرا رہتا ہے نہ آیا تو امام محمد نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنا اسباب دوسرے کو ہبہ کیا اور اس نے قبضہ کر لیا ہے یا اس کو ودیعت دیا یا عاریت دیا اور اسی وقت باہر نکل گیا بایں ارادہ کہ پھر عود نہ کرے گا تو اس کے ساتھ رہنے والا شمار نہ ہوگا یہ سراج و ہانج میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ اس شہر میں نہ رہوں گا پھر خود چلا گیا اور اپنے اہل و اسباب کو اس میں چھوڑ گیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر

۱ قسم توڑنے والا ۱۲۱۔

(۱) سلطان کی طرف سے ممانعت ہو ۱۲۔ (۲) بسبب کثرت وغیرہ کے ۱۲۔

کسی گاؤں کی نسبت اس طرح کی قسم کھائی کہ اس میں نہ رہوں گا تو وہ بمنزلہ شہر کے ہے اور یہی صحیح ہے اور کوچہ و محلہ اس حکم میں بمنزلہ وار کے ہے اور اگر قسم کھائی کہ اندریں دیہ بنا ششم پھر اپنے اہل و عیال و اسباب لے کر وہاں سے نکل گیا پھر واپس ہو اور اس میں سکونت اختیار کی تو حادث ہو جائے گا۔ اور اس طرح جو فعل ممتد ہوتا ہے اس میں ایک وقت میں سچا ہونے سے قسم باطل نہیں ہو جاتی ہے یہ خزانۃ المفتین میں ہے۔

مشائخ نے فرمایا کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ شخص مذکور بغرض رہنے و سکونت کرنے کے واپس آیا ہو اور اگر کسی کے دیکھنے کو آیا یا اپنے اسباب کو منتقل کرنے کے واسطے آیا اور چند روز رہا اور اس کی نیت یہاں سکونت کرنے کی نہیں ہے تو اپنی قسم میں حادث نہ ہوگا اور اگر رہنے کے واسطے آیا ہو تو ایک دم کا رہنا حادث ہونے کے واسطے کافی ہے دوم شرط نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں یکساں یا امسال اس دیہ میں رہوں تو میری بیوی طالق ہے پس ایک روز بقیہ سال سے کم رہا یا یوں قسم کھائی کہ اس دار میں مہینہ بھر نہیں رہوں گا پھر ایک ساعت رہا تو حادث نہ ہوگا جب تک کہ مہینہ بھر نہ رہے یہ خزانۃ المفتین میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ساکن نہ ہوں گا پھر حالف اپنے سفر میں فلاں کے گھر اتر اور ایک یا دو روز تک رہا تو حادث نہ ہوگا اور فلاں کے ساتھ ساکن نہ ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ کم سے کم پندرہ روز تک نہ رہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص نے قسم کھائی کہ کوفہ میں نہ ہوں گا پس مسافرت میں وہاں گذرا اور وہاں چودہ روز رہنے کی نیت کی تو حادث نہ ہوگا اور اگر پندرہ روز کی نیت کی تو حادث ہو جائے گا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نہ کروں گا پھر فلاں مذکور اس حالف کے دار میں غصب کی راہ سے داخل ہو اور رہنے لگا پس حالف اس کے ساتھ رہا تو حادث ہو جائے گا خواہ حالف کو یہ بات معلوم ہوئی ہو یا نہیں اگر غاصب کے اترتے ہی حالف اپنے اٹھ جانے کا بندوبست کیا اور منتقل کرنا شروع کیا تو حادث نہ ہوگا یہ خزانۃ المفتین میں ہے۔ اور اگر حالف نے سفر کیا پھر فلاں مذکور اس حالف کے اہل و عیال کے ساتھ ساکن رہا تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ حالف حادث ہو جائے گا اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ نہیں حادث ہوگا اور اسی پر فتویٰ ہے اور منقہی میں لکھا ہے کہ اگر مخلوف علیہ یعنی جس کے ساتھ نہ رہنے پر قسم کھائی ہے تین روز یا زیادہ کی راہ پر سفر کر گیا پھر قسم کھانے والا اس کے اہل کے ساتھ اس میں رہا تو امام ابو یوسف کے قول پر حادث نہ ہوگا اور اگر اس سے کم دوری پر گیا ہو تو حادث ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ کوفہ میں ساکن نہ ہوں گا تو یہ قسم کوفہ کے دار واحد میں ساتھ رہنے پر واقع ہوگی چنانچہ اگر حالف ایک گھر میں رہے اور مخلوف علیہ دوسرے گھر میں رہے تو حادث نہ ہوگا لیکن اگر اس نے یہ نیت کی ہو کہ میں اور مخلوف علیہ کوفہ میں نہ رہوں گا یعنی ایک گھر میں ہو یا دو گھروں میں تو اس صورت میں اس کی نیت پر قسم ہوگی اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ اس گاؤں میں نہ رہوں گا تو یہ قسم ایک گھر میں اس کے ساتھ رہنے پر واقع ہوگی اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ خراساں میں نہ رہوں گا تو بھی یہی حکم ہے اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ دنیا میں نہ رہوں گا تو بھی ایک گھر میں اس کے ساتھ رہنے پر قسم واقع ہوگی اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ نہ رہوں گا پھر کشتی میں اس کے ساتھ رہنا ہوا کہ ہر ایک کے ساتھ اس کے اہل و متاع ہے اور اس کو اپنی منزل بنایا تو اپنی قسم میں حادث نہ ہوگا اور یہ ملاحوں کے حق میں مساکنت ہے اور یہی حکم جنگلی لوگوں کا ہے کہ جب وہ ایک ہے خیمہ میں مجتمع ہو کر رہیں تو حادث ہوگا اور اگر خیمہ متفرق ہوں تو حادث نہ ہوگا اگر چہ باہم نزدیک

۱۔ خواہ درمیان سے واپس ہو یا کہیں سکونت کر کے پھر واپس آیا ہو ۱۲۔ ۲۔ ممتد سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت دور تک دراز ہو سکتا ہے ۱۲۔ ۳۔ اقوال ظاہراً

اگر نیت کی ہو کہ پندرہ روز تک رہوں گا تو بھی ایک دور میں بھی حادث ہو جائے گا ۱۲۔

ہوں یہ ذخیرہ میں ہے۔ اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ نہ رہوں گا پھر اس کے ساتھ کسی دار کے یا بیت^(۱) کے غرفہ کے درمیان میں ساکن رہا تو حائث ہو جائے گا یہ بدائع میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نہ کروں گا اور کچھ نیت نہیں کہ پھر احاطہ میں دونوں اس طرح رہے کہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ قصر میں رہا تو حائث ہوگا اور ساتھ رہنا جب متحقق ہوگا کہ دونوں ایک ہی بیت میں رہیں یا دونوں ایک ہی دار کے علیحدہ علیحدہ بیت میں رہیں اور اگر اہل و عیال ہوں تو اہل و عیال و مال و اسباب اس میں رکھیں اور جب ایک دار میں علیحدہ علیحدہ قصر ہیں تو ہر قصر علیحدہ مسکن ہے لہذا حائث نہ ہوگا اور اگر اس نے اپنی قسم میں یہ نیت کی ہو کہ اس طرح علیحدہ علیحدہ قصر میں بھی نہ رہوں گا تو حائث ہو جائے گا اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ احاطہ بہت بڑا ہو جیسے کوفہ میں دار ولید ہے یا بخارا میں دار نوح ہے کہ یہ بمنزلہ ایک محلہ کے ہے اور اگر دار ایسا نہ ہو تو بدون نیت مذکور کے بھی حائث ہو جائے گا اور خواہ اس دار میں بیوت ہوں یا قصر ہوں اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نہ کروں گا پھر ایک ہی بیت یا ایک ہی قصر میں اس کے ساتھ بدون اہل و متاع کے ساکن رہا تو ہمارے نزدیک حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ایک دار میں نہ رہوں گا اور دار معین کا نام لیا پھر دونوں نے اس کو بانٹ لیا اور بیچ میں دیوار کھڑی کر دی اور ہر ایک نے اپنا دروازہ علیحدہ پھوڑ لیا پھر قسم کھانے والا ایک حصہ میں رہا اور دوسرا دوسرے حصہ میں رہا تو قسم کھانے والا حائث ہو جائے گا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ساکن نہ ہوں گا اور کسی دار معین کا نام نہیں لیا اور نیت کی پھر اسی طرح ایک دار کے دو حصہ کر کے ان کے درمیان دیوار کر دی گئی پھر قسم کھانے والا ایک ٹکڑے میں اور دوسرا دوسرے ٹکڑے میں رہا تو حائث نہ ہوگا۔ یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص نے قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ساکن نہ ہوں گا اور کوئی دار معین نہیں کیا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ بازار کی دکان میں رہا جس میں دونوں کوئی صنعت کا کام کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں تو حائث نہ ہوگا اور یہ قسم انھیں مکانوں پر واقع ہوگی کہ جس کو انھوں نے گھر بنایا ہے کہ اس میں اہل و عیال کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اگر اس نے اس طرح دکان میں رہنے کی نیت بھی کی ہو یا باہم قبل اس قسم کے دونوں میں ایسی گفتگو ہو جو اس پر دلالت کرے تو اس صورت میں حائث ہوگا کہ قسم اس کے کلام سابق و معنی پر ہوگی اور اگر اس نے دوکان کو اپنا گھر بنا لیا چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص بازار میں رہتا ہے پس اگر قسم مذکور کے ساتھ کسی امر اس پر دلالت کرتا ہو کہ اس نے قسم سے یہ مراد لی ہے کہ بازار میں فلاں کے ساتھ رہنا ترک کرے گا تو قسم اسی پر محمول ہوگی اور اگر ایسا قرینہ نہ ہو مگر اس نے کہا کہ میں نے بازار کی مسکنت کی نیت کی تھی تو اس کا قول قبول ہوگا اور اس نے اپنے نفس پر سختی کی ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں دار میں اس کے ساتھ ساکن نہ ہوگا پھر وہ منہدم کیا گیا اور وہاں دوسرا دار بنایا گیا پھر اس میں ساکن ہوا تو حائث ہوگا اور یہ بخلاف اس کے ہے کہ بیت معین میں اس کے ساتھ نہ رہنے کی قسم کھائی پھر وہ منہدم کر کے میدان چھوڑ دیا گیا پھر اسی مقام پر دوسرا بیت بنایا گیا پھر اس میں اس کے ساتھ رہا تو حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ دار میں یعنی معین میں اس کے ساتھ نہ رہوں گا پھر وہ بستان کر دیا گیا تو اس میں ساتھ رہنے سے حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ دارزید میں یا کسی دارزید میں نہ رہوں گا اور کوئی دار معین بیان نہیں کیا اور نہ نیت کی پھر زید کے ایسے دار میں رہا جس کو اس نے بعد قسم کے فروخت کر دیا ہے تو اس میں رہنے سے حائث نہ ہوگا اور اگر زید کے ایسے دار میں رہا جو وقت قسم سے وقت سکونت تک اس کی ملک ہے تو بالاتفاق حائث ہو جائے گا اور اگر ایسے دار میں رہا جس کو زید نے بعد اس کی قسم کے خرید کیا ہے تو امام اعظم و امام محمد کے نزدیک حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ زید کے کسی دار میں ساکن نہ

ہوں گا پھر ایسے دار میں رہا جو زید کے اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے تو حائث نہ ہوگا خواہ دوسرے کا اس میں حصہ کم ہو زیادہ یا ہو یہ مبسوط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ زید کے اس دار میں ساکن نہ ہوں گا پھر زید نے اس کو فروخت کر دیا پھر حالف اس میں رہا تو اس میں دو صورتیں ہیں اگر اس نے اس دار میں بالخصوص رہنے کی نیت کی ہو تو حائث ہوگا اور اگر یہ نیت کی ہو کہ زید کی ملکیت میں جب تک ہے نہ رہوں گا تو حائث نہ ہوگا اور اگر اس کی کچھ نیت نہ ہو تو امام ابوحنیفہ و امام ابو یوسف نے فرمایا کہ حائث نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر کسی نے قسم کھائی کہ بیت میں نہ رہوں گا اور اس کی کچھ نیت ہے پھر وہ بالوں کی بیت یا فسطاط یا خیمہ میں رہا تو حائث نہ ہوگا:

اگر کسی نے قسم کھائی کہ ایسے دار میں نہ رہوں گا جس کو فلاں خریدے پھر فلاں نے کسی دوسرے کے واسطے ایک دار خریدا جس میں یہ حالف ساکن ہو تو حائث ہوگا اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میری یہ نیت تھی کہ فلاں اپنے واسطے خریدے پس اگر قسم اللہ تعالیٰ کی ہو تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر قسم بطلاق یا عتاق ہو تو قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ بیت میں نہ رہوں گا اور اس کی کچھ نیت ہے پھر وہ بالوں کی بیت یا فسطاط یا خیمہ میں رہا تو حائث نہ ہوگا بشرطیکہ آبادی کے رہنے والوں میں سے ہو اور اگر بدوی ہے تو حائث ہوگا یہ مبسوط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ الایلیت مع فلاں یا الایت فی مکان کذا یعنی فلاں کے ساتھ رات نہ گزاروں گا تو رات بھر اس کے ساتھ رہنے پر قسم ہوگی پس اگر آدھی رات سے زیادہ اس کے ساتھ یکجا رہا تو حائث ہوگا اور اگر اس سے کم رہا تو حائث نہ ہوگا خواہ وہ سویا ہو یا نہ سویا ہو یہ بدائع میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ اس منزل میں رات نہ گزاروں گا پھر خود اس میں سے نکل کر باہر سویا اور اپنے اہل و عیال و اسباب کو وہیں چھوڑا تو حائث نہ ہوگا اور ایسی قسم اس کی ذات پر ہوگی اہل و اسباب پر نہ ہوگی اور اگر قسم کھائی کہ یہ رات اس بیت کی چھت پر نہ گزاروں گا اور اس چھت پر ایک غرفہ ہے کہ اس کی زمین اور چھت ایک ہے تو وہاں رات گزارنے سے حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ کسی چھت پر رات نہ گزاروں گا پھر اس غرفہ کی زمین پر سویا تو حائث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ واللہ میں منزل فلاں میں رات نہ گزاروں گا کل کے روز تو یہ باطل ہے الا آنکہ اس نے دوسری آنے والی رات مراد لی ہو اور اگر کہا کہ واللہ میں کل کے روز فلاں کی منزل میں نہ ہوں گا تو وہ کل کی کسی ساعت ہونے پر ہوگی اور یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ لایا می مع فلاں اولیادی فی مکان اوداراد بیت یعنی اوداد نہ کروں گا فلاں کے ساتھ یا فلاں مکان یا وار یا بیت میں تو ادارت یہ ہے کہ ٹھہر رہے کسی مقام میں فلاں کے ساتھ خواہ تھوڑی دیر یا بہت دیر خواہ رات میں یا دن میں اور یہ امام ابو یوسف کا دوسرا قول ہے اور یہی امام محمد کا قول ہے لیکن اگر اس نے اس سے زیادہ ایک دور کی نیت کی ہو تو اس کی نیت پر ہوگی اور ابن رستم نے امام محمد سے روایت کی کہ اگر کسی نے کہا کہ لایا وینی وایاک بیت ابداء یعنی کوئی بیت کبھی مجھے اور تجھے ساتھ جگہ نہ دے گا تو امام ابو یوسف کے دوسرے قول اور میرے قول میں یہ قسم طرقت العین پر واقع ہوگی الا آنکہ اس نے اس سے زیادہ ایک دور کی نیت کی ہو تو اس کی نیت پر ہوگی اور ابن ساعد نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ اگر زید نے کہا کہ عمرو کو جگہ نہ دوں گا عمرو مذکور زید کے عیال میں اس کے مکان میں موجود ہے تو زید حائث ہوگا الا آنکہ زید کی نیت عمرو کو ڈرانے کی ہو کہ جن

حرکتوں میں گرفتار ہے ان کو چھوڑ دے تو ایسا نہیں ہے۔ اور اگر عمر و اس کے عیال میں نہ ہو اور اس کے مکان میں نہ ہو تو یہ زید کی نیت پر ہے اگر یہ نیت کی ہو کہ عمر و کو اپنے عیال یعنی پرورش میں نہ رکھے گا تو قسم اس کی نیت پر ہوگی۔ اور اگر نیت کی کہ اس کو اپنے گھر میں داخل نہ کرے گا پھر اگر عمر و بدوں اس کی اجازت کے داخل ہو اور زید اس کو دیکھ کر چپ ہو رہا تو حادثہ نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

ایک مرد سفر کو نکلا اور اس کے ساتھ دوسرا ہے اور اس کا ارادہ ایسے مقام پر جانے کا ہے کہ اس کو بیان کر دیا ہے پس قسم کھائی کہ اس شخص سے سوائے اس سفر کے ساتھ نہ رکھوں گا پھر جب تھوڑی راہ قطع کی تو دونوں کی رائے میں دوسرے مقام کو جانا مصلحت معلوم ہوا پس دونوں دوسرے مقام کی طرف لوٹ پڑے جو سوائے اس مقام کے ہے جس کا پہلے نام لیا تھا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ یہ اسی پہلے سفر میں ہے پس حادثہ نہ ہوگا۔ ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں آج پیدل نہ چلوں گا الا ایک میل پھر اپنے گھر سے نکل کر ایک میل تک پیدل جا کر اپنے مکان کو پیدل واپس آیا تو امام محمد نے فرمایا کہ اپنی قسم میں (۱) حادثہ ہوگا اس واسطے کہ وہ دو میل پیدل چلا ہے۔ زید نے کہا کہ واللہ عمر و کی مصاحبت نہ کروں گا پس اگر زید ایک قطار میں چلتا ہو اور عمر و دوسری قطار میں تو امام محمد نے فرمایا کہ اس کا مصاحب نہ ہوگا اور اگر دونوں ایک ہی قطار میں ہوں تو وہ مصاحب ہوگا اگرچہ ایک اس قطار کے اول میں ہو اور دوسرا آخر میں ہے اور اسی طرح اگر دونوں ایک کشتی میں ہوں اس طرح کہ ایک ایک درجہ میں اور دوسرا دوسرے درجہ میں ہو اور ہر ایک کا کھانا الگ الگ ہو تو بھی یہی حکم ہے اس واسطے کہ ان کا آنا جانا ایک ہی راستہ سے ہوگا اور اگر کہا کہ واللہ میں فلاں کی مرافقت نہ کروں گا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر دونوں کا طعام ایک ہی ہو ایک مکان میں حالانکہ دو دونوں ایک جماعت کے ساتھ میں چلتے ہیں تو ان دونوں میں مرافقت ثابت ہوگی اور اگر دونوں ایک کشتی میں ہوں اور دونوں کا طعام یکجا نہ ہو کہ ایک دسترخوان پر نہ کھاتے ہوں تو مرافقت ثابت نہ ہوگی اور امام محمد نے فرمایا کہ اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مرافقت نہ کروں گا پھر دونوں سفر میں نکلے پس اگر دونوں ایک محل میں ہوں یا دونوں کا کرب ایک ہو یا قطار ایک ہو تو مرافقت ثابت ہوگی اور اگر کرب مختلف ہو تو مرافقت نہ ہوگا اگرچہ دونوں کی سر واحدہ ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

باب : ۴

نکلنے اور آنے و سوار ہونے وغیرہ کی قسم کھانے کے بیان میں

اگر کسی نے قسم کھائی کہ مسجد یا دار یا بیت وغیرہ سے نہ نکلوں گا پھر کسی کو حکم کیا کہ اس کو لاد کر باہر لے گیا تو حادثہ ہو جائے گا جیسے جانور پر سوار ہوا جو اس کو لے کر باہر گیا تو حادثہ ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ باہر نہ نکلوں گا پھر کوئی زبردستی اس کو لاد کر باہر لے گیا تو حادثہ نہ ہوگا اور ایسا ہی داخل نہ ہونے کی قسم میں بھی یہی حکم ہے یہ ترمذی میں ہے۔

جب زبردستی کوئی لاد کر نکال لے گیا پس آیا قسم منحل ہو جائے گی کہ اگر اس کے بعد خود نکلے تو حادثہ نہ ہو تو اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ قسم منحل نہ ہوگی چنانچہ اگر اس کے بعد خود نکلا تو حادثہ ہوگا اور اگر کسی نے بغیر حالف کے حکم کے اس کو لاد کر نکالا حالانکہ حالف اس کے منع کرنے پر قادر ہے مگر اس نے منع نہ کیا بلکہ اپنے دل سے اس پر راضی ہے تو اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ حادثہ نہ ہوگا یہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر کسی پر اکراہ و جبر کیا گیا کہ اپنے پیروں باہر نکلے یا اندر

۱۔ کرب یعنی ایک ہی بندش کے اونٹوں میں سے دونوں اونٹ ہوں ۱۲۔

(۱) قال المترجم اس میں تفصیل نیت کی ہونا ضرور ہے واللہ اعلم ۱۲۔

داخل ہو پس اس نے ایسا کیا تو حائث ہوگا یہ ترمثاشی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ باہر نہ نکلوں گا تو جب تک کوچہ میں نہ نکلے حائث نہ ہو گا یہ خلاصہ میں ہے اور ایک نے قسم کھائی کہ اپنے دار سے نہ نکلوں گا پھر اپنے دروازہ دار سے نکلا پھر واپس ہو گیا تو حائث ہو جائے گا اور اگر دار کی کسی منزل میں بیٹھ کر قسم کھائی پھر اس منزل سے نکل کر دار سے باہر نکلنے سے پہلے واپس ہو گیا تو حائث نہ ہوگا یہ فتاویٰ خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اپنے دار سے باہر نہ نکلوں گا الا جنازہ کی طرف پھر جنازہ کے ارادے سے نکلا اور وہاں کوئی اور ضرورت بھی پوری کرتا آیا تو حائث نہ ہوگا یہ کافی میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ رے سے کوفہ کی جانب نہ نکلوں گا پھر رے سے مکہ کا قصد کر کے نکلا اور اس کا راستہ کوفہ ہو کر ہے تو امام محمد نے فرمایا کہ رے سے نکلنے کے وقت اگر اس نے نیت کی کہ کوفہ ہو کر جاؤں گا تو حائث ہوگا اور اگر نیت کی کہ کوفہ میں نہ گذروں گا پھر نکلنے کے بعد اس کی رائے میں آیا اور چل کر ایسی جگہ آیا کہ وہ نماز قصر کرتا ہے پھر کوفہ میں سے گذرا تو حائث نہ ہوگا۔ اور اگر وقت قسم کے اس کی نیت یہ ہو کہ خاص کوفہ کے قصد سے کوفہ کو نہ جاؤں گا پھر اس نے حج کا قصد کیا اور رے سے نکل کر نیت کی کہ کوفہ ہو کر جاؤں تو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ دار سے نہ نکلوں گا الا بجانب مسجد پھر مسجد کے ارادہ سے نکلا پھر وہاں سے غیر مسجد کی طرف بھی اس کی رائے ہوئی اور گیا تو حائث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

امام قدوری نے فرمایا کہ دار مسکونہ سے نکلنے کے یہ معنی ہیں کہ خود مع اپنے متاع و عیال کے نکلے اور شہر و گاؤں سے نکلنے میں یہ اعتبار ہے کہ خود اپنے تن سے خاصۃً نکل جائے اور منتقلے میں زیادہ کیا کہ اگر اپنے بدن سے نکل گیا تو قسم میں سچا ہو گیا خواہ سفر کا قصد کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ ذخیرہ میں ہے۔ اور اگر کہا کہ واللہ میں نہ نکلوں گا حالانکہ وہ دار کے کسی بیت میں بیٹھا ہے پھر وہاں سے نکل کر صحن دار میں آیا تو حائث نہ ہوگا الا آنکہ وہاں نہ نکلتا بھی اس کی نیت ہو اور اگر اس نے نیت کی ہو کہ نکل کر مکہ کو نہ جاؤں گا یا شہر سے نہ نکلوں گا تو قضاء و دیانتہ کسی طرح اسکی تصدیق نہ ہوگی۔ یہ بحر الرائق میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ اپنی بیت سے نہ نکلوں گا یعنی جس بیت میں موجود ہے پھر صحن دار میں نکلا تو حائث ہو جائے گا۔ اور ہمارے متاخرین مشائخ نے فرمایا کہ یہ ان کے عرف کے موافق اور ہمارے عرف میں صحن دار بھی بیت ہے پس جب تک کوچہ میں نہ نکلے حائث نہ ہوگا اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور اگر قسم کھائی کہ اس دار سے نہ نکلوں گا پھر اپنا ایک پانوں اس دار سے نکالا تو اپنی قسم میں حائث نہ ہوگا ایسا ہی امام محمد نے فرمایا ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ اگر دار مذکور کا باہر نیچا ہو تو اپنی قسم میں حائث ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ اس کا سہارا نکلے ہوئے پانوں پر ہو تو حائث ہوگا اگر چہ دار کا باہر نیچا نہ ہو لیکن ہمارے اصحاب سے ظاہر الروایۃ کے موافق کسی حال میں حائث نہ ہوگا اور اسی کو شمس الائمہ سرحی و حلوانی نے اختیار کیا ہے اور یہ اس وقت ہے کہ کھڑے کھڑے قدموں کے بل نکلا ہو اور اگر بیٹھ کر اس نے اپنے دونوں قدم باہر نکالے اور اس کا بدن اندر ہے تو اپنی قسم میں حائث نہ ہوگا پھر اگر کھڑا ہو گیا تو حائث ہو جائے گا اور اگر چت یا پٹ یا کر وٹ لینا ہو پھر ڈھنکا یہاں تک کہ اس کا بعض بدن باہر ہو گیا پس اگر زیادہ بدن باہر ہو گیا تو حائث ہو جائے گا اگر چہ اس کی شاقین اندر ہی ہوں اور اگر قسم کھائی کہ اس دار سے خارج نہ ہوں گا اور اس دار میں ایک بڑا درخت ہے جس کی شاخیں دار سے باہر ہیں پھر اس درخت پر چڑھ کر ان شاخوں پر آیا یہاں تک کہ دار سے باہر بیچ راستہ پر ہو گیا کہ اگر گرے تو راستہ میں گرے تو حائث نہ ہوگا خواہ قسم کھانے والا بلاد عرب کا ہو یا بلاد عجم کا ہو یہ محیط میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ میری بیوی اس دار سے نہ نکلے گی پھر وہ عورت دار کے دروازہ سے یا دیوار کے اوپر سے یا کوئی سوراخ کر کے نکلی بہر حال حانث ہو گیا اور قسم کھائی کہ اس دار کے دروازہ سے باہر نہ ہوگا تو کسی دروازہ سے نکلے خواہ دروازہ قدیم سے یا نیا دروازہ بنا کر بہر حال حانث ہوگا اور اگر دیوار کے اوپر سے یا سوراخ کر کے نکلے تو حانث نہ ہوگا ایسا ہی بعض مشائخ نے شرح ایمان الاصل میں ذکر کیا ہے اور حیل میں ذکر فرمایا کہ اگر قسم کھائی کہ اس دار کے دروازہ سے نہ نکلوں گا پھر چھت پر چڑھ کر کسی پڑوسی کے یہاں اتر کر نکالیا اس دار کا کوئی دوسرا دروازہ نکال کر اس سے نکلا تو حانث نہ ہوگا اور شیخ ابو نصر و بوسی نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ حانث ہو جائے گا اس واسطے کہ سب اسی دار کے دروازہ ہیں اور اگر قسم کھائی کہ اس دار سے اس دروازہ سے نہ نکلوں گا پھر دوسرے دروازہ سے سوائے دروازہ معین مذکور کے نکلا تو ایمان الاصل میں مذکور ہے کہ حانث نہ ہوگا قال المترجم ظاہر مسئلہ میں تصحیف ہوئی ہے اور صحیح یوں ہے کہ قسم کھائی کہ اس دار کے اس دروازہ سے نہ نکلوں گا فامہم۔ فتاویٰ اہل سمرقندی میں لکھا ہے کہ ایک نے قسم کھائی کہ اس دار کے دروازہ سے نہ نکلوں گا اور اس کی نیت لکڑی کا در ہے پھر یہ دروازہ گر گیا پھر اس مقام سے وہ شخص نکلا تو حانث نہ ہوگا اور اگر لکڑی کا دروازہ مراد نہ تھا تو حانث ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر اپنی بیوی کے حق میں قسم کھائی کہ نہ خارج ہوگی منزل سے الا برائے زیارت پھر ایک بار وہ عورت اسی واسطے نکلی پھر دوسری بار اور کام کے واسطے نکلی تو حانث ہو گیا اور اگر یہ نیت کی ہو کہ اس مرتبہ نہ نکلے گی الا برائے زیارت پھر وہ زیارت کے واسطے نکلی پھر دوسری بار اور کام کے واسطے نکلی تو حانث نہ ہوگا اور اگر عورت پر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ منزل سے نہ نکلے گی پس وہ عورت کسی دوسرے کے ساتھ نکلی یا تنہا نکلی پھر فلاں مذکور جا کر اس کے ساتھ ہو گیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر عورت پر قسم کھائی کہ وہ اس دار سے خارج نہ ہوگی پھر وہ اس دار کے بالا خانہ میں یا کوٹھے پر کے پانچخانہ میں جس کا راستہ طریق اعظم کی طرف ہے گئی تو یہ دار سے نکلنا نہ ہوا یہ بسوط میں ہے۔

اگر کسی نے قسم کھائی کہ مکہ میں داخل ہوں گا پھر داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مر گیا تو آخر جزو اجزائے حیات میں حانث ہوگا:

اگر قسم کھائی کہ مکہ کی جانب خارج نہ ہوگا یا مکہ کی طرف نہ جاؤں گا پھر مکہ جانے کے ارادہ سے نکلا پھر واپس ہوا یا تو حانث ہو جائے گا اور حانث ہونے کے واسطے شرط یہ ہے کہ اپنے شہر کی آبادی سے مکہ کو جانے کی نیت سے خارج ہو جائے اور اگر آبادی سے تجاوز کرنے سے پہلے لوٹ آیا تو حانث نہ ہوگا اگر چہ وہ اسی نیت پر ہو یہ کافی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ مکہ کی جانب پیدل نہ نکلوں گا پھر اپنے شہر کی آبادی سے پیدل نکل گیا پھر سوار ہو لیا تو حانث ہوگا اور اگر سوار ہو کر آبادی سے نکلا پھر پیدل ہو لیا تو حانث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ مکہ میں داخل ہوں گا پھر داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مر گیا تو آخر جزو اجزائے حیات میں حانث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اس کے پاس کل کے روز آوں گا اگر استطاعت ہوئی پھر اس کو مرض یا سلطان وغیرہ کوئی مانع و عارض پیش نہ آیا تو حانث ہوگا یہ کافی میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ بغداد میں پیدل نہ آئے گا پھر سوار ہو کر بغداد تک آیا پھر پیدل ہو کر بغداد میں داخل ہوا تو حانث ہوگا یہ

۱۔ قال المترجم اسی کتاب کے باب سابق میں اختلاف عربی و عجمی ہونے کی روایت مذکور ہوئی ہے اور یہاں تعیم فرمائی واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲۔ ۲۔ قول صحیح اقوال اصل مسئلہ کے یہ معنی ہیں اور درجہ یہ کہ دروازہ کی خصوصیت لغو ہے تو نکلنا معتبر ہے جبکہ کسی دروازہ سے ہو ۱۲۔ ۳۔ قال المترجم الا نکلا اس کی مراد استطاعت حقیقہ ہو جس کے ساتھ وجود فعل ہوتا ہے تو حانث نہ ہوگا کمانی الطلاق ۱۲۔

خلاصہ میں ہے اور منقہی میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میری بیوی فلاں کی شادی نکاح میں نہ آئے گی پھر اس کی عورت قبل شادی نکاح کے گنی اور وہیں رہے یہاں تک کہ شادی ہوگئی تو حانث نہ ہوگا اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں کے پاس نہ آؤں گا تو یہ قسم اس پر ہے کہ اس کے مکان یا دکان پر نہ آئے خواہ اس سے ملاقات ہو یا نہ ہو اور اگر اس کی مسجد میں آیا تو حانث نہ ہوگا اور منقہی میں لکھا ہے کہ ایک نے دوسرے کا ساتھ لازم پکڑا یعنی اپنے حق کی طلب کے واسطے ہر وقت اس کے ساتھ رہنے لگا پس جس کا ساتھ پکڑا ہے اس نے قسم کھائی کہ کل اس کے پاس آؤں گا پھر جہاں اس کا ساتھ پکڑا تھا وہاں آیا تو قسم میں سچا نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کے مکان پر آئے اور اگر اس کے مکان پر اس کا ساتھ پکڑا ہے اور قسم کھائی کہ کل اس کے پاس ضرور آئے گا پھر طالب اس مکان سے دوسری جگہ اٹھ گیا پھر قسم کھانے والا اسی مکان پر آیا جہاں اس کا ساتھ پکڑا تھا اور اس کو نہ پایا تو قسم میں سچا نہ ہوگا یہاں تک کہ جس مکان میں اٹھ گیا ہے وہاں جائے اور اگر قسم کھائی کہ اگر میں تیرے پاس فلاں مقام پر کل کے روز نہ آؤں تو میرا غلام آزاد ہے پھر وہیں آیا مگر اسکو نہ پایا تو قسم میں سچا رہا بخلاف اس کے اگر یوں کہا کہ اگر میں تجھ سے فلاں مقام پر کل نہ ملوں تو میرا غلام آزاد ہے پھر حالف اس مقام پر آیا اور اس کو نہ پایا تو حانث ہو جائے گا اور نیز منقہی میں مذکور ہے کہ اگر قسم کھائی کہ فلاں کی عیادت کروں گا یا فلاں کی زیارت کروں گا پس اس کے دروازہ پر گیا مگر اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی گئی پس بدوں اس کی ملاقات کے واپس گیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر اس کے دروازہ پر آیا مگر اجازت نہ مانگی تو فرمایا کہ حانث ہو جائے گا جب تک کہ وہ طریقہ بجا نہ لائے جو عیادت کرنے والا یا زیارت کرنے والا کرتا ہے یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کی زیارت اس کی زندگی اور مرے پر نہ کروں گا پھر اس کے جنازہ کی مشایعت کی تو حانث ہو جائے گا اور اگر اس کی قبر پر آیا تو حانث نہ ہوگا الا آنکہ اس نے یہ بھی نیت کی ہو تو حانث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ رات تک یہاں سے نہ جاؤں گا یہاں تک کہ اس سے ملاقات کروں پھر وہ روپوش ہو گیا یہاں تک کہ رات ہوگئی پھر حالف نے اس کے دروازہ پر رات گزری تو حانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ اگر میں اس کو فلاں کی طرف نہ اٹھایا جاؤں تو میرا غلام آزاد ہے پھر اٹھالے گیا مگر اس کو نہ پایا تو حانث نہ ہوگا یہ غیاشیہ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ کسی دابہ پر سوار نہ ہوں گا پھر گھوڑے یا گدھے یا خچر پر سوار ہو تو حانث ہو جائے گا اور اگر اونٹ پر سوار ہوا حانث نہ ہوگا اور یہ استحسان ہے اور اگر اس نے اس کی بھی نیت کی ہو یعنی اونٹ پر بھی سوار نہ ہوگا تو یہ قسم اس کی نیت پر ہوگی یعنی حانث ہوگا اور اگر اس نے کسی نوع خاص کی نیت کی ہو مثلاً گھوڑا یا گدھا وغیرہ تو دیانتہ اس کی تصدیق ہوگی اور قضاء تصدیق نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے عام لفظ سے خاص کی نیت کی ہے۔ اور اگر قسم کھائی کہ سوار نہ ہوگا تو اس کی قسم ان جانوروں پر ہوگی جن پر لوگ سوار ہوتے ہیں جیسے گھوڑا، خچر وغیرہ اور اگر بعد قسم کے وہ کسی آدمی کی پیٹھ پر سوار ہو تو حانث نہ ہوگا اور فتاویٰ ابواللیث میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ سوار نہ ہوگا اور گھوڑے یا گدھے کی نیت کی کہ اس پر سوار نہ ہوگا تو دیانتہ کی راہ سے فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ بھی اس کی تصدیق نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فرس پر سوار نہ ہوں گا پھر بزڈون پر سوار ہو تو حانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ پرڈون پر سوار نہ ہو گا پھر فرس پر سوار ہو تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ فرس عربی گھوڑے کو کہتے ہیں اور بزڈون جمی گھوڑے کا نام ہے قال المترجم مشائخ نے فرمایا کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ عربی زبان میں اس نے قسم کھائی ہو اور اگر فارسی میں قسم کھائی کہ بز اسپ نہ نشیند یا اردو میں قسم کھائی کہ گھوڑے پر سوار نہ ہوگا تو کسی گھوڑے پر سوار ہوا بہر حال حانث ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر عربی زبان میں

قسم کھائی کہ خیل پر سوار نہ ہوگا تو فرس یا برزوں کسی پر سوار ہو حائث ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ دابہ پر سوار نہ ہوگا پھر زبردستی کسی دابہ پر لا دیا گیا تو حائث نہ ہوگا یہ غایتہ البیان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ دابہ پر سوار نہ ہوگا پھر گھوڑے و خچر وغیرہ پر زینپوش ڈال کر سوار ہو یا اونٹ و گدھے پر اکاف ڈال کر سوار ہو یا ننگی پیٹھ پر سوار ہو ابھر حال حائث ہو جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ مرکب پر سوار نہ ہوگا پھر کشتی میں سوار ہو تو فتاویٰ میں بروایت ہشام مذکور ہے کہ حائث ہوگا اور حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجرد میں فرمایا کہ نہیں حائث ہوگا اور اسی پر فتویٰ ہے یہ عتابیہ میں ہے اور لفظ ستور کا اونٹ کو شامل نہیں ہے الا ایسے مقام پر جہاں اونٹ پر بھی سوار ہوتے ہیں یہ چیز کردری میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ دابہ فلاں پر سوار نہ ہوگا پھر اس کے غلام مازوں کے دابہ پر سوار ہوا خواہ وہ غلام مقروض ہے تو حائث نہ ہوگا:

اگر قسم کھائی کہ اس زیں پر سوار نہ ہوگا پھر اس میں کچھ کمی یا زیادتی کر کے اس پر سوار ہو تو حائث ہو جائے گا اور اگر خباء زیں کو بدل دیا ہو تو حائث نہ ہوگا کہ زیں میں معتبر وہی خباء ہے یہ خلاصہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ آج ضرور اس دابہ پر سوار ہوگا پھر اس کو مضبوط باندھا اور جکڑا مگر اس کے سوار ہونے پر قادر نہ ہو تو آج کا دن گزر جانے پر حائث ہو جائے گا یہی فتاویٰ قاضی خان میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ اس دابہ پر سوار نہ ہوگا حالانکہ اس پر سوار ہے پس برابر اس پر سوار رہا تو حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے اس دابہ پر سوار نہ ہوگا پس فلاں نے اپنا یہ دابہ فروخت کر دیا پھر حالف اس پر سوار ہو تو حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ دابہ فلاں پر سوار نہ ہوگا پھر ایسے دابہ پر سوار ہوا جو فلاں وغیرہ کے درمیان مشترک ہے تو حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ وہ دابہ فلاں پر سوار نہ ہوگا پھر اس کے دو اب میں سے تین جانوروں پر سوار ہو تو حائث ہوگا یہ سراجیہ میں ہے اگر قسم کھائی کہ دابہ فلاں پر سوار نہ ہوگا پھر اس کے غلام مازوں کے دابہ پر سوار ہوا خواہ وہ غلام مقروض ہے یا غیر مقروض تو حائث نہ ہوگا یہ امام اعظم کا قول ہے مگر فرق دونوں صورتوں میں اتنا ہے کہ اگر غلام مذکور پر اس قدر قرضہ ہو کہ اس کے تمام رقبہ کو محیط ہو تو اس کے جانور پر سوار ہونے سے حائث نہ ہوگا۔ اگرچہ اس کی نیت ہو کہ فلاں کے غلام کے جانور پر بھی سوار نہ ہوگا اور اگر غلام مذکور پر اس قدر قرضہ نہ ہو کہ اس کی گردن کو بھی متفرق ہو یا بالکل قرضہ نہ ہو تو جب تک نیت نہ کی ہو حائث نہ ہوگا یعنی نیت کرنے کی صورت میں حائث ہوگا یہ ہدایہ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ تا بعد ادا کشتی پر سوار نہ ہوگا پھر چند فرسخ یعنی چند کوس کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو پھر اتر پڑا تو حائث نہ ہوگا یہ حاوی میں ہے۔ مجموع السوازل میں ہے کہ ایک نے کہا کہ ہر بار کہ میں کسی دابہ پر سوار ہوں تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ اس کو صدقہ کر دوں پھر ایک دابہ پر سوار ہو تو اس پر لازم آیا کہ اس کو صدقہ کرے پھر اگر صدقہ کر کے اس کو خرید لیا پھر اس پر سوار ہوا تو پھر اس کا صدقہ کر دینا لازم آیا اسی طرح تیسری چوتھی بار جتنی بار ایسا کرے اس پر یہی لازم آئے گا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر کہا کہ میں فلاں فربہ میں گیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس گاؤں کی زمین میں گیا تو حائث نہ ہوگا یہ عتابیہ میں ہے۔

ایک نے دوسرے سے کہا کہ بیٹھ کہ چاشت کا کھانا میرے یہاں کھالے پس اس نے کہا کہ اگر میں نے چاشت کا کھانا کھایا تو میرا غلام آزاد ہے پھر وہاں سے اپنے گھر آ کر چاشت کا کھانا کھایا تو حائث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ اگر میں نے آج

چاشت کا کھانا کھایا تو میرا غلام آزاد ہے تو ایسی صورت مذکورہ میں حانث ہوگا یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ زمین پر نہ چلوں گا پھر زمین پر جوتا یا موزہ پہن کر چلا تو حانث ہوگا اور اگر بچھونے پر چلا تو حانث نہ ہوگا اور اگر اجاڑ پر جوتا پہن کر یا ننگے پاؤں چلا تو حانث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔

باب : ۵

کھانے پینے وغیرہ پر قسم کھانے کے بیان میں

کھانے کے یہ معنی ہیں کہ جو چیز جانے کا احتمال رکھتی ہے۔ اپنے منہ سے اپنے پیٹ میں پہنچانا خواہ اس کو شکستہ کر لیا ہو یا نہ کیا ہو خواہ چبایا ہو یا نہ چبایا ہو۔ جیسے روٹی و گوشت و فواکہ وغیرہ اور پینے سے یہ مراد ہے کہ جو چیز چبانے کی محتمل نہیں ہے سائل چیزوں سے اس کو اپنے پیٹ میں پہنچانا جیسے پانی و نبید و دودھ و دہی و شہد^۱ و ستوتھے ہوئے وغیرہ ذلک پس اگر یہ بات پائی جائے تو پینا محقق ہوگا اور وہ حانث ہوگا ورنہ نہیں الا آنکہ اس کو بھی عرف و عادت میں پینا بولتے ہوں تو یوں بھی حانث ہو جائے گا یہ بدائع میں ہے اور ذوق کسی شے کا اپنے منہ سے پہنچانے سے اس عین شے کے اپنی حلق میں داخل کرنے کے یہ کافی میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ یہ اخروٹ یا یہ انڈانہ کھاؤں گا پھر اس کو نگل گیا تو حانث ہوگا یہ سراج و ہاج میں ہے۔ اگر کسی ایسی چیز کے نہ کھانے کی قسم کھائی جس میں چبانہ نہیں ہو سکتا ہے پھر اس کو دوسری چیز کے ساتھ کھایا پس اگر دوسری چیز ایسی ہے کہ اس طرح کھائی جاتی ہے تو قسم میں حانث ہو جائے گا مثلاً قسم کھائی کہ یہ دودھ نہ کھاؤں گا یا یہ شہد نہ کھاؤں گا پھر اس کو روٹی یا چھوارے کے ساتھ کھایا تو حانث ہو گیا اور اگر دودھ کو یوں ہی اور شہد میں پانی ڈال کر پی گیا تو حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص نے قسم کھائی کہ یہ دودھ نہ پیوں گا پس اس کو پی گیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اس کو نہ پیوں گا پھر اس کی کھیر بنائی یا اس میں روٹی ملا کر کھائی تو حانث نہ ہوگا اور یہ حکم ستوؤں وغیرہ میں ہے کہ جو کھائے جاسکتے ہیں اور پینے بھی جاسکتے ہیں اور مشائخ نے فرمایا کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ قسم بہ زبان عربی ہو اور اگر فارسی میں ہو پھر اس کو کھایا یا پیا بہر حال حانث ہوگا اور اسی پر فتویٰ ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ یہ روٹی نہ کھاؤں گا پھر اس کو خشک کر کے کوٹ ڈالال اور پانی ڈال کر اس کو پی لیا تو حانث ہوگا اور اس کو بھگویا ہوا کھالیا تو حانث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔ قال المترجم ہمارے عرف میں کھانے پینے میں وہی اعتبار ہے جو عرب کا ہے بخلاف زبان فارسی کے چنانچہ شراب الخمر عربی ہے اور اردو شراب پینا بہ خلاف فارسی کے کہ شراب خوردن بولتے ہیں لہذا مترجم نے احکام میں تفریق و تبدیہ کا قصد نہیں کیا ہے فافہم واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور اگر قسم کھائی کہ دودھ نہ کھاؤں گا پھر دودھ لیکھیر پکا کر کھائی تو شیخ ابو بکر بلخی نے فرمایا کہ حانث نہ ہوگا اگر چہ اس میں پانی نہ ڈالا اور اگر چہ دودھ کا جرم اس میں دکھائی دیتا ہو یہ حاویٰ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ مسکہ نہ کھاؤں گا پھر ایسے ستو کھائے جو مسکہ میں لٹھ کیے گئے تھے اور قسم کھانے والے کی کچھ نیت نہیں ہے تو امام محمد نے اصل میں فرمایا کہ اگر اجزائے مسکہ ظاہر ہوتے ہوں اور ان کا مزہ آتا ہو تو حانث ہوگا اور ظاہر نہ ہوتے ہوں اور مزہ نہ آتا ہو تو حانث نہ ہوگا۔ یہ بدائع میں ہے۔ ایک شخص نے قسم کھائی کہ رب^۲ نہ کھاؤں گا پھر ایسا عسیدہ^۳ بنایا ہوا کھایا جس میں رب

۱۔ شہد کے ساتھ گھولا ہوا کہنا ظاہر اس وجہ سے ہے کہ وہاں شہد بستہ ہوتا ہے بسبب سردی اور ہمارے یہاں اکثر سائل ہے ہاں کبھی کبھی جازے میں بستہ

ہو جاتا ہے لہذا غیر محتاج ہے ۱۲۔ ذوق ہماری زبان میں چکھنا بولتے ہیں لیکن کبھی چکھنے میں کچھ کھا بھی لیتے ہیں ۱۳۔

ملایا گیا ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا۔ الا آنکہ عصیدہ پر رب بعینہ قائم ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ زعفران نہ کھاؤں گا پھر اسی کعک کھائی جس پر زعفران لگائی گئی ہے یعنی مثل تل وغیرہ کے چٹائی گئی ہے تو حانث ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ شکر نہ کھاؤں گا پھر شکر منہ میں لی اور چوسا یہاں تک کہ پگھل گئی پھر اس کو نگل گیا تو حانث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔

قال المترجم اگر سکر بسیں مہملہ سے مراد شکر بشیں معجمہ ہے تو ہمارے عرف میں حانث ہوگا لیکن ظاہر اس کر بسیں مہملہ بستہ بنید ہے جو عرب میں معروف ہے واللہ علم اور اگر قسم کھائی کہ سر نہ کھاؤں گا پھر سباجہ^(۱) کھایا تو حانث نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ اس کو سر کہ نہیں کہتے ہیں یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر ایسی چیز پر معقود کی جو بعینہ^(۲) کھاتی جاتی ہے تو اس چیز بعینہ کھانے کی طرف راجع ہوگی اور اگر ایسی چیز پر معقود کی جو بعینہ نہیں کھاتی جاتی ہے یا ایسی چیز ہے کہ بعینہ کھائی جاسکتی ہے لیکن ازراہ عادت وہ اس طرح نہیں کھائی جاتی ہے تو جو چیز اس سے بنائی جائے یا لے جائے اس کی طرف قسم راجع ہوگی یہ وجیز کردری میں لکھا ہے اور مترجم کہتا ہے کہ اس کی توضیح امثلہ ذیل سے ذہن نشین ہوگی چنانچہ فرمایا کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ اس درخت خرما سے یا اس درخت انگور سے نہ کھاؤں گا پھر اس کے گدر چھوارے یا تر پختہ یا خشک یا اس کا جمار یا شگوف یا کیریاں یا ولس جو اس کے پھل سے حاصل ہو یا انگور یا شیرہ انگور کھائے تو حانث ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی حالت سے کسی کی صنعت جدید سے متغیر نہ کیا گیا ہو اور ایسا ہو مثلاً نبیذ یا ناطف^(۳) یا سرکہ یا پاٹ ہوئے ولس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ کافی میں ہے اور اگر اس نے عین درخت خرما میں سے کچھ کھایا یعنی چھال و پتے وغیرہ تو حانث نہ ہوگا اور یہی صحیح ہے یہ نہر الفائق میں لکھا ہے۔

اگر قسم کھائی کہ یہ حدجہ نہ کھاؤں گا پھر اسی کو پورا خر بوزہ و جانے کے بعد بطبخ ہو جانے کے بعد کھایا تو

اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ حانث نہ ہوگا:

اگر قسم کھائی کہ میں اس ہانڈی سے کچھ نہ کھاؤں گا تو یہ قسم اس چیز پر ہوگی جو اس میں پکائی جائے یہ محیط سرحسی میں ہے اگر قسم کھائی کہ میں اس ہانڈی سے کچھ نہ کھاؤں گا حالانکہ قسم سے پہلے اس نے پیالے میں اس ہانڈی سے بھر کر نکال لیا ہے پھر جو پیالہ میں تھا وہ کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے قال المترجم جم احوط یہ ہے کہ نہ کھائے واللہ اعلم۔ ایک نے قسم کھائی کہ خر بوزہ نہ کھاؤں گا پھر اس کی پکی چھوٹی بتیاں کھائیں تو مشائخ نے فرمایا کہ حانث نہ ہوگا اور انھیں مشائخ میں سے شیخ محمد بن الفضل ہیں اور یہ حکم اس وقت ہے کہ یہ بتیاں ایسی ہوں کہ خر بوزہ نہ کھلاتی ہوں قال المترجم جم ہماری زبان میں حانث ہوگا واللہ اعلم ہاں عربی زبان میں بطبخ خر بوزہ اور حدجہ بتیاں ہیں پس امید ہے کہ حانث نہ ہو اور اگر قسم کھائی کہ یہ حدجہ نہ کھاؤں گا پھر اسی کو پورا خر بوزہ ہو جانے کے بعد بطبخ ہو جانے کے بعد کھایا تو اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ حانث نہ ہوگا^(۴) اور اگر قسم کھائی کہ میں اس بطخ یعنی فالیز خر بوزہ سے نہ کھاؤں گا پھر اس فالیز کی بتیاں یا خر بوزہ کھایا تو حانث ہوگا جیسے قسم کھائی کہ اس درخت سے نہ کھاؤں گا پھر جو چیز اس کی

۱۔ رب آب خاشہ چیز ۱۲۔ ۲۔ عصیدہ قسم طعام مثل مالیدہ وغیرہ ۱۲۔ ۳۔ ظاہر اوہ نبیذ خرما ہے جس کو بستہ کر لیتے ہیں یا معرب شکر بشیں معجمہ ہو واللہ اعلم ۱۲۔ ۴۔ خرمدہ و مسکہ ملا کر مالیدہ بناتے ہیں ۱۲۔ ۵۔ قال المترجم ظاہر یہ تھا کہ وہ حانث ہو جائے کیونکہ یہاں اشارہ معتبر تھا و نام چنانچہ اس اصل پر بہت سے مسائل مبنی ہیں لیکن قسم میں جو نام لیا ہے وہی معتبر ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہئے ۱۲۔

(۱) اس میں سرکہ بہت پڑتا ہے ۱۲۔ (۲) اگرچہ اور کسی طرح بنا کر بھی اس کو کھاتے رہیں ۱۲۔

پیداوار سے (۱) حاصل ہوئی اور اس نے کھائی تو حانت ہو جاتا ہے۔ یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس درخت سے نہ کھاؤں گا اور یہ درخت بے ثمر ہے جیسے سرو وغیرہ تو قسم اس کے ثمن کی طرف راجع ہوگی یعنی اس کے فروخت سے جو دام آہیں ان میں سے نہ کھاؤں گا یہ تمین میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ اس درخت سے نہ کھاؤں گا پھر اس کی شاخ لے کر دوسرے درخت میں پیوند لگائی جیسے قلم لگاتے ہیں پھر یہ شاخ پھلی اور اس کے پھل اس نے کھائے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ حانت نہ ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ حانت ہوگا اور یہ مسئلہ سیر کبیر میں مذکور ہے قال المترجم الاول اصح والثانی احوط اور اگر قسم کھائی کہ اس درخت سے نہ کھاؤں گا پھر اس میں دوسرے درخت کی شاخ لگائی یعنی پیوند کی جیسے قلم لگاتے ہیں مثلاً سیب کے درخت کی قسم کھائی اور اس میں امرود کی شاخ پیوند کی تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے قسم میں اس درخت کا نام اس کے پھل کے نام سے لیا اور ساتھ ہی اس کی طرف اشارہ کیا ہے مثلاً کہا کہ میں اس درخت سیب سے نہ کھاؤں گا تو امرود کی شاخ کا امرود کھانے سے حانت نہ ہوگا اور اگر فقط اشارہ و نام درخت پر اقتصاد کیا یعنی پھل کا نام نہ لیا مثلاً کہا کہ میں اس درخت سے نہ کھاؤں گا اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو حانت ہوگا اور برقیاس مسئلہ سابقہ اس میں بھی اختلاف مشائخ ہونا چاہیے یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ شگوفہ خرمانہ کھاؤں گا پھر وہ کیریاں ہوگی یا یہ کیریاں نہ کھاؤں گا پھر وہ رطب یعنی پختہ تر خرما ہوگئے یا یہ رطب نہ کھاؤں گا پھر وہ تمر یعنی خشک چھوارے ہوگئے یا یہ عنب نہ کھاؤں گا یعنی تروتازہ پختہ انگور نہ کھاؤں گا پھر وہ زبیب یعنی خشک ہوگئے یا دودھ کی نسبت کہا کہ یہ دودھ نہ پیوں گا پھر وہ دہی یا مسکہ یا مکھن یا اقط یا مصل ہو گیا پھر اس کو کھایا تو حانت نہ ہوگا یہ تمر تاشی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس حمل کا گوشت نہ کھاؤں گا پھر وہ کیش ہو گیا اس کو کھایا تو حانت ہوگا۔ جو ہرہ نیرہ میں ہے۔

ایک شخص نے قسم کھائی کہ یہ دودھ نہ پیوں گا پھر اس کو جن بنا کر کھایا تو حانت نہ ہوگا اور اس صورت میں کہ اس کی نیت یہ ہو کہ جو اس سے بنایا جائے وہ بھی نہ کھاؤں گا تو حانت ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اس جنس کے مسائل میں اصل یہ ہے کہ اگر اس نے کسی چیز معین موصوفہ بصفہ پر قسم معقودہ کی پس اگر یہ صفت ایسی ہو کہ قسم کی جانب داعی ہو تو قسم اس صفت کے باقی رہنے کے ساتھ مقدر کی جائے گی ورنہ نہیں یہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس درخت کے شگوفہ سے نہ کھاؤں گا پھر لوز یا شمش ہو جانے کے بعد اس کو کھایا تو حانت نہ ہوگا یہ محیطہ سرخسی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ جو نہ کھاؤں گا پھر اس میں سے تر یا خشک کھایا تو حانت ہوگا اور یہی حکم بادام پستہ و انجیر وغیرہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ خمیص نہ کھاؤں گا پھر خشک یا تر خمیص کھایا تو حانت ہوگا یہ مبسوط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ نہ کھاؤں گا رطب اور نہ بسر یا نہ کھاؤں گا رطب یا بسر پھر مذنب کھایا تو اپنی قسم میں حانت ہوگا اور اس مسئلہ میں چار صورتیں ہیں قسم کھائی کہ نہ کھاؤں گا بسر پھر بسر مذنب کھایا جس میں اکثر تو بسر ہوتا ہے اور کچھ رطب ہو جاتا ہے یعنی گدر ہو جاتا ہے مگر کچا زیادہ ہوتا ہے تو بالاتفاق اپنی قسم میں حانت ہوگا اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ رطب نہ کھاؤں گا پھر رطب مذنب کھایا جس میں اکثر رطب ہوتا ہے اور کچھ بسر بھی رہتا ہے یعنی گدر ہوتا ہے جس میں کچا زیادہ ہوتا ہے تو بھی بالاتفاق حانت ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ بسر نہ کھاؤں گا پھر ایسا رطب کھایا جس میں کچھ ذرا سا بسر ہے یعنی کچا ہے تو امام اعظم و امام محمد کے

۱۔ اقط پیوستہ خشک کر لیتے ہیں مصل پختہ کر کے ترکیب سے مانند نبید کے بناتے ہیں اور جن پیڑ ہے ۱۲۔ ۲۔ اسی صنف پر قسم معلق ہے ۱۲۔ ۳۔ ایک قسم کا بالیدہ

بناتے ہیں جو عرب میں معروف ہے ۱۲۔ ۴۔ مذنب وہ کہ دم کی طرف سے پک چلا ہے ۱۲۔

(۱) پھل و مولی و کیری وغیرہ ۱۲۔ (۲) اگر چہ اور کسی طرح بنا کر بھی اس کو کھاتے رہیں ۱۲۔

نزدیک حانث ہوگا اور امام ابو یوسف کے نزدیک حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ رطب نہ کھاؤں گا پھر بسر کھایا جس میں کچھ ذرا سا رطب ہو گیا ہے تو امام اعظم و امام محمد کے نزدیک حانث ہو جائے گا اور حاصل یہ ہے کہ جس پر قسم کھائی ہے اگر وہ غالب ہو تو بالاتفاق تینوں اماموں کے نزدیک حانث ہو جائے گا اور اگر غیر معقود علیہ غالب ہو تو امام اعظم و امام محمد کے نزدیک حانث ہوگا یہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔

اگر بسر مذنب یا رطب مذنب کھایا اور اس طرح کھایا کہ اس کے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ کر ڈالے یعنی خام ٹکڑا الگ کر دیا اور پختہ الگ کر دیا پھر اس کے سب ٹکڑے ایک ایک کر کے کھالیے تو بالاتفاق حانث ہو جائے گا یہ تا تاریخانیہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ غسل نہ کھاؤں گا یعنی شہد صاف کیا ہوا جس میں موم کا میل نہ ہو پھر اس نے شہد کھایا یعنی موم ملا ہوا تو حانث ہو جائے گا اور اگر قسم کھائی کہ شہد نہ کھاؤں گا یعنی موم ملا ہو اب دوں صاف کیا ہوا پھر اس نے غسل کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے یہ اور اگر قسم کھائی کہ بقل نہ کھاؤں گا تو یہ سب سبزیوں پر جو ساگ سبز و تازہ ہوتے ہیں واقع ہوگی اور اگر ان میں سے کوئی خشک کیا ہوا کھایا تو حانث نہ ہوگا اور اگر پیاز کھایا تو حانث نہ ہوگا الا آنکہ اس نے اس کی نیت بھی کی ہو یہ تا تاریخانیہ میں حجتہ سے منقول ہے اور شیخ الاسلام ابو بکر محمد بن الفضل سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں عنب یعنی انگور نہ کھاؤں گا پس اس نے حشر کھایا تو شیخ نے فرمایا کہ حانث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ حشر نہ کھاؤں گا پھر عنب کھایا تو حانث نہ ہوگا اور حشر بمعنی حضرم ہے کذانی الظہیر یہ اور اگر قسم کھائی کہ اس بکری سے نہ کھاؤں گا^(۱) تو یہ قسم اس کے گوشت کی طرف راجع ہوگی نہ اس کی اس چیز کی طرف جو اس سے حاصل^(۲) ہو اور یہی حکم ہر ماکول^(۳) میں ہے یہ خلاصہ میں ہے اور اگر کہا کہ جو اس بکری سے برآمد ہو یا اس کے نزل سے نہ کھاؤں گا تو اس کے دودھ و خنص و مکھن کھانے سے حانث ہوگا نہ گھی و شیراز^۴ سے یہ عتابیہ میں ہے۔

اسی طرح اگر کہا کہ اس گائے کے نزل سے نہ کھاؤں گا پھر اس کا خنص کھایا جس کو فارسی میں دوغ زدہ کہتے ہیں تو حانث ہوگا اس واسطے کہ یہ بھی اس کا نزل ہے اور اگر وہ شوربا کھایا جو اس کے خنص سے بنایا گیا ہے جس کو فارسی میں دوغ آب کہتے ہیں تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ دوسری چیز ہوگی یہ خلاصہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ وہین نہ کھاؤں گے تو وہین الکمراع کے کھانے سے حانث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اس درخت انگور کے کھٹے و بیٹھے نہ کھاؤں گا پھر اس کے گدرو پختہ انگور جیسے کھائے ہوں حانث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اس مسلوخ سے نہ کھاؤں گا پھر اس مسلوخ یعنی کھال کھینچے ہونے کا دنبہ یعنی چکسی گائی گئی یہاں تک کہ تیل ہوگئی یعنی گل کر چربی مثل تیل کے ہوگئی اور اس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس سسم یعنی تیل سے نہ کھاؤں گا پھر اس کا تیل کھایا تو حانث نہ ہوگا قال المترجم ہمارے عرف میں حانث ہونا چاہیے یہ زبان عربی کی قسم پر ہے کہ لا یا کل من هذا السسم کہ اس کے تیل کے واسطے علیحدہ نام ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس مرغی سے نہ کھاؤں گا پھر اس کے انڈے یا چوزے کھائے تو حانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ اس انڈے سے نہ کھاؤں گا پھر اس کا بچہ کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

۱۔ معقود علیہ جس پر قسم کھائی ہے ۱۲۔ ۲۔ پیاز کھانے سے حانث نہ ہوگا کیونکہ وہ بقول میں نہیں ہے ۱۲۔ ۳۔ شیراز جمایا ہوا اور خنص بھی اسی طرح منٹھا

بناتے ہیں ۱۲۔ ۴۔ غالب استعمال لفظ نزل کا پھل وارد درختوں کے ساتھ ہے جیسے بولتے ہیں کہ جو اسم اس درخت سے اتریں ۱۲۔

(۱) اور اگر کہا کہ یہ بکری نہ کھاؤں گا تو ظاہر ہے کہ اس کے گوشت کی طرف راجع ہے ۱۲۔ (۲) دودھ وغیرہ ۱۲۔ (۳) ماکول لحم جس کا گوشت کھایا جاتا ہو ۱۲۔

اگر گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی تو گوشت کے زمرے میں کونسی چیزیں شمار ہوں گی؟

اگر قسم کھائی کہ لحم نہ کھاؤں گا یعنی گوشت تو جس حیوان کا گوشت کھائے گا حائث ہو جائے گا سوائے مچھلی کے اور گوشت خواہ پکایا ہو کھائے یا بھونا ہو یا خشک کیا ہو اور خواہ حلال ہو یا حرام ہو جیسے مرے ہوئے جانور کا گوشت یا ایسے جانور کا جس پر عمداً بسم اللہ اکبر کہنا ترک کر کے چھری پھیر دی ہے یا مجوسی نے اس کو ذبح کیا یا محرم کا شکار کیا ہو ہے اور مچھلی اور ان جانوروں کے گوشت سے جو پانی میں جیتے ہیں حائث نہ ہوگا ہاں اگر اس نے مچھلی کی بھی نیت کی ہو تو حائث ہوگا یہ اختیار شرح مختار میں ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ اگر ایسی قسم کھانے والا مثلاً خوارزمی ہو اور اس نے مچھلی کھائی تو حائث ہوگا اس واسطے کہ وہ لوگ اس کو بھی لحم بولتے ہیں یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر اس نے سور یا آدمی کا گوشت کھایا تو بھی حائث ہوگا اور صحیح یہ ہے کہ سور و آدمی کے گوشت کھانے سے حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس کا کھانا متعارف میں ہے اور قسموں کا مدار رواج پر ہے اور شیخ عتابی نے فکر کیا ہے کہ وہ حائث نہ ہوگا اور اسی پر فتویٰ ہے یہ کفایہ میں ہے اور کچا گوشت کھانے سے حائث نہ ہوگا اور یہی شیخ ابو بکر اس کا قول ہے اور یہی اظہر ہے اور اسی پر فتویٰ ہے یہ چیز کروری میں ہے اور اگر حشو یعنی اوجھ و جگر و تلی کھائی تو حائث ہو جائے گا اور یہ حکم برنباے عرف اہل کوفہ ہے کیونکہ یہ چیزیں ان کے رواج میں گوشت کے ساتھ فروخت ہوتی تھیں اور مثل استعمال گوشت کے متعمل ہوتی تھیں اور ہمارے عرف میں ان کے کھانے سے حائث نہ ہوگا یہ محیط ہے اور اسی پر فتویٰ ہے یہ جوہر اخلاطی میں ہے قال المترجم ہمارے رواج میں مثل اہل کوفہ کے حکم ہوگا اور یہ اظہر ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

اگر اس نے سری یا پائے کھائے تو حائث ہوگا اور چربی و دنبہ یعنی چکیتی کے کھانے سے حائث نہ ہوگا الا آنکہ اس نے گوشت کی قسم میں ان کی بھی نیت کی ہو بخلاف پٹھکی چربی کے کہ اس کے کھانے میں بلانیت حائث ہوگا یہ فتح القدر میں ہے اور اگر وہ حمرہ جو چکیتی کے بیچ میں ہوتا ہے کھایا تو حائث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ لحم شاة نہ کھاؤں گا پھر اس نے لحم غزالہ کھایا تو حائث ہوگا اور فقیہ ابو اللیت نے فرمایا کہ حائث نہ ہوگا خواہ قسم کھانے والا شہری ہو یا دیہاتی ہو اسی پر فتویٰ ہے یہ فتح القدر میں ہے قلت بنا بر اختلاف اطلاق شاة وغزو مغزو وضان بعموم وخصوص چنانچہ مقدمہ میں مذکور ہے ملتر اجہا۔ امام محمد نے جامع میں ذکر فرمایا کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ مرغی کا گوشت نہ کھاؤں گا جس کو دجاج کہتے ہیں پھر اس نے دیک کا گوشت کھایا یعنی مرغ کا تو اپنی قسم میں حائث نہ ہوگا اور دراصل اس جنس کے مسائل میں یہ ہے کہ جب قسم کسی جنس کی طرف مضاف کی گئی تو اس قسم میں اس جنس کے نو مادہ دونوں داخل ہوں گے اور اگر قسم کی اضافت خاص نر کے نام کی طرف ہو تو اس کے تحت میں مادہ داخل نہ ہوگی اور اسی طرح اگر اضافت خاص مادہ کے نام کی طرف ہو تو نر داخل نہ ہوگے اور عربی زبان کے موافق علامت تار ہونے سے لامحالہ مادہ کا نام خاصیت ہونے کی شناخت نہیں ہو سکتی ہے یعنی اگر نام کے آخر میں حرف تازہ موجود ہو تو اس سے یہ شناخت نہیں ہو سکتی ہے کہ لامحالہ مادہ کی خصوصیت ہے اس واسطے کہ یہ حرف مشترک ہے کہ کبھی نر کے ساتھ بھی بولتے ہیں بغرض افراد کے یعنی حرف تاء کبھی تانیث کے واسطے آتا ہے اور کبھی افراد کے واسطے پس اس میں اعتبار فقط وضع کا ہے کہ یہ لفظ کسی کے واسطے موضوع ہے اور یہ بات بذریعہ نقل کے معلوم کی جائے گی پس اگر قسم کھائی کہ دجاج کا گوشت نہ کھاؤں گا پھر اس نے دیک کا گوشت کھایا تو حائث نہ ہوگا اور اس طرح اگر قسم کھائی کہ دیک کا گوشت نہ کھاؤں گا تو دجاج کے گوشت کھانے سے حائث نہ ہوگا اور فرمایا کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ جمل کا

گوشت نہ کھاؤں گا یا قسم کھائی کہ بھیر کا گوشت نہ کھاؤں گا یا لحم ابل نہ کھاؤں گا یا لحم جزور نہ کھاؤں گا تو قسم میں زرو مادہ دونوں داخل ہوں گی اور اسی طرح اس قسم میں بختی و عربی دونوں داخل ہوں گے اور اگر قسم میں تخصیص کی کہ بختی کا گوشت نہ کھاؤں گا پس عربی اونٹ کا گوشت کھایا یا عربی کا گوشت نہ کھاؤں گا پھر بختی کا گوشت کھایا تو قسم میں حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ ناقہ کا گوشت نہ کھاؤں گا یعنی اونٹنی کا پھر زاونٹ کا گوشت کھایا خواہ بختی ہو یا عربی ہو تو حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ لحم بقر نہ کھاؤں گا پھر گائے کا گوشت کھایا یا بیل کا گوشت کھایا تو حانث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ لحم بقرہ نہ کھاؤں گا پھر بیل کا گوشت کھایا تو حانث ہوگا اس واسطے کہ بقرہ اسم جنس ہے اور تاء اس میں افراد جنسی کی ہے اور اگر قسم کھائی کہ ثور کا گوشت نہ کھاؤں گا پھر گائے کا گوشت کھایا تو حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ لحم بقر نہ کھاؤں گا پھر بھینس کا کھایا تو اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا ایسا ہے امام محمدؒ نے جامع میں ذکر فرمایا ہے اور حاوی میں مذکور ہے کہ وہ حانث ہوگا بخلاف اس کے اگر قسم کھائی کہ لحم جاموش نہ کھاؤں گا پھر لحم بقر کھایا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ جاموش اسم نوع ہے اور صحیح وہی ہے جو جامع میں مذکور ہے یہ محیط میں ہے اور مولف نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں حانث نہ ہونا چاہیے کیونکہ لوگ ان دونوں میں فرق کرتے ہیں یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے وقال المترجم ہمارے عرف میں اگر قسم کھائی کہ گائے کا گوشت نہ کھاؤں گا تو گائے یا بیل سب کے گوشت کھانے سے حانث ہوگا الا آنکہ اس کی نیت تخصیص کی ہو تو دیانتہ تصدیق ہوگی نہ قضاء و بذاعلیٰ خلاف العربیہ اور اسم جنس میں اتفاق ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

اگر قسم کھائی کہ اس گوشت سے کچھ نہ کھاؤں گا پھر اس کا شور با کھایا تو حانث نہ ہوگا بشرطیکہ اس کی نیت نہ ہو یہ خلاصہ میں ہے۔ ایک شخص نے قسم کھائی کہ جو گوشت فلاں شخص لائے گا میں اس سے نہ کھاؤں گا پھر یہ شخص گوشت لایا اور اس کو بھونا اور اس کو روٹیوں پر رکھ کر جو ذاب کر کے لایا پھر حالف نے جو ذاب سے جس میں گوشت کی وسومت پہنچی ہے کھایا تو حانث ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ ہر بار کہ میں نے گوشت کھایا تو ایک غلام میرے غلاموں میں سے آزاد ہے پھر اس نے گوشت کھایا تو ہر لقمہ پر ایک غلام کا حلق لازم آئے گا یہ ظہیر یہ میں ہے اگر قسم کھائی کہ چربی نہ کھاؤں گا پھر پیٹ کی چربی کھائی تو حانث ہوگا اور اگر پیٹھ کی چربی جس میں گوشت ملا ہوا ہوتا ہے کھائی تو امام اعظمؒ کے نزدیک حانث نہ ہوگا اور یہی صحیح ہے یہ کافی میں ہے اور گر پیٹھ کی چربی الگ کر دی اور اس کو کھایا تو امام اعظمؒ سے اس کی کوئی روایت نہیں ہے اور کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ امام اعظمؒ کے نزدیک حانث نہ ہوگا اور خلاصہ الحانیہ میں لکھا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ عربی زبان میں قسم کھائی ہو اور اگر فارسی زبان میں لفظ پیہ کے ساتھ قسم کھائی تو مشائخ نے فرمایا کہ حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ لفظ پیہ پیٹھ کی چربی کو شامل نہیں ہے یہ تا تاریخانیہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ چربی نہ کھاؤں گا یعنی شحم پھر اس نے الیہ یعنی چکتی کھائی تو حانث نہ ہوگا اور اس واسطے کہ ازراہ لفظ ومعنی و عرف کے الیہ غیر لحم و شحم ہے یعنی چکتی غیر گوشت و چربی ہے یہ کافی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا تو یہ قسم تمام ان چیزوں پر واقع ہوگی جو بطریق سالن روٹی کے کھائی جاتی ہیں اور مثل ہلیلہ و ستمونیا وغیرہ پر واقع نہ ہوگی یہ بدائع میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ میں یہ طعام کھاؤں گا پس اگر اس کے ساتھ کوئی وقت بیان نہیں کیا ہے پھر یہ طعام نیست ہو گیا یا کوئی دوسرا کھا گیا یا حالف خود مر گیا تو اپنی قسم میں حانث ہو اور اگر اس کے ساتھ کوئی وقت بیان ہو مثلاً قسم کھائی کہ آج میں اس طعام کو کھاؤں گا پھر دن گزرنے سے پہلے حالف مر گیا تو بالا جماع

۱ بدیں معنی کہ جمل و بھیر و ابل و جزور اسم جنس ہیں جیسے اونٹ ۱۲۔ ۲ یہ عربیت کے خلاف ہے اور ہمارے یہاں بھینس اور گائے میں بھی فرق معروف ہے جیسے جامع میں مذکور ہے ہاں زکوٰۃ میں البتہ ان کو ایک جنس شمار کیا گیا کیونکہ وہاں ذات کی راہ سے حکم ہے اور یہاں عرف پر مدار ہے ۱۲۔ ۳ نام و معنی و عرف سب طرح سے چکتی اور ہے اور گوشت و چربی اور ہے ۱۲۔

حادث نہ ہوگا اور اگر یہ روز گذرنے سے پہلے یہ طعام نیست ہو گیا تو دن گذرنے سے پہلے بالاجماع وہ حادث نہ ہوگا حتیٰ کہ کفارہ اس کے ذمہ لازم نہ ہو جائے گا اور نیز اگر دن گذرنے سے پہلے اس نے کفارہ ادا کر دیا تو جائز نہ ہوگا اور جب یہ دن گذر گیا تو اختلاف ہے چنانچہ امام ابوحنیفہ و امام محمد نے فرمایا کہ اس پر کفارہ لازم نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا حالانکہ اس نے کسی خاص طعام معین کی نیت کی ہے یا قسم کھائی کہ گوشت نہ کھاؤں گا اور نیت کسی خاص گوشت یعنی معین کی ہے پھر اس کے سوائے دوسرا کھایا تو حادث نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے قال المترجم منیفی ان لایصدق فی القضاء واللہ اعلم اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ ایک نے قسم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا پھر اس پر اتنے فاقہ گذرے کہ مردار اس کو حلال ہو گیا اور وہ مردار کھانے پر مضطر ہو اپس اس نے مردار کھایا تو حادث نہ ہوگا اور شیخ کرنی نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ قول امام محمد کا ہے اور ابن رستم نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ وہ حادث ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا پھر خفیف کوئی چیز طعام میں سے کھائی تو بھی حادث ہوگا اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ پانی نہ پیوں گا تو بھی خفیف پانی پینے سے حادث ہوگا اور اگر اس نے کل پانی یا کل طعام کی نیت کی ہو تو ایسی صورت میں حادث نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے اصل یہ ہے کہ ہر چیز کہ اس کو آدمی ایک بیٹھک میں کھا سکتا ہے یا ایک بار پینے میں پی سکتا ہے تو اس چیز پر قسم اس کے کل پر ہوگی اور اس میں سے تھوڑے کے کھانے سے حادث نہ ہوگا کہ اس کے کل سے باز رہوں گا اور یہ حاصل ہے اور ہر چیز کہ اس کو آدمی ایک بیٹھک میں نہیں کھا سکتا ہے یا ایک دفعہ پینے میں نہیں پی سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑے کے کھانے پینے سے بھی حادث ہوگا اس واسطے کہ اس واسطے کہ مقصود یہ ہے کہ قسم سے مقصود یہ ہوگا کہ اس چیز ہی سے باز رہوں گا یہ مقصود نہ ہوگا کہ اس کے کل سے باز رہوں گا اس واسطے کہ یہ خود ممکن نہیں ہے پس جو فعل غالباً ممتنع ہو وہ قسم سے مقصود نہیں ہوتا ہے اور اگر قسم کھائی (۱) کہ اس باغ کا پھل نہ کھاؤں گا یا ان درختوں کے پھل نہ کھاؤں گا یا ان دونوں روٹیوں میں سے نہ کھاؤں گا یا ان دونوں بکریوں کے دودھ میں سے نہ پیوں گا یا اس بکری سے نہ کھاؤں گا پھر اس میں سے تھوڑا کھایا تو حادث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اس مٹکے کا گھی نہ کھاؤں گا پھر اس میں سے کچھ کھایا تو حادث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ یہ انڈا نہ کھاؤں گا تو حادث نہ ہوگا جب تک کہ پورا انڈا نہ کھائے اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا پس اگر اس سب کو ایک دفعہ میں کھا سکتا ہے تو جب تک سب نہ کھائے حادث نہ ہوگا اور اگر سب کو اس طرح نہیں کھا سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑا کھانے سے بھی حادث ہوگا اور ایک روایت میں قاعدہ یوں مروی ہے کہ اگر یہ چیز ایسی ہو کہ اس کو اپنی تمام عمر میں کھا جا سکتا ہے تو جب تک کل نہ کھائے حادث نہ ہوگا مگر روایت اول اصح ہے اور وہی ہمارے مشائخ کے نزدیک مختار ہے اور امام محمد سے مروی ہے کہ اگر قسم کھائی کہ اس اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں گا تو یہ قسم اس کے تھوڑے پر بھی ہوگی اس واسطے کہ ایک دفعہ میں اس سب کو وہ نہیں کھا سکتا ہے یہ محیطہ نحسی میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ یہ کل انار نہ کھاؤں گا پھر اس کے دو ایک دانہ چھوڑ کر باقی سب کھا گیا تو یہ چھوڑنا کچھ نہیں ہے استحساناً و حادث ہو جائے گا اور اگر اس سے زیادہ چھوڑے تو دیکھا جائے گا کہ اگر اتنے دانے چھوڑے کہ عرف و عادت کے موافق کھانے والا اتنے چھوڑ دیا کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے انار مذکور کھالیا تو بھی حادث ہوگا اور اگر اتنے چھوڑے ہیں کہ عرف و روان میں

۱۔ چاہئے کہ قاضی اس کے قول کی تصدیق نہ کرے فہم ۱۲۔ ۲۔ اختیار اس کے کھانے پر مجبور ہوا اور اس کے واسطے تین دن کچھ شرط نہیں ہے بلکہ ایک

اندازہ ہے حتیٰ کہ اگر دو دن میں یہ نوبت پہنچے تو وہ مضطر ہے ۱۲۔

(۱) مثال قاعدہ دوم ۱۲۔

کھانے والا اتنے دانہ چھوڑتا نہیں ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے سب نہیں کھایا ہے تھوڑا چھوڑ دیا تو وہ حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ جو نہ کھاؤں گا یعنی پاؤ یا ڈیڑھ پاؤ کے قریب تھے پھر سب کھا گیا سوائے دو ایک دانوں کے کہ ان کو چھوڑ دیا جیسے چھوڑ دیا کرتے ہیں تو وہ اپنی قسم میں حائث ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ یہ گروہ روٹی نہ کھاؤں گا بھر کچھ قلیل چھوڑ کر سب کھا گیا تو حائث ہوگا الا آنکہ اس نے کل نہ کھانے کی نیت کی ہو تو حائث نہ ہوگا مگر آیا قضاء اس کی اس نیت کی تصدیق ہوگی یا نہیں تو اس میں دو روایتیں ہیں یہ وجیز کروری میں ہے۔ اور اگر قسم کھائی کہ اگر میں اس گروہ روٹی کو کھاؤں تو میری بیوی طالق ہے پھر کہا کہ اگر میں اس کو نہ کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے تو ایسا حیلہ کہ جس سے جو رو طالق نہ ہو اور غلام آزاد نہ ہو یہ ہے کہ اس میں سے نصف کھالے اور نصف چھوڑ دے یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ ضرور یہ گروہ روٹی کھا جائے گا پھر اس کو کھا گیا مگر ایک گی تو قسم میں پہنچا ہوگا الا آنکہ اس کی نیت یہ ہو کہ اس میں سے کچھ نہ چھوڑوں گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ یہ روٹی مجھ پر حرام ہے تو صحیح یہ ہے کہ اس میں سے بعض حصہ روٹی کھانے سے حائث نہ ہوگا اور اگر دوسرے سے کہا کہ واللہ میں تیرے طعام میں سے نہ کھاؤں گا پس اگر میں نے اس میں سے کھایا تو وہ مجھ پر حرام ہے پھر اس میں سے ایک لقمہ کھایا تو اول قسم میں حائث ہوا پھر اگر اس نے دوبارہ کھایا تو دوسری قسم میں بھی حائث ہو گیا اور اس پر دو کفارے لازم آئے گے یہ وجیز کروری میں ہے اور اگر اس نے اپنے دو غلاموں سے کہا کہ جو غلام تم میں سے آج اس گروہ روٹی کو کھالے وہ آزاد ہے پھر دونوں نے اس کو کھالیا تو کوئی آزاد نہ ہوگا اور اگر وہ ایک روٹی اتنی بڑی ہو کہ ان میں سے اکیلا کوئی اس کو نہیں کھا سکتا تھا پھر دونوں نے اس کو کھالیا تو بدلاتہ الحال دونوں آزاد ہو جائے گے یہ شرح جامع کبیر حصری میں ہے۔

اگر اپنی عورتوں سے کہا کہ تم میں سے جس نے اس طعام میں کھالیا وہ طالق ہے:

اگر اس نے اپنی دو عورتوں^(۱) سے کہا کہ اگر تم نے ان دو روٹیوں کو کھالیا تو میرا غلام ہے پھر ہر ایک نے ایک ایک روٹی کھالی تو اس کا غلام آزاد ہو گیا اور اسی طرح اگر ایک نے تھوڑی سی چھوڑ کر دونوں روٹیاں کھالیں پھر بچی ہوئی دوسری نے کھالی تو بھی غلام آزاد ہو گیا یہ محیط سرخسی میں ہے۔ اصل میں مذکور ہے کہ اگر اپنی عورتوں سے کہا کہ تم میں سے جس نے اس طعام میں سے کھالیا وہ طالق ہے پھر سبوں نے اس میں سے کھایا تو سب مطلقات ہو گئیں اور اگر یوں کہا کہ تم میں سے جس نے یہ طعام کھالیا وہ طالق تو دیکھا جائے گا کہ اگر یہ طعام اس قدر زائد ہے کہ ایک عورت اس کو تنہا نہیں کھا سکتی^(۲) ہے تو صورت مذکورہ میں سب مطلقات ہو جائے گی اور اگر طعام قلیل تھا کہ ایک عورت اس کو کھا سکتی تھی تو صورت مذکورہ میں جب کہ سبوں نے اس کو کھالیا کوئی طالق نہ ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر کسی نے بطوع^(۳) خود یا باکراہ کسی چیز کے نہ کھانے پر قسم کھائی اور اس چیز کا نام لے لیا ہے یعنی بیان کر دی ہے پھر اس پر اکراہ کیا گیا کہ اس کو کھائے پس بہ مجبوری اس نے کھائی تو حائث ہو گیا اسی طرح اگر حالت بیہوشی یا جنون میں اس کو کھایا تو بھی حائث ہو گیا اور اگر زبردستی اس کے حلق میں ٹھونس دی گئی یا اس کے حلق میں پکا کر پلائی گئی حالانکہ اسکے نہ پینے کی قسم کھا چکا تھا تو حائث نہ ہوگا لیکن اس کے بعد اگر اس نے بطوع خود پی لی تو حائث ہوگا یہ مبسوط میں ہے قسم کھائی کہ نمک نہ کھاؤں گا پھر اس نے طعام کھایا پس اگر یہ طعام نمکین نہ تھا تو حائث نہ ہوگا اور یہی مختار ہے اور اگر نمکین تھا تو حائث ہوگا جیسے قسم کھائی کہ مرچ

۱۔ ظاہر یہ حکم قضاء ہے در صورتیکہ اس کی غیت انفرادی ہو ۱۲۔ ۲۔ اگرچہ اس میں نمک ڈالا گیا ہو ۱۲۔

(۱) بیویوں کی قید تقسیم کے واسطے ہے ۱۲۔ (۲) سبوں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھالیا ۱۲۔ (۳) اپنی خوشی و اختیار سے اور باکراہ یعنی زبردستی مجبور

نہ کھاؤں گا پھر مرچ پڑا ہوا طعام کھایا پس اگر مرچ کا ذائقہ اس میں ہے تو حائث ہوگا ورنہ نہیں اور فقیہ ابو اللیث نے فرمایا کہ جب تک خالی نمک کو روٹی وغیرہ کسی چیز کے ساتھ نہ کھائے تب تک حائث نہ ہوگا اور اسی پر فتویٰ ہے قال المترجم یہ نہایت آسانی بحق عوام ہے لیکن نہایت افسوس ہے کہ ہمارے عرف کے خلاف ہے فلیتامل فیہ۔

اگر اس کی قسم میں کوئی ایسا امر ہو جو دلالت کرے کہ اس نے نمک دار طعام مراد لیا ہے تو اس کی قسم اسی پر واقع ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ شیخ الاسلام زائد سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ گوشت نہ کھاؤں گا اور دوسرے نے قسم کھائی کہ پیاز نہ کھاؤں گا اور تیسرے نے کہا کہ مرچ نہ کھاؤں گا پھر محشو بنایا گیا جس میں یہ سب قسم چیزیں ڈالی گئیں اور اس کو ان سب قسم کھانے والوں نے کھایا تو فرمایا کہ سوائے مرچ کے قسم کھانے والے کہ کوئی حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ مرچ اسی طرح کھائی جاتی ہے پس اس کی قسم اس طرف راجع ہوگی اور اگر قسم کھائی کہ اپنی بیوی کے کھانے سے نہ کھاؤں گا پھر یہ عورت اس کے پاس اپنی ملک کا کھانا لائی اور اس سے کہا کہ دار بخود یعنی رکھ کھا پس شوہر نے اس کو لے لیا اور اس میں سے کھایا تو حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ یہ خود شوہر کی ملک ہو گیا اور اگر عورت مذکورہ نے دار بخود نہ کہا کہ ہو اور باقی مسئلہ بحالہ ہو تو حائث ہوگا زید کی فالیز ہے اس نے عمر کو اس کے بچانے کے واسطے مقرر کیا اور عمر کو مباح کر دیا کہ اس میں سے جو چاہے کھائے پس عمر نے قسم کھائی کہ اگر اپنے فالیز میں سے کچھ کھاؤں تو میری بیوی کو طلاق ہے حالانکہ خود عمر کی کوئی فالیز نہیں ہے نہ بطور ملک نہ اجارہ پر نہ مستعار پھر اس نے اس فالیز میں سے جو اس کے بچانے کے واسطے مقرر کیا گیا ہے کھایا تو اس کی بیوی طالق نہ ہوئی الا جب کہ یہ فالیز عرف میں اس کی طرف مضاف ہو یعنی اسکی فالیز کہلائی جائے اور بدوں اس کے وہ حائث نہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ تمر یعنی چھوہارا نہ کھاؤں گا تو چھوہارے کی قسموں میں سے جس قسم میں ہے کھائے گا حائث ہو جائے گا اور اگر جیس کھایا تو بھی حائث ہو جائے گا اس واسطے کہ جیس ان چھوہاروں کو کہتے ہیں کہ دودھ میں ڈال دے جائیں تاکہ جب پھول جائیں تو کھائے جائیں اور اسی طرح اگر چھوہاروں کا عصیدہ کھایا تو بھی حائث ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ یہ چھوہارا نہ کھاؤں گا پھر یہ چھوہارا اور چھوہاروں میں رل مل گیا پھر وہ شخص یہ سب چھوہارے کھا گیا تو حائث ہو گیا یہ مبسوط میں ہے اور قسم کھائی کہ میں تمر نہ کھاؤں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے پھر اس نے قب کھایا تو حائث نہ ہوگا اور اس طرح اگر پسر جو آگ سے پکائے گئے ہیں یا رطب کھائے تو حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ عرف میں ان کو تمر نہیں کہتے ہیں الا آنکہ قسم کے وقت اس کی نیت میں یہ بھی ہوں تو حائث ہوگا یہ بدائع میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ اس آٹے سے نہ کھاؤں گا پھر اس کی روٹی یا خمیص بنایا گیا وہ کھایا یا خمیر القطنف کھائیں تو حائث ہوگا یہ جوہر اخلاطی میں ہے اور اگر حالف مذکور نے بعینہ یہ آٹا پھانک دیا گوندھا ہوا کھایا تو یہ کتاب میں مذکور نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس صورت میں وہ حائث نہ ہوگا یہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر اس نے قسم کے وقت بعینہ اس آٹے کے کھانے کی نیت کی ہو یعنی بعینہ یہ آٹا جیسا آٹا ہے نہ کھاؤں گا تو اس کی روٹیاں کھانے سے حائث نہ ہوگا یہ کافی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس گیہوں سے نہ کھاؤں گا اور اس کی نیت یہ ہے کہ بعینہ اس کے دانہ کھاؤں گا تو اس کی نیت صحیح ہے چنانچہ اگر

۱ در واقع ہے اگرچہ اس کو نہ معلوم ہو ۱۲۔ ۲ وہ تامل یہ ہے کہ قول فقیہ بر بنائے عرف نہیں ہے بلکہ بدلیل اصول ہے پس عرف کچھ مضمر نہیں ہوتا ہے تا وقتیکہ دلالت کلام سے نمک دار طعام مراد ہونا معلوم نہ ہو فافہم والله تعالیٰ اعلم ۱۲۔ ۳ قب سو کھے چھوہارے کہ تری ان میں نہ ہو بلکہ منہ میں مگرے مگرے ہو کر کھائے جائیں جن کو ہمارے یہاں چھوہارے بولتے ہیں اور تر کو کھجور کہتے ہیں ۱۲۔ ۴ اشارہ ہے کہ خالی پسر سے بدرجہ اولیٰ حائث نہ ہوگا ۱۲۔ ۵ خمیر القطنف نان نوزینہ ۱۲۔ ۶ اشارہ ہے کہ قضاء بھی اس کی تصدیق ہوگی ۱۲۔

اس کی روٹیاں کھائی ہیں تو حادث نہ ہوگا اور اگر یہ نیت ہو کہ جو اس سے تیارگی جائے گی اس سے نہ کھاؤں گا تو بھی اس کی نیت صحیح ہے کہ اگر اس نے بعینہ یہ دانے کھائے تو حادث نہ ہوگا اور اگر اس کی کچھ نیت نہ ہو یعنی یہ الفاظ قسم بطور مذکور اس کی زبان سے نکلے اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے پھر اس نے ان گہیوں کی روٹی کھائی تو امام اعظمؒ کے نزدیک حادث نہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک حادث ہوگا اور اگر بعینہ یہ دانے کھائے تو امام اعظمؒ کے نزدیک حادث ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر ان کے سوا کھائے تو امام اعظمؒ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک حادث نہ ہوگا اور امام محمدؒ کے قول سے بھی یہی ظاہر ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر ایسی جگہ کوئی ہو کہ وہاں کے لوگ جو کی روٹی نہیں پکاتے ہیں یعنی ان میں متعارف و رائج نہیں ہے تو وہاں جو کی روٹی کھانے سے حادث نہ ہوگا:

اگر قسم کھائی کہ ان گہیوں سے نہ کھاؤں گا پھر ان کو بویا اور ان کی پیداوار میں سے کھایا تو حادث نہ ہوگا یہ جوہرہ نیرہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ روٹی نہ کھاؤں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو یہ قسم جو گہیوں کی روٹی پر ہوگی اور کل اس اناج پر ہوگی جس سے اس شہر کے لوگ بطور متعارف روٹی پکاتے ہیں حتیٰ کہ اگر ایسی جگہ کوئی ہو کہ وہاں کے لوگ جو کی روٹی نہیں پکاتے ہیں یعنی ان میں متعارف و رائج نہیں ہے تو وہاں جو کی روٹی کھانے سے حادث نہ ہوگا اور اگر جواری روٹی پکائی پس اگر حالف ایسے شہر والوں میں سے ہو جس میں جواری روٹی متعارف ہے تو اس کی قسم اس روٹی کی طرف بھی راجع ہوگی ورنہ نہیں یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ روٹی نہ کھاؤں گا پھر کچھ کھایا یا جوڑیج کھایا تو شیخ محمد بن سلمہ نے فرمایا کہ تینوں صورتوں میں حادث نہ ہوگا اور مختار وہ ہے جو فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ جوڑیج یعنی لوزینہ کی صورت میں حادث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس کو مطلقاً خبر نہیں کہتے ہیں اور ایسا ہو گیا جیسے فارسی میں نان زرو آلود کہا کرتے ہیں اور کچھ میسر یعنی میوہ پڑی ٹکیوں کی صورت میں اس واسطے کہ کچھ تو مطلق روٹی ہے اور میسر روٹی کے ساتھ کچھ اور زیادہ کیا ہے یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔

اگر خیز القطف کھائی تو حادث نہ ہوگا الا آنکہ اس کی نیت کی ہو یہ ہدایہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں عورت کی روٹی نہ کھاؤں یعنی اس کی پکائی ہوئی تو خابزہ یعنی روٹی پکانے والی وہ عورت ہوگی جس نے تنور میں پکائی ہے وہ نہ جس نے آنا گونداھا اور روٹی کو لگانے کے لائق کر دیا پس اگر اس کے ہاتھ کی روٹی لگائی ہوئی کھائی تو حادث ہوگا ورنہ نہیں یہ ظہیر یہ میں ہے اگر کسی نے قسم کھائی کہ خیز نہ کھاؤں گا پھر اس نے خرید کھایا تو اپنی قسم میں حادث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر لاکشہ کھایا تو حادث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ شوربانہ کھاؤں گا پس اس نے سبوس^(۱) آب یا لیطہ کھایا تو حادث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ یہ خیز نہ کھاؤں گا پھر چور چور کر ڈالی جانے کے بعد اس کو کھایا تو حادث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر عسیدہ یا تہماج کھایا تو حادث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ خبز نہ کھاؤں گا پھر سنبوسہ کھایا تو امام محمدؒ نے فرمایا کہ حادث ہونا چاہیے یہ خلاصہ میں ہے شیخ خندقیؒ سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے قسم کھائی کہ روٹی و خرمانہ کھاؤں گا پھر اس نے ان میں سے ایک چیز کھائی تو فرمایا کہ جب تک دونوں نہ کھائے حادث نہ ہوگا یہ تمیمیہ

۱۔ صاحبین کے نزدیک حادث نہ ہوگا و بناے خلاف برینکہ حقیقت لغوی بقدر امکان رائج ہے اور صاحبین کے نزدیک مراد عربی ماخوذ ہے ۱۲۔ ۲۔ جوڑیج لوزینہ یعنی میوہ پڑی ٹکیاں وغیرہ ۱۲۔ ۳۔ کچھ میسر و خیز القطف و تہماج و عسیدہ وغیرہ اقسام روٹیوں کے ہیں جیسے لیکٹ و لیطہ وغیرہ اقسام شربت منقوع ہیں ۱۲۔ ۴۔ فعل اناج از حیث واللہ اعلم ۱۲۔

(۱) شوربے میں بھیلی ہوئی روٹی ۱۲۔

میں ہے اور قسم کھائی کہ بھونا ہوانہ کھاؤں گا تو یہ قسم خاصۃً گوشت پر واقع ہوگی اور بیگن و گاجر وغیرہ بھونی ہوئی پر واقع نہ ہوگی الا آنکہ اس کی نیت عام ہو کہ جو بھونی جاتی ہے مثل انڈے وغیرہ کے تو اس کی نیت پر نکل در آمد ہوگا اور نیت صحیح ہوگی یہ کافی میں ہے اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ سر نہ کھاؤں گا پس اگر اس نے نیت کر لی کہ مچھلی و بکری وغیرہ کسی کا سر ہونہ کھاؤں گا تو جس کا سر کھاؤں گا حائث ہو جائے گا اور اگر اس کی کچھ نیت نہ ہو تو فقط بکری و گائے کی سری پر واقع ہوگی یہ امام اعظم کا قول ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ اس زمانہ میں فقط بکری کی سری پر واقع ہوگی کذانی البدائع اور یہ اختلاف باعتبار عصر و زمانہ کے ہے اس واسطے کہ امام اعظم کے وقت میں عرف دونوں کی سری پر تھا اور صاحبین کے زمانہ میں فقط بکری کی سری پر تھا اور ہمارے زمانہ میں بحسب عادت فتویٰ دیا جائے گا کذانی الہدایہ قال التمر جم ہمارے زمانہ میں بھی یہی حکم ہے اور اقرب بقول صاحبین ہے واللہ اعلم اور دوسری کی قسم میں جبکہ بدوں نیت ہو تو ٹیڑی و مچھلی و گرگریوں کا سر بالا جماع داخل نہیں ہیں اور اسی طرح اونٹ کی سری بھی بالا جماع نہیں داخل ہے اور اگر قسم کھائی کہ انڈا نہ کھاؤں گا تو یہ پرندوں کے انڈے پر واقع ہوئی خواہ بطح کا ہو یا مرغی کا یا کوئی اور پرندہ کا اور مچھلی کے انڈے کھانے سے حائث نہ ہوگا الا آنکہ اس نے نیت کر لی ہو یہ سراج و ہاج میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ طیح نہ کھاؤں گا پس اگر اس نے تمام مطبوخات کی نیت کی ہو تو اس کی نیت پر قسم واقع ہوگی اور اگر کچھ نیت نہ کی ہو۔ تو استحساناً مطبوخ گوشت پر واقع ہوگی قال التمر جم یہ ہمارے رواج میں مستقیم نہیں ہو سکتا ہے واللہ اعلم۔ مشائخ نے فرمایا کہ یہ جب ہے کہ گوشت پانی میں پکایا گیا ہو اور اگر خشک قلیہ ہو تو اس کو طیح نہیں کہتے ہیں اور اگر گوشت پانی میں پختہ کیا گیا پس اس نے شور باروئی کے ساتھ کھایا اور گوشت نہ کھایا تو بھی حائث ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلانہ عورت کا طیح نہ کھاؤں گا یعنی اس کے ہاتھ کا پکایا ہو پس اس عورت نے اس کے واسطے ہانڈی گرم کر دی مگر گوشت کسی دوسری عورت نے پکایا تو اس کے کھانے سے حائث نہ ہوگا اور اگر فارسی میں کہا کہ اگر از دیگ گرم کردہ تو بخورم پس چنبن و چنان است پس اگر عورت نے دیگ گرم کی مگر پکایا کسی دوسری عورت نے تو اس کے کھانے سے حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ قولہ دیگ گرم کردہ تو سے عرف کے موافق پختہ تو مراد ہوتا ہے یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ کہ حلوانہ کھاؤں گا تو اس میں اصل یہ ہے کہ فقہا کے نزدیک حلوا ہر ایسی شیریں چیز ہے جس کی جنس سے ترش نہ ہو اور جس کی جنس سے ترش بھی ہو وہ حلوا نہیں ہے پس اس کا مرجع عرف پر ہے پس خمبیس و شہد صاف و سکر و ناطف و رب و تمر و اس کے مانند چیزوں کے کھانے سے حائث ہوگا اور نیز معلیٰ نے امام محمد سے ابجیر تر و خشک کے کھانے سے حائث ہونا بھی روایت کیا ہے اس واسطے کہ انجیر کی جنس میں ترش نہیں ہوتا ہے پس اس میں خالص معنی حلاوت متحقق ہوئے اور اگر اس نے انگور شیریں یا خر بوزہ شیریں یا انار شیریں یا آلو شیریں کھایا تو حائث نہ ہوگا اس لیے کہ اس کی جنس سے بعض شیریں نہیں ہوتا ہے پس اس میں خالص معنی حلاوت متحقق نہ ہوئے اور ایسے ہے کشمش بھی حلوا نہیں ہے کہ اس کی جنس میں ترش بھی ہوتی ہے اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ حلاوت نہ کھاؤں گا تو اس کا حکم مثل حلوا کے ہے اور اگر قسم کھائی کہ دانہ نہ کھاؤں گا یعنی نہ چباؤں گا تو تل وغیرہ جو دانہ چباؤں گا اور کھاؤں گا حائث ہوگا یعنی جس کو لوگ عادت کے موافق چباتے ہوں اور رواج ہو پس اس کے چبانے سے حائث ہوگا اور اگر اس نے اپنی قسم میں کوئی خاص دانہ معین کی نیت کی ہو تو اس کے چبانے سے حائث ہوگا اور دوسرے کے چبانے سے حائث نہ ہوگا اور اگر موتی^(۱) نکل گیا تو حائث نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے فتاویٰ میں لکھا ہے۔

اگر ایسے باغ انگور سے کھایا جس کو اس نے معاملہ پردے دیا ہے یعنی بٹائی پر حالانکہ وہ قسم کھا چکا ہے میں حرام نہ کھاؤں گا تو حائث نہ ہوگا:

ایک مرد نے قسم کھائی کہ حرام نہ کھاؤں گا پھر غصب کیے ہوئے درہم سے طعام خرید کر کھایا تو حائث نہ ہوگا اور وہ گنہگار ہوگا اور اگر غصب کیا ہو گوشت یا روٹی کھائی تو حائث ہوگا اور اگر روٹی یا گوشت بعوض زیت کے فروخت کیا پھر اس کو کھایا تو حائث نہ ہوگا اور اگر کتے یا بندر یا چیل کا گوشت کھایا تو اسد بن عمرو نے کہا کہ حائث نہ ہوگا اور شیخ نصیر نے کہا کہ حائث ہوگا اور ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں اور حسن نے فرمایا کہ سب حرام ہے اور فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ جس میں علماء کا اختلاف ہو وہ حرام مطلق نہ ہوگی پھر صاحب کتاب نے فرمایا کہ قول فقیہ ابواللیث بہت اچھا ہے اور اگر اس نے مضطر ہو کر حرام یا مردار کھایا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور مختار یہ ہے کہ وہ حائث ہوگا اس واسطے کہ حرمت باقی ہے لیکن اتنا ہے کہ گنہگاری دور گزری جاتی ہے اور فوائد شمس الائمہ حلوانی میں مذکور ہے کہ اگر ایسے باغ انگور سے کھایا جس کو اس نے معاملہ پردے دیا ہے یعنی بٹائی پر حالانکہ وہ قسم کھا چکا ہے کہ میں حرام نہ کھاؤں گا تو حائث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور گیبوں^(۱) غصب کر کے ان کو پکا یا پس اس کے مالک کو اس کے مثل گیبوں دے دیا قبل اس کے کہ غصب کیے ہوئے گیبوں کو کھائے تو اپنی قسم میں حائث نہ ہوگا اور اگر تاوان ادا کرنے سے پہلے کھایا حالانکہ ہنوز اس پر قاضی نے تاوان کا حکم نہیں دیا ہے تو حائث ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ یہ انگور نہ کھاؤں گا یا یہ انار نہ کھاؤں گا پھر اس کا رس چوسنا اور پھوک پھینکنا شروع کیا تو حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ یہ اس کا کھانا نہیں بلکہ چوسنا ہے اور اگر انگور یا انار کا پانی نچوڑا اور اس کو نہیں پیا بلکہ اس کا پوست و گودا وغیرہ کھالیا تو قسم میں حائث ہو جائے گا اور اگر اس کو چبا کر سب نکل گیا تو پوست و گودے وغیرہ کے نکل جانے سے حائث ہوگا اس کے عرق کے نکلنے سے حائث نہ ہوگا قال المترجم ہمارے عرف میں ہر طرح حائث ہوگا بلکہ پوست وغیرہ میں تائل ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور عیوں میں لکھا ہے کہ اگر قسم کھائی کہ یہ انگور نہ کھاؤں گا پھر اسکو چبا کر اس کا پوست وغیرہ پھینک دیا اور اس کا عرق پی گیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر اس کا چھلکا پھینک دیا اور عرق و بیج نکل گیا تو حائث ہوگا اور صدر شہید نے واقعات میں اس کی تعلیل یوں فرمائی ہے کہ بدینہ وجہ کہ انگور تین چیزوں کا ہے پس اول صورت میں اس نے اقل کو کھایا پس اس پر انگور کھا جانے والے کا اطلاق نہ ہوگا اور دوسری صورت میں اس نے اکثر کھایا اور اکثر کے واسطے حکم کل ہے یہ محیط میں ہے اور قسم کھائی کہ فا کہ نہ کھاؤں گا پھر اس نے انگور یا انار یا خرمائے تر کھایا تو امام اعظم کے نزدیک حائث نہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک حائث ہوگا یہ ہدایہ میں ہے اور فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ ہم فتویٰ کے واسطے صاحبین کے قول کو لیتے ہیں اس واسطے کہ لن کا قول اظہر ہے پھر یہ اختلاف ایسی صورت میں ہے کہ اس نے کچھ نیت نہ کی ہو اور اگر ان چیزوں کی بھی نیت کی ہو تو بالاتفاق حائث ہوگا یہ شرح نقایہ ابوالکلام میں ہے۔

انجیر و شمش و سیب و اخروٹ و پستہ و آلو بخارا و عتاب و امرود و یہی یہ بالا جماع فواکہ ہیں خواہ تروتازہ ہوں یا خشک ہوں خواہ خام ہوں یا پختہ ہوں اور کھیرا و ککڑی و گاجر بالا جماع فواکہ میں سے نہیں ہیں اور شہوت فواکہ میں سے ہے اور امام قدوری نے خربوزہ کو فواکہ میں سے شمار کیا ہے اور شمس الائمہ حلوانی نے نہیں شمار کیا قال المترجم ہمارے یہاں کے خربوزہ کو شاید امام قدوری بھی

۱۔ دورانچ اور جن علماء کے نزدیک وہ مرداری نہیں رہتا بلکہ حلال ہو جاتا ہے تو ان کے نزدیک حکم برعکس ہونا چاہئے ۱۲۔

(۱) امام اعظم کے نزدیک معاملہ نہیں جائز ہے ۱۲۔

شمار نہ کرے گا اور امام نے فرمایا کہ مل اور باقلا پھلوں میں سے نہیں ہیں اور حاصل یہ ہے کہ جو عرف میں فا کہ شمار ہوتا ہو اور تفکھا کھایا جاتا ہو وہ فا کہ ہے اور جو ایسا نہ ہو وہ نہیں ہے یہ چیز کروری میں ہے اور بادام و اخروٹ فوا کہ^(۱) میں سے ہے کہ اصل میں ان کو خشک فوا کہ میں شمار کیا ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ یہ ان کے عرف کے موافق ہے اور ہمارے عرف میں اس کو فوا کہ یا بسہ میں شمار نہیں کرتے ہیں اور امام محمد نے فرمایا کہ بسر سکر و بسر احر فا کہ ہے یہ محیط سرخسی میں ہے اور زبیب یعنی کشمش اور چھو ہارے جیسے ہمارے یہاں ملتے ہیں اور خشک دانہ انار فا کہ نہیں ہیں کذانی فتاویٰ قاضی خان - یہ بالا جماع ہے یہ بدائع میں ہے اور امام محمد سے روایت ہے کہ اگر قسم کھائی کہ میں امسال کسی فا کہ سے نہ کھاؤں گا پس اگر ان دنوں فوا کہ تازہ و تر ہوں تو قسم انھیں پر واقع ہوگی پس خشک کے کھانے سے حانث نہ ہوگا اور اگر ان دنوں تر و تازہ نہ ہوں تو خشک پر واقع ہوگی اور یہ استحسان ہے اور اسی کو شیخ ابو بکر محمد بن الفضل نے لیا ہے فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ لایا اتم یعنی ادام سے نہ کھاؤں گا قال المتر جم روکھی روٹی کا مقابل یعنی جس سے روکھی روٹی نہ کہلائے فاقہم تو جو چیز روٹی کے ساتھ اس طرح کھائی جائے کہ روٹی اس کے ساتھ صغ^(۲) کی جائے وہ ادام ہے جیسے سرکہ وزیت و غسل و دودھ و مکھن و گھی و شوربا و نمک وغیرہ اور جو روٹی کو صغ نہ کرے ان چیزوں سے جن کا جرم مثل روٹی کے جرم کے ہے اور وہ ایسی ہے کہ اکیلی کھائی جاسکتی ہے تو وہ ادام نہیں ہے جیسے گوشت و انڈا و چھو ہارا و کشمش وغیرہ اور یہ تفصیل امام اعظم و امام یوسف کے نزدیک ہے اور امام محمد نے فرمایا کہ جو چیز روٹی کے ساتھ غالباً کھائی جاتی ہو وہ ادام ہے اور یہی امام ابو یوسف سے بھی مروی ہے کذانی فتح القدر اور امام محمد کے قول کو فقہ ابو الیث نے لیا ہے اور اختیار میں فرمایا کہ یہی مختار ہے بعمل عرف اور محیط میں لکھا ہے کہ یہی اظہر ہے اور قلانس نے اپنی تہذیب میں فرمایا کہ اسی پر فتویٰ ہے یہ نہر الفائق میں ہے اور حاصل یہ ہے کہ جس سے روٹی صغ کی جاتی ہے جیسے سرکہ وغیرہ جو ہم نے ذکر کی ہیں وہ بالا جماع ادام ہیں اور جو غالباً اکیلی کھائی جاتی ہیں جیسے خر بوزہ و انگور و چھو ہارا و کشمش وغیرہ تو یہ بالا جماع ادام نہیں ہیں بنا پر قول صحیح کے انگور و خر بوزوں میں اور ہے بقولات سودہ بالاتفاق ادام نہیں یہ فتح القدر میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ زید کی کمائی سے نہ کھاؤں گا پھر زید نے اس کو کوئی چیز ہبہ کر دی یا حالف نے اس سے خرید لی حالانکہ یہ چیز اس کی کمائی کی ہے پھر حالف نے اس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا:

یہ اختلاف ایسی صورت میں ہے کہ اس کی کچھ نیت نہ ہو اور اگر اس نے نیت کی ہو تو بالا جماع اس کی نیت پر قسم ہوگی یہ تمییز میں ہے اور فا کہ بالا جماع ادام نہیں ہے یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ زید کی کمائی سے نہ کھاؤں گا پھر زید کو میراث میں کچھ ملا اور اس کو حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا اور اگر زید نے کوئی چیز خریدی یا اس کو ہبہ کی گئی یا اس کو صدقہ دی گئی اور اس نے قبول کر لیا پھر حالف نے اس کو کھایا تو حانث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ زید کی کمائی سے نہ کھاؤں گا پھر زید نے اس کو کوئی چیز ہبہ کر دی یا حالف نے اس سے خرید لی حالانکہ یہ چیز اس کی کمائی کی ہے پھر حالف نے اس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ زید کی کمائی سے نہ کھاؤں گا پھر زید نے بہت کچھ کمایا اور مر گیا اور عمر و اس کا وارث ہو پس حالف نے عمر کے یہاں اس میراث میں سے کچھ کھایا تو حانث ہوگا اور اسی طرح اگر حالف خود اس کا وارث ہو پس اس میں سے کچھ کھایا تو حانث ہوگا بخلاف اس کے

۱۔ اشارہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ اس کی کچھ نیت نہ ہو۔

(۱) کتاب امام محمد ۱۲ - (۲) ڈبوئی جائے ۱۲ -

اگر کسی دوسرے کے پاس سوائے میراث کے بطور خرید یا وصیت کے یہ مال منتقل ہو گیا پھر وہاں سے حالف نے کھایا تو حائث نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ زید کی میراث سے کچھ نہ کھاؤں گا پس زید مر گیا اور اس کی میراث سے اس نے کھایا تو حائث ہوگا اور اگر زید کی میراث عمر و کو ملی اور عمر مر گیا اور اس کی میراث خالد کو ملی پھر اس میں سے حالف نے کھایا تو حائث نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ زید کی کمائی سے نہ کھاؤں گا پھر عمر و نے مرتے وقت زید کے واسطے کسی چیز کی وصیت کی اور پھر اس چیز میں سے حالف نے کھایا تو حائث ہوگا اور اگر زید نے حالف کو طعام ہبہ کیا اور حالف نے بعد قبضہ کرنے کے اس میں سے کھایا تو حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر زید نے حالف کے واسطے وصیت کر دیا ہو تو بعد قبول کے اس میں سے کھانے سے حائث نہ ہوگا اور واضح رہے کہ مال مہر عورت کی کمائی میں داخل ہے اور اسی طرح جراثمتوں (۱) کا ارش مجروح کی کمائی میں داخل ہے یہ خلاصہ میں ہے۔

ایک شخص کے پاس درہم ہیں پس اس نے قسم کھائی کہ ان کو نہ کھاؤں گا پھر ان درہموں کے عوض دینار یا پیسے بدل کیے پھر اس کے بعد ان دیناروں یا پیسوں سے کوئی چیز خرید کر کھائی تو امام محمد نے فرمایا کہ حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ یہ درم یا دینار نہ کھاؤں گا پھر ان کے عوض کوئی اسباب خرید پھر اسباب کے عوض طعام خرید اور اس کو کھایا تو حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر ان درہموں یا دیناروں کے عوض (۲) جو خریدے پھر جو کے عوض طعام خرید کر کھایا تو حائث نہ ہوگا اور فرمایا کہ اگر ایسی چیز پر جو کھائی نہیں جاتی ہے قسم کھائی کہ میں اس کو نہ کھاؤں گا پھر اس کے عوض طعام وغیرہ کھانے کی چیز خرید کر کے اس کو کھایا تو حائث ہوگا اور اگر ایسی چیز پر قسم کھائی جو کھائی جاتی ہے یہ کہ اس کو نہ کھاؤں گا پھر اس کے عوض کھانے کی چیز خرید کر اس کو کھایا تو حائث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کو اپنے والد کی میراث سے طعام نہ کھلاؤں گا پھر اپنے والد کی میراث میں طعام پایا اور وہ فلاں کو کھلایا یا درہم پائے اور ان کے عوض طعام خرید کر کے کھلایا تو حائث ہوگا اور اگر طعام میراث کے عوض دوسرا طعام بدل کر کے اس میں سے اس کو کھلایا تو حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اپنے والد کی میراث سے کچھ نہ کھاؤں گا پھر اس کا باپ مر گیا اور یہ اس کے مال کا وارث ہوا پس اس مال کے عوض طعام خرید اور اس کو کھایا تو قیاساً حائث نہ ہوگا اور استحساناً حائث ہوگا اس واسطے کہ بحسب عادت میراث کھانے کی یہی صورتیں ہیں اور اگر مال میراث کے عوض کوئی چیز خرید کر اس چیز کے عوض طعام خرید کر کے کھایا تو حائث نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں کے کھیتوں سے نہ کھاؤں گا پھر اس کی پیداوار میں سے جو کاشکار کے پاس ہے یا فلاں کے مشتری کے پاس ہے خرید کر کھایا تو حائث ہوگا اور اگر فلاں سے کسی شخص نے خرید کیا اور اس کو بویا پھر اس کی پیداوار میں سے حالف نے کھایا تو حائث نہ ہوگا یہ وجیز کردری میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ ملک فلاں سے یا جس کا فلاں مالک ہوا ہے کچھ نہ کھاؤں گا پھر فلاں کی ملک سے کوئی چیز نکل کر دوسرے کی ملک میں داخل ہو گئی اور اس کو حالف نے کھایا تو حائث نہ ہوگا یہ خیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ جو فلاں نے خریدایا جو فلاں خریدے اس میں سے نہ کھاؤں گا پھر فلاں نے اپنے واسطے یا غیر کے واسطے کوئی چیز خریدی اور اس میں سے حالف نے کھایا تو حائث ہوگا اور اگر فلاں نے خریدی ہوئی کو جس کے واسطے خریدی تھی اس کے حکم سے کسی دوسرے کے ہاتھ

۱۔ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر کاتب اصل سے غلطی ہو گئی اور صحیح یہ ہے کہ وہ حائث نہ ہوگا ۱۲۔ ۳۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ اس کی کچھ نیت نہ ہو واللہ اعلم ۱۲۔ ۴۔ خواہ ہبہ یا وصیت یا صدقہ یا خرید و فروخت اپنے اسباب ملک اور اپنی بیع بالخیار کہ اس میں فلاں کو اختیار ہو تو اس صورت میں ایام خیار میں کھانے میں امام و صاحبین کا اختلاف جاری ہوگا اور وہ کتاب البیوع میں مذکور ہے فقہ بر ۱۲۔ ۵۔ اگر اپنے واسطے خریدی ہے تو کچھ اجازت کی ضرورت نہیں ۱۲۔ (۱) عمرو نے زید کو مجروح کیا اور اس کا ارش دینا پڑا تو یہ ارش زید کی کمائی میں شامل ہے ۱۲۔ (۲) خواہ جوہوں یا اور کوئی امانج ۱۲۔

فروخت کر دی اور پھر اس میں سے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ ایسا گوشت نہ کھاؤں گا کہ اس کو فلاں نے خریدا پھر فلاں نے ایک بکری کا بچہ حلوٰں خرید کیا اور اس کو ذبح کیا پھر اس میں سے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ اس فلاں کا یہ طعام نہ کھاؤں گا پھر فلاں نے یہ طعام فروخت کر دیا پھر حالف نے اسے طعام سے نہ کھاؤں گا جس کو فلاں تیار کرے یا ایسی روٹی نہ کھاؤں گا جس کو فلاں پکائے پس فلاں نے اس کو تیار کر کے فروخت کر دیا پھر حالف نے مشتری کے پاس اس کو کھایا تو حانث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے طعام سے نہ کھاؤں گا اور یہ فلاں طعام فروش ہے پس حالف نے اسے خریدا کر کے کھایا تو حانث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ تیرا یہ طعام نہ کھاؤں گا پھر فلاں نے اس کو یہ طعام ہدیہ دے دیا تو بقیاس قول امام اعظم و امام ابو یوسف کے حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کی زمین کی پیداوار سے نہ کھاؤں گا پھر اس پیداوار کے ثمن سے کھایا تو حانث ہوگا اور اگر اس نے نفس پیداوار کی نیت کی ہو تو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ یعنی دیانتہ تصدیق ہوگی اور قضاء تصدیق نہ ہوگی کذانی الذخیرہ وقال المتر جم بطور عربیت یعنی زبان عرب صحیح ہے کہ بجائے پیداوار کے غلہ کا لفظ کہا اور ہمارے عرف میں از بسکہ پیداوار خود اس کے اناج وغیرہ پر اطلاق ہوتا ہے نہ اس پیداوار کے داموں پر لہذا حکم برعکس ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم اور اگر قسم کھائی کہ طعام فلاں سے نہ کھاؤں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے پھر حالف نے اس طعام سے خریدا فلاں نے کسی کو طعام ہبہ کیا اور اس سے حالف نے خریدا تو اس کے کھانے سے حانث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اصل میں مذکور ہے کہ اگر قسم کھائی کہ ایسا طعام نہ کھاؤں گا کہ اس کو فلاں خریدے پھر ایسا طعام کھایا کہ اس کو حالف کے واسطے فلاں اور ایک شخص دوسرے نے خریدا ہے تو حانث ہوگا الا آنکہ اس نے یہ نیت کی ہو کہ وہ نہ کھاؤں گا جس کو فلاں اکیلا خریدے یہ خلاصہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ طعام فلاں سے نہ کھاؤں گا پھر ایسا طعام کھایا جو فلاں دوسرے کے درمیان مشترک ہے تو حانث ہوگا اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں کی روٹی نہ کھاؤں گا پھر اس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک روٹی کھائی تو بھی حانث ہوگا بخلاف اس کے اگر قسم کھائی کہ فلاں کی رغیف نہ کھاؤں گا پھر اس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک رغیف کھائی تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ رغیف کا ٹکڑا رغیف نہیں کہلاتا ہے اور روٹی کا ٹکڑا روٹی کہلاتا ہے اور اگر قسم کھائی کہ اپنے بیٹے کے مال سے نہ کھاؤں گا پھر سر کہ ایسے ٹیکے سے جو اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان مشترک ہے کھایا تو حانث ہوگا اس واسطے کہ اس نے بیٹے کا مال کھایا یہ محیط میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ طعام فلاں نہ کھاؤں گا تو یہ فلاں کے طعام موجودہ پر اور جو آئندہ اس کی ملک میں آئے دنوں پر واقع ہوگی:

اگر قسم کھائی کہ طعام فلاں نہ کھاؤں گا پھر ایسے طعام سے کھایا جو اس کے اور فلاں کے درمیان مشترک ہے تو حانث نہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے۔ قال المتر جم اگر سیر بھر طعام مساوی مشترک ہے مثلاً اور اس نے تین پاؤ کھالیا تو ظاہر ہے کہ ضرور فلاں کا طعام کھایا لہذا تاویل مسئلہ مذکور ملحوظ رہے کہ اس طرح وقوع نہیں ہوا ہے فافہم۔ ایک شخص نے قسم کھائی کہ اپنے والد کی چیزوں میں سے کوئی چیز نہ کھاؤں گا پھر اپنے والد کے بیت سے ایک کراچ روٹی کی تناول کی جو زمین پر پھینکی ہوئی تھی تو شیخ ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ حانث نہیں ہوا اور شیخ ابو علی نسفی نے فرمایا کہ حانث ہو گیا اور فقیہ ابو بکر بلخی نے فرمایا کہ اگر یہ ٹکڑا ایسا تھا کہ اس کو کسی فقیر کو

صدقہ میں دے سکتے ہیں یعنی ازراہ عادت ایسا ٹکڑا دیا جاتا ہے تو حانث ہو اور نہ نہیں یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ قال الا حوط قول النفسیٰ اور اگر قسم کھائی کہ طعام فلاں نہ کھاؤں گا تو یہ فلاں کے طعام موجودہ پر اور جو آئندہ اس کی ملک میں آئے دونوں پر واقع ہوگی یہ سراجیہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ میں انار میں سے جو فلاں خریدے نہ کھاؤں گا پھر فلاں اور ایک دوسرے نے خرید کیا اور اس میں سے اس نے کھایا تو حانث ہوگا اور اگر یوں کہا کہ ایک انار سے جس کو فلاں خریدے نہ کھاؤں گا تو حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں عورت کے سوت کے ثمن سے نہ کھاؤں گا پھر فلاں کا کا تا سوت خرید لیا یا فلاں نے اس کو ہبہ کر دیا پھر اس کو فروخت کر کے اس کے ثمن سے کھایا تو حانث نہ ہوگا اور اگر فلاں نے خود فروخت کیا اور اس کا ثمن اس حالف کو ہبہ کیا پھر اس نے اس میں سے کھایا تو حانث ہوگا اور اگر فلاں نے یہ ثمن اپنے بیٹے یا کسی اجنبی کو ہبہ کیا پھر اس نے حالف کو دیا اور اس نے کوئی چیز خرید کر کھائی تو حانث نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ طبخ فلاں سے نہ کھاؤں گا پھر فلاں اور دوسرے نے مل کر پکایا اور حالف نے اس کو کھایا تو حانث ہوگا اس واسطے کہ اس کا ہر جزو طبخ کہلائے گا اسی طرح اگر کہا کہ خبز فلاں یعنی فلاں کی روٹی سے پس فلاں اور ایک دوسرے نے روٹی پکائی تو بھی یہی حکم ہے اور اگر کہ ہانڈی سے جس کو فلاں پکائے پھر دونوں کی پکائی ہانڈی سے کھایا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ ہر جزو ہانڈی کا ہانڈی نہیں کہلاتا ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے۔ فارسی میں قسم کھائی کہ از چیز فلاں نخورم پس اس کی عمدہ کا پانی تناول کیا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اوہام لوگوں کے اس طرف نہیں پہنچتے ہیں آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر اس کے خر بوزہ کا چھلکا یا ریزہ نان اس کے دروازہ پر پایا اور کھالیا تو حانث نہیں ہوگا ہے یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ ایسی کوئی چیز نہ کھاؤں گا جس کو فلاں اٹھالائے اور مراد یہ ہے کہ آورہ فلاں یعنی فلاں کی لائی ہوئی نہ کھاؤں گا پھر ایسی برف سے کھایا جس کو فلاں اٹھالایا ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ حانث ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اپنے داماد کے مال سے کچھ نہ کھاؤں گا پھر اس کو خمیر دیا گیا جو اس کے داماد کے خمیر میں سے ہے پس اس نے دوسرے خمیر میں ملا کر اس کو پکویا اور کھایا تو حانث نہ ہوگا اسی طرح اگر قسم کھائی کہ اس کا پانی نہ پیوں گا یا اس کا نمک نہ کھاؤں گا پھر اس کا پانی یا نمک لے کر اس کو خمیر میں ملا دیا اور کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے قسم کھائی کہ اپنے داماد کی روٹی سے نہ کھاؤں گا پھر اس کا داماد سفر کو چلا گیا اور اپنی بیوی کے واسطے نفقہ چھوڑ گیا جس میں سے اس نے کھایا پس اگر داماد اس عورت کے واسطے نفقہ لگ کر گیا ہو تو حانث نہ ہوگا اور اگر لگ نہ کر گیا ہو بلکہ یہ کہہ گیا ہو کہ میرے طعام میں سے بقدر کفایت تو کھا پس حالف نے بھی کھایا تو حانث ہوگا یہ وجیز کروری میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اپنے باپ کے مال سے نہ کھاؤں گا پھر باپ مر گیا اور حالف وارث ہو اور اس نے کھایا تو حانث نہ ہوگا اور یہی صحیح ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم میں یہ لفظ بھی کہا ہو کہ باپ کے مال سے بعد اس کے مرنے کے نہ کھاؤں گا تو اس صورت میں حانث ہوگا یہ وجیز کروری میں لکھا ہے۔

اگر کسی عورت نے قسم کھائی کہ اپنے پسر کے اطعمہ سے نہ کھاؤں گی حالانکہ قسم سے پہلے اس کا بیٹا اس کو چند قسم کے اطعمہ بھیج چکا ہے پس اس کو اس نے کھایا تو حانث نہ ہوگی اور بعض نے فرمایا کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ عورت نے کچھ نیت نہ کی ہو اور اگر اس نے قسم میں اس طعام کی بھی نیت کی ہو تو حانث ہوگی اور اضافت باعتبار مجاز صحیح ہوگی یعنی جو پہلے پسر کا تھا یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ کھانا نہ کھاؤں گا پس فلاں نے ایک برتن سے اور حالف نے دوسرے برتن سے کھانا کھایا تو حانث نہ ہوگا

۱۔ جمد برف خانہ وغیرہ جہاں پانی ودیگر سیال چیزیں جمائی جاتی ہیں ۱۲۔ ۲۔ کیونکہ اب بعد وفات اس کے باپ کے وہ مال جبکہ بیٹے کے حصہ میں آیا تو یہ اس کا مالکلک ہو اور باپ کی ملکیت نہ رہی پس اس کے کھانے سے حانث نہ ہوگا ۱۲۔

جب تک کہ دونوں ایک ہی برتن سے نہ کھائیں یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ مال فلاں سے نہ کھاؤں گا پھر دونوں نے روپیہ ڈال (۱) کر کوئی چیز خریدی اور دونوں نے کھائی تو قسم میں حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ عرف میں یہ اپنا مال کھانا کہلاتا ہے ایسا ہے فتاویٰ ابوالیث میں مذکور ہے یہ کافی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کی چیز سے نہ کھاؤں گا پھر فلاں کی مرتج اس کی بیوی نے اپنی ہانڈی میں ڈالی جس کو حالف نے کھایا تو شیخ ابو بکر محمد بن افضل نے فرمایا کہ حانث ہوگا الا آنک فلاں و حالف کے درمیان کوئی سبب قسم ایسا ہو کہ جو اس امر پر دلالت کرے کہ ایسی مرتج وغیرہ مراد نہیں ہے اگر قسم کھائی کہ فلاں کے باغ انگور سے اس سال کوئی چیز نہ کھاؤں گا تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کی قسم بارہ (۱۲) مہینہ پر واقع ہوگی اور ہمارے مولانا نے فرمایا کہ چاہیے یوں ہے کہ اس سال کے جس قدر امام باقی رہے ہیں انھیں پر واقع ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے ایک نے کہا کہ واللہ جو فلاں لائے گا اس کو نہ کھاؤں گا یعنی ایسی کھانے کی چیز جیسے گوشت و طعام وغیرہ پھر حالف نے اس فلاں کو گوشت دیا کہ اس کو پکائے پس اس نے پکانا شروع کیا اور اس میں گائے کی اوجھ کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جو ہانڈی کے جوش میں نکل گیا پھر حالف نے ہانڈی کا شوربا کھایا تو امام محمد نے فرمایا کہ میری دانست میں وہ حانث نہ ہوگا جبکہ اس نے اس میں ایسا گوشت ڈال دیا جو تنہا پکا کر اس سے شوربا لینے کے لائق نہیں ہے بسبب اس کے کہ قلیل ہے اور اگر اس قدر ہو کہ تنہا پکا کر اس سے شوربا لیا جاسکتا ہے تو اس صورت میں حانث ہوگا حالانکہ امام محمد نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ جو فلاں لائے گا میں اس کو نہ کھاؤں گا پھر فلاں مذکور گوشت لایا اور اس کو بھونا اور بعد تیار ہونے کے اس کے نیچے حالف کے چاول رکھے چنانچہ اس کی تہی چاولوں میں آئی جن کو حالف نے کھایا تو حانث ہوگا اور اسی طرح اگر فلاں مذکور چنے لایا اور ان کو پکایا پس حالف نے اس کا شوربا کھایا اور اس میں چنے کا مزہ آتا ہے تو حانث ہوگا اور اسی طرح اگر تازہ چھوہارے جن کو رطب کہتے ہیں لایا جس میں سے رب بہا اور اس کو حالف نے کھایا یا زیتون لایا اور وہ پیلا گیا جس کا تیل حالف نے کھایا تو حانث ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے طعام سے کوئی طعام نہ کھاؤں گا پھر اس کا سرکہ یا روغن زیتون یا نمک کھایا ان میں سے کوئی چیز لے کر اپنے کھانے کے ساتھ کھائی تو حانث ہوگا اور اس کا پانی یا مہیند لے کر اس کے ساتھ اپنی روٹی کھائی تو حانث نہ ہوگا یہ جوہرہ نیزہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ یہ گیہوں نہ کھاؤں گا پھر ان کو دوسرے اناج کے ساتھ ملا کر کھایا یا قسم کھائی کہ یہ جو نہ کھاؤں گا پھر ان کو دوسرے اناج میں ملا کر کھایا پس اگر پسوں سے کھایا یعنی پھنگی مار کر کھایا یا پس اگر گیہوں یا جو غالب ہوں تو حانث ہوگا اور اگر دوسرے اناج کو غلبہ ہو تو حانث نہ ہوگا اور اگر مساوی ہوں تو قیاس یہ ہے کہ حانث ہوگا اور استحساناً حانث نہ ہوگا اور اگر ایک ایک دانہ کر کے کھایا ہے تو بہر حال حانث ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا یا کہا کہ نہ پیوں گا الا باجارت فلاں پھر فلاں نے اس کو اجازت دی تو یہ اجازت ایک لقمہ اور ایک گھونٹ پر ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ کوئی طعام نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا پھر کھانے پینے کی کوئی چیز رکھی اور اس کو حلق میں داخل نہ ہونے دیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر اپنی قسم کی فعل پر منعقد کی پھر اس سے گھٹ کر کیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر اس سے بڑھ کر کیا تو حانث ہوگا یہ مبسوط میں ہے ماوراء اگر قسم کھائی کہ کھانا پینا کچھ نہ چکھوں گا پھر اس کو اپنے منہ میں داخل کیا تو حانث ہوگا پھر اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میری مراد نہ چکھنے سے یہ تھی کہ نہ کھاؤں گا یا نہ پیوں گا تو دیانتہ فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق ہوگی اور قضاء تصدیق نہ ہوگی یہ بدائع میں ہے۔

۱۔ ایک مرتبہ اجازت میں اگر ایک لقمہ یا ایک گھونٹ سے زیادہ کھایا تو حانث ہو جائے گا ۱۲۔ ۲۔ کھانے پینے کی چیز ۱۲۔

(۱) پتا ڈال کر ۱۲۔

طرح اگر حرف یا دونوں کے بیچ میں لایا تو بھی یہی حکم ہے یہ مبسوط میں ہے اور اگر کہا کہ واللہ طعام و شراب نہ چکھوں گا پھر اس نے ایک کو چکھا تو حائث نہ ہوگا اور شیخ ابوالقاسم الصفار نے فرمایا کہ حائث ہوگا اور شیخ ابوبکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ اس کی نیت پر ہے اور اگر اس نے کچھ نیت نہ کی ہوگی تو ایک کے چکھنے سے حائث نہ ہوگا اور اسی پر فتویٰ ہے۔ کسی نے قسم کھائی کہ خمیر نہ چکھوں گا پھر ایسی روٹی کھائی جس کا خمیر شراب سے کیا گیا ہے تو شدادہ نے فرمایا کہ اپنی قسم میں حائث نہ ہوگا جیسے قسم کھائی کہ زیت نہ چکھوں گا پھر روٹی کھائی جس کا آنا زیت میں گوندھا گیا ہے تو حائث نہیں ہوتا ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے گھر میں طعام نہ چکھوں گا اور نہ شراب یعنی پینے کی چیز پھر اس کے گھر میں کوئی چیز چکھی اور اس کو اپنے منہ میں داخل کیا مگر اس کے پیٹ میں نہیں پہنچی تو حائث ہوگا اور یہ قسم فقط چکھنے پر ہوگی اور اگر اس سے کسی نے کہا کہ میرے پاس آج کے روز کھانا کھا پس اس نے قسم کھائی کہ تیرے گھر نہ چکھوں گا طعام و نہ شراب تو یہ قسم کھانے پر ہوگی نہ چکھنے پر یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ پانی نہ چکھوں گا پس اس نے نماز کے واسطے کلی کی تو حائث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ یہ خمیر نہ چکھوں گا پھر وہ شراب سرکہ ہوگئی پس اس کو پیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر یہ بھی نیت ہو کہ جو اس سے ہوگا وہ بھی نہ چکھوں گا تو حائث ہوگا یہ جو ہر ہنیرہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ تغدی نہ کروں گا تو غدا وہ کھانا ہے جو طلوع فجر سے وقت ظہر تک ہو اور عشاء وہ کھانا ہے کہ نماز ظہر سے آدھی رات ہو یہ ہدایہ میں ہے پس اگر قسم کھائی کہ آج تغدی نہ کروں گا پھر نصف نہار کے بعد کھایا تو حائث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور شیخ بخندئی نے فرمایا کہ یہ امام کا عرف تھا اور ہمارے عرف میں عشاء کا وقت بعد نماز عصر کے ہے۔ پھر واضح رہے کہ غداء و عشاء عبارت ایسے کھانے سے ہے جس سے عادت کے موافق (۱) پیٹ بھر کے کھانا لوگوں کی غالب (۲) عادات کا مقصود ہوتا ہے پس قسم کھانے والے کے شہر میں جو غداء ہو اس پر قسم منعقد ہوگی پس اگر وہ چیز غداء ہوگی تو اس کے کھانے سے حائث ہوگا ورنہ نہیں اور اسی واسطے مشائخ نے کہا ہے کہ اگر شہر کے لوگوں نے غداء ترک کرنے پر قسم کھائی پس انہوں نے دودھ پی لیا تو چونکہ غالب عادت لوگوں کی اس سے تغدی نہیں ہے اس وجہ سے حائث نہ ہوں گا اور اگر بدوی نے ایسی قسم کھائی اور پھر دودھ پی لیا تو چونکہ غالباً ان کا ایک وقت اول کا کھانا یہی ہے لہذا حائث ہوگا اور شیخ ابوالحسن نے فرمایا کہ اگر قسم کھائی کہ تغدی نہ کروں گا پھر سوائے روٹی کے چھو ہارا و چاول و فاکہ وغیرہ کوئی چیز کھائی یہاں تک کہ سیر ہو گیا تو حائث نہ ہوگا اور یہ غداء کھانا نہ ہوگا اور اسی طرح اگر گوشت بغیر روٹی کے کھایا تو بھی یہی حکم ہے اور غداء ہر شہر کی وہ ہے جو ان میں متعارف ہو قال المترجم ہمارے یہاں دیار میں ایسا عرف ظاہر نہیں ہے لہذا قسم اپنے اصلی معنی پر ہوگی پس شیخ ابوالحسن کا قول اقرب ہے سوائے چاول و دیگر اناج و گوشت کے کہ ان سے ہمارے عرف غیر ظاہر کی وجہ سے اقرب الی الخٹ ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم اور نیز سیر ہو جانے میں تامل ہے پس اولیٰ یہ ہے کہ احتیاط لمحوظ رکھے فافہم۔ قال اور غدا میں شرط یہ ہے کہ آدھی سیری سے زائد ہو حتیٰ کہ اگر اپنی باندی سے کہا کہ اگر تو نے آج کی رات بعشی نہ کی یعنی عشاء کا کھانا نہ کھایا تو میرا غلام آزاد ہے پس اس نے ایک لقمہ یا دو لقمہ کھالیے تو یہ عشاء نہیں ہوئی اور حالف اپنی قسم میں سچا نہ ہوگا یہاں تک کہ باندی مذکورہ اپنی نصف سیری سے زیادہ کھالیا یہ سراج و ہاج میں ہے۔ رمضان میں قسم کھائی کہ آج کی رات عشاء نہ کھاؤں گا پھر دو پہر رات جانے کے بعد کھایا تو حائث ہوگا یہ وجیز کردری میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ سحری نہ کھاؤں گا تو نصف رات سے فجر تک کھانے سے حائث نہ ہوگا یہ شرح مجمع البحرین میں ہے۔

۱۔ جسے ہمارے عرف میں نہاری و ناشتہ بولتے ہیں ۱۲۔ ۲۔ کیونکہ بدو لوگوں کو اکثر یہی میسر آتا ہے لہذا یہ حکم مخصوص عرب کے بدوؤں سے ہوگا ۱۲۔

(۱) کھانا جو عادت کے موافق ہوگا ۱۲۔ (۲) ان کی غالب عادت میں یہی کھانا ہے ۱۲۔

مساء اطلاق عرب میں دو ہیں ایک بعد زوال سے اور دوسری بعد غروب شمس سے پس ان دونوں میں سے قسم میں جس کی نیت کرے صحیح ہوگی اور علیٰ ہذا اگر بعد زوال کے قسم کھائی کہ یہ کام نہ کروں گا یہاں تک کہ مساء کروں اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو یہ سورج ڈوبنے کی شام پر ہوگی اس واسطے کہ معنی اول پر حمل کرنا ممکن نہیں ہے پس دوسری مسار یعنی دوسرے معنی شام پر محمول ہوگی یعنی ما بعد غروب یہ فتح القدر میں ہے اور معلیٰ نے امام محمدؒ سے روایت کی ہے کہ اگر قسم کھائی کہ لیا تینہ ضحوة یعنی وقت ضحوة کے اس کے پاس آؤں گا تو ضحوة بعد طلوع آفتاب کے جرم سے کہ نماز پڑھنی جائز ہو جاتی ہے تا نصف النہار ہے یہ محیط سترحسی میں ہے اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ اگر قسم کھائی کہ لا یصبح اے صبح کو نہ آؤں گا تو صبح میرے نزدیک ضحیٰ^(۱) اکبر اور اتقاع آفتاب کے درمیان ہے اور جب ضحیٰ اکبر ہوگئی تو صبح کا وقت جاتا رہا یہ بدائع میں ہے

کہا کہ اگر میں نے تغدی دور غیفوں سے کر لی تو میرا غلام آزاد ہے پھر آج صبح کو ایک رغیف کھائی اور کل صبح کو دوسری رغیف کھائی تو قیاساً حانث ہوگا:

اگر یوں کہا کہ لیغدیٰ بالیوم یعنی اس کو آج غذا ہزار درہم کی کھلاؤں گا یا اگر میں آزاد کروں ایسے غلام کو کہ اس کو ہزار کو خریدوں یا اگر آج تو روئی ہزار کی نہ کاتے تو ایسا ایسا پس اس نے کوئی ایک درہم کی چیز ہزار درہم کو خریدی اور وہ اس کو غذا میں کھلائی یا اسی طرح غلام خرید کر آزاد کیا یا اس طرح روئی خریدی جس کو عورت نے کات دیا تو اپنی قسم میں سچا ہو گیا یہ وجہ کروری میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے تغدی دور غیفوں سے کر لی تو میرا غلام آزاد ہے پھر آج صبح کو ایک رغیف کھائی اور کل صبح کو دوسری رغیف کھائی تو قیاساً حانث ہوگا کیونکہ لفظ مطلق ہے خواہ آج ایک روز میں یا دو روز میں جیسے تعیین کی صورت میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے ان دور غیفوں سے تغدی کر لی تو میرا غلام آزاد ہے پس ایک سے اس نے آج تغدی کی اور دوسری سے دوسرے روز تغدی کی تو حانث ہوگا پس ایسا ہے یہاں ہے اور استحساناً حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے اس صورت میں متفرق تغدی کرنے کی نیت کی ہو تو اس کی نیت پر ہوگی اور اگر اس نے یوں کہا کہ اگر میں نے دور غیف کھالیں یا میں نے یہ دور غیفیں کھالیں تو میرا غلام آزاد ہے پھر ان دونوں کو ایک بارگی یا متفرق کھالیا تو قیاساً استحساناً حانث ہو گیا یہ محیط میں ہے اور اگر قسم غذا پر مقصود کی اور اس میں سے روئی کو استثنا کر لیا تو جو چیز کہ روئی کی تبعیت میں کھائی جاتی ہے وہ بھی روئی کی استثنا کے ساتھ مستثنیٰ ہوگی چنانچہ اگر کہا کہ تغدی نہ کروں گا سوائے روئی کے تو روئی کے ساتھ سالن و سرکہ و زیتون وغیرہ جو بالمقصد نہیں کھائے جائے ہیں مستثنیٰ ہوں گے اور روئی کے ساتھ ان کے کھانے سے حانث نہ ہوگا اور جو چیز بمقصد کھائی جاتی ہے اور عادت کے موافق تبعاً نہیں کھائی جاتی جیسے خمیس و چاول وغیرہ ان سے حانث ہوگا اور وہ مستثنیٰ نہ ہوگی اور اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں بمقصد دکانے کی بھی عادت ہو یعنی کھانا ان کا خود ہوتا ہے اور روئی کے ساتھ اس کی تبعیت میں بھی کھانے کی عادت ہوتی ہے جیسے گوشت و مچھلی و دودھ وغیرہ تو امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ روئی کے استثنا کرنے میں اس کی تبعیت میں یہ بھی مستثنیٰ ہوں گی اور ان کے کھانے سے حانث نہ ہوگا اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ مستثنیٰ نہ ہوں گی اور حانث ہوگا۔

پس جب امر معلوم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ امام محمدؒ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ اگر میں نے کھایا آج کے روز

۱۔ قولہ لا یصبح تبشید یہ موصدہ اصل میں صبح کی شرا بخواری میں مستعمل ہے اور یہاں بھی محتمل ہے اگرچہ قسم بدنی معنی معصیت پر ہو اور شاید کہ نہاری کھانے یا پینے

پر ہونا فہم ۱۲۔ ۲۔ خمیس نام کھانے کا ہے جو چند چیزوں سے ملا کر پکایا جاتا ہے ۱۲۔

(۱) چاشت کا یعنی ڈیز پیروں چڑھے کے ۱۲۔

الارغیف تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس نے رغیف کھائی اور پھر اس کے بعد فا کہ یا چھو ہا ریا خمبیس یا چاول کھائے تو حانت ہوگا ہاں اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے روٹی سے استثناء کا قصد کیا تھا یعنی روٹی میں اگر سوائے رغیف کے کھاؤں تو ایسا ہے تو اس صورت میں اس کے قول کی دیانتہ تصدیق ہوگی مگر قضاء تصدیق نہ ہوگی اور پھر واضح رہے کہ اگر مسئلہ مذکورہ میں بعد رغیف کے کھانے کے فوا کہ یا چھو ہارے ہوں یا رغیف کے ساتھ ہی کھائے ہوں بہر حال حانت ہوگا اور اس طرح اگر کہا کہ اگر میں نے تغدی کی الا بہ رغیف تو میرا غلام آزاد ہے پھر رغیف سے تغدی کی پھر فوا کہ یا چھو ہارے کھائے تو حانت ہوگا اور اسی طرح اگر خمبیس کھایا تو بھی حانت ہوگا اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ تغدی کی صورت میں ان چیزوں کے کھانے سے جب ہی حانت ہوگا کہ بغور برغیف کے کھانے کے اس نے یہ چیزیں کھائی ہوں اور اگر رغیف سے تغدی کرنے کے بعد جب کہ تغدی برغیف ہو چکی اور تغدی منقطع ہو گئی اور پھر ان کو تنہا کھایا تو حانت نہ ہوگا اس واسطے کہ ان کے ساتھ تغدی کرنے والا نہیں کہلائے گا اور تغدی کے طور پر ان کے کھانے کا رواج نہیں ہے اور اگر اس صورت میں بھی اس نے خاصۃً یعنی روٹی سے استثناء کی نیت کی ہو تو دیانتہ تصدیق کی جائے گی نہ قضاء یہ شرح جامع کبیر حصری میں ہے اور اگر قسم سے پہلے کوئی ایسا کلام واقع ہوا کہ اس سے اس امر پر استدلال کیا جائے کہ اس نے روٹی سے استثناء مراد لیا ہے مثلاً کہا گیا ہو کہ تو آج دو رغیف کھائے گا پس اس نے کہا کہ اگر میں آج کے روز کھاؤں الا ایک رغیف تو میرا غلام آزاد ہے تو اس صورت میں اس کی قسم خاصۃً رغیف پر ہوگی چنانچہ اگر اس نے رغیف کھانے کے بعد ہی چھو ہارے وغیرہ کھائے تو حانت نہ ہوگا اور اس کی قسم رغیفوں کے ساتھ مقید ہوگی اور اگر کہا کہ اگر میں آج کے روز ایک رغیف سے زیادہ کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے تو یہ قسم خاصۃً روٹی پر ہوگی چنانچہ اگر بعد ایک رغیف کے اس نے چھو ہارے و فوا کہ کھائے تو حانت ہوگا اور تقدیر کلام اس صورت میں یہ ہوگی کہ اگر میں آج کے روز جس رغیف سے ایک رغیف سے زیادہ کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے پس چونکہ اس طرح کہنے میں اس کی قسم خاص روٹیوں کے ساتھ مختص ہوتی ہے اسی طرح صورت مذکورہ میں بھی رغیفوں کے ساتھ مخصوص ہوگی اور جو ہم نے الارغیف کہنے کی صورت میں بیان کیا ہے وہی غیر رغیف سوائے رغیف کہنے کی صورت میں بھی ہے یہ محیط میں مذکور ہے ایک مرد نے کہا کہ اگر میں نے کپڑا پہنایا میں نے کھایا یا میں نے پیا تو میری بیوی طالقہ ہے اور پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی قسم میں خاصۃً فلاں طعام مراد لیا تھا اور فلاں طعام مراد نہیں لیا تھا تو قضاء و دیانتہ کسی طرح اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی اور یہی صحیح اور یہی ظاہر الروایہ ہے اور اگر کہا کہ اب بست تو باوا کلت طعاماً یعنی اگر پہتا میں نے کپڑا کھایا میں نے کھانا تو میرا غلام آزاد ہے پھر دعویٰ کیا کہ میں نے فلاں کپڑا یا فلاں کھانا خاصۃً مراد لیا تھا تو دیانتہ اس کی تصدیق ہوگی مگر قضاء تصدیق نہ ہوگی یہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ دار فلاں سے نہ پیوں گا پھر اس میں سے کوئی چیز کھائی تو صدر شہید نے اپنے واقعات میں فرمایا کہ مختار میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ حانت نہ ہوگا الا آنکہ تمام ماکولات و مشروبات کی نیت کی ہو کذا فی محیط قال المترجم ہمارے عرف کے موافق بالقطع وہ حانت نہ ہوگا اور اگر اس نے تمام ماکولات کی نیت کی ہو تو خلاف محاورہ ہے جو لازم آئے اس کی نیت کا پھل ہوگا اس واسطے کہ کھانا پینا ہمارے اطلاق میں جدا جدا ہیں واللہ تعالیٰ اعلم فارسی میں کہا کہ از خانہ فلاں سبچ چیز مندخورم یعنی فلاں کے گھر سے کچھ نہ کھاؤں گا تو یہ کھانے و پینے دونوں کو شامل ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور یہ نوع استعمال ہے ویسا ہی ہمارا عرف ہے واللہ اعلم۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مشروب نہ پیوں گا پھر دونوں نے ایک ہے مجلس میں ایک ہے مشروب سے پیا تو حانت ہوگا اگر چہ دونوں کے پینے کے برتن مختلف ہوں اور اسی طرح اگر ایک مجلس ہو اور دونوں کے مشروب مختلف ہوں تو بھی حانت ہوگا

اور اگر اس نے مشروب واحد یا ظرف واحد میں ساتھ نہ پینے کی نیت کی ہو تو قضاء اس کے قول کی تصدیق ہوگی یہ بدائع میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ فلاں کی ضیافت میں ایک بار سے زیادہ نہ پیوں گا پس اس نے ایک بار اس کے مکان میں پیا اور دوسری بار اس کے پستان میں پیا تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر ضیافت ایک ہی ہو تو حائث ہوگا اور ایک نے قسم کھائی کہ پانی نہ پیوں گا پھر اس نے آبِ قلیہ پیا تو حائث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور ایک نے قسم کھائی کہ فلاں کی گائے کا دودھ نہ پیوں گا پھر اس کی گائے مر گئی اور اس کی ایک بچھیا ہے جو بڑی ہوئی پھر اس کا دودھ اس نے پیا تو حائث نہ ہوگا۔ یہ خلاصہ میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ لایشراب الماء یعنی پانی نہ پیوں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو چاہیے کسی قدر پیئے حائث ہوگا اور اگر اس نے الماء سے کل الماء یعنی تمام (۱) پانی مراد لیا ہو تو کبھی حائث نہ ہوگا اور نیت صحیح ہے یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ لایشراب شراباً یعنی کوئی پینے کی چیز نہ پیوں گا اور اس کی نیت نہیں ہے تو پانی وغیرہ کوئی پینے کی چیز ہے حائث ہوگا ایسا ہی ایمان لاصل میں مذکور ہے اور حیل اصل میں مذکور ہے کہ اگر قسم کھائی کہ الشراب یعنی شراب نہ پیوں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو یہ قسم خمر پر واقع ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے اور امام سرخسی نے فرمایا کہ یہ زبان عربی میں قسم کھانے کی صورت میں ہے اور اگر فارسی میں قسم کھائی تو بہر حال (۲) خمر پر واقع ہوگی مولف نے فرمایا کہ فتویٰ کے واسطے مختار وہ ہے جو میل الاصل میں فرمایا ہے یہ خلاصہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ آج نہ پیوں گا تو جو چیز پینے حائث ہوگا حتیٰ کہ سرکہ اور گھی پینے سے بھی حائث ہوگا یہ وجیز کردری میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ دودھ نہ پیوں گا پھر دودھ میں پانی ڈال کر اس کو پیا تو اصل اس مسئلہ اور اس کے جنس کے مسائل میں یہ ہے کہ جب حالف نے اپنی قسم کسی سیال چیز پر مقصود کی اور پھر اس چیز میں دوسری جنس کی سیال چیز غلط کر دی پس اگر وہ سیال چیز جس پر قسم کھائی ہے غالب ہوگا تو حائث ہوگا اور اگر دوسری جنس کی سیال چیز غالب ہو تو حائث نہ ہوگا اور اگر دونوں برابر ہوں تو قیاساً حائث ہوگا مگر استحساناً یہ ہے کہ حائث نہ ہوگا اور غالب ہوگا اور غالب ہونے کے معنی امام ابو یوسف نے یوں بیان کیے ہیں کہ جس پر قسم کھائی ہے اگر اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہو اور اس کا مزہ پایا جاتا ہو تو وہ غالب ہے اور امام محمد نے فرمایا کہ غلبہ میں حیث الاجزاء ہی قال المترجم هذا هو الاظهر لیكون الحكم الی الاکثر اصیل خروج المخلوط الی اکثر احکم فلیتأمل اور یہ اس وقت ہے کہ جس پر قسم کھائی تھی اس کو غیر جنس میں ملا دیا اور اگر اسی جنس میں ملایا مثلاً دودھ کو دوسرے دودھ میں ملایا دیا^۱ تو امام ابو یوسف کے نزدیک یہ اولاد یکساں ہیں یعنی اعتبار غالب کا ہوگا پس براہ رنگ و مزہ کے یہاں اعتبار ممکن نہیں ہے اس واسطے بہ لحاظ مقدار کے غلبہ اعتبار کیا جائے گا اور امام محمد کے نزدیک ایسی صورت میں ہر حال میں حائث ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ یہ اختلاف ان چیزوں میں ہے جو مختلف و متمزج ہو جاتی ہیں اور جو چیزیں مختلف و متمزج نہیں ہوتی ہیں جیسے تیل کہ دودھ میں ملایا جائے مثلاً اور تیل نہ پینے کی قسم ہو تو بالاتفاق حائث ہوگا اور قدوری میں لکھا ہے کہ اگر کسی قدر آب زمزم پر قسم کھائی کہ اس میں سے کچھ نہ پیوں گا پھر اس کو دوسرے پانی میں ڈال دیا یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو گیا پھر اس میں سے پیا تو امام محمد کے نزدیک حائث ہوگا اور اگر اس کو کونوئیں یا حوض میں ڈال دیا پھر اس کا پانی پیا تو حائث نہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس آب شیریں میں سے نہ پیوں گا پھر اس کو کھاری پانی میں ڈال دیا کہ کھاری اس پر غالب ہو گیا پھر اس کو پیا تو حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر کھاری پر قسم کھائی اور اس کو شیریں میں ملا دیا تو بھی صورت مذکورہ میں یعنی شیریں غالب ہو جانے میں

۱۔ کیونکہ وہ دونوں جدا جدا ہیں اگرچہ حقیقتاً اسی کا بچہ ہے ۱۲۔ ۲۔ یعنی قسم کھائی کہ اس دودھ کو نہ پیوں گا فہم ۱۲۔

(۱) کہ وہ طاقت سے باہر ہے ۱۲۔ (۲) دونوں صورتوں میں ۱۲۔

یہی حکم ہے کہ حانث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ خمیر نہ پیوں گا پھر اس کو غیر جنس میں مرچ کر دیا جیسے کمبلی واخمہ میں ملا دیا اور پھر اس میں سے پیا تو غالب کا اعتبار کیا جائے گا یہ خلاصہ میں ہے۔

اگر فارسی میں قسم کھائی کہ می نخورم و بدست نگیرم پھر اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا:

اگر قسم کھائی کہ نمیند نہ پیوں گا تو مختار یہ ہے کہ قسم آب انگور مسکر پر واقع ہوگی خواہ وہ خام ہو یا مطبوخ ہو یہ دخیز کردری میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ سکی نخورم تو صحیح یہ ہے کہ سکی کا لفظ فقط آب انگور مسکر پر واقع ہوتا ہے خواہ خام ہو یا مطبوخ ہو یہ محیط میں ہے خانیہ میں لکھا ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے یہ تا تاریخانیہ میں ہے اور اگر فارسی میں قسم کھائی کہ می نخورم و بدست نگیرم پھر اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا پس اگر قسم کے وقت اپنے کلام سے یہ نیت نہ کی تھی کہ نہیں پیوں گا یعنی قسم سے مراد یہی تھی کہ اس کو نہ پیوں گا تو صحیح یہ ہے کہ حانث ہوگا یہ وجیز کردری میں ہے اور اسم خمیر جس کی فارسی ہے صحیح یہ ہے کہ یہ فقط آب انگور خام پر واقع ہوتا ہے اور اگر فارسی میں کہا کہ مسکرہ نخورم یعنی قسم کھائی تو بعض نے فرمایا ہے کہ جو مہوب سے بنائی جاتی ہے اس پر اس کی قسم نہ واقع ہوگی اور صحیح یہ ہے کہ اس میں عرف کا اعتبار ہے کہ اگر عرف میں ان چیزوں سے بنائی ہوئی شراب کو مسکرہ کہتے ہیں تو حانث ہوگا اور نہ جس کو نہیں کہتے ہیں اور اس حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ نمیند زبیب نہ پیوں گا پھر نمیند کشمش پی تو اپنی قسم میں حانث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ ایسی شراب نہ پیوں گا کہ اس سے سکر ہوتا ہے پھر شراب مسکر کو دوسری شراب غیر مسکر میں ملا کر پی لیا تو فتاویٰ اہل سمرقند میں مذکور ہے کہ اگر یہ ایسی ہو کہ اس میں سے بہت پینے سے نشہ ہو جائے تو حانث ہوگا اور اگر اپنی قسم ایسی چیز کے پینے پر عقد کی جو پی نہیں جاتی ہے اور جو چیز اس سے نکلتی ہے وہ پی جاتی ہے تو اس کی قسم جو اس کی قسم جو اس سے نکلتی ہے اس کے پینے پر واقع ہوگی اس کی مثال یہ ہے کہ منقہی میں مذکور ہے کہ اگر قسم کھائی کہ اس تمر یعنی چھو ہارے سے نہ پیوں گا پھر اس کی نمیند پی تو اپنی قسم میں حانث ہوگا اور اس جنس کے مسائل کی تخریج میں ہے یہی اصل ہے یہ محیط میں لکھا ہے ایک نے اپنی بیوی کی طلاق کی قسم اس امر پر کھائی کہ مسکر نہ پیوں گا پھر کوئی چیز مسکر اس کے حلق میں ڈالی گئی جو اس کے پیٹ میں چلی گئی تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر بدوں اس کے فعل کے اندر چلی گئی تو حانث نہ ہوگا ہاں اگر اس کے بعد اس نے خود پی لی تو حانث ہوگا اور اگر اس کے منہ میں ڈالی گئی پس اس نے روک رکھی پھر اس کو پی گیا تو حانث ہو گیا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ فلاں کے پیالے سے نہ پیوں گا پھر حالف نے اس کے پیالے سے اپنے ہاتھ پر پانی نا کر اپنے ہاتھ سے پی لیا تو حانث نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ فلاں کے پانی سے نہ پیوں گا اور حالف اس فلاں کی دکان کی میں بیٹھتا ہے پھر حالف نے ایک کوزہ خرید کر رات کو فلاں مذکور کی دکان میں رکھ دیا پھر فلاں کے اجیر نے اس کوزہ میں نہر سے پانی بھر کر رات میں دکان میں رکھ دیا پھر جب صبح کو حالف اس دکان میں آیا تو پانی کا کوزہ مذکور مانگ کر اس میں سے پی لیا پس اگر حالف نے یہ کوزہ اسی حیلہ کے واسطے خریدا ہوتا کہ حانث نہ ہو تو مجھے امید ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اجیر مذکور اس صورت میں حالف کا عامل ہو جائے گا پس وہ اپنا پانی پینے والا ہو یا یہ خلاصہ میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ اس قریہ میں خمیر نہ پیوں گا پھر اس قریہ کے باغبانے انگور یا کھیتوں میں شراب پی تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر گاؤں کی آبادی میں یا ان باغبانے انگور میں جو آبادی سے ملے ہوئے ہیں شراب پی تو حانث ہوگا ورنہ نہیں یہ ظہیر یہ میں ہے اگر کہا

کہ اگر میں نے شراب پی یا جو اکھیلا تو میرا غلام آزاد ہے تو ان دونوں میں سے ایک کام کرنے سے حائث ہو جائے گا اور قسم مستثنیٰ (۱) ہو جائے گی اور اگر کہا کہ واللہ اگر شراب بخورم و قمار بکنم تو ان میں سے ایک فعل کرنے سے حائث ہوگا اور اگر کہا کہ گنا سرخ نہ بینم شراب نخورم تو یہ قسم راجع ہوگی گل سرخ کے بہار پر یعنی گویا یوں کہا کہ جب تک گلاب نہ پھولیں گا میں شراب نہ پیوں گا بشرطیکہ اس نے حقیقتہً گل سرخ دیکھنا مراد نہ لیا ہو اور اگر قسم کھائی کہ ان دونوں بکریوں سے نہ پیوں گا پھر ایک کا دودھ پیا تو حائث ہوگا یہ سراجیہ میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی کی طلاق کی قسم کھائی اس پر کہ بادام کہ بخارا میں ہوں شراب نہ پیوں گا پھر قصر الجوس کی طرف چلا گیا پھر وہاں سے واپس آیا اور شراب پی تو شیخ ابو بکر محمد بن افضل نے فرمایا کہ اگر اس نے بادام یا بخارا میں لہوں اس قول سے بخارا کی سکونت مراد لی اور حال یہ کہ وہ قسم کے وقت بخارا کا ساکن تھا تو حائث ہوگا اور اگر قول مذکور سے اس نے اپنے بدن کا بخارا میں ہونا مراد لیا پھر قصر الجوس میں جا کر واپس آ کر شراب پی تو قسم باقی نہ رہے گی اور اگر اس کی کچھ نیت نہ ہو پھر وہاں جا کر واپس آیا تو کافی ہے حائث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے ایک نے کہا کہ اگر میں نے شراب پی تو میری عورت مطلقہ ہو جائے گی اور میرا غلام آزاد ہو جائے گا پھر اس نے شراب پی تو اس کی بیوی طلاق اور غلام آزاد ہو جائے گا اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے طلاق و عتاق کی نیت نہیں کی تھی بلکہ میری غرض یہ تھی کہ میرے اصحاب میرا پیچھا چھوڑ دیں تو تصدیق نہ ہوگی ایک نے قسم کھائی کہ تین مہینہ مسکر نہ پیوں گا پس اس کی جو رو نے کہا کہ چار مہینہ پس شوہر نے کہا کہ چار ماہ گیر تو بعض نے فرمایا کہ مدت چار مہینہ ہو جائے گی اور بعض نے کہا کہ چار مہینہ نہ ہوگی اور یہ بر بنائے آنکہ اگر حالف نے بعد سکوت کے اپنی قسم پر ایسی بات کو عطف کیا جس سے اس کے نفس پر سختی زیادہ ہوئی جاتی ہے تو وہ امام ابو یوسف کے نزدیک اس کی قسم میں لاحق ہو جائے گی اور اگر بعد سکوت کے ایسی بات عطف کی جس سے اس کے نفس پر آسانی ہوتی ہے تو اس کی قسم میں ملحق نہ ہوگی پھر مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ صورت مذکورہ میں اس کے نفس پر سختی ہوتی ہے یا آسانی پس بعض نے کہا کہ سختی ہے اس جہت سے کہ طلاق چوتھے مہینہ کے پینے پر واقع ہوگی اور یہی اصح ہے یہ محیط و ذخیرہ میں ہے۔

اگر کسی نے قسم کھائی کہ فرات سے کبھی نہ پیوں گا پھر اس سے چلوؤں میں بھر کر پیایا برتن میں لے کر پیایا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حائث نہ ہوگا:

امام محمد نے جامع کبیر میں فرمایا کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ فرات سے کبھی نہ پیوں گا پھر اس سے چلوؤں میں بھر کر پیایا برتن میں لے کر پیایا تو امام اعظم کے نزدیک حائث نہ ہوگا جب تک کہ منہ لگا کر نہ پیئے اور صاحبین کے نزدیک حائث ہوگا قال المترجم امام کے نزدیک حقیقت جو ہو سکتی ہو اولے ہی یعنی فرات میں سے منہ سے پی سکتا ہے اور صاحبین کے نزدیک مجاز متعارف اولیٰ ہے کہ عرف میں اس سے برتن وغیرہ سے پینا مراد ہوتا ہے پھر اگر اس نے منہ سے پیایا تو صاحبین کے نزدیک کیا حکم ہے پس یہ مسئلہ کتاب میں مذکور نہیں ہے اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ نہیں حائث ہوگا اور بعض نے کہا کہ حائث ہوگا اور

۱۔ قصر الجوس قریب بخارا کے ایک گاؤں ہے متصل بخارا کہ اس میں داخل ہے کہ وہ بخارا میں داخل ہے یا خارج تو اس مسئلہ سے ثابت ہوا کہ خارج ہے ۱۲۔
۲۔ مترجم کہتا ہے کہ اس میں دو صورتیں ہیں اول یہ کہ نفس الامر میں ایسا ہے دوم یہ کہ حق قضاء میں خاصہً یہ حکم ہے۔ اول بنظر مسئلہ مذکورہ اظہر ہے اور دوم اقرب بقصد ہے اور یہی صحیح ہے اس واسطے کہ نفس قسم کو تنگی و آسانی میں کچھ دخل نہیں ہے بلکہ مدار نیت پر قائل ۱۲۔

یہ اس وقت ہے کہ اس کی کچھ نیت نہ ہو اور اگر اس نے یہ نیت کی ہو کہ منہ لگا کر نہ پیوں گا تو تصاحبہ کے نزدیک اس کی نیت قضاء و دیانتہ صحیح ہوگی اور اگر اس نے چلوؤں و برتن سے پینے کی نیت کی تو امام اعظم کے نزدیک دیانتہ اس کی تصدیق ہوگی مگر قضا تصدیق نہ ہوگی اور یہ سب اس وقت ہے کہ اس نے فرات سے چلو سے یا منہ لگا کر پیا ہو اور اگر اس نے کسی دوسری نہر سے جو فرات سے پانی لیتی ہے چلو سے یا منہ لگا کر پیا تو اپنی قسم میں سب کے نزدیک بالاتفاق موافق ظاہر الروایت کے حائث نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ آب فرات سے نہ پیوں گا پھر اس نے کسی نہر سے جو فرات سے پانی لیتی ہے چلو سے یا منہ لگا کر پیا یا خود فرات سے چلو سے یا منہ لگا کر پیا تو بالاتفاق سب اماموں کے نزدیک حائث ہوگا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ دجلہ سے پانی نہ پیوں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے پھر برتن میں لے کر پانی پیا تو حائث نہ ہوگا یہاں تک کہ منہ لگا کر پیئے اور اگر قسم کھائی کہ بارش کے پانی سے نہ پیوں گا پھر دجلہ میں بارش کا پانی جاری ہو تو اس کے پینے سے حائث نہ ہوگا اور اگر اس نے کسی وادی سے جس میں آب باران رواں ہے حالانکہ اس میں اور پانی نہ تھا پیا یا کسی میدان میں آب باران جمع ہو اس میں سے پیا تو حائث ہوگا یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر کسی نہر سے پانی نہ پینے کی قسم کھائی کہ یہ نہر دجلہ کی طرف جارہی ہے یعنی اس میں ملتی ہے پھر دجلہ میں سے پانی لے کر پیا تو حائث نہ ہوگا یہ بحر الرائق میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ آب فرات نہ پیوں گا تبرکب صفت موصوف یا آب فرات میں سے نہ پیوں گا یعنی تبرکب صفت موصوف پھر اس نے دجلہ وغیرہ میں سے شیریں پانی لے کر پیا تو حائث ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر اپنے غلاموں سے کہا کہ جس تم سے اس نہر کا پانی پیا وہ آزاد ہے پھر سب نے پیا تو سب آزاد ہو جائے گے اور اگر کہا کہ جو تم میں سے اس کوزہ کا پانی پی جائے وہ آزاد ہے اور کوزہ میں اس قدر پانی تھا کہ اس کو ان میں سے ایک دفعہ یا دو دفعہ میں پی سکتا ہے پھر سبوں نے اس کو پیا تو کوئی آزاد نہ ہوگا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں نے آج کے روز جو اس کوزہ میں پانی ہے یا جو اس دوسرے کوزہ میں پانی ہے نہ پیا تو

میری بیوی طالق ہے پھر دونوں میں سے ایک کا پانی بہا دیا گیا تو اس کی قسم دوسرے پر باقی رہے گی:

اگر قسم کھائی کہ اس کوزہ سے نہ پیوں گا پھر اس میں جو پانی تھا اس نے دوسرے کوزہ میں کر دیا اور اس سے پیا تو بالا جماع حائث نہ ہوگا اور اگر کہا ہو کہ اس کوزہ کے پانی سے نہ پیوں گا پھر دوسرے کوزہ میں ڈال کر پیا تو بالا جماع حائث ہوگا اور اس طرح اگر کہا کہ اس (۱) منکے سے یا اس منکے کے پانی (۲) سے پھر دوسرے منکے میں انڈیل لیا تو یوں حکم ہے اور اگر کہا کہ اس منکے کے پانی سے نہ پیوں گا پھر کسی برتن میں لے کر پیا تو بالا جماع حائث ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس برتن سے نہ پیوں گا تو یہ بعینہ پینے پر ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے آج کے روز یہ پانی جو اس کوزہ میں ہے نہ پی لیا تو میری بیوی طالق ہے حالانکہ اس کوزہ میں کچھ پانی نہیں ہے تو حائث ہوگا اور اگر اس میں پانی ہو مگر رات ہونے سے پہلے وہ بہا دیا گیا ہو تو حائث نہ ہوگا اور یہ امام اعظم و امام محمد کے نزدیک ہے خواہ وقت قسم کے اس کو معلوم ہو کہ اس میں پانی ہے یا نہ معلوم ہو اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ان سب میں حائث ہوگا جبکہ یہ دن گذر جائے اور اگر قسم باللہ تعالیٰ ہو تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے کذا فی فتح القدیر اور وقت میں کوئی خصوصیت امروز کی نہیں ہے خواہ ایک روز معین بیان کرے یا ایک مہینہ معین یا ایک ہفتہ معین یہ بحر الرائق میں ہے

۱۔ اگر اس صورت میں آب نہر کہا ہو تو اس میں اختلاف ہے واضح یہ ہے کہ حائث ہوگا اگر پانی ممیز ہو ورنہ نہیں ۱۲۔

(۱) پس دوسرے منکے میں کر کے پینے سے حائث نہ ہوگا ۱۲۔ (۲) پھر دوسرے منکے میں کر لینے سے حائث ہوگا ۱۲۔

اور اگر قسم مطلق ہو یعنی بلا بیاں وقت تو اول (۱) صورت میں امام اعظمؒ و امام محمدؒ کے نزدیک حانث نہ ہوگا اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک فی الحال حانث ہو جائے گا اور دوسری صورت میں بالاتفاق سب کے نزدیک حانث ہو جائے گا یہ ہدایہ میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے آج کے روز جو اس کوزہ میں پانی ہے یا جو اس دوسرے کوزہ میں پانی ہے نہ پیا تو میری بیوی طالق ہے پھر دونوں میں سے ایک کا پانی بہا دیا گیا تو اس کی قسم دوسرے پر باقی رہے گی اور یہ تینوں اماموں کے نزدیک ہے اور جب سب کے نزدیک دوسرے پر قسم باقی رہی پس اگر اس نے رات سے پہلے اس کا پانی پی لیا تو بالاتفاق قسم میں سچا ہو گیا اور اگر نہ پیا تو بالاتفاق حانث ہو گیا اور اگر ان دونوں میں سے ایک کوزہ میں پانی نہ ہو تو امام اعظمؒ کے نزدیک اس کی قسم فقط اس کوزہ کے حق میں ہوگی جس میں پانی ہے اور امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ اس کی قسم دونوں پر ہے یعنی دونوں میں سے ایک کے پانی پی لینے پر ہے پھر اگر اس نے پانی والے کوزہ کا پانی پی لیا تو قسم میں بالاتفاق سچا رہا اور اگر نہ پیا تو بالاتفاق حانث ہو گیا یہ شرح جامع کبیر حیسری میں ہے اور غایہ میں ہے کہ اگر اس نے قسم کھائی کہ اس مٹکے سے پانی نہ پیوں گا پس اگر وہ بھرا ہوا لبریز تو امام اعظمؒ کے نزدیک منہ لگا کر اس سے پانی پی لینے پر واقع ہوگی اور بس اور امام ابو یوسفؒ و امام محمدؒ کے نزدیک منہ لگا کر پینے یا برتن وغیرہ سے نکال کر پینے دونوں طور پر قسم واقع ہوگی اور اگر وہ بھرا ہوا نہ ہو تو چلو وغیرہ سے نکال کر پینے پر بالاتفاق واقع ہوگی اور اگر قسم کھائی کہ اس کنو میں سے نہ پیوں گا یا اس کنو میں کے پانی سے نہ پیوں گا تو یہ بالاتفاق نکال کر پانی پینے پر ہے چنانچہ اگر اس میں سے پانی نکال کر پیا تو حانث ہوگا کذاتی السراج الوہاج اور اگر اس صورت میں اس نے تکلف کر کے کنو میں میں اتر کر منہ لگا کر پانی پیا یا مٹکے کے اندر منہ ڈال کر پانی پیا تو صحیح یہ ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا اور قال المترجم: توضیح المقام من حیث الاصل ان الخقیقۃ مہما امکن اولی عندہ وعندہما المجاز ثم اذا اتی یا حقیقۃ فیما تعین المجاز فیہ عند ہما مل لحنیث قال بعض المشائخ نعم و بعضہم لا علی التفصیل والتفصیل عندہ هو لاء ان الحقیقۃ اذا کانت بحیث تکلف فیہا لم حینث واذ اتی من غیر تکلف حنث و معنی التکلف ان یکون بحالہ لا یتبادر الہیما الفہم علی العموم الابخصوص النیتہ والتعمق وانت خبیر بان هذا الایخیص بہما مل عند الامام ایضاً کک فمعنی کلامہ مہما امکن ان یمکن من غیر تکلف فنا مل فیہ۔ ایک نے قسم کھائی کہ وسطہ دجلہ سے پیوں گا پھر اس نے ایسی جگہ سے پانی پیا جو ٹھیک دھار نہیں ہے مثلاً کنارہ سے تہائی یا چوتھائی ہے حالانکہ دھار پیپوں بیچ میں ہے تو اپنی قسم میں سچا ہو گیا اور دریافت کیا گیا کہ ایک نے قسم کھائی کہ نہ پیوں گا نمرو نہ ثلث و نہ فلاں نہ فلاں یعنی شرابوں کے نام لیے پھر ان میں سے ایک پی تو فرمایا کہ حانث ہوایہ تا تار خانہ میں ہے اور اگر کہا کہ اس پانی سے نہ پیوں گا پھر وہ پانی جم گیا جس میں سے اس نے کھایا تو حانث نہ ہوگا اور اگر پھر پگھل گیا کہ اس نے اس کو پیا تو حانث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ بلا اذن فلاں کے نہ پیوں گا پس فلاں نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کو زبان سے اجازت نہ دی اور وہ پی گیا تو چاہیے کہ حانث ہو جائے اس واسطے کہ اس نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک نے کہا کہ اگر میں تجھے آج کی رات فلاں کے گھر نہ لے جاؤں اور تجھے شراب نہ پلاؤں تو میری بیوی طالق ہے پس اس کو فلاں کے گھر لے گیا مگر اس کو شراب نہ پلائی تو حانث ہوا اور شیخ الاسلام نجم الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے کہا کہ میں اس خریف میں اس باغ کے انگوروں

۱۔ قال المترجم یہ صریح ہے کہ صاحبین کے نزدیک بھی حقیقت کا اعتبار ہے کیونکہ اختلاف صرف مجاز متعارف متعمل حقیقت ہوتا ہے اور فرات سے پینے کے مسئلہ میں مجاز در حقیقت جمع ہونے سے اختلاف مشائخ ہے اور صاحب الغایہ کی نقل ہے یا استخراج ہے وہ بھی بعض مشائخ کے قول پر ہے فافہم ۱۲۔

(۱) بالکل اس میں پانی ہی نہ تھا ۱۲۔

کی شراب بناؤں گا اور اپنے یاروں کے ساتھ پیوں گا اور اس کو اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا اور اگر وہ میرے گھر پہنچائی گئی تو میری بیوی طالق ہے پس اس نے سب انگوروں کی باغ میں شراب بنائی جس میں سے تھوڑی اپنے یاروں کے ساتھ وہیں پی اور باقی بدوں اس کی اجازت کے اس کے گھر اٹھلائی گئی یعنی کوئی اور اٹھالا پا تو فرمایا کہ اگر اس کی مراد یہ تھی کہ سب آپ اپنے گھر نہ لے جاؤں گا تو تھوڑی لی جانے سے خواہ خود اٹھلائے یا کوئی دوسرا پہنچائے بدوں اس کے حکم کے وہ حادث نہ ہوگا اور اگر اس کی مراد یہ تھی کہ سب وہیں پیوں گا اپنے گھر اٹھالانے کے واسطے کچھ نچھوڑوں گا تو حادث ہوگا اور اگر اس کی کچھ نیت نہ ہو تو بھی حادث ہوگا اور ایک شخص پر شراب خواری کا عتاب کیا گیا پس اس نے قسم کھائی کہ جو اس انگور کے درختوں سے نکلتی ہے وہ نہ پیوں گا تو یہ قسم شراب پینے پر ہوگی بدیں وجہ کہ لوگوں کے معافی کلام پر اعتبار کیا جائے گا یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر کسی نے اپنی قسم کسی مشروب بعینہ کے پینے پر قرار دی اور حال یہ ہے کہ وہ اس مشروب کو ایک دفعہ میں پی سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑی سی پینے سے حادث نہ ہوگا:

اگر کسی نے قسم کھائی کہ عصیر^۱ نہ پیوں گا پھر دانہ انگور یا خوشہ انگور اپنے حلق میں نچوڑ دیا تو حادث نہ ہوگا اور اگر اپنی ہتھیلی وغیرہ پر نچوڑ کر پی گیا تو حادث ہوگا اور اگر اس نے یوں کہا ہو کہ عصیر میرے حلق میں نہ داخل ہوگا تو دونوں صورتوں میں حادث ہوگا قال مولانا رحمۃ اللہ یہ اماموں کا عرف ہے اور ہمارے عرف کے موافق وہ بہر حال حادث نہ ہوگا اس واسطے کہ آب انگور اول نچوڑ میں عصیر نہیں کہلاتا ہے قال المترجم ہماری زبان کے موافق بہر حال حادث ہوگا خواہ حلق میں نچوڑے یا برتن میں نچوڑ کر پیئے و هذا عندی واللہ تعالیٰ اعلم یا ایک شخص کی بیوی کے ہاتھ میں قدح پانی کا بھرا ہوا ہے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے یہ پانی پی لیا تو نے اس کو رکھ لیا بہا دیا یا کسی کو دے دیا تو طالق ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ اس میں کوئی کیڑا یا روٹی ڈال دے کہ وہ پانی کو چوس جائے ہمارے مولانا نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہے کہ اس نے یہ بھی کہا ہو تو نے یہ پانی یا اس میں سے کچھ پی لیا الی آخرہ اور اگر اس نے اس میں سے کچھ کونہ کہا ہو پس عورت نے تھوڑا پی لیا اور کچھ پھینک دیا تو وہ حادث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کسی نے اپنی قسم کسی مشروب بعینہ کے پینے پر قرار دی اور حال یہ ہے کہ وہ اس مشروب کو ایک دفعہ میں پی سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑی سی پینے سے حادث نہ ہوگا اور اگر ایک دفعہ میں اس کو نہیں پی سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑی پینے پر قسم واقع ہوگی یہ محیط میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ دوا نہ پیوں گا پھر اس نے دودھ یا شہد یا تو حادث نہ ہوگا یہ سراجیہ میں ہے اور منتقی میں فرمایا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے عرف اور نام رکھنے کو دیکھا جائے گا پس ہر ایسی چیز کہ جس کو لوگ دیکھ کر کہتے ہوں کہ یہ دوا ہے اس پر اس کی قسم واقع ہوگی اور جس کا لوگ دوا نام رکھتے ہوں اس پر واقع نہ ہوگی اگرچہ حالف نے اس سے دوا کی ہو یہ مبسوط میں ہے اور ایک نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ ضرور میں آسمان کو چھوؤں گا یا ضرور میں ہوا میں اڑوں گا یا ضرور میں اس پتھر کو سونا کر دوں گا تو قسم سے فارغ ہوتے ہی حادث^۲ ہو جائے گا اور وہ گنگار بھی ہوگا اس واسطے کہ اس نے ایسے فعل کی قسم کھائی کہ غالباً اس کو نہیں کر سکتا ہے پس اس نے قسم کی تیک حرمت کی جان بوجھ کر پس گنہگار ہوایہ تیر تاشی میں ہے اور اگر ایسی قسم میں وقت بیان کیا ہو مثلاً کہا کہ کل کے

۱۔ حاصل یہ ہے کہ لغت جب مستعمل ہو تو بالاتفاق اسی پر مدار ہے اور اگر وہ مجبور ہو تو بالاتفاق مجاز متعارف ہے اور اگر حقیقت بھی متروک نہ ہو اور مجاز متعارف ہو تو امام کے نزدیک اول اور صامین کے نزدیک دوم معتبر ہے ۱۲۔ ۲۔ لوگوں کے محاورہ میں یہی معنی مراد ہوتے ہیں ۱۲۔ ۳۔ عصیر نچوڑا ہوا اور وہ معارف طریقہ سے چاہیے ۱۲۔ ۴۔ جب جانتا تھا کہ یہ غیر ممکن ہے تو اس نے قسم کی اہانت کی تو اہانت دوسرا گناہ ہے ۱۲۔

روز آسمان پر چڑھ جاؤں گا تو جب تک یہ وقت گذرنے جائے تب تک حادثہ نہ ہوگا حتیٰ کہ اگر اس سے پہلے مر گیا تو اس پر کفارہ نہیں ہو اس واسطے کہ ہنوز وہ حادثہ نہیں ہوا ہے یہ فتح القدر میں ہے۔

باب : ۶

کلام پر قسم کھانے کے بیان میں

اگر کسی نے کہا کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا تو اس کے اس کلام قسم کے بعد سے کلام کرنے پر ہوگی جو کہ اس کے اس کلام قسم سے جدا ہو چنانچہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے تجھ سے کلام کیا تو میرا غلام آزاد ہے پس تو میرے پاس سے چلا جایا کہا پس او فلاں نے میرے پاس سے چلا جائیگا یہ اپنے کلام قسم سے ملا کر کہا تو حادثہ نہ ہوگا یہ عتابیہ میں ہے اور اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں نے تجھ سے کلام کیا تو طالق ہے پس تو چلی جایا تو یہاں سے اٹھ جا تو چلی جایا تو یہاں سے اٹھ جا کہنے سے حادثہ نہ ہوگا اس واسطے کہ یہ اس کی قسم سے متصل ہے اس واسطے کہ اس نے جو قسم کھائی ہے کہ اس سے کلام نہ کروں گا یا اگر تجھ سے کلام کروں تو یہ اس کلام پر واقع ہوگی جو قسم سے مقصود ہے اور وہ ایسا کلام ہے جو کلام اول کے بعد از سر نو جدید ہو اور اس کا یہ کہنا کہ پس یہاں سے چلی جایا یہاں سے اٹھ جا یہ اگرچہ حقیقت کلام ہے لیکن قسم سے مقصود نہیں ہے پس وہ اس سے حادثہ نہ ہوگا اور اسی طرح اگر اس نے یہ کہا کہ اور تو یہاں سے چلی جایا اور تو یہاں سے اٹھ جا تو بھی حادثہ نہ ہوگا اور اگر اس نے اس کلام سے کلام جدید از سر نو مراد لیا تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی اور اگر اس نے اپنے اس قول سے کہ چلی جا طلاق مراد لی تو چلی جا سے ایک طلاق واقع ہوگی اور ایک طلاق دیگر بسبب کلام کرنے کے قسم کی وجہ سے واقع ہوگی اس واسطے کہ جب اس نے اس کلام سے طلاق کی نیت کی تو یہ کلام مبتدأ ہو گیا یعنی از سر نو لیس وہ حادثہ ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر فلاں مذکور سے بعد قسم کے کہا کہ تو چلا جا تو حادثہ ہو گیا یعنی باوجود یکہ قسم سے ملا کر کہا ہے مگر چونکہ بلا حرف اتصال کہا ہے پس کلام مفصول ہو گیا اور اگر بعد قسم کے کہا کہ اور تو طالق ہے تو وہ حادثہ ہو گیا اور اگر لکھ دیا یا اپنی بھیج دیا یا اشارہ کر دیا تو حادثہ نہ ہوگا اور اسی طرح اگر اس نے نماز سے سلام پھیرا اور فلاں مذکور اس کے دائیں یا بائیں بیٹھا ہے تو بھی حادثہ نہ ہوگا یہ عتابیہ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا الا اس کی اجازت سے پھر فلاں نے اجازت دے دی مگر اس کو معلوم نہ ہو یہاں تک کہ اس نے فلاں سے کلام کیا تو حادثہ ہو گیا یہ کافی میں ہے اور اگر قسم کھائی (۱) کہ کلام نہ کروں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے پھر اس نے نماز پڑھی اور اس میں قرأت کی یا تسبیح یا تہلیل کی یعنی سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہا تو استحساناً حادثہ نہ ہوگا اور اگر اس نے نماز سے باہر قرأت کی یا تسبیح یا تہلیل کی تو ہمارے علماء کے نزدیک حادثہ ہو گیا یہ محیط میں ہے۔ فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ اگر فارسی میں قسم کھائی یعنی کلام نہ کرنے کی تو خارج نماز میں بھی قرأت و تسبیح و تہلیل سے حادثہ نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ قاری یا مسج کھلائے گا نہ متکلم اور اسی پر فتویٰ ہے کذانی الکافی قال اکثر جم ہماری زبان میں بھی یہی حکم ہے واللہ اعلم اور اگر قسم کھائی کہ کلام نہ کروں گا پھر نماز میں تکبیر کہی یا دعا کی تو حادثہ نہ ہوگا اور اگر نماز سے باہر تکبیر کہی یا دعا کی تو حادثہ ہو گیا بشرطیکہ قسم عربی زبان میں ہو اور اگر فارسی میں ہو تو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں حادثہ نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ

۱۔ یہ نہیں ہوا کہ کلام قسم بول کر خاموش ہو کر پھر چلے جانے کو کہا ہو ۱۲۔

(۱) عربی زبان میں ۱۲۔

کروں گا پھر حالف نے نماز میں فلاں مذکور کی اقتدا کی پھر فلاں مذکور نماز میں بھول گیا پس حالف نے اس کے جتانے کے واسطے سبحان اللہ کہا تو حادث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر حالف نے چند لوگوں کی امامت کی جن میں مخلوف علیہ یعنی جس سے کلام نہ کرنے کی قسم کھائی ہے شامل ہے پس اس نے نماز ختم ہونے پر اسلام پھیرا تو پہلے سلام سے حادث نہ ہوگا اور نہ دوسرے سلام سے اور یہی مختار ہے اور یہ اس وقت ہے کہ حالف امام ہو اور اگر حالف مقتدی ہو تو مشائخ نے فرمایا کہ بنا بر قول امام ابوحنیفہ و امام ابو یوسف کے حادث نہ ہوگا اور مخلوف علیہ امام ہو اور حالف مقتدی ہو پس اس نے امام کو لقمہ دیا تو اپنی قسم میں حادث نہ ہوگا اور اگر نماز سے باہر اس کو قرآن پڑھایا تو اماموں کے عرف کے موافق حادث ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر حالف نے اس کو دُور سے پکارا:

اگر قسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پس اس کو کوئی کتاب پڑھ کر سنائی پس فلاں نے اس کو لکھا تو فرمایا کہ اگر اس کو لکھوانے کا قصد کیا تو مجھے خوف ہے کہ وہ حادث ہوگا یہ حاوی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر حالف نے اس کو دُور سے پکارا پس اگر اتنی دور ہو کہ وہ نہیں سنتا ہے تو حادث نہ ہوگا اور اگر دوری اس قدر ہو کہ وہ اس کی آواز سنتا ہے تو حادث ہوگا اور اسی طرح اگر مخلوف علیہ سوتا ہو پھر حالف نے اس کو پکارا پس اگر اس کو جگا دیا تو حادث ہو اور اگر نہ جگایا تو شیخ شمس الائمہ سرخسی نے ذکر کیا کہ صحیح یہ ہے کہ وہ حادث نہ ہوگا یہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اسی پر ہمارے مشائخ ہیں اور یہی مختار ہے یہ نہر الفائق میں ہے اور اگر حالف ایسی جماعت پر گذرا جس میں مخلوف علیہ بھی ہے پس اس نے اس جماعت پر سلام کہا تو حادث ہو گیا اگر چہ مخلوف علیہ نے نہ سنا ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر اس نے سوائے مخلوف علیہ کے باقیوں کو مراد لیا ہو تو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ حادث نہ ہوگا مگر قضاء تصدیق نہ کی جائے گی یہ بدائع میں ہے اور اگر ایک قوم پر جس میں مخلوف علیہ بھی ہے سلام کیا تو حادث نہ ہوگا اگر چہ جانتا نہ ہو کہ فلاں ان میں ہے اور اگر اس نے استثناء کر لیا یعنی کہا کہ اسلام علیکم الاعلیٰ فلاں تو حادث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ لا اعلیٰ واحد اور اس سے فلاں مذکور کی نیت کی تو اس کی تصدیق کی جائے گی یہ عتابیہ میں ہے قسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر فلاں نے دروازہ بجایا پس حالف نے کہا کہ کون ہے یا کہا کہ کون ہے یا کہا کہ وہ کون ہے تو بعض نے کہا کہ حادث نہ ہوگا الا آنکہ یوں کہے کہ تو کون ہے اور یہی مختار ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر مخلوف علیہ نے اس کو پکارا پس اس نے جواب دیا کہ لبیک یعنی حاضر ہوں یا کہا کہ لبیٰ یعنی میں حاضر ہوں تو قسم میں حادث ہوگا یہ محیط میں ہے۔ تجریز میں لکھا ہے کہ اگر مخلوف علیہ کے دروازہ کھٹکانے کے بعد اس نے کہا کہ من ہذا یعنی کون ہے یہ آدمی تو حادث ہوگا اور اگر اس سے کہا کہ تو تھک گیا ہے یا ست ہو گیا ہے پس اس نے کہا خوب است یعنی اچھا ہے یا کہا کہ ہاں یا کہا کہ ارے تو حادث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ قسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر فلاں نے کسی دوسرے کو پکارا پس حالف نے کہا کہ میں حاضر ہوں تو حادث ہوگا اور اسی طرح اگر فارسی میں کہا کہ یہی تو بھی یہی حکم ہے یہ عتابیہ میں ہے۔

مجموع النوازل میں لکھا ہے کہ اگر قسم کھائی کہ کلام نہ کروں گا پھر اس کی بیوی آئی اور وہ کھانا کھاتا تھا پس بیوی سے کہا کہ ہا یعنی تو بھی کھا تو حادث ہو گیا یہ محیط میں ہے۔ قسم کھائی کہ اپنی بیوی سے کلام نہ کروں گا پھر گھر کے اندر گیا اور اس میں سوائے بیوی

۱۔ یہ فارسی عرف عوام ہے بجائے لبیک کے بدوں کاف بولتے ہیں ۱۲۔ ۲ تصدیق قول یہ عربی زبان میں بوجہ الف لام کے متصل ہے اور اردو زبان میں حادث ہونا چاہئے بلکہ یہی صحیح ہے اور اسی پر فتویٰ دینا چاہئے اور نیت کی تصدیق نہ ہوگی ۱۲۔

کے کوئی نہ تھا پس کہا کہ یہ چیز کس نے رکھی یا یہ چیز کہاں ہے تو حائث ہوگا اور اگر اس دار میں سوائے اس عورت کے کوئی دوسرا بھی ہو تو حائث نہ ہوگا اور اگر یوں کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کس نے کیا ہے تو حائث نہ ہوگا اگرچہ گھر میں سوائے عورت کے کوئی نہ ہو یہ خلاصہ میں ہے اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر اس سے ایسی عبارت میں بات کی کہ فلاں اس کو نہ سمجھا تو بھی حائث ہوگا یہ محیط میں ہے اور قسم کھائی کہ فلاں سے کام نہ کروں گا پھر فلاں مذکور نے کسی کو گالی دی اور حالف نے اس کو کمن کہہ کر منع کرنا چاہا پھر تک ہے کہنے پایا تھا کہ اس کو قسم یاد آگئی کہ خاموش ہو گیا تو حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس قدر غیر مفہوم ہے پس کلام نہ ہوگا اور فلاں مذکور نے حالف کے باپ کو گالی دی پس حالف نے کہا کہ نہیں بلکہ تو ہی ہے تو حائث ہو گیا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ جس نے قسم کھائی ہے کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا اس نے کسی دوسرے سے کلام کیا اور غرض یہ ہے کہ فلاں مذکور کو سنادے تو حائث نہ ہوگا یہ خزانہ المفتیین میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر دیوار سے کلام کیا اور کہا کہ امی دیوار ایسا و ایسا ہے تو حائث نہ ہوگا اگرچہ غرض اس کی یہ ہو کہ فلاں سن لے اور اسی پر فتویٰ ہے یہ فتاویٰ صغریٰ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں کے اس غلام سے کلام نہ کروں گا پھر فلاں نے اپنا غلام فروخت کر دیا پھر حالف نے اس سے کلام کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ و امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حائث نہ ہوگا:

امام محمد نے فرمایا کہ ایک نے کہا کہ امراتہ طالق ان تزوجت النساء اور اشتریت العبيد او کلمت الرجال او الناس میری جو روطالقه ہے اگر میں نے عورتوں سے نکاح کیا یا غلاموں کو خرید کیا یا مردوں سے کلام کیا یا لوگوں سے کلام کیا پھر ایک عورت سے نکاح کیا یا ایک مرد سے کلام کیا یا ایک غلام خرید تو حائث ہوگا اور اگر کہا کہ مسکینوں یا فقیروں سے کلام نہ کروں گا پھر ان میں سے ایک سے کلام کیا تو حائث ہوگا اور اس نے تمام مردوں یا تمام عورتوں کی نیت کی ہو تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور کبھی حائث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ ان تزوجت نساء او اشتریت عبيد او کلمت رجلا فکذا اگر میں نے عورتوں کو نکاح میں لیا یا غلاموں کو خرید یا مردوں سے کلام کیا تو چین و چنان ہے پس تب تک تین غلام نہ خریدے یا تین عورتوں سے نکاح نہ کرے یا تین مردوں سے کلام نہ کرے تب تک حائث نہ ہوگا اور اگر اس نے جنس مراد لی یعنی جنس عورت سے نکاح نہ کروں گا تو ایک عورت سے نکاح کرنے اور ایک غلام خریدنے سے حائث ہوگا یہ شرح جامع کبیر حصری میں ہے اور تین سے زیادہ کی نیت کی ہو تو ہو سکتا ہے اور اگر دو کی نیت کی تو نہیں صحیح ہے یہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ نبی آدم سے کلام نہ کروں گا پھر کسی ایک آدمی سے کلام کیا تو حائث ہوگا اور اگر اس نے اس سے کل آدمیوں کی نیت کی ہو تو کبھی حائث نہ ہوگا اور دیانتہ و قضاء اس کی تصدیق ہوگی یہ بدائع میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے اس غلام سے کلام نہ کروں گا پھر فلاں نے اپنا غلام فروخت کر دیا پھر حالف نے اس سے کلام کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ و امام ابو یوسف کے نزدیک حائث نہ ہوگا یہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے غلام سے کلام نہ کروں گا پس اگر کوئی غلام معین مراد لیا ہے تو یہ کلام اور قولہ فلاں کے اس غلام سے دونوں یکساں ہیں اور اگر اس کی کچھ نیت نہ ہو پس اگر فلاں کے ایسے غلام کیا جو وقت قسم کے موجود تھا اور وقت حائث ہونے کے بھی موجود ہے تو بالا جماع حائث ہوگا اور اگر ایسے غلام سے کلام کیا کہ وہ وقت قسم کے موجود تھا اور وقت حائث کرنے کے اس کا غلام نہ تھا تو بالا اتفاق حائث نہ ہوگا اور اگر وقت قسم کے اس کا غلام نہ تھا اور وقت کلام کرنے کے اس کا غلام تھا تو امام ابو حنیفہ و امام محمد کے نزدیک حائث ہوگا یہ شرح طحاوی میں ہے۔

شیخ ابوبکر نے فرمایا کہ ایک نے قسم کھائی کہ فلاں کے غلام سے کلام نہ کروں گا پھر اس کی مضاربت کے غلام سے جن میں

اس کا نفع شریک ہے یا نہیں کلام کیا تو بالا جماع حانث نہ ہوگا یہ حاوی میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ فلاں کے دوست یا فلاں کی زوجہ یا فلاں کے بیٹے یا مثل ان کے سے جن کی اضافت فلاں کی طرف بہ حکم ملک نہیں ہے کلام نہ کروں گا پھر فلاں مذکور نے بعد اس قسم کے نکاح کیا یا بعد قسم کے اس کا بیٹا پیدا ہوا پھر حالف نے اس سے کلام کیا تو حانث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور جامع صغیر میں مذکور ہے کہ ایک نے قسم کھائی کہ فلاں کی بیوی سے کلام نہ کروں گا حالانکہ فلاں کی کوئی بیوی نہیں ہے پھر اس نے ایک نکاح کیا اور اس عورت سے حالف نے کلام کیا تو امام اعظم و امام ابو یوسف کے نزدیک حانث ہوگا اور امام محمد اس کے خلاف فرماتے ہیں کہ حانث نہ ہوگا اور حجتہ میں لکھا ہے کہ فتویٰ شیخین کے قول پر ہے یہ تا تار خانیہ میں ہے اور اگر حالف نے ایسی عورت سے کلام کیا جس کو فلاں مذکور نے بعد اس کی قسم کے بائیں کر دیا یا ایسے شخص سے جس سے فلاں مذکور نے بعد اس کی قسم کے دشمنی کر لی ہے تو امام اعظم و امام ابو یوسف کے نزدیک حانث نہ ہوگا اور اگر حالف نے اپنی قسم میں یوں کہا ہو کہ فلاں کی زوجہ یا عورت یا فلاں کا دوست یہ شخص پھر حالف نے زوجیت یا دوستی دور ہو جانے کے بعد اس سے کلام کیا تو بالا تفاق حانث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے غلاموں سے کلام نہ کروں گا تو موافق ظاہر الروایت کے یہ قسم کم سے کم اونے مرتبہ جمع پر ہوگی یعنی عربی زبان کی قسم میں تین پر اور فارسی و اردو میں دو پر ہوگی پس عربی زبان کی قسم میں اگر اسکے میں غلاموں سے منجملہ دس غلاموں کے کلام کیا تو حانث ہوگا اور اگر دو سے کلام کیا تو حانث نہ ہوگا کہ جمع کا ہونا ضرور ہے جیسے فارسی و اردو میں کم سے کم دو ہونا ضرور ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے

بزیادة من المترجم -

اگر قسم کھائی کہ اس چادر والے سے کلام نہ کروں گا پھر اس سے اس وقت کلام کیا کہ وہ اس چادر کو فروخت کر چکا ہے تو بالا جماع حانث ہوگا:

اگر اس نے فلاں کے کل غلام مراد لیے ہوں تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور یہی صحیح ہے یہ عتابیہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کی زوجات سے کلام نہ کروں گا یا فلاں کے اصدق سے کلام نہ کروں گا تو جب تک سب سے کلام نہ کرے حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے بھائیوں سے کلام نہ کروں گا حالانکہ اس کا ایک ہی بھائی ہے پس اگر وہ جانتا تھا تو اس ایک سے کلام کرنے سے حانث ہوگا اور نہیں جانتا تھا تو نہیں حانث ہوگا یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس چادر والے سے کلام نہ کروں گا پھر اس سے اس وقت کلام کیا کہ وہ اس چادر کو فروخت کر چکا ہے تو بالا جماع حانث ہوگا اور اگر چادر مذکور خریدنے والے سے کلام کیا تو حانث نہ ہوگا یہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور قسم کھائی کہ اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو مجھ پر قسموں سے اس قدر ہیں کہ جس قدر کہ فلاں چاہے پس اس سے کلام کیا اور فلاں نے چاہا کہ اس پر تین قسمیں ہوں یا کم یا زیادہ تو اس پر اس طرح نہیں لازم آئی گی یعنی وہی ایک کفارہ شرعی جو شرع سے واجب ہو لازم آئے گا یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ لایحوم حوم فلاں یعنی نگر وہ سے نگر وہم یعنی اس کے آس پاس بھی نہ جاؤں گا تو یہ بمنزلہ اس قول کے ہے کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا یہ خلاصہ میں ہے اور امام محمد سے روایت ہے کہ ایک نے قسم کھائی کہ اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو وہ آزاد ہے یا یہ پھر فلاں سے کلام کیا تو امام محمد نے فرمایا ہے کہ متولی کو اختیار ہے دونوں میں سے جس پر چاہے عتاق واقع کرے اور اگر کہا کہ اگر میں نے فلاں سے

۱۔ فلاں مذکور کسی کا مضارب ہے پس یہ غلام مال مضارب کا ہے پس اگر اس غلام میں نفع بھی شریک ہے یعنی مثلاً ہزار درہم اس المال تھا اور کسی چیز کو خرید کر اس کے فروخت کرنے میں ڈیڑھ ہزار ہوا پھر اس ڈیڑھ ہزار سے خریدا ہوا یہ غلام ہے یا ایسا نہیں ہے شرکت نفع میں احتمال تھا کہ یہ اس کا غلام ہے ۱۲۔

کلام کیا تو ہر غلام جس کا میں مالک ہوں یا ہر باندی جس کا میں مالک ہوں آزاد ہے پھر فلاں سے کلام کیا تو فرمایا کہ یہ دونوں کے عتق پر واقع ہوگی چنانچہ ہر غلام کہ اس کا مالک ہوئے اور ہر باندی کہ اس کا مالک ہوئے آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو مجھ پر حج ہے یا عمرہ تو اس کو دونوں میں سے اختیار ہو جو چاہے ادا کرے یہ محیط میں ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ اپنی ساس سے کلام نہ کروں گا پھر وہ اپنی بیوی کے پاس اس کے میکے گیا اور اس سے جھگڑے کی باتیں باہم واقع ہوئیں پس اس کی ساس نے اس سے کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے تو ایسا ایسا نہیں کرتا ہے پس اس نے کہا کہ اس کو کھانا دیتا ہوں اس کے واسطے کپڑا لاتا ہوں پھر دعویٰ کیا کہ میں نے ساس کو جواب دینے کی نیت نہیں کی تھی بلکہ جو رو کو مراد لیا تھا تو فرمایا کہ اس قول کی تصدیق ہوگی اور صحیح^۱ یہ ہے کہ قضاء اس کی تصدیق نہ کی جائے گی یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اگر میں نے اپنے باپ سے کلام کیا تو سب جو کچھ میری ملک میں ہے صدق ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ اپنی سب املاک کسی معتمد کے ہاتھ بعوض کپڑے میں لپیٹی ہوئی چیز کے فروخت کر دے پھر اپنے باپ سے کلام کرے کہ اس پر کچھ لازم نہ آئے گا پھر بیع کو بحکم خیار رویت کے رد کر دے یعنی کپڑے میں لپیٹی ہوئی چیز جو شمن ہے دیکھ کر ناپسند کر کے بیع رد کر دے یہ خلاصہ میں ہے بشر نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو نے فلاں سے کلام کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر دوسرے نے کہا کہ الّا تیری اجازت سے تو اسی طور سے حائث ہوگا کہ بدوں اس کی اجازت کے فلاں سے کلام کرے یہ تا تاریخانیہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر فلاں مذکور گوشت بیچتا ہوا نکالے پس حالف نے اس کو پکارا کہ ای گوشت والے تو حائث ہو گیا اور اگر فلاں مذکور نے چھینکا پس حالف نے کہا کہ یرحمک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے تو حائث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر حالف بازار میں گذرا پس کہا کہ پوست اور فلاں مذکور وہاں ہے تو حائث نہ ہوگا یہ وجیز کروری میں ہے اور اگر کہا کہ ہر بار کہ کلام کیا میں نے ان دونوں مردوں میں سے کسی ایک سے تو میری بیویوں میں سے ایک بیوی طالق ہے پھر دونوں سے ایک ہی کلام کیا تو دو طلاق واقع ہوں گی کہ ان کو چاہے دو عورتوں پر ڈالے یا ایک ہی پر ڈالے یہ کافی میں ہے ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں نے تیری طلاق کے ساتھ کلام کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر بیوی سے کہا کہ اگر تو چاہے تو تو طالق ہے پس بیوی نے کہا کہ میں نہیں چاہتی ہوں تو بعض نے فرمایا ہے کہ اس کا غلام آزاد ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

تثنیہ (دو) ذکر کر کے واحد (ایک) مراد لینا:

اسی طرح اگر کہا کہ اگر میں نے تکلم بشرک کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر کہا کہ ان الشرت لظلم عظیم تو بھی یہی حکم ہے قال المترجم متبادر ہمارے عرف میں اس سے یہ ہے کہ بات ایسی کہے جو شرک ہے یا کلام ایسا کرے جو طلاق ہے و فیما ذکرہ مع بعدہ فالثانی العبد من الاول اور حسن نے فرمایا کہ ان سب میں نیت اس کی درست ہے پس جو اس کی نیت ہوگی اس کے موافق حکم ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ میری کچھ نیت نہ تھی تو میرے نزدیک وہ حائث نہیں ہوگا اور فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ قول اول احب ہے اور بعض نے قول حسن کو اختیار کیا ہے یہ تا تاریخانیہ میں ہے وقال المترجم قول حسن نظر عرف ہمارے نزدیک ماخوذ ہے واللہ تعالیٰ اعلم شیخ اسد بن عمرو سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں نے تیرے قذف کا کلام کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس عورت سے کہا کہ تو زانیہ ہے انشاء اللہ تعالیٰ تو حائث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور گرنکاح کر کے قبل وطی کے اپنی بیوی

۱۔ محل النزاع ہو تو اس کو اور اگر بجائے اس کو کے تجھ کو کہتا تو کچھ جھگڑا نہ تھا ۱۲۔ ۲۔ ان صورتوں میں اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میری یہ نیت تھی تو اس کی نیت صحیح ہے اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی ۱۲۔

سے تین مرتبہ کہا کہ اگر میں نے تجھ سے کلام کیا تو تو طالق ہے تو دوسری بار یہ کلام قسم کہنے پر پہلی قسم میں حانث ہوا اور دوسری قسم امام کے نزدیک منعقد ہوگی اور تیسری بار اس طرح قسم کھانے سے دوسری قسم منعقدہ بلا جزاء منحل ہوگی اور تیسری منعقد نہ ہوگی اور اگر اس نے تیسری قسم نہ کھائی یہاں تک کہ اس عورت سے دوبارہ نکاح کیا پھر اس سے کلام کیا تو دوسری قسم کی وجہ سے ہمارے نزدیک طالق ہو جائے گی یہ کافی میں ہے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے فلاں و فلاں سے کلام کیا تو تو طالق ہے پس اس عورت نے ایک سے کلام کیا نہ دوسرے سے پس اگر اس کی نیت یہ ہو کہ جب تک دونوں سے کلام نہ کرے حانث نہ ہو تو اس کی نیت پر ہوگی کہ وہ حانث نہ ہوگا یا کچھ نیت نہ کی ہو تو بھی حانث نہ ہوگا اور اگر نیت ہو کہ ایک سے بھی کلام کرے تو حانث ہوگا اور اگر کسی مقام میں ایسے کلام میں یہ عرف ہو کہ انفراد مقصود ہوتا ہے یعنی ایک کسی سے کلام نہ کرے اجتماع نہیں مقصود ہوتا ہے کہ حانث جب ہو جب دونوں سے کلام کرے تو اس مقام کے عرف کے موافق حانث کی یہی نیت قرار دی جائے گی اور قسم کھائی کہ فلاں و فلاں سے کلام نہ کروں گا پس اگر اس کی کچھ نیت نہ ہو یا یہ نیت ہو کہ حانث نہ ہوئے الا دونوں سے کلام کرنے سے حانث نہ ہوگا اور اگر یہ نیت ہو کہ ایک سے کلام کرنے سے حانث ہو تو اس کی نیت پر حکم ہوگا اور شیخ ابوالقاسم صفار نے فرمایا کہ اگر کچھ نیت نہ ہو تو بھی ایک سے کلام کرنے سے حانث ہوگا لیکن مختار یہ ہے کہ نہیں حانث ہوگا یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے قال المتر جم شیخ ابوالقاسم کے دیار میں عرف ہوگا کہ ایک سے کلام نہ کرنا مقصود ہوتا ہوگا جیسے ہمارے عرف میں ہے لہذا یہ حکم بنظر عرف صحیح اور وہاں کے عرف کے موافق مختار ہوگا جیسے ہمارے یہاں ہے واللہ اعلم اور اگر کہا کہ ان دونوں آدمیوں سے کلام نہ کروں گا یا فارسی میں کہا کہ بایں دو تن سخن نہ گویم تو ان میں سے ایک سے کلام کرنے سے حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے ایک سے کلام نہ کرنے کی بھی نیت کی ہو تو اس کی نیت صحیح نہ ہوگی یہ مشائخ کا قول ہے اور مؤلف نے فرمایا کہ نیت صحیح ہونی چاہیے اس واسطے کہ تثنیہ ذکر کر کے ایک مراد لیا جاتا ہے پس جبکہ وہ کہتا ہے کہ میری نیت ایسی تھی اور حال یہ ہے کہ اس سے اس کے نفس پر سختی ہوتی ہے تو تصدیق کی جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان و خلاصہ میں ہے قال المتر جم یصح عندنا مطلقاً اگر کہا کہ اس قوم کے لوگوں سے یا اہل بغداد سے کلام کرنا مجھ پر حرام ہے پھر ان میں سے ایک آدمی سے کلام کیا تو حانث ہوگا اور یہ برخلاف اس کے ہے کہ جو ہم نے بیان کیا اس صورت میں کہ اس نے کہا کہ واللہ میں ان دو آدمیوں سے کلام نہ کروں گا یا فارسی میں کہا کہ واللہ بایں دو تن سخن نہ گویم بدینوچہ کہ ہم نے اس صورت میں بیان کیا کہ بالاتفاق ایک سے کلام کرنے سے حانث نہ ہوگا اور فتویٰ کے واسطے یہی مختار ہے پس ایسا ہی اس مقام پر ہے یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے قال ہمارے نزدیک دونوں صورتوں میں حانث ہوگا کما قد ذکرنا هناک ایضاً نا فہم۔

اگر کہا کہ کلام فلاں و فلاں مجھ پر حرام ہے پھر دونوں میں سے ایک سے کلام کیا تو حانث ہوگا اور بعض نے کہا حانث نہ ہوگا الا اس نے ہر ایک سے کلام نہ کرنے کی نیت کی ہو اور یہی مختار ہے یہ جو اہر خلاطی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ لایکلمہ فلانا او فلانا یعنی فلاں یا فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر ایک سے کلام کیا تو حانث ہوگا قال المتر جم ہمارے عرف کے موافق یہ مفہوم مردود ہے کہ اس کی مراد یہ ہوگی کہ ان دونوں میں سے ایک سے کلام نہ کروں گا پس جب کسی ایک سے کلام کر لیا تو دوسرا کلام نہ کرنے کے واسطے متعین ہو گیا کہ جب اس سے کلام کریں گا حانث ہوگا واللہ اعلم اور اسی طرح اگر کہا کہ میں کلام نہ کروں گا فلاں سے اور نہ فلاں سے تو ایک سے کلام کرنے سے حانث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے قال المتر جم یہ ہمارے عرف کے بھی موافق ہے اور اگر قسم کھائی کہ واللہ

۱ عرف اقوال ہمارے عرف میں بھی یہ مقصود نہیں ہوتا کہ مجموعہ دونوں سے کلام نہ کروں گا بلکہ ایک سے بھی کلام نہ کروں گا اور قولہ قال المتر جم صحیح یعنی ہر حال میں نیت صحیح ہے۔ ۱۲۔

کلام نہ کروں گا فلا نے یا فلا نے سے تو پہلے سے کلام کرنے سے اور باقی دونوں سے کلام کرنے سے حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ واللہ کلام نہ کروں گا فلا نے یا فلا نے سے تو پہلے دونوں سے یا پچھلے ایک سے کلام کرنے سے حائث ہوگا اور اگر اکیلے اول سے یا دوسرے سے کلام کیا تو حائث^(۱) نہ ہوگا یہ کافی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ ان خرجت من هذه الدار حتى اكله الذی هو فیها فامراته طاق یعنی اگر میں نے اس شخص سے جو دار میں ہے کلام نہ کیا یہاں تک کہ میں اس دار سے نکل گیا تو میری بیوی طالق ہے اور اس دار میں کوئی آدمی نہیں ہے پس وہ باہر نکل گیا تو امام اعظم کے نزدیک حائث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر اپنی باندیوں سے کہا کہ ہر بار کہ میں نے کلام کیا تم میں سے کسی ایک سے تو تم میں سے ایک سوائے^(۲) اس کے آزاد ہے پھر اس نے صحت میں چار سے کلام کیا اور قبل بیان کے مر گیا تو سب آزاد ہوں گی یہ کافی میں ہے قال المترجم میرے نزدیک یہ مراد نہیں ہے کہ اگر سب دس ہوں مثلاً تو سب کی سب مفت آزاد ہو جائے گی بلکہ مراد یہ ہے کہ آزاد تو سب ہوگی مگر سعایت لازم آئے گی یعنی جس پر جس قدر مال سعایت کر کے ادا کرنا واجب ہو بعد منہائی اس قدر حصہ کے جو آزاد ہوا ہے ادا کرے گی فافہم۔ اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے یہ بات فلاں سے کہی تو تو طالق ہے پھر عورت نے وہ بات فلاں مذکور سے کہی لیکن ایسی عبارت میں کہی کہ فلاں مذکور نہ سمجھا تو عورت مذکورہ طالق ہوگی جیسے کسی نے قسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر ایسی عبارت میں کلام کیا کہ فلاں اس کو نہ سمجھا تو حائث ہوتا ہے پس ایسا ہے یہاں ہے یہ محیط میں ہے۔ جب میں لکھا ہے کہ قسم کھائی کہ کسی چیز سے کلام نہ کروں گا پھر کسی جماد سے یا ایسے حیوان سے جو ناطق نہیں ہے کلام کیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر گونگے یا بہرے سے کلام کیا تو حائث ہوگا اور اگر اطفال سے کلام کیا پس اگر سمجھتے ہوں تو حائث ہوا اور اگر نہ سمجھتے ہوں تو حائث نہ ہوگا یہ تا تاریخانیہ میں ہے۔ شمس الاسلام اور جندی سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے قسم کھائی کہ کسی سے کلام نہ کروں گا پھر ایک کافر اس کے پاس اسلام لانے کے واسطے آیا تو شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صفت اسلام بیان کر دے اور وہ سب بیان کر دے جس سے کافر مسلمان ہو جاتا ہے اور اس سے بات نہ کرے پس حائث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے مترجم کہتا ہے کہ اگر ایسی صورت میں یہ دیکھے کہ میرے کلام نہ کرنے سے اس کے اسلام میں تاخیر ہوگی بدینوجہ کہ اس کی خاطر کو انقباض ہوتا ہے تو لازم ہے کہ قسم توڑے اور کفارہ ادا کرے اور اس کو خوشی خاطر سے مسلمان کرے واللہ تعالیٰ احکم ایک نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ کسی اجنبی مرد سے باتیں کرتی ہے پس اس کو غصہ آیا اور عورت سے کہا کہ اگر تو نے اس بعد کسی مرد اجنبی سے بات کی تو تو طالق ہے پھر اس کے بعد اس کی عورت نے شوہر کے شاگرد پیشہ سے بات کی جو اس عورت کا ایسا ناتے دار نہیں ہے جس سے نکاح حرام ہو یا کسی ایسے مرد سے جو اسی دار میں رہتا ہے جس سے شناسائی ہے مگر وہ اس عورت کا ذی محرم محرم نہیں ہے یا عورت نے اپنے کسی ذوی الارحام یعنی ناتے دار سے بات کی حالانکہ وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس سے نکاح حرام ہوئے تو وہ عورت طالق ہو جائے گی یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ اس جوان سے بات نہ کروں گا پھر اس کے بوڑھے ہو جانے کے بعد اس سے بات کی تو حائث ہوگا:

اگر قسم کھائی کہ لایکلہ رجلا ایک مرد سے بات نہ کروں گا پھر اس نے ایک مرد سے بات کی اور کہا کہ میں نے اس کے

۱۔ مترجم کہتا ہے کہ اس سے تجھے ظاہر ہوا کہ جو خلاصہ میں مذکور ہے وہی صحیح و مختار ہے ۱۲۔

(۱) یا صورت اولی میں دوسرے تیسرے سے تنہا کلام کیا تو حائث نہ ہوگا ۱۲۔ (۲) جس سے کلام کیا ہے ۱۲۔

سوائے دوسرے کو مراد لیا ہے تو حائث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ لایکلمہ الرجل یعنی مرد سے بات نہ کروں گا تو جنس مرد پر قسم ہوگی یا تعین درست ہوگا کہ کسی مرد سے بات کرنے سے حائث ہوگا یہ محیط^۱ میں ہے اگر قسم کھائی کہ اس جوان سے بات نہ کروں گا پھر اس کے بوڑھے ہو جانے کے بعد اس سے بات کی تو حائث ہوگا یہ حاوی میں ہے اگر قسم کھائی کہ طفل سے بات نہ کروں گا پھر کسی بوڑھے سے بات کی حائث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ مرد سے بات نہ کروں گا پھر طفل سے بات کی تو حائث ہوگا یہ ظہیر میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اگر میں نے عورت سے بات کی تو میرا غلام آزاد ہے پھر لڑکی^(۱) سے بات کی تو حائث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگر میں نے عورت سے نکاح کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر لڑکی سے نکاح کیا تو حائث ہوگا اس واسطے کہ بچپن کلام کرنے سے بالغ ہے پس عورت کے حق میں جو قسم معقود ہو اس میں لڑکی کا مراد لینا عادت کی راہ سے نہ ہوگا اور نکاح کرنا ایسا نہیں ہے یہ بحر الرائق میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ کلام نہ کروں گا مرد سے یا طفل سے یا غلام سے یا شاب سے یا کہل سے یعنی ان میں سے کسی سے کلام نہ کرنے کی قسم کھائی تو ہم کہتے ہیں کہ شرع میں غلام نام ایسی عمر کے مرد کا ہے جو بالغ نہ ہو اور پھر جب بالغ ہو تو شاب ہو گیا اور اس کو فتی بھی کہتے ہیں اور امام ابو یوسف^۲ سے روایت ہے کہ شاب پندرہ برس سے تیس برس تک ہے جب تک اس پر شمشط غالب نہ ہو اور کہل تیس برس سے پچاس برس تک ہے اور پچاس برس سے زیادہ کا شیخ کہلاتا ہے اور پندرہ برس سے کم شاب نہیں ہے اور تیس برس سے کم کا کہل نہیں کہلاتا ہے اور اس کے درمیان میں جو عمر ہے اس میں شمشط معتبر ہے اور قدوری میں امام ابو یوسف^۳ سے روایت ہے کہ شاب پندرہ برس سے پچاس برس تک ہے الا آنکہ شمشط اس پر اس سے پہلے غالب ہو جائے اور کہل تیس برس سے آخر عمر تک ہے اور شیخ پچاس برس سے زیادہ عمر کا ہوتا ہے پس بنا براس روایت کے پچاس برس سے زیادہ عمر والے کو امام ابو یوسف^۴ نے شیخ بھی قرار دیا اور کہل بھی اور وصایا النوازل میں امام ابو یوسف^۵ سے مروی ہے کہ تیس برس کا کہل ہے اور نیز امام ابو یوسف^۶ سے مروی ہے کہ جو تینتیس برس کا یا اس سے زیادہ کا ہوئے وہ کہل ہے پھر جب پچاس برس کا ہو گیا تو وہ شیخ ہے اور نو اور بن و سماعہ میں لکھا ہے کہ کہل تیس برس سے چالیس برس تک ہے اور شیخ وہ ہے کہ پچاس سے اس کی عمر زیادہ ہو اگر چہ اس کے بال سفید نہ ہوئے ہوں اور اگر چالیس برس سے عمر زیادہ ہوئی اور اس کے سفید بال بہت ہو گئے تو وہ شیخ ہے اور اگر سیاہ زیادہ ہوں تو شیخ نہیں ہے اور امام محمد^۷ سے مروی ہے کہ غلام وہ ہے کہ پندرہ برس سے عمر میں کم ہو اور شاب و فتی وہ ہے کہ پندرہ برس یا زیادہ کا ہو اور جب چالیس برس کا ہو تو اس وقت سے ساٹھ برس تک کہل ہے الا آنکہ بالوں کی سفیدی اس پر غالب ہو جائے تو وقت غلبہ سے شیخ ہوگا اور اگر چہ پچاس برس تک کی عمر نہ ہوئی ہو مگر کہل جب تک چالیس برس کا نہ ہوگا اور جب تک چالیس سے تجاوز نہ کرے تب تک شیخ نہ ہوگا اور قال المترجم یہی ہمارے عرف کے موافق ہے ولکن لادخل له فی انشراح فی مثل ذلك فابتعنا ما افتوار حمہم اللہ تعالیٰ۔

اگر کہا: ان کلمتک الان تکلمنی او الی ان تکلمنی اور حتی تکلمنی فکذا :

اگر قسم کھائی کہ تیامی^(۱) بنی فلاں یا قسم کھائی کہ ارائل^(۲) بنی فلاں سے یا قسم کھائی کہ شیب بنی فلاں یا قسم کھائی کہ ایامی^(۳) بنی فلاں سے کلام نہ کروں گا تو ہم کہتے ہیں کہ یتیم وہ کہلاتا ہے کہ اس کا باپ مر گیا اور ہنوز وہ صغیر ہے کہ بالغ نہیں ہوا ہے تو جب بالغ

۱ محیط میں ہے اقول ہمارے عرف میں اگر کہا کہ مردوں سے بات نہ کروں گا تو بھی سب کی نیت نہیں ہو سکتی ہے بلکہ جنس مراد لی جائے گی یعنی اس جنس سے

بات نہ کروں گا تو ایک سے حائث ہوگا ۱۲۔ ۲ ای یتیمان فرزند ان فلاں یعنی فلاں کی اولاد میں جو یتیم ہیں ۱۲۔

(۱) جوان نہ تھی ۱۲۔ (۲) رائد و بے خاوند عورتیں ۱۲۔ (۳) ایامی جمع ایم مرد بے زوجہ و عورت بے شوہر ۱۲۔

ہو گیا تو ہم اس کو یتیم نہیں کہتے ہیں ایسا ہے امام محمدؒ نے کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور امام محمدؒ کا قول لغات میں حجت ہے اور اراکل جمع ارمہ ہے وہ ہر ایسی عورت بالغہ فقیر محتاجہ ہے کہ اس کو اس کے شوہر نے جدا (۱) کر دیا ہو خواہ اس کے ساتھ دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو پس یہ نام مخصوص عورت کے ساتھ ہے اور اسی بالغہ پر بولا جاتا ہے جس کو اس کے شوہر نے جدا کر دیا ہو اور اسی پر بولا جاتا ہے جو فقیر محتاجہ ہو ایسا ہی امام محمدؒ نے کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور ان کا قول لغات میں حجت ہے اور ایم ہر ایسی عورت بولتے ہیں جس سے جماع کیا گیا ہو خواہ بہ نکاح جائز یا فاسد یا بطور زنا اور حال یہ ہو کہ اس کو اس کے شوہر نے جدا کر دیا ہو خواہ وہ فقیرہ ہو یا غنیہ ہو یا صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو ایسا ہی امام محمدؒ نے کتاب میں ذکر کیا ہے اور شیب ہر ایسی عورت ہے کہ اس سے حلال یا حرام طور پر جماع کر لیا گیا ہو خواہ اس کا شوہر ہو یا نہ ہو صغیرہ ہو یا بالغہ ہو غنیہ ہو یا فقیرہ ہو یا ایسا ہی امام محمدؒ نے ذکر فرمایا ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ ان کلمتک الان تکلمنی او الی ان تکلمنی حتی تکلمنی فکذا یعنی اگر میں نے تجھ سے کلام کیا الا آنکہ تو مجھ سے کلام کرے یا تا آنکہ تو مجھ سے کلام کرے یا یہاں تک کہ تو مجھ سے کلام کرے تو چینین (۲) و چنناں پھر دونوں نے ایک دوسرے کو ساتھ ہی سلام کیا تو امام محمدؒ کے قول میں حالف حانث ہوگا اور امام ابو یوسفؒ کے قول میں حانث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر دونوں مکہ کو جانے کو نکلے پھر ایک نے قسم کھائی کہ میں اس سے کلام نہ کروں گا یہاں تک کہ مکہ سے لوٹوں پھر دونوں راستہ سے لوٹ آئے پھر حالف نے اس نے کلام کیا تو حانث ہوگا اور یہ قسم مکہ میں جا کر لوٹ آنے پر ہوگی الا آنکہ دونوں میں مرافعت یا کوئی اور بات ہو یہ عتابیہ میں ہے۔

اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے تجھ سے ابتداء کی کلام میں یا تزوج میں پھر دونوں میں ملاقات ہوئی پھر دونوں نے ایک دوسرے پر ساتھ ہی سلام کیا یا دونوں نے ساتھ ہی نکاح کیا تو حانث نہ ہوگا یہ کافی میں ہے اور حالف سے بعد اس واقعہ کے قسم ساقط ہو جائے گی حتیٰ کہ اس قسم سے اب کبھی حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ ابتداء کلام اس کی طرف سے واقع ہونے سے پاس ہوگئی اس واسطے کہ جو کلام اس کے بعد حالف سے پایا جائے گا وہ ایسا ہی ہوگا کہ بعد کلام مخلوف علیہ کے ہے اور اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں نے تجھ سے کلام کرنے میں پہل کی تو تو طالقہ ہے اور عورت نے کہا کہ اگر میں نے تجھ سے کلام کرنے میں پہل کی تو میری باندی آزاد ہے پھر شوہر نے اس عورت سے کلام کیا تو مرد اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا اور بیوی بھی اپنی قسم میں حانث نہ ہوگی کیونکہ اس نے پہل نہیں کی ہے اور اگر دونوں نے ساتھ ہی ایسے ہی قسم کھائی ہو تو چاہیے کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے ساتھ ہی کلام کرے کہ دونوں میں سے کوئی حانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر کسی دوسرے سے کہا کہ اگر میں تجھ سے کلام کروں قبل اس کے تو مجھ سے کلام کرے تو میرا غلام آزاد ہے پھر دونوں سے ملاقات ہوئی پس ہر ایک نے دوسرے کو ایک ساتھ ہی سلام کیا حالف اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر کہا کہ کلام نہ کروں گا کسی سے کبھی الا دو مردوں میں سے ایک سے کوئی ہو یا بصری ہو:

چند لوگ ایک مجلس میں بیٹھے باتیں کرتے تھے پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ جس نے اس کے بعد کلام کیا اس کی بیوی طالقہ ہے پھر اسی کہنے والے نے کلام کیا تو اس کی بیوی طالقہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ خزانہ میں لکھا ہے کہ ایک نے کہا کہ جس نے غلام عبد اللہ سے کلام کیا اس کی بیوی طالقہ ہے اور عبد اللہ ہی قسم کھانے والا ہے اور اسی کا غلام یہ غلام ہے پس اس نے

۱۔ اس واسطے کہ بیوی قسم کھانے میں اس سے پہلے کلام کر چکی ہے ۱۲۔ ۲۔ اگر کوئی دوسرا کلام کرے تو اس کی بیوی طالقہ نہ ہوگی ۱۳۔

(۱) خواہ موت یا طلاق ۱۲۔ (۲) میری بیوی طالقہ ہے یا غلام آزاد ہے ۱۳۔

خود اپنے غلام سے کلام کیا تو حائث ہو گیا یہ خلاصہ میں ہے ایک نے کہا کہ واللہ میں فلاں سے کلام نہ کروں گا استغفر اللہ انشاء اللہ تعالیٰ تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ استثناء صحیح ہے اور حائث نہ ہوگا اور یہ حکم ازراہ دیانت ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے امام محمد نے فرمایا کہ ایک نے کہا کہ واللہ کلام نہ کروں گا کسی سے الافلاں یا فلاں سے تو اس کو اختیار ہے چاہے دونوں سے کلام کرے یا ایک سے یعنی ان دونوں سے کلام کرنے میں منفرد آیا مجموعاً حائث نہ ہوگا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور اگر کہا کہ کسی سے کلام نہ کروں گا الا شخص بصری یا کوئی سے پھر اس نے بصرہ کے رہنے والے سے یا کوفہ کے رہنے والے سے کلام کیا یا دونوں سے کلام کیا تو حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر کوفہ کے تمام آدمیوں سے یا بصرہ کے تمام آدمیوں سے یا کوفہ و بصرہ کے تمام آدمیوں سے کلام کیا تو بھی حائث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ واللہ کسی آدمی سے کلام نہ کروں گا الا ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی سے تو اس صورت میں مستثنیٰ ان دونوں میں سے ایک آدمی ہے پس اگر ان میں سے ایک سے کلام کیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر دونوں سے کلام کیا تو حائث ہوگا اور ان دو میں اگر کہا کہ کلام نہ کروں گا کسی سے کبھی الا دو مردوں میں سے ایک سے کوئی ہو یا بصری ہو یا کہا کہ کسی سے کلام نہ کروں گا الا ان دو میں سے ایک سے کوئی ہو یا بصری ہو پھر اس نے ایک کوئی یا بصری سے کلام کیا یا دونوں سے کلام کیا تو اپنی قسم میں حائث ہوگا یہ محیط میں ہے قال المترجم ہماری زبان کے موافق اس میں تامل ہے واللہ اعلم اور اگر قسم کھائی کہ واللہ کسی سے کلام نہ کروں گا الا مرد واحد ازاہل کوفہ سے پھر اس نے کوفہ کے دو مردوں سے کلام کیا تو حائث ہو گیا اور اگر کہا کہ الا مرد کوئی سے تو کوفہ کے تمام مردوں سے کلام کرنے سے حائث نہ ہوگا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔

زید و عمرو نے اپنے درمیان مشترک باندی کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور قاضی نے دونوں سے اس کے نسب کا حکم دیا پھر خالد نے کہا کہ اگر میں نے زید کے بچہ سے کلام کیا تو میرا غلام آزاد ہے اور بکر نے کہا کہ اگر میں نے عمرو کے بچہ سے کلام کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر دونوں نے اسی بچہ مذکور سے کلام کیا تو حائث ہو گئے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے شیخ نجم الدین سے دریافت کیا گیا کہ زید نے کہا کہ اگر میں نے عمرو سے کلام کیا تو میں کفارہ کا شریک ہوں ان باتوں میں اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہوں جو اس کے لائق نہیں ہیں پھر اس نے عمرو سے کلام کیا تو کیا واجب ہوگا فرمایا کہ اس پر کفارہ قسم واجب ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے قال المترجم مشائخ کے نزدیک ایسی قسم عربی زبان میں قسم ہوتی ہے اور اردو فارسی میں واللہ اعلم کیا حکم ہے جو انکان فلیکن كذلك فانہم۔ زید نے قسم کھائی کہ عمرو سے کلام نہ کروں گا پھر عمرو نے اس کو خوشخبری دی تو اس نے کہا کہ الحمد للہ یا بری خبر سنائی تو اس نے کہا کہ انا اللہ وانا الیہ راجعون تو اس سے حائث نہ ہوگا یہ تاتارخانیہ میں ہے اور اگر بدخبر کی صورت میں زید نے عمرو سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے و تجھے دونوں کو محفوظ رکھے تو حائث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر زید نے عمرو سے کہا کہ اگر میں نتیجہ سے کلام کیا تو گھر جانا مجھ پر حرام ہے اور کلام کیا پھر دار میں داخل ہو اور بکر سے کلام کیا تو اس پر ایک کفارہ قسم واجب ہوگا اور اگر یوں لہا ہو کہ اور کلام بکر حرام ہے تو ایسی صورت میں اس پر وہ قسموں کے دو کفارے واجب ہوں گے یہ تاتارخانیہ میں ہے قال المترجم جم: ان سالکتک انت بیمین جزاؤہ بیمین اوانت بیمین حنشت لزمک بیمین اوانت بیمین لو حنشت لایلزمک الکفارة الایمین فاجب بما ذکرنا من تولہ اگر زید نے عمرو سے کہا کہ اگر میں نے تجھ سے کلام کیا الی آخر فقہ بر۔

اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے فلاں عورت سے کلام کیا تو تو طالق ہے پھر اس کی بیوی نے ایک روز کپڑے دھوئے پھر

۱۔ قضاء تصدیق نہ ہوگی ۱۲۔ ۲۔ کیونکہ یہ شکر الہی با صبر ہے اور سے کلام نہیں ہے ۱۴۔ ۳۔ عمرو سے کلام کیا پس قسم منعقد ہوئی پس دار میں داخل ہوا
الی آخرہ ۱۲۔

اتنے میں فلانہ مذکورہ آئی اور اس سے کہا کہ تو تھک گئی ہے اس نے یہ جان کر کہ یہ فلانہ ہے یا بے جانے جواب دیا کہ نہیں اچھی ہوں یا کہا کہ ہاں تو یہ سب کلام ہے پس وہ طالعہ ہو جائے گی یہ ظہیر یہ میں ہے کہ اصل یہ کلام وحدیث یعنی بات و خطاب یہ جب ہی ہوتے ہیں جب بالمشافہ ہوں یہ عتابیہ میں ہے۔ اگر زید نے عمرو سے کہا کہ اگر تو نے مجھے خبر دی کہ فلاں آ گیا ہے تو میری بیوی طالعہ ہے یا میرا غلام آزاد ہے پس عمرو نے اس کو فلاں کے آجانے کی جھوٹ خبر دی تو زید حانث ہو گیا یعنی اس کی بیوی طالعہ ہو گئی اور غلام آزاد ہو گیا بخلاف اس کے اگر کہا کہ اگر تو نے مجھے فلاں کی آمد کی خبر دی تو میرا غلام آزاد ہے پس عمرو نے اس کی جھوٹی خبر دی تو اس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگر تو نے مجھے خبر دی کہ میری بیوی گھر میں ہے تو میرا غلام آزاد ہے پس عمرو نے اس کو جھوٹی خبر دی کہ تیری بیوی گھر میں ہے تو حانث ہو اور اس کا غلام آزاد ہو گیا اور اگر کہا کہ اگر تو نے میری بیوی کے گھر میں ہونے کی خبر دی تو میرا غلام آزاد ہے پس عمرو نے اس کو جھوٹی دی تو آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگر تو نے مجھے بشارت دی کہ فلاں آیا ہے یا کہا کہ اگر تو نے مجھے فلاں کے آنے کی بشارت دی پس مخاطب نے اس کو جھوٹی اس کی خوشخبری دی تو حانث ہو گیا اور اگر کہا کہ اگر تو نے مجھے آگاہ کیا کہ فلاں آیا ہے یا تو نے مجھے فلاں کے آنے کی آگاہی دی پس مخاطب نے اس کو جھوٹ اس کی آگاہی دی تو حانث نہ ہوگا اور اگر حانث کے آگاہ ہو جانے کے بعد فلاں نے اس کو اس امر کی سچی خبر دی یا آگاہ کیا تو بھی حانث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر اس نے یوں قسم کھائی ہو کہ اگر تو نے مجھے خبر دی پھر اس نے حانث کے آگاہ ہونے کے بعد اس کو خبر دی تو اپنی قسم میں حانث ہو جائے گا اور اگر حانث نے اس صورت میں اپنے اس قول سے کہ تو نے مجھے آگاہی دی یہ نیت کہو کہ خبر دے دی تو بعد آگاہ ہونے کے مخاطب کے آگاہ کرنے سے بھی حانث ہو جائے گا اور چاہیے کہ حانث کی نیت دیانتہ و قضاء دونوں طرح صحیح ہوئے اور اگر قسم کھائی کہ اگر تو نے مجھے لکھا کہ فلاں آیا ہے تو میرا غلام آزاد ہے پس مخاطب نے اس کو دروغ ایسا لکھا تو وہ حانث ہو گیا خواہ اس کا خط پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو اور اگر کہا کہ اگر تو نے مجھے فلاں کے آنے کو لکھا تو میرا غلام آزاد ہے پس اس نے جھوٹ لکھا تو حانث نہ ہوگا اور اگر اس صورت میں مخاطب نے اس کو لکھا کہ فلاں آیا ہے اور حال یہ ہے کہ واقعی فلاں مذکور اس کے لکھنے سے پہلے آ گیا تھا مگر مخاطب کو معلوم نہ تھا تو حانث ہو جائے گا۔

زیادات میں امام محمدؒ نے فرمایا کہ اگر زید نے قسم کھائی کہ عمرو کا سر کبھی اٹھار نہ کروں گا پس زید نے عمرو کے ایک خط کی جو اس نے زید کو لکھا تھا خبر دی یا اس کے کسی کلام کی خبر دی یا کسی نے پوچھا کہ آیا عمرو کا بھید یہ ہے پس زید نے سر ملایا یعنی ہاں تو اپنی قسم میں حانث ہو گیا اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں کے بھید کا افشانہ کروں گا یا فلاں سے افشانہ کروں گا یا قسم کھائی کہ فلاں کے بھید سے فلاں کو آگاہ نہ کروں گا یا فلاں کے ہونے کی جگہ سے فلاں کو آگاہ نہ کروں گا یا قسم کھائی کہ فلاں کا بھید ضرور پوشیدہ کروں گا یا خفیہ رکھوں گا یا چھپا کر رکھوں گا یا فلاں کو اس پر راہ نہ بتلاؤں گا پھر ان میں سے کوئی بات کی تو اپنی قسم میں حانث ہوگا اور اگر اس نے ان سب صورتوں میں یہ نیت کی ہو کہ کلام یا تحریمہ یا اپنی سے آگاہ نہ کروں گا اور اشارہ کی نیت نہ ہو تو کتاب میں مذکور ہے کہ ازہدیں یعنی متدین رکھا جائے گا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں مذکور ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اس کے قول کی تصدیق ہوگی اور ہا یہ کہ اس کے قول کی قضاء تصدیق ہوگی یا نہیں سو عامہ مشائخ کے نزدیک قضاء تصدیق نہ ہوگی اور پھر واضح ہو کہ اگر اس نے ایسی چیزوں کی قسم کھائی پھر اس نے اس کا حیلہ اور اس سے نکلنے کی راہ تلاش کی تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ اس کی یوں کہا

۱۔ مثلاً کہا کہ اگر زید سے کلام نہ کروں گا پھر اس کی پیٹھ پیچھے کہا کہ اوزید تو کلام نہیں ہے یا زید سے بات نہ کروں گا پھر نیت میں کہا کہ زید تم اچھے ہو یا خطاب نہ کروں گا پھر اسی طرح غیب میں خطاب کیا تو خطاب وغیرہ نہیں ہوگا۔ ۲۔ جیسے اوپر مذکور ہوئی ہیں ۱۲۔

جائے کہ ہم جگہوں کے نام لیتے ہیں یا بھیدوں کو بیان کرتے ہیں پس جو جگہ یا بھید فلاں کا نہ ہو اس پر تو انکار کرتا جانا اور جب ہم جگہ یا بھیدوں کو بیان کریں تو خاموش ہو جانا پس جب اس نے ایسا کیا اور وہ لوگ فلاں کی جگہ یا بھید سے واقف ہو گئے تو یہ اپنی قسم میں حاشہ نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں عورت سے اپنی خدمت نہ چاہوں گا پھر اس کو اپنی خدمت کے واسطے اشارہ کیا تو اس سے خدمت چاہی یعنی حاشہ ہو اس واسطے کہ اشارہ سے خدمت چاہنا متعارف ہے خصوصاً بادشاہوں میں اور بڑے لوگوں میں پس وہ حاشہ ہو گیا خواہ فلاں مذکورہ نے اس کی خدمت کر دی ہو یا نہ کی ہو اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کو فلاں کے بھید سے خبر نہ کروں گا یا فلاں کو فلاں کے موجود ہونے کی جگہ سے خبر نہ کروں گا پھر خط یا اپیلچی کے ذریعہ سے ایسا کیا تو حاشہ ہو گیا اگر قسم کھائی کہ فلاں کو ایسی بشارت نہ دوں گا پھر خط یا اپیلچی کے ذریعہ سے ایسا کیا تو اپنی قسم میں حاشہ ہو گیا اور اگر اس سے کہا گیا کہ آیا یہ بات ایسی ہے یا فلاں شخص فلاں جگہ ہے پس اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا یعنی ہاں تو یہ فعل خبر دینا یا بشارت دینا نہیں ہے پس اپنی قسم میں حاشہ نہ ہوگا لیکن اگر اس نے خبر دینے یا بشارت دینے سے اعم مراد لی ہو کہ خواہ سر کے اشارہ سے ہو یا اور طور پر تو دینا نیز وقضاء اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر زید نے قسم کھائی کہ عمرو کے واسطے مال کا اقرار نہ کروں گا پس زید سے کہا گیا کہ آیا تجھ پر عمرو کا اس قدر ہے پس اس نے سر کے اشارہ سے کہا کہ ہاں تو اپنی قسم میں حاشہ نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے بھید کی بات نہ کروں گا تو خط لکھنے و اپیلچی بھیجنے اور سر سے اشارہ کرنے سے حاشہ نہ ہوگا اور اگر اس سے پوچھا گیا کہ آیا فلاں کا بھید چین و چناں ہے یا فلاں شخص فلاں جگہ ہے پس اس نے کہا کہ ہاں تو قسم میں حاشہ ہو گیا اور مثل بات نہ کرنا کہنے کے تحدیث نہ کرنا یا گفتگو نہ کرنا بھی ہے اور اگر کسی نے ایسی سب قسمیں کھائیں یعنی مع سب مذکورہ بالا قسموں کے کلام کرنے اور زبان سے نہ نکالنے کی پھر حالف گونگا ہو گیا کہ وہ زبان سے کلام کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس کی قسم اشارہ و تحریر پر ہو جائے گی الا ایک بات میں اور وہ یہ ہے کہ اگر قسم کھائی کہ فلاں کے بھید کی بات نہ کروں گا یا فلاں کے بھید کی تحدیث نہ کروں گا تو اس قسم کی صورت میں وہ اشارہ کرنے و تحریر کرنے سے حاشہ نہ ہوگا اگرچہ اس نے بعد گوئی ہو جانے کے اشارہ یا تحریر کی ہو اور باقی سب صورتوں میں حاشہ ہوگا۔

میرے غلاموں میں سے جس کسی نے مجھے اس کی بشارت دی وہ آزاد ہے پس سب نے ایک ساتھ اس کو بشارت دی تو سب آزاد ہو جائے کیس:

ہر جس صورت میں کہ ہم نے اشارہ سے حاشہ ہو جانے کو بیان کیا ہے اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے اشارہ کیا و لیکن اس حال میں میرے اس امر کی نیت نہ تھی جس پر میں نے قسم کھائی ہے تو دیکھا جائے اور اگر یہ جواب ایسی بات کا ہو جو اس سے دریافت کی گئی ہے تو قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی اور دینا نیز تصدیق کی جائے گی اور اگر کسی نے کہا کہ الا اقول بفلان کذا یعنی فلاں سے ایسا نہیں کہوں گا اور نیز یہ صغیہ مشترک ہے واسطے حال کے یعنی فلاں سے ایسا نہیں کہتا ہوں اور مراد اول ہے سو یہ مسئلہ امام محمد نے جامع و زیادات میں ذکر نہیں فرمایا اور نوادر میں امام محمد سے مروی ہے کہ یہ بھی مثل خبر نہ دوں گا و بشارت نہ دوں گا کے ہے حتیٰ کہ تحریر کرنے اور اپیلچی بھیجنے سے حاشہ ہوگا اور اشارہ کرنے سے حاشہ نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ لا یدعو فلانا یعنی فلاں کونہ

۱۔ قال المترجم اگر مضطر ہو ایسا کرے ورنہ ایسا امر خالی از شبہ نہیں ہے اور میں نہیں پسند کرتا ہوں ۱۲۔ ۲۔ مثلاً کہا کہ فلاں سے حدیث نہ کروں گا یا گفتگو نہ کروں گا تو جیسے بات نہ کروں گا ۱۲۔ ۳۔ اگر قسم عربی میں ہو تو اشارہ سے حاشہ ہونا اقرب ہے علی المحادۃ الفصیحة ۱۲۔

بلاؤں گا پھر اس کو خط یا اپیلٹی کے ذریعہ سے بلا یا تو ظاہر الروایہ میں حانث ہوگا اور امام محمدؒ سے نو اور میں مذکور ہے کہ اگر لفظ تبلیغ کہا کہ فلاں کو تبلیغ نہ کروں گا تو یہ بمنزلہ اجنار کے ہے کہ بذریعہ خط واپیلٹی کے حاصل ہو سکتی ہے پس خط واپیلٹی سے تبلیغ کرنے سے حانث ہو گا اور اس طرح لفظ ذکر ہی بعبارت عربی کہ وہ بھی بذریعہ اپیلٹی و خط حاصل ہو جاتا ہے اور اگر کہا: ای عبیدی بشرنی بکذا فہو حر یعنی میرے غلاموں میں سے جس کسی نے مجھے اس کی بشارت دی وہ آزاد ہے پس سب نے ایک ساتھ اس کو بشارت دی تو سب آزاد ہو جائے گے اور اگر ایک بعد دوسری کے بشارت دی تو خاصیت پہلا ہی آزاد ہوگا اور اگر غلاموں میں سے ایک نے اس کے پاس اپیلٹی بھیج دیا یا پس اگر اپیلٹی نے جو بات بشارت مذکورہ کی بیان کی ہے وہ اپنے بھیجنے والے کی طرف سے پیغام دیا تو بھیجنے والا غلام آزاد ہو گیا اور اگر اپیلٹی نے اس کو خود خبر دی اور بھیجنے والے کی طرف اضافت نہ کی تو وہ آزاد نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ اگر تو نے مجھے خبر دی کہ یہ پتھر سونا ہی یا مرد عورت ہے تو ایسا پس مخاطب نے اس کو ایسی خبر دی تو حانث ہو گیا کیونکہ شرط پائی گئی اور کہا کہ اگر کہا ہو کہ اگر تو نے آگاہ کیا یا بشارت دی تو حانث نہ ہوگا یہ تا تاریخانیہ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں کو نہ لکھوں گا پس دوسرے کو حکم کیا کہ اس نے لکھا تو ہشام نے امام محمدؒ سے روایت کی ہے کہ امام محمدؒ کہتے تھے کہ بارون الرشید نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا پس میں نے جواب دیا کہ اگر یہ قسم کھانے والا سلطان ہو یعنی ایسا ہو کہ وہ خود موافق رواج نہیں لکھا کرتا ہے تو وہ حانث ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ قرآن سے سورۃ نہ پڑھوں گا پھر اس نے نگاہ سے اس کو اول سے آخر تک دیکھا تو بالاتفاق حانث نہ ہوگا یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کا خط نہ پڑھوں گا یا فلاں کی کتاب نہ پڑھوں گا پھر اس کی کتاب کو اول سے آخر تک دیکھا اور جو اس میں ہے سمجھ لیا تو امام ابو یوسفؒ کے قول میں حانث نہ ہوگا کیونکہ پڑھنا نہیں پایا گیا اور اسی پر فتویٰ ہے قال المترجم یہ بزبان عربی ٹھیک ہے اور ہماری زبان میں تامل ہے بسبب عرف عام کے الا آنکہ بنا پر اصل امام اعظمؒ کلام کیا جائے واللہ تعالیٰ اعلم۔ اگر قسم کھائی کہ کتاب فلاں کو نہ پڑھوں گا پھر کتاب فلاں سے ایک سطر پڑھی تو حانث ہو اور آدھی سطر میں حانث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ سورۃ نہ پڑھوں گا پھر اس سورۃ میں سے ایک حرف چھوڑ دیا تو حانث ہو گیا اور اگر بڑی آیت چھوڑ دی تو حانث نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے وفيہ نظر واللہ اعلم۔

اگر قسم کھائی کہ یہ شعر نہ پڑھوں گا پس اس نے نصف بیت پڑھی تو حانث نہ ہوگا اگر چہ یہ نصف بیت کسی دوسرے شعر کی ایک بیت ہو اور امام محمدؒ سے مروی ہے کہ فارسی آدمی نے قسم کھائی کہ سورۃ الحمد بعبریہ نہ پڑھوں گا پھر اس نے لحن سے پڑھی تو حانث نہ ہوگا اور اگر وہ فصیح ہو تو حانث ہوگا اور منقشی میں لکھا ہے کہ اگر قسم کھائی کہ کتاب نہ پڑھوں گا تو یہ قسم ہر ایسی تحریر ہوگی جو سپیدی میں بیسا ہی ظاہر ہو یا اور طور پر ہو اور اگر اس نے کاغذ میں تحریر مراد لی جیسے لوگوں میں ہوتی ہے تو دیانتہ اس کی تصدیق ہوگی اور قضاء تصدیق نہ ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ آج کے روز قرآن نہ پڑھوں گا پس اس نے نماز وغیرہ میں پڑھا تو حانث ہو اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ رکوع نہ کروں گا یا سجدہ نہ کروں گا پس اس نے نماز وغیرہ میں ایسا کیا تو حانث ہو اور اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اگر وہ پڑھی جو سورۃ نمل میں ہے تو حانث ہو اور اگر وہ نیت نہ کی ہو جو سورۃ نمل میں ہے یا غیر اس کی نیت کی تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبرک کے واسطے پڑھا کرتے ہیں نہ بطریق قرأت کے اور اس کا پڑھنا نہ بطریق قرأت کے جائز ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر اس طور سے کسی نے قسم کھائی تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ

۱۔ قال المترجم اردو زبان میں قضاء بھی تصدیق ہونی چاہئے ۱۲۔ ۲۔ سورۃ نمل میں جزو آیت ہے وقال المترجم محققین کے نزدیک بسم اللہ بھی ایک آیت ہے اور بعض نے کہا کہ خاصۃ سورۃ فاتحہ سے بالجملہ قول اول پر قضاء حانث ہوگا اور دوم پر وہ نیت آیت اول پر حانث ہوگا فاحفظ واستقیم ۱۲۔

فرائض نماز میں جماعت سے پڑھے اور اپنی قسم میں حائث نہ ہوگا اور اگر کوئی رکعت اس سے جاتی رہی کہ جس کو اس نے تنہا پڑھا تو حائث ہوگا اور اگر عورت نے ایسی قسم کھائی تو وہ اپنے شوہر کے پیچھے نماز پڑھ لے یا اور اپنے کسی محرم کے پیچھے رہے یہ محیط میں ہے۔ اگر اس نے قسم کھائی کہ قرأت قرآن نہ کروں گا پھر اس نے سورۃ فاتحہ بطور دعا و ثناء کے پڑھی تو حائث نہ ہوگا:

اگر سوائے رمضان کے وتر ادا کرنے چاہے تو چاہیے کہ جو وتر پڑھنا ہو اس کی اقتدا کرے تاکہ حائث نہ ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر اس نے قسم کھائی کہ قرأت قرآن نہ کروں گا پھر اس نے سورۃ فاتحہ بطور دعا و ثناء کے پڑھی تو حائث نہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر اس نے قسم کھائی کہ اگر میں نے ہر سورۃ قرآن کی پڑھی تو مجھے ایک درہم صدقہ کرنا واجب ہے تو امام محمد نے فرمایا کہ یہ پورے قرآن پر ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اگر کسی نے کہا کہ مجھ پر قسم ہے اگر تو چاہے پس اس نے کہا کہ میں نے چاہی تو قسم لازم آئے گی اور یہ مثل اس قول کے ہے کہ مجھ پر قسم ہے اگر میں نے فلاں سے کلام کیا یہ محیط میں ہے شیخ نجم الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص سے اس کی بیوی کے ناتے داروں نے اس کی بیوی کی طلاق کی قسم لی کہ عورت پر جرم نہ رکھے اور اس پر کسی چیز کی تہمت نہ رکھے پس اس نے یہ قسم کھائی پھر عورت سے کہا کہ خدا جانتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے پس آیا اس سے اس کی بیویوں پر طلاق ہو جائے گی فرمایا کہ نہیں یہ ظہیر یہ میں ہے۔ ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر فلاں کے گھر جاؤں اور اس سے کلام کروں تو تو طلاق ہے پھر اس کے گھر نہیں گیا مگر کہیں اور اس سے باتیں کیں تو اپنی قسم میں حائث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگر فلاں کے گھر نہ جاؤں گا اور اس سے کلام نہ کروں تو تو طلاق ہے اور باقی صورت مسئلہ بطور مذکورہ بالا واقع ہوئی تو حائث ہو جائے گا اور اس کی بیوی طلاق ہو جائے گی ایسا ہی فتویٰ شمس الائمہ حلوانی اور فتویٰ رکن الاسلام علی سعدی منقول ہے یہ محیط میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ اپنے بھائی کو کسی کام کا حکم نہ دوں گا اور اگر اس کو کسی کام کا حکم دوں تو ایسا پھر کسی آدمی کے ہاتھ اپنے بھائی کے پاس کوئی مال عین بھیجا اور اس سے کہا کہ تو میرے بھائی سے کہنا تا کہ وہ اس کو فروخت کر دے تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس آدمی نے اس کے بھائی سے جا کر تیرا بھائی کہتا ہے کہ اس کو فروخت کر دے یا تجھے اس کے فروخت کرنے کا حکم دیتا ہے تو حائث ہو جائے گا ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر آج تو نہ کہے گی کہ فلاں نے تجھے سے کیا کیا ہے تو تو طلاق ہے پس عورت نے ایسے طور پر کہا کہ سنائی نہیں دیتا ہے یا مرد نے نہیں سنا تو عورت مذکورہ طلاق نہ ہوگی اور اگر یوں کہا ہو کہ اگر تو نے آج کے روز مجھ سے نہ کہا تو صورت مذکورہ میں طلاق ہو جائے گی یہ خلاصہ میں ہے۔

زید نے عمرو کے سامنے گفتگو میں اپنی بیوی کی طلاق کی قسم کھائی کہ میں نے تیرا عیب کسی سے نہیں کہا ہے حالانکہ اپنی بیوی سے کہہ چکا ہے کہ عمرو شراب پیتا تھا اور اس کو فروخت کرتا تھا اور ایسے بیہودہ کام کرتا تھا کہ ان کا ذکر فضول ہے مگر اب اس نے تو بہکر کے خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی ہے تو اس کی بیوی طلاق ہو جائے گی یہ ظہیر یہ میں ہے قال المترجم مسائل الذیل یتعلق معظمہ بالسلوب العربیہ ایک نے قسم کھائی کہ ایک مہینہ کلام نہ کروں گا تو قسم میں روز دن رات پر واقع ہوگی اور اگر قسم کھائی کہ لایکلم الشہر اس مہینہ فلاں سے کلام نہ کروں گا تو جس قدر یہ مہینہ باقی ہو اس قدر پر واقع ہوگی یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر قسم

۱۔ اگر خاص کسی معیاد تک یہ قسم ہو تو خیر اس حیلہ میں مضائقہ نہیں ورنہ قسم توڑ دینی چاہئے علی ما حقق فی تفسیر المترجم ۱۲۔ ۲۔ یوں قسم لی کہ اگر میں اس عورت پر جرم یا تہمت رکھوں تو اس کو طلاق ہے ۱۲۔

کھائی کہ لایکلمہ السنۃ اس سال فلاں سے کلام نہ کروں گا تو باقی سال پر واقع ہوگی یہ بدائع میں ہے قسم کھائی کہ ایک مہینہ کلام نہ کروں گا تو جب سے قسم کھائی ہے اسی وقت سے کلام نہ کرنے پر قسم واقع ہوگی اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ اگر میں اس سے ایک مہینہ ترک کلام کروں تو میری بیوی طالقہ ہے تو مہینہ کا شمار اسی وقت سے ہوگا کہ جب سے قسم کھائی ہے یہ کافی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ لایکلمہ اشہر مہینوں کلام نہ کروں گا تو امام اعظمؒ کے نزدیک تین مہینہ پر قسم واقع ہوگی یہ شرح طحاوی میں ہے قال المترجم ہماری زبان میں چونکہ اقل جمع دوہی لہذا بقیاس قول امام دو مہینہ پر واقع ہوگی وہکذا فی الحیوۃ کلھا اور اگر قسم کھائی کہ لایکلمہ الشہور یعنی فلاں سے کلام نہ کروں گا تا شہور تو امام اعظمؒ کے نزدیک دس مہینہ پر واقع ہوگی اور اسی طرح لایکلمہ الجمع والنین یعنی جمعوں و سالوں کی صورت میں بھی امام کے نزدیک دس جمعہ و دس سال ہیں کذانی الدایہ یعنی اوزان جمع قلت باللام میں یہ حکم ہے اور اگر بدوں الف و لام کے یوں کہا کہ لاکلمہ سنین تو بالاتفاق تین سال پر واقع ہوگی یہ بدائع میں ہے اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ لایکلمہ حیناً اوزماناً اولحین اوالزمان تو قسم بہ نفی کھانے کی صورت میں چھ مہینہ پر واقع ہوگی اور اثیاب کی صورت میں بھی یہی حکم ہے مثلاً کہا کہ لاصومن حیناً اوزماناً اولحین اوالزمان۔

اگر قسم کھاتے وقت زمانہ کی کوئی مقدار مقرر نہ کی تو؟

یہ سب اس وقت ہے کہ اس نے زمانہ کی کوئی مقدار معین کی نیت نہ کی ہو اور اگر اس نے کسی مقدار معین کی نیت کی ہو تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی اور یہی حکم امام ابو یوسفؒ و امام محمدؒ کے نزدیک لفظ و ہر کا ہے یعنی اگر دہر کو بطور نکرہ لایا تو اس کی قسم چھ مہینہ پر واقع ہوگی بشرطیکہ اس نے کسی قدر مقدار معین زمانہ کی نیت نہ کی ہو اور اگر زمانہ معین کی نیت کی ہو تو بالاتفاق اس کی نیت پر قسم ہوگی اور امام اعظمؒ نے فرمایا کہ میں دہرہ کو نہیں جانتا ہوں کہ کیا ہے اور واضح ہو کہ یہ اختلاف ایسی صورت میں ہے کہ اس نے لفظ دہر کو نکرہ بیان کیا ہو یہی صحیح ہے یہ فتح القدیرؒ میں ہے اور اگر دہر کو معرف باللام^(۱) لایا تو بالا جماع اس سے ابد مراد ہوگا یعنی ہمیشہ یہ تبیین میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ لایکلمہ الآحانین اوالازمنتہ تو امام اعظمؒ کے نزدیک دس بار چھ مہینے پر واقع ہوگی جس کے ساتھ مہینے ہوئے یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر کہا کہ لایکلمہ دھور تو بنا بر قول امام ابو یوسفؒ و امام محمدؒ کے تین بار چھ مہینہ پر واقع ہوگی یہ شرح طحاوی میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ لایکلمہ العمر یعنی عمر بھر اس سے کلام نہ کروں گا تو عدم نیت کی صورت میں تمام عمر پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ لایکلمہ عمراً تو امام ابو یوسفؒ سے ایک روایت میں ہے کہ مثل حین کے چھ مہینے پر واقع ہوگی اور یہی اظہر ہے اور اگر قسم کھائی کہ لایکلمہ حقبا تو اسی برس پر قسم واقع ہوگی یہ سراج و ہاج میں ہے اصل میں مذکور ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ اول ماہ کلام نہ کروں گا تو مہینہ کا اول قبل نصف گذر جانے کے ہے اور امام ابو یوسفؒ سے مروی ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ فلاں سے اول ماہ کے آخر یوم میں اور آخر ماہ کے روز اول میں کلام نہ کروں گا تو یہ پندرہویں دسولھویں کو شامل ہے یہ خلاصہ میں ہے ابن مقاتل سے مروی ہے کہ ایک نے قسم کھائی کہ اپنی ماں سے تین برس کلام نہ کروں گا یعنی اگر کلام کروں تو میری بیوی طالقہ ہے تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ ماں کے پاس کس کو بھیج کر درخواست کرے کہ وہ راضی ہو جائے اور اس کو اجازت دیں دے کہ خیر کلام نہ کرے کہ یہ شخص

۱۔ قال المترجم امام ابو حنیفہؒ سے مشہور ہے کہ میں نہیں جانتا کہ دہر کیا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کو دہر کے معنی نہیں معلوم تھے بلکہ قسم میں جب نکرہ لایا جائے تو کیا مراد ہے جیسے اس مسئلہ میں غور کرو ۱۲۔ ۲۔ قلت کا اتفاق ۱۲۔

(۱) بالف و لام ۱۲۔

حلت میں ہو جائے یہ حاوی میں ہے فتاویٰ نسفی میں لکھا ہے کہ اگر فارسی میں کہا کہ اگر فلاں گویم خدائے رابرمن یک سالہ روزہ تو اس سے کلام کرنے سے کچھ نہیں لازم آئے گا اور اگر کہا کہ یکسال روزہ تو کلام کرنے سے ایک سال کے روزے اس پر لازم آئے گئے یہ خلاصہ میں ہے تجرید میں امام محمدؒ سے روایت ہے کہ ایک نے کہا کہ لا اکلم الیوم سنتہ اور شہر یعنی اس روز سال بھر یا مہینہ بھر کلام نہ کروں گا تو اس پر واجب ہوگا کہ سال یا ماہ میں جتنی دفعہ یہ دن آئے اس میں کلام ترک کرے یہ تا تاریخانیہ میں ہے اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں سے اپنے اس سال کلام نہ کروں گا تو وقت قسم سے تاغیرہ محرم کلام نہ کرنے پر قسم ہوگی اور وقت قسم سے ایک سال کامل پر نہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور مجموع النوازل میں لکھا ہے کہ ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کلمتک الی سنتہ فانک طالق اذھی یا عدوۃ اللہ یعنی اگر میں نے تجھ سے ایک سال تک کلام کیا تو تو طالق ہے چلی جا ای دشمن خدا کی تو وہ طالق ہو جائے گی یہ محیط میں ہے۔

منقحی میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ واللہ لا اکلمک شہر ابعدا شہر یعنی تجھ سے مہینہ بھر بعد مہینہ کے کلام نہ کروں گا تو یہ بمنزلہ اس قول کے ہے کہ دو مہینہ کلام نہ کروں گا اور اس طرح اگر کہا کہ سال بھر بعد سال کے کلام نہ کروں گا تو یہ بمنزلہ اس کی ہے کہ دو برس تجھ سے کلام نہ کروں گا اور اگر کہا کہ واللہ تجھ سے کلام نہ کروں گا ایک مہینہ بعد اس مہینہ کے تو اس کو اختیار ہوگا کہ اس مہینہ کلام کرے یا نہ کرے۔ اگر قسم کھائی کہ تجھ سے اس روز کلام نہ کروں گا جس دن میں کہ فلاں آؤں گا پھر اس روز کے اول میں اس سے کلام کیا اور فلاں مذکور اس روز کے آخر میں آیا تو اپنی قسم میں حانث ہو گیا اور اگر فلاں مذکور اول روز میں آ گیا پھر اس روز کے آخر میں حالف نے اس سے کلام کیا تو عامہ مشائخ کے نزدیک حانث نہ ہوگا کذا فی المحیط اور یہی صحیح ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ اس مہینہ میں جو فلاں کے قدم سے پہلے ہے تجھ سے کلام نہ کروں گا پھر حالف نے اس سے ایک مہینہ کے شروع میں کلام کیا اور فلاں مذکور اس مہینہ کے آخر میں آیا تو اپنی قسم میں حانث ہو گیا اور اگر کہا کہ واللہ لا اکلمک شہرا قبل قدم فلاں یعنی واللہ قدم فلاں سے مہینہ قبل تجھ سے کلام نہ کروں گا پھر اس سے کلام کیا جس کے پانچ روز بعد فلاں مذکور آ گیا تو اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ واللہ تجھ سے ایک مہینہ کلام نہ کروں گا الا ایک روز یا سوائے ایک روز کے تو یہ اس کی نیت پر ہے اور اگر اس کی کچھ نیت نہ ہو تو اس کو اختیار ہوگا کہ جس ایک روز کو چاہے کلام کرنے کے واسطے اختیار کرے اس واسطے کہ اس نے ایک روز نہ کر مستثنیٰ کیا ہے اور اگر اس نے یوں استثناء کیا کہ الا نقصان ایک روز تو اس کی قسم (۲۹) روز پر واقع ہوگی اس واسطے کہ کسی شی کا نقصان نہیں ہوتا ہے الا اس کے آخر سے یہ شرح جامع کبیر حصری میں ہے۔

آخر ایمان القدوری میں ہے کہ اگر قسم کھائی کہ فلاں و فلاں سے اس سال کلام نہ کروں گا الا ایک روز پس اگر اس نے ان دونوں سے ایک ہی روز کلام کیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر ایک سے ایک روز اور دوسرے سے کسی دوسرے روز کلام کیا تو حانث ہو اور اگر اس نے ایک ہی روز پہلے ایک سے کلام کیا پھر دونوں سے کلام کیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے ایک روز معرفہ استثناء کیا یعنی الا الیوم کیا پس اس میں اس نے ایک سے کلام کیا اور دوسرے سے دوسرے روز کلام کیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ نہ کلام کروں گا دونوں سے ایک مہینہ الا ایک روز پس اگر اس نے کسی روز معین کی نیت کی ہو تو اس نیت پر ہوگی اور اگر اس کی کچھ نیت نہ ہو تو جس روز کو چاہے اختیار کر لے یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ جس روز کلام کروں میں فلاں سے تو تو طالق ہے تو یہ قسم رات و دن

۱۔ قولہ ہو جائے گی مترجم کہتا ہے کہ شاید فقیہ ابوالیث کے عرف پر ہو اور اس دیار میں قرنیہ حالیہ ایسا ہو حالانکہ ظاہر کلام اس کے خلاف ہے کیونکہ اگر فی الحال طلاق دینی منظور ہوتی تو اس پر یہ دھمکی فضول تھی کہ تجھ سے ایک سال تک بات نہ کروں گا فہم واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲۔

دونوں پر واقع ہوگی حتیٰ کہ اگر رات میں کلام کرے گا یا دن میں تو حائث ہوگا اور اگر اس نے خاصۃً دن کی نیت کی ہو تو اس کے قول کی قضاء بھی تصدیق ہوگی یہ کافی میں ہے اور اگر کہا کہ جس رات فلاں سے میں کلام کروں یا جس رات کہ فلاں آئے تو تو طالقہ ہے پس اس نے دن میں فلاں سے کلام کیا یا دن کو فلاں آیا تو اس کی جو رو طالقہ نہ ہوگی اس واسطے رات لغت میں سیاہی شب کا نام ہے اور اس میں کوئی ایسا عرف نہیں ہے کہ لفظ کو اس کی مقتضائے لغوی سے پھیرے حتیٰ کہ اگر اس نے بجائے رات کے راتوں کا لفظ ذکر کیا تو مطلق وقت پر یہ کلام محمول ہوگا اس واسطے کہ ان کے عرف میں اس کا استعمال مطلق وقت میں ہے یہ بدائع میں ہے قال المترجم یعنی یوں کہا کہ جن راتوں میں کہ زید آئے گا پس تو طالقہ ہی و قول یہ عربی زبان کی قسم میں مستقیم ہے یعنی قولہ لیالی یقدم فلاں اور ہماری زبان میں تامل ہے واللہ اعلم۔

اگر کہا کہ اگر کیا میں نے فلاں سے کلام تو تو طالقہ ہے الا آنکہ فلاں آجائے یا حتیٰ کہ فلاں آجائے یا الا آنکہ فلاں اجازت دتھر اس نے قبل فلاں کے آجانے یا اجازت دینے کے کلام کیا تو حائث ہوگا اور اسی طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہی اگر میں نے فلاں سے کلام کیا الا آنکہ فلاں آجائے تو بھی یہی حکم ہے اور اگر فلاں مر گیا تو امام اعظم کے نزدیک یہ قسم ساقط ہو جائے گی یہ کافی میں ہے اور اگر کسی شخص سے کسی روز معین میں کلام نہ کرنے پر قسم کھائی تو اس کی قسم خاصۃً اس روز کے دن ہی دن پر واقع ہوگی اس کے ساتھ رات داخل نہ ہوگی یہ شرح طحاوی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ لا ینکلمہ الا بام تو امام اعظم کے نزدیک دس روز پر واقع ہوگی کذافی الہدایہ قال المترجم اگر ہماری زبان میں کہا کہ اس سے روز دن کلام نہ کروں گا تو اس روز پر واقع ہوگی واللہ اعلم۔ اگر قسم کھائی کہ لا ینکلمہ ایاماً تو جامع میں مذکور ہی کہ تین روز پر قسم واقع ہوگی اور اس میں اختلاف ذکر نہیں فرمایا اور یہی صحیح ہی اور اگر قسم کھائی کہ لا ینکلمہ ایاماً کثیرۃ یعنی بہت دنوں اس سے کلام نہ کروں گا تو برقیاس قول امام اعظم دس روز پر قسم واقع ہوگی یہ بدائع میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ تجھ سے اس دن دس روز میں کلام نہ کروں گا اور یہ روز سنچر کا ہے جس دن اس نے قسم کھائی ہے تو یہ قسم دس سنچروں پر واقع ہوگی:

اگر کہا کہ ہر روز کہ میں تجھ سے کلام کروں پس مجھ پر ایک درہم صدقہ واجب ہے پس اس سے دو روز کلام کیا تو دو مرتبہ حائث ہو اور اگر کہا ہو کہ ہر دو روز کہ میں تجھ سے کلام کروں تو ایک ہی مرتبہ حائث ہوگا یہ تا تاریخانہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ لا ینکلمہ فلانا ایامہ ہذہ تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ تین روز پر واقع ہوگی اور اگر قسم کھائی کہ لا ینکلمہ ایامہ تو یہ قسم تمام عمر پر واقع ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ تجھ سے اس دن دس روز میں کلام نہ کروں گا اور یہ روز سنچر کا ہے جس دن اس نے قسم کھائی ہے تو یہ قسم دس سنچروں پر واقع ہوگی اس واسطے کہ دس روز میں پس ایک ہی سنچر آتا ہے دس نہیں ہو سکتے ہیں اور اسی طرح کہا اگر کہ میں تجھ سے بروز سنچر دو روز کلام نہ کروں گا تو یہ قسم دو سنچروں پر واقع ہوگی اس واسطے کہ سنچر دو روز نہیں ہوتا ہے اور دو روز میں دو سنچر کا دورہ بھی نہیں ہو سکتا ہے پس معلوم ہوا کہ مراد یہ ہے کہ دو مرتبہ سنچروں میں کلام نہ کروں گا اور اس طرح اگر کہا کہ تجھ سے بروز سنچر تین روز کلام کروں گا تو یہ قسم تین سنچروں میں کلام کرنے پر واقع ہوگی جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا ہے یہ شرح جامع

۱۔ تامل ہے ہاں اگر یہ ہو کہ جن دنوں زید آئے گا تو البتہ یہی حکم ہے کیونکہ راتوں کا محاورہ ہماری زبان میں نہیں ہے ۱۲۔ ۲۔ واللہ فلاں سے اس کے ان دنوں کلام نہ کروں گا ۱۲۔ ۳۔ واللہ اس کے ایام میں اس سے کلام نہ کروں گا ۱۲۔

کبیر حصیری میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ نہ کلام کروں گا اس سے ایک روز سال بھر یا سال بھر ایک روز پس اگر اس نے کوئی روز خاص مراد لیا ہے تو تمام سال میں اسی روز کلام نہ کرنے پر قسم واقع ہوگی یعنی جب یہ روز آئے کلام نہ کرے اور اگر کچھ نیت نہ ہو تو ہر جمعہ میں سے ایک روز کلام نہ کرے حتیٰ کہ اگر پورے کوئی جمعہ کے ہر روز کلام کرے گا حائث ہوگا یہ عتابیہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ لا اکلمک یومیا لا اکلمک انسبت یوماًت واس کو اختیار ہے کہ جو روز چاہے قرار دے یہ بدائع میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں سے دس روز تک کلام نہ کروں گا تو دسواں روز قسم میں داخل ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر یوں قسم کھائی کہ تجھ سے آج یا کل کلام نہ کروں گا پھر اس سے آج یا کل کلام کیا تو حائث ہو اور اگر کہا کہ اس سے کلام کرنا آج یا کل ترک کروں گا پس آج اس سے کلام ترک کیا تو قسم میں سچا ہو جائے گا اور قسم ساقط ہو جائے گی کہ کل کلام ترک کرنا اس پر لازم نہ ہوگا اور یہ عتابیہ میں ہے اور اگر کہا کہ واللہ نہ کلام کروں گا اس سے آج اور نہ کل تو قسم آج باقی دن اور کل پر واقع ہوگی اور جو رات ان دونوں کے درمیان ہے وہ قسم میں داخل نہ ہوگی یہ بدائع میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ نہ کلام کروں گا اس سے آج وکل و پرسوں تو یہ ایک ہی کلام ہے کہ تین روز تک کسی وقت اس سے کلام نہ کرے خواہ رات ہو یا دن ہو اور اگر کہا کہ آج کے دن میں اور کل کے دن میں اور پرسوں کے دن میں تو حائث نہ ہوگا یہاں تک کہ اس سے ہر روز جس کو بیان کیا ہے کلام کرے اور اگر اس سے رات میں کلام کیا تو حائث نہ ہوگا یہ وجیز کردری میں ہے۔ ایک نے کہا کہ کلام نہ کروں گا فلاں سے ایک روز یا دو روز کے اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو امام محمد سے مروی ہے کہ یہ بمنزلہ اس قول کے ہے کہ واللہ فلاں سے ایک روز کلام نہ کروں گا یہ محیط میں ہے اور اگر رات میں کہا کہ نہ کلام کروں گا اس سے ایک روز تو اس وقت سے تا غروب آفتاب ہوگی یہ عتابیہ میں ہے اور بعد اس قسم کے قبل طلوع فجر کے اس سے کلام کیا تو صحیح یہ ہے کہ حائث ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر دن میں کہا کہ اس سے ایک کلام نہ کروں گا تو قسم کے وقت سے طلوع فجر تک ہوگی یہ عتابیہ میں ہے اور اگر تھوڑا دن گزرے قسم کھائی کہ فلاں سے ایک روز کلام نہ کروں گا تو یہ باقی دن اور پوری رات اور دوسرے روز اسی ساعت تک جس وقت قسم کھائی ہے کلام نہ کرے اور اسی طرح اگر رات میں قسم کھائی کہ اس سے ایک رات کلام نہ کروں گا تو باقی یہ رات اور دوسرا دن اور دوسری رات کی اسی ساعت تک کلام نہ کرنے پر قسم واقع ہوگی پس جو ان بیچ میں آ گیا ہے وہ بھی قسم میں داخل ہو جائے گا یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ واللہ میں تجھ سے ایک روز اور ایک روز کلام نہ کروں گا تو یہ قسم اور واللہ میں تجھ سے دو روز کلام نہ کروں گا دونوں یکساں ہیں پس جو رات ان دونوں کے درمیان ہے قسم میں داخل ہوگی اور اگر قسم کھائی کہ تجھ سے ایک روز اور دو روز کلام نہ کروں گا تو تیسرا روز گزرنے پر قسم پوری ہوگی اور اگر قسم کھائی کہ نہ کلام کروں گا تجھ سے ایک روز اور نہ دو روز تو یہ قسم دو روز پر ہوگی حتیٰ کہ اگر تیسرے روز اس سے کلام کیا تو حائث نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی واللہ لا کلم احد یومی یا کہا کہ واللہ لاخر جن احد یومی او احد لیومین او احد یامی:

منقہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے آدھی رات یا دو پہر دن کو قسم کھائی کہ واللہ تجھ سے دو رات کلام نہ کروں گا تو اس سے پرسوں اسی وقت تک کلام ترک کرے اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں سے تیس روز کلام نہ کروں گا اور رات میں قسم کھائی کہ تو اس ساعت سے تیسویں روز کے آفتاب غروب ہونے تک کلام ترک کرے یہ محیط میں ہے اور اگر درمیان دن کے کسی وقت قسم کھائی کہ واللہ آج میں اس سے کلام نہ کروں گا تو اس دن باقی میں تا غروب کلام نہ کرے اور اگر رات میں قسم کھائی کہ اس روز اس سے کلام نہ کروں گا تو باقی یہ رات اور دوسرے روز غروب آفتاب تک کسی وقت کلام کرنے سے حائث ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اگر دن

میں قسم کھائی کہ اس رات کلام نہ کروں گا اور تو باقی روز اس قسم میں داخل نہ ہوگا اس کی قسم خاصۃً اس رات پر واقع ہوگی اور اگر اول رات میں قسم کھائی کہ آج کے روز اس سے کلام نہ کروں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو یہ باطل ہے اور اگر آخر رات میں قسم کھائی کہ تو اگلے دن پر واقع ہوگی یہ منتهی میں مذکور ہے اور اگر قسم کھائی کہ واللہ لا کلمہ احد یومی یا کہا کہ واللہ لا ٰخر جن احد یومی او احد الیومین او احد یامی اور یعنی واللہ ضرور کلام کروں گا فلاں سے اپنے دوروز کے ایک میں یا سفر کو جاؤں گا اپنے دوروز کے ایک میں یا دوروز کے ایک میں یا ایام کے ایک روز میں تو یہ دس روز سے کم پر ہوگی اور اس میں دن و رات دونوں داخل ہیں حتیٰ کہ اگر دس روز گزرنے سے پہلے رات یا دن میں کلام کیا یا سفر کو چلا گیا تو اپنی قسم میں سچا رہا اور اگر کلام نہ کیا تو سفر کو نہ گیا یہاں تک کہ دس روز گزر گئے تو حائث ہو گیا اور اگر کہا کہ اپنے ان دونوں میں سے ایک میں تو یہ قسم اسی روز اور اس کے دوسرے روز پر واقع ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس سے کلام نہ کروں گا تین روز الا اس روز اور ما خلا اس روز کے تو یہ قسم اس روز کے بعد کے دو دنوں پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ غیر اس یوم کے یا سوائے اس یوم کے تو یہ قسم اس روز کے بعد تین روز پر واقع ہوگی یہ عتابیہ میں ہے۔

عیون میں لکھا ہے کہ اگر قسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا دامیکہ وہ اس دار میں ہے پھر اپنے اسباب و اثاثہ سمیت اس دار سے نکل گیا پھر دوبارہ اس دار میں آکر رہا پھر حالف نے اس سے کلام کیا تو حائث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اسی طرح اگر یوں کہا کہ کان فیہا یعنی جب تک کہ ہے اس میں یہ ایضاً میں ہے اور اگر کہا میں تجھ سے کلام نہ کروں گا اور ما دامیکہ بغداد میں ہوں پھر خود تہا بغداد سے نکل گیا تو قسم باقی نہ رہے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے قدوری میں لکھا ہے کہ اگر قسم کھائی کہ واللہ کلام نہ کروں گا اس شخص سے جب تک اس پر یہ کپڑا ہے یا ما دامیکہ اس پر یہ کپڑا ہے یا برابر تا وقتیکہ اس پر یہ کپڑا ہے پھر مرد مذکور نے اس کو اتار کر پھر پہنا اور حالف نے اس سے کلام کیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اس سے کلام نہ کروں گا اور حالیکہ اس پر یہ کپڑا ہے پھر مرد مذکور نے اس کو اتار کر پہنا اور حالف نے اس سے کلام کیا تو حائث ہو گیا یہ محیط میں ہے اور اگر اپنی بیوی سے کہا کہ واللہ میں تجھ سے کلام نہ کروں گا دامیکہ تیرے ماں و باپ دونوں زندہ ہیں پھر ان دونوں میں سے ایک کے مر جانے کے بعد عورت سے کلام کیا تو حائث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ امام ابو یوسفؒ سے روایت ہے کہ زید نے عمرو سے جو کھڑا ہے کہا کہ واللہ میں اس شخص سے کلام نہ کروں گا اور اس کی نیت یہ ہے کہ جب تک کھڑا ہے لیکن لفظ میں کھڑے ہونے کا ذکر نہیں کیا ہے تو اس کی نیت باطل ہوگی اور اگر قسم کھائی کہ واللہ اس قائم سے کلام نہ کروں گا یعنی ما دامیکہ قائم ہے تو اس نیت کی دیانتہ تصدیق ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس سے ہمیشہ کلام کروں گا تو یہ قسم اس پر ہوگی کہ جب اس سے ملاقات ہو تو اس کے ساتھ کلام کرنے سے باز نہ رہے اور اگر قسم کھائی کہ اس سے ہمیشہ کو کلام نہ کروں گا پس اگر اس سے کبھی کلام کیا تو حائث ہوگا اور اگر دعویٰ کیا کہ میری یہ نیت تھی کہ اس سے لفظ ہمیشہ کو نہ کہوں گا تو قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی یہ ایضاً میں ہے قال المترجم یہ تلفظ عربیت زیادہ واضح ہے یعنی واللہ لایکلمہ الابد فافہم۔

فتاویٰ ابواللیث میں مذکور ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ واللہ فلاں سے کلام نہ کروں گا تا قدم حاجیاں پھر حاجیوں میں سے ایک آ گیا تو اس کی قسم منتهی گئی اور اسی طرح اگر کہا کہ واللہ اس سے کلام نہ کروں گا تا دروز راعت^۱ پھر اس کے شہر والوں میں سے

۱۔ قال المترجم ہمارا عرف انہیں دو ایک روز میں ایک اور دو ایک روز میں انہیں دونوں ایک روز جاؤں گا امید ہے کہ اسی حکم میں علی التفصیل داخل ہو واللہ اعلم۔ ۲۔ اس سے جب گفتگو کروں گا تو کبھی اس گفتگو میں اس سے لفظ ہمیشہ زبان سے نہ نکالوں گا۔ ۱۲۔ (۱) کھیتی کاٹی جانے تک ۱۲۔

ایک نے اپنی کھیتی کا ٹلی تو قسم ملتہی ہو گئی اور اگر قسم کھائی کہ واللہ فلاں سے کلام نہ کروں گا جب تک برف نہ گرے پس اگر اس نے حقیقتاً برف گرنے کی نیت کی ہے تو اس سے کلام نہ کرے جب تک کہ حقیقتاً برف زمین پر نہ گرے اور شرط یہ ہے کہ اس شہر میں گرے جہاں حالف ہے نہ دوسرے شہر میں حتیٰ کہ اگر حالف ایسے شہر میں ہے کہ وہاں حقیقتاً برف نہیں گرتی ہے تو یہ قسم ہمیشہ باقی رہے گی اور حقیقتاً برف زمین پر گرنے کی یہ صورت ہے کہ اس کے جہار نے بہار نے کی ضرورت پیش آئے اور اس کا اعتبار نہیں ہے جو ہوا میں اڑتا ہے اور جو زمین پر گرتی ہے مگر ظاہر نہیں ہوتا ہے الا کسی دیوار کی چوٹی یا گھاس پر۔ اگر اس نے برف گرنے کا وقت اپنی نیت میں لیا ہے تو جب تک برف گرنے کا مہینہ نہ آئے تب تک کلام نہ کروں گا اور وہ اول^(۱) ماہ آذر ہے اور اگر اس کی کچھ نیت نہ ہو تو یہ صورت اس مسئلہ میں ذکر نہیں فرمائی ہاں دوسرے مسئلہ میں ذکر فرمائی ہے کہ اس کی قسم برف گرنے کے وقت پر ہوگی اور اگر قسم کھائی کہ لایکلمہ فلانا الی الموسم یعنی تا موسم اس سے کلام نہ کروں گا تو امام محمد نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ روز قربانی کے صبح کو اس سے کلام کر سکتا ہے اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ بروز عرفہ دو پہر ڈھلے سے کلام کر سکتا ہے یہ محیط میں ہے۔

ایمان الواقعات میں مذکور ہے کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا تا گرمی یا تا جاڑا تو جاڑا اور گرمی پہچاننے میں مشائخ نے کلام کیا ہے اور مختار یہ ہے کہ اگر حالف ایسے شہر میں ہو کہ وہاں کے لوگوں میں گرمی و جاڑے کا حساب ہے کہ برابر اس سے پہچانتے ہیں اور معروف ہے تو قسم اسی طرف منحرف ہوگی ورنہ اول جاڑا وہ ہے کہ لوگوں کو حشو^(۲) و پوسٹین پہنے کی حاجت ہو اور آخر جاڑا وہ ہے کہ لوگ دن سے بے پروا ہوں اور جاڑے و گرمی کے درمیان فاضل وہ وقت ہے کہ لوگوں پر جاڑوں کے کپڑے بوجہ ہو جائیں اور گرمی کے ہلکے کپڑوں خفیف ہوں پس موسم ربیع آخر جاڑوں سے اول گرمیوں تک ہے اور خریف آخر گرمیوں سے جاڑوں تک ہے واسطے کہ ان کا پہچانا لوگوں پر آسان ہے اور اگر اس نے فارسی میں نوروز کا لفظ ذکر کیا تو وہ مسلمانوں کے نوروز پر قرار دے جائے گی اور یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے اور لیلۃ القدر کی قسم ستائیسویں ماہ رمضان پر واقع ہوتی ہے بشرطیکہ قسم کھانے والا عامی ہو یعنی مذاہب اماموں سے واقف نہ ہو اور اگر اماموں کے اختلاف سے واقف ہو کہ امام کے نزدیک متقدم و متاخر ہوتی ہے اور صاحبین کے نزدیک نہیں تو ایسا حکم نہیں ہے اور اس اختلاف کا ثمرہ ایسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دانستہ نے قسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا یہاں تک کہ لیلۃ القدر گزر جائے اور حال یہ ہے کہ ایک روز رمضان کا گزر گیا ہے تو اس سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ دوسرے سال کا پورا رمضان گزر جائے اور صاحبین کے نزدیک جب دوسرے رمضان کا ایک روز گزرے تو اس سے کلام کر سکتا ہے اور اگر اس نے رمضان سے قبل قسم کھائی تو اسی رمضان کے گزرنے پر کلام کر سکتا ہے اور فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہے یہ وجہ کر دی میں ہے۔

اگر کہا کہ واللہ میں تجھ سے جمعوں میں کلام نہ کروں گا تو اس کو روا ہے کہ سوائے روز جمعہ کے اور دنوں میں اس سے کلام کرے:

اگر قسم کھائی کہ اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو ہر مملوک کہ میں اس کا مالک ہوں بروز جمعہ یا بروز جمعرات وہ آزاد ہے تو

۱۔ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر امام اعظم کے نزدیک اول عشرہ رمضان بلکہ اول رمضان کو بھی محتمل ہے اور نیز واضح ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہر سال ہوتی ہے اور امام طحاوی نے اس کو مدلل بیان کیا ہے ۱۲۔

(۱) باعتبار ان ملکوں کے اور ہمارے یہاں نہیں گرتا ہے ۱۲۔ (۲) قولہ حشو بھراؤ کا کپڑا جیسے ہمارے یہاں روئی بھراؤ کا وغیرہ ۱۲۔

یہ قسم ہر مملوک پر جن کا وہ ان دونوں دنوں میں مالک ہو واقع ہوگی اور یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ لا لکلمہ جمعۃ یعنی اس سے ایک جمعہ کلام نہ کروں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو یہ ایام جمعہ پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ دو جمعہ تو جمعوں کے ایام پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تین جمعہ تو اس پر واجب ہے کہ روز قسم سے اکیس روزے پورے کرے اور اگر اس نے فقط روز جمعہ کی نیت کی ہو تو قضاء اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ واللہ میں تجھ سے جمعوں میں کلام نہ کروں گا تو اس کو روا ہے کہ شوائے روز جمعہ کے اور دنوں میں اس سے کلام کرے جیسے کہ واللہ لا اکلمک الا خمسة اولا حاوا والاثنین یعنی واللہ تجھ سے جمعراتوں یا سبچروں یا اتواروں کو کلام نہ کروں گا تو یہی حکم ہے اور یہ اس وقت ہے کہ اس کی کچھ نیت نہ ہو اور اگر اس نے ایام جمعہ مراد لئے ہوں یعنی ہفتے (۱) تو اس کی نیت پر ہوگی یہ محیط میں ہے۔ جامع میں ذکر کیا ہے کہ اگر کہا کہ واللہ لا اکلمک المجمعۃ واللہ میں تجھ سے بروز جمعہ کلام نہ کروں گا تو اس کو اختیار ہے کہ غیر روز جمعہ میں اس سے کلام کرے اس واسطے کہ الجمعۃ نام ایک روز مخصوص کا ہے پس ایسا ہو گیا کہ گویا اس نے یوں کہا کہ لا اکلمک یوم الجمعہ اور اسی طرح اگر کہا کہ جمعاً تو اس کو غیر جمعہ میں کلام کرنے کا اختیار ہے پس جب کہ اس نے یوں کہا کہ واللہ لا اکلمک جمعاً تو یہ تین روز جمعہ پر قسم واقع ہوگی یہ بدائع میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ لا یکلمہ فلانا الی کذا پس اگر لفظ کذا سے ایک سے دس تک ساعات یا ایام یا مہینے یا سالوں کسی کی نیت کی ہو تو اس کی نیت پر ہوگی اور اگر کچھ نیت نہ کی ہو تو ایک روز پر قرار دی جائے گی اور کہا کہ لا اکلمہ ای کذا کذا۔ پس لفظ کذا سے یا مہینوں وغیرہ کسی وقت کی نیت کی ہو تو یہ اس کی نیت والی چیز کے گیارہ پر واقع ہوگی اور اگر کچھ نیت نہ کی ہو تو ایک دن و رات پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ لا یکلمہ الی کذا و کذا پس اگر نیت ہو تو نیت والے وقت کے اکیس پر واقع ہوگی اور اگر نیت نہ ہو تو ایک دن و رات پر واقع ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں سے تا ابد کلام نہ کروں گا یا لفظ ابد نہ کہا تو یہ قسم ابد پر واقع ہوگی کہ جب کبھی اس سے کلام کرے گا حائث ہوگا اور اگر اس نے نیت میں خصوصیت کی ہو مثلاً ایک روز یا دو روز کی یا کسی شہر یا مکان کی یا اس کے اشاہ کی نیت کی ہو تو قضاء اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور نیز دیانۃ فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ بھی تصدیق نہ کی جائے گی یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں سے ابد کلام نہ کروں گا پھر اس کے مر جانے کے بعد اس سے کلام کیا تو قسم میں حائث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ لا یکلمہ ملیا او طویلا (۲) پس اگر کسی وقت کی نیت کی ہو تو اس کی نیت پر ہوگی اور اگر کچھ نیت نہ کی ہو تو ایک مہینہ ایک روز پر واقع ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

جس سے تو نے موالات کی ہے اس سے کام نہ کروں گا حالانکہ اس کے دو مولیٰ الموالات ہیں:

اگر کہا کہ لا اکلمک قریباً تو ایک مہینہ سے ایک دن کم پر ہوگی یہ امام اعظم کا قول ہے اور اس میں اختلاف کسی دوسرے کا ذکر نہیں فرمایا اور اگر اس نے اس صورت میں ایک مہینہ سے زیادہ کی نیت کی ہو تو ایمان الاصل میں امام اعظم سے روایت مذکور ہے کہ قضاء اس کی تصدیق ہوگی اور اگر کہا کہ لا اکلمہ ای بعید تو امام اعظم کے قول میں یہ ایک مہینہ سے زیادہ پر ہوگی اور امام ابو یوسف سے نوادر معلیٰ میں مذکور ہے کہ اگر کہا کہ سریعاً یعنی یکلمہ اور یکلمہ سریعاً تو یہ ایک دن ایک مہینہ پر ہوگی جبکہ اس کی

۱۔ جمعہ کے رات میں جیسے ایک ہفتہ وغیرہ بولتے ہیں ۱۲۔ ۲۔ جمعہ کا روز تین مرتبہ آئے اور کلام نہ کرے ۱۲۔ ۳۔ دن ہو گیا تو گیارہ دن تک ۱۲۔

۴۔ دیر تک بھر پور اس سے بات نہ کروں گا ۱۲۔ ۵۔ اصل میں ہے کہ نوادر میں جو معلیٰ کی طرف منسوب ہے یوں کہا کہ شاید یہ اشارہ ہے کہ تحقیق نہیں ہو سکتا کہ منصور کی تصنیف ہے اسی وجہ سے نوادر نام ہوا ۱۲۔ ۶۔ سریع نیز بظاہر جلدی مراد ہے جیسے بعید بمعنی دور ۱۲۔

(۱) سات ساتھ روز کے ۱۲۔ (۲) بھر پور دیر تک ۱۲۔

کچھ نیت نہ ہو اور اگر نیت ہو تو اس کی نیت پر ہوگی اور اگر کہا کہ عاجلاً تو مہینہ بھر سے کم پر ہوگی اور اگر کہا کہ آجلا تو ایک مہینہ سے یا زیادہ پر ہوگی یعنی ایک مہینہ سے کم پر نہ ہوگی ہاں پورا ایک مہینہ ہو جائے یا اس سے زیادہ گزر جائے پھر جس طرح قسم کھائی ہے اس کے خلاف کر سکتا ہے اور حائث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ بضعہ عشر یوما^(۱) تو یہ تیرہ روز پر ہوگی اور جامع الجوامع میں مذکور ہے کہ اگر اس نے اس صورت میں (۱۹) روز سے زیادہ کی نیت کی ہو تو اس کی تصدیق کی جائے گی یہ تا تا رخانہ میں ہے اور اگر کہا کہ لا اکلہ مولک یعنی جس سے تو نے موالات کی ہے اس سے کام نہ کروں گا حالانکہ اس کے دو مولیٰ الموالات ہیں ایک اعلیٰ ہے اور دوسرا اسفل ہے اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو ان میں سے جس سے کلام کروں گا حائث ہوگا قال المترم جم اس کی توضیح کتاب الوالاء سے معلوم کرنی چاہئے فافہم۔ اسی طرح اگر کہا کہ میں نے تیرے جد سے کلام نہ کروں گا اور اس کے جد وہ ہیں ایک باپ (دادا پر دادا) کی طرف سے اور دوسرا ماں (نانا پر نانا) کی طرف سے تو بھی اس صورت میں یہی حکم ہے یہ مبسوط میں ہے۔

منقہی میں مذکور ہے کہ اگر کہا کہ تجھ سے قریب سال بھر کے کلام نہ کروں گا تو اس سے چھ مہینہ اور ایک روز کلام نہ کرے یہ خلاصہ میں ہے اور اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اوفلانے تجھ سے دس روز کلام نہ کروں گا واللہ تجھ سے تو روز کلام نہ کروں گا واللہ تجھ سے (۱۸) روز کلام نہ کروں گا تو وہ بار حائث ہو یعنی دو قسموں میں حائث ہو چکا اور تیسری قسم اس پر رہی پس اگر آٹھ روز کے اندر اس سے کلام کر لیا تو اس میں بھی حائث ہو اور اگر کہا کہ واللہ تجھ سے آٹھ روز کلام نہ کروں گا واللہ تجھ سے نوروز کلام نہ کروں گا واللہ تجھ سے دس روز کلام نہ کروں گا تو دو قسموں میں ابھی دو مرتبہ حائث ہو اور اس پر تیسری قسم رہی پس اگر دس روز کے اندر اس سے کلام کر لیا تو اس میں بھی حائث ہو گیا یہ مبسوط میں ہے۔ امام محمد نے فرمایا کہ اگر ایک نے کہا کہ ہر بار کہ میں نے فلاں سے ایک روز کلام کیا پس اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلاں سے دو روز کلام کیا پس واسطے اللہ کے مجھ پر واجب ہے کہ دو درہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلاں سے تین روز کلام کیا تو واسطے اللہ کے مجھ پر واجب ہے کہ تین درہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلاں سے چار روز کلام کیا تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ چار درہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلاں سے پانچ روز کلام کیا تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ پانچ درہم صدقہ کروں پھر اس نے چوتھے و پانچویں روز کلام کیا تو اس پر تیس (۳۰) درہم صدقہ کرنے واجب ہیں اور اگر اس نے اول روز میں یا اور کسی ایام میں دو بار کلام کیا تو اس پر (۳۰) درہم صدقہ کرنے واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ ہر دن میں کہ میں اس میں فلاں سے کلام کروں تو واسطے اللہ کے مجھ پر واجب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں ہر دو دن کہ میں ان میں فلاں سے کلام کروں تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ دو درہم صدقہ کروں اسی طرح پانچ قسم تک پہنچا یا پھر اس سے چوتھے و پانچویں روز کلام کیا تو اس پر بائیس (۲۲) درہم واجب ہوں گے سو اس واسطے کہ اس نے پانچ قسمیں کھائی ہیں اور پہلی قسم کی جزاء ایک درہم صدقہ مقرر کی اور دوسری کی دو درہم اور ہر قسم کے واسطے مدت قرار دی ہے اور فقہاء نے ہر مدت کا نام دہر رکھا ہے پس اول قسم کی مدت ایک روز ہے اور اس کا دور و تجدد ہر روز ہوتا ہے اور دوسرے کی مدت دو روز ہے کہ اس کا دور و تجدد ہر دو روز میں ہوتا ہے اور تیسری کا دور تین روز ہے اور چوتھی کا دور چار روز ہے اور پانچویں کا پانچ روز ہے اور ہر دور میں وہ ایک ہی مرتبہ حائث ہوگا کیونکہ اس نے بلفظ ہر قسم قرار دی ہے اور یہ لفظ موجب تکرار نہیں ہے اس لئے کہ تکرار قضیہ عموم الفعل ہے نہ قضیہ عموم الوقت پس جو دن کہ بعد قسم کے پایا گیا وہ پوری مدت اول قسم کی ہوگی اور تھوڑی

۱۔ خاصہ یہ کہ کوئی متفرد اسلام لایا اور کسی خاندانی سے موالات کر لی کہ یہ تو میرا مولیٰ ہے تو وہ اعلیٰ ہو اور یہ اسفل ہو ۱۲۔

مدت دیگر قسموں کی ہوگی یعنی پوری مدت دیگر قسموں کی ہوگی پس جب کہ اس نے چوتھے روز کلام کیا تو چوتھا روز پہلی قسم کا چوتھا دور ہے اور وہ بعینہ دوسری قسم کا تئمہ دور ثانی ہے اور وہ بعینہ تیسری قسم کے دوسرے دور کا پہلا روز ہے اور وہ بعینہ چوتھی قسم کا تئمہ دور اول ہے اور وہ بعینہ پانچویں قسم کے دور اول کا چوتھا روز ہے اور ان دو دن میں وہ بالکل حائث نہیں ہوا ہے اور ایک ہی شرط کئی قسموں (دور کے ساتھ نظم ۱۲) کے واسطے شرط ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پس وہ سب قسموں میں (کیونکہ سب کا دور موجود ہے ۱۲) حائث ہوا۔

ایک ہی شرط کا کئی اقسام کے واسطے شرط ہونا:

اس کے ذمہ بوجہ قسم اول کے ایک درہم اور بوجہ دوسری کے دو درہم اور بوجہ تیسری کے تین درہم اور بوجہ چوتھی کے چار درہم اور بوجہ پانچویں کے پانچ درہم واجب ہوئے کہ ان کا مجموعہ پندرہ درہم ہوئے پھر جب پانچویں روز اس سے کلام کیا تو اول و دوم و چہارم میں حائث ہوا اور تیسری و پانچویں قسم میں حائث نہ ہوا اس واسطے کہ پانچواں روز پہلی قسم کا پانچواں دور ہے اور اس (بلکہ چہارم میں حائث ہوا ہے) دور میں وہ حائث نہیں ہوا ہے پس اب حائث ہوگا اور دوسری قسم کے تیسرے دور کا اول روز ہے اور اس میں (بلکہ تئمہ دور دوم میں حائث ہوا ہے) بھی وہ حائث نہیں ہو چکا اور چوتھی قسم کے دور دوم کا پہلا روز ہے اور اس میں (بلکہ تئمہ دور اول میں حائث ہوا ہے) بھی وہ حائث نہیں ہو چکا ہے پس حائث ہوگا پس اور سات درہم اس پر لازم آئیں گے کہ مجموعہ کل بائیس (۲۲) درہم ہوئے اور تیسری و پانچویں قسم میں اس وجہ سے حائث نہ ہوگا کہ تیسری قسم کے دوسرے دور کا دوسرا روز (دوسرے دور میں وہ پہلے بھی حائث ہو چکا ہے ۱۲) ہے کہ جس میں وہ حائث ہو چکا ہے اور پانچویں قسم کے اول دور کا تئمہ ہے اور پانچویں کے اول ہی دور میں وہ پہلے حائث ہو چکا ہے لہذا اب دوبارہ حائث نہ ہوگا پس حاصل یہ ہے کہ تجدید دور وعدم تجدید دور کا کچھ اثر کلام کرنے میں بار اول میں نہیں ہے حتیٰ کہ اگر اس نے بعد ان قسموں کے فلاں مذکور سے کلام کیا چاہے جس روز اپنی عمر میں کلام کرے اس پر پندرہ درہم لازم آئیں گے ہاں اس کا اثر کلام کرنے میں دوسری بار میں ہے حتیٰ کہ اگر اس سے روز اول و روز دوم کلام کیا تو اول روز کے عوض اس پر پندرہ درہم لازم آئیں گے اور دوسری بار کے عوض فقط ایک ہی درہم لازم آئے گا اس واسطے کہ اس صورت میں پہلی قسم کے سوائے کسی قسم کا دور جدید نہیں ہوا ہے اور اگر اس سے روز اول اور روز ثالث میں کلام کیا اور دوسرے روز کلام نہیں کیا یا دوسرے اور تیسرے روز اس سے کلام کیا تو اول کے واسطے اس پر پندرہ درہم لازم آئیں گے اور دوسرے بار کے عوض فقط تین ہی درہم لازم آئیں گے اس واسطے کہ تجدید فقط قسم اول و دوم کا ہوا ہے اور یہ سب اس وقت ہے کہ فلاں مذکور کو مخاطب نہ کیا ہو اور اگر فلاں مذکور کو مخاطب کر کے کہا کہ ہر بار کہ میں نے تجھ سے کلام کیا تو واسطے اللہ کے مجھ پر واجب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں اور ہر بار کہ میں نے تجھ سے کلام کیا تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ دو درہم صدقہ کروں اسی طرح پانچ قسمیں کھائیں تو اس پر بیس درہم واجب ہوں گے اس واسطے کہ اول قسم کی جزاء ایک درہم ہے اور اس کی شرط یہ ہے کہ فلاں کے ساتھ کلام کرے پس جب دوسری قسم سے اس کے ساتھ کلام کیا تو حائث ہو گیا اور اس کی جزاء کا ایک درہم لازم آیا اور نیز قسم بھی ویسی ہی باقی رہی اس واسطے کہ لفظ ہر بار کے ساتھ ہے اور دوسری قسم منعقد ہوئی پھر جب تیسری قسم میں اس کو مخاطب کیا تو شرط یعنی کلام کرنا اس کے ساتھ پایا گیا پس قسم اول کی جزاء کا ایک درہم اور دوسری کے اجزاء کے دو درہم اور اس پر واجب ہوئے اور نیز دونوں قسمیں بھی ویسی ہی باقی رہیں اور تیسری قسم منعقد ہوئی پھر جب چوتھی قسم میں اس کو مخاطب کیا تو پہلی دوسری و تیسری میں حائث ہوا پس اجزاء اول کا ایک درہم اور اجزاء دوم کے دو درہم اور اجزاء سوم کے تین درہم اس پر واجب ہوئے اور یہ سب قسمیں بھی ویسی ہی باقی رہیں اور چوتھی قسم منعقد ہوئی پھر جب پانچویں

۱۔ پہلے اس سے کبھی حائث نہیں ہو چکا تا کہ اب دوبارہ حائث نہ ہو بدین وجہ کہ لفظ ہر سے تکرار لازم نہیں ہے ۱۲۔

قسم میں اس کو مخاطب کیا تو اگلی سب قسمیں منحل ہوئیں پس اول کی جزاء کا ایک درہم اور جزاء دوم کے دو درہم اور جزاء سوم کے تین درہم اور جزاء چہارم کے چار درہم اس پر واجب ہوئے اور قسمیں بھی ویسی ہی ہیں اور پانچویں قسم منعقد ہوئی پس ان سب کا مجموعہ بیس (۲۰) درہم ہوئے اور پانچویں میں ہنوز حائث نہیں ہوا ہے کیونکہ شرط یعنی کلام کرنا ابھی نہیں پایا گیا ہے حتیٰ کہ اگر بعد پانچویں قسم کے بھی اس نے کلام کیا تو ان سب میں حائث ہوگا پس مجموعہ (۲۵) درہم اس پر واجب ہوں گے۔ اگر یوں کہا کہ ہر روز کہ میں نے تجھ سے کلام کیا تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں اسی طرح پانچ قسمیں کھائیں پھر سکوت کیا تو اس پر دس درہم واجب ہوں گے پھر اگر دوسرے روز اس سے کلام کیا تو اور چھ ۶ درہم واجب ہوں گے اور اگر فقط تیسرے روز کلام کیا تو فقط تین درہم واجب ہوں گے اور اگر فقط چوتھے روز کلام کیا تو اس پر چار درہم واجب ہوں گے اور اگر پانچویں روز کلام کیا تو سات درہم اس پر واجب ہوں گے اور اگر بعد قسموں کے اول روز کلام کیا تو اس پر فقط پانچ ۱ درہم بوجہ پانچویں قسم کے واجب ہوں گے یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔

باب : ۷

طلاق و عتاق کی اقسام کے بیان میں

اگر کہا کہ اول غلام کہ میں اس کو خریدوں تو وہ آزاد ہے تو اول وہ ہوگا جو اکیلا تنہا خریدے کہ اس سے پہلے کوئی دوسرا نہ ہو پس اگر اس نے بعد اپنی قسم کے ایک غلام خریدنا تو وہ آزاد ہوگا اور اگر ایک غلام پورا اور نصف غلام خریدنا تو پورا غلام آزاد ہوگا اور اگر دو غلام خریدے تو کوئی آزاد نہ ہوگا پھر ان کے بعد بھی ہو کوئی خریدے گا وہ بھی آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ آخر غلام جس کو میں خریدوں وہ آزاد ہے تو آخر وہ ہے جو اکیلا ہو کہ دوسرے سے باعتبار زمانہ کے پیچھے ہو اور اس کا ثبوت جب ہی ہوگا کہ جب حالف مر جائے پس اگر اس نے کئی غلام خریدے پھر مر گیا تو جس کو سب سے اخیر میں خریدا ہے وہ آزاد ہوگا پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ اخیر کا غلام کس وقت سے آزاد قرار دیا جائے گا سو امام اعظمؒ نے فرمایا کہ اسی وقت سے کہ جب خریدا ہے حتیٰ کہ اس کا آزاد ہونا اس کے ترکہ کے تمام مال سے اعتبار ہوگا یعنی ضرور کل بلا سعایت آزاد ہو جائے گا بشرطیکہ اس نے حالت صحت میں خریدا ہو اور اگر کہا کہ درمیانی غلام جس کو میں خریدوں وہ آزاد ہے تو درمیانی وہ ہے جو ایسا تنہا ہو کہ اس کے دونوں طرف عدد مساوی ہوں اور یہ بھی بدوں حالف کے مرنے کے معلوم نہیں ہو سکتا ہے پس ہم کہتے ہیں کہ جب حالف مرے تو دیکھا جائے کہ اگر اس نے جفت عدد کے غلام چھوڑے تو ان میں کوئی درمیانی نہ ہوگا اور اگر پانچ یا سات وغیرہ طاق عدد چھوڑے تو دونوں طرف مساوی عدد جفت کے درمیان جو ایک تنہا ہو گا وہی اوسط ہے اور جو ان میں سے نصف اول میں آگیا وہ درمیانی ہونے سے خارج ہو گیا یہ الضاح میں ہے۔

قال المترجم یعنی باوجودیکہ سات میں چوتھا درمیانی ہے لیکن اگر اس کو مولیٰ نے تنہا نہ خریدا ہو بلکہ تیسرے کے ساتھ خریدا ہو تو یہ نصف اول میں چلا گیا پس درمیانی نہ رہا پس حاصل یہ رہا کہ حالف کے مرنے پر طاق عدد کے باوجود ترتیب خرید میں بھی جو درمیانی پڑتا ہے وہ تنہا خریدا گیا ہو فافہم فانہ توضیح اجمال الایضاح بما لا مزید علیہ ان کنت غیر منصرف عن باب لطف

۱۔ قال المترجم یہ مراد نہیں ہے کہ فقط یہی پانچ درہم کل واجب ہوں گے بلکہ یہ مراد ہے کہ دونوں قسموں میں تو دس درہم لازم ہوئے ہیں اس کے بعد پھر جب کلام کرے اس کے موافق اس پر اور واجب ہوں گے ۱۲۔ ۲۔ کیونکہ جس کا اعتبار تنہائی سے ہوتا ہے وہ کبھی تنہائی سے برآمد نہیں ہوتا ہے لہذا بدوں سعایت آزاد نہیں ہوتا ہے اور جو کل مال سے معتبر ہے وہ بمنزلہ عدم مال ترکہ کے ہے ۱۲۔

القریحہ منجرڈاً فتدبر اور اگر کہا کہ اول غلام کہ میں اس کا مالک ہوں در حالیکہ وہ منفرد ہو یا کہا کہ اول غلام کہ میں اس کو خریدوں در حالیکہ وہ منفرد ہو تو وہ آزاد ہے پھر وہ دو غلام کا مالک ہو پھر اکیلے ایک غلام کا مالک ہو تو تیسرا آزاد ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ اول غلام کہ اس کا مالک ہوں در حالیکہ وہ اکیلا ہو تو تیسرا آزاد نہ ہوگا^(۱) الا اس صورت میں کہ اس نے اکیلے سے منفرد و در ملک مراد لیا ہو یہ کافی میں ہے۔ اگر کہا کہ اول غلام کہ اس کو بعض دیناروں کے خریدوں تو وہ آزاد ہے پس اس نے ایک غلام بعض درہموں کے یا کسی اسباب کے خرید پھر ایک غلام بعض دیناروں کے خرید تو یہ آزاد ہوگا اور اسی طرح اگر کہا کہ اول غلام کہ اس کو خریدوں در حالیکہ حبشی ہو تو وہ آزاد ہے پھر اس نے چند غلام گورے رنگ کے خریدے پھر ایک حبشی خرید تو وہ آزاد ہوگا یہ بحر الرائق میں ہے۔

زید نے قسم کھائی کہ اگر اس دار میں داخل ہوں تو میری بیوی طالق ہے اور میرا غلام آزاد ہے پھر قسم

کھائی کہ طلاق نہ دوں گا اور آزاد نہ کروں گا پھر وہ دار میں داخل ہوا تو اس کی بیوی طالق ہوگی اور غلام آزاد ہوگا:

اگر کہا کہ ہر غلام جس نے مجھے فلا نہ عورت کے جنے کی بشارت دی وہ آزاد ہے پس اس کو آگے پیچھے تین غلاموں نے اس کے جننے کی بشارت دی تو اول آزاد ہوگا بخلاف اس کے اگر سب نے ساتھ ہی اس کو یہ خوشخبری سنائی تو سب آزاد ہوں گے حاکم شہید نے فرمایا کہ اگر اس نے کہا کہ میں نے ایک کو مراد لیا تھا تو قضاء اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اس کو گنجائش ہے کہ ان میں سے ایک جس کو چاہے آزاد ہونے کے واسطے اختیار کرے اور باقیوں کو اپنی ملک میں رکھے یہ غایت البیان میں ہے۔ اگر زید نے قسم کھائی کہ اگر اس دار میں داخل ہوں تو میری بیوی طالق ہے اور میرا غلام آزاد ہے پھر قسم کھائی کہ طلاق نہ دوں گا اور آزاد نہ کروں گا پھر وہ دار میں داخل ہوا تو اس کی بیوی طالق ہوگی اور غلام آزاد ہوگا اور وہ دوسری قسم میں حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ طلاق نہ دوں گا اور آزاد نہ کروں گا پھر قسم کھائی کہ اگر دار میں داخل ہوں تو میری بیوی طالق اور غلام آزاد ہے پھر وہ دار مذکور میں داخل ہوا تو دونوں قسموں میں حائث ہوا۔ اگر اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے نفس کو طلاق دے یا غلام سے کہا کہ تو اپنے نفس کو آزاد کر دے یا کسی آدمی کو اس کام کے واسطے وکیل کیا پھر قسم کھائی کہ طلاق نہ دوں گا یا آزاد نہ کروں گا پھر بیوی و غلام و وکیل نے وہ کام کیا تو یہ شخص حائث ہوا اور اگر کہا کہ تو طالق ہے اگر تو چاہے یا تو آزاد ہے اگر تو چاہے پھر قسم کھائی کہ میں آزاد نہ کروں گا یا طلاق نہ دوں گا پھر اس کی بیوی اور اس کے غلام نے طلاق و حثق چاہی تو یہ حائث نہ ہوگا یہ کافی میں ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ تزوج نہ کروں گا یا طلاق نہ دوں گا یا آزاد نہ کروں گا پھر اس کام کے واسطے کسی کو وکیل کر دیا تو وکیل کے کرنے سے یہ حائث ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ میری مراد یہ تھی کہ اپنی زبان سے ایسا نہ کروں گا تو فقط قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی۔ یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں پھر دوسرے سے بھی کہا کہ مجھ پر اس کے مثل ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں پھر دوسرا اس دار میں داخل ہوا تو اس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر اول نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر ایک غلام آزاد کرنا واجب ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں پھر دوسرے نے کہا کہ پس مجھ پر اس کے مثل ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں تو یہ قسم اول و دوم دونوں پر لازم آئے گی یہ ایضاً میں ہے اور اگر کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر اس بیت میں ہوا اور ایک مرد پھر دیکھا تو بیت مذکور میں ایک مرد اور ایک لڑکا نکلا یا ایک مرد اور ایک عورت تھی تو قسم کھانے والا حائث ہو گیا اور اگر بیت مذکور میں ایک مرد اور ایک جانور چوپایہ ہو یا اسباب ہو تو حائث نہ ہوگا۔ اگر کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر بیت میں ہوا اور ایک بکری پھر

(۱) کیونکہ وہ اس کی ملک و خرید میں نہیں ہے بلکہ دو اور موجود ہیں ۱۲۔

دیکھا اس میں کوئی اور چوپایہ یہ نکلا بکری نہ تھی تو حانث ہو گیا اور اگر کہا کہ اگر بیت میں ہو الا ایک کپڑا پھر اس میں کوئی آدمی یا چوپایہ یا ظروف نکلے تو حانث ہو گا یہ کافی میں ہے۔ اگر کہا کہ کل مملوک میرے آزاد ہیں تو اس کی ام والدین و مدبر باندیاں و غلام و محض غلام و باندیاں سب آزاد ہو جائیں گی یعنی باندیاں و غلام سب کو شامل ہو گا لیکن اگر اس نے خالی مذکوروں کی نیت کی ہو تو دیا نہ اس کی تصدیق ہوگی مگر قضاء تصدیق نہ ہوگی اور اگر خالی حبشیوں کی نیت کی ہو تو قضاء و دیا نہ کسی طرح تصدیق نہ ہوگی اور اگر خالی مؤمنوں^(۱) کی نیت کی ہو تو بھی قضاء و دیا نہ کسی طرح تصدیق نہ ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے مدبروں کی نیت نہیں کی تھی تو ایک روایت میں دیا نہ تصدیق ہوگی نہ قضاء اور دوسری روایت میں کسی طرح تصدیق نہ ہوگی یہ فتح القدیر میں ہے۔

جس مملوک میں سے تھوڑے حصہ کا مالک ہے وہ حقیقتہً اس کا مملوک نہیں کرتا:

اس قسم کے تحت میں اس کے ایسے مملوک بھی داخل ہوں گے جو رہن ہوں یا کسی کے پاس و دیعت ہوں یا بھاک گئے ہوں یا جن کو کسی نے غصب کر لیا ہو خواہ ایک ہو یا کئی ہوں خواہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں لیکن اس قسم میں مکاتب داخل نہ ہوں گے الا آنکہ ان کی نیت کی ہو پس اگر مکاتبوں کی نیت کی ہو تو وہ بھی آزاد ہو جائیں گے اور اسی طرح اس قسم میں وہ مملوک بھی داخل نہ ہوگا جس میں سے کچھ آزاد ہوا ہے اور جس غلام کو اس نے تجارت کی اجازت دی ہو وہ داخل ہوگا خواہ اس پر قرضہ ہو یا نہ ہو اور رہے اس کے غلام ماذون کے غلام در صورتیکہ اس کے غلام ماذون پر قرضہ نہ ہو آیا داخل ہوں گے یا نہیں سو امام اعظم و امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر ان کی نیت ہو تو داخل ہوں گے اور آزاد ہو جائیں گے اور جو مملوک مشترک ہو یعنی اس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک ہو وہ داخل نہ ہوگا ایسا ہی امام ابو یوسف نے فرمایا ہے اس واسطے کہ جس مملوک میں سے تھوڑے حصہ کا مالک ہے وہ حقیقتہً اس کا مملوک نہیں کہلاتا ہے اور اگر اس کی بھی نیت کی ہو تو استحساناً آزاد ہوگا اور رہا یہ کہ اس میں حمل داخل ہوگا یا نہیں پس اگر حمل کی ماں اس کی ملک میں ہو تو داخل ہوگا اور اپنی ماں کے آزاد ہونے کے ساتھ وہ بھی آزاد ہو جائے گا اور اگر اس کی ملک میں خالی حمل ہو اس کی ماں نہ ہو مثلاً کسی نے اپنے مرتے وقت اس کے واسطے اپنی باندی کے حمل کی وصیت کی ہو تو ایسا حمل آزاد نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ اپنے غلام کو مکاتب نہ کروں گا پھر کسی اجنبی نے اس کے غلام کو بدوں اس کے حکم کے مکاتب کر دیا پھر اس نے مکاتب کرنے کو جائز رکھا اور اجازت دے دی تو حانث ہو گیا جیسے وکیل کرنے میں ہوتا ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ اپنے غلام کو آزاد نہ کروں گا پھر اس کے غلام نے مال کتابت ادا کیا اور آزاد ہو گیا پس اگر مرد مذکور نے بعد قسم کھانے کے اس کو مکاتب کیا ہو تو حانث ہو اور اگر قبل قسم کے مکاتب کیا تھا تو حانث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ میں کسی جا رہیہ (وطی ۱۲) کو اپنے تصرف و طی میں لایا تو وہ آزاد ہے پھر ایسی باندی کو اپنے تصرف و طی میں لایا جو اس کی ملک میں موجود تھی تو وہ آزاد ہوگی اور اگر کسی باندی کو خرید کر اس کو اس طرح تصرف میں لایا تو آزاد نہ ہوگی یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر کہا کہ اگر میں اس یعنی کسی باندی کو اپنے تصرف (وطی) میں لایا تو طالق ہے یا میرا غلام آزاد ہے پھر کسی باندی کو جو اس کی ملک میں ہے یا جس کو بعد قسم کے خریدا ہے اپنے تصرف و طی میں لایا تو عورت یعنی اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی اور اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ اگر کسی (دوسرے شخص کی ۱۲) باندی سے کہا کہ اگر میں نے تجھے اپنے تصرف و طی میں کر لیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس کو خرید کر تصرف و طی میں کر لیا تو اس کا وہ غلام آزاد ہوگا جو قسم کے وقت اس کی ملک تھا اور جس کو بعد قسم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگا یہ بحر الرائق میں ہے اور اگر اپنی باندی سے کہا کہ

جب تجھ کو فلاں نے فروخت کیا تو تو آزاد ہے پھر اس کو فلاں مذکور کے ہاتھ فروخت کیا پھر فلاں سے خرید کیا تو آزاد نہ ہوگی اس واسطے کہ شرط یہ ہے کہ فلاں اس کو فروخت کرے اور فلاں کا اس کو فروخت کر دینا اس کی زوال ملک کا سبب ہے اور حالف کی ملک حاصل ہونا اپنے خریدنے سے ہے اور نہ فلاں کی بیع سے اور اگر کہا کہ اگر تجھ کو فلاں نے مجھے بیہ کیا تو تو آزاد ہے پھر فلاں نے اپنے قبضہ کی حالت میں اس کو بیہ کر دی اور اس نے قبضہ کیا تو آزاد ہوگی اسی طرح اگر کہا کہ جب فلاں نے تجھ کو میرے ہاتھ فروخت کیا تو تو آزاد ہے تو اس صورت میں یہی حکم ہے یہ مبسوط میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے اپنے نفس کو طلاق نہ دی تو میرا غلام آزاد ہے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اسی مجلس پر ہے:

زید نے عمرو سے کہا کہ اگر میں نے تیرے پاس بلانے کو بھیجا پس تو نہ آیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر زید نے عمرو کو آدمی بھیج کر بلایا اور وہ خود چلا آیا پھر دوسرے روز آدمی بھیج کر بلایا اور وہ نہ آیا تو زید کا غلام آزاد ہوگا اور ایک دفعہ قسم پوری ہونے سے یہ قسم باطل نہ ہو جائے گی باقی رہے گی یہاں تک کہ وہ ایک بار حانث ہو جائے پس جب ایک بار حانث ہو گیا تو اب قسم مذکور باطل ہو گئی اور اسی طرح اگر یوں کہا کہ اگر تو نے مجھے آدمی بلانے کو بھیجا اور میں تیرے پاس نہ آیا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر یوں کہا کہ اگر تو میرے پاس آیا پس میں تیرے پاس نہ آیا اگر تو نے میری زیارت کی اور میں تیری زیارت کو نہ آیا تو میرا غلام آزاد ہے تو یہ قسم ایک دفعہ حانث ہو جانے سے باطل نہ ہوگی بلکہ ہمیشہ کے واسطے باقی رہے گی۔ ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے اپنے نفس کو طلاق نہ دی تو میرا غلام آزاد ہے تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ یہ اسی مجلس پر ہے اور یہ عورت کو اختیار دینا ہے پس اگر عورت نے اسی مجلس میں اپنے آپ کو طلاق دی تو اس پر واقع ہوگی اور اس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر اس مجلس میں اس نے طلاق نہ دی تو یہ حانث ہو گیا چاہے اور مجلس میں وہ اپنے آپ کو طلاق دے یا نہ دے اور دوسری مجلس میں اگر وہ اپنے آپ کو طلاق دے گی تو طلاق نہ ہوگی اور کسی نے اگر دوسرے سے کہا کہ اگر تو نے میرا یہ غلام نہ فروخت کیا تو وہ میرا غلام دیگر آزاد ہے تو یہ اس کو اجازت بیع ہے اور یہ قسم واجازت ہمیشہ کے واسطے ہے یعنی اگر اس مجلس میں اس نے فروخت نہ کیا تو کہنے والا حانث نہ ہوگا اور اگر زید نے کہا کہ اگر میں کوفہ میں داخل ہوا اور میں نے نکاح نہیں کیا ہے تو میرا غلام آزاد ہے تو یہ قسم اس طرح پر واقع ہوگی کہ کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے نکاح کرے اور اگر یوں کہا ہو کہ پس میں نے نکاح نہ کیا تو اس طرح پر واقع ہوگی کہ داخل ہونے کے وقت نکاح کرے یعنی داخل ہونے پر نکاح کرے اور اگر کہا کہ پھر میں نے نکاح نہ کیا تو یہ داخل ہونے کے بعد ہمیشہ تک نکاح کرنے پر واقع ہوگی ایک سے کہا گیا کہ فلاں عورت سے نکاح کرے پس اس نے کہا کہ اگر میں نے کبھی نکاح کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس نے اس عورت کے سوائے دوسری سے نکاح کیا تو حانث ہوگا اور ایک نے کہا کہ اگر میں نے ترک کیا یہ کہ آسمان کو چھو دوں تو میرا غلام آزاد ہے تو وہ کبھی حانث نہ ہوگا اور ایک نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے آسمان کو نہ چھوا تو اسی وقت حانث ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

باب : ۸

خرید و فروخت و نکاح غیرہ میں قسم کھانے کے بیان میں

اگر قسم کھائی کہ نہ خریدوں گا یا نہ بیع کروں گا یا نہ اجارہ دوں گا پھر اس نے کسی شخص کو وکیل کیا جس نے یہ فعل کیا تو حانث نہ

ہوگا الا آنکہ اس نے یہ نیت کی ہو کہ دوسرے کو بھی اس کام کے کرنے کا حکم نہ دوں گا تو ایسی نیت بیان کرنے کی صورت میں اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ اس نیت سے اس نے اپنے اوپر سختی زیادہ کر لی ہے یا یہ صورت ہو کہ قسم کھانے والا ایسا شخص معزز ہو کہ وہ خود یہ کام نہ کرتا ہو تو وکیل کرنے و تفویض کرنے سے بھی حائث ہوگا اور اگر ایسا شخص ہو کہ خود کبھی کرتا ہو اور کبھی دوسرے کے سپرد کرتا ہو تو دیکھا جائے گا کہ اکثر کیونکر کرتا ہے یا اس اسی کا اعتبار ہوگا یہ کافی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ نہ خریدوں گا یا بیع نہ کروں گا تو خرید (یا بیع فاسد میں حائث ہو جائے گا اگرچہ قبضہ نہ ہو ایسی بیع سے بھی جس میں بائع یا مشتری کے واسطے خبار ہو اور ایسی بیع سے بھی جو بطریق فضولی (۱) کے ہو اور ایسی بیع سے بھی جو بشرط عوض مگر یہ بشرط عوض میں وقت دونوں کے باہمی قبضہ کے حائث ہوگا اور جو بیع باطل ہوتی ہے اس سے حائث نہ ہوگا اور مدبر و ام ولد و مکاتب کی خرید و فروخت کرنے سے حائث نہ ہوگا اور بعد بیع واقع ہونے کے اگر ایسی قسم کے بعد اس نے بیع کا اقالہ کر لیا تو بھی حائث نہ ہوگا لیکن اگر ابتدائے بیع بلفظ اقالہ کی تو حائث ہوگا اور اگر باہمی رضامندی سے بسبب عیب کے بیع کو واپس کیا یا لیا تو بھی حائث نہ ہوگا اور اگر اس نے بیع کرنے کا ایجاب کیا تو بدون مشتری کے قبول کرنے کے حائث نہ ہوگا۔ یہ عتابیہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ بیع نہ کروں گا پھر کسی فضولی نے اس کا مال فروخت کیا اور اس نے اجازت دے دی تو حائث نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ یہ شخص ایسا ہو کہ خود بیع نہیں کیا کرتا ہے یہ فتاویٰ صغریٰ میں ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ اپنا غلام فروخت کروں گا پھر وہ اس کے پاس سے چرا لیا گیا تو فرمایا کہ حائث نہ ہوگا:

اگر قسم کھائی کہ خرید نہ کروں گا پھر فضولی (۲) سے کوئی چیز خریدی یا شراب خمر (۳) خریدی تو حائث ہوگا یہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے شیخ ابو بکرؒ سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے قسم کھائی کہ اپنا غلام فروخت کروں گا پھر وہ اس کے پاس سے چرا لیا گیا تو فرمایا کہ حائث نہ ہوگا جب تک اس کو غلام مذکور کے مرنے کا یقین حاصل نہ ہو جائے یہ خلاصہ میں ہے اور امام محمدؒ نے جامع صغیر میں فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے یہ غلام فروخت نہ کیا تو ایسا ہے پھر اس نے یہ غلام آزاد یا مدبر کر دیا تو اپنی قسم میں حائث ہو گیا اور اگر ایسی گفتگو باندی کے حق میں کی اور باقی مسئلہ بحال ہے تو صحیح یہ ہے کہ وہ حائث ہو یا تارخانہ میں ہے۔ اپنی باندی سے کہا کہ اگر میں نے تجھے فروخت نہ کیا تو آزاد ہے پھر اس سے وطنی کی کہ اس کے بچہ پیدا ہوا تو امام اعظمؒ کے نزدیک وہ آزاد ہو گئی یہ خلاصہ میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ یہ غلام فروخت نہ کروں گا اور نہ اس کو بیہ کروں گا تو شیخ نصیرؒ نے فرمایا کہ اگر اس کا نصف فروخت یا بیہ کیا تو حائث نہ ہوگا اور شیخ رازی سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے قسم کھائی کہ اپنی باندی ضرور فروخت کروں گا اور اس کا کوئی وقت نہیں بیان کیا پھر وہ باندی اس سے بچہ جنی تو فرمایا کہ استسنا مولیٰ حائث نہ ہوگا اور شیخ ابونصر الدبوسی سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے اپنی باندی سے کہا کہ اگر میں نے تجھے ایک مہینہ تک فروخت نہ کیا تو وہ آزاد ہے پھر اس باندی کو اس سے (۴) حمل ظاہر ہوا تو فرمایا کہ مولیٰ کو حلال ہے کہ اس باندی سے بعد ایک مہینہ کے وطنی کر لے جبکہ چھ مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہوا اور بنا بر قول امام ابو یوسفؒ کے مولیٰ حائث ہو گیا اور اس کو حلال نہیں ہے کہ بعد مہینہ کے اس سے وطنی کرے اور اگر چھ مہینے سے زیادہ میں بچہ جنی تو بالا جماع مولیٰ کو حلال نہیں ہے کہ بعد مہینہ کے اس سے وطنی کرے یہ حادی میں ہے۔ زید نے قسم کھائی کہ واللہ میں عمرو کی ام ولد کو ضرور فروخت کروں گا یا کہا کہ واللہ میں اس عمرو کو فروخت کروں گا اور حالانکہ عمرو آزاد ہے تو امام اعظمؒ نے فرمایا کہ یہ قسم بیع فاسد پر

۱۔ یعنی دوسرے سے بھی یہ کام نہ کراؤں گا اور اگر ظاہر کلام مراد ہو تو دوسرے کو حکم دینے سے حائث ہو گیا چاہے دوسرے نے یہ فعل کیا ہو یا نہ کیا ہو ۱۲۔

(۱) یہ فضولی بنا ہے ۱۲۔ (۲) تامل مالک سے ۱۲۔ (۳) انگوری علی قول الامام ۱۲۔ (۴) مولیٰ سے ۱۲۔

واقع ہوگی چنانچہ اگر ان دونوں کو بطور بیع فاسد کے فروخت کر دیا تو اپنی قسم میں سچا ہو گیا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔
 اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے اپنا یہ مملوک زید کے ہاتھ فروخت کیا تو وہ آزاد ہے پس زید نے کہا کہ میں نے اس کی اجازت دے دی یا میں راضی ہوا پھر زید نے اس کو خریدتا تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگر زید نے تجھ سے یہ غلام خریدتا تو وہ آزاد ہے پھر زید نے کہا کہ ہاں پھر اس کو خرید کیا تو زید کی طرف سے وہ غلام آزاد ہو گیا یہ ایضاً میں ہے ہشام نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ ایک نے کہا کہ واللہ نہ فروخت کروں گا میں تیرے ہاتھ سے کپڑا بعوض دس درہم کے یہاں تک کہ تو مجھے زیادہ دے پھر اس کے ہاتھ نو درہم کو فروخت کر دیا تو قیاساً حائث نہ ہوگا اور استحساناً حائث ہوگا اور ہم قیاس ہی کو لیتے ہیں اور یہ بدائع میں ہے اور قال المترجم ہمارے عرف کے موافق استحسان اظہر ہے واللہ اعلم اور اگر قسم کھائی کہ اس کو دس درہم کو فروخت نہ کروں گا الا بعوض اس سے زیادہ کے یا بعوض زیادہ کے پھر اس کے ہاتھ گیارہ درہم کو فروخت کیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر دس کو فروخت کیا تو حائث ہوا اور اسی طرح اگر نو درہم کو فروخت کیا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر نو درہم اور ایک دینار کو فروخت کیا قیاساً حائث ہوگا اور استحساناً حائث نہ ہوگا اور اگر مشتری نے بھی قسم کھائی کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں بعوض دس درہم کے اس کو خریدوں حتیٰ کہ اس کو کم کرے پس اگر مشتری نے اس کو دس درہم کو خریدتا تو حائث ہوا اور اگر گیارہ کو خریدتا تو بھی حائث ہوا اور اگر نو درہم کو خریدتا تو حائث نہ ہوگا اور اگر نو درہم اور ایک دینار کو خریدتا تو حائث نہ ہوا۔ پس بعض نے فرمایا ہے کہ یہ حکم بدلیل قیاس ہے اور بحکم استحسان حائث ہوا اور اگر مشتری نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے اس کو خریدتا بعوض دس درہم کے یا ناقص پھر اس کو دس درہم یا زیادہ کو خریدتا تو حائث ہوگا اور اگر اس کو نو درہم اور ایک دینار کو خریدتا یا نو درہم اور ایک کپڑے کے عوض خریدتا تو قیاساً حائث نہ ہوگا اور استحساناً حائث ہوگا اور اگر بائع (قسم کھائی ۱۲) نے کہا کہ میں تیرے ہاتھ دس درہم کو فروخت نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مجھے زیادہ کر دے پھر اس کے ہاتھ نو درہم و ایک دینار کو جس کی قیمت پانچ درہم ہیں فروخت کیا تو حائث نہ ہوگا یہ شرح جامع کبیر حیمیری میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ اپنا دار فروخت نہ کروں گا پھر اپنی بیوی کو اس کے مہر میں دے دیا تو حائث ہو گیا۔ شیخ صدر الشہید نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہے کہ عورت سے درہموں پر نکاح کیا پھر ان درہموں کے عوض اس کو یہ واردے دیا اور اگر عورت سے اسی دار پر نکاح کیا تو حائث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ یہ گھوڑا نہ بیچوں گا پھر کسی نے یہ گھوڑا لے لیا اور اس کا بدل دے دیا اور گھوڑے کا مالک اس پر راضی ہو گیا تو حائث نہ ہوگا اور اسی پر فتویٰ ہے یہ جو اہر اخلاطی میں ہے۔ ایک نے دوسرے سے کوئی چیز بطور تعاطی کے لے لی پھر قسم کھائی کہ میں نے یہ چیز نہیں خریدی ہے تو شیخ علم الہدیٰ ماتریدی نے جواب دیا کہ وہ حائث ہوگا اور اسی کو شیخ ظہیر الدین نے اختیار کیا ہے اور اسی طرح اگر بطور تعاطی فروخت کی پھر قسم کھائی کہ میں نے اس کو فروخت نہیں کیا ہے تو بھی یہی حکم ہے اور یہی امام ابو یوسف سے بھی مروی ہے اور شیخ فضلی نے فرمایا کہ جو شخص جانتا ہو کہ وہ تبعا طی تھی تو اس کو حلال نہیں ہے کہ بیع پر گواہی دے بلکہ تعاطی ہونے پر گواہی دے یہ وجہ کرودی میں ہے الاصل جس شخص نے اپنی قسم کو کسی محل میں فعل پر منعقد کیا اور حرف لام کو جو بمعنی

۱۔ یہ مشکل ہے کیونکہ آزادی بیع امام کے نزدیک بالکل باطل ہے بعض عوام الناس نے زعم کیا کہ بیع بطور صحیح ہو تو بالکل صحیح ہے یہ کلام مہمل باطل ہے ہاں اگر اصل بیع باطل نہ ہو بلکہ فاسد ہو اور روایت صحیح ہو جائے تو یہی جواب ہے ۱۲۔ ۲۔ شاید یہ جواب بطور استحسان ہے ۱۲۔ ۳۔ قال المترجم یہ اس وقت کہ نیت نہ ہو اور اگر نیت ہو تو بھی حائث ہوگا اور اس میں کچھ اختلاف نہ ہونا چاہئے ۱۲۔ ۴۔ بیع تعاطی کی مثال یہ کہ دس دس آنہ ڈھیری ہے پیسہ پیسہ کو ایک آیا اور پیسہ دیا اور ایک ڈھیری لے گیا تو بیع بالطعاطی ہوگئی ۱۲۔ ۵۔ گویا بیع تعاطی کے اختلاف کا اشارہ ہے ۱۲۔

واسطے و ملک کے عربی میں آتا ہے ذکر کیا تو دیکھنا چاہئے کہ اگر اس نے لام کو محفل الفعل سے مقروں ذکر کیا تو اس کی قسم جس پر کھائی ہے اس کے مخلوف علیہ کی ملک میں ہونے کی حالت میں فعل صادر کرنے پر ہوگی چنانچہ اگر حالف نے یہ فعل ملک مخلوف علیہ میں کیا تو حادث ہوگا خواہ اس کے حکم سے کیا ہو یا بغیر اس کے حکم کے کیا ہو اور خواہ یہ فعل ایسا ہو کہ اس میں وکالت جاری ہوتی ہے یا جاری نہ ہوتی ہو اگر لام کو مقروں بہ فعل ذکر کیا پس اگر فعل ایسا ہو کہ اس میں وکالت جاری ہوتی ہے اور اس کے حقوق میں کہ اس کے عہدہ کی وجہ سے جو وکیل کو لاحق ہو اس کے واسطے موکل کی طرف وکیل رجوع کر سکتا ہے جیسے بیع وغیرہ تو اس کی قسم وکالت و حکم پر ہوگی چنانچہ اگر یہ فعل اس کے محل میں بحکم مخلوف علیہ کیا تو حادث ہوگا خواہ محل الفعل مخلوف علیہ کی ملک ہو یا دوسرے کی ملک ہو اور اگر ایسا فعل ہو کہ اس میں وکالت بالکل جاری نہیں ہوتی ہے جیسے کھانا پینا وغیرہ یا اس میں وکالت جاری تو ہوتی ہے مگر اس میں ایسے حقوق نہیں ہیں کہ ان کے واسطے وکیل اپنے موکل کی طرف رجوع کرے جیسے مارنا وغیرہ تو اس کی قسم جس پر قسم کھائی ہے ملک مخلوف علیہ میں اپنے فعل کے صادر کرنے پر ہوگی چنانچہ اگر یہ فعل مخلوف علیہ کی ملک میں کیا تو حادث ہوگا خواہ اس کے حکم سے کیا ہو یا بغیر اس کے حکم کے کیا ہو اور اگر یہ فعل غیر مخلوف علیہ کی ملک میں کیا تو حادث نہ ہوگا اگرچہ یہ فعل مخلوف علیہ کے حکم سے کیا ہو قال المترجم توضیح اس اصل شریف کی اپنی زبان میں ہم کو منظور ہے پس ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی محل میں مثل کپڑے وغیرہ کے اپنا فعل بیع وغیرہ کرنے پر قسم کھائی ہے اور کپڑا کسی دوسرے کا ہے پس اگر ایسا لفظ جو ملک پر دال ہے یا واسطے کے معنی میں ہے۔ مثلاً تیرا کپڑا یا فروخت واسطے تیرے وغیرہ ذلک محل فعل سے مقروں کر کے ذکر کیا اور محل فعل مثلاً۔ بیع فعل کا محل کپڑا ہے پس یوں کہا کہ میں نے فروخت کیا یہ کپڑا تیرا یا تیری ملک کا یا جو تیری ملک ہے تو اس کی قسم کپڑے کے فروخت کی اس حالت تک ہوگی کہ یہ کپڑا اس مخاطب کی ملک میں ہے علی العموم والاطلاق چنانچہ اوپر مذکور ہوا۔ اگر ایسا لفظ موصوف بالامقروں بہ فعل ذکر کیا نہ محل فعل مثلاً یوں کہا کہ فروخت کیا میں نے تیرے واسطے یہ کپڑا یعنی یہ فعل تیرے واسطے کیا تو اس میں فعل کو دیکھنا چاہئے کہ کیسا فعل ہے پس اگر فعل ایسا ہو کہ اس میں وکالت جاری ہوتی ہے الی آخرہ اور جب اصل مذکور کی توضیح ہو گئی تو ہم پھر کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ امام محمدؒ نے فرمایا اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے تیرے واسطے فروخت کیا کوئی کپڑا تو میرا غلام آزاد ہے اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے پس مخلوف علیہ یعنی مخاطب نے اپنا کپڑا کسی کو دیا تا کہ اس کو حالف کر دے تا کہ حالف اس کو فروخت کر دے پس درمیانی آدمی یہ کپڑا حالف کے پاس لایا اور کہا کہ یہ کپڑا واسطے فلاں کے فروخت کر دے یعنی مخلوف علیہ کے واسطے فروخت کر دے یا کہا کہ یہ کپڑا فروخت کر دے اور یہ نہ کہا کہ فلاں کے واسطے لیکن حالف جانتا ہے کہ یہ مخلوف علیہ کا اپنی ہے پس حالف نے اس کو فروخت کیا تو اپنی قسم میں حادث ہوا اور اگر درمیانی آدمی نے کہا کہ یہ کپڑا میرے واسطے فروخت کر دے یا کہا کہ اس کو فروخت کر دے اور حالف کو یہ معلوم نہ ہوا کہ مخلوف علیہ کا اپنی ہے پس حالف نے اس کو فروخت کیا تو حادث نہ ہوگا اور اگر حالف نے یوں قسم کھائی کہ اگر میں نے تیرا کپڑا فروخت کیا یا جو تیری ملک ہے فروخت کیا یا فروخت کیا ایسا کپڑا جو تیرا ہے یا تیری ملک ہے اور باقی مسئلہ بدستور ہے تو ہر حال میں حادث ہوگا خواہ درمیانی نے اس سے کہا ہو کہ فلاں کے واسطے فروخت کر دے یا کہا ہو کہ میرے واسطے فروخت کر دے یا کہا ہو کہ اس کو فروخت کر دے اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہا ہو ہر صورت میں حادث ہوگا بشرطیکہ اس کا فروخت کرنا ایسی حالت میں واقع ہوا ہو کہ یہ کپڑا مخلوف علیہ کی ملک میں ہو اور اگر حالف نے اول صورت میں یہ نیت کی کہ ایسا کپڑا فروخت کروں جو مخلوف علیہ کی ملک ہے اور دوسری صورت میں اس طرح قسم کھا کر کہ اگر میں نے فروخت کیا کپڑا واسطے تیرے یہ نیت کی کہ مخلوف علیہ کے حکم سے فروخت

کیا تو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اس کی قسم نیت پر ہوگی لیکن اول صورت میں قاضی بھی اس کی نیت کی تصدیق کرے گا اور دوسری صورت جب کہ موافق ہمارے ذکر کے بدوں تصریح ملک کے اس نے اپنی نیت ظاہر کی تو قاضی اس کی تصدیق نہ کرے گا اور جس صورت میں کہ ملک کی تصریح کر دی اس صورت میں کسی طور پر تصدیق نہ کی جائے گی کذا فی الذخیرہ مع زیادۃ من المترجمہ عصمہ اللہ تعالیٰ منتقی میں ابن سماعہ کی روایت سے امام محمد سے مروی ہے کہ ایک نے قسم کھائی کہ نہ فروخت کروں گا واسطے فلاں کے کوئی کپڑا پس حائف نے مخلوف علیہ کا کوئی کپڑا فروخت کر دیا پس مخلوف علیہ نے اس بیع کی اجازت دے دی تو حائف حائف ہو گیا اور اگر حائف نے اس کو اپنے واسطے فروخت کیا تو حائف نہ ہوگا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔

اگر حط کر دینے پر قسم کھائی (یعنی طے کرنے کے بعد رقم میں سے کچھ منہا کرنا):

اگر قسم کھائی کہ میں کوئی چیز تیرے اسباب میں سے تیرے واسطے فروخت نہ کروں گا پھر ایک تکبیر فروخت کیا جس میں مخلوف علیہ کا صوف بھرا ہوا ہے تو حائف نہ ہوگا یہ عتابیہ میں ہے۔ زید نے عمرو سے ایک غلام چکایا اور بائع نے اس کے دام ہزار درہم مانگے اور مشتری نے پانچ سو کہے پس بائع نے کہا کہ یہ آزاد ہے اگر میں نے تجھ سے ہزار درہم سے کچھ حط کئے پھر اس کے بعد کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ اس کو پانچ سو درہم کو فروخت کیا پس مشتری نے بیع قبول کر لی یا نہیں قبول کی تو بائع حائف ہو گیا اور غلام آزاد ہو گیا اور اگر بائع نے چکانے کے وقت کہا ہو کہ اگر میں نے اس کے ثمن سے کچھ حط کیا تو یہ آزاد ہے اور باقی مسئلہ بدستور واقع ہوا تو غلام (بائع حائف نہ ہوگا ۱۲) آزاد نہ ہوگا اور اگر اس کے ثمن (پانچ سو درہم سے مثلاً ۱۲) سے اس کے بعد کچھ حط بھی کر دیا تو قسم منحل ہوئی لیکن غلام آزاد نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ بائع کی ملک سے باہر ہو چکا ہے اور اگر اس صورت میں بائع نے جزاء قسم اپنی بیوی کی طلاق یا کسی دوسرے غلام کی آزادی قرار دی ہو تو اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی اور دوسرا غلام آزاد ہو جائے گا اور اسی طرح اگر ان صورتوں میں تھوڑا ثمن مشتری کو ہبہ کر دیا خواہ پورا ثمن وصول کرنے کے بعد یا اس سے پہلے تو بھی اپنی قسم میں حائف ہو گیا اور اگر تمام ثمن مشتری کے ذمہ سے حط کر دیا یا اس کو تمام ثمن ہبہ کر دیا تو حائف نہ ہوگا اور اگر مشتری کو بعض ثمن سے بری کر دیا پس اگر ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے ایسا کیا تو اپنی قسم میں حائف ہوگا اس واسطے کہ یہ حط قرار دیا جائے گا اور اگر بعد قبضہ ثمن کے ایسا کیا تو اپنی قسم میں حائف نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

امام محمد نے فرمایا کہ ایک نے دوسرے سے ایک کپڑا چکایا اور بائع نے بارہ سے کم کو دینے سے انکار کیا پس مشتری نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں اس کو بارہ کر خریدوں پھر اس کو تیرہ کو یا بارہ و ایک دینا کر کو یا بارہ اور ایک کپڑے کے عوض خریدتا تو اپنی قسم میں حائف ہوگا اور اگر اس کو گیارہ اور ایک دینا کر کے عوض یا گیارہ اور ایک کپڑے کے عوض خریدتا تو حائف نہ ہوگا اور اگر بائع نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے اس کو دس کو فروخت کیا پھر اس کو گیارہ کے عوض یا دس و ایک دینا کر کے عوض یا نو اور ایک دینا کر کے عوض فروخت کیا تو حائف نہ ہوگا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔ زید نے کوئی چیز بعوض درہموں کے فروخت کی پھر قسم کھائی کہ اس کا ثمن نہ لوں گا پھر ان درہموں کے عوض یہ ہوں لے لیے تو حائف ہو گیا یہ وجہ کروری میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ یہ چیز کسی کے ہاتھ فروخت نہ کروں گا پھر اس کو دو آدمیوں کے ہاتھ فروخت کیا تو حائف ہو یا عتابیہ میں ہے۔ قسم کھائی کہ کپڑا نہ خریدوں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے پھر اس نے ریشمی چادر یا طبلسان یا پوشتین یا قبا خریدی تو حائف ہو اگر اس نے مسک یا بچھونا یا ٹوپی یا نیالی خریدی تو حائف نہ ہوگا یہ وجہ کروری میں ہے قال المترجم ہمارے عرف کے موافق امید ہے کہ کپڑے سے جو متبادر ہوتا ہے اس پر محمول ہو

واللہ تعالیٰ اعلم قال فی الوجیز اسی طرح اگر کوئی ٹکڑا خریدتا جو نصف کپڑے کے برابر نہیں ہے تو بھی حادث نہ ہوگا اور اگر نصف کپڑے کے برابر زیادہ ہو تو حادث ہوگا اور اگر اس قدر خریدتا جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے تو حادث ہوگا انتہا قلت و ہذا ظاہر ایک نے قسم کھائی کہ اس عورت کے واسطے ثوب نہ خریدوں گا پھر اس کے واسطے اوڑھنی (نما ۱۲) خریدی تو حادث نہ ہوگا اور یہ جو اہر اخلاطی میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ کتان نہ خریدوں گا تو ہمارے عرف میں یہ قسم کتان کے کپڑے پر واقع ہوگی اور یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ زید نے قسم کھائی کہ عمرو سے کچھ نہ خریدوں گا پھر اس سے ایک کپڑے کی بیع سلم ٹھہرائی تو حادث ہوا کذا فی الظہیر یہ قسم کھائی کہ اپنی باندی کے لئے نیا کپڑا نہ خریدوں گا تو عرف میں نیا وہ کپڑا ہے جو ڈھلا ہوا نہ ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ لایشتری طعاما ہ طعام نہ خریدوں گا پھر اس نے گیہوں خریدے تو ہمارے علما کے قول میں حادث ہوگا۔ یہ حاوی میں ہے۔ قال المترجم یہ عمراموں کا ہے اور ہمارے عرف کے موافق طعام فی الحال کھانے قابل پر واقع ہوگا کما صرحنا فی کتاب البیوع اور اگر قسم کھائی کہ ان درہموں کی روٹی نہ خریدوں گا تو جب تک یہ درہم پہلے نانوائی کو دے کر پھر اس سے نہ کہے کہ مجھے ان درہموں کی روٹی دے دے تب تک حادث نہ ہوگا چنانچہ اگر نانوائی کو یہ درہم دینے سے پہلے روٹی خریدنے کو اس طرح کہا تو حادث نہ ہوگا اور جامع میں فرمایا کہ اگر اس نے عقد بیع کو انہیں درہموں کی طرف مضاف کیا تو حادث ہوگا خواہ یہ درہم دیئے ہوں یا ہنوز نہ دیئے ہوں یہ وجہز کردری میں ہے اور مترجم کہتا ہے کہ یہی اصح ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور اگر قسم کھائی کہ بٹو نہ خریدوں گا پھر اس نے گیہوں خریدے جن میں جو کے دانہ موجود ہیں تو حادث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ بقل (ساگ پات اور ساگھ کھیتی جس میں بالی نہ آئی ہو) نہ خریدوں گا پھر ایسی زمین خریدی جس میں بقل موجود ہے اور مشتری نے شرط کر لی کہ یہ بقل میری ہوگی تو بھی حادث ہوگا:

اگر قسم کھائی کہ لکھوری اینٹ یا لکڑی یا نرکل نہ خریدوں گا پھر اس نے کوئی پختہ مکان خریدتا تو حادث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ خرما کے پھل نہ خریدوں گا پھر اس نے ایک زمین خریدی جس میں خرما کے درخت ہیں اور درختوں پر پھل موجود ہیں اور مشتری نے شرط کر لی کہ یہ پھل میرے ہوں گے تو حادث ہوگا اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ بقل نہ خریدوں گا پھر ایسی زمین خریدی جس میں بقل موجود ہے اور مشتری نے شرط کر لی کہ یہ بقل میری ہوگی تو بھی حادث ہوگا اس واسطے کہ اس صورت میں بقل بیع میں بالمقصد داخل ہوگی نہ بالتبع۔ اگر قسم کھائی کہ گوشت نہ خریدوں گا پھر زندہ بکری خریدی تو حادث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ کڑوا تیل نہ خریدوں گا پھر سرسوں خریدی تو حادث نہ ہوگا اور علی ہذا اگر کسی نے قسم کھائی کہ نرکل نہ خریدوں گا اور نہ خرما کے پتے پھر ایک بوریا (زرگل کا ۱۲) خریدتا خرما کے پتوں کی زنبیل خریدی تو مشائخ نے فرمایا کہ حادث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ بکری کا بچہ (خلوں ۱۳) نہ خریدوں گا پھر گا بھن بکری خریدی یا قسم کھائی کہ صغیر مملوک نہ خریدوں گا پھر حاملہ باندی خریدی تو حادث نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ کوئی درخت نہ خریدوں گا پھر ایک زمین خریدی جس میں درخت ہیں تو حادث نہ ہوگا اور یہ ظہیر میں ہے۔ قال المترجم اس جنس کے مسائل میں اصل یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے نہ خریدنے کی قسم کھائی تو اس میں تین صورتیں ہیں کہ اگر یہ چیز دوسری چیز کے خریدنے میں آئی اور ایسی چیز ہے کہ اس کی تبعیت میں بدوں ذکر و شرط کے داخل ہو جاتی ہے تو حادث نہ ہوگا

اور اگر بدوں شرط کے داخل نہیں ہوتی ہے اور شرط کرنے سے داخل ہو سکتی ہے پس شرط کی تو حائث ہوگا اور اگر مستقل بعد ذکر کے بیع میں آتی ہے تو بھی حائث ہوگا اگر خرید کیا ہو فلینا مل اور اگر قسم کھائی کہ دیوار نہ خریدوں گا پھر ایک دار خریداجس کی چار دیواری قائم ہے تو استحسانا حائث ہوگا ایک نے قسم کھائی کہ درخت خرمانہ خریدوں گا پھر ایک باغ چار دیواری کا خریداجس کے اندر درختان خرما ہیں تو حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ صوف نہ خریدوں گا پھر ایک بکری خریدی جس کی پشت پر صوف موجود ہے تو حائث نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر بکری کو بعوض صوف تراشدہ خریدتا تو بھی یہی حکم ہے یہ ظاہر الروایہ ہے کذا فی فتاویٰ قاضی خان اور صوف نہ خریدنے کی قسم میں اگر کھال خریدی جس پر صوف موجود ہے تو حائث نہ ہوگا اور امام محمد سے مروی ہے کہ ایسی کھال خریدنے سے حائث ہوگا یہ عتابیہ میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ دودھ نہ خریدوں گا پھر ایک بکری خریدی جس کے تھنوں میں دودھ ہے تو حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر بکری کو اس کی جنس کے دودھ کے عوض خریدتا تو بھی حائث نہ ہوگا یہ ظاہر الروایہ کے موافق ہے اور یہ صورت اور بکری کو بعوض گوشت کے خریدنا امام ابوحنیفہ اور ابو یوسف کے نزدیک یکساں ہیں کہ بہر حال میں بیع جائز ہے اور اگر دودھ نہ خریدنے کی قسم کھائی ہوگی تو اس صورت میں حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ چکتی نہ خریدوں گا پھر ایک دنبہ (پورا ۱۳۱) ذبح کیا ہوا خرید کیا تو حائث نہ ہوگا اور یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ سری نہ خریدوں گا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ قسم بکری و دنبہ و گائے کی سری پر واقع ہوگی اور فتویٰ باعتبار رواج کے ہوگا:

اصل یہ ہے کہ جس پر قسم کھائی ہے اگر وہ دوسری چیز کی تبعیت میں بیع میں داخل ہوگئی ہو تو اس سے حائث نہ ہوگا اور اگر مقصود داخل ہوئی ہو تو حائث ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اور قال المترجم انما عشرت علیہ بعد ما ذکرنا الاصل قبیل هذا فاذا هما یتوافقان فالحمد لله علی ذلك حمداً کثیراً طیباً مبارکاً و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا الصادق الامین محمد وآلہ اجمعین۔ اگر قسم کھائی کہ گوشت نہ خریدوں گا پھر سری خریدی تو حائث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ سری نہ خریدوں گا تو امام اعظم کے نزدیک یہ قسم بکری و دنبہ و گائے کی سری پر واقع ہوگی اور حاجین کے نزدیک فقط بکری و دنبہ کی سری پر واقع ہوگی اور یہ اختلاف عصر و زمانہ ہے یعنی باعتبار رواج کے ہے وقال المترجم ہمارے عرف کے موافق بھی صاحبین کے قول پر فتویٰ ہونا چاہئے ہے واللہ اعلم اور اگر قسم کھائی کہ لحم نہ خریدوں گا یعنی چربی پھر اس نے پیٹ کی چربی خریدی تو حائث ہوگا اور اگر پیٹ کی چربی جس میں گوشت کا میل ہوتا ہے خریدی تو یہ مسئلہ امام محمد نے اصل میں نہیں ذکر فرمایا ہے اور شمس الائمہ سرخسی نے (شرح میں) ذکر کیا ہے کہ حائث نہ ہوگا اور یہ محیط میں ہے۔ ایک نے کہا کہ واللہ نہ خریدوں گا ان درہموں کے عوض الا گوشت پھر اس نے ان درہموں میں سے تھوڑے کے عوض گوشت خرید اور باقی کے عوض کوئی اور چیز سوائے گوشت کے خریدی تو حائث نہ ہوگا جب تک کہ ان سب کے عوض دوسری چیز سوائے گوشت کے نہ خریدنے اور اگر قسم کھائی کہ ان درہموں کے عوض سوائے گوشت کے نہ خریدوں گا پھر اس نے تھوڑے درہموں کے عوض کوئی اور چیز سوائے گوشت کے خریدی تو قیاساً حائث نہ ہوگا اور استحساناً حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اون یا بال نہ خریدوں گا تو یہ قسم سادے اون و بال پر واقع ہوگی اور ان چیزوں پر واقع نہ ہوگی جو اون و بال سے بنائی گئی ہوں چنانچہ کمل اور

بولوں کی تھیلی خریدنے سے حائث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ دہن نہ خریدوں گا تو ایسے دہن پر واقع ہوگی جس سے تدہین کرنے کا لوگوں میں رواج و عادت ہے اور جس سے تدہین کی عادت نہیں ہے جیسے روغن زیتون والسی وانڈے و پائے تو ان سے حائث نہ ہوگا اور قال المتر جم اگر ہماری زبان میں کہا کہ تیل نہ خریدوں گا تو سوائے پائے کے سب تیلوں پر واقع ہوگی اور اگر یوں کہا کہ لگانے کا تیل نہ خریدوں گا تو حکم موافق مذکورہ کتاب ہے واللہ اعلم اور اگر اس نے زیت مطبوخ خرید اور قسم کے وقت اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو حائث ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ بنفشہ یا حطمی نہ خریدوں گا تو کتاب میں مذکور ہے کہ یہ قسم روغن بنفشہ پر واقع ہوگی پتے پر واقع نہ ہوگی اور مشائخ نے فرمایا کہ ہمارے عرف میں روغن بنفشہ خریدنے سے حائث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ قال المتر جم ہمارے عرف میں عام لوگوں کے اطلاق میں بنفشہ و حطمی اس کے گل و تخم یعنی گل بنفشہ اور تخم یعنی حطمی پر ہے اور خواص فرق کرتے ہیں پس حکم میں تامل ہے اور ضرورت اجتہاد فافہم اور قسم کھائی کہ فلاں کے واسطے نہ خریدوں گا پھر فلاں کے پسر یا اس کے غلام مازوں کے واسطے اس کی اجازت سے خرید کیا تو حائث نہ ہوگا یہ عتابیہ میں ہے اور ایک نے قسم کھائی کہ فلاں کے واسطے یہ چیز ضرور خرید کروں گا پھر اس کے واسطے خریدی پھر اس نے یہ چیز بائع کو دے دی تو اپنی قسم میں سچا رہا یہ وجیز کر دری میں ہے اور اگر زید نے کہا کہ اگر میں نے فلاں غلام کو خرید تو وہ آزاد تو وہ آزاد ہے پھر عمرو کے واسطے اس غلام کو خرید تو اس کو امام محمد نے کسی کتاب میں ذکر نہیں فرمایا اور فقیہ ابو بکر بلخی سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ قسم منحل نہ ہوگی اور یہی شبہ ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کا غلام نہ خریدوں گا پھر اپنا مکان فلاں کو بعوض اس غلام کے کرایہ پر دیا تو حائث نہ ہوگا اور یہ ظہیر یہ میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ یہ غلام نہ خریدوں گا اور نہ کسی کو حکم دوں گا کہ میرے واسطے اس کو خرید لے پس اس کو منظور ہوا کہ اس کو کسی طرح خریدوں تو اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی دوسرا غلام خرید کر کے اس کو تجارت کی اجازت دے دے پھر وہ مازوں اس غلام کو خرید کرے پھر اپنے غلام مازوں کو مجبور کر دے پھر یہ غلام اس کا ہو جائے گا اور حائث بھی نہ ہوگا اس واسطے کہ شرط حائث ہونے کی نہیں پائی گئی یہ خلاصہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ امراة نہ خریدوں گا یعنی عورت نہ خریدوں گا پھر ایک جا رہی صغیرہ خریدی یعنی چھوٹی لڑکی خریدی تو حائث نہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے۔

ایک شخص نے دس باندیوں کو دیکھ کر کہا کہ اگر میں نے کوئی باندی ان باندیوں میں سے خریدی تو وہ آزاد ہے پھر کسی دوسرے کے واسطے ان میں سے کوئی باندی خریدی پھر اپنے واسطے خرید لی تو وہ آزاد نہ ہوگی اور اگر ان میں سے دو باندیاں ایک اپنے واسطے اور دوسری دوسرے کے واسطے ایک ہی صفتہ میں خریدیں تو ان میں سے کوئی آزاد نہ ہوگی یہ ظہیر یہ میں ہے اور منقہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ جا رہی (چھوڑی ۱۲) نہ خریدوں گا پھر بوڑھی باندی یا دودھ پیتی لڑکی خریدی تو حائث ہوگا اور اگر کہا کہ لا^(۱) یشتري غلاماً من السند یعنی نہ خریدوں گا کوئی غلام از سندھ (ملک ۱۳) تو سندھی غلام نہ خریدنے پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ نہ

۱ دہن تیل اور چکنائی کو بھی دہن کہتے ہیں ۱۲۔ ۲ مترجم کہتا ہے کہ اس مقام پر نظر یہ کہ خرید پہلے وکیل کے لئے واقع ہوگی پھر منقل ہو کر موکل کے واسطے ہو جائے گی یا اول ہی موکل کے واسطے واقع ہوگی پھر دیکھو کہ کیا وہ اس غیر کا وکیل تھا یا نہیں تھا۔ اگر نہ ہو تو کیا فضولی کی خرید اس کے لئے ہوگی یا جس کے طرف منسوب کی یا متوقف رہے گی۔ ظاہر یہاں یہ ہے کہ وہ فضولی تھا تب ہی یہ خلجان واقع ہوا ۱۳۔ ۳ قال المتر جم ظاہر مراد یہ ہے کہ دوسرے سے پھر اپنے واسطے خرید لے و نہ محل تامل ہے واللہ اعلم ۱۲۔

(۱) جو غلام کمار خاکنان سندھ ہوا۔

خریدوں گا غلام از خراسان پھر خراسانی غلام کو سوائے خراسان کے دوسرے مقام پر خرید کیا تو حادثہ نہ ہوگا جب تک کہ اس کو خراسان میں نہ خریدے یہ خلاصہ میں ہے اور ایک نے تین گھوڑے ایک سو پانچ درہم کو خریدے پھر قسم کھائی کہ میں نے ان میں سے ایک پینتیس (۳۵) درہم کو خریدا ہے تو حادثہ ہوگا۔ دو آدمیوں کے درمیان اسی (۸۰) بکریاں مشترک ہیں پھر جو شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے واسطے مقرر ہے اس نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا پس ان میں (۱) سے ایک نے قسم کھائی کہ میں چالیس بکریوں کا مالک نہیں ہوں تو حادثہ نہ ہوگا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر ایک غلام خریدا پھر قسم کھائی کہ میں چالیس (درہم ۱۲) کا مالک نہیں ہوں تو حادثہ نہ ہوگا اور زکوٰۃ لازم نہ آئے گی۔ یہ وجہ کروری میں ہے۔

منقہنی میں لکھا ہے کہ اگر زید نے عمرو سے ایک غلام خریدا چاہا اور ہزار درہم اس کے دام ٹھہرائے پس زید نے ہزار درہم عمرو کو دیئے پھر قسم کھائی کہ اگر میں نے ان ہزار درہم کے عوض یہ غلام خریدا تو یہ ہزار درہم مسکینوں پر صدقہ ہیں اور انہیں دیئے ہوئے ہزار درہم کی طرف اشارہ کیا اور عمرو نے کہا کہ اگر میں نے یہ غلام ان ہزار درہم کے عوض فروخت کیا تو یہ ہزار درہم مسکینوں پر صدقہ ہیں اور انہیں دیئے ہوئے ہزار درہم کی طرف بائع نے بھی اشارہ کیا پھر عمرو نے انہیں درہم کے عوض یہ غلام زید کے ہاتھ فروخت کیا تو عمرو پر لازم آئے گا کہ یہ ہزار درہم صدقہ کرے زید پر لازم نہ آئے گا یہ تاتار خانہ میں ہے قال المترجم اور اگر جزاء یہ قراردی ہو کہ تو یہ غلام آزاد ہے تو مشتری کی طرف سے غلام آزاد ہوگا نہ بائع کی طرف سے فلیتأمل اور اگر کہا کہ میں کسی غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے پھر نصف غلام خریدا اور اس کو فروخت کر دیا پھر باقی نصف خریدا تو یہ نصف اس کی طرف سے آزاد نہ ہو جائے گا اور اگر یوں کہا کہ اگر میں نے کوئی غلام خریدا تو وہ آزاد ہے اور باقی مسئلہ بحال ہے تو یہ نصف آزاد ہو جائے گا اور یہ غیر معین غلام کی صورت میں ہے اور معین غلام کی صورت میں یوں کہا کہ اگر میں اس غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے تو اس کا حکم مثل اس صورت کے ہے کہ اگر میں نے یہ غلام خریدا تو آزاد ہے یعنی یہ نصف اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا اور یہی حکم درہم کی صورت میں ہے یعنی اگر یوں کہا کہ اگر میں دو سو درہم کا مالک ہوا تو اس پر ان کا صدقہ کر دینا واجب نہ ہوگا اور اگر درہم معین ہوں یعنی اشارہ کر کے کہا ہو کہ اگر ان دو سو درہم کا مالک ہوا تو مجھ پر ان کا صدقہ کرنا واجب ہے تو اس طرح مالک ہونے سے اس پر صدقہ کرنا واجب ہوگا اور خرید کی صورت میں اگر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میری نیت یہ تھی کہ اگر پورے کو میں نے خریدا تو آزاد ہے تو قضاء اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور دینا تصدیق ہوگی۔ یہ خلاصہ میں ہے۔ زید نے عمرو و بکر سے کہا کہ اگر تم نے کسی غلام کو خریدا یا تم کسی غلام کے مالک ہوئے تو میرے غلاموں میں سے ایک آزاد ہے پھر دونوں ایک غلام کے مالک ہوئے جو دونوں میں مساوی مشترک ہے یا ایک نے خرید کر دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا تو زید حادثہ ہوا اور اگر کسی نے کہا کہ میں نہیں مالک ہوا الا پچاس و دس درہم کا یعنی زکوٰۃ مجھ پر یوں نہیں ہے کہ میں دو سو درہم کا مالک نہیں رہا ہوں حالانکہ وہ فقط دس ہی درہم کا مالک ہوا ہے تو حادثہ نہ ہوگا اور اگر وہ پچاس درہم کے ساتھ دس دینار کا یا سوائم (۲) کا یا اور کسی تجارتی چیز کا مالک ہو تو حادثہ ہوگا اور اگر پچاس درہم کے ساتھ غیر تجارتی اسباب کا یا خدمت کے واسطے غلاموں کا یا رہنے کے دار وغیرہ کا مالک ہو تو حادثہ نہ ہوگا اس واسطے کہ عرف کے موافق اس کی مراد یہ ہے کہ وہ کسی مال کا مالک نہیں ہوا ہے الا پچاس درہم کا اور مطلق لفظ مال راجع بجانب مال

۱۔ وجہ فرق یہ ہے کہ سندی غلام معروف ہے کیونکہ یہ ملک کافر رہا اور سراسر سے فتح ہوا بخلاف اس کے خراسانی غلام معروف نہیں ہے فافہم ۱۲۔ ۲۔ اس واسطے کہ مقصود ملک پچاس درہم نہیں ہے بلکہ نئی ملک دو سو درہم ہے اور پچاس درہم کا بیان بنظر احتیاط ہے فافہم ۱۲۔

(۱) دونوں میں سے ۱۲۔ (۲) جرائی کے چوپائے جانور ۱۲۔

زکوٰۃ ہوتا ہے یہ وجیز کردری میں ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ سونا یا چاندی نہ خریدوں گا تو اس میں سونے و چاندی کے پتر اور ڈھلی ہوئی چیزیں برتن و زیور وغیرہ و درہم و دینار سب داخل ہیں۔ یہ امام ابو یوسف کا قول ہے اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ اس میں درہم و دینار داخل نہ ہوں گے اور اگر چاندی کی انگوٹھی خریدی تو حائث ہوگا اور اسی طرح اگر تلوار جس پر چاندی کا حلیہ ہے خریدی تو بھی حائث ہوگا اور مشابہ سونے و چاندی کے ماسوائے ان دونوں کے نہیں ہے جبکہ سونا و چاندی تلوار یا پیٹی میں ہو تو اس کو تلوار کے ساتھ خریدا ہے اگر اس کا نم سونا و چاندی ہو اور اگر اس کا گہروں وغیرہ ہوں تو حائث نہ ہوگا اور ایک نے قسم کھائی کہ لوہا نہ خریدوں گا تو امام ابو یوسفؒ کے قول کے موافق اس میں لوہا اور لوہے کی بنائی ہوئی چیز و ہتھیار سب داخل ہوں گے اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ اس میں وہ چیزیں داخل ہوں گی جن کا فروخت کرنے والا^(۱) حداد کہلاتا ہے اور اس میں ہتھیار داخل ہوں گے جیسے تلوار اور چھرا اور خود وزرہ وغیرہ اور نیز اس میں سوئی اور سوجا بھی داخل نہ ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ ہمارے دیار کے عرف کے موافق کیلیں و قفل بھی داخل نہ ہوں گے قال المترجم ہمارے عرف کے موافق حائث ہوگا واللہ اعلم۔ اور پیتل^(۲) و کانسہ بمنزلہ لوہے کے ہے۔ اگر قسم کھائی کہ پیتل یا تانبا نہ خریدوں گا تو اس میں خود یہ چیز اور اس سے بنائی ہوئی چیزیں اور پیسے امام ابو یوسفؒ کے قول کے موافق داخل ہوں گے۔ امام محمدؒ نے فرمایا کہ پیسے داخل نہ ہوں گے اور اگر قسم کھائی کہ لوہے کے عوض نہ خریدوں گا پھر ایک دروازہ خرید بعوض اس قدر لوہے کے جو مقدار میں اس لوہے سے کم ہے جو دروازہ میں ہے تو نوادر میں مذکور ہے کہ یہ جائز نہیں (پس صحیح نہ ہوگا ۱۲) ہے اور اگر بعوض اس قدر لوہے کے خریداجو اس لوہے سے جو دروازہ میں ہے زیادہ ہے تو بیع جائز ہوگی اور وہ اپنی قسم میں حائث ہوگا۔ ایک نے قسم کھائی کہ گنینہ نہ خریدوں گا پھر ایک انگوٹھی جس میں گنینہ ہے خریدی تو حائث ہوگا گائے گا اگر چہ گنینہ کی قیمت حلقہ سے کم ہو۔ ایک نے قسم کھائی کہ یا قوت نہ خریدوں گا پھر ایک انگوٹھی خریدی جس کا گنینہ یا قوت کا ہے تو حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ آگینہ (کانچ کا سیسہ ۱۲) نہ خریدوں گا پھر چاندی کی انگوٹھی خریدی جس کا گنینہ آگینہ کا ہے پس اگر گنینہ کے دام اس کے حلقہ کے دام سے زائد نہ ہوں تو حائث نہ ہوگا اور اگر زائد ہوں تو حائث ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

قسم کھائی کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو حالانکہ اُس نے ایسا کیا ہے خواہ بزکاح جائز یا بزکاح فاسد تو حائث ہوگا:

اگر قسم کھائی کہ ساکھو کا دروازہ نہ خریدوں گا پھر ایک دار خرید یعنی جس میں چار دیواری موجود ہے اور اُس کا دروازہ ساکھو کا ہے تو حائث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے فضل اگر قسم کھائی کہ اس عورت کو اپنے نکاح میں نہ لوں گا پھر بطور فاسد اُس سے نکاح کیا اور فساد نکاح خواہ اس وجہ سے تھا کہ بغیر گواہوں کے تھا یا عورت کسی دوسرے کی طلاق یا موت کی عدت میں تھی یا مثل اس کے اور کوئی وجہ تھی تو حائث حائث نہ ہوگا یہ سراج و ہاج میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو حالانکہ اُس نے ایسا کیا ہے خواہ بزکاح جائز یا بزکاح فاسد تو حائث ہوگا اور یہ استحسان ہے اور اگر اُس نے نیت کی کہ بزکاح صحیح زمانہ ماضی میں کسی عورت سے نکاح نہیں کیا ہے تو قضاء و دیانہ دونوں طرح اُس کے قول کی تصدیق ہوگی اگرچہ اس صورت میں حائث کے حق میں تخفیف ہے اور اگر نکاح فاسد کی زمانہ مستقبل میں نیت کی ہو تو قضاء اُس کے قول کی تصدیق ہوگی اگرچہ یہ امر جو اُس نے

(۱) جن کو لوہا فروخت کرتا ہے ۱۲۔ (۲) وہی حکم جو لوہے کا ہے ۱۲۔

نیت کیا ہے اُس کی عبارت کا مدلول مجاز ہے لیکن چونکہ اُس کے حق میں تغلیظ ہے لہذا اس کا قول قبول ہوگا اور نکاح جائز سے بھی حائث ہوگا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔

اگر حالف کا نکاح کسی فضولی نے کر دیا پس اگر قسم سے پہلے فضولی کا عقد قرار پایا پھر حالف نے بعد قسم کے اجازت دے دی خواہ بقول اجازت دی یا بہ فعل تو وہ حائث نہ ہوگا اور اگر فضولی نے بعد اس کی قسم کے عقد قرار دیا تو حالف حائث نہ ہوگا جب تک کہ اجازت نہ دے اور جب اجازت دے دی تو دیکھا جائے گا کہ اگر اُس نے بقول اجازت دی مثلاً کہا کہ میں نے اس نکاح کی اجازت دی تو وہ حائث ہو اور یہی مختار ہے اور اگر عجل اجازت دی مثلاً مہر بھیج دیا یا مثل اس کے کوئی مر گیا تو ابن سماعہ نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ وہ حائث نہ ہوگا اور اکثر مشائخ اسی پر ہیں اور اسی پر فتویٰ ہے اور اگر حالف کا نکاح بعد قسم کے فضولی نے بطور فاسد کر دیا پھر حالف نے بقول بالفعل اُس کی اجازت دے دی تو حائث نہ ہوگا اور قسم منحل نہ ہوگی حتیٰ کہ اگر اس کے بعد بطور جائز نکاح کیا تو اپنی قسم میں حائث ہوگا اور اسی طرح اگر حالف نے کسی کو وکیل کیا کہ نکاح کرائے پس وکیل نے بطور فاسد کسی عورت سے نکاح کر دیا تو موکل حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ کسی عورت سے نکاح نہ کروں گا پھر حالف پر نکاح کرنے کے واسطے اکراہ کیا گیا پس اُس نے نکاح کیا تو اپنی قسم میں حائث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

نو اور ہشام میں امام محمد سے مروی ہے کہ ایک نے قسم کھائی کہ اپنی بیوی پر تین طلاق کی اس شرط پر کہ اس دختر صغیرہ کا نکاح کر دے پھر حالف کی موجودگی میں کسی فضولی نے اُس کا نکاح کر دیا اور حالف خاموش ہے اور شوہر نے قبول کر لیا پھر حالف نے یعنی دختر کے باپ نے اجازت دے دی تو حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر اپنی باندی کے نکاح کی بابت اس طرح قسم کھائی تو اس صورت میں یہی حکم ہے اور تجرید میں امام محمد سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے بواسطہ فضولی کے بدون اجازت عورت مذکورہ سے نکاح کیا پھر قسم کھائی کہ اس عورت سے نکاح نہ کروں گا پھر عورت مذکورہ راضی ہوئی یعنی نکاح فضولی کی اجازت دی تو وہ حائث نہ ہوگا اور اگر عورت نے قسم کھائی کہ اپنے نفس کو کسی کے نکاح میں نہ دوں گی پھر کسی فضولی نے بدون اس کی اجازت کے یا وکیل نے اُس کی اجازت سے اس کو کسی مرد کے نکاح میں دے دیا پھر اُس نے اجازت دے دی (نکاح فضولی کی ۱۲) یا باکرہ تھی کہ اس کے ولی نے اُس کا نکاح کر دیا پس یہ خاموش رہی تو حائث ہوگی اور یہ روایت بحالف روایت متقدمہ ہے یہ خلاصہ میں ہے۔ اگر باکرہ عورت نے قسم کھائی کہ کسی کو اجازت نہ دوں گی کہ وہ میرا نکاح کر دے پھر ایک شخص نے اس کا نکاح کر دیا اور اُس کو خبر پہنچی پس وہ خاموش رہی تو اس کی کوئی روایت امام محمد سے نہیں ہے اور ہاں مرد کے حق میں روایت موجود ہے کہ اگر کسی مرد نے قسم کھائی کہ اپنے غلام کو تجارت کی اجازت نہ دوں گا پھر غلام کو خرید و فروخت کرتے دیکھ کر سکوت کیا تو حائث ہوگا اور امام ابو یوسف سے دونوں مسکوں میں روایت ہے کہ وہ حائث ہوگا یہ محیط میں ہے مجمع التوازل میں لکھا ہے کہ اگر عورت نے قسم کھائی کہ اپنے تروج کے بارے میں اجازت نہ دوں گی حالانکہ یہ عورت باکرہ ہے پھر اُس کے باپ نے اُس کا نکاح کر دیا اور یہ خاموش رہی تو نکاح پورا ہو گیا اور یہ حائث نہ ہوگی یہ خلاصہ میں ہے اور اپنی رضاعی بہن سے یا اور کسی ایسی عورت سے جس کے ساتھ اُس کا نکاح کبھی حلال نہیں ہے اور یہ شخص اُس کو جانتا ہے یوں کہا کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس عورت سے

۱۔ قال المترجم یعنی اول مسئلہ میں عورت حائث ہوگی اور دوم میں مرد حائث ہوگا اور مخفی نہیں کہ اول میں عورت کا حائث ہونا ظاہر نہیں ہے کیونکہ اس نے اجازت نہیں دی جس سے نکاح نے اس کا نکاح کیا اور اس کا سکوت جب ہی رضامندی و اجازت ہوگا جب تک دلی اقرب ہو حالانکہ یہ مسئلہ میں مذکور نہیں ہے بلکہ لوگوں میں سے ایک نے نکاح کیا اور صاحبین میں سے ابو یوسف کے نزدیک نکاح بغیر ولی نہیں ہے اور امام محمد نے اس کو نہیں تسلیم کیا ۱۲۔

نکاح کیا تو حائث ہو گیا یہ جامع کبیر میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ نکاح نہ کروں گا پھر مجنوں ہو گیا پھر اُس کے باپ نے اُس کا نکاح کر دیا تو حائث نہ ہوگا اور تجرید میں امام محمد سے روایت ہے کہ اگر قسم کھائی کہ نکاح نہ کروں گا پھر معتوٰہ ہو گیا پھر اُس کے باپ نے اُس کا نکاح کر دیا تو حائث ہوایہ خلاصہ میں ہے۔

ایک دینار سے زیادہ پر نکاح نہ کروں گا پھر چاندی کے عوض نکاح کیا جو ازراہ قیمت ایک دینار سے زیادہ ہے مثلاً سودرہم نقرہ پر نکاح کیا تو حائث نہ ہوگا:

ایک نے قسم کھائی کہ عورتوں سے نکاح نہ کروں گا ایک عورت سے نکاح کیا تو حائث ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔ قال المترجم ہمارے عرف میں تو یہ صورت ایسی ظاہر ہے کہ بربان عربی قوله لا اتزوج النساء اور نساء جمع ہے اس پر الف لام محتمل استغراق ہے جیسے لفظ عورتوں سے استغراق مراد ہو سکتا ہے لہذا ذکر کر دیا کہ یہاں جنس مراد ہے فمائل۔ ایک نے قسم کھائی کہ ایسی عورت سے نکاح نہ کروں گا جس کا شوہر تھا پھر یعنی بیوی کو طلاق بائن دے دی پر اُس سے نکاح کر لیا تو امام محمد نے فرمایا کہ اپنی قسم میں حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ اُس کی قسم اس عورت کے سوائے اور عورتوں کی طرف منصرف ہوگی یہ ظہیر یہ میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ نکاح نہ کروں گا الا چار درہم پر پھر اُس نے چارہی درہم پر ایک عورت سے نکاح کیا پھر قاضی نے عورت کا مہر پورے دس درہم کر دیئے تو وہ حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر بعد عقد کے خود اُس کا مہر بڑھا دیا تو بھی حائث نہ ہوگا یہ وجہ کر دری میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ ایک دینار سے زیادہ پر نکاح نہ کروں گا پھر چاندی کے عوض نکاح کیا جو ازراہ قیمت ایک دینار سے زیادہ ہے مثلاً سودرہم نقرہ پر نکاح کیا تو حائث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں علاقے سے کوئی عورت اپنے نکاح میں نہ لوں گا پھر اس کی دختر کی دختر سے نکاح کیا تو حائث ہوگا:

قال المترجم ینبغی ان یکون الجواب علی قول الامام و اما علی قولہما ففی عرفنا نسی ان بخت واللہ اعلم۔ ایک نے قسم کھائی بنت کہ فلاں سے نکاح نہ کروں گا پھر فلاں مذکور کے ایک دوسری دختر پیدا ہوئی پھر اس سے نکاح کر لیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کی دختروں میں سے کسی کی دختر سے نکاح نہ کروں گا یا فلاں کی کسی دختر سے نکاح نہ کروں گا تو امام اعظم کے نزدیک اس صورت میں حائث ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔ فتاویٰ میں لکھا ہے کہ زید نے کہا کہ واللہ اس دار کے رہنے والوں میں سے کسی عورت سے نکاح نہ کروں گا اور عمرو کی دختروں میں سے نکاح نہ کروں گا حالانکہ دار میں کوئی نہیں رہتا ہے پھر اس میں کوئی لوگ آ کر رہے یا عمرو کی ایک دختر پیدا ہوئی پھر دار مذکور کی کسی عورت سے یا عمرو کی اس دختر سے نکاح کیا تو حائث نہ ہوگا لیکن یہ امام محمد کا قول ہے اور مختار یہ ہے کہ حائث ہوگا اور یہ شیخین کا قول ہے اور اگر قسم کھائی کہ اہل کوفہ میں سے کسی عورت سے نکاح نہ کروں گا پھر ایک کوئی عورت سے نکاح کیا جو اس کی قسم کے روز پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ بعد پیدا ہوئی ہے تو بالاتفاق حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ نژاد فلاں سے کوئی عورت اپنے نکاح میں نہ لوں گا پھر اس کی دختر کی دختر سے نکاح کیا تو حائث ہوگا اور اگر اس صورت میں یہ لفظ کہا ہو کہ اہل بیت فلاں سے یعنی فلاں کے گھر سے تو نیشنی کو نکاح میں لانے سے حائث نہ ہوگا الا آنکہ اس کے پسر کی دختر سے نکاح کرے یہ خلاصہ میں ہے۔

قال المتزجم ان اس کا مدار عرف پر ہو تو حکم باعتبار عرف کے مختلف ہوگا والظاہرانہ لیس کلک فافہم اور اگر قسم کھائی کہ زنان اہل کوفہ یا بصرہ سے نکاح میں نہ لاؤں گا پھر ایسی عورت سے نکاح کیا جو بصرہ میں پیدا ہوئی اور اس نے کوفہ میں نشوونما پائی اور وہیں توطن اختیار کیا ہے تو امام اعظم کے قول میں حائث ہوگا اس واسطے کہ ایسا قول مولود پر کہا جاتا ہے یعنی ایسے مقام پر کہتے ہیں کہ جہاں یہ مراد ہوتی ہے کہ فلاں جگہ کی پیدائش ہو اور یہی مختار ہے اس واسطے کہ معتبر اس میں پیدائش ہے یہ محیط سرحسی میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ لاتیزوہ امرأۃ بالکوفۃ یعنی کوفہ میں کسی عورت سے نکاح نہ کروں گا پھر اس نے کوفہ میں ایک عورت سے نکاح کیا بہ ان اجازت اس عورت کے یعنی کوفہ میں کسی فضولی نے ان کے ساتھ اس عورت کا نکاح کر دیا اور یہ عورت بصرہ میں ہے پس اس کے خبر پہنچنے پر بصرہ میں اس نکاح کی اجازت دے دی تو یہ شخص اپنی قسم میں حائث ہوا اگرچہ نکاح کا پورا ہونا اجازت پر ہے اور بہت بصرہ میں پائی گئی ہے یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ روئے زمین پر عورت سے نکاح نہ کروں گا اور اس نے ایک خاص نیت کی ہے تو فیما و بین اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق نہ ہوگی مگر قضاء تصدیق نہ ہوگی اور اگر اس نے کوفہ یا بصرہ میں عورت کی نیت نہ ہو تو دیانت یا قضاء کسی طرح اس کی تصدیق نہ ہوگی اور اسی طرح اگر کافی یا اندھی کی نیت کا دعویٰ کیا تو بھی یہی حکم ہے کہ بالکل تصدیق نہ ہوگی اور اگر اس نے عربیہ یا حبشیہ عورت کی نیت کا دعویٰ کیا تو دیانت اس کے قول کی تصدیق ہوگی یہ ظہیر یہ میں ہے۔

ایک غلام نے قسم کھائی کہ کسی عورت سے نکاح نہ کروں گا پھر مولیٰ نے کسی عورت سے اس کا نکاح کر دیا اور حالیکہ غلام اس سے ناخوش تھا تو حائث نہ ہوگا اور اگر مولیٰ نے غلام پر اکراہ کیا کہ غلام نے بجزوری کسی عورت سے نکاح کر لیا تو حائث ہوگا اور یہ ظاہر الروایہ ہے اور یہی صحیح ہے یہ جو اہر اخلاقی میں ہے اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ اپنے غلام کا نکاح نہ کروں گا پھر اس کے سوا کسی اور نے اس غلام کا نکاح کر دیا پھر مولیٰ نے زبان سے اجازت دے دی تو حائث ہو گیا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ پوشیدہ نکاح کروں گا پس اگر اس نے دو گواہوں کو گواہ کیا تو یہ پوشیدہ ہے اور اگر تین گواہوں کو گواہ کیا تو یہ علانیہ^(۱) ہو گیا اور یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ یہ مکان کرایہ پر نہ دوں گا حالانکہ قبل قسم کے اس کو کرایہ پر دے چکا ہے پس اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا اور ہر ماہ اس کا کرایہ وصول کرتا رہا تو حائث ہوگا اور اگر اس نے مستاجر سے مہینہ کا کرایہ مانگا اور ہنوز وہ اس میں نہیں رہا ہے تو جب مستاجر اس کو دے دے گا تو وہ حائث ہو جائے گا اور اگر وہ کرایہ پر چلانے کے واسطے رکھا گیا ہو پس اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا تو حائث نہ ہوگا اور شیخ نجم الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے قسم کھائی کہ لاتیزوہ مع فلاں یعنی فلاں کے ساتھ اتجار نہ کروں گا پھر فلاں مذکور اس کے پاس اپنا غلام لایا اور اس کو اجارہ پر مقرر کیا تا کہ غلام مذکور کو فلاں پیشہ سکھائے اور اس نے قبول کیا تو فرمایا کہ حائث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔

زید نے قسم کھائی کہ عمرو سے فلاں حق سے جس کا عمرو اس پر دعویٰ کرتا ہے صلح نہ کروں گا پھر زید نے خالد کو وکیل کیا پس خالد نے عمرو سے صلح کی تو امام محمد کے نزدیک زید حائث ہوگا اس واسطے کہ صلح میں کچھ عہدہ نہیں ہوتا ہے اور امام ابو یوسف سے دو روایتیں ہیں اور عمدا خون کی صلح میں وکیل کی صلح سے موکل حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں سے خصومت^(۲) نہ کروں گا پھر فلاں

۱۔ قال المتزجم امام مالک کے مذہب پر یہ قسم ہی درست نہ ہوگی اس واسطے کہ اعلان رکن نکاح ہے یا قسم ہوگی مگر وہ حائث ہوگا اس واسطے کہ اعلان شرط نکاح ہے اور یہی اسح ہے واللہ اعلم ۱۲۔ ۲۔ مراد یہ ہے کہ اگر ہنوز اس میں مستاجر رہا نہیں ہے پس اس نے ماہواری کرایہ جو ٹھہرا ہے مستاجر سے حسب دستور پیشگی مانگا کہ اس میں رہے تو الی آخرہ ۱۲۔

(۱) حائث ہوگا ۱۲۔ (۲) نالش مقدمہ حق ۱۲۔

کے ساتھ خصومت کرنے کے واسطے ایک وکیل مقررہ کیا تو حانث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ شمس الاسلام او جندی سے دریافت کیا کہ زید نے نشہ کی حالت میں کوئی چیز عمر کو ہبہ کر دی اور قسم کھائی کہ اپنی ہبہ سے رجوع نہ کروں گا اور نہ اس سے واپس لوں گا پھر عمر نے یہ چیز خالد کو ہبہ کر دی پھر زید نے خالد سے یہ چیز لے لی تو شیخ نے فرمایا کہ زید حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اگر قسم کھائی کہ فلاں کو کچھ ہبہ نہ کروں گا پھر اس کو ہبہ کی اور اس نے قبول نہ کی مگر اس پر قبضہ نہ کیا تو ہمارے نزدیک قسم کھانے والا حانث ہوگا اور اسی طرح اگر ہبہ غیر مقسومہ کیا تو بھی ہمارے نزدیک حانث ہوگا اور اسی طرح اگر عمری دیا یا نجلہ دیا یا اپنی کے ہاتھ اس کے پاس بھیج دیا یا کسی دوسرے کو حکم کیا کہ اس نے فلاں مذکور کو ہبہ کر دیا تو بھی حانث ہوگا اور ہبہ نہ کرنے کی قسم میں صدقہ دینے سے ہمارے نزدیک حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ ہبہ نہ کروں گا پھر عاریت دی تو حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ صدقہ نہ دوں گا یا قرض نہ دوں گا پھر فلاں مذکور کو صدقہ دیا یا قرض دیا مگر اس نے قبول نہ کیا تو یہ شخص اپنی قسم میں حانث ہو گیا اور اگر قسم کھائی کہ قرض نہ مانگوں گا پھر قرض مانگا مگر فلاں نے اس کو قرض نہ دیا تو ایسی قسم میں حانث ہو اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کو اپنا غلام ہبہ نہ دوں گا پھر اس غلام کو دوسرے نے بغیر اس کی اجازت کے ہبہ کر دیا پھر اس نے اجازت دے دی تو حانث ہو گیا جیسے غیر کو ہبہ کرنے کا وکیل کرنے میں حانث ہوتا ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کو ہبہ نہ دوں گا پھر اس کو عوض پر ہبہ دیا تو اپنی قسم میں حانث ہوگا اور ایک نے قسم کھائی کہ اپنے غلام کو مکاتب نہ کروں گا پھر کسی اور نے اس کے غلام کو بدون اس کی اجازت کے مکاتب کیا پھر اس نے اس کی کتابت کی اجازت دیدی تو حانث ہو جیسے مکاتب کرنے کے لیے وکیل کرنے میں حانث ہوتا ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

فتاویٰ میں ہے اگر قسم کھائی کہ فلاں سے کچھ مستعار نہ لوں گا پھر فلاں مذکور نے اس کو اپنے گھوڑے پر اپنی ردیف میں سوار کر لیا تو حانث نہ ہوگا یہ محیط سرحدی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ کنڈی کرنے میں کام نہ کروں گا پھر فلاں کے اس کام میں شریک کے ساتھ کنڈی کا کام کیا تو حانث ہو اور اگر فلاں کے غلام مازوں کے ساتھ کام کیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ اس شہر میں شرکت نہ کروں گا پھر دونوں اس شہر سے نکلے اور باہر دونوں نے شرکت کا مقدر قرار دیا پھر دونوں داخل ہوئے اور شرکت میں کام کیا پس اگر قسم کھانے والے نے یہ نیت کی ہو کہ اس شہر کے اندر شرکت کا عقد اس کے ساتھ قرار نہ دوں گا تو حانث نہ ہوگا اور اگر یہ نیت ہو کہ فلاں کی شرکت میں کام نہ کروں گا تو حانث ہوگا اور اگر ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو مضاربت کا مال دیا کہ اس سے مضاربت کرے تو یہ اور اول دونوں یکساں ہیں یعنی قسم میں اس کی نیت جیسی ہوگی اسی تفصیل سے حکم ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مشارکت نہ کروں گا پھر اس کو اپنے پسر صغیر کے مال میں شریک کیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر زید نے قسم کھائی کہ عمر و مشارکت نہ کروں گا پھر زید نے خالد کو مال بضاعت دیا اور حکم کیا کہ اس میں اپنی رائے سے کام کرے پھر خالد نے اس مال میں عمر و کو شریک کر لیا تو زید حانث ہوگا ایک نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر میں نے تجھے شریک کیا تو حلال اللہ تعالیٰ مجھ پر حرام ہے پھر دونوں کی رائے میں آیا کہ باہم شرکت کریں تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کے واسطے یہ صورت نکلتی ہے کہ اگر قسم کھانے والے کا کوئی بیٹا بالغ ہو تو قسم کھانے والا مال کو اپنے اس بیٹے کو مضاربت پر دے اور اس بیٹے کے واسطے نفع میں سے بہت خفیف حصہ قرار دے اور اپنے بیٹے کو اجازت دے دی کہ اس تجارت میں اپنی رائے سے عمل کرے پھر یہ پسر اپنے چچا سے مشارکت کر لے پھر جب اس نے ایسا کیا تو پسر کے واسطے جس قدر شرط کیا گیا ہے وہ ہوگا اور جو کچھ بچے گا وہ آدھوں آدھوں اس کے باپ چچا کے درمیان مشترک ہوگا اور وہ حانث نہ ہوگا اور اگر بجائے پسر کے کوئی اجنبی ہو تو تھپی یہی حکم ہے کہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں سے ہروی کپڑا نہ لوں گا پھر اس سے ایک ہروی کھلی لی جس میں ایک ہروی کپڑا ہے جس کو اس نے

تھیلی کے اندر ٹھونس دیا ہے اور یہ شخص اس سے واقف نہ تھا تو قضاء حائث ہوگا اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں سے درہم نہ لوں گا پھر اس نے حالف کو پیسے ایک تھیلی میں بھر کر دیے اور ان کے درمیان ایک درہم ڈال دیا ہے پس حالف نے ان پیسوں پر قبضہ کر لیا حالانکہ وہ درہم ہونے کو نہیں جانتا تھا تو قضاء حائث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر حالف نے اس سے ایک قفیز آنا لیا جس میں درہم بھی ہے اور یہ آگاہ نہ ہو تو حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر اُس سے کوئی کپڑا لے لیا جس میں درہم بندھے ہوئے ہیں اور اُس کو معلوم نہ ہو تو بھی حائث نہ ہوگا اور اگر اُس نے یہ قسم کھائی ہو کہ فلاں سے درہم بطور ہبہ نہ لوں گا تو ان سب صورتوں میں حائث نہ ہوگا خواہ اس کو معلوم ہوا ہو کہ اس میں درہم ہے یا نہ معلوم ہوا ہو اور اگر قسم کھائی ہو کہ فلاں سے درہم بطور ودیعت کے نہ لوں گا اور ان صورتوں میں جو ہم نے بیان کی ہیں کوئی درہم لیا تو یہ بمنزلہ ہبہ کے ہے اور اسی طرح اگر صدقہ کا لفظ کہا ہو تو بھی یہی حکم ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ کوئی کفالت کروں گا پھر اُس نے آزاد یا غلام کی کفالت نفس یا کپڑے یا چوپایہ کی کفالت یا درک بیج کی کفالت کی تو وہ حائث ہوگا یہ مبسوطِ نحس میں ہے۔

کفالت بصلہ عن کفالت مالی ہی میں مستعمل ہوتا ہے:

اگر کہا کہ کسی آدمی کی طرف سے کسی چیز کی کفالت نہ کروں گا پھر کسی شخص کے نفس کی کفالت کی یعنی جب تو مانگے گا میں ضامن ہوں کہ میں اس کو حاضر کروں گا تو حائث نہ ہوگا قال المترجم یہ حکم زبان عربی میں اس طرح قسم کھانے میں ظاہر ہے یعنی کہا کہ لایکفل عن انسان شنی اور وجہ یہ ہے کہ کفالت بصلہ عن کفالت مالی ہی میں مستعمل ہوتا ہے چنانچہ ظہیر یہ میں مذکور ہے اور ہماری زبان میں بھی باعتبار متبادر کے امید ہے کہ یہی حکم ہے اور واللہ تعالیٰ اعلم فلیتامل فیہ اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے واسطے کفالت نہ کروں گا پھر سوائے فلاں کے دوسرے کے واسطے کفالت کی اور جن درہموں کی ضمانت کی ہے وہ اصل میں اسی فلاں کے ہیں تو حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر فلاں مذکور کے غلام کے واسطے کفالت کر لی تو بھی یہی حکم ہے اور اگر فلاں کے واسطے کفالت کر لی حالانکہ یہ درہم اصل میں کسی اور کے ہیں فلاں کے نہیں ہیں تو حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کی طرف سے کفالت نہ کروں گا پھر اس کی طرف سے ضمانت کر لی تو حائث ہوگا اور اگر لفظ کفالت سے یہ نیت کی ہو کہ کفالت نہ کروں گا یعنی میں کفیل ہوں یہ نہ کروں گا لیکن ضمانت کروں گا تو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اُس کی تصدیق ہوگی اس واسطے کہ اُس نے اپنے منہ سے جو لفظ نکالا ہے اُس کے حقیقی معنی کی نیت کی ہے لیکن اُس نے ضمانت و کفالت میں فرق کی نیت کی ہے اور یہ خلاف ظاہر ہے پس قضاء اُس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کی طرف سے کفالت نہ کروں گا پس فلاں نے اس حالف پر کسی کو اپنے مال کی جو فلاں کا اس حالف پر آتا ہے اُترائی کر دی یعنی حوالہ (۱) کر دیا تو یہ حائث نہ ہوگا بشرطیکہ محتمل لہ کا محیل پر کچھ قرضہ نہ ہو اور اگر محتمل کا محیل پر قرضہ ہو تو حالف اس حوالہ کے قبول کرنے سے کفیل ہو جائے گا پس حائث ہوگا اور اسی طرح اگر اُس کے واسطے قرضہ مذکور کا ضامن ہو گیا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر محتمل لہ کا محیل پر مال ہو اور محیل کا محتمل علیہ پر کچھ مال نہ ہو (اور یہ ظاہر ہے ۱۲) تو حائث ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں کے واسطے کچھ ضامن نہ ہوگا پھر اُس کے واسطے نفس یا مال کی ضمانت کر لی تو حائث ہوگا اور اسی طرح اگر فلاں کے واسطے کفالت کر لی یا حوالہ قبول کر لیا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر فلاں کے حکم سے اُس کے لیے کوئی چیز خریدی تو یہ ضمانت نہیں ہے اور اگر اُس کے غلام یا وکیل یا مضارب یا شریک مغاوض یا شریک عنان کے واسطے ضمانت کر لی تو حائث نہ ہوگا اور اگر فلاں

۱۔ قول حکم ہو کیونکہ نفس کی کفالت کو ہماری زبان میں حاضر ضامنہ کہتے ہیں ۱۲۔

(۱) قبول کرنے سے ۱۲۔

کے واسطے ضمانت نہ لی مگر دوسرے کے واسطے ضمانت کر لی پھر دوسرا مر گیا اور فلاں مذکور اُس کا وارث ہوا تو قسم کھانے والا حادثہ نہ ہو جائے گا اور اگر قسم کھائی کہ کسی کے واسطے کسی چیز کا ضامن نہ ہوگا پھر ایک شخص کے واسطے ایک دار کے درک کا یا ایک غلام کے درک کا جس کو اُس نے خریدا ہے ضامن ہوا تو حادثہ ہوگا اور اگر کسی غائب کے واسطے ضامن ہوا مگر اُس کی طرف سے کسی نے خطاب نہ کیا یعنی رضامندی اُس کی ضمانت پر اور قبول کا کسی نے جواب نہ دیا تو امام اعظم و امام محمد کے نزدیک حادثہ نہ ہوا اور اس میں امام ابو یوسف نے خلاف کیا ہے اور اگر اس غائب کی طرف سے کسی نے خطاب کیا اور قبول کیا تو بالاتفاق حادثہ ہوگا اور اسی طرح اگر غلام مجبور نے قسم کھائی کہ کسی کی ضمانت نہ کروں گا پھر بدون اجازت اپنے مولیٰ کے ضمانت کی تو حادثہ ہوا یہ ظہیر یہ میں ہے۔

باب: ۹

حج و روزہ میں قسم کھانے کے بیان میں

اگر قسم کھائی کہ حج و نماز نہ کروں گا تو یہ قسم حج صحیح پر ہوگی۔ نہ حج فاسد پر اور اگر قسم کھائی کہ حج نہ کروں گا یا عربی میں کہا کہ لایحجہ حجة پھر اُس نے حج کا احرام باندھا تو حادثہ نہ ہوگا یہاں تک کہ وقوف عرفہ ادا کرے اس کو ابن سماعہ نے امام محمد سے روایت کیا ہے اور بشر نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ حادثہ نہ ہوگا یہاں تک کہ طواف زیارت میں سے زیادہ ادا کر دے یعنی سات پھیروں میں سے تین سے زیادہ پھرے تب حادثہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ عمرہ نہ کروں گا یا لایعتمر عمرہ پھر احرام عمرہ باندھا تو حادثہ نہ ہوگا یہاں تک کہ کم سے کم طواف کے چار پھیرے پھرے اس کو بشر نے امام ابو یوسف سے روایت کیا ہے یہ محیط میں ہے۔ منثقی میں ابن سماعہ کی روایت سے امام محمد سے مروی ہے کہ ایک نے کہا کہ واللہ حج نہ کروں گا یہاں تک کہ عمرہ ادا کروں پھر اُس نے عمرہ و حج کا احرام باندھا اور دونوں کے افعال پورے ادا کیے تو وہ حادثہ نہ ہوگا اس واسطے کہ اُس نے حج سے پہلے عمرہ ادا کر دیا پس قسم میں سچے ہونے کی شرط پائی گئی یہ محیط سرخسی میں ہے۔ ایک نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں نے امسال حج نہ کیا تو تو آزاد ہے پھر اُس شخص نے کہا کہ میں نے حج ادا کیا اور دو گواہوں نے گواہی دی کہ اُس نے امسال کوفہ میں قربانی کی ہے تو گواہی قبول نہ ہوگی اور غلام مذکور آزاد نہ ہوگا یہ تبیین میں ہے۔

اگر اُس نے کہا کہ مجھ پر واجب ہے پیدل جانا طرف مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا طرف مسجد اقصیٰ کے تو اس پر کچھ لازم نہ آئے گا اور اگر اُس نے کہا کہ مجھ پر واجب ہے پیدل جانا طرف بیت اللہ کے حالانکہ اس کی نیت (۱) میں بیت المقدس یا کوئی دوسری مسجد ہے تو اُس پر کچھ لازم نہ آئے گا اور اگر کہا کہ مجھ پر احرام واجب ہے اگر میں نے ایسا فعل کیا پھر اُس نے ایسا فعل کیا کہ وہ حادثہ ہوا تو اس پر حج یا عمرہ واجب ہوگا اور اس پر ائمہ کا اتفاق ہے اور اگر کہا کہ میں احرام باندھوں گا یا میں محرم ہوں یا ہدی بھجوں گا یا پیدل بجانب بیت اللہ جاؤں گا اگر میں نے ایسا کیا تو اس میں تین صورتیں ہیں۔ ایجاب و وعدہ و عدم نیت پس اگر اس کی نیت یہ ہو کہ ایسا فعل کرنے کی صورت میں مجھ پر یہ واجب ہے یا کچھ نیت نہ ہو تو ان دونوں صورتوں میں جو اس نے کہا ہو وہ اس پر واجب ہوگا اور اگر اس کی نیت فقط وعدہ ہے یعنی اگر ایسا کروں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ احرام باندھوں گا مثلاً تو اس پر کچھ لازم نہ ہوگا یہ

۱۔ بنفس قسم ورنہ وعدہ وفا کرنا لازم ۱۲۔ ۲۔ اس سے لازم آیا کہ اس نے حج نہیں کیا ۱۲۔

(۱) لفظ بیت اللہ سے ۱۲۔

فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ نماز نہ پڑھوں گا پھر نماز فاسد پڑھی مثلاً بغیر طہارت کے نماز پڑھی تو استحساناً حائث نہ ہو گا اور اگر اُس نے یہ نیت کی ہو کہ نماز فاسد بھی نہ پڑھوں گا تو دیانۃً و قضاءً دونوں طرح اُس کے قول کی تصدیق (۱) ہوگی اور اگر اُس نے اپنی قسم زمانہ ماضی پر معقود کی بایں طور کہ کہا کہ اگر میں نے نماز پڑھی ہو تو میرا غلام آزاد ہے تو یہ نماز فاسد و جائز و دونوں پر ہوگی اور اگر اُس نے زمانہ ماضی میں خاصۃً صحیح نماز کی نیت کی تو دیانۃً و قضاءً اُس کی نیت کی تصدیق ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ نماز نہ پڑھوں گا پھر کھڑا ہوا اور قرأت کی اور رکوع کیا تو یہاں تک حائث نہ ہوگا اور اگر اُس کے ساتھ سجدہ کیا پھر قطع کی تو حائث ہو گیا یہ ہدایہ میں ہے پھر امام محمد نے یہ نہیں ذکر فرمایا کہ وہ کب حائث ہوگا اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ رکعت میں سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد ہی حائث ہوگا یہ تبیین میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ کوئی ایک نماز نہ پڑھوں گا تو حائث نہ ہوگا یہاں تک کہ دو رکعت پوری پڑھے یہ بدائع میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ میں ایک نماز نہ پڑھوں گا پھر دو رکعتیں پڑھیں اور بقدر تشہد کے بیٹھا پس اگر اُس نے اپنی قسم نفل پر معقود کی ہو تو حائث نہ ہوگا اور اگر اپنی قسم فرض پر معقود کی اور وہ نماز دو رکعت ہے تو بھی یہی حکم ہے اور اگر یہ فرض چار رکعت ہے تو اپنی قسم میں حائث ہوگا اور یہی اظہر و اشہ ہے اور اگر قسم کھائی کہ نماز نہ پڑھوں گا پھر کھڑا ہوا اور رکوع اور سجدہ کیا مگر قرأت نہ کی تو بعض نے کہا ہے کہ حائث نہ ہوگا اور بعض نے کہا کبھی حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ ظہر کی نماز نہ پڑھوں گا تو حائث نہ ہوگا یہاں تک کہ بعد چار رکعت کے تشہد پڑھے اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فجر کی نماز نہ پڑھوں گا تو حائث نہ ہوگا یہاں تک کہ بعد دو رکعت کے تشہد پڑھے اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ نماز مغرب نہ پڑھوں گا تو حائث نہ ہوگا یہاں تک کہ بعد تین رکعتوں کے تشہد پڑھے یہ محیط میں ہے۔

اگر کہا کہ میرا غلام آزاد ہے کہ اگر میں نے ظہر کو امام کے ساتھ پایا پھر امام کو تشہد میں پایا اور اُس کے پیچھے نیت کر کے داخل ہو گیا تو حائث ہو گیا اور قسم کھائی کہ جمعہ کو امام کے ساتھ نہ پڑھوں گا پھر اُس نے ایک رکعت امام کے ساتھ پائی اور وہ پڑھی پھر امام نے سلام پھیرا اور اُس نے اپنی دوسری رکعت پڑھ کر تمام کی تو حائث نہ ہوگا اور اگر اُس نے امام کے ساتھ شروع تکبیر کہی پھر سوج گیا یا اس کو حدیث ہو گیا پس وہ وضو کرنے چلا گیا پھر وضو کر کے آیا اور حال یہ ہے کہ امام سلام پھیر چکا ہے پس اُس نے جہاں سے نماز چھوڑی تھی اسی پر امام کی تبعیت میں بنا کی تو حائث ہوگا اگرچہ ادائے نماز میں مقارنت نہیں پائی گئی اس واسطے کہ لفظ ساتھ سے یہاں حقیقۃً قرآن مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا امام کا تابع و مقتدی ہونا مراد ہوتا ہے اور اگر اُس نے حقیقۃً قرآن کی نیت کہ ہو تو دیانۃً فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اُس کی تصدیق ہوگی اور قضاءً بھی تصدیق ہوگی یہ بدائع میں ہے اور اگر اُس نے اس صورت میں نیت کی ہو کہ بدون مقارنت کے بطور متابعت کے نہ پڑھوں گا تو قضاءً بھی تصدیق نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔ نوازل میں لکھا ہے کہ اگر قسم کھائی کہ سجدہ نہ کروں گا یا قسم کھائی کہ رکوع نہ کروں گا پھر نماز یا غیر نماز میں ایسا کیا تو حائث ہوگا اور فتاویٰ آہو میں لکھا ہے کہ اگر قسم کھائی کہ آج کے روز جماعت سے نہ پڑھوں گا پھر اس نے ایک کے پیچھے اقتدا کی یا ایک کا امام ہو تو حائث ہوگا اگرچہ اُس کا مقتدی طفل ہو یہ تا تاریخانیہ میں ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ کسی کی امامت نہ کروں گا پھر اُس نے تنہا اپنی نماز شروع کی اور نیت کی کہ کسی کی امامت نہ کروں گا پھر چند لوگ آئے اور انہوں نے اُس کے پیچھے اقتدا کی تو قضاءً حائث ہوگا نہ دیانۃً جب کہ وہ رکوع و سجدہ کرے اور اسی طرح اگر

۱۔ شاید یہ قید امام کے مذہب پر حائث ہونے کے لئے معتبر ہے ۱۲۔ ۲۔ اس سے پہلے حائث نہ ہوگا ۱۲۔

(۱) پس صورت مذکورہ میں حائث ہوگا ۱۲۔

حالف نے بروز جمعہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی اور نیت یہ ہے کہ خود جمعہ پڑھتا ہوں تو حالف کا اور ان لوگوں کا جمعہ استحساناً جائز اور حالف قضاء حائث ہوگا نہ دیانتاً اور اگر اُس نے جمعہ کے اور نماز میں نماز شروع کرنے سے پہلے ایسے گواہ کر لیے ہوں کہ میں تنہا اپنے واسطے نماز پڑھتا ہوں اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو دیانتاً و قضاءً دونوں طرح حائث نہ ہوگا اور اگر اس نے نماز شروع کر لی پھر اُس کو حدت ہو اُس نے ایک شخص کو آگے کر دیا تو حائث ہو ایہ خلاصہ میں ہے اور اگر نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں لوگوں کی امامت کی تو حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس کی قسم منصرف بجانب مطلق نماز ہوئی اور وہ قریضہ نافلہ ہے اور جنازے کی نماز مطلق نماز میں نہیں داخل ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کی امامت نہ کروں گا یعنی ایک شخص معین کو کہا پس اُس نے نماز پڑھی اور لوگوں کی امامت کی نیت کی پس فلاں مذکور نے بھی اُس کے پیچھے نماز پڑھی تو حالف مذکور حائث ہو گیا اگرچہ اس کو یہ معلوم نہ ہوا ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

قسم کھائی کہ ضرور آج کے روز یا پنجوں نمازیں باجماعت پڑھوں گا اور اپنی عورت سے جماع کروں گا دن میں اور غسل نہ کروں گا.....:

قسم کھائی کہ فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھوں گا پھر اُس کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو حائث ہوگا اور اگر اُس نے نیت کی کہ حقیقتاً پیچھے کھڑے ہو کر نہ پڑھوں گا تو قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر قسم کھائی کہ واللہ تیرے ساتھ نماز نہ پڑھوں گا پھر دونوں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی تو حائث ہوا آ نکہ اُس نے یہ نیت کی ہو کہ تیرے ساتھ اس طور سے کہ ہم دونوں کے ساتھ تیسرا نہ ہو تو ایسی صورت میں حائث نہ ہوگا یہ وجہ زبردستی میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ ضرور آج کے روز یا پنجوں نمازیں باجماعت پڑھوں گا اور اپنی عورت سے جماع کروں گا دن میں اور غسل نہ کروں گا پس اگر اُس نے یوں کیا کہ فجر و ظہر و عصر جماعت سے پڑھ کر اپنی عورت سے جماع کیا پھر بعد غروب آفتاب کے نہا کر مغرب و عشا کو جماعت سے پڑھ لیا تو حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس کا غسل رات میں واقع ہوا نہ دن میں یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے اور مجمع النوازل میں مذکور ہے کہ ایک نے قسم کھائی کہ میں اس مسجد والوں کے ساتھ نماز نہ پڑھوں گا مادام کہ فلاں زندہ ہے اس میں نماز پڑھتا ہے پھر فلاں مذکور بیمار ہوا کہ تین روز تک اس میں نماز نہ پڑھی یا تندرست تھا اور اس میں تین روز تک نماز نہ پڑھی پس اگر حالف نے ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی تو حائث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھوں گا پھر یہ مسجد بنائی گئی اور حالف نے بڑھے ہوئے مقام پر نماز پڑھی تو حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ بنی فلاں کی مسجد میں نماز نہ پڑھوں گا پھر اس میں جگہ بڑھائی گئی اور اُس نے بڑھی ہوئی جگہ پر نماز پڑھی تو حائث ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ میں نے کسی نماز کو اُس کے وقت سے تاخیر نہیں کیا ہے حالانکہ ایک دفعہ وہ سو گیا تھا یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل گیا پھر اُس کو قضا کیا تو صحیح یہ ہے کہ اگر وقت آنے سے پہلے سویا تھا اور بعد وقت نکل جانے کے چاگا تو حائث نہ ہوگا اور اگر وقت آجانے کے بعد سویا تھا تو حائث ہوگا یہ وجہ زبردستی میں ہے اور ایک نے قسم کھائی کہ نہ سوؤں گا یہاں تک کہ اتنی رکعتیں پڑھ لوں پھر بیٹھے بیٹھے سو گیا تو حائث نہ ہوگا یہ سراجیہ میں ہے اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ اگر تو نے نماز پڑھی تو تو آزاد ہے پس غلام نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی اور مولیٰ نے انکار کیا تو وہ آزاد نہ ہوگا یہ محیط حسنی میں ہے اور ایک نے قسم کھائی کہ نکیر سے وضو نہ کروں گا پھر نکیر پھوٹی پھر اس نے پیشاب کیا پھر وضو کیا یا پیشاب کیا پھر نکیر پھوٹی پھر اس نے وضو کیا تو وضو ان

دونوں سے ہوگا اور وہ اپنی قسم میں حائض ہوگا یہ محیط میں ہے منقہی میں ہے۔

کہ کہا کہ واللہ نہ غسل (۱) کروں گا اپنی اس عورت سے جنابت سے پھر اس عورت سے جماع کیا پھر دوسری عورت سے جماع کیا یا اس کے برعکس واقع ہوا تو قسم میں حائض ہوا اس واسطے کہ اس کی قسم جماع پر واقع ہوئی تھی اور اگر اس نے حقیقتہً غسل ہی کی نیت کی ہو تو بھی اس صورت میں یہی حکم ہے اس واسطے کہ غسل اس عورت سے بھی واقع ہوا یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔ عورت نے اگر قسم کھائی کہ جنابت سے غسل نہ کروں گی یا حیض سے غسل نہ کروں گی پھر اُس کے شوہر نے اس سے جماع کیا اور وہ حائضہ ہوئی پھر اُس نے غسل کیا تو یہ غسل دونوں سے ہوگا اور وہ اپنی قسم میں حائض ہوگی یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کو غسل نہ دوں گا یا فلاں کے سر کو نہ دھوؤں گا پھر بعد موت کے اُس کو غسل دیا تو حائض ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ حرام (۲) سے غسل نہ کروں گا تو نہ جماع پر واقع ہوگی چنانچہ اگر اُس نے اجنبیہ عورت سے بطور حرام جماع کیا اور غسل نہ کیا یا تو حائض ہوگا اور اگر اجنبیہ عورت سے معانقہ کیا کہ اُس کو انزال ہو گیا پس اُس نے غسل کیا تو حائض نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے قال المتر جم یہ عرف پر مبنی ہے فافہم اور اگر قسم کھائی کہ اپنی عورت سے قربت نہ کروں گا پھر چیت لیٹ گیا اور عورت نے اُس پر اپنی حاجت روائی کی تو حد و النوازل میں مذکور ہے کہ وہ حائض ہوگا حتیٰ کہ اگر دونوں اجنبی ہوں تو دونوں پر حد زنا واجب ہوگی اور اس پر فتویٰ ہے ہاں اگر وہ سوتا ہو پس عورت نے ایسا کیا تو حائض نہ ہوگا یہ محیط سرحی میں ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ فلاں عورت سے جماع نہ کروں گا یا اس کا بوسہ نہ لوں گا تو یہ قسم زندگی بھر پر واقع ہوگی نہ موت کے بعد یہ سراجیہ میں ہے اور عربی میں کہا کہ ان باضعتک او جامتک فعبدی حر یعنی اگر میں نے تجھ سے مباضعت کی یا جماعت کی تو میرا غلام آزاد ہے تو یہ قسم فرج میں جماع کرنے پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ ان اتیک یعنی اگر میں تیرے پاس آیا تو یہ جماع پر واقع ہوگی بشرطیکہ اس کی نیت ہو پس اگر اُس نے جماع کی نیت کی تو صحیح ہے اور اگر زیارت کی نیت کی تو صحیح ہے پس اگر اُس نے زیارت کی نیت کی ہو پھر عورت سے وطی کی تو حائض ہوگا بخلاف اس کے اگر جماع کی نیت کی ہو پھر زیارت کی تو حائض نہ ہوگا اور اگر کچھ نیت نہ ہو تو حاکم بن نصیر بن مہر وہ سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ اگر عورت کے پاس اُس کے دیکھنے کو آیا اور اس سے جماع نہ کیا تو حائض نہ ہوگا اور اگر باوجود اس کے جماع بھی کیا تو حائض ہوگا اور اگر کہا کہ ان اصبتک یعنی میں تجھ تک پہنچا تو بدون نیت کے یہ قسم جماع پر واقع نہ ہوگی اور اگر اس کی نیت نہ ہو تو اُس کا حکم اُسی پر ہوگا جیسے حاکم سے منقول ہوا ہے یہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ میں آج کے روز یا ایک روز ایک روزہ نہ رکھوں گا پھر صبح کو روزہ دار اٹھا پھر اس کو توڑ ڈالا تو حائض نہ ہوگا اور اگر کہا کہ لانصوم روزہ نہ رکھوں گا پھر اُس نے ایسا کیا تو حائض ہوگا یہ جامع کبیر میں ہے قال المتر جم ہمارے عرف میں متبادر اس سے یہی ہے کہ تمام دن صائم نہ رہوں گا پس امید ہے کہ تھوڑی دیر صائم رہنے سے حائض ہو واللہ عالم امام محمد نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ واسطے اللہ کے مجھ پر لازم ہے کہ میں اُس روز روزہ رکھوں جس میں کہ فلاں سفر سے آئے پھر فلاں مذکور ایسے روز آیا کہ جس دن یہ شخص کچھ کھا چکا تھا یا بعد روال کے آیا تو حائف پر کچھ واجب نہیں ہے اور اگر یوں قسم کھائی کہ البتہ روزہ رہوں گا میں جس روز کہ فلاں سفر سے آؤں گا پھر فلاں اس کے کھانے اور زوال سے پہلے آیا تھا پس اگر اُس نے اس روز روزہ رکھا تو اس پر

۱ کیونکہ زیارت پائی گئی ۱۲۔

(۱) جماع کروں گا اپنی اس عورت سے ۱۲۔ (۲) جماع نہ کروں گا بطور عرف کے ۱۲۔

کفارہ لازم نہ آئے گا اور اگر اس روز صائم نہ رہا تو کفارہ قسم لازم آئے گا اور در صورت یہ کہ فلاں ایسے وقت آیا کہ یہ کھا چکا تھا تو بہر حال اس پر کفارہ قسم لازم آجائے گا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور اگر کسی روز بعد کھانے کے یا بعد زوال شمس کے کہا کہ واللہ میں آج کے روز روزہ رکھوں گا تو باقی روز کھانے و پینے و جماع کرنے سے باز رہنے سے قسم میں سچا ہو جائے گا اور اسی طرح اگر قسم کو رات کی طرف مضاف کیا اور کہا کہ واللہ اس رات روزہ رکھوں گا تو اس رات محض اسی طور سے باز رہنے سے قسم میں سچا ہو جائے گا یہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

اگر کسی نے قسم کھائی کہ لاصومن حیثا یعنی واللہ تا حین روزہ رکھوں گا پس اگر اُس نے حین سے کسی قدر مدت معلومہ کی نیت کی ہو تو قسم اس کی نیت پر واقع ہوگی اور اگر اس کی کچھ نیت نہ ہو تو چھ مہینے پر واقع ہوگی اور تقدیر مسئلہ یہ ہوگا کہ واللہ چھ مہینہ روزہ رکھوں گا اسی طرح اگر اُس نے لیصوص الحین یعنی میں کو بالف ولام ذکر کیا ہو تو بھی یہی حکم ہے اور اسی طرح اگر یوں کہا کہ ان صمت حیثا فکذا یعنی اگر روزہ رکھا میں نے تا حین تو چنین وچنان یا ان صمت الحین بالف ولام پس اگر کوئی نیت کی ہو تو اس کی نیت پر ہوگی ورنہ چھ مہینہ پر واقع ہوگی پس جب تک چھ مہینے روزے رکھے گا تب تک حائث نہ ہوگا جیسے اس طرح کہنے میں ہوتا ہے کہ اگر میں چھ مہینے روزے رکھوں تو ایسا ہے اور واضح رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انھیں چھ مہینے پر ہو جو متصل قسم ہیں بلکہ جب کبھی چھ مہینے روزے رکھے گا حائث ہوگا اور اگر کہا ان صمت زمانا او الزمان اگر کہا صمت زمانا اور او الزمان اگر روزے رکھے میں نے تا زمانہ پس اگر اُس نے کچھ نیت کی ہو تو اُس کی نیت پر ہوگی اور اگر نیت نہ ہو تو حین اور زمان کا ایک ہی حکم ہے ایسا ہی جامع صغیر میں مذکور ہے کہ حین و زمان کا حکم یکساں ہے اور جامع کبیر میں لکھا ہے کہ اگر اُس نے دو مہینہ یا اس سے زیادہ چھ مہینے تک نیت کی تو قسم اس کی نیت پر ہوگی اور جو جامع کبیر میں ذکر فرمایا ہے وہی صحیح ہے کیوں کہ اہل لغت نے اجماع کی ہے کہ زمانہ دو مہینے سے چھ مہینہ تک ہوتا ہے اور اگر اُس کی کچھ نیت نہ ہو تو قسم چھ مہینے پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ عمر یعنی تا عمر تو یہ مثل حین و زمان کے ہے اس کو قدوری نے ذکر فرمایا ہے یہ محیط میں ہے۔

اگر کہا: ان صمت الابدان صمت الدهر فکذا:

اگر کہا کہ اللہ علی صوم العمر یعنی اللہ کے واسطے مجھ پر عمر بھر کا روزہ واجب ہے اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو ہمیشہ عمر بھر روزہ رکھنے پر قسم ہوگی یہ غایۃ البیان میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ ان صمت الابدان صمت الدهر فکذا یعنی اگر روزہ رکھا میں نے ہمیشہ یا روزہ رکھا میں نے دہر بھر تو ایسا ہے تو اس طرح حائث ہوگا کہ اپنی تمام عمر روزہ رکھے باہن طور کہ کسی روز افطار نہ کرے اور اگر کسی روز افطار کر لیا تو اپنی قسم میں بارہوا اور اگر کسی روز بھی افطار نہ کیا یہاں تک کہ مر گیا تو اپنی حیات کے آخر جزد میں حائث ہوگا پس اگر جزائے قسم مذکور کسی غلام کی آزادی ہو تو اُس کے تہائی مال سے اس کی آزادی معتبر ہوگی اور اگر کہا کہ ان صمت ابداً بدون الف ولام کے تو ایک ساعت کے صوم سے حائث ہوگا یہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے اور اگر کہا کہ ان صمت دہرا فعدی حر۔ پس اگر کسی قدر وقت معلوم کی نیت کی ہو تو قسم اس کی نیت پر واقع ہوگی اور اگر کچھ نیت نہ کی ہو تو امام اعظم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ دہر کیا ہے اور صاحبین کے نزدیک اگر اُس نے اپنی عمر میں چھ مہینہ مجتمع یا متفرق روزے رکھے تو اپنی قسم میں حائث ہوگا اور اگر تا موت اس نے چھ مہینے روزے نہ رکھے ہوں تو حائث نہیں ہو اور اگر اُس نے یوں کہا کہ ان صمت ازمنتہ او دھوراً ادا حیثاً فکذا یعنی اگر میں نے روزے رکھے تا زمانہ پادہر یا حیثاً تو ان میں سے ہر ایک سے تین پر واقع ہوگی

یعنی جملہ اٹھارہ مہینہ پر لیکن روزے میں استیعاب شرط ہے یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔

اگر کہا کہ ان صمت الشہر یعنی اس مہینہ روزہ رکھے تو جب تک پورا مہینہ روزہ نہ رکھے تب تک حادث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ میں نے ایک مہینہ روزے رکھے تو میرا غلام آزاد ہے تو قسم ایک مہینہ روزے پر ہوگی خواہ متفرق رکھے یا پے در پے اور وہی مہینہ متعین نہ ہوگا جو قسم سے متصل ہے پس اگر ایک مہینہ روزے رکھنے سے پہلے مر گیا تو حادث ہو اور اگر کہا کہ ان ترکت الصوم شہراً یعنی اگر میں نے ایک روزہ ترک کیا تو یہ قسم اس مہینہ کی طرف راجع ہوگی جو اُس کی قسم سے متصل ہے اور اگر قبل اس مہینہ کے گزرنے کے اُس نے ایک روز یا ایک ساعت روزہ رکھ لیا تو حادث نہ ہوگا جب تک کہ پورا مہینہ روزہ ترک نہ کرے یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور اگر کہا کہ ان ترکت صوم شہر باضافت یا اس نے یوں کہا کہ ان صمت شہراً یعنی اگر ترک کیا میں نے روزہ ایک ماہ کا یا روزہ رکھا میں نے ایک مہینہ تو یہ قسم اس کے تمام پر واقع ہوگی کہ اپنی تمام عمر میں ایک مہینہ روزہ ترک کرے یا مہینہ بھر روزہ رکھے یا بحر الرائق میں لکھا ہے۔ ایک نے اپنے غلام سے کہا کہ روزہ رکھ میری طرف سے ایک روز اور تو آزاد ہے یا نماز پڑھ میری طرف سے دو رکعت اور تو آزاد ہے تو غلام آزاد ہو گیا خواہ روزہ رکھے یا نہ رکھے نماز پڑھے یا نہ پڑھے اگر کہا کہ حج کر میری طرف سے ایک حج اور تو آزاد ہے تو جب تک اس کی طرف سے حج نہ کرے آزاد نہ ہوگا اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ حج میں نیابت جاری ہوتی ہے اور نماز و روزہ میں نیابت نہیں جاری ہوتی ہے یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں کے پاس افطار نہ کروں گا تو حقیقتاً اُس کے پاس افطار کرنے پر واقع ہوگا:

اگر قسم کھائی کہ روزے ماہ رمضان کے کوفہ میں نہ رکھوں گا تو اُس کی قسم ماہ رمضان کے پورے روزے کوفہ میں رکھنے پر واقع ہوگی چنانچہ اگر اُس نے ایک روزہ کوفہ میں رکھا پھر وہاں سے باہر چلا گیا یا کوفہ میں بیمار پڑا یا کوئی روزہ نہ رکھا تو حادث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ کوفہ میں افطار نہ کروں گا تو اُس کی قسم کوفہ میں بروز فطر اُس کے ہونے پر واقع ہوگی پس اگر بروز فطر کوفہ میں ہوگا تو حادث ہوگا اگر چہ اُس نے کچھ کھایا و پیا نہ ہو یہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے اور کتاب میں یہ مذکور نہیں ہے کہ اگر اُس نے رات سے یوم فطر کے روزے کی نیت کی ہو اور کچھ نہ کھایا پس آیا حادث ہوگا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور صحیح یہ ہے کہ وہ حادث ہوگا اس واسطے کہ ہر گاہ وہ مراد افطار سے دنوں در یوم الفطر تھا اور وہ پایا گیا تو واجب ہے کہ وہ حادث ہو جائے یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے پاس افطار نہ کروں گا تو حقیقتاً اُس کے پاس افطار کرنے پر واقع ہو چنانچہ اگر اُس نے اپنے گھر افطار کر لیا پھر فلاں کے پاس عشا کا کھانا کھایا تو حادث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ رمضان کا چاند کوفہ میں نہ دیکھوں گا تو اُس کی قسم رویت ہلال کے وقت کوفہ میں ہونے پر واقع ہوگی چنانچہ اگر اس وقت کوفہ میں ہو تو حادث ہوگا اگر چہ اُس نے اپنی آنکھ سے چاند نہ دیکھا ہو الا آنکہ وہ مسئلہ افطار و رویت ہلال میں اپنے لفظ کو مطلق رکھے بایں طور کہ افطار نہ کروں گا یا ہلال رمضان نہ دیکھوں گا یعنی بدون اضافت کے تو ایسی صورت میں اُس کی قسم حقیقتاً افطار اور حقیقتاً چاند دیکھنے پر واقع ہوگی اور نیز اگر اُس نے مطلق لفظ نہ ہونے کی صورت میں باوجود اضافت کے اپنی نیت یہ کی ہو کہ کوفہ میں کسی چیز سے کھانے و پینے کی افطار نہ کروں گا حقیقتاً یا کوفہ میں اپنی آنکھ سے چاند نہ دیکھوں گا تو دونوں مسئلوں میں اس کی اس نیت کی تصدیق ہوگی لیکن فرق یہ ہے کہ اگر چاند دیکھنے کے مسئلہ میں اُس نے حقیقتاً آنکھ سے چاند دیکھنے کی نیت کی قضا، دو یا نہ دونوں طرح سے اُس کی نیت کی تصدیق کی جائے گی بخلاف فطر کے کہ اگر اُس نے حقیقتاً افطار کی نیت کی تو دیانہ اُس کی تصدیق کی جائے گی مگر قاضی اُس کی تصدیق (فی بینہ و بین اللہ تعالیٰ ۱۲) نہ کرے گا یہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ کسی عورت سے وطی حرام نہ کروں گا پھر اپنی عورت کے ساتھ حالت حیض میں یا ایسی حالت میں کہ اس سے ظہار کیا تھا وطی کر لی تو حائض نہ ہوگا:

اگر وہ چاند نکلنے کے وقت کوفہ میں تھا لیکن اُس کو معلوم نہ تھا پس آیا حائض ہوگا یا نہ ہوگا تو بعض نے کہا ہاں بعض نے کہا نہیں۔ اگر کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے امسال کوفہ میں قربانی کی پھر دسویں ذی الحجہ کو وہ کوفہ میں تھا مگر اُس نے قربانی نہیں کی تو حائض نہ ہوگا اور اگر اُس کی یہ نیت ہو کہ اس وقت یعنی بروز قربانی کوفہ میں موجود ہو تو میرا غلام آزاد ہے تو قسم اُس کی نیت پر ہو گی یہ شرح جامع کبیر حیسری میں ہے عورت نے اپنے شوہر کو لونڈے بازی کی ملامت کی پس شوہر نے قسم کھائی کہ لایاتسی حرام یعنی حرام نہ کروں گا تو بوسہ لینے و چھونے سے اگر چہ بشہوت وہ حائض نہ ہوگا اور فرج کے سوائے دوسری جگہ جماع کرنے سے حائض ہو گا اور اگر لونڈوں یا عورت سے لواطت کی تو فتویٰ اس پر ہے کہ وہ حائض ہوگا۔ ایک نے قسم کھائی کہ زنا نہ کروں گا پھر لواطت کی تو حائض ہوگا یہ وجہز کردری میں ہے۔ ایمان القدوری میں لکھا ہے کہ اگر قسم کھائی کہ کسی عورت سے وطی حرام نہ کروں گا پھر اپنی عورت کے ساتھ حالت حیض میں یا ایسی حالت میں کہ اس سے ظہار کیا تھا وطی کر لی تو حائض نہ ہوگا الا آنکہ اُس نے اس کی نیت کی ہو اور اگر عورت نے قسم کھائی کہ واللہ کہ حرام نہ کروں (۱) اور مراد یہ لی کہ میں نے زنا کو حرام نہیں کیا ہے بلکہ زنا کو حرام کرنے والا وہی اللہ عزوجل ہے کہ اُس نے زنا کو حرام کر دیا ہے حالانکہ عورت مذکور نے زنا کیا ہے تو وہ حائض نہ ہوگی اور اگر کوئی مرد ایسی قسم کھانے والا ہو اور اُس نے اللہ تعالیٰ کی ایسی قسم کھائی تو اس میں بھی یہی حکم ہے اور اگر اُس نے طلاق یا عتاق کے ساتھ ایسی قسم کھائی تو دیا جائے اُس کی تصدیق ہوگی مگر قسم کھائی کہ مرتکب حرام نہ ہوں گا تو یہ قسم زنا پر ہوگی اور اگر قسم کھانے والا خصی یا محبوب ہو یہ قسم حرام بوسہ یا اس کے مثل پر ہوگی یہ ظہیر یہ میں ہے۔

باب: ۱۰

کپڑے پہننے، پوشش و زیور وغیرہ کی قسم کھانے کے بیان میں

اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں نے تیرے کاتے سوت سے پہنا تو وہ بدی ہے پھر عورت نے اس مرد کی مملو کہ روئی سے جو وقت قسم کے اس کی ملک تھی سوت کا تا جس کا کپڑا وغیرہ اُس نے پہنا تو یہ بالاتفاق ہدی ہوگا اور اگر اس مرد کی ملک روئی یا کتان نہ ہو یا ہو مگر عورت نے اُس سے نہ کاتا بلکہ ایسی روئی سے کاتا جس کو مرد مذکور نے بعد قسم کے خریدا ہے تو امام اعظم کے نزدیک وہ ہدی ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے اور ہدی کے معنی یہ ہیں کہ وہ مکہ میں صدقہ کر دیا جائے یہ ہدایہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ غزل فلاں (کاتا) سے نہ پہنوں گا اور اُس کی کچھ نیت نہیں ہے پھر ایک کپڑا پہنا جو فلاں مذکور کے کاتے سوت سے بنا گیا ہے تو اپنی قسم میں حائض نہ ہوگا اور اگر اس نے عین سوت کی نیت کی ہو تو کپڑا لینے سے حائض نہ ہوگا اور در صورت یہ کہ کچھ نیت نہیں ہے اگر خالی سوت پہن لیا تو حائض نہ ہوگا الا آنکہ اُس نے نیت کی ہو یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ غزل فلاں سے کوئی کپڑا نہ پہنوں گا پھر ایسا کپڑا پہنا جو فلاں مذکورہ اور دوسری عورت کے سوت سے بنا گیا ہے تو حائض نہ ہوگا اگر چہ دوسری عورت کا سوت اس میں سواں حصہ ہو خواہ ان

۱۔ لونڈے بازی کی یا عورت کی ذہر میں وطی کی ۱۲۔

(۱) واللہ کہ میں نے حرام نہیں کیا ۱۲۔

دونوں کا سوت مخلط ہو یا ہر ایک کا سوت الگ الگ ایک طرف ہو اور یہ ایسا ہے جیسے قسم کھائی کہ فلاں کا کپڑا نہ پہنوں گا پھر ایسا کپڑا پہنا جو فلاں مذکور دوسرے کے درمیان مشترک ہے تو حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے بٹے ہوئے سے نہ پہنوں گا پھر ایسا کپڑا پہنا جس کو فلاں نے کسی دوسرے کے ساتھ بنا ہے تو حائث ہوگا اور اگر کہا کہ کپڑا فلاں کی بنائی کا نہ پہنوں گا پھر ایسا کپڑا پہنا جس کو فلاں نے دوسرے کے ساتھ بنا ہے پس اگر ایسا کپڑا ہو کہ اس کو ایک ہی بنتا ہے مگر اس کو دو نے بنا تو حائث نہ ہوگا اور اگر ایسا ہے کہ اس کو دو ہی بنتے ہیں تو حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ غزل فلاں سے نہ پہنوں گا پھر فلاں کے سوت کا کپڑا پہنا اور اس میں دوسری عورت کا کا تا ہو سوت ملا ہوا ہے تو حائث ہوگا اگر چہ فلاں کا سوت کا تا ہو اس میں مثلاً ایک ہی تار ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ نسج فلاں سے کوئی کپڑا نہ پہنوں گا پھر اس کے غلاموں کی بنائی کا کپڑا پہنا پس اگر فلاں مذکور اپنے ہاتھ سے بننے کا کام کرتا ہو تو حائث نہ ہوگا اور اگر نہ کرتا ہو تو حائث ہوگا یہ ایضاً میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ کوئی کپڑا غزل فلاں سے نہ پہنوں گا پھر ایک کپڑا جو فلاں کے سوت و روئی سے بنا ہو جو وقت قسم کے اس کی ملک میں تھی پہنا تو حائث ہوگا اور اسی طرح اگر اس وقت اس کی ملک میں نہ تھی جس کا کپڑا پہنا تو امام اعظمؒ کے نزدیک حائث ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ غزل فلاں سے نہ پہنوں گا پھر ایسا کپڑا پہنا جو فلاں کے سوت کا تے ہوئے سے سیا گیا ہے تو حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر ایسا کپڑا پہنا جس میں فلاں کے سوت کا سلکہ ہے تو بھی حائث نہ ہوگا اور اگر اس کے سوت کا ازار بند ہو تو امام ابو یوسفؒ کے قول میں حائث ہوگا اور امام محمدؒ کے قول میں حائث نہ ہوگا اور اسی پر فتویٰ ہے اور اگر تکمہ یا گھنڈی اس کے سوت سے ہو تو پہننے کی قسم میں حائث نہ ہوگا اور اگر لینہ اس کے سوت کا ہو تو حائث نہ ہوگا اور یہی حکم زلق کا بھی بعض کے نزدیک ہے اور نیز رقعہ کا جس کو فارسی میں سیماں تپین کہتے ہیں بعض کے نزدیک یہی حکم ہے جبکہ اس عورت کے سوت سے ہو اور امام محمدؒ سے مروی ہے کہ حائث ہوگا اور جب کہ رقعہ میں حائث ہوگا تو لینہ (۱) و زلق میں بھی حائث ہوگا اور یہی حکم اس رقعہ کا ہوگا جو جیب پر ہوتا ہے اور اگر اس نے ایک پارہ اس کے سوت سے بقدر دو باشت کے لے کر اپنی ستر عورت پر رکھا تو حائث نہ ہوگا اور اگر اس عورت کے سوت سے بنی ہوئی ٹوپی یا شبکہ جس کو فارسی میں کلوت کہتے ہیں پہنی تو حائث ہوگا اور یہی حکم جو رب کا ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر عورت نے قسم کھائی کہ کپڑا نہ پہنوں گی پھر اس نے خمار یا مقنعہ پہنا تو حائث نہ ہو:

اگر قسم کھائی کہ غزل فلاں سے بنا ہوا کوئی کپڑا نہ پہنوں گا پھر اس میں سے تھوڑا قطع کیا پھر اس کو پہنا پس اگر یہ اس قدر ہو کہ ازار یا چادر کے برابر ہو تو حائث ہوگا ورنہ نہیں اور اس کو قطع کر کے سراویل بنا کر پہنا تو حائث ہوگا اور اسی طرح اگر عورت نے قسم کھائی کہ کپڑا نہ پہنوں گی پھر اس نے خمار یا مقنعہ پہنا تو حائث نہ ہوگی جب کہ یہ بقدر ازار کے نہ پہنچتا ہو اور اگر اس قدر ہوتا ہو تو حائث ہوگی اگر چہ اس سے ستر عورت نہ ہو سکتا ہو اور اسی طرح اگر حالف نے عمامہ پہنا تو حائث نہ ہوگا الا آنکہ اس کے چچ لپٹے کہ ہو قدر ازار یا ردا کے ہو جائے یا اس قدر ہو جائے کہ اس سے قمیص یا سراویل قطع کیا جاسکتا ہے تو حائث ہوگا یہ ایضاً میں ہے اور اگر اس نے کپڑا نہیں کہا تھا پھر عورت مذکورہ کے سوت سے عمامہ باندھا تو حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں عورت کے سوت

۱۔ کہا میرے نزدیک حق یہ ہے کہ اگر وہ اس پیشہ کو نہ کرتا ہو اور حالف کو بھی یہ حال معلوم ہو تب تو حائث ہوگا ورنہ نہیں ۱۲۔

۲۔ لینۃ القمیص: خشک جامہ و زلق القمیص زہ پیرا بن ۱۲۔

(۱) گھنڈیاں و گریبان کا تکمہ ۱۲۔

سے نہ پہنوں گا پھر کپڑا ناف کے نیچے تک پہنچایا اور ہنوز اپنے دونوں ہاتھ آستینوں میں داخل نہ کیے اور اس کے پاؤں ہنوز اس کے لفافہ کے نیچے ہیں تو حادث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ پانچامہ یا موزے نہ پہنوں گا پھر اپنی ایک ٹانگ سرادیل میں داخل کی یا ایک پاؤں موزے میں داخل کیا تو حادث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ یہ کپڑا نہ پہنوں گا پھر سوتے میں اُس کے اوپر ڈال دیا گیا اور سوتے ہی میں اُس کے اوپر سے اتار لیا گیا تو فقیہ بلخی نے فرمایا کہ وہ حادث نہ ہوگا اور فقیہ ابوالیث نے فرمایا کہ یہ قیاس ہے اور ہم اسی کو لیتے ہیں اور اگر سوتے میں اُس کے اوپر ڈال دیا گیا پھر جب وہ سوتے سے ہوشیار ہوا تو اُس نے اتار پھینکا تو بھی حادث نہ ہوگا اور اگر چھوڑ دیا کہ وہ اس کے اوپر پڑا ہا تو حادث ہوگا اور اگر نیند سے ہوشیاری کے بعد اُس کے اوپر ڈال دیا گیا تو حادث ہوگا خواہ وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو ایسا ہی شیخ ابونصر نے فرمایا ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر بعینہ کسی کپڑے کی نہ پہننے کی قسم کھائی پھر اس میں سے نصف سے زائد پہنا تو حادث ہوگا:

اگر قسم کھائی کہ غزل فلانہ سے کوئی کپڑا نہ پہنوں گا پھر فلانہ مذکورہ اور دوسری عورت دونوں کے سوت سے ایک کپڑا بنا گیا لیکن دوسری عورت کا سوت اس تھان کے اول میں ہے یا آخر میں ہے پس اسی مقام سے اُس کا سوت کاٹ کر الگ کر دیا گیا یعنی کپڑا الگ ہو گیا پھر اُس نے باقی کپڑا جو خالص فلانہ کے سوت کا ہے پہنا پس اگر وہ اس قدر ہو کہ مقدر زار یا چادر کو پہنچتا ہو تو حادث ہوگا اور اگر اس قدر نہ پہنچتا ہو تو حادث نہ ہوگا اور اگر اس کی سرادیل قطع کر کے پہنی تو حادث ہوگا اور اگر یہی کپڑا قبل اس کے کہ اس میں سے دوسری عورت کا کپڑا قطع کر دیا جائے پہنا تو حادث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلانہ کے غزل کا کپڑا نہ پہنوں گا پھر اس عورت کے غزل سے بنی ہوئی کپڑی اوڑھی تو حادث ہوگا اگرچہ صوف کی ہے یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ کپڑا نہ پہنوں گا تو اُس کی قسم ہر ایسے کپڑے پر واقع ہوگی کہ ستر عورت کو چھپاتا ہے اور اس سے نماز جائز ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر ٹاٹ یا بساط یا طنفسہ اوڑھ لیا تو حادث نہ ہوگا اور اگر کساء خریا طیلسان اوڑھی تو حادث ہوگا اس واسطے یہ بھی ان میں سے ہے کہ پہنی جاتی ہیں اور اسی طرح اگر پوسٹین پہنی تو بھی حادث ہوگا اور اگر ٹوپی اوڑھی تو حادث نہ ہوگا کدانی محیط اور یہی حکم کھال نہ بوریا و موزے و جورب کا ہے یہ تار خانہ میں ہے اور اگر بعینہ کسی کپڑے کی نہ پہننے کی قسم کھائی پھر اس میں سے نصف سے زائد پہنا تو حادث ہوا یہ مبسوط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ سرادیل نہ پہنوں گا پھر کسی دراز قد آدمی کا لباس پہنا جو اس پر سرادیل ہو گیا اور یہ کپڑا سرادیل کی تراش پر ہے تو حادث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ ثیاب نہ پہنوں گا پھر سرادیل پشت قد آدمی کی پہنی جو اس پر ثیاب ہو گئی تو حادث نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ جو کپڑا ستر عورت کے لائق نہیں ہوتا ہے وہ ثوب نہیں کہلاتا ہے یہ تار خانہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ قمیص نہ پہنوں گا پھر بے آستینوں کی قمیص پہنی اور وقت قسم کے اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو حادث ہوگا یہ محیط میں ہے تلسقط میں لکھا ہے کہ اگر قسم کھائی کہ نہ پہنوں گا پھر زبردستی وہ پہنایا گیا تو حادث نہ ہوگا اور اگر اس کے اتارنے پر قادر ہوا مگر نہ اتارا تو حادث ہوگا یہ تار خانہ میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ قمیص نہ پہنوں گا تو قسم اس طور پر واقع ہوگی جیسے عادت کے موافق پہنتا ہے اور گریباں سے سر نکلنے کے بعد اکثر کا اعتبار کیا جائے گا یہ عتابیہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ نہ پہنوں گا سرادیل یا قمیص یا چادر پھر اس نے سرادیل یا قمیص یا چادر کی لنگی باندھی تو حادث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر ان میں سے کسی چیز کا عمامہ باندھا تو بھی حادث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ یہ قمیص یا یہ

۱۔ کیونکہ اعتبار اختیاری صورت میں ہے جو خود اس کا فعل ہو اور یہاں دوسرے کی جانب سے فعل پایا گیا ۱۲۔ ۲۔ جو قمیص پہننے کا طریقہ ہے نہ مثلاً اس کی لنگی باندھ لینا قولہ گریبان سے آہ یعنی اگر گریبان میں سر ڈالا پس اگر اکثر حصہ قمیص پہن لیا تو حادث ہو اور اگر قبل اس کے اتار دی تو حادث نہ ہوا ۱۲۔

سراویل یا یہ چادر نہ پہنوں گا تو چاہے جس طور سے پہنے حائث ہوگا اگر چہ چادر کی لنگی باندھی یا قمیص کو چادر بنایا یا غسل کرنے میں قمیص کو سر سے باندھا اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ یہ عمامہ نہ پہنوں گا پھر اس کو اپنے کندھے پر ڈالا تو بھی حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ دو قمیص نہ پہنوں گا پھر ایک قمیص پہن کر اتار ڈالی پھر دوسری پہنی تو حائث نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ دونوں کو ساتھ ہی پہنے اور اگر کہا کہ واللہ ان دونوں قمیصوں کو نہ پہنوں گا پھر ایک کو پہن کر اتار کر دوسری پہنی تو حائث ہوگا اس واسطے کہ اس صورت میں قسم اس کے عین پر واقع ہوئی پس اس میں اعتبار اسم کا کیا گیا نہ موافق عادت کے پہنے کا یہ بدائع میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کو نہ پہناؤں گا پھر اس کو کوئی کپڑا عاریت دیا یا اس کی موت کے بعد اس کو کفن دیا تو حائث نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ پہنانے سے اس نے ستر پوشی کی نیت کی ہو نہ مالک کر دینے کی قسم کھائی کہ یہ کپڑا نہ پہنوں گا یہاں تک کہ مجھ کو فلاں اجازت دے پھر فلاں مر گیا تو قسم ساقط ہوگئی اور اگر کہا کہ الا آنکہ فلاں مجھ کو اجازت دے پھر فلاں نے اس کو ایک مرتبہ اجازت دے دی تو یہ قسم منقذی ہوگئی یہ سراجیہ میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ اپنی بیوی کے غزل سے نہ پہنوں گا پھر ایسی قبا پہنی جس کا ابرہ اس کی بیوی کے غزل کا ہے اور اسے دوسری عورت کے کاتے سوت کا ہے تو حائث ہوا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کو کپڑا نہ پہناؤں گا پھر فلاں کو درہم دیے اور اس نے کپڑا خرید کر پہن لیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر اس کو پہننے کا کپڑا بھیجا تو حائث ہوگا اور اگر یہ نیت کی ہو کہ اپنے ہاتھ سے نہ دوں گا تو حائث نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ خزن نہ پہنوں گا پھر خالص خزن کا کپڑا پہنایا ایسا کپڑا کہ اس کا تار ابریشم یا روئی کا تھا اور پود خزن کا تھا تو حائث ہوگا:

امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ ایک نے قسم کھائی کہ سیاہ نہ پہنوں گا تو یہ قسم خالص کپڑوں شیب پر واقع ہوگی اور اگر اس نے سیاہ ٹوپی یا موزے یا جوتے پہنے یا پوتین سیاہ پہنی تو حائث نہ ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر کہا کہ سیاہ سے کچھ نہ پہنوں گا تو ٹوپی سیاہ موزے سیاہ وغیرہ سیاہ پوتین وغیرہ سے حائث ہوگا یہ خزانۃ المنصفین میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ حریر نہ پہنوں گا پھر مضممن پہنا تو بانے کا اعتبار ہے نہ تانے کا۔ اگر قسم کھائی کہ روئی نہ پہنوں گا تو روئی کا کپڑا پہننے سے حائث ہوگا اور اگر قبا پہنی جس کا بانا سوت روئی کا نہیں ہے اور اندر روئی بھری ہے تو حائث ہوگا الا آنکہ اس کی نیت ہو کذا ای الا ایضاح قال المترجم ہمارے نزدیک عین روئی پر واقع ہونا اور روئی کی بھری ہوئی قبا پہننے سے حائث ہونا اظہر ہی واللہ اعلم اور اگر قسم کھائی کہ ابریشم نہ پہنوں گا پھر ایسا کپڑا پہنا کہ اس کا بانا خزن ہے اور تانا ابریشم ہے تو حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ کتان کا کپڑا نہ پہنوں گا پھر کتان و روئی کا ملا ہوا کپڑا پہنا تو حائث نہ ہوگا خواہ کتان کا تانا ہو یا بانا ہو اور اگر قسم کھائی کہ ابریشم کا کپڑا نہ پہنوں گا پھر روئی اور ابریشم کا پہن پس اگر ابریشم پود ہو یعنی بانا تو حائث ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ خزن نہ پہنوں گا پھر خالص خزن کا کپڑا پہنایا ایسا کپڑا کہ اس کا تار ابریشم یا روئی کا تھا اور پود خزن کا تھا تو حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ خزن کا کپڑا جس کا سوت فلاں عورت کا کا تا ہونہ پہنوں گا پھر ایسا پہنا جس کا تانا ابریشم کا اور پود خزن کا فلاں مذکور کا کا تا ہوا تھا تو حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ طیلسان صوف نہ پہنوں گا پھر ایسی طیلسان اوڑھی جس کا لحم یعنی بانا صوف کا اور تانا ابریشم یا روئی کا تھا اور اپنی قسم میں حائث نہ ہوگا اور طیلسان^۲ مشابہ اور کپڑوں کے نہیں ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

منتقلی میں بروایت ہشام کے امام محمد سے مروی ہے کہ اگر قسم کھائی کہ اس کپڑے کی دو قمیص قطع کراؤں گا پھر اس کی ایک ہی قمیص قطع کرائی اور سلائی پھر ادھیڑ کر دوبارہ سلائی تو فرمایا کہ حانث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ دو قمیص سلاؤں گا تو اس صورت میں حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اس سے دو قمیص قطع کراؤں گا پھر ایک ہی قطع کرا کر سلائی پھر ادھیڑ کر اس کی دوسری تراش کی قمیص کرائی تو فرمایا کہ حانث نہ ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر ایک قمیص پر قسم کھائی کہ اس سے قبا و سراویل قطع کراؤں گا پھر اس سے قبا قطع کرائی اور اس کو پہنایا نہ پہنا پھر اس کی قبا کی سراویل قطع کرائی تو وہ اپنی قسم میں اسی وقت حانث ہو گیا جب اس نے فقط قمیص ہی قطع کرائی تھی اور زیادات میں لکھا ہے کہ قسم کھائی کہ میرا نام آزاد ہے اگر میں نے اس کپڑے کی قبا سراویل نہ بنائی اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے پھر اس سب کی فقط قبا ہی بنا کر سلائی پھر قبا کو نقص کر کے اس کی سراویل سلائی تو حانث نہ ہوگا الا آنکہ اس کی سراویل ہو کہ یہ جیسا موجود ہے اس میں سے بعض کی قبا بعض کی سراویل بناؤں گا تو حانث ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس قمیص کو نہ پہنوں گا پھر اس کو ادھیڑ کر دوبارہ قمیص سلوا کر پہنی تو قدوری نے ذکر کیا کہ حانث ہوگا اور ایسا ہی نوادر میں مذکور ہے اور یہی قبا وجبہ کا حکم ہے اس واسطے کہ سلائی ادھیڑ دینے سے قبا وجبہ کا نام نہیں بنتا ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ ادھیڑی ہوئی قمیص ہے اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ اس کشتی پر سوار نہ ہوں گا پھر وہ توڑ دی گئی اور تختے الگ کر دیے گئے پھر ان تختوں سے کشتی بنائی گئی اور اس میں وہ سوار ہوا تو نوادر میں مذکور ہے کہ وہ حانث ہوگا اور جامع میں مذکور ہے کہ حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ یعنی وہی قبا و قمیص و کشتی نہ ہو جائے گی الا نسی ساخت سے۔ اور اگر قسم کھائی کہ یہ جبہ نہ پہنوں گا اور اس میں حشو^۱ بھرا ہوا ہے پھر اس نے یہ حشو نکلا اور اس میں دوسرا حشو بھرایا اور اس کو پہنا تو حانث ہوگا اور اسی طرح اگر جبہ استردار ہے پس اس نے استر نکلا ڈالا استر لگایا پھر پہنا تو حانث ہوگا اس واسطے کہ حشو و استر دور کرنے اور بدلنے سے جبہ کا نام نہ مٹے گا اور اگر قسم کھائی کہ اس بچھونے پر نہ سوؤں گا پھر اس میں جو بھرا تھا وہ نکال ڈالا اور پھر اس پر سویا تو مشائخ نے فرمایا کہ وہ حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ جس فراش پر سویا جاتا ہے وہ بدوں حشو کے نہیں ہوتا ہی قال المترجم ہذانی عرفہم و امانی عرفنا یكون حانثاً۔

اگر معین شقہ خنز پر قسم کھائی کہ اس کو نہ پہنوں گا پھر وہ نوچ دی گئی اور کاٹی گئی اور دوسرا شقہ کر دی گئی پھر اس کو پہنا تو حانث نہ ہوگا:

اگر اس کا بھراؤں گا کہ خواہ صوف ہو یا روئی وغیرہ اس بھراؤ پر سویا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ خالی بھراؤ کو فراش نہیں کہتے ہیں یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے ایک عورت نے قسم کھائی کہ یہ مقنعہ نہ پہنوں گی پھر اس سے غازیوں کا نشان بنایا گیا پھر نشان سے الگ کر کے اسی عورت کو واپس دیا گیا پھر اس نے اس سے مقنعہ بنایا تو وہ حانث ہوگی یہ خزائنہ المفتنین میں ہے جامع میں مذکور ہے کہ اگر عورت نے قسم کھائی کہ یہ ملحقہ نہ پہنوں گی پھر اس کے دونوں جانب سی دیے گئے اور درع کر دی گئی اور اس کے گریبان اور آستینیں کر دی گئیں پھر اس کو عورت نے پہنا تو حانث نہ ہوگی اور اگر اس کی دونوں جانب جو ملا کر سی گئی تھی سیوں توڑ دی گئی اور ہر دو آستینیں اور گریبان اس سے نکال ڈالا گیا پھر اس نے اس کو پہنا تو حانث ہوگی اس واسطے کہ اہم ملحقہ کسی دوسرے سبب جدید سے نہیں بلکہ اول ہی سے قائم بعین تھا پھر عود کر آیا اور یہ بخلاف اس کے ہی کہ ملحقہ قطع کر کے اس کی قمیص سلائی گئی پھر سلائی اور ترکیب

۱ حشو بھرت وغیرہ جو برہ و استر کے درمیان ہوتا ہے ۱۲۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ اہل عرب کی اصطلاح کے اعتبار سے ہے لیکن ہمارے ملک کی اصطلاح میں وہ حانث ہو جائے گا ۱۲۔

وغیرہ تو زدی گئی اور کلڑے اس طرح جو زدے گئے کہ پھر وہ ملحد ہو گئی اور اس کو عورت نے پہنا تو حادث نہ ہوگی قدوری میں ہے کہ اگر معین ایک شتہ خنز پر قسم کھائی کہ اس کو نہ پہنوں گا پھر وہ نوج دی گئی اور کافی گئی اور دوسرا شتہ کر دی گئی پھر اس کو پہنا تو حادث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اس بساط پر نہ بیٹھوں گا پھر اس کی دونوں جانب ملا کر سلانی گئی اور خرچ بنائے گئے پھر اس پر بیٹھا تو حادث نہ ہوگا پھر اگر سیون توڑ کر بساط کر دیا گیا تو اس پر بیٹھنے سے حادث ہوگا اگر بیچ سے قطع کر کے دو خرچ کر دیے گئے پھر ان کی سیون توڑ کر جہاں قطع کیا گیا اور بساط کر دیا گیا اور اس پر بیٹھا تو حادث نہ ہوگا اگر چہ اسم بساط اس پر بولا جاتا ہے اور اس نام نے عود کیا ہے اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ ہر دو خرچ ایسے ہوں کہ اگر دونوں الگ کر دیے جائیں تو ہر ایک کو تنہا بساط نہ کر سکتے ہوں اور اگر ہر ایک ان میں سے بساط کہا جاسکتا ہو تو جب دونوں کو ادھیڑ کر ایک کو دوسرے میں سی دیا اور اس پر بیٹھا تو حادث ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ زمین پر نہ بیٹھوں گا تو جب ہی حادث ہوگا کہ خالی زمین پر بیٹھے کہ اس کے اور زمین کے درمیان سوائے اس کے کپڑوں کے کچھ نہ ہو اور اگر اس کے اور زمین کے درمیان چٹائی یا بوریا یا کرسی یا فرش وغیرہ ہوگا تو حادث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اس چٹائی یا اس بچھونے یا اس فرش پر نہ بیٹھوں گا پھر اس کے اوپر اس کے مثل دوسرا بچھایا گیا اور اس پر بیٹھا تو حادث نہ ہوگا۔ یہ بدائع میں ہے۔ اور اگر قسم کھائی کہ اس بچھونے پر نہ سوؤں گا پھر اس کے اوپر اس کے مثل دوسرا بچھایا گیا اور اس پر سو یا تو حادث ہوگا یہ بحر الرائق میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس بچھونے پر نہ سوؤں گا پھر اس پر چادر پلنگ پوش بچھا دیا گیا تو سونے سے حادث ہوگا اور یہ بالا جماع ہے۔

اگر کسی نے قسم کھائی کہ زیور نہ پہنوں گا پھر سونے کی انگوٹھی پہنی تو حادث ہوگا:

اگر قسم کھائی کہ اس تخت پر یا اس دکان پر نہ بیٹھوں گا یا اس چھت پر نہ سوؤں گا پھر اس کے اوپر ایک مصلے یا بچھونا یا فرش بچھا دیا گیا پھر اس پر بیٹھا تو حادث ہوگا اور تخت پر دوسرا تخت بچھا دیا گیا یا دکان پر دوسری دکان یا چھت پر دوسری چھت بنا دی گئی اور اس پر بیٹھا تو حادث نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ زیور نہ پہنوں گا پھر سونے کی انگوٹھی پہنی تو حادث ہوگا اور اگر موتی کی لڑی غیر مرصع پہنی تو صاحبین کے نزدیک حادث ہوگا اور امام اعظم کے نزدیک حادث نہ ہوگا اور اگر وہ مرصع ہو تو بالا اتفاق حادث ہوگا اور زبرد و مرد کی لڑی غیر مرصع میں بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور صاحبین کا قول ہمارے عرف دیار سے اقرب ہے پس صاحبین ہی کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا اس واسطے کہ بدوں مرصع کرنے کے اس نے زیور پہنا ہمارے دیار میں عادت ہے اور اگر فلحال یا بلوچ یا کنکن پہنے تو حادث ہوگا خواہ سونے کی ہوں یا چاندی کے یہ کافی میں ہے اور اگر عورت نے قسم کھائی کہ زیور نہ پہنوں گی پھر چاندی کی انگوٹھی پہنی تو حادث نہ ہوگی اور یہ ظاہر الروایہ ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ یہ حکم جب ہے کہ انگوٹھی مردوں کی انگوٹھیوں کی ساخت پر بنی ہوئی ہو اور اگر عورتوں کی انگوٹھیوں کی ساخت پر ہو کہ اس کا گنہ ہو تو حادث ہوگی اور یہی اسح ہے یہ محیط میں ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ زیور نہ پہنوں گا پھر اس نے تلوار محلی یا مفضض پڑکا باندھا تو حادث نہ ہوگا:

بادشاہوں کا تاج زیور نہیں ہے اور عورتوں کا تاج زیور ہے اور کنکن اور کنٹھا زیور ہے یہ ترم تاشی میں ہے۔ عورت نے قسم کھائی کہ مکعب نہ پہنوں گی پھر اس نے لالک پہنا تو کہا گیا ہے کہ اگر لالک کو عرف و عادت میں مکعب بولتے ہیں تو حادث ہونا اس کے ذمہ لازم ہوگا ورنہ نہیں یہ محیط میں ہے اور ایک نے قسم کھائی کہ زیور نہ پہنوں گا پھر اس نے تلوار محلی یا مفضض پڑکا باندھا تو حادث نہ ہوگا اور یہ قسم عورتوں کے زیور پر ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ درع نہ پہنوں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے

پھر اس نے لوہے کی درع یا عورت کی درع پہنی تو حادث ہوگا اور اگر اس نے ان دونوں میں سے ایک کی نیت کی ہو تو دوسری سے حادث نہ ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ ہتھیار نہ پہنوں گا پھر تلوار لٹکانی یا بازو پر کمان یا ڈھال لٹکانی تو حادث نہ ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ اگر فارسی میں قسم کھائی کہ سلاح نہ پوشم تو ان چیزوں سے حادث ہوگا پس اگر لوہے کی زرہ پہنی تو حادث ہوگا یہ محیط میں ہے۔ لباس میں اصل یہ ہے کہ ثوب کا لفظ ازار سے کم کو شامل نہیں ہے و سلاح کا لفظ زرہ و تلوار و کمان کو شامل ہے نہ چھری اور بے بنے ہوئے لوہے کو یہ عتابیہ میں ہے واللہ تعالیٰ اعلم مترجم کہتا ہے کہ اس فصل میں اس زبان اردو کی رعایت سے بہت بڑا اختلاف ہوگا یہ سب عربی زبان کے موافق قسم کھانے میں حکم ہے جو اوپر مذکور ہوا ہے ہاں اکثر مقام پر ہماری زبان کے بھی موافق ہو گا اور اس کا اصل حکم اس ضعیف کے جزو و مفرد در باب قسم سے واضح ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ ہو حسبی و نعم الوکیل و ہنہ الاستعمانۃ و التوفیق۔

باب: ۱۱

ضرب و قتل وغیرہ کی قسم کے بیان میں

قال المترجم ضرب جان سے مار ڈالنے سے کم جس کو مارنا کہتے ہیں اور قتل مار ڈالنا حافظ۔ اگر قسم کھائی کہ فلاں مرد کو نہ ماروں گا پھر اس کے مر جانے کے بعد اس کو مارا تو حادث نہ ہوگا یہ شرح طحاوی میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ اپنے غلام کو نہ ماروں گا پھر دوسرے کو حکم کیا کہ اس نے اس غلام کو مارا تو حادث ہوگا اور اگر حالف نے کہا کہ میری یہ نیت تھی کہ خود اپنے ہاتھ سے ایسا نہ کروں گا تو قضاء اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی اور حادث نہ ہوگا اور اگر کسی آزاد کے نہ مارنے پر قسم کھائی پھر ایک شخص دیگر کو حکم کیا جس نے اس کو مارا تو حادث نہ ہوگا الا آنکہ قسم کھانے والا سلطان یا قاضی ہو یعنی جو خود اپنے ہاتھ سے نہیں مارا کرتا ہے یہ ظہیر یہ میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ اپنے فرزند کو نہ ماروں گا پھر دوسرے کو حکم کیا جس نے اس کو مارا تو باپ حادث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر زید نے قسم کھائی کہ اپنے غلام کو سو کوڑے ماروں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے پھر اس کو سو کوڑے ہلکے ہلکے مارے تو قسم میں سچا ہو گیا اور مشائخ نے فرمایا کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ اس کو ایسی مار سے مارا ہو کہ اس سے کچھ الم اس کو ہوا ہو اور ایسی ماری کہ اس کو کچھ الم نہ ہو تو سچا نہ ہوگا اور اگر دو شاخہ کوڑے سے پچاس کوڑے اس کو مارے اور ہر بار کی مار میں دونوں شاخیں اس کے بدن پر پڑتی تھیں تو قسم میں سچا ہو گیا اور اگر ان سب کوڑوں کو یکجا جمع کر کے سب سے ایک چوٹ یا چوٹیں ان کے عرض سے مار دیں تو قسم میں سچا نہ ہو جائے گا اور اگر ان کے سروں سے مارا ہو تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے مارنے سے پہلے ان کے سرے برابر کر دیے ہوں کہ چوٹ مارنے سے ہر ایک کوڑے کا سر اس کے بدن پر پہنچتا ہو تو وہ اپنی قسم میں سچا ہو جائے گا اور اگر بعض کوڑے دوسرے کے درمیان گھس گیا ہو تو اسی قدر میں سچا ہوگا جتنے اس کے بدن پر پہنچے اور ایک دوسرے کے اندر گھس رہے ہیں ان کی بابت سچا نہ ہوگا اور عامہ مشائخ اسی پر ہیں اور اسی پر فتویٰ ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔ ایک نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اپنی دختر صغیرہ کو بیس سوٹ ماروں گا تو یہ کرے کہ اس صغیرہ کو بیس ٹچیاں مار دے یہ ظہیر یہ میں ہے۔

قسم کھائی کہ اپنی بیوی کو نہ ماروں گا پھر اس کے چٹکی کاٹی یا دانت سے کاٹا یا گلا گھونٹ دیا یا بال پکڑ کر

کھینچے کہ جس سے کہ اس کو اذیت ہوئی تو اپنی قسم میں حانت نہ ہوگا:

ایک نے کہا واللہ اگر میں نے فلاں کو پکڑا تو اس کو سو کوڑے ماروں گا پھر اس کو پکڑا اور ایک کوڑا یا دو کوڑے مارے تو فرمایا کہ فی الحال حانت نہ ہوگا یہ قسم ہمیشہ کے واسطے ہے کہ اگر تا آخر موت سب سو مارے تو حانت ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ اپنی بیوی کو نہ ماروں گا پھر اس کے چنگلی کاٹی یا دانت سے کاٹا یا گلا گھونٹ دیا یا بال پکڑ کر کھینچے کہ جس سے کہ اس کو اذیت ہوئی تو اپنی قسم میں حانت ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہے کہ ایسی حرکتیں اس نے ملاعت میں نہ کی ہوں اور اگر ملاعت میں ایسا کیا تو حانت نہ ہوگا اور یہی صحیح ہے اور اسی طرح اگر اس کے سر میں اپنے سر سے ٹکر ماری کہ اس کے خون نکل آیا مگر ملاعت میں ایسا کیا تو حانت نہ ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہے کہ قسم عربی زبان میں ہو اور اگر فارسی میں ہو تو ان سب صورتوں میں حانت نہ ہوگا اور صحیح یہ ہے کہ اگر بطور غضب کے ایسا کیا تو حانت ہوگا اور اگر اس کے بال اکھاڑ لیے تو اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ اگر غصہ میں ایسا کیا تو حانت ہوگا اور اگر اس کو دفع کیا یعنی دھکا دیا یا بس طور کہ اس کے تن کو کچھ تکلیف نہ پہنچی تو حانت نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر عربی نے فارسی میں قسم کھائی کہ اپنی عورت کو نہ ماروں گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس سے مراد لی ہے پس اگر اس نے ضرب مراد لی ہو گویا ضرب کی جگہ زدن کہہ دیا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے عربی میں قسم کھانے کا حکم ہے اور اگر وہ مراد لی جو فارسی مراد لیتا ہے تو ایسا ہے جیسے فارسی میں قسم کھانے کا حکم ہے اور اگر معلوم نہ ہو تو اس وقت جس زبان میں قسم کھائی ہے اس کے موافق حکم دیا جائے گا اور اس طرح اگر فارسی نے عربی میں قسم کھائی تو بھی اسی تفصیل سے حکم ہے یہ ذخیرہ میں ہے قال المترجم اردو زبان کا حکم موافق فارسی کے ہی نہ عربی کے واللہ تعالیٰ اعلم اور اگر عورت سے کہا کہ اگر میں نے تجھ سے مارا تو تو طالق ہے پھر اس عورت کی باندی کو مارا جس میں اس کے چوٹ لگ گئی تو مجموع النوازل میں مذکور ہے کہ وہ حانت نہ ہو گیا اور ایسا ہی شیخ ظہیر الدین مرغیانی فتویٰ دیا کرتے تھے اور بعض نے فرمایا کہ وہ حانت نہ ہوگا اور ایسا ہی بقالی نے اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے اور یہی اظہر واشبه ہے۔

اگر قسم کھائی کہ اپنی بیوی کو نہ ماروں گا پھر اس نے اپنا کپڑا جھارا کہ وہ عورت کی آنکھ میں لگا جس سے اس کے درد ہوا تو فتاویٰ ابواللیث میں مذکور ہی کہ وہ حانت نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور ایک نے اپنی عورت سے کہا کہ ان الم اضربک حتی التریکک لاحتیہ دلالتیہ فعبدی حر یعنی عورت سے کہا کہ اگر میں تجھے یہاں تک نہ ماروں کہ تجھے ڈال دوں نہ زندہ نہ مردہ تو میرا غلام آزاد ہے تو امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ یہ قسم اس پر ہوگی کہ اس کو سخت دردناک مارنا مارے پس اگر ایسا کیا تو اپنی قسم میں سچا رہا۔ ایک نے قسم کھائی کہ اپنے غلام کو کوڑوں سے یہاں تک ماروں گا کہ مر جائے یا قتل ہو جائے تو یہ مارنے کا مبالغہ ہے یعنی بہت ماروں گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ یہاں تک اس کو ماروں گا کہ بیہوش ہو جائے یا موت مارے یا رد دے یا دہائی دے تو جب تک یہ امور حقیقتہ نہ پائے جائیں تب تک قسم میں سچا نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس کو تلوار سے یہاں تک ماروں گا کہ مر جائے تو جب تک مر نہ جائے تب تک قسم میں سچا نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور قال المترجم پس قسم میں جھوٹا ہو جائے ورنہ سخت گنہگار ہوگا الا آنکہ جہاد میں کفار کو اس طرح مارنے کی قسم کھائی ہو فافہم۔ اگر قسم کھائی کہ واللہ میں ضرور تجھے تلوار سے ماروں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے پھر اس کو تلوار کے عرض سے مارا تو اپنی قسم میں سچا ہو گیا اور اگر اس کی نیت دھار سے مارنے کی ہو تو

دھار سے مارنے پر قسم ہوگی اور اگر اس کو نیام سے مارا تو اپنی قسم میں سچا نہ ہو اور اگر نیام تلوار اس کی دھار سے کٹ گیا ہو کہ دھار نکل آئی اور اس کو جس کے مارنے کی قسم کھائی ہے زخمی کیا تو اپنی قسم میں سچا ہو گیا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کو تیر سے نہ ماروں گا پھر اس کو تیر کے بیٹ سے مارا تو حانث نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر کوڑے سے مارنے کی قسم کھائی پھر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اس سے مارا تو قسم میں سچا نہ ہوگا:

اگر قسم کھائی کہ میں تجھے کوڑے یا تلوار سے نہ ماروں گا پھر اس کو کوڑے یا تلوار سے مارا پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوڑے و تلوار کے سوائے دوسرے کوڑے کی نیت کی تھی تو قضاء اس کے قول کی تصدیق ہوگی اس واسطے کہ اس نے وہ معنی مراد لیے ہیں جو اس کے کلام سے نکلتے ہیں اور حقیقت حال اس کی اللہ غر و جل کے درمیان ہے کہ وہی عالم الغیب ہے یہ محیط سرخسی میں ہے منتہی میں امام محمد سے روایت ہے کہ اگر اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں نے تجھے سو کوڑے نہ مارے تو تو آزاد ہے پھر قبل اس کے کہ اس قدر کوڑے سے اس کو مارے غلام مر گیا تو آزاد مرا اور نیز امام محمد سے مروی ہے کہ البتہ فلاں کو آج پچاس ماروں گا اور اس کی نیت میں ایک معین کوڑا ہے پھر اس کوڑے کے سوائے دوسرے کوڑے سے پچاس اس کو مار دیئے اور وقت گذر گیا تو فرمایا کہ جس کوڑے سے مارے اپنی قسم سے نکل گیا اور اس کی نیت باطل ہے یہ محیط میں ہے اور اگر کوڑے سے مارنے کی قسم کھائی پھر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اس سے مارا تو قسم میں سچا نہ ہوگا قسم کھائی کہ اس چھری کے پھل سے یا اس نیزہ کے پھل سے اس کو نہ ماروں گا پھر یہ پھل نکال کر دوسرا پھل اس پر چڑھایا اور اس سے مارا تو حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے بال نہ چھوؤں گا پھر اس نے سر منڈایا اور دوسرے بال نکلے اور ان کو چھوا تو حانث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اس کے دانت نہ چھوؤں گا پھر دوسرے دانت جمے ان کو اس نے چھوا تو حانث ہوایہ وجیز کردری میں ہے اور اگر کہا کہ ان ضربتک الا ابداء و ابداء او الد ہر پھر ایک ساعت ایسا کیا تو حانث ہو اور اگر کہا کہ ان لم أضربک شہرا فعبدی حد یعنی اگر میں نے تجھے ایک مہینہ نہ مارا تو میرا غلام آزاد ہے تو جب حانث ہوگا کہ قسم کے وقت سے برابر ایک مہینہ گذرنے تک کبھی اس کو نہ مارے اور اگر اتنی مدت میں کسی ساعت اس کو مارا تو حانث نہ ہوایہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے۔

اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں نے تجھے آج نہ مارا تو تو طالق ہے اور چاہا کہ اس کو مارے پس عورت نے کہا کہ اگر تیرا عضو میرے عضو سے چھوا تو میرا غلام آزاد ہے پس مرد نے اس کو ایک لکڑی سے مارا بدوں اس کے کہ اپنا ہاتھ عورت کے بدن پر پہنچائے تو دونوں میں کوئی حانث نہ ہو اور اگر عورت نے یوں کہا کہ اگر تو نے مجھے مارا تو میرا غلام آزاد ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ عورت مذکورہ اپنا غلام کسی کے ہاتھ جس پر اس کو اعتماد ہو فروخت کر دے پھر شوہر اس کو اسی روز مارے بلکہ ماریس شوہر حانث نہ ہوگا اور عورت کی قسم منحل ہو جائے گی مگر بدوں جزاء کے پھر جس کے ہاتھ غلام بیچا ہے اس سے مول لے لے یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر کہا کہ اگر نہ مارا میں نے آج کے روز تیرے فرزند کو زمین پر حتی کہ دو ٹکڑے ہو جائے تو ایسا پھر اس کو بمبالغہ ماری تو اس صحیح یہ ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا یہ نیا بیع میں ہے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں مر گیا پس نہ مارا میں نے تجھے تو میرا ہر مخلوک آزاد ہے پھر مر گیا اور اس کو نہ مارا تو غلام و مملوک آزاد نہ ہوں گے اور اگر کہا کہ اگر میں نے تجھے نہ مارا تو ایسا مارنے سے پہلے مر گیا تو آخر جزوا جزائے حیات میں حانث ہو اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں نے تجھے نہ مارا حتی کہ میں مروں یا درمیان اپنے اور درمیان اس کے کہ

میں مروں تو تو آزاد ہے پھر اس کو نہ مارا حتیٰ کہ مر گیا تو غلام آزاد نہ ہوگا ایک نے چاہا کہ اپنے فرزند کو مارے پس قسم کھائی کہ مجھ کو اس کے مارنے سے کوئی مانع نہ ہو پھر اس کو ایک دو چیمان ماریں تھیں کہ کسی نے اس کو منع کیا حالانکہ وہ اس سے زیادہ مارنا چاہتا تھا تو مشائخ نے فرمایا کہ وہ حادث ہو اس واسطے کہ اس کی مراد یہ ہے کہ دل بھر کے اس کو مارنے تک کوئی مانع نہ ہو پس جب بیچ میں کسی نے منع کیا تو حادث ہو گیا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اصل یہ ہے کہ حتیٰ واسطے انتہائے غایت کے ہوتا ہے پس جہاں تک ممکن اسی معنی پر محمول ہوگا بایں طور کہ جو اس کے ماقبل ہے وہ قابل امتداد ہو اور اس کا مدخول مقصود اور موثر درانتہا مخلوف علیہ ہو اور اگر یہ متعدذ ہو تو حتیٰ محمول بلام سبب ہوگا بشرطیکہ ممکن ہو بایں طور کہ انعقاد قسم ایسے دو فعلوں پر ہو کہ ان میں سے ایک اس کی طرف سے اور دوسرا دوسرے کی طرف سے ہوتا کہ ایک فعل صالح جزائے دیگر ہو اور اگر یہ بھی متعدذ ہو تو عطف پر حمل کیا جائے گا اور غایت کے حکم میں سے یہ ہے کہ قسم میں سچا ہونے کے واسطے اس غایت کا وجود شرط ہے پس اگر قبل غایت کے فعل سے باز رہا تو حادث ہو اور لام سبب کے حکم سے یہ ہے کہ جو صالح سبب ہے اس کا وجود شرط ہے نہ وجود سبب اور حکم عطف سے یہ ہے کہ سچے ہونے کے واسطے معطوف و معطوف علیہ دونوں کا وجود شرط ہے یہ محیط میں ہے۔

قال المترجم یہ مخصوص بزبان عربی ہے ولم اجد لی مسلکا الی توفیق الا لسنة فی ذلك الا ان یوفقی اللہ عزوجل فانہ تعالیٰ خیر موافق و معین ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے فلاں کو خبر نہ دی اس کی جو تو نے کیا ہے حتیٰ کہ تجھ کو مارے تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس کو خبر دی مگر اس نے نہ مارا تو یہ اپنی قسم میں سچا ہو گیا اور اسی طرح اگر کہا کہ اگر کہا تیرے پاس نہ آیا حتیٰ کہ تو طعام چاشت مجھے کھلائے یا کہا کہ اگر میں نے تجھے نہ مارا حتیٰ کہ تو مجھے مارے تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس کے پاس نہ آیا مگر اس نے طعام چاشت نہ کھلایا اس کو مارا مگر اس نے اس کو نہ مارا تو یہ حادث نہ ہوا بلکہ قسم میں سچا رہا اور اگر کہا کہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ ملازمت نہ کی یہاں تک کہ وہ میرا قرضہ ادا کر دے یا اگر میں نے اس کو نہ مارا حتیٰ کہ رات داخل ہو جائے یا حتیٰ کہ صبح ہو جائے یا حتیٰ کہ زید دو گنا نہ ادا کرے یا حتیٰ کہ مجھے منع کرے یا حتیٰ کہ میرا ہاتھ تھک جائے تو ایسا تو ایسی قسم میں سچے ہونے کی شرط یہ ہے کہ ملازمت و مارنا اس وقت تک پایا جائے کہ جب غایت کا وجود متحقق ہو اور اگر غایت پائی جانے سے پہلے وہ اس فعل سے باز رہا مثلاً ادائے قرضہ سے پہلے اس نے ملازمت یعنی ساتھ ساتھ رہنا چھوڑ دیا امور مذکورہ کے پائے جانے سے پہلے مارنا چھوڑ دیا تو حادث ہوگا اور واسطے کہ حتیٰ اس مقام پر غایت کے واسطے ہے کیونکہ ملازمت امر ممتد ہے اور اسی طرح مار بطریق تکرار (۱) کے ممتد ہوتی ہے اور اگر اس نے جزاء کی نیت کی ہو تو دیا نیت اس کے قول کی تصدیق ہوگی مگر قضا، تصدیق نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے مجازی معنی مراد لیے ہیں اور اگر دونوں فعل ایک ہی شخص کی طرف سے ہوں یا بایں طور کہ کہا کہ اگر میں نے آیا آج تیرے پاس حتیٰ کہ طعام چاشت تیرے پاس کھاؤں یا حتیٰ کہ تجھے ماروں یا کہا اگر تو آج میرے پاس نہ آیا حتیٰ کہ تو میرے پاس طعام چاشت کھائے تو میرا غلام آزاد ہے تو قسم میں سچے ہونے کے واسطے دونوں فعلوں کا پایا جانا شرط ہے یعنی حتیٰ عطف ہوگا حتیٰ کہ اگر اس کے پاس آیا طعام چاشت نہ کھایا پھر اس کے بعد بلا تراخی طعام چاشت کھایا تو وہ اپنی قسم میں سچا ہو گیا اور اگر بالکل طعام چاشت نہ کھایا تو وہ حادث ہو اس واسطے کہ کسی غایت پر حمل کرنا متعدذ ہے یہ کافی میں ہے اور اگر اپنی بیوی سے کہا کہ ہر بار کہ میں نے تجھے مارا تو تو طالق ہے پھر اس کی ہتھیلی سے مارا کہ عورت پر اس کی انگلیاں متفرق واقع ہوئی ہیں تو وہ عورت ایک ہی بار طالق ہوگی اور اگر اس کے دونوں

۱۔ بلا تراخی یعنی کچھ بھی وقفہ اور ویری نہ کی ۱۲۔

(۱) مکرر ایک بعد دوسرے کے ۱۲۔

ہاتھوں سے مارا تو دوبارہ طالق ہوگی یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر کسی نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں تجھ سے ملائی ہو پس میں نے تجھے نہ مارا تو میری بیوی طالق ہے پھر غلام کو ایک میل سے دیکھا یا چھت پر دیکھا کہ اس تک پہنچ (۱) نہیں سکتا ہے تو حانث نہ ہوگا یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔ اگر میں نے فلاں کو دیکھا تو قسم ہے کہ اس کو ماروں گا تو دیکھنا نزدیک و دور دونوں پر ہے اور مارنا جس وقت چاہے لاکہ اس نے یہ مراد لی ہو کہ بغور دیکھنے کے ماروں گا۔ یہ محیط میں ہے۔

زید نے قسم کھائی کہ اگر میں نے اپنا ہاتھ اسکے سر پر رکھا تو میرا غلام آزاد ہے پھر غصب کو حالت میں اس کے سر پر چیت ماری تو حانث نہ ہوگا:

اگر کہا کہ اگر میں نے تجھے دیکھا پس میں نے تجھے نہ مارا تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس کو دیکھا مگر ایسی حالت میں ہے کہ بیماری کی وجہ سے اٹھنے کی طاقت و مارنے کی قوت نہیں رکھتا ہو تو حانث ہو ایہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر زید کی بیوی نے ایک باندی کی بابت اس سے جھگڑا کیا یعنی تو اس سے وطی کرتا ہے پس زید نے قسم کھائی کہ اگر میں نے اپنا ہاتھ اسکے سر پر رکھا تو میرا غلام آزاد ہے پھر غصب کی حالت میں اس کے سر پر چیت ماری تو حانث نہ ہوگا یہ عثمانیہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اپنے غلام کو ہر حق و باطل پر ماروں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ اس سے حق یا باطل کی شکایت کرے تو اس کو مارے اور اس صورت میں وجود شکایت کی حالت میں مارنا نہیں لیا جائے گا اور اگر اس نے یہ نیت کی ہو تو اس کی نیت پر ہوگی اور اگر اس نے شکایت کی پس اس کو مارا پھر اس نے اسی بات میں دوبارہ اس سے شکایت کی تو دوبارہ اس پر واجب نہیں ہے کہ اس کو مارے یہ محیط میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ فلاں کو ہزار بار ماروں گا تو یہ قسم بہت بار مارنے پر واقع ہوگی اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کو ہزار بار قتل کروں گا تو یہ قسم شدت قتل پر ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں کو ماروں گا یا فلاں سے کلام کروں گا حالانکہ فلاں مرچکا ہے پس اگر اس کی موت سے آگاہ نہ ہوا ہو تو امام اعظم و امام محمد کے نزدیک حانث نہ ہوگا اور اگر اس کی موت سے آگاہ ہوا تھا تو اس کی قسم منعقد ہوگی اور اسی وقت حانث ہوگا اور یہ بالا جماع ہے یہ محیط میں ہے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو نے مجھے مارا اور میں نے تجھے نہیں مارا تو میرا غلام آزاد ہے تو قسم اس پر ہوگی کہ قسم کھانے والا مخلوف علیہ سے پہلے مارے اور اگر اس کے بعد مارنے کی نیت کی ہو تو دوسرے کے مارتے ہی اس کو مارنے پر قسم ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ قال المترجم ہمارے نزدیک دوم اظہر ہے اور اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میرے جس غلام کو تو نے مارا ہے فلاں وہ آزاد ہے پھر اس نے ان سب کو مارا تو ان میں سے سوائے ایک کے اور کوئی آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میرے جس غلام نے تجھے مارا ہے فلاں تو وہ آزاد ہے پھر سبھوں نے اس کو مارا تو سب آزاد ہوں گے۔ پھر مسئلہ اولیٰ میں جب ان سب میں ایک آزاد ہو تو ان میں سے کسی ایک کو عتق کے واسطے پسند کرنے کا اختیار مولیٰ کو ہے جس کو چاہے معین کرے اور اگر کہا کہ کل عبیدی ضربتہ فہو حر پھر اس نے سب کو مارا تو سب آزاد ہو جائیں گے اور اگر اس نے بعض کو مارا تو بعض ہی آزاد ہوں گے یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ جس کو کہ مارا تو نے میرے غلاموں میں سے پس وہ آزاد ہے پھر اس نے سب کو مارا تو صاحبین کے نزدیک سب آزاد ہو جائیں گے اور امام اعظم کے نزدیک سوائے ایک کے سب آزاد ہوں گے یہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے

۱۔ تو صورت مسئلہ مذکورہ بالا یعنی غلام سے کہا کہ اگر میں نے تجھ کو دیکھا پھر غلام کو دیکھا تو حانث ہوگا ۱۲۔ ۲۔ مخلوف علیہ وہ شخص جس کی نسبت حانث نے قسم کھائی ۱۲۔

قال المترجم یہ قسم بزبان عربی کی صورت میں ہے کہ من ضربته من عبیدی فہو حر ہمارے نزدیک یہ اور اول یکساں ہی فاقہم۔

اگر کہا کہ اگر مارا اس غلام کو کسی نے تو اس کی بیوی طالقہ ہی یعنی کہنے والے کی تو یہ قسم سب پر واقع ہوگی یعنی اگر خود حالف نے مارا تو اس کی بیوی طالقہ ہوگی اور اگر کسی نے اس کو مارا تو بھی اس کی بیوی طالقہ ہوگی اور اگر کہا کہ اگر میرے اس سر کو کسی نے مارا تو میری بیوی طالقہ ہی تو سوائے اس کے اور کسی آدمی کے مارنے پر قسم ہوگی زید نے عمر کو مارنے کا قصد کیا پس خالد نے اس سے کہا کہ اگر تو نے اس کو مارا تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس کے مارنے سے باز رہ پھر اس کے بعد اس کو مارا تو خالد حائث نہ ہوگا اور یہ قسم فی الفور مارنے پر واقع ہوگی یہ سراجیہ میں ہے امام محمدؒ نے فرمایا کہ اگر زید نے اپنے دو غلاموں سے کہا کہ اگر مارا میں نے تم دونوں کو الا ایک روز یا الا ایک دن میں یا الا ایک روز کہ اس میں میں تم کو ماروں گا یا الا روزے یا الا بروزے تو میرا غلام آزاد ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ ان کو جس روز چاہے مارے خواہ دونوں کو اکٹھا مارے یا متفرق پھر اگر ان میں سے ایک کو بروز جمعرات مارا اور دوسرے کو بروز جمعہ تو حائث نہ ہوگا یہاں تک کہ بروز جمعہ آفتاب غروب ہو جائے اس واسطے کہ اس نے دونوں کو بروز استثناء مارا اس واسطے کہ روز استثناء وہ ہے کہ اس دن دونوں کا مارنا مجتمع ہو گیا اور اگر آفتاب غروب نہ ہو یہاں تک کہ اس نے عود کر کے پھر اول کو مارا تو حائث نہ ہوگا پھر اگر اس کے بعد ان دونوں کو ایک روز میں مارا یا دو روز میں مارا یا اسی کو مارا جس کو بروز جمعہ مارا ہے تو جس وقت مارے اس وقت حائث ہوگا اس واسطے کہ اس نے ان دونوں کو روز استثناء کے سوائے دوسرے روز مارا کیونکہ اس نے اول کو بروز جمعرات اور دوسرے کو بروز سنچر مارا ہے پس دونوں کی مار غیر یوم الاستثناء میں پائی گئی اور اگر دونوں کو ایک ہی روز مارا تو اس وجہ سے کہ مستثنیٰ روز واحد ہے کہ اس میں دونوں کو مارے اور اس نے دونوں کو ایک ہی روز مارا پس مستثنیٰ گذر گیا پس اب جو اس کے سوائے ایام ہیں وہ غیر مستثنیٰ ہیں اور اگر اس کے بعد نہ مارا مگر اسی کو جس کو بروز جمعرات مارا ہے تو حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ یہ تکرار نصف شرط کی ہے اور اگر کہا کہ اگر مارا میں نے تم دونوں کو الا در روز یکہ اس میں تم دونوں کو ماروں گا یا الا روز یکہ اس میں تم دونوں کو ماروں گا یا الا ایوم اضربکمما فیہ پس جس دن دونوں کا مارا جانا مجتمع ہو وہی دن مستثنیٰ ہے اور وہ حائث نہ ہوگا اور اگر دونوں کو دو متفرق دنوں میں مارا تو وہ حائث ہوگا جب کہ دوسرے روز آفتاب غروب ہو جائے اور اگر اس نے آفتاب غروب ہونے سے پہلے اول کو پھر دوسرے کو مارا تو حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ یہی روز مستثنیٰ ہو گیا اور اگر اسی کو مارا جس کو اخیر میں مارا ہے تو آفتاب غروب ہونے پر حائث ہوگا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے فلاں کو قتل نہ کیا تو میری بیوی طالقہ ہی حالانکہ فلاں مذکور مرچکا ہے اور وہ اس کو جانتا ہے تو اس کی قسم منعقد ہوگی کیونکہ یہ متصور ہے پھر فی الحال حائث ہوگا اس واسطے کہ عادت کے موافق عجز متحقق ہے جیسے مسئلہ صعود السماء۔ اگر وہ اس کی موت سے آگاہ نہ تھا تو امام اعظمؒ و امام محمدؒ کے نزدیک حائث نہ ہوگا جیسے مسئلہ مذکورہ میں ہے مگر فرق اس قدر ہے کہ مسئلہ مذکورہ میں دونوں طرح ایک ہی حکم ہے چاہے جانتا ہو کہ کوزہ میں پانی نہیں ہے یا نہ جانتا ہو اور یہی صحیح ہے یہ کافی میں ہے۔

اگر دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے تجھ کو قتل کیا مسجد میں یا میں نے تیرے سر کو زخمی کیا مسجد میں یا میں

نے تجھے مارا میں تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس کو قتل کیا یا سر زخمی کیا یا مارا:

ایک نے قسم کھائی کہ فلاں کو قتل کروں گا پھر وہ آج ہی مر گیا تو حانث نہ ہوگا یہ تبسین میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اگر میں نے فلاں کو قتل کیا یا اس کو چھو تو میرا غلام آزاد ہے پھر کسی دوسرے کی طرف قصد کیا لیکن ہاتھ خطا کر گیا کہ فلاں مذکور قتل ہو گیا یا اس کو چھو لیا تو حانث ہو گیا یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اگر دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے تجھ کو بروز جمعہ قتل کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر بعد قسم کے اس کو بروز پنجشنبہ اس طرح مارا کہ بروز جمعہ وہ مر گیا تو یہ اپنی قسم میں حانث ہو اور اگر اس کو بروز جمعہ ایسا مارا کہ وہ سنیچر کے روز مر گیا تو حانث نہ ہو اور اگر اس کو مارنا قبل قسم کے واقع ہوا مثلاً اس کو چہار شنبہ کے روز مارا پھر کشتیہ کے روز قسم کھائی کہ اگر میں نے تجھ کو بروز جمعہ قتل کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر وہ بروز جمعہ مر گیا تو اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ قتل نہ کروں گا فلاں کو کوفہ میں پھر اس کو سواد کوفہ میں مارا اور وہ کوفہ میں مرنا تو حانث ہوگا اور اس میں موت کی جگہ زمانہ کا اعتبار ہے مجروح کرنے کی جگہ زمانہ کا اعتبار نہیں ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اگر دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے تجھ کو مسجد میں شتم کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر حالف نے درحالیہ خود مسجد میں تھا اور دوسرے مخلوف علیہ مسجد سے باہر تھا اس کو شتم کیا تو حانث ہوگا اور اگر اس کے برعکس ہو تو حانث نہ ہوگا یہ شرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور اگر دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے تجھ کو قتل کیا مسجد میں یا میں نے تیرے سر کو زخمی کیا مسجد میں یا میں نے تجھے مارا میں تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس کو قتل کیا یا سر زخمی کیا یا مارا اور حالیہ حالف خود مسجد کے اندر ہے اور مخلوف علیہ مقتول و مشجوب و مضروب مسجد سے باہر ہے تو حانث نہ ہوگا اور اگر اس کے برعکس واقع ہو تو حانث ہو اور اگر دوسرے سے کہا کہ اگر تو نے اس زخم سر سے مر گیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر وہ اس زخم اور دوسری کسی علت سے مر گیا تو حانث ہو یا یہ محیط میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں کو پتھر نہ ماروں گا پھر اس نے کسی اور کو پتھر مارا مگر وہ اس سے بچ کر فلاں مذکور کے لگا تو وہ حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے فلاں کو پھینک مارا مگر وہ فلاں کے نہیں لگا تو حانث ہوگا الا آنکہ (۱) اس نے لگ جانے کی نیت کی ہو تو عتابیہ میں ہے اور اگر دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے تیری طرف پتھر یا تیرا پھینکا مسجد میں تو میرا غلام آزاد ہے تو مسجد میں ہونا حالف کے حق میں معتبر ہوگا اور اگر یوں کہا کہ اگر میں نے پھینک مارا مسجد میں تو میرا غلام آزاد ہے تو مسجد میں ہونا مخلوف علیہ کا معتبر ہے یہ ذخیرہ میں ہے اگر قسم کھائی کہ اگر میں نے کل فلاں کو ننگا بھوگا نہ قید رکھا تو میرا آزاد ہے پھر کل کے روز اس کو ننگا بھوگا قید کیا پھر کسی اور نے آکر اس کو کھانا کھلایا تو یہ حانث ہو گیا یہ فتاویٰ کبریٰ و خلاصہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کی تعذیب نہ کروں گا پھر اس کو زندان میں رکھا تو حانث نہ ہوگا الا آنکہ اس نے یہ بھی نیت کی ہو ایسا ہی فتاویٰ میں مذکور ہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قید خانہ میں رکھنا تعذیب قاصر ہے پس وہ قسم کے تحت میں داخل نہ ہوگی اور نیز فتاویٰ میں مذکور ہی کہ اگر اپنی بیوی کو بستر پر بلا یا پس اس نے انکار کیا اور کہا کہ تو مجھے عذاب دیتا ہے پس شوہر نے کہا کہ اگر میں نے تجھے عذاب دیا تو تو طالق ہے پھر وہ عورت بستر پر آئی اور شوہر نے اس سے جماع کیا پس اگر ایسی حالت میں جماع کیا کہ عورت اس امر کو گراں رکھتی تھی تو شوہر نے اس کو عذاب دیا پس وہ طالق ہو گئی اور اگر عورت طالق بخوشی خاطر تھی تو طالق نہ ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں نے تجھے ضرر نہ دیا یا کہا کہ اگر میں نے تجھے رنج نہ دیا تو تو طالق ٹلت ہے پھر اس کے پاس سے گئی مہینہ غائب رہا کہ اس کو کچھ نفقہ نہ دیا اور اس کے اوپر دوسری عورت سے نکاح کر لیا پس عورت سے اس کے لوگوں نے کہا کہ تیرے شوہر نے ضرر دیا یا تجھے رنج دیا پس عورت نے کہا کہ مجھے

۱۔ کیونکہ وہ اسی کی ضرب سے جو ایک روز قبل واقع ہوئی ہے روز معین یعنی جمعہ کو مر رہے پس گویا اسی روز اس کا مارنا واقع ہوا۔

(۱) یعنی ایسا مارنا کہ پتھر لگ جائے۔

ضرور نہیں دیا اور تجھے رنج نہیں دیا تو قول عورت کا قبول ہوگا اور شوہر حائض نہ ہوگا اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے تجھے ضرور نہ پہنچایا یا تجھے رنج نہ پہنچایا تو طالقہ ثلث ہے پھر ایسا فعل بقصد اس کی ضرور سانی کے کیا تو حائض ہو گیا یہ محیط سرخسی میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر مر اسرزنش کنی فلذ اتور و بر و ملامت کرنے سے حائض ہوگا اور اگر کہا کہ مر اسر زنی تو ملامت کی طرف راجع کی جائے گی بشرطیکہ کوئی قرینہ محتمل ہو ورنہ سر پر مارنے پر محمول ہوگی اور قسم کھائی کہ اپنی بیوی کو ایذا نہ دوں گا پھر اس کے کپڑے میں نجاست بھر گئی پس عورت سے کہا کہ اس کو دھو دے پس اس نے انکار کیا پس اس سے کہا کہ زہرہ دران بشوی تو بعض نے کہا کہ حائض نہ ہوگا اور قاضی نے فرمایا کہ حائض ہوگا اور اسی پر فتویٰ دیا جائے یہ وجیز کردری میں ہے اور قدوری میں امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اگر اپنی بیوی سے کہا کہ تو طالق ہے یا واللہ میں آج خادم کو ماروں گا پھر خادم کو اسی روز مارا تو اپنی قسم میں سچا رہا اور طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر یہ دن گذر گیا اور اس نے خادم کو نہ مارا تو حائض ہوگا پس وہ مختار کیا جائے گا چاہے عورت پر طلاق واقع کرے یا چاہے اپنے اوپر قسم لازم کرے اور اگر اس نے اسی روز یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی پر طلاق واقع کرنی اختیار کی تو میں اس کے ذمہ یہ لازم کروں گا اور قسم باطل ہوگئی اور اگر اس نے اس روز یوں کہا کہ میں نے قسم کو اپنے اوپر لازم کیا اور طلاق کو باطل کیا تو طلاق باطل نہ ہوگی اور اگر خادم قبل اس کے کہ اس کو مارے مر گیا تو اس کو اختیار ہوگا چاہے طلاق دے اور چاہے قسم کا کفارہ ادا کرے اور اگر قسم کھانے والا خود مر گیا تو حائض ہونا یا طلاق ایک چیز واقع ہوگی لیکن چونکہ قبل بیان کے مر گیا ہے لہذا طلاق واقع نہ ہوگی اور عورت کو میراث ملے گی اور در صورت کہ خادم مر گیا ہے اس صورت میں فرمایا کہ یہ تخیر از راہ تدبیر ہے اور قاضی اس پر اس کے واسطے جبر نہ کرے گا اس واسطے کہ جب وہ کفارہ و طلاق کے درمیان مخیر کیا گیا اور ایک ان میں سے داخل حکم نہیں ہے تو قاضی اس پر یہ لازم نہ کرے گا حتیٰ کہ اگر بجائے کفارہ کے کسی دوسری عورت کی طلاق ہو تو قاضی اس پر جبر کرے گا کہ بیان کرے اس واسطے کہ جو وہ اختیار کرے گا وہ خواہ مخواہ طلاق واقع ہوگی اور وہ داخل حکم ہے یہ محیط میں ہے۔

ایک نے کہا کہ اگر میں نے تجھے ششم کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس سے کہا کہ اللہ تجھ میں برکت نہ دے تو اس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ نہ تو اور نہ تیرے اہل اور نہ تیرا مال تو اس کا غلام آزاد ہو جائے گا اس واسطے کہ یہ ششم ہے یہ ظہیر یہ میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ اپنی بیوی کو کسی بات میں متم نہ کروں گا پھر اس سے کہا کہ خدا جانے تو نے کیا کیا ہے تو حائض نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ فلاں کو قذف نہ کروں گا پھر اس سے کہا کہ اور چھنال کے بچہ تو اپنی قسم میں حائض ہوگا اور یہی فتویٰ کے واسطے مختار ہے اس واسطے کہ ہمارے دیار و زمانہ میں اس کو قذف شمار کرتے ہیں۔ اگر قسم کھائی کہ نہ قذف کروں گا یا نہ ششم کروں گا کسی کو پھر مردے کو قذف کیا یا مردہ کو ششم کیا تو حائض ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر زید نے قسم کھائی کہ میں عمرو سے بہتر ہوں حالانکہ زید چور یا شراب خوار ہے اور عمرو لوگوں کے نزدیک پرہیزگار و اہل علم سے ہے تو قضاء وہ حائض ہوگا یہ عتابیہ میں ہے۔ ایک نے اپنا مال اپنے گھر میں دفن کیا پھر اس کو ڈھونڈھا تو اپنا یا پس قسم کھا گیا کہ میرا مال جاتا رہا پھر اس کے بعد اس کو پایا پس اگر اس مال کو کسی آدمی نے نہ لیا ہو کہ دوبارہ وہیں رکھ دیا تو حائض ہوگا الا آنکہ اس نے اپنے قول سے یہ مراد لی ہو کہ میں نے اس کو تلاش کیا اور نہ پایا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کسی چیز کا نام بیان کر کے یوں قسم کھائی کہ میں نے فلاں چیز نہیں چرائی اور نہ دیکھی ہے حالانکہ اس سے پہلے اس چیز کو دیکھ چکا ہے تو مختار یہ ہے کہ اگر وہ سچا (۱) ہے تو حائض نہ ہوگا یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔

۱ اختیار دینا ۱۲۔ ۲ تہمت زنا کی لگانا ۱۲۔

(۱) چرائی نہیں ہے ۱۲۔

کاشتکار یا وکیل نے قسم کھائی کہ نہ چراؤں گا اور حال یہ ہے کہ وہ مالک باغ انگور کے اور کاشتکار کے درمیان مشترک انگوروں و فواکہ کو اپنے گھر لانا ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر کاشتکار یا وکیل جو کچھ لاتا ہے وہ کھانے کے واسطے لاتا ہے تو یہ چوری نہیں ہے لیکن جو خوب (اناج) ہوتے ہیں اگر ان میں سے کچھ بدیں غرض لیا کہ میں اس کو نہ تنہا لے لوں نہ بغرض حفاظت کے رکھا تو یہ چوری ہے اور اس واسطے کاشتکار و وکیل کے اگر کسی اور نے کچھ بطور خفیہ لے لیا تو یہ چوری ہے اور اگر کاشتکار و وکیل نے ایسی چیز لے لی کہ اگر مالک اس کو دیکھتا تو اس کو تاوان نہ لیتا بلکہ راضی ہوتا تو بھی یہی حکم ہے کہ سرقہ نہیں ہے حانث نہ ہوگا اور اگر ایسا نہ ہو تو حانث ہونا چاہیے ہے یہ ظہیر یہ میں ہے ایک شخص کا گھوڑا سرائے سے غائب ہو گیا پس اس نے کہا کہ اگر یہ گھوڑا میرا لے گئے ہوں تو اللہ میں یہاں نہیں رہوں گا تو مشائخ نے فرمایا کہ قسم کھانے والے سے دریافت کیا جائے گا کہ تیری کیا مراد ہے پس اگر اس نے سرائے یا حجرہ یا شہر میں نہ رہنے کی نیت کی ہو تو قسم اس کی نیت پر ہوگی اور اگر اس نے کچھ نیت نہ کی ہو تو اس کے اس سرائے میں نہ رہنے پر قسم ہوگی اور ایک عورت کا پسر ہے کہ وہ کسی اجنبی کے ساتھ رہتا ہے پس اس عورت سے اس کے شوہر نے کہا کہ اگر تیرا پسر فلاں نام یہاں آکر ہمارے میل میں نہ رہا تو ہر گاہ تو اس کو کوئی چیز میرے مال سے قلیل بھی دے گی تو تو طالق ہے پھر اس کا بیٹا آکر دونوں کے ساتھ ایک سال تک رہا پھر غائب ہو گیا پھر عورت نے کہا کہ میں نے اپنے پسر کو تیرے مال سے کچھ دیا اور تو حانث ہو گیا پس اگر شوہر نے اس کے قول کی تکذیب کی تو قول شوہر کا قبول ہوگا اور اگر شوہر نے اس کی تصدیق کی پس اگر عورت نے اس پسر کے آکر ان کے میل میں رہنے سے پہلے کوئی چیز دی ہے یعنی بھد قسم شوہر کے تو طالق ہو جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

زید نے عمرو کا کپڑا چرا لیا پھر زید نے عمرو کو درہم دیئے پھر عمرو اس کا انکار کر گیا اور قسم کھائی تو فقیہ ابوالقاسم صفار نے فرمایا کہ اگر کپڑا زید کے ہاتھ سے جاتا رہا تو بیشک عمرو حانث نہ ہوگا اور اگر قائم ہو تو میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ حانث ہوگا:

زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرا کپڑا چرا لیا ہے پھر عمرو نے زید کا کپڑا لے کر کہا کہ میری بیوی طالق ہے کہ میں نے تیرا کپڑا نہیں اٹھایا ہے تو بعض نے فرمایا کہ اگر عمرو نے اس کا کپڑا نہیں چرایا ہے تو اس کی بیوی طالق نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ قضاء اس کی بیوی طالق نہ ہوگی اور یہ قول اعتبار ظاہر صورت کے ہے اور اول اظہر ہے۔ زید نے عمرو کا کپڑا چرا لیا پھر زید نے عمرو کو درہم دیئے پھر عمرو اس کا انکار کر گیا اور قسم کھائی تو فقیہ ابوالقاسم صفار نے فرمایا کہ اگر کپڑا زید کے ہاتھ سے جاتا رہا تو بیشک عمرو حانث نہ ہوگا اور اگر قائم ہو تو میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ حانث ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ اگر کپڑا اس کے پاس موجود ہو تو بے شک عمرو حانث ہوگا اور اگر اس کے ہاتھ سے جاتا رہا ہو تو فقیہ نے جو جواب دیا ہے اس میں ایک نوع کا اشکال ہے۔ زید نے قسم کھائی کہ عمرو نے میرے کپڑے چرا لیے ہیں یا کہا کہ عمرو نے میرے کپڑے پھاڑ ڈالے ہیں حالانکہ عمرو نے فقط ایک کپڑا اس کا چرایا ایک ہی کپڑا پھاڑا ہے تو فرمایا کہ وہ حانث نہ ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ حانث ہوگا اور اول اظہر ہے یہ محیط میں ہے اور ایک شخص نشہ میں تھا اس کو ہوش آیا پس اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میری جیب میں (۲۵) درہم تھے کہ تم نے مجھ سے لے لیے ہیں پس انھوں نے

۱۔ جس کے پاس باغ بنائی پر ہے وہ کاشتکار اور جو شخص کہ مالک کی طرف سے مختار کیا گیا ہے وہ وکیل ہے ۱۲۔ ۲۔ تاکہ اس دعویٰ سے جو زید پر چوری کا رکھا ہے انکار کر جائے کیونکہ درہم بجائے اس کپڑے کی قیمت کے قرار دے گیا کہ اس نے فروخت کر دیا ۱۲۔ ۳۔ اس نے نہیں چرایا ہے ۱۲۔

انکار کیا پس وہ قسم کھا گیا اور کہا کہ اگر آج میری جیب میں چالیس و پانچ درہم نہ رہے ہوں (۴۰) غطر بیفہ و پانچ عدالی تو میری بیوی طالق ہے حالانکہ اس روز اس کی جیب میں چالیس عدالی اور پانچ غطر بیفہ تھے پس اس نے مجمل تو ٹھیک کہے مگر تفصیل میں خطا کی تو مشائخ نے فرمایا ہے کہ اگر اس نے تفصیل کو قسم میں ملا کر کہا تو حانث ہوگا اور اگر تفصیل کو جدا کر کے کہا ہے تو حانث نہ ہوگا اور اگر اس کی جیب میں عدالی و غطارفہ ہوں کہ اگر عدالی کی قیمت غطارفہ میں ملائی جائے تو چالیس غطارفہ ہوں پس اس نے جمع کر کے کہا کہ اگر میری جیب میں چالیس غطر یعنی ہوں اتنے غطر یعنی اور اتنے عدالی یعنی جملہ تعدا ٹھیک بیان کی اور تفصیل میں خطا کی تو میری بیوی طالق ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر اس نے بیعہ غطارفہ مراد لیے تو حانث ہوگا خواہ تفصیل ٹھیک بیان کی ہو یا خطا کی ہو خواہ ملا کر بیان کی ہو یا جدا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر زید نے قسم کھائی کہ عمرو سے کچھ غصب نہ کروں گا پھر زید رات میں عمرو کے پاس داخل ہوا اور اس کا مال چور لیا اور مخلوف علیہ یعنی عمرو کو معلوم نہ ہو یا جنگل میں عمرو کے پاس آیا اور اس کے سر کے نیچے سے اس کی چادر نکال لی اور عمرو کو معلوم نہ ہو یا اس کی آستین کے اندر سے درہموں کی تھیلی کاٹ لی یا رات میں عمرو کے پاس داخل ہوا اور اس سے مکا برہ کیا اور مارا اور اس کی متاع نکال لیا اور لے گیا تو وہ غاصب نہ ہوگا بلکہ چور ہو کہ اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا^(۱) جائے گا یہ خزانة المفقیین میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ عمرو سے چوری نہ کر لوں گا پھر اس سے مکا برہ کر کے رات میں اس کے مکان میں گھس کر اس کے مال سے لے لیا تو حانث ہو اور اگر قسم کھائی کہ عمرو غصب نہ کر لوں گا یا اس سے چوری نہ کر لوں گا پھر راہ میں اس سے رہزنی کر کے لے لیا تو غصب کی قسم میں حانث ہوگا سرقہ کی قسم میں حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے مال میں خیانت نہیں کی ہے حالانکہ اس کی بیوی اس کی اجازت یا رضامندی سے خیانت کر چکی ہے تو حانث نہ ہوگا ایک ساعی نے یعنی بادشاہوں کے حضور میں لوگوں کے مال لٹوانے کے واسطے سعایت کرنے والے نے قسم کھائی کہ اگر اس سے آگے کسی کا دس درہم سے زیادہ زیان کروں تو میری بیوی طالق ہے پھر اپنی بیوی کا اس سے زیادہ زیان کیا تو صحیح یہ ہے کہ اس کی بیوی طالق نہ ہوگی یہ وجہ کر دردی میں ہے۔

باب: ۱۲

تقاضائے درہم میں قسم کھانے کے بیان میں

اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں سے اپنا حق لے لوں گا یا فلاں سے اپنا حق قبض کر لوں گا پھر خود لے لیا یا اس کے وکیل نے لے لیا تو اپنی قسم میں سچا ہو گیا اور اگر اس نے یہ مراد لی ہو کہ خود اپنے آپ ہی ایسا کروں گا تو قضا^۲ و دیانۃ^۳ اس کی تصدیق ہوگی اور اسی طرح اگر فلاں مذکور کے وکیل سے اپنا حق لے لیا تو بھی قسم میں سچا رہا اور اسی طرح اگر ایسے شخص سے لے لیا جس نے مدیوں کے حکم سے اس مال کی کفالت کر لی تھی یا ایسے شخص سے لے لیا جس نے مدیوں کے حوالہ کرنے سے اترائی قبول کر لی تھی تو بھی قسم میں سچا رہا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر کسی شخص سے بغیر حکم مطلوب وصول کیا یا بکفالت یا حوالہ بغیر حکم مطلوب تھا تو وہ اپنی قسم میں حانث

۱۔ حقیقت میں درہم غطر یعنی تھے نہ ان کی قیمت مجموعہ ۱۴۔ ۲۔ قسم کھائی کہ فلاں سے اپنا حق لے لوں گا اور اگر فلاں سے اپنا حق نہ لے لوں تو میری

بیوی طالق ہے پس اس کے وکیل نے وصول کر لیا پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میری بیوی طالق ہوگئی کیونکہ میری مراد یہ تھی کہ خود لے لوں تو قضا تصدیق ہوگی ۱۱۔

۳۔ کیونکہ اترائی سے بھی ایک گونہ حق کا لینا ثابت ہوا ۱۲۔

(۱) بشرطیکہ متاع مسروق دس درہم کی یا زیادہ ہو ۱۲۔

ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ اگر اپنے قرضہ کے عوض مطلوب سے ایک غلام بطور بیع فاسد کے خرید کر کے اس پر قرضہ کر لیا پس اگر اس کی قیمت اسی قدر ہو جس قدر حق ہے تو وہ اپنے قرضہ کا وصول پانے والا ہوگا اور حادث نہ ہوگا اور اگر پورا نہ ہو تو حادث ہوگا اور اگر حالف نے اپنے حق کے مثل اس کا مال غصب کر لیا تو بھی قسم میں سچا ہو گیا اور اسی طرح اگر اس کے ونا نیر یا متاع عروض تلف کرے تو بھی یہی حکم ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر طالب (۱) نے قسم کھائی کہ ضرور وصول (۲) کر لوں گا اور کوئی وقت (۳) نہیں مقرر کیا پھر مطلوب کو اپنے حق سے بری کر دیا یا ہبہ کر دیا تو اپنی قسم میں حادث ہو گیا اور اگر اس کے واسطے کوئی وقت مقرر کر دیا ہو پھر قبل وقت کے مطلوب کو مال سے بری کر دیا تو قسم ساقط ہو گئی اور حادث (۴) نہ ہوگا اور یہ امام اعظم و امام محمد کا قول ہے اور اگر اپنا قرضہ وصول کر لیا پھر اس کو زیور ف یا نبہرہ پایا تو اس سے قبضہ کرنا متحقق ہوا اور اپنی قسم میں سچا ہو گیا خواہ لینے والے نے اپنے لینے کی قسم کھائی ہو یا دینے والے نے دینے کی قسم کھائی ہو اور اگر یہ در اہم ستوقہ ہوں تو یہ اپنے حق کا وصول پانا نہ ہوگا اور اگر بجائے اپنے حق کے کوئی کپڑا لے لیا پھر اس میں عیب پا کر اس کو واپس کر دیا یا کسی نے اس پر اپنا استحقاق ثابت کر کے لے لیا تو بھی وہ اپنے وصول کر لینے کی قسم میں سچا ہو چکا ہے یہ ایضاً میں ہے اور اگر زید نے قسم کھائی کہ جو میرا عمرو پر آتا ہے اس کو قبض نہ کروں گا پھر زید نے خالد کو جس کا زید پر کچھ نہیں آتا ہے عمرو پر حوالہ کر دیا اور خالد نے عمرو سے وصول کیا تو زید حادث ہو گیا اس واسطے کہ خالد اس کا وکیل القبض ہے اور اگر حوالہ قبل قسم کے ہوا ہو پھر خالد نے عمرو سے بعد زید کی قسم کے وصول کر لیا تو زید حادث نہ ہوگا اور علی ہذا اگر کسی نے مدیوں سے وصول کرنے کا وکیل کر دیا پھر قسم کھائی کہ مدیوں پر جو کچھ میرا ہے وصول نہ کروں گا پھر بعد قسم کے وکیل نے وصول کیا تو حادث نہ ہوگا اور بعض نے فرمایا ہے کہ چاہیے کہ حادث ہو جائے یہ محیط میں ہے۔

اصل میں فرمایا ہے کہ اگر قسم کھائی کہ اپنے قرض دار سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ جو کچھ میرا اس پر ہے اس سے وصول کر لوں پھر قرض دار اس ساتھ سے بھاگ گیا حالانکہ یہ اس کے ساتھ سے جدا نہیں ہوا تھا تو وہ حادث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی ہو کہ اپنے قرض دار سے جدا نہ ہوں گا اور باقی مسئلہ بحال رہے تو حادث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اپنے قرض دار سے جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہ جو کچھ میرا اس پر ہے اس سے وصول کر لوں پھر ایسی جگہ اونچے نیچے بیٹھا کہ اس کو دیکھتا رہتا کہ اس کے ہاتھ سے گم نہ ہو جائے اور اس کی نگہبانی کرتا رہتا تو اس سے جدا ہونے والا نہ ہوگا اگر ان کے درمیان میں کوئی سترہ یا مسجد کا کوئی عمود حائل ہو گیا تو بھی اس سے جدا ہونے والا نہ ہوگا اور اسی طرح اگر دونوں میں سے ایک مسجد کے اندر بیٹھا اور دوسرا مسجد سے باہر اور دروازہ مسجد کا کھلا ہوا ہے کہ اس کو دیکھتا ہے تو اس سے جدا ہونے والا نہ ہوگا اور اگر بیچ میں دیوار مسجد حائل ہو اور ایک اندر اور دوسرا باہر ہو تو جدا ہونے والا ہوگا اور اسی طرح اگر دونوں کے درمیان دروازہ بند ہو اور کنجی حالف کے ہاتھ میں ہو اور حالف باہر ہو کہ دروازہ پر بیٹھا ہو تو بھی یہی حکم ہے یہ سب منتقی سے منقول ہے اور حیل میں مذکور ہے کہ اگر طالب سو گیا یا مطلوب سے غافل ہو گیا یا کسی نے اس کو باتوں میں لگا لیا کہ مطلوب بھاگ گیا تو اپنی قسم میں حادث نہ ہوگا اور اگر نہ سویا اور نہ غافل ہو پھر وہ چلا اور طالب اس کے ساتھ نہ گیا اور باوجود امکان کے اس کو منع نہ کیا تو اپنی قسم میں حادث ہوگا اور سرخیل میں مذکور ہے کہ اگر ملازمت سے اس کو مانع ہوا حتیٰ کہ مطلوب بھاگ گیا تو اپنی قسم میں حادث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اپنے قرض دار سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ اس سے اپنا کل حق وصول کر لوں پھر اس سے رہن یا کفیل لے لیا اور جدا ہو گیا تو حادث ہوا الا آنکہ رہن قبل جدا ہونے کے تلف ہو گیا اور اس کی قیمت مثل قرضہ کے

۱۔ اسباب و سامان وغیرہ جو نقد کے علاوہ ہوں۔

(۱) قرض خواہ وغیرہ ۱۲۔ (۲) اپنا حق ۱۲۔ (۳) کہ فلاں روز یا ماہ یا سال ۱۲۔ (۴) جب یہ وقت آئے گا ۱۲۔

یا زیادہ ہے تو ایسی صورت میں حانث نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔

زید نے عمرو سے کہا کہ واللہ تیرا مال تجھے نہ دوں گا یہاں تک کہ مجھ پر کوئی قاضی حکم کرے پھر ایک وکیل کیا جس نے عمرو سے خصومت بخضور قاضی کی:

ایک اپنے مدیوں کے دروازہ پر آیا اور قسم کھائی کہ یہاں سے نہ جاؤں گا یہاں تک کہ اس سے اپنا حق لے لوں پھر مدیوں نے آکر اس کو اس مقام سے دور کر دیا پھر اپنا حق لینے سے پہلے خود چلا گیا تو بعض نے فرمایا کہ حانث ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ اگر اس کو دور کر دیا بایں طور کہ وہ اپنے قدم سے نہیں چلا اور دوسری جگہ جا پڑا پھر خود چلا گیا تو حانث نہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر قرض دار نے قسم کھائی کہ قرض خواہ کو اس کا حق دے دوں گا پھر دوسرے کو ادا کر دینے کا حکم دیا یا قرض خواہ کو اترائی کر دی اور اس نے وصول کر لیا تو یہ اپنی قسم میں سچا ہو گیا اور اگر مدیوں کی طرف سے کسی نے براہ احسان ادا کر دیا تو وہ اپنی قسم میں سچا نہ ہوگا اور اگر اس نے یہ نیت کی ہو کہ یہ امر خود اپنے ہاتھ سے کروں گا تو دیانت و قضاء اس کے قول کی تصدیق ہوگی اور اگر مطلوب نے قسم کھائی ہو کہ اس کو اس کا حق نہ دوں گا پھر ان صورتوں میں سے کسی صورت سے اس کو دیا تو حانث ہو اور اگر اس نے یہ نیت کی ہو کہ اپنے ہاتھوں نہ دوں گا تو قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے۔ زید نے عمرو سے کہا کہ واللہ تیرا مال تجھے نہ دوں گا یہاں تک کہ مجھ پر کوئی قاضی حکم کرے پھر ایک وکیل کیا جس نے عمرو سے خصومت بخضور قاضی کی اور قاضی نے وکیل پر ادائیگی کا حکم دے دیا تو یہ حکم زید پر ہو گا حتیٰ کہ بعد اس کے ادا کرنے سے حانث نہ ہوگا اور ایک شخص نے اپنے قرض دار سے کہا کہ واللہ تجھ سے جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہ تجھ سے اپنا حق وصول کر لوں گا پھر اس نے اپنے قرض دار سے بعوض اس قرضہ کے قبل جدا ہونے کے ایک غلام خریدا اور اس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ اس سے جدا ہو گیا تو امام محمد نے فرمایا کہ جو عالم اس کو ایسی صورت میں حانث نہیں قرار دیتا ہے کہ جب قبل جدا ہونے کے اس کو قرضہ ہیہ کیا اور مدیوں نے قبول کیا پھر اس سے جدا ہو گیا ہے تو وہ اس صورت میں بھی اس کو حانث نہیں قرار دے گا اور یہی امام اعظم کا قول ہے اور جو اس کو صورت ہیہ مذکورہ میں حانث قرار دیتا ہے اس کے نزدیک اس صورت میں بھی حانث ہوگا اور یہ امام ابو یوسف کا قول ہے اور یہ اس وقت ہے کہ بیع پر قبضہ کرنے سے پہلے اس سے جدا ہو گیا اور اگر جدا نہ ہو یا یہاں تک کہ غلام بائع کے پاس مر گیا پھر اس سے جدا ہو گیا تو حانث ہو گیا اور اگر مدیوں نے کسی دوسرے کا غلام اس کے ہاتھ بعوض اس کے قرضہ کے فروخت کیا اور اس نے غلام پر قبضہ کر لیا پھر جدا ہو گیا پھر غلام مذکور کے مولیٰ نے اپنا استحقاق ثابت کر کے لے گیا اور بیع کی اجازت نہ دی تو حانث نہ ہوگا اور اگر مدیوں نے اس کے ہاتھ اپنا غلام فروخت کیا بدین شرط کہ بائع کو اس بیع میں خیال ہے۔

اگر قسم کھائی کہ زید کے حق سے وبار رکھوں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو چاہیے کہ جس وقت قسم کھائی ہے اسی وقت اس کو ادا کر دے:

حالف نے بیع پر قبضہ کر لیا پھر جدا ہو گیا تو حانث ہو گیا اور اگر قرضہ کسی عورت پر ہو پس قسم کھائی کہ اس سے جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہ اس سے اپنا قرضہ بھر پاؤں پھر حالف نے اس عورت سے اس قرضہ پر جو اس کا عورت مذکورہ پر آتا ہے نکاح کر لیا تو اپنا قرضہ بھر پایا اور اگر مدیوں نے جو قرضہ اس پر آتا ہے اس کے عوض طالب کے ہاتھ غلام یا باندی فروخت کی پھر بیع مذکور ام ولد یا مکاتب یا مدبرنگی یا کسی دوسرے کی ام ولد یا مدبرنگی پھر طالب نے اس پر قبضہ کرنے کے بعد مدیوں کا ساتھ چھوڑا تو حالف یعنی

طالب مذکور حائث نہ ہوگا اور اگر طالب نے ہزار درہم یعنی سب جو کچھ قرضہ تھا مطلوب کو ہبہ کر دیے پس مطلوب نے اس کو قبول کر لیا یا طالب نے اپنے کسی قرض خواہ کو اس پر اترائی کرادی کہ جو کچھ اس پر ہے وہ میرے اس قرض خواہ کو دے دے یا مطلوب نے طالب کو کسی اور پر اترا دیا اور طالب نے مطلوب اول کو بری کر دیا پھر طالب اس سے جدا ہو گیا تو ان سب صورتوں میں حالف حائث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اگر قسم کھائی کہ زید کے حق سے نہ بار رکھوں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو چاہیے کہ جس وقت قسم کھائی ہے اسی وقت اس کو ادا کر دے اور یہ مراد ہے کہ اس وقت سے دینے میں مشغول ہو جائے حتیٰ کہ اگر قسم سے فارغ ہوتے ہے اس کام میں مشغول نہ ہو تو حائث ہو جائے گا خواہ طالب نے اس سے مانگا ہو یا نہ مانگا ہو اور اگر یہ نیت کی ہو کہ فلاں کے طلب کرنے کے بعد یا فلاں مدت تک نہ بار رکھوں گا تو اس کی نیت کے موافق ہوگا اور اگر مطلوب نے طالب سے حساب کر کے جو کچھ اس کا اس کے پاس تھا سب ادا کر دیا اور طالب نے سب وصول مانے کا اقرار کیا پھر چند روز بعد اس سے ملا اور کہا کہ میرا تیرے پاس اتنا اتنا فلاں جہت سے اور باقی رہا ہے پس مطلوب کو بھی یاد ہوا حالانکہ حساب کے وقت دونوں بھول گئے تھے پس اگر اسی دم ادا کر دیا تو حائث نہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ لایعین اذ اھل الاجل یعنی جب وقت آجائے گا تو اس کا کچھ رکھ نہ چھوڑوں گا تو معیاد آنے پر تاخیر نہ کرے اور اگر اس نے اپنی عمر مراہوں تو اس کی نیت پر قسم ہوگی یہ عتابیہ میں ہے۔

قسم کھائی کہ اس کو اول ماہ میں ادا کروں گا پھر چاند کے پہلے آدے۔ کے اندر ادا کر دیا تو سچا رہا ورنہ حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اس کو سہ ماہ ادا کروں گا یا جب چاند نکلے گا تو وہ چاند رات اور اس کے تمام دن میں ادا کر دے پس حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ البتہ اس کا قرضہ اول ماہ و آخر ماہ میں ادا کروں گا تو چند رھویں اور سولہویں ان دونوں تاریخوں میں ادا کر دے۔ اگر قسم کھائی کہ اس کا حق وقت صلوة ظہر میں ادا کروں گا تو معتبر ظہر کا تمام وقت ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس کا حق جب ظہر کی نماز پڑھوں گا ادا کروں گا تو پورا وقت ظہر لیا جائے گا۔ اگر قسم کھائی کہ اس کا قرضہ ہر ماہ ادا کروں گا پھر اس سے پہلے دے دیا یا طالب نے اس کو بری کر دیا یا طالب مر گیا تو امام اعظمؒ و امام محمدؒ کے نزدیک قسم ساقط ہوگئی اور اگر مطلوب مر گیا تو بالا جماع حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر کہا کہ فلاں کو اس کا مال ادا کروں گا حالانکہ فلاں اس سے پہلے مر گیا ہے مگر اس کو معلوم نہ تھا تو حائث نہ ہوگا اور اگر جانتا ہو تو حائث ہوگا اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک جانتا ہو یا نہ جانتا ہو دونوں صورتوں میں حائث ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس کا قرضہ ادا کروں گا جب نماز پیشیں پڑھوں تو اس کو ظہر کے آخر وقت تک ادا کرنے کا اختیار ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ عند طلوع الشمس او حین تطلع الشمس تو وقت طلوع سے تا بیض آفتاب ادا کر سکتا ہے اور اگر کہا کہ وقت الضحوہ تو بیض آفتاب سے زوال آفتاب تک ادا کر دے یہ محیط میں ہے۔ قرض دار نے قسم کھائی کہ شہر سے نہ جاؤں گا حتیٰ کہ تیرا قرضہ تجھے ادا کروں یا تیرا مال تجھے دے دوں پھر قبل اداے قرضہ کے چلا گیا تو حائث ہوگا جیسے قسم کھائی کہ اس کا قرضہ یا مال ادا نہ کروں گا پھر اس میں سے اقل دے دیا تو حائث نہیں ہوتا ہے یہ دجیر کردری میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ واللہ جو کچھ میرا تجھ پر ہے آج قبض نہ کروں گا پھر حالف نے مطلوب کی باندی سے اسی مال پر اس روز نکاح کیا اور اس سے دخول کیا تو حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر مطلوب کے سر میں زخم شجہ موضعہ کر دیا جس میں قصاص واجب ہے اور اس

۱۔ پہلی تاریخ سے چند رھویں تاریخ تک کسی تاریخ میں ادا کر دیا ۱۲۔ ۲۔ کیونکہ چند رھویں کا اول ماہ میں اور سولہویں کا آخر ماہ میں شمار ہوتا ہے ۱۲۔

۳۔ گردہ آفتاب صاف سفید ہو جائے یعنی جس وقت نماز بلا کراہت جائز ہوتی ہے ۱۲۔ ۴۔ عند الاطلاق کل مراد ہوتا ہے ۱۲۔

سے اسی مال پر صلح کر لی تو یہ قصاص^(۱) ہو جائے گا اور وہ حادث نہ ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے۔ امام محمد نے فرمایا کہ اگر اپنے قرض دار سے جس پر سود درہم آتے ہیں کہا کہ اگر میں نے آج تجھ سے یہ قرضہ درہم و دن درہم کر کے لیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس سے پچاس درہم لے لیے اور باقی نہ لیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا تو حادث نہ ہوگا جیسے پورے سود درہم ایک بارگی لینے میں حادث نہ ہوگا روز اول اگر اس سے پچاس درہم لے لیے اور باقی پچاس آخر روز لیے تو حادث ہوگا۔ اگر اس نے درہم مقبوضہ میں زیوف^۲ یا نہرہ پائے ہوں تو حادث ہونا بحالہ باقی رہے گا دور نہ ہوگا خواہ اس نے واپس کر کے بدل لیے ہوں یا نہ واپس کیے اور بدل لیے ہوں یا واپس کیے اور بدلے میں نہ لیے ہوں اور اسی طرح اگر ان درہموں کو مستثنیہ پایا یعنی کسی اور نے ان پر اپنا استحقاق ثابت کیا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر یہ درہم ستوقہ یا رصاص ہوں اور اس نے اسی روز واپس کر کے بدل لیے تو بدل لینے کے وقت حادث ہوگا اور اگر اس نے بدل نہ لیے ہوں تو حادث نہ ہوگا۔ اگر قسم کھائی کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے تجھ سے آج کے روز ان سود درہموں میں سے کوئی درہم لیا پھر اس روز اس سے پچاس درہم لیے تو لینے کے وقت حادث ہوگا اور یہ استحسان ہے اور اگر اس نے اس روز کچھ نہ لیا تو حادث نہ ہوگا اور اگر کوئی وقت قسم میں بیان نہ کیا یعنی قسم کو مطلق رکھا بایں طور کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے سود درہم قرضہ میں سے تجھ سے درہم و دن درہم کر کے لیا پھر اس سے پچاس درہم وصول کر لیے تو لیتے ہی حادث ہوگا اور اگر کہا کہ اگر میں نے قبضہ کیا درہم و دن درہم کر کے تو میرا غلام آزاد ہے پس قرض دار نے اس کے واسطے پچاس درہم وزن کر دیے اور اس کو دیے پھر اسی مجلس میں اس کے واسطے اور پچاس درہم وزن کر کے دیے تو استحسانا حادث نہ ہوگا تا وقتیکہ وزن کرنے کے کام میں مشغول ہے اور اگر باقی وزن کرنے سے پہلے وہ کسی اور کام میں مشغول ہو گیا تو حادث ہوگا اور یہی استحسان ہمارے علمائے ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور اگر کہا کہ واللہ جو میرا تجھ پر ہے نہ لوں گا الا ایک بار میں یا الا ایک دفعہ میں پھر اس کے واسطے ایک ایک درہم کر کے وزن کیا اور ہر ایک درہم کے وزن سے فارغ ہو کر اس کو دیتا گیا تو حادث نہ ہوگا اور اگر وہ اس مجلس میں سوائے وزن کے اور کام میں درمیان میں مشغول ہو گیا تو حادث ہوگا یہ شرح جامع کبیر حصری میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں نے اپنے اس مال پر جو میرا فلاں پر ہے کچھ کچھ کر کے قبضہ کیا تو وہ مساکین پر صدقہ ہے یعنی تمام وہ مال جو فلاں پر ہے پھر اس نے دس درہم میں سے نو درہم^(۲) پر قبضہ کر کے اس کو کسی کو ہبہ کر دیا پھر اس نے باقی درہم پر قبضہ کیا تو باقی درہم کا صدقہ کر دینا اس پر واجب ہوگا اور اسی طرح اگر کہا کہ اگر میں نے قبض نہ کیا جو میرا مال تجھ پر ہے تو بھی اس صورت میں یہی حکم ہے اور اگر یوں کہا کہ اگر میں نے قبض نہ کیے وہ درہم جو میرے تجھ پر ہیں تو وہ مسکینوں پر صدقہ میں پھر ان کے عوض درہم یا کوئی اسباب پر قبضہ کیا یعنی بطور وصول حق کے تو حادث نہ ہوگا اور جو اس نے ہبہ کیا ہے اس کے مثل کا ضامن ہوگا پس مال ضمان کو صدقہ کرے گا یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے قبض نہ کیے تجھ سے درہم بطریق ادا سے اس مال کے جو میرا تجھ پر ہے تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس سے ان درہم کے عوض اسباب یا دینار قبض کیے تو اپنی قسم میں حادث ہوایہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ ان لم انزن مالی علیک فکذا یعنی اگر اپنا مال جو تجھ پر ہے وزن کر کے نہ لے لوں تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس نے کوئی چیز اپنی جنس حق کے خلاف قبض کی خواہ ایسی چیزوں میں سے ہے کہ وزن کی جاتی ہے یا نہیں تو وہ اپنی قسم میں سچا نہ ہوگا اس واسطے کہ جب اس نے

۱۔ قولہ درہم و دن درہم یعنی کچھ درہم لے اور کچھ اس وقت نہ لے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے لیا وجہ ایراد لفظ ظہیر علی لفظن ۱۲۔ ۲۔ جن کو ہمارے عرف میں کھولے کہتے ہیں ۱۲۔ ۳۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ۱۲۔

(۱) زخم کے بدلے زخم ۱۲۔ (۲) نو درہم جو ہبہ کر دیئے تھے ۱۲۔

فلاں کی قید لگائی تو عموم لفظ کا اعتبار ساقط ہوا پس راجع بجانب اخص الخصوص ہوا کہ وہ قبض عین حق ہے اور اسی طرح اگر کہا کہ اگر قبض نہ کیا میں نے اپنا مال جو تجھ پر ہے تھیلی میں تو میرا غلام آزاد ہے پھر مدیوں نے اس کو بجائے درہم کے دینا یا اسباب ادا کیا تو حالف حانث ہوگا کیونکہ جب عموم لفظ باطل ہو تو راجع بجانب قبض عین الحق ہوا جیسا کہ ہم نے ذکر کر دیا ہے اور اگر اس نے وزن سے اپنا بھر پور قرض وصول کر لینا مراد لیا ہو تو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق ہوگی مگر قضاء تصدیق نہ ہوگی یہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے تجھ سے قبض نہ کیے درہم بطریق ادا سے اس مال کے جو میرا تجھ پر ہے تو میرا غلام آزاد ہے پھر مطلوب نے طالب سے ایک درہم قرض لیا اور اس کو قرضہ میں ادا کیا پھر دوبارہ اس سے قرض لیا اور ادا کیا اس طرح برابر ایک ہی درہم کو قرض لے کر ادا کرتا گیا یہاں تک کہ اس کے کل درہم اسی ایک درہم کے قرضہ لے کر دینے سے پورے ادا کر دیے تو طالب حانث ہوا اور اگر اس نے تین درہم قرض لے کر وہ طالب کو اس کے قرض سابق میں ادا کیے پھر دوبارہ ۳ بارہ اسی طرح انہیں تین درہموں کو قرض لے کر ادا کرتا گیا یہاں تک کہ اس کا سب قرضہ سابق ادا کر دیا تو طالب اپنی قسم میں سچا رہا۔ اگر قسم کھائی کہ زید پر جو میرا مال ہے وزن کر کے لے لوں گا پھر زید نے اس کو بغیر وزن کیے ہوئے دے دیا اور اس سے لے لیا^(۱) تو حانث ہوا اور اگر وکیل قرض خواہ نے وزن کر کے لیا تو قرض خواہ سچا رہا اور اسی طرح اگر قرض دار نے قسم کھائی کہ مجھ پر جو اس کا ہے وزن کر کے دے دوں گا پھر قرض دار کے وکیل نے وزن کر کے دے دیا تو وہ اپنی قسم میں سچا رہا اور اسی طرح اگر طالب و مطلوب دونوں نے اسی طرح قسم کھائی جیسے ہم نے بیان کیا ہے پھر ہر ایک نے اس کام کے واسطے جس پر قسم کھائی ہے وکیل کیا تو وکیل کا فعل مثل ان کے خود فعل کے ہوگا اور اس طرح اگر ہر ایک نے قبل قسم کے وکیل کیا ہو پھر ہر ایک کے وکیل نے بعد اپنے موکلوں کی قسم کے موافق قسم کے کیا تو ہر ایک کی قسم پوری ہوگئی اس واسطے کہ تو وکیل ہر ایک کی طرف فعل مستدام ہے پس بعد قسم کے اس کی استدامت ہر ایک سے بمنزلہ اس کے ہے کہ بعد قسم کے از سر نو وکیل کیا یہ سب آخر جامع میں مذکور ہے اور یہ مسئلہ بعض کے قول کا موید ہے اور قول بعض یہ ہے کہ اگر قرض خواہ نے کسی کو وکیل کیا کہ زید سے میرا قرضہ قبض کر لے پھر قسم کھائی کہ اس قرضہ کو قبض^(۲) نہ کروں گا پھر اس کی قسم کے بعد وکیل نے اس پر قبضہ کیا تو چاہیے کہ حالف اپنی قسم میں حانث ہو جائے اور وجہ تائید یہ ہے کہ تو وکیل فعل مستدام ہے پس بعد قسم کے گویا جدید تو وکیل بقبضہ ہوئی اور فعل وکیل مثل اس کے فعل کے ہے پس گویا اس نے قبضہ کیا اور حانث ہوا کذا فی المحیط و وجہ التائید میں المترجم۔

قرض دار نے اپنے قرض خواہ سے کہا کہ میں نے تیرا مال کل کے روز ادا نہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر قرض

خواہ غائب ہو گیا تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کا قرض قاضی کو دے دے پس اگر دے دیا تو حانث نہ ہوگا:

قرض دار نے اپنے قرض خواہ سے کہا کہ واللہ تیرا قرضہ پنجشنبہ تک ادا کر دوں گا پھر ادا نہ کیا یہاں تک کہ روز پنجشنبہ کی فجر طلوع ہوگئی تو اپنی قسم میں حانث ہوا اس واسطے کہ اس نے پنجشنبہ کو غایت قرار دیا ہے اور غایت اس میں داخل نہیں ہوتی ہے جس کی غایت قرار دی گئی ہے جبکہ غایت اخراج نہ ہو اور اگر کہا کہ واللہ تیرا قرضہ پانچ روز تک ادا کر دوں گا تو جب تک^(۳) پانچویں روز کا

۱۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے لفظ درہم کا استعمال کیا جس کا اطلاق عرف عرب میں کم از کم تین پر ہوتا ہے پس صورت اول میں چونکہ ایک ایک کر کے لیا اس واسطے حانث ہوا اور صورت دوم میں نہیں ۱۲۔

(۱) اس نے وزن کر کے نہ لیا ۱۲۔ (۲) اس پر قبضہ نہ کروں گا ۱۲۔ (۳) نہ ادا کرنے میں ۱۲۔

آفتاب غروب نہ ہو جائے تب تک حائث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قرض خواہ نے قسم کھائی کہ اپنے قرض دار سے آج اپنا قرضہ قبض نہ کروں گا پھر طالب نے قرض دار مذکور سے اسی روز کوئی چیز اس قرضہ کے عوض خریدی اور اسی روز بیع پر قبضہ کیا تو حائث ہوگا اور اگر بیع پر کل کے روز قبضہ کیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر بعد قسم کے اسی روز قرض دار سے کوئی چیز بطور بیع فاسد کے خریدی اور اس پر اسی روز قبضہ کر لیا پس اگر اس کی قیمت مثل قرضہ یا زیادہ ہو تو حائث نہ ہوگا اور اگر اس روز قرض دار کی کوئی چیز تلف کر دی پس اگر تلف کی ہوئی چیز مثلی ہو یعنی اس کا تاوان اس کے مثل دینا ہوتا ہے نہ اس کی قیمت تو حائث نہ ہوگا اور اگر قیمتی ہو پس اگر اس کی قیمت مثل قرضہ کے یا زیادہ ہو تو حائث ہوگا لیکن یہ شرط ہے کہ پہلے غصب کر کے پھر تلف کی اور اگر بدوں غصب کیے ہوئے تلف کی ہو مثلاً جلا دیا تو حائث نہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے اور قرض دار نے اپنے قرض خواہ سے کہا کہ میں نے تیرا مال کل کے روز دانہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر قرض خواہ غائب ہو گیا تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کا قرضہ قاضی کو دے دے پس اگر دے دیا تو حائث نہ ہوگا اور قرضہ سے بھی بری ہو گیا اور یہی مختار ہے اور وہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں قاضی نہیں ہے تو حائث ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قرض خواہ غائب نہ ہو بلکہ موجود ہے لیکن وہ مال قرضہ کو قبول نہیں کرتا ہے پس اگر اس کے سامنے اس حیثیت سے رکھ دیا کہ اگر قبضہ کرنا چاہے تو اس کا ہاتھ اس مال تک پہنچ سکتا ہے تو حائث نہ ہوگا اور قرضہ سے بھی بری ہوگا اور اسی طرح اگر غاصب نے اسی طرح مال مغضوب واپس کرنے کی قسم کھائی اور جس سے غصب کیا ہے وہ اس کو قبض نہیں کرتا ہے پس غاصب نے اسی طرح کیا تو بری ہو گیا اور حائث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور منقش میں ہے کہ ابن ساعد نے فرمایا کہ میں نے امام ابو یوسف کو فرماتے سنا کہ ایک شخص نے اپنے قرض دار سے کہا کہ واللہ میں تجھ سے جدا نہ ہوں گا حتیٰ کہ تو میرا حق دے دے آج کے روز اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے دے پھر وہ دن گذر گیا اور اس نے ساتھ نہ چھوڑا اور قرض دار نے قرضہ بھی دیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر یہ دن گذر جانے کے بعد اس سے جدا ہو گیا تو حائث ہوگا اور اسی طرح اگر کہا کہ تجھ سے جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہ تجھے سلطان کے پاس پہنچاؤں گا آج کے روز یا یہاں تک کہ تجھ کو مجھ سے سلطان چھوڑا دے پھر یہ دن گذر گیا اور اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس کو سلطان کے پاس نہ لے گیا اور نہ سلطان نے اس کو حالف سے چھوڑا آیا تو بھی یہی حکم ہے کہ جب بیحائث ہوگا کہ اس کا ساتھ بعد اس کے ترک کرے ورنہ حائث نہیں ہو اور اگر اس نے دن کو مقدم کیا باس طور کہا کہ آج تجھے نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے دے پھر دن گذر گیا اور اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور نہ اس نے قرضہ دیا تو حائث نہ ہو اور اگر اس دن کے بعد اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو حائث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر زید نے قسم کھائی کہ عمرو سے تقاضا نہ کروں گا پھر عمرو کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے تقاضا نہ کیا تو حائث نہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر قرض خواہ نے قسم کھائی کہ اگر نہ لیا میں نے تجھ سے اپنا مال جو میرا تجھ پر آتا ہے کل کے روز تو میری بیوی طالق ہے اور قرض دار نے بھی قسم کھائی کہ کل کے روز اس کو نہ دوں گا پس قرض خواہ نے اس سے جبراً لے لیا تو وہ دونوں حائث نہ ہوں گے اور اگر اس سے یہ ممکن نہ ہو تو اس کو قاضی کے پاس کھینچ لے جائے پس جب اس سے مخاصمہ کیا تو اپنی قسم میں سچا ہو گیا اور ایک نے اپنے قرض دار سے قسم لی کہ واللہ تیرا حق فلاں روز ضرور ادا کروں گا اور تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا اور بغیر تیری اجازت کے نہ جاؤں گا پھر روز موعود پر حالف آیا اور اسی روز قرضہ سب ادا کر دیا اور لیکن اس نے ہاتھ نہیں پکڑا اور بدوں اس کی اجازت کے چلا گیا تو یہ حالف قرض دار حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اپنا مال تجھ پر نہ چھوڑوں گا اور اس کو قاضی کے پاس لے گیا پس قاضی نے اس کو قید کیا یا اس سے قسم لے لی تو حالف اپنی قسم میں سچا ہو گیا یہ خلاصہ میں ہے اور اسی طرح اگر اس کو قاضی کے پاس نہ لے گیا اور

رات ہونے تک اس کو ساتھ سے نہ چھوڑا تو بھی سچا ہو گیا یہ سرخی میں ہے۔ قال المتر جم عبارة المسئلة هكذا لادع مالی علیک و حلف علیہ آہ فتدبر اور اگر عربی میں قسم کھائی^(۱) کہ لیعطیتہ مع حل المال^(۲) او عند حله او حین بحیل المال او حیث یحل اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو جس وقت مال دینے کا وقت آئے اسی ساعت میں دے دے اور اگر اس ساعت سے زیادہ تاخیر ہو گئی تو حائث ہوگا یہ مبسوط میں ہے قال المتر جم قولہ دے دے یعنی دینے میں مشغول ہو جائے^۱ فافہم۔

ایک نے اپنی بیوی کے حق میں قسم کھائی کہ اگر میں ہر روز اس کو ایک درہم نہ دوں تو اس کو طلاق ہے:

اگر قرض دار نے قسم کھائی کہ فلاں روز اس کو قرض ادا کروں گا پھر روز مذکور سے پہلے ادا کر دیا یا قرض خواہ نے اسکو ہبہ کر دیا یا بری کر دیا پھر وہ دن آیا حالانکہ اس پر قرضہ کچھ نہیں تو امام اعظم و امام محمد کے نزدیک حائث نہ ہوگا اور اگر قرض دار نے اس کو میتنے وارث یا وصی کو ادا کر دیا تو قسم میں سچا رہا ورنہ حائث ہوگا یہ وجہ کروری میں ہے۔ ایک نے اپنی بیوی^(۳) کے حق میں قسم کھائی کہ اگر میں ہر روز اس کو ایک درہم نہ دوں تو اس کو طلاق ہے پس کبھی اس کو غروب کے وقت دیتا ہے اور کبھی عشاء کے وقت دیتا ہے تو فرمایا کہ اگر درمیان ایک رات و دن خالی نہ گزر جائے کہ اس میں درہم نہ دے تو اپنی قسم میں سچا رہے گا یہ بحر الرائق میں ہے۔

زید نے قسم کھائی کہ نہ تاخیر کروں گا عمرو سے اپنے مال کی جو زید کا اس پر آتا ہے پھر اس کے تقاضے سے خاموش رہا یہاں تک کہ مہینہ گذر گیا تو حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے تاخیر نہیں دی یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے فتاویٰ نسفی میں لکھا ہے کہ اپنے قرض دار سے قسم لی کہ مجھ سے منہ نہ چھپائے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا^(۴) پس جب اس نے اس کو طلب کیا اور اس کو طلب کرنا معلوم ہوا اور ظاہر نہ ہوا حائث ہو جائے گا اور اگر وہ پوشیدہ بازار میں گیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر قرض خواہ نے طلب کیا اور اس کو معلوم نہ ہوا تو حائث نہ ہوگا اور اگر قرض خواہ دو آدمی ہوں اور دونوں نے قرض دار سے اس طرح قسم لی پھر اس نے ان میں سے ایک کا قرضہ ادا کر دیا تو اس کے حق میں قسم باقی رہے گی یہ خلاصہ میں ہے اور شیخ اوز جندی سے دریافت کیا گیا کہ قرض دار نے اپنے قرض خواہ سے کہا کہ اگر میں نے تیرا قرض بروز عید ادا نہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر عید کا روز آیا لیکن اس شہر کے قاضی نے کسی دلیل سے جو اس کے پاس ہے اس دن کو عید نہیں قرار دیا ہے اور اس میں نماز پڑھی ہے تو فرمایا کہ اگر کسی شہر کے قاضی نے اس روز کے عید کا روز ہونے کا حکم دیا تو یہ دوسرے شہر والوں کے واسطے بھی لازم ہوگا جب کہ مطالع مختلف نہ ہوں جیسے رمضان کا روزہ ہونے میں حکم ہے یہ محیط میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ ہر ماہ اس کو ایک درہم دوں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے اور اس نے اول ماہ میں قسم کھائی ہے تو یہ مہینہ بھی اس کی قسم میں داخل ہوگا اور چاہیے کہ اس مہینہ نکل جانے سے پہلے اس کو ایک درہم دیں دے اور اس طرح اگر آخر ماہ میں قسم کھائی ہو تو بھی یہی حکم ہے اور اس طرح اگر یوں کہا ہو کہ مہینہ میں تو بھی یہی حکم ہے اور اس طرح اگر قسم کھانے والے پر مال قسط وار ہو کہ ہر مہینہ کے انسلان پر اس پر ایک قسط کا ادا کرنا آتا ہو پس اس نے قسم کھائی کہ اس کو ہر مہینہ میں قسط ادا کروں گا تو اسی مہینہ میں اس پر قسط لازم ہو گئی کہ اس کی معیاد آچکی ہے پس اگر اس نے اس مہینہ کے آخر ہونے تک ادا کر دی یعنی اس مہینہ کی قسط کو تو اپنی قسم میں سچا

۱۔ پس اگر وہ تھیلی کھول کر ادا کرنے کی غرض سے گنے و پرکھنے و تولنے لگا اور کھوٹے دکھرے کے جدا کرنے میں کسی قدر دیر بھی ہوئی تو تاخیر میں اس کا شمار نہ ہوگا۔ ۲۔ کیونکہ محاورہ میں اسی طرح بول چال جاری ہے پس اس سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے دن ہی کو خاص کیا ہے۔ ۳۔ بعد قسم گذشتہ کا جب جھڑا ہوگا اور آئندہ سے از روئے حلف واجب ہے اور نیز یہ مہینہ جس میں قسم کھائی ہے واجب الادا ہے۔ ۴۔

(۱) قرض دار نے یا مطلوب نے ۱۲۔ (۲) مال دینے کا وقت آجائے ۱۲۔ (۳) نفقہ کی بابت ۱۲۔ (۴) تا ادا قرضہ بنا بر عرف ۱۲۔

رہا یہ مبسوط میں ہے اور ایک نے قسم کھائی کہ جو مجھ پر ہے ضرور اس کے ادا کرنے میں کوشش بلیغ کر دوں گا تو وہ اس مال کو بھی فروخت کرے جو در صورت قاضی کے یہاں ناش ہونے کے قاضی اس کو اس کی طرف سے فروخت کرتا یہ ظہیر یہ میں ہے۔

مسائل متفرقہ

ایک نے اس طرح قسم کھائی کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں مالک ہوں الا سودرہم کا حالانکہ وہ اس سے کم کا مالک تھا تو حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر وہ فقط سودرہم ہی کا مالک ہو تو بھی حائث نہ ہوگا اور اس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر وہ سودرہم سے زیادہ کا مالک ہو تو حائث ہوگا اور اگر اس کی ملک میں سودرہم نہ ہوں مگر اس کی ملک میں دینار ہوں جو سودرہم سے زائد ہیں تو حائث ہوگا اور اسی طرح اگر اس کے پاس تجارت کے غلام ہوں یا اسباب تجارت یا ایسے سوانم جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو حائث ہوگا خواہ پورا انصاب ہو یا نہ ہو اور اگر اس کی ملک میں غلام خدمت ہوں یا ایسا مال جو جنس زکوٰۃ سے نہیں ہے مثل دور و عقار و اسباب و واسطے تجارت کے نہیں ہے تو حائث نہ ہوگا یہ سراج و باج میں ہے۔ ایک شخص مر گیا اور اس نے وارث چھوڑا اور میت کا ایک شخص پر قرضہ ہے پس وارث مذکور اس قرض دار کے پاس آیا اور اس سے مناصبہ کیا پس قرض دار نے قسم کھائی کہ اس شخص (۱) کا مجھ پر کچھ نہیں ہے پس اگر وہ اس کے مورث کی موت سے آگاہ نہ تھا تو مجھے امید ہے کہ حائث نہ ہوگا اور اگر آگاہ تھا تو حائث ہوگا اور یہی مختار ہے یہ خلاصہ میں ہے اور اصل میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میرے لیے کچھ مال نہیں ہے حالانکہ اس کا قرضہ کسی مفلس یا تو انگریز ہے تو حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر کسی نے اس کا مال غصب کر لیا ہو اور اس کو تلف کر ڈالا اور اس کا اقرار کرتا ہو یا وہ مال معینہ موجود ہو مگر وہ انکار کرتا ہو تو بھی یہی حکم ہے اور اگر مال مغصوب بعینہ موجود ہو اور غاصب اقرار کرتا ہو کہ میں نے فلاں سے غصب کر لیا ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور اگر کسی کے پاس اس کی ودیعت ہو اور مستودع مقرر ہو تو حائث ہوگا اور اگر اس کے پاس قلیل یا کثیر سونا یا چاندی ہوگی تو حائث ہوگا اور اسی طرح اگر اس کے پاس مال تجارت یا مال سوانم ہو تو بھی یہی حکم ہے اور اگر اس کے پاس اسباب و حیوان غیر سالمہ ہوں تو استحساناً حائث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ زید سے جس حق کا دعویٰ کرتا ہے اس سے صلح نہ کروں گا پھر کسی کو وکیل کیا جس نے زید سے اس کی بابت صلح کر لی تو حائث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ زید سے خصومت (۲) نہ کروں گا پھر اس کو اس کے ساتھ خصومت کے واسطے وکیل کیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ زید سے مصالحہ نہ کروں گا پھر اس سے صلح کرنے کے واسطے وکیل کیا کہ اس نے صلح کر لی تو قضاء حائث ہوگا اس واسطے کہ صلح میں عہدہ بذمہ وکیل ان میں ہے یہ محیط سرخسی میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ یہ ہزار درہم خرچ نہ کروں گا پھر ان سے اپنا قرضہ ادا کیا تو حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ عرف میں یہ خرچ کرنا نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ حائث ہوگا اور اگر اس طرح بھی نہ دینے کی نیت کی ہو تو بالاتفاق حائث ہوگا اس واسطے کہ اس نے اپنے اوپر سختی کی نیت بیان کی ہے لیکن صرف میں اس کی تصدیق نہ ہوگی یہ وجہ کروری میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ قرضہ اپنے ذمہ نہ لوں گا پھر کسی عورت سے نکاح کیا تو بلحاظ دین مہر کے حائث نہ ہوگا اور اگر بیع سلم میں درہم (۳) لیے تو حائث ہو یا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ ایسا فعل نہ کروں گا تو اس کو ہمیشہ کے واسطے ترک (۴) یہ ہدایہ میں ہے۔ اور اگر قسم کھائی کہ ضرور ایسا کروں گا تو ایک بار

۱۔ ظاہر ایوں صحیح ہے اگر اس کی ملک میں درہم ایک ہی سو ہوں مگر آہ واللہ اعلم ۱۲۔ ۲۔ جس کے پاس ودیعت رکھی گئی ہے ۱۲۔ ۳۔ قال المترجم اطلاق مال والیت کلام بنا عرف کے جن کو شامل ہو وہ مال ہوں گے ورنہ نہیں ۱۲۔

(۱) وارث مذکور ۱۲۔ (۲) ناش یا جواہد ہی ۱۲۔ (۳) یادینار وغیرہ ۱۲۔ (۴) ورنہ حائث ہوگا ۱۲۔

کرنے سے قسم پوری ہو جائے گی خواہ اس نے باکراہ اس کو کیا ہو یا خوشی سے خواہ یاد سے یا بھولے سے خواہ خود اپنے واسطے یا غیر کی طرف سے وکیل ہو کر اور اگر اس نے اس فعل کو نہ کیا تو اس کے حادث ہونے کا حکم نہ دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی طرف سے اس فعل سے پاس ہو جائے اور اس کی یہ صورت ہے کہ وہ بدوں اس فعل کے کرنے کے مر جائے پس اس پر واجب ہے کہ کفارہ ادا کرنے کی وصیت کر جائے یا یہ صورت ہے کہ محل فعل فوت ہو جائے جیسے قسم کھائی کہ زید کو ماروں گا یا یہ کہ گردہ روٹی کھاؤں گا پھر زید اس کے فعل سے پہلے مر گیا یا روٹی کسی نے کھائی تو حادث ہوگا اور یہ اس وقت ہے کہ قسم مطلق ہو اور اگر مقید ہو مثلاً قسم کھائی کہ اس روٹی کو آج کے روز کھا جاؤں گا تو قبل وقت گزرنے کے فوت محل فعل سے امام اعظمؒ و امام محمدؒ کے نزدیک قسم ساقط ہوگی اور امام ابو یوسفؒ نے اس میں خلاف کیا ہے یہ فتح القدیر میں ہے۔

قسم کھائی کہ فلاں کی خدمت نہ کروں گا پھر اجرت پر اس کی قیص سی دی تو حادث نہ ہوگا:

ایک نے قسم کھائی کہ حرام نہ کروں گا تو نکاح فاسد سے حادث نہ ہوگا اور اس طرح چوپایہ بہائم کے ساتھ وطی کرنے سے بھی حادث نہ ہوگا الا آنکہ کوئی بات ایسی ہو کہ وہ اس امر پر دلالت کرے کہ یہ بھی مراد تھی جیسے مثلاً کھانے والا گاؤں کے جاہل گنواروں میں سے ہو جو بہائم و چوپایوں کے پیچھے چلتے ہیں یہ سراجیہ میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ کچھ وصیت نہ کروں گا پھر اس نے مرض الموت میں ہبہ کیا تو حادث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر اپنے مرض الموت میں اپنے باپ کو خرید ا کہ وہ اس کی طرف سے آزاد ہو گیا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر قسم کھائی کہ آج اس کو سو درہم ہبہ کروں گا پھر اس کو ایسے سو درہم ہبہ کیے جو واہب کے کسی دوسرے پر قرضہ میں اور اس کو ان کے وصول کر لینے کا وکیل کر دیا تو اپنی قسم میں سچا ہو گیا اور ہبہ کرنے والا قبل موہوب لہ کے قبضہ کرنے کے مر گیا تو موہوب لہ اس پر قبضہ نہ کر سکے گا اس واسطے کہ وہ وارثوں کی ملک ہوگئی یہ فتح القدیر میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ زید جس امر کا حکم کرے گا اور جس سے منع کرے گا اس میں اس کی اطاعت کروں گا پھر اس کے بعد زید نے اس کو اس کی بیوی سے جماع کرنے سے منع کیا پھر اس نے اپنی بیوی سے جماع کیا تو حادث نہ ہوگا بشرطیکہ یہاں کوئی ایسی بات نہ ہو جو اس پر دلالت کرے کہ ایسے اوامر انواہی بھی مراد تھے۔ قسم کھائی کہ فلاں کی خدمت نہ کروں گا پھر اجرت پر اس کی قیص سی دی تو حادث نہ ہوگا اور اگر بلا اجرت سی دی تو حادث ہونے کا ثبوت ہے یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے اور اگر کہا کہ کل مال جو میری ملک ہی ہدی ہے پس دوسرے نے کہا کہ اور مجھ پر اس کے مثل ہے تو دوسرے پر لازم ہوگا کہ اپنا تمام مال خواہ مال اول سے کم ہو یا زیادہ ہو یا برابر ہو ہدی کر دے لیکن اگر اس کی نیت ہو کہ اول کے مال کے برابر ہدی ہے تو قسم اسی قدر پر ہوگی قال المتزجم ہدی سے مراد وہ مال کہ فقرا نے مکہ معظمہ کو صدقہ دیا جائے۔

اگر کہا کہ کل مال کہ میں اس کا مالک ہوں سال بھر تک پس وہ ہدی ہے پس دوسرے نے کہا مثل اس کے تو دوسرے پر کچھ لازم نہ ہوگا یہ ایضاً میں ہے۔ اگر ایک نے قسم کھائی کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا ہوں حالانکہ وہ اس کو صورت سے پہچانتا ہے مگر نام سے نہیں پہچانتا ہے یعنی نام نہیں جانتا ہے تو حادث نہ ہوگا اسی طرح یہ مسئلہ اصل میں مذکور ہے اور فرمایا کہ لیکن اگر اس نے صورت سے بھی نہ پہچاننے کی نیت کی ہو تو حادث ہوگا پس اگر اس نے ایسی نیت کی تو اس نے اپنے اوپر سختی کر لی اور لفظ اس مراد کو محتمل ہے اور اور یہ اس وقت ہے کہ مخلوف علیہ کا کچھ نام ہو اور اگر اس کا کچھ نام نہ ہو مثلاً ایک شخص کے یہاں فرزند پیدا ہوا اور پڑوسی نے دیکھ کر قسم کھائی کہ میں اس فرزند کو نہیں پہچانتا ہوں حالانکہ ہنوز اس کا نام نہیں رکھا گیا ہے تو وہ حادث ہوگا اس واسطے کہ وہ اس کو صورت

سے پہچانتا ہے اور نام اس کا کوئی خاص نہیں ہے تا کہ اس کی شناخت شرط کی جائے یہ محیط و ظہیر یہ میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ یہ فعل نہ کروں گا مادامیکہ فلاں اس شہر میں ہے پھر فلاں مذکور یہاں سے چلا گیا پس اس نے یہ کام کیا پھر وہ لوٹ آیا پھر اس نے دوبارہ یہ فعل کیا تو حانث نہ ہوگا یہ فتح القدر میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ بروز جمعہ کوئی عمل نہ کروں گا کوئی کام نہ بناؤں گا اور اس شخص کے پاس کپڑا تھا جس کی قمیص تیار کرانی منظور تھی پس اس کو درزی کے پاس لے گیا اور اس کو امر کیا کہ اس کی قمیص ہی دے تو حانث نہ ہوگا یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے مجموع النوازل میں لکھا ہے کہ زید نے عمرو کے پاس کوئی چیز ہدیہ بھیجی پس عمرو نے کہا کہ اگر میں نے تجھے اس ہدیہ کے عوض یہ قبائلی دی تو میرا غلام آزاد ہے پھر کچھ زمانہ گذرا پھر عمرو نے اس کو دس درہم دیے اور اس سے باہم صلح (یعنی قبائلی سے) کر لی تو حانث ہو گیا اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ جب تک قبائلی ہے اور وہ زندہ ہے تب تک حانث نہیں ہوگا چنانچہ اگر اس کے بعد قبائلی دی تو اپنی قسم میں سچا ہو گیا یہ خلاصہ میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ اس قلم سے نہ لکھوں گا پھر اس کو توڑ ڈالا پھر دوبارہ اس کو درست کر کے اس سے لکھانہ ہوگا اور اسی طرح اگر قسم کھائی کہ اس چھری سے نہ کاٹوں گا پھر اس کو توڑ کر دوبارہ بنا کر اس سے تراشنے کا کام لیا تو حانث نہ ہوگا یہ حاوی میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں نے تیرا گھوڑا تجھ سے عاریت مانگا پس تو نے مجھے نہ دیا تو میرا غلام آزاد ہے تو اس صورت میں بھی چاہیے کہ دینے سے انکار کرنا اس کے فعل لینے مانگنے کے ساتھ پایا تو حانث ہو جائیگا:

قسم کھائی کہ فلاں عورت کی صورت نہ دیکھوں گا پھر نقاب کے ساتھ اس کی صورت پر نظر گئی تو حانث نہ ہوگا جب تک کہ آدھے سے زیادہ چہرہ کھلا نہ ہو یہ امام محمد نے فرمایا ہے قسم کھائی کہ فلاں کی صورت نہ دیکھوں گا پھر اس کی صورت باریک پردہ یا شیشہ کے نیچے سے دیکھی جس کے پیچھے سے اس کی صورت ظاہر ہوتی تھی تو حانث ہوا بخلاف اس کے اگر آئینہ پر نظر ڈالی اور اس میں اس کا چہرہ نظر آیا تو حانث نہ ہوگا یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اگر میں نے فلاں کو دیکھا پس میں نے اس کو نہ مارا تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس کو بقدر ایک میل یا زیادہ دوری سے دیکھا تو امام محمد نے فرمایا کہ حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے تجھ کو نہیں دیکھا ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تجھ سے ملاتی ہو پس میں نے تجھ پر سلام نہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے تو چاہیے کہ ملاقات ہونے کی ساعت میں سلام کرے اور اگر ایسا نہ کیا تو حانث ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کہا کہ اگر میں نے تیرا گھوڑا (۱) تجھ سے عاریت مانگا پس تو نے مجھے نہ دیا تو میرا غلام آزاد ہے تو اس صورت میں بھی چاہیے کہ دینے سے انکار کرنا اس کے فعل یعنی مانگنے کے ساتھ پایا (۲) جائے اور اگر اس کے سوائے اور نیت کی ہو تو قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے مہنتی میں لکھا ہے۔ اگر قسم کھائی کہ فلاں کی جانب نہ دیکھوں گا پھر اس کے پاؤں یا ہاتھ یا سر کی طرف نظر کی تو امام محمد نے فرمایا کہ اگر پاؤں یا ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کو نہ دیکھا تو اس کا دیکھنا یہی ہے کہ اس کے منہ یا سر یا بدن کی طرف نظر ڈالے اور اگر اس کے سر (۳) کے اوپر کی طرف نظر ڈالی تو بھی اس کو نہ دیکھا اور امام محمد نے فرمایا کہ اگر اس کو دیکھا اور در حالیکہ اس کو نہیں پہچانتا ہے تو اس کا دیکھنا متحقق ہوا اور اگر اس کو سر سے پاؤں تک مثل کفن کے کپڑے میں لپیٹا ہوا دیکھا اور اس کا سر و بدن الگ الگ ظاہر ہوتا ہے مگر کپڑا ایسا ہے کہ اس

۱۔ لیکن اس میں تامل ہے کیونکہ رویت اور ملاقات میں فرق ہے پس جس وقت اس نے اپنے غلام سے یوں کہا کہ اگر میں نے تجھ کو دیکھا پھر تجھ کو نہ مارا تو تو آزاد ہے یا اپنی بیوی سے اسی لفظ کے ساتھ طلاق مطلق کی پھر اس کو ایک میل کے فاصلے سے دیکھا تو حانث ہوگا اور اگر یوں کہا کہ اگر میں تجھ سے ملاتی ہوں انج تو حانث نہ ہوگا۔ ۱۲۔

کی سب صورت ظاہر کرتا ہے یعنی مثلاً ایسا باریک کپڑا ہے کہ جس کے اندر سے اس کے سر یا بدن کی شکل و ہیئت کھلتی ہے تو اس کو دیکھنا ثابت ہو اور اگر اس کپڑے میں ہے اس کا بدن معلوم نہ ہوتا ہو تو اس کو نہیں دیکھا اور اگر اس کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کو دیکھا اور اگر اس کے سینہ و پیٹ کو دیکھا تو اس کو دیکھا اور اگر اس کے سینہ و پیٹ میں سے اکثر حصہ (۱) دیکھا تو اس کو دیکھا اور اگر تھوڑا نصف سے کم دیکھا تو اس کو نہ دیکھا اور کسی عورت کی نسبت قسم کھائی کہ اس کو نہ دیکھوں گا پھر عورت مذکورہ کو نقاب ڈالے ہو نیکیا لست میں بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے دیکھا تو اس کو دیکھا الا آنکہ اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے چہرہ کو نہ دیکھوں گا تو دیانتاً فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اس کے قول کی تصدیق ہوگی مگر قضاء تصدیق نہ ہوگی لیکن اگر قسم مذکورہ سے پہلے ایسی گفتگو ہو کہ جو اس مراد پر دلالت کرے تو قضاء بھی ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ اگر میں نے فلاں کو دیکھا تو میرا غلام آزاد ہے پھر اس کو مردہ یا کفن پہنایا ہو دیکھا حالانکہ اس کا منہ ڈھانک دیا گیا ہے تو امام محمدؒ نے فرمایا کہ حائث ہوگا کیونکہ دیکھنا زندگی و مرگ دونوں پر ہے یعنی خواہ زندہ دیکھا تو اس کا دیکھنا کہلانے کا خواہ مردہ دیکھا تو بھی ایسا ہی ہے کہ بعد موت کے دیکھ لینا ایسا ہے جیسے زندگی میں دیکھنا یہ محیط میں ہے۔

اگر زید نے کہا کہ اگر میں نے عمرو کو حرام پر نہ دیکھا تو میری بیوی طالق ہے پھر عمرو کو دیکھا کہ وہ اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت میں ہے تو امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ وہ حائث ہوگا:

زید نے عمرو سے کہا کہ اگر میں نے خالد کو دیکھا پس تجھ کو آگاہ نہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر خالد کو عمرو کے ساتھ دیکھا تو امام اعظمؒ و امام محمدؒ کے نزدیک زید حائث نہ ہوگا اور اس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر زید نے کہا ہو کہ اگر میں خالد کو دیکھوں پس اس کو تیرے پاس نہ لاؤں تو میرا غلام آزاد ہے اور باقی مسئلہ مثل مذکورہ بالا واقع ہوا تو بھی اس کا غلام آزاد نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے ہشام نے امام محمدؒ سے روایت کی ہے اگر کسی نے کہا کہ واللہ فلاں کی موت و زندگی میں حاضر نہ ہوگا تو امام محمدؒ نے فرمایا کہ زندگی میں حاضر ہونا یہ ہوگا کہ اس کے غم و شادی میں حاضر نہ ہو اور موت میں حاضر ہونا یہ ہے کہ اس کے مرگ و جنازے پر حاضر نہ ہو۔ اگر زید نے کہا کہ اگر میں نے عمرو کو حرام پر نہ دیکھا تو میری بیوی طالق ہے پھر عمرو کو دیکھا کہ وہ اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت میں ہے تو امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ وہ حائث ہوگا اس واسطے کہ یہ حرام نہیں ہے مکروہ ہے یہ ظہیر یہ میں ہے اور ایک نے فارسی میں کہا کہ ہزار درہم از مال من بدرویشان دادہ اور وہ تنہا ہی کہنے پایا تھا کہ کسی نے اس کا منہ بند کر لیا حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ آگے یوں کہے کہ اگر چنین کنم تو مشائخ نے فرمایا ہے کہ احتیاطاً ہزار درہم صدقہ کر دے اور اگر طلاق یا عتاق کے ساتھ قسم منعقد کرنے کا قصد تھا اور ایسا واقع ہوا تو طلاق و عتاق کچھ واقع نہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

نوائد شمس الاسلام میں ہے کہ ایک نے اپنا کپڑا دھو بی کو دیا پھر دھو بی انکار کر گیا پھر اس شخص نے قسم کھائی کہ اگر میں نے تجھے نہ دیا ہو تو میرا غلام آزاد ہے حالانکہ اصل میں اس شخص نے اس کے پسر یا شاگرد پیشہ کو دیا تھا تو فرمایا کہ اگر پسر یا شاگرد پیشہ

۱۔ اس مسئلہ میں تاویل کی ضرورت ہے مثلاً اس نے عمر بھرا مرنا جائز میں نہ دیکھا سوائے اجنبی عورت سے تخلیہ کے تو حائث ہوا یا عبارت میں ہو ہے اور صحیح اس طرح ہے اگر زید نے کہا کہ اگر میں نے عمرو کو حرام پر نہ دیکھا ہو تو میری بیوی طالق ہے اور حال یہ ہے کہ اس نے بیان کیا کہ وہ یہ ہے کہ میں نے عمرو کو دیکھا تھا کہ اس نے ایک اجنبیہ عورت کے ساتھ تخلیہ کیا تھا اور بس تو امام ثانی نے فرمایا کہ اپنی قسم میں وہ سچا نہیں ہے بلکہ اس نے جھوٹی قسم کھائی اس واسطے کہ یہ حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے قول یہ صحیح ہے لیکن تاہل یہ کہ عوام حرام و مکروہ میں فرق نہیں کرتے ہیں غیر ازینکہ یہاں ظاہر پر مبنی ہے فافہم ۱۲۔

مذکور اس کے عیال میں سے ہو تو یہ شخص حائث نہ ہوگا الا اسی صورت میں کہ اس کی یہ نیت ہو کہ دھوبی ہی کو دیا تھا یہ خلاصہ میں ہے۔ ایک نے عربی میں اپنی بیوی کی طلاق کی قسم اس امر پر کھائی کہ لا یدع فلانا یمر علی هذه القنطرة یعنی نہ چھوڑوں گا فلاں کو کہ اس پلے سے گزرے پھر اس کو فقط زبان سے منع کیا تو قسم میں سچا ہو جائے گا۔ ایک نے اپنے پسر سے کہا کہ اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ تو فلاں کے ساتھ کام کرے تو میری بیوی طالق ہے پس اگر پسر مذکور بالغ ہو کہ بقول اس کے روکنے کے اس کو قدرت حاصل نہ ہو پس اس کو زبان سے منع کر دیا تو قسم میں سچا ہو گیا اور اگر پسر صغیر ہو تو قسم میں سچے ہونے کے واسطے شرط ہے کہ قول و فعل دونوں سے منع کرے۔ ایک نے اپنے صہر کی مقبوضہ زمین کا دعویٰ کیا اور قسم کھائی کہ اگر میں نے یہ دعویٰ چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس زمین کو لے لوں تو میری بیوی طالق ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر ہر ماہ میں اس سے ایک بار مخاطبہ کیا اور پورا مہینہ کبھی خصوصت کو ترک نہ کیا تو حائث نہ دے گا اور اگر قسم کھائی کہ واللہ نہ چھوڑ دوں گا اس کو کہ اس قبضہ سے نکل جائے پھر وہ نکل گیا اور حالف کو نہ معلوم ہوا تو وہ حائث نہ ہوگا اور اگر اس کو نکلتے دیکھا اور چھوڑ دیا منع نہ کیا تو حائث ہوگا اور اگر اس کے ساتھ ہو گیا مگر اس پر قدرت نہ پائی یہاں تک کہ وہ چلا گیا تو حائث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ اگر یہ جملہ گیہوں ہوں تو میری بیوی طالق ہے پھر دیکھا تو وہ گیہوں اور چھو ہارے تھے تو حائث نہ ہوگا اور یہ صاحبین کا قول ہے اور اگر کہا کہ ان كانت هذه الجملة الاخسطة یعنی اگر ہو یہ تمام الا گیہوں تو میری بیوی طالق ہے پھر وہ گیہوں و چھو ہارے نکلے تو وہ حائث ہو اور اگر وہ سب گیہوں ہوں تو امام ابو یوسف کے قول میں حائث نہ ہوگا اور امام محمد نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں حائث نہ ہوگا یہ ایضاح میں ہے اور اس طرح اگر کہا کہ اگر ہوئے یہ جملہ سوائے گندم یا غیر گندم کے تو یہ مثل الا گندم کہنے کے ہے یعنی حکم صاحبین میں باہم اختلاف مثل اختلاف مذکور ہے یہ بدائع میں ہے اور منقشی میں بروایت ابراہیم مذکور ہے کہ امام محمد نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے سفر دراز نہ کیا تو فلاں باندی آزاد ہے تو فرمایا کہ اگر اس کی نیت تین روز یا زیادہ دور کے سفر کی ہو تو قسم اس کی نیت پر ہوگی ورنہ اگر کچھ نیت نہ کی تو یہ قسم ایک مہینہ کے سفر پر ہوگی یہ محیط میں ہے اور فتاویٰ ماوراء النہر میں مذکور ہے کہ شیخ ابو نصر و بوسی سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے قسم کھائی مگر یہ بھول گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی یا روزے رکھنے کی یا بیوی کے طلاق کی ان میں سے کسی کی قسم کھائی تھی تو فرمایا کہ اس کی قسم طلاق پر ہوگی الا آنکہ اسکو یاد ہو جائے یہ تاتار خانہ میں ہے قال المترجم اس سے ظاہر ہوا کہ ان تین میں طلاق کو ترجیح ہوگی نظر برفقہ و حفظ دین اللہ تعالیٰ فافہم۔ اگر کسی نے ایک خادم کی نسبت جو اس کی خدمت کرتا تھا قسم کھائی کہ اس سے خدمت نہ چاہوں گا تو اس مسئلہ میں دو وجہیں ہیں اول آنکہ خادم مذکور اس کا مملوک ہو اور اس میں چار صورتیں ہیں اور ایک یہ کہ بعد قسم کے اس سے ظاہر و صریح خدمت چاہی مثلاً کہا کہ میری خدمت کر دے تو حائث ہوگا اور یہ ظاہر ہے دوسری صورت یہ کہ قسم کے بعد اس نے بدون حکم مولیٰ کے مولیٰ کی خدمت کی اور مولیٰ نے اس کو خدمت کرنے دی حالانکہ وہ قسم سے پہلے خدمت مولیٰ کے حکم سے کیا کرتا تھا تو اس صورت میں بھی حائث ہوگا اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے بغیر حکم مولیٰ کے اس کی خدمت کی اور پہلے بھی بغیر حکم مولیٰ کے خدمت بدوں اس کے حکم کے کی اور قسم سے پہلے اس کی خدمت بالکل نہیں کرتا تھا تو اس صورت میں بھی حائث ہوگا اور رہی وجہ درم وہ یہ کہ خادم مذکور کسی دوسرے کا مملوک ہو اور اس میں بھی وہی چار صورتیں ہیں جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں مگر اس وجہ میں پہلی دونوں صورتوں کے وقوع سے حائث ہوگا اور چھٹی

دونوں صورتوں کے وقوع سے حائث نہ ہوگا اور قسم کھائی کہ خادم مملوک زید سے خدمت نہ چاہوں گا پھر خادم مذکور سے صریح نہیں بلکہ اشارہ سے وضو کا پانی یا پینے کے واسطے پانی مانگا اور قسم کھانے کے وقت اس کی کچھ نیت نہ تھی کہ کیونکر یا کیسی خدمت نہ چاہوں گا تو یہ شخص حائث ہوگا خواہ خادم فلاں اس کو بجالائے یا نہ لائے اور اگر اس نے قسم میں یہ نیت کی ہو کہ اس طرح خدمت نہ چاہوں گا کہ میں اس سے خدمت کو کہوں تب وہ خدمت کر دے تو دیانتہ فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اس کے قول کی تصدیق ہوگی مگر قضاء تصدیق نہ ہوگی اور اگر قسم کھائی کہ زید کا خادم میری خدمت نہ کریں گا پھر قسم کھانے والا اور زید مذکور ساتھ دسترخوان پر کھانے کو بیٹھے اور یہی خادم ان لوگوں کے کھانے و پانی کی خبر گیری کرتا ہے تو حالف مذکور حائث ہوگا اور واضح ہو کہ اندر گھر کے ہر کام کاج کو خدمت بولتے ہیں اور باہر کے کام کاج مثل خرید و فروخت وغیرہ کو تجارت بولتے ہیں اور وہ خدمت میں شمار نہیں ہے اور واضح ہو کہ خادم کا اطلاق غلام و باندی دونوں پر ہے خواہ بڑا ہو یا اتنا چھوٹا کہ خدمت کر سکتا ہے یہ ظہیر یہ میں ہے۔ قال المترجم ہمارے عرف میں گھر کے کام کاج کے ساتھ بازار کے ضروری خرید و فروخت بھی خدمت میں داخل ہے اور یہی ان کے عرف میں بھی بنا بر صریح مراد ہے اور بالفظ خادم سو ہمارے عرف میں غلام پر بولا جاتا ہے اور نیز نوکر ماہواری و سالانہ پر بھی اور باندی پر خادم نہیں بلکہ خادمہ کا اطلاق ہوتا ہے اور اسی طرح ماہانہ یا سالانہ پر جو عورت نوکر ہو خادمہ کہلاتی ہے بنا بریں مسائل کی تخریج میں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے ہے فافہم۔ واللہ تعالیٰ الملہم للصدق والصواب۔

واضح ہو کہ مزارعت میں کاشتکار و مالک زمین جہاں مذکور ہوتے ہیں ان سے پوتہ دار مالک زمین مراد نہیں ہیں بلکہ بٹائی پر جو تنے بونے والے کاشتکار میں اور نیز بٹائی پر باغ بچانے والے عامل ہیں و مالک باغ و زمین سے انکار عقد مزارعت و مخابرات وغیرہ ہوتا ہے جو بجمیع اقسامہا کتاب المزارعة سے مع تفصیل و اختلاف دریافت ہوگا وہاں سے معلوم کرنا چاہیے جب یہ معلوم ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ کتاب میں مذکور ہے کہ ایک نے قسم کھائی کہ میں فلاں کے کاشتکاروں میں سے نہ ہوں گا حالانکہ اس وقت وہ فلاں کا کاشتکار ہے یا کہا کہ میں فلاں کا جوتانہ ہوں گا حالانکہ اس کی زمین اس کے پاس ہے اور فلاں مذکور غائب ہے کہ اسی ساعت وہ اس عقد کو جو دونوں کے درمیان ہے نہیں توڑ سکتا ہے تو حائث ہو جائے گا اس واسطے کہ حائث ہونے کی شرط یہی ہے کہ وہ فلاں کے کاشتکاروں میں سے ہو اور یہ بات پائی گئی اور وہ اس میں معذور بعد شرعی نہیں ہے اور اگر وہ مالک زمین کے پاس عقد مزارعت توڑنے کے واسطے چلا تو حائث نہ ہوگا اگر چہ مالک زمین شہر میں نہ ہو کہیں باہر ہو اس وجہ سے کہ اتنی دیری قسم سے مستثنیٰ ہوتی ہے پس ایسا ہوا کہ جیسے کسی نے قسم کھائی کہ اس گھر میں نہ رہوں گا اور نکلنا چاہا مگر اس نے کنجی نہ پائی الا بعد ساعت کے تو جب تک وہ کنجی کی تلاش میں ہے حائث نہیں ہوتا ہے پس ایسا ہی یہاں بھی ہے اور اگر وہ بعد قسم کے مالک زمین کے پاس جا کر اس کو اس کی زمین واپس کر دینے کے کام کے واسطے سوائے اور کام میں مشغول ہو تو حائث ہوگا جیسے کہ مسئلہ مکان میں سوائے کنجی کی جستجو کے اور کام میں مشغول ہونے سے حائث ہوتا ہے اس واسطے کہ یہ کام قسم سے مستثنیٰ نہیں ہے اور اگر مالک زمین کے پاس باہر جانے سے اس کو کسی آدمی نے روکا یا مالک زمین شہر میں موجود ہے مگر اس کے پاس پہنچنے سے کسی نے اس کو روکا تو حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ فلاں کا کاشتکار ہونا یہی اس کے حائث ہونے کی شرط ہے اور باوجود منع کے اس کا تحقق نہ ہوگا چنانچہ اس کا بیان اوپر گزرا ہے حتیٰ کہ اگر اس نے یوں کہا کہ اگر میں نے فلاں کی کاشتکاری نہ چھوڑی تو ایسا تو واجب ہے کہ مسئلہ دو قولوں (یعنی اختلاف ہو ۱۲) پر ہو جیسے مکان کی سکونت کے مسئلہ میں ہم نے بیان کیا ہے یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔

اگر مالک زمین یا کاشتکار نے کہا کہ اگر این گشتت مرابکار آمد زن من طالقہ است :

شیخ نجم الدین سے دریافت کیا گیا کہ اہل حرفہ میں سے ایک نے اپنے کار کے اوزاروں سے کام نہ بتانے پر یوں قسم کھائی کہ اگر دست برآنہا نہم فکذا یعنی اگر ان کو ہاتھ سے چھوؤں تو میرا غلام آزاد ہے مثلاً پھر اس نے ان کو ہاتھ سے چھوا مگر کام بنانے کے واسطے نہیں یوں ہی چھوا پس آیا حانث ہوگا یا نہیں تو شیخ نے فرمایا کہ نہیں یہ خلاصہ میں ہے۔ ایک نے فارسی میں کہا کہ من کشتت کنم درین دہ زن من طالقہ است یعنی اگر میں اس گاؤں میں کھیتی کروں تو میری بیوی طالقہ ہے پس اگر اس نے خر بوزہ یا کپاس کی کھیتی کی تو حانث ہوگا اور اگر کسی دوسرے کی بوئی ہوئی کھیتی کو پانی دیا یا زمین گوزی وہل چلائی کی یا کھیتی کاٹی تو حانث نہ ہوگا اور اگر دوسرے کو مزارعت پر دیں یا زراعت کے واسطے کوئی شخص اجرت پر مقررہ کیا جس نے زراعت کی تو بھی حانث نہ ہوگا بشرطیکہ یہ شخص ایسا ہو کہ خود اپنے آپ اس کام کو کرتا ہو کیونکہ اس نے اپنے آپ کھیتی نہیں کی اور اگر اس نے یہ بھی نیت کی ہو کہ دوسرے کو حکم کروں گا تو اس کی تصدیق ہوگی کہ وہ حانث ہوگا اس واسطے کہ اس کے لفظ سے یہ معنی بھی نکل سکتے ہیں اور اس میں اس کے اوپر سختی زائد ہوتی ہے نہ آسانی اور اگر اس کے غلام یا مزدور نے اس کے واسطے کھیتی کی حالانکہ قبل قسم کے اس کو حکم دیتا تھا تو وہ حانث ہوگا الا آنکہ اس نے خاصاً اپنے ہاتھ سے کھیتی نہ کرنے کی نیت کی ہو یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔ اگر مالک زمین یا کاشتکار نے کہا کہ اگر این گشتت مرابکار آمد زن من طالقہ است یعنی اگر یہ کھیتی میرے کام آئے تو میری بیوی طالقہ ہے پھر اپنا حصہ پیداوار فروخت کر دیا یا کسی کو قرضہ میں دیں دیا یا بہہ کر دیا تو حانث ہوگا اور اگر اس کو کسی نے تلف کر دیا پس مالک نے اس سے تاوان لیا اور لے کر اپنے نفقہ میں خرچ کیا تو حانث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں نے فلاں کے لیے ایک عدلیہ یا نصف عدلیہ کی ضمانت کر لی تو میری بیوی طالقہ ہے پھر اس کے واسطے کسی کی طرف سے دس درہم غطریفہ کی ضمانت قبول کر لی تو حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے واسطے کام نہ بناؤں گا اور وہ موزہ دوز ہے پس اس نے دوکان دار سے موزہ درزی کے اوزار خریدے اور موزہ بنایا پھر فلاں مذکور کے ہاتھ فروخت کر دیا تو حانث نہ ہوگا یہ خزانۃ المقتدین میں ہے اور شیخ الاسلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد کے پاس کرایہ بھاڑے پر چلانے کی چیزیں ہیں اس نے قسم کھائی کہ اگر چیزوں کو کرایہ پر دوں تو میری بیوی پر طلاق ہے پھر اس کی بیوی نے ان چیزوں کو اجارہ پر دیا اور ان کی اجرت خود وصول کی خواہ خود خرچ کی یا اپنے شوہر کو دے دی تو شوہر مذکور حانث نہ ہوگا اور اگر مرد مذکور نے مستاجروں سے کہا ہو کہ تم ان مکانوں میں رہو تو شیخ الاسلام سے یہ صورت منقول نہیں ہے اور بعض نے فرمایا کہ چاہیے کہ یہ صورت بھی اجارہ پر ہو اور وہ اپنی قسم میں حانث ہو جائے اور اسی طرح اگر اس نے مستاجروں سے ایسے مہینہ کی اجرت کا تقاضا کیا جس میں وہ لوگ مکانوں میں نہیں رہے ہیں تو بھی یہ امر اس کی طرف سے اجارہ ہے اور وہ اپنی قسم میں حانث ہوگا اور اگر اس نے ایسے مہینہ کی اجرت کا تقاضا کیا جس میں وہ رہ چکے ہیں یعنی چڑھا ہوا پچھلا (یعنی گزرے ماہ کا) کرایہ مانگا تو یہ اجارہ نہیں ہے اور وہ اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ سونا یا چاندی نہ چھوؤں گا پھر اس میں سے مضروب یعنی سکہ زدہ چھو تو حانث ہوگا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔

۱۔ یہیوں وغیرہ تو کھیتیاں معلوم ہیں ان سے تو حانث ہی ہوگا نیز خر بوزہ و کپاس بونے سے بھی حانث ہوگا ۱۲۔

۲۔ عدلیہ قسم درہم ناقص کم قیمت و غطریفہ اس سے بہتر قسم درہم ہے ۱۲۔

(۱) پیشگی اجارہ کا دستور شرعی ہے ۱۲۔

اگر کسی نعل کی نسبت قسم کھائی کہ اس کو نہ پہنوں گا پھر اس کا شراک یعنی تسمہ کاٹ کر اس میں لگا کر اس کو پہنا تو حائث ہوا:

اگر قسم کھائی کہ لکڑی نہ چھوؤں گا پھر کسی درخت کی پالو چھوئی تو حائث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ جذع^۱ یا عود نہ چھوؤں گا تو ایسی صورت میں حائث ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ بال نہ چھوؤں گا پھر مکمل چھو تو حائث نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ صوف نہ چھوؤں گا پھر نمندہ چھو تو حائث نہ ہوگا یہ خزانۃ المفتین میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ وتد نہ چھوؤں گا پھر رشی پھوئی تو حائث نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ زمین پر نہ چلوں گا۔ پھر موزہ یا جوتا پہن کر زمین پر چلا تو حائث ہوگا اور اگر زمین پر فرش و بچھونا بچھا ہوا ہو اس پر چلا تو حائث نہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر کسی نعل کی نسبت قسم کھائی کہ اس کو نہ پہنوں گا پھر اس کا شراک یعنی تسمہ کاٹ کر اس میں لگا کر اس کو پہنا تو حائث ہوگا یہ خزانۃ المفتین میں ہے۔ اگر اپنی طرف اشارہ کر کے اس طرح کہا کہ اگر میرے اس سر کو کسی نے چھوایا اپنی طرف اضافت نہ کی یوں ہی کہا کہ اگر اس سر کو کسی نے چھو تو میری باندی آزاد ہے پھر قسم کھانے والے نے خود چھو تو حائث نہ ہوگا اور امام محمد نے رقیات میں بیان فرمایا کہ اگر قسم کھائی کہ آج کے روز بال نہ چھوؤں گا پھر اس نے اپنا سر چھو تو حائث نہ ہوگا اور اگر دوسرے کا سر چھو تو حائث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ قمار بازی نہ کروں گا پھر اس نے یہ کہا کہ دست عاریت دیا تو حائث ہوگا اور اگر مجاہری کی تو بنا بر قول مختار کے حائث نہ ہوگا یہ خزانۃ المفتین میں ہے۔

قسم کھائی میں پیش کہ خدائی فلاں نکنم و وکیل وے نہ کنم اگر کارے فریاید بکنم:

اگر قسم کھائی کہ شفعہ سپرد نہ کروں گا یعنی نہ دے دوں گا پھر خاموش رہا اور مخاصمہ نہ کیا یہاں تک کہ شفعہ باطل ہو گیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر شفعہ سپرد کرے کے واسطے کسی کو وکیل کیا تو حائث ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے۔ ایک شخص مزدوران کو مزدوری پر لیتا ہے کہ وہ اس کے واسطے کام بناتے ہیں پھر کسی کارگیر نے قسم کھائی کہ اس کے ساتھ کام نہ بناؤں گا پھر اس کی رائے میں آیا کہ اچھا اس کا کام بناؤں تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ جس چیز میں اس کا کام بنایا کرتا تھا وہ چیز اس سے خرید لے اور اس کو تیار کر کے پھر اسی کے ہاتھ فروخت کر دے اور اسی طرح اگر جو لاہ نے قسم کھائی کہ اگر ایک سال تک کسی کا سوت لوں اور اس کو اس کا کپڑا بن کر دوں تو میری بیوی طالق ہے تو اگر وہ اس سے سوت خرید کر کے بعد بنے کے اسی کے ہاتھ فروخت کر دے تو حائث نہ ہوگا اور اگر خمار بیوں سے سوت خریدنے کے بن دی تو حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ خمار مختص باسم علیحدہ ہے یہ فتاویٰ نسفی میں لکھا ہے کہ ایک نے قسم کھائی کہ میں پیش^۲ کہ خدائی فلاں نکنم و وکیل وے نہ کنم اگر کارے فریاید بکنم پس اس پر قسم کھائی پھر موکل نے کسی اور کو جس پر خالف نے قسم کھا کر معین کیا ہے مقرر کیا پھر موکل نے اس کو (۱) حکم کیا کہ اس کے (۲) واسطے یہ کام کر دے پس اگر یہ کام اس کے واسطے کریں گا تو بھی حائث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اگر میں نے اس بیت میں کوئی عمارت تعمیر کی تو میری بیوی طالق ہے پھر اس کی دیوار جو اس کے اور پڑوسی کے درمیان مشترک ہی خراب ہو گئی پھر اس نے یہ دیوار بنوائی اور اس سے قصد یہ کیا کہ پڑوسی کے بیت کی تعمیر کرتا ہوں تو اپنی قسم میں حائث ہوگا یہ خزانۃ المفتین میں ہے۔ شیخ الاسلام اوز جندی سے پوچھا گیا کہ کسی نے کہا کہ اگر میں نے کل کے روز فلاں کے گھر کو خراب نہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر وہ قید کیا گیا اور روکا گیا حتیٰ کہ اس نے فلاں کا گھر کل کے روز خراب نہ کیا تو فرمایا کہ اس میں مشائخ کا اختلاف ہے اور فتویٰ کے واسطے مختار یہ ہے کہ وہ حائث ہو جائے گا۔ یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۱ جذع شاخ درخت و عود لکڑی ۱۲۔ ۲ میں آئندہ فلاں کی کہ خدائی نہ کروں گا اور اس کی وکالت نہ کروں گا اور اگر کوئی کام فرمادے گا تو کروں گا ۱۲۔

(۱) خالف کو ۱۲۔ (۲) وکیل مقرر شدہ ۱۲۔

کتاب الحدود

اس میں چھ ابواب ہیں

باب : ①

حد کی تفسیر شرعی و اس کے رکن و شرط و حکم کے بیان میں

حد کی شرعی تفسیر:

شریعت میں حد ایسی عقوبت مقدرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق کے واسطے ہو۔ پس قصاص کو حد نہ کہیں گے کہ وہ حق العبد ہے اور تغزیر کو حد نہ کہیں گے اس واسطے کہ وہ مقدر نہیں ہے یہ ہدایہ میں ہے۔ اس کا رکن یہ ہے کہ امام المسلمین اس کو قائم کرے یا جو قائم کرنے میں امام کا نائب ہو اور شرط یہ ہے کہ جس پر حد قائم کی جائے وہ صحیح العقل، سلیم البدن ہو اور ایسا ہو کہ عبرت پکڑے اور ڈرے پس مجنون و جوشہ میں ہو مریض و ضعیف الخلق پر حد قائم نہ کی جائے گی الا بعد صحت و افاقہ کے یہ محیط سرخسی میں ہے۔

حکم و شرط:

اس کا اصلی حکم یہ ہے کہ جس سے بندگان خار کو ضرور پہنچتا ہے اس سے انرجار ہو اور دارالاسلام فساد سے مصون رہے اور رہا گناہوں سے پاک ہو جانا سو اس کا اصلی حکم نہیں ہے اس واسطے کہ گناہوں سے پاک ہونا توبہ سے حاصل ہوتا ہے نہ حد قائم کرنے سے اور اسی واسطے کافر پر حد قائم کی جاتی ہے حالانکہ اس کے واسطے گناہوں سے طہارت نہیں ہوتی ہے یہ تبیین میں ہے۔

باب : ②

زنا کے بیان میں

زنا اس کو کہتے ہیں کہ پوری کرے مرد اپنی شہوت بصفتمحرم ہونے کے ایسی عورت کے قبل میں جو دونوں طرح کی ملک اور دونوں کے شبہ اور اشتباہ سے خالی ہو یا عورت اپنے اوپر ایسے ہی فعل کا قابودے یہ نہا یہ میں ہے اور پس مجنون و طفل عاقل کی وطی زنا نہ ہوگی اس واسطے کہ ان دونوں کا فعل بصفتمحرمت موصوف نہیں ہوتا ہے یہ محیط سرخسی میں ہے۔ اور اس طرح اگر مرد نے اپنے پس یا مکاتب کی باندی یا اپنے غلام مازوں مدیوں کی باندی سے وطی کی یا جہاد میں لوٹ کی باندی سے بعد دارالاسلام میں احراز کرنے کے غازی نے وطی کی تو زنا نہ ہوگا کیونکہ شبہ ملک بیمن ہے اس طرح اگر ایسی عورت سے وطی کی جس سے بغیر گواہوں کے نکاح کیا ہے یا ایسی باندی سے وطی کی جس سے بدوں اجازت اس کے مولیٰ نے نکاح کیا ہے یعنی باندی نے اپنے مولیٰ سے

۱ یعنی اس کی مقدار معلوم و مفروض ہو کہ اس میں کمی و زیادتی نہ ہو سکے ۱۲۔ ۲ اور اس طرح جو عورت زن سے حاملہ ہو اس پر حد قائم کرنے میں تاخیر کی جائے گی یہاں تک کہ وہ وضع عمل کرے ۱۲۔

اجازت نہیں لی تھی یا غلام نے ایسی عورت سے وطی کی جس سے بدوں اجازت اپنے مولیٰ کے نکاح کیا ہے یا مرد نے ایسی باندی سے وطی کی جس کو اپنی آزادہ عورت کے اوپر بیاہ لایا ہے تو یہ زنا نہیں ہے بسبب شبہ ملک نکاح کے۔ اسی طرح اگر پسر نے اپنے باپ کی باندی سے اس شبہ پر وطی کی کہ میرے واسطے حلال ہے تو زنا نہیں ہے کیونکہ شبہ استبہاہ ہے یہ نہایت میں ہے اور رکن زنا یہ ہے کہ اتقائے ختامین ومواراة حشفہ پایا جائے اس واسطے کہ اسی قدر سے ایلاج و وطی متحقق ہو جائے گی۔ اس کی شرط یہ ہے کہ تحریم سے واقف ہو حتیٰ کہ اگر اس نے تحریم کو نہ جانا تو بسبب شبہ واقع ہونے کے حد قائم نہ کی جائے گی یہ محیط سرخسی میں ہے اور زنا حاکم کے نزدیک بطور ظاہر اس طرح ثابت ہوگا کہ چار گواہ اس کی بلفظ زنا گواہی دی تو قاضی نے بلفظ وطی و جماع یہ تبیین میں ہے اور جب چار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی مجلس واحد میں گواہی دی تو قاضی اس سے دریافت کرے گا کہ زنا کیا چیز ہے اور اس نے کہاں زنا کیا پس جب انہوں نے بیان کیا جو حقیقتہ زنا ہے اور کہا کہ اس نے اس طرح داخل کر دیا جیسے سرمہ دانی کے اندر سلائی تو اب اس سے دریافت کرے گا کہ کیفیت زنا کیا ہے۔ پھر جب انہوں نے کیفیت زنا بیان کر دی تو ان سے وقت دریافت کرے گا پھر جب انہوں نے ایسا وقت بیان کیا کہ اس کو زمانہ دراز نہیں گذرا ہے یعنی ایسا وقت بیان کیا کہ یہ لازم نہیں آتا ہے کہ زمانہ دراز گذرنے پر گواہی ادا ہوئی ہے تو پھر جس عورت سے زنا کیا ہے اس کو پوچھے گا پھر اس نے مکان دریافت کرے گا پھر جب انہوں نے مکان بیان کیا اور قاضی ان کی عدالت کو جانتا ہے تو مشہور علیہ سے اس کا احصان^(۱) دریافت کرے گا پس اگر اس نے کہا کہ محسن ہوں یا اس کے انکار احصان پر گواہوں نے اس کی محسن ہونے کی گواہی دی تو حاکم اس سے احصان کی تعریف دریافت کرے گا کہ کس کو کہتے ہیں پس اگر اس نے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا تو اس کو رجم کرے گا۔ اگر اس نے ٹھیک ٹھیک نہ بیان کیا مگر گواہوں سے اس کا محسن ہونا ثابت ہو تو گواہوں سے احصان کو دریافت کرے گا پس اگر انہوں نے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا تو اس کا رجم کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر مشہور علیہ نے کہا کہ میں محسن نہیں ہوں اور گواہوں نے اس کے محسن ہونے پر گواہی نہ دی تو اس کو درے مارے جائیں گے اور اگر قاضی ان گواہوں کی عدالت نہ جانتا ہو تو مشہور علیہ کو ان کی عدالت ظاہر ہونے تک قید رکھے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر چار گواہوں نے کسی مرد پر زنا کی گواہی دی پس ان سے زنا کی کیفیت و ماہیت دریافت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ تجھ سے نہیں بیان کریں گے تو ان کی گواہی قبول نہ ہوگی مگر ان پر حد^(۲) بھی واجب نہ ہوگی کیونکہ جتنے عد اس کی گواہی میں چاہیے اتنی تعداد ان کی ہے کیونکہ گواہوں کی تعداد کامل ہونا و جوہ حد^(۳) سے مانع ہے جیسے کہ مشہور علیہ پر چار عورتوں نے گواہی دی تو ان پر حد قذف نہیں ماری جائے گی اور اسی طرح اگر بعض گواہوں نے کیفیت و ماہیت بیان کی اور بعض نے بیان نہ کی تو مرد مشہور علیہ پر حد قائم نہ کی جائے گی اور نیز گواہوں پر بھی حد قذف لازم نہ آئے گی یہ مسبوط میں ہے اور زنا کا ثبوت مرد کے اقرار سے بھی ہوتا ہے یہ بحر الرائق میں ہے اور اگر اس نے سوائے قاضی کے کسی دوسرے کے سامنے جس کو اقامت حدود کا اختیار نہیں حاصل ہے اقرار کیا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے اگر چہ چار مرتبہ اقرار کیا ہو پس اس کے ایسے اقرار پر گواہی مقبول نہ ہوگی یہ تبیین میں ہے اور ضرور ہے کہ اقرار صریح ہو اور اس کا کذب ظاہر نہ ہو پس گونگے کو اقرار پر حد نہ ماری جائے گی اگر اپنی تحریر کے ذریعہ سے یا اشارہ سے اقرار کیا اسی طرح^(۴) اس پر گواہی بھی مقبول نہ ہوگی اس واسطے کہ شاید وہ شبہ کا مدعی ہو یہ نہر الفائق میں ہے۔ اگر

۱۔ یعنی مرد و عورت کا موضع ختنہ باہم مل جائیں اور مرد کا سر ذکر خرچ کے اندر غائب ہو جائے ۱۲۔ ۲۔ داخل کرنا ۱۲۔ ۳۔ یعنی نکاح شرعی کے ساتھ ان کو ازواج حاصل ہوا کہ نہیں ۱۲۔

(۱) یعنی حد قذف ۱۲۔ (۲) یعنی حد قذف سے ۱۲۔ (۳) یعنی معائنہ کی گواہی ۱۲۔ (۴) جس کو زبان سے اظہار نہیں کر سکتا ہے ۱۲۔

مرد نے اقرار کیا کہ میں نے گوئی عورت سے زنا کیا یا عورت نے اقرار کیا کہ میں نے گونگے مرد سے زنا کیا تو دونوں میں سے کسی پر حد واجب نہ ہوگی یہ فتح القدیر میں ہے اور اسی طرح اگر مرد نے زنا کا اقرار کیا پھر ظاہر کیا کہ وہ محبوب ہے یا عورت نے اقرار کیا پھر ظاہر ہوا کہ وہ رتقا ہے بایں طور کہ عورتوں نے اس کے رتقاء^۱ ہونے کی گواہی دی قبل اس کے حد ماری جائے تو حد واجب نہ ہوگی اور یہ بھی ضرور ہے کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کی تکذیب نہ کرے چنانچہ اگر مرد نے زنا کا اقرار کیا اور عورت نے جس کے ساتھ اس فعل کا اقرار کرتا ہے انکار کیا یا عورت نے اقرار کیا اور مرد نے انکار کیا تو امام رحمۃ اللہ کے نزدیک دونوں میں سے کسی پر حد واجب نہ ہوگی یہ نہر الفائق میں ہے۔

ضرور ہے کہ اقرار ہے اور اقرار حالت ہوش میں ہو حتیٰ کہ اگر اس نے نشہ میں اقرار کیا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی یہ بحر الرائق میں ہے اور اگر اہ مائع صحت موجب شبہ ہے عورت کے حق میں یہ خزانۃ المفتیین میں ہے اور اقرار کی یہ صورت ہے کہ اقرار کنندہ عاقل بالغ اپنی ذات پر چار مرتبہ اپنی چار مجلسوں میں زنا کرنے کا اقرار کرے یہ ہدایہ میں ہے اور بعضوں نے کہا کہ مجالس (۱) قاضی کا اعتبار ہے اور اول اصح ہی کذافی السراج الوہاج اور یہی صحیح ہے یہ شرح طحاوی میں ہے اور زنا کے اقرار کنندہ کی مجلسوں کا مختلف ہونا ہمارے نزدیک شرط ہی کذافی الشمیٰ پس اگر اس نے مجلس واحد میں چار مرتبہ اقرار کیا تو یہ بمنزلہ ایک دفعہ اقرار کے ہے یہ جوہر نیزہ میں ہے۔ اگر اس نے ہر روز ایک مرتبہ یا ہر مہینہ ایک مرتبہ اقرار کیا یہاں تک کہ چار مرتبہ اقرار ہو گیا تو اس کو حد کی سزا دی جائے گی یہ ظہیر یہ میں ہے۔ مجالس اقرار کے اختلاف کی یہ صورت ہے کہ ہر بار وہ اقرار کرے قاضی اس کو رد کر دے پس چلا جائے یہاں تک کہ قاضی کی نظر سے غائب ہو جائے پھر آئے اور آکر اقرار کرے یہ کافی میں ہے اور امام المسلمین کو چاہیے کہ اقرار کنندہ کو اقرار سے زجر کرے اور کراہت ظاہر کرے اور اس کے ایک طرف دور کرنے کا حکم کرے یہ محیط میں ہے پس جب اس نے چار مرتبہ اقرار کیا تو اس کی حالت پر نظر کرے پس اگر معلوم ہو کہ یہ صحیح العقل ہے اور یہ ایسا ہے کہ اس کا اقرار جائز ہے تو اس سے دریافت کرے گا کہ زنا کیا ہے اور کیونکر ہوتا ہے اور کس کے ساتھ زنا کیا ہے اور کہاں زنا کیا ہے کیونکہ اس میں شبہ کا احتمال ہے یہ محیط سرخسی میں ہے اور رہا یہ سوال کہ کب زنا کیا ہے تو بعض نے فرمایا کہ زمانہ زنا دریافت نہ کرے گا اس واسطے کہ زمانہ دراز ہو جانا گواہی سے مانع ہے نہ اقرار سے اور اصح یہ ہے کہ زمانہ بھی دریافت کرے گا اس واسطے کہ احتمال ہے کہ شاید اس نے ایام نابالغی میں زنا کیا ہو پس جب اس کو بھی دریافت کر لیا اور ظاہر ہوا کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس سے دریافت کرے گا کہ وہ محسن ہے پس اگر اس نے کہا کہ وہ محسن ہے تو دریافت کرے گا کہ احسان کیا ہے پس اگر اس نے احسان کو بھی ٹھیک ٹھیک اس کے شرائط سے بیان کیا تو اس کے رجم کا حکم دے گا یہ تبیین میں ہے۔

اگر چار گواہوں نے ایک شخص پر زنا کرنے کی گواہی دی پس اس نے ایک مرتبہ اقرار کر لیا، اس

بابت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مابین اختلاف کا بیان:

اگر اقرار کنندہ نے کہا کہ میں محسن نہیں ہو اور گواہوں نے اس کے محسن ہونے کی گواہی دی تو امام اس کو رجم کر دے گا یہ محیط میں ہے اور اس کو تلقین کرنا مندوب ہے یعنی یوں کہے شاید تو نے بوسہ لیا ہوگا (۲) یا شاید تو نے چھوا ہوگا یا شاید تو نے شبہ سے وطی

۱۔ رتقا، یعنی رتق والی اور رتق ایک عارضہ ہے یعنی فرج عورت کے منہ پر ایک جھلی سخت پیدا ہو جاتی ہے جو مانع جماع ہوتی ہے ۱۲۔ ۲۔ یہاں تک کہ پورے مرتبہ پورے ہو جائیں ۱۲۔

(۱) یعنی قاضی کی چار مجلسوں میں ۱۲۔ (۲) یعنی عورت کا ۱۲۔

کی اور اصل میں فرمایا کہ شاید تو نے اس سے نکاح کر لیا ہے یا شبہ سے وطی کر لی ہے بجملمہ مقصود یہ ہے کہ اس کو ایسی بات تلقین کرے جس سے حدود ہو جائے کوئی لفظ کیوں نہ ہو یہ بحر الرائق میں ہے اور اگر چار گواہوں نے ایک شخص پر زنا کرنے کی گواہی دی پس اس نے ایک مرتبہ اقرار کر لیا تو امام محمدؒ نے نزدیک اس کو حد ماری جائے گی اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک حد نہ ماری جائے گی اور یہی اصح ہے یہ کافی میں ہے اور یہ اس وقت ہے کہ اس نے بعد قضاء کے اقرار کیا ہو اور اگر قبل قضاء کے اقرار کیا تو بالاتفاق ساقط ہو جائے گی یہ فتح القدیر میں ہے۔ چار گواہوں نے ایک شخص پر زنا کی گواہی دی پھر اس شخص نے بعد ان کی گواہی کے اقرار کیا پھر انکار کر گیا اور چار مرتبہ اس نے اقرار نہیں کیا ہے تو اس پر حد واجب نہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک شخص پر چار آدمیوں نے زنا کی گواہی دی اور اس کے ثبوت کا اس پر حکم دیا گیا پھر اس نے چار مرتبہ اقرار کیا تو اس پر حد قائم کی جائے گی یہ حاوی قدسی میں ہے اور اگر اس نے رجوع کر لیا تو اس کا رجوع کرنا صحیح ہوگا اور اسی کو امام طحاوی نے اختیار کیا ہے یہ غیاثیہ میں ہے اور اگر گواہوں کی گواہی کے بعد اس نے زنا کا اقرار کیا تو یہ گواہ حد قذف کی سزا نہ دیے جائیں گے اگرچہ چار سے کم ہوں یہ عتابیہ میں ہے۔ اگر اقرار کنندہ نے حد قائم کیے جانے سے پہلے یا حد قائم کیے جانے کے بیچ میں اپنے اقرار سے رجوع کر لیا تو اس کا رجوع کرنا قبول کیا جائے گا اور اس کی راہ چھوڑ دی جائے گی یہ ہدایہ میں ہے اور رجوع کرنا خواہ مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے ہو دونوں یکساں ہیں دونوں سے قبول کیا جائے گا یہ سراج و ہاج میں ہے اور ایسا ہی اگر قاضی کے نزدیک گواہی و اقرار سے زنا ظاہر ہو تو بھی یہی حکم ہے یہ فتح القدیر میں ہے۔

اگر ایک شخص بھاگا اور رجوع نہ کیا تو اس سے تعرض نہ کیا جائے گا اور اگر زنا پر ثابت رہا مگر محض ہونے سے رجوع کیا تو اس سے قبول کیا جائے گا اور سنگسار نہ کیا جائے گا بلکہ درے مارے جائے گے یہ ایضاح میں ہے۔ اگر کسی شخص پر حد زنا ثابت ہوئی یہ گواہی گواہان حالانکہ وہ محض ہے یا محض نہیں ہے پھر جب اس پر حد قائم کی گئی تو تھوڑی حد جاری ہونے کے بعد وہ بھاگ گیا اور داروغہ و عامل نے اس کو تلاش کر لیا پس وہ اسی وقت پکڑا گیا تو اس پر باقی حد بھی قائم کی جائے گی یہ مسبوط میں ہے۔ اگر بعد چند روز کے ساتھ آیا تو حد ساقط ہوگئی یہ عتابیہ میں ہے اور اقرار زنا میں ذمی و غلام مثل مسلمان آزاد کے ہیں خواہ غلام ماذوں ہو یا مجبور ہو یہ مسبوط میں ہے۔ اگر غلام نے خود زنا کا اقرار کیا تو اقرار میں اس کے مولیٰ کا حاضر^(۱) ہونا شرط نہیں ہے اور اگر لوگوں نے غلام پر زنا کی گواہی دی تو مولیٰ کا حاضر ہونا شرط ہے کیونکہ مولیٰ کو گواہوں میں طعن کا اختیار ہے یہ خزانۃ المفتیین میں ہے اور اگر خصی نے زنا کا خود اقرار کیا یا گواہوں نے اس پر گواہی دی تو اس پر حد جاری کی جائے گی اور یہی حکم غنیم کا ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اندھے نے اگر زنا کا اقرار کیا تو اس پر حد جاری کی جائے گی اور اگر مرد نے اقرار کیا کہ میں نے مجنون یا ایسی عورت نابالغہ سے جو قابل جماع ہے زنا کیا تو اس پر حد جاری کی جائے گی اور اگر عورت نے اقرار کیا کہ میں نے مجنون یا طفل سے جماع کیا تو اس پر حد واجب نہ ہوگی یہ ایضاح میں ہے اور اگر مرد نے اقرار کیا کہ اس نے ایسی عورت سے زنا کیا ہے کہ اس کو پہنچا نہتا نہیں ہے تو اس پر حد جاری کی جائے گی اور اسی طرح اگر اس نے اقرار کیا کہ میں نے فلانہ عورت سے زنا کیا حالانکہ یہ عورت غائب ہے تو استحساناً اس پر حد جاری کی جائے گی یہ فتح القدیر میں ہے اور امام محمدؒ نے جامع صغیر میں فرمایا کہ ایک مرد نے چار مرتبہ اقرار کیا میں نے فلانہ عورت

۱ یعنی گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی یا نصاب چار سے کم ہونے سے ثبوت نہ ہو تو گواہوں کو حد قذف یعنی تہمت لگانے کی حد نہ ماری جائے گی کیونکہ مدعا علیہ

مقرر ہو چکا ہے ۱۲۔ ۲ غلام ماذون وہ جس کو اس کے آقا کی طرف تجارت وغیرہ کی اجازت ہو اور غلام مجبور وہ ہے جس کو تجارت کی اجازت نہ ہو ۱۲۔

* (۱) یعنی صحت اقرار کے واسطے ۱۲۔

سے زنا کیا اور فلان کہتی ہے کہ مجھ سے اس نے نکاح کیا ہے یا عورت نے چار مرتبہ اقرار کیا کہ میں نے فلاں مرد سے زنا کیا اور فلاں کہتا ہے کہ میں نے اس سے نکاح کیا تو دونوں میں سے کسی پر حد واجب نہ ہوگی اور مرد پر اس کا مہر لازم آئے گا یہ محیط میں سے اور قاضی کا جاننا حدود میں حجت نہیں ہوتا ہے اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے اگرچہ قیاس^(۱) اس کے اعتبار کا مقتضی ہے یہ کافی میں ہے۔

☆ فصل

حدوؤان کی اقامت کی کیفیت کے بیان میں

جب حد واجب ہوگی اور مرد زانی محسن ہے تو اس کو پتھروں سے رجم کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے اور یہ شہر سے باہر میدان میں لے جا کر کیا جائے یہ ہدایہ میں ہے اور واضح رہے کہ رجم کے واسطے جو احسان معتبر ہے وہ یہ ہے کہ آزاد عاقل بالغ مسلمان ہو کہ جس نے کسی عورت آزاد سے بزکاح صحیح نکاح کیا اور اس سے دخول کر لیا ہو اور وہ دونوں صفت احسان پر موجود ہوں یہ کافی میں ہے پس بہ لحاظ قیو و مذکورہ اگر مرد نے اپنی بیوی سے ایسی خلوت کی جس سے مہر واجب ہوتا ہے اور عدت لازم ہوتی ہے تو محسن نہ ہو جائے گا اور جماع سے بھی محسن نہ ہوگا اگر نکاح فاسد ہو اور نیز جماع سے نکاح صحیح میں بھی محسن نہ ہوگا اگر اس عورت سے قبل نکاح کے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تو طالق ہے اس وجہ سے کہ وہ نفس عقد سے طالق ہو جائے گی پس اس کے بعد اس سے جماع کرنا زنا ہوگا و لیکن اس سے حد واجب نہ ہوگی کیونکہ بسبب اختلاف علماء کے اس میں شبہ واقع ہو گیا ہے اور اسی طرح اگر مرد مسلمان نے مسلمان عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کیا اور اس سے دخول کر لیا تو محسن نہ ہو جائے گا پس اس میں بھی یہی حکم ہے یہ مبسوط میں ہے اور دخول میں ایسا ایلا ج معتبر ہے جو قبل کے اندر ہو ایسا ہے کہ اس سے غسل واجب^(۲) ہو جائے اور شرط آنکہ صفت احسان دونوں میں دخول کے وقت ہو چنانچہ اور اگر دو مملوکوں کے درمیان وطی بہ نکاح صحیح حالت رقیق میں واقع ہوئی پھر دونوں آزاد ہو گئے تو وطی مذکورہ کی وجہ محسن نہ ہوں گے اور یہی حکم دو کافروں کا ہے اور اسی طرح اگر مرد آزاد نے کسی باندی یا صغیرہ یا مجنونہ سے نکاح کر کے اس سے وطی کر لی تو وہ محسن نہ ہوگا اور اسی طرح اگر مسلمان نے کتابیہ عورت سے نکاح کر کے وطی کی تو بھی یہی حکم ہے اور اس طرح اگر مرد میں ان باتوں میں سے کوئی بات ہو حالانکہ عورت آزادہ عاقلہ بالغہ مسلمہ ہو تو بھی یہی حکم ہے چنانچہ اگر شوہر کافر کے وطی کرنے سے پہلے عورت مسلمان ہو گئی پھر دونوں میں تفریق کیے جانے سے پہلے کافر نے اس سے وطی کر لی تو عورت اس دخول کی وجہ سے محسن نہ ہو جائے گی یہ کافی میں ہے۔ اگر مرد نے بعد اسلام یا عتق یا افاقہ کے اپنی عورت سے دخول کر لیا تو وہ محسن ہو جائے گا اور اس احسان میں زنا سے عفت شرط نہیں ہے یہ مبسوط میں ہے۔ اگر مرد مسلمان کے تحت میں حرہ مسلمہ ہو اور دونوں محسن ہوں پھر دونوں ساتھ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ منہا تو دونوں کا احسان باطل ہو گیا پھر اگر دونوں مسلمان ہو گئے تو ان کا احسان عود نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ بعد اسلام کے اس عورت سے دخول کرے^(۳) یہ فتح القدیر میں ہے۔ اگر بعد وجوب

۱۔ یعنی اگر قاضی کو خود یہ معلوم ہوا کہ فلاں شخص نے زنا کیا ہے تو حد جاری کرنے کے واسطے فقط اس کا علم بدوں اقرار و گواہی کے کافی نہیں ہے ۱۲۔ ۲۔ یعنی مثلاً

مرد نام ہو یا صغیر یا مجنون ۱۲۔

(۱) یعنی قیاس چاہتا تھا کہ اعتبار ہو ۱۲۔ (۲) کیونکہ دخول شرط ہے نہ خلوت صحیہ ۱۲۔ (۳) یعنی حشفہ اندر ہو جائے ۱۲۔

حد کے مرتد ہو گیا پھر مسلمان ہو گیا تو اس کو درے مارے جائیں گے اور رجم نہیں کیا جائے گا اور اگر درے ہی واجب ہوں تو اس کو درے نہ مارے جائیں گے یہ عتابیہ میں ہے۔

احسان کا ثبوت باقرار ہوتا ہے:

اگر احسان ثابت ہونے کے بعد بسبب معتود یا مجنون ہونے کے احسان زائل ہو گیا تو جب افاقہ حاصل ہو گا تب پھر طرفین کے نزدیک احسان عود کریں گا کہ وہ محسن ہو جائے گا اور امام ابو یوسف کے نزدیک عود نہ کرے گا جب تک کہ بعد افاقہ کے اپنی بیوی سے دخول نہ کرے یہ بحر الرائق میں ہے اور احسان کا ثبوت باقرار ہوتا ہے یا دو مردوں کی گواہی سے یا ایک مرد و دو عورتوں کی گواہی سے یہ خزانة المفتیین میں ہے اور اگر اس نے باوجود شرائط موجود ہونے کے دخول واقع ہونے سے انکار کیا پھر اگر اس کی بیوی کے ایسی مدت میں بچہ پیدا ہوا کہ اس کا ہونا مقصود ہو سکتا ہے تو شرعاً وہ (۱) وظیٰ کنندہ قرار دیا جائے گا یہ تمیین میں ہے اور احسان پر گواہی مثل مال پر گواہی کے ہے کہ شہادت لعلی الشہادت سے ثابت ہو سکتا ہے یہ ایضاً میں ہے۔ اگر زنا کنندہ کسی ذمی کا مسلمان غلام ہو پھر دو ذمیوں نے گواہی دی کہ اس نے اس غلام کو قبل زنا کے آزاد کیا ہے حالانکہ اس زانی میں سب شرائط احسان موجود ہیں تو ان دونوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی یہ کافی میں ہے اگر کسی مرد کی بیوی نے اقرار کیا کہ میں اس کی باندی ہوں پھر مرد نے زنا کیا تو رجم کیا جائے گا اور اگر اس نے قبل اس کے ساتھ دخول کرنے کے رقیب کا اقرار کیا پھر مرد نے زنا کیا تو استحساناً وہ رجم نہ کیا جائے گا۔ ایک مرد نے ایک عورت سے بغیر ولی کے نکاح کیا اور اس سے دخول کیا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اس سے یہ دونوں محسن نہ ہو جائیں گے اس واسطے کہ یہ نکاح غیر صحیح ہے قطعاً بسبب اختلاف علماء کے وان اخبار کے جو اس مسئلہ میں دار ہوئے ہیں یہ محیط سرخسی میں ہے۔

قاضی کو چاہیے کہ گواہوں سے دریافت کرے کہ احسان کیا ہے پس اگر انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے آزادہ عورت سے نکاح کیا اور اس سے دخول کیا ہے تو امام اعظم کے قول ثانی پر گواہوں کے اس کہنے پر کہ اس سے دخول کیا ہے اکتفا کیا جائے گا اور اس میں امام محمد نے خلاف کیا ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ اس کو مس کیا یا لمس کیا ہے تو بالا جماع اس قول پر اکتفا نہ جائے گا اور اگر کہا کہ اس سے جماع کیا یا مباحہ کیا تو بالا جماع اس پر اکتفا کیا جائے گا یعنی کافی ہے اور بقالی میں لکھا ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ اغتسل منہا یعنی اس سے غسل کیا جیسے بولتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی سے نہاں پر لیا تو اس پر اکتفا کیا جائے گا یہ محیط میں ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ اپنی بیوی سے لقا کیا یا قربت کی ہے تو اس پر اکتفا نہ کیا جائے گا یہ مبسوط میں ہے۔ منلقی میں امام محمد سے بروایت ابراہیم مذکور ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے خلوت کر لی پھر اس کو طلاق دیدی پھر شوہر نے کہا کہ میں نے اس سے وظیٰ کی ہے اور عورت نے کہا کہ اس نے مجھ سے وظیٰ نہیں کی ہے تو شوہر اپنے اقرار سے محسن ہو جائے گا اور عورت بسبب اپنے انکار کے محسن نہ ہوگی اور اسی طرح اگر اس سے دخول کیا اور طلاق دے دی اور کہا کہ یہ حرہ مسلمہ تھی اور عورت نے کہا کہ میں اس وقت نصرانیہ تھی تو بھی یہی حکم ہے یہ محیط میں ہے اور اگر اپنی بیوی سے در میں وظیٰ کر لی تو اس سے وہ محسن نہ ہوگا یہ مضمرات میں ہے۔ امام المسلمین کے واسطے مستحب ہے کہ جماعت مسلمانوں کو حکم دے کہ اقامت رجم کے واسطے حاضر ہوں یہ دشمنی میں ہے اور لوگوں کو

۱۔ یعنی اصل گواہوں نے اپنی گواہی پر اور دن کو گواہ کر دیا جیسا کہ کتاب الشہادت میں مفصل ہم نے بیان کیا ہے ۱۲۔ ۲۔ ظاہر لفظ قطعاً موافق مذہب امام

ابو یوسف کے ہے واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲۔

(۱) یعنی محسن اور ان کا باطل ہوگا ۱۲۔

پا بیے کہ رجم کے وقت مثل نماز کے صفت بستہ ہو جائیں ہر گاہ جو کسی قوم رجم کرائے تو وہ پیچھے چلی جائے اور ان کے واسطے دوسرے آگے بڑھیں اور رجم کریں یہ بحر الرائق و سران ہواج میں ہے اور مضائقہ نہیں ہے کہ زنا کار کو جو شخص پتھر مارے وہ عدا اس کے قتل کا قصد کرے لیکن اگر مرحوم اس کا ذی رجم محرم ہو تو اس کے حق میں عدا قتل کرنے کی نیت سے مارنا مستحب نہیں ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

جب رجم کرنا گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو تو واجب ہے کہ پہلے گواہ رجم کریں پھر امام پھر اور لوگ حتیٰ کہ اگر گواہوں نے ابتدا کرنے سے انکار کیا تو مشہود علیہ کے ذمہ سے حد ساقط^۱ ہو جائے گی مگر گواہوں پر حد واجب نہ ہوگی اس واسطے کہ ان کا رجم شروع کرنے سے انکار کرنا صریح رجوع از شہادت نہیں ہے یہ فتح القدیر میں ہے۔ اسی طرح اگر گواہوں میں سے ایک نے انکار کیا تو بھی یہی حکم ہے یہ تمیین میں ہے۔ اگر گواہ لوگ سب مر گئے یا ایک تو حد ساقط ہو جائے گی اور اسی طرح اگر سب یا ایک غائب ہو گیا تو بھی ظاہر الروایہ کے موافق یہی حکم ہے اسی طرح اگر گواہوں میں یا ایک میں ایسی بات ہوگئی جس سے وہ اہلیت شہادت سے خارج ہو گیا مثلاً کوئی مرتد ہو گیا یا اندھا گونگا یا فاسق ہو گیا یا کسی کا قذف کیا اور حد ماری گئی تو بھی حد ساقط ہو جائے گی اور اس میں کچھ فرق نہیں ہے کہ یہ امر گواہوں میں یا ایک میں قبل قضاء کے پیدا ہوا یا بعد قضاء کے قبل حد قائم کرنے کے پیدا ہوا بہر حال یہی حکم ہے کہ حد ساقط ہو جائے گی اور اگر ان گواہوں میں سے بعض کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں یا ایسا مریض ہو کہ پتھر نہ مار سکتا ہو اور سب گواہ حاضر ہوئے تو قاضی پتھر مارے گا اور اگر بعد ادائے گواہی کے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے گئے تو اقامت حد ممتنع ہو جائے گی یہ فتح القدیر میں ہے۔ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ گواہوں کی موت و غیبت سے حد ساقط و باطل نہ ہوگی اور اہم اسی کو اختیار کرتے ہیں یہ حاوی قدسی میں ہے۔ اگر مشہود علیہ محسن نہ ہو تو حاکم شہید نے کافی میں فرمایا کہ موت و غیبت کی صورت میں اس پر حد قائم کی جائے گی اور ما سوائے ان دونوں صورتوں کے باطل ہوگی یہ غایۃ البیان میں ہے۔

رجم میں مرد و عورت یکساں ہیں:

اس پر اجماع ہے کہ سوائے رجم کے باقی حدود میں گواہوں اور امام المسلمین کسی پر ابتدا کرنی واجب نہیں ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور قاضی نے اگر لوگوں کو رجم کا حکم دیا تو ان کو رجم کرنے کی گنجائش ہے اگرچہ انہوں نے ادا سے شہادت کو معائنہ نہ کیا ہو اور ابن سماعہ نے امام محمدؒ سے روایت کیا ہے کہ امام محمدؒ نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہے کہ قاضی فقیہ عادل ہو اور اگر فقیہ غیر عادل ہو یا عادل غیر فقیہ ہو تو لوگوں کو رجم کرنا روا نہیں ہے جب تک ادائے شہادت کو خود معائنہ نہ کریں یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر اس شخص نے خود اقرار کیا ہو تو امام المسلمین ابتدا کرے پھر عام مسلمان رجم کریں اور مرحوم کو غسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گی اور اگر غیر محسن ہو تو اس کی حد سو کوڑے ہیں بشرطیکہ آزاد ہو اور اگر غلام ہو تو پچاس کوڑے ہیں کہ حکم امام ایسے در سے سے اس کو مارے گا جس پر گھنڈی نہ ہو اور چوٹ ایسی لگائی جائے کہ درمیانی درجہ کی ہونہ ایسی کہ زخم سخت پہنچائے اور نہ ایسی کہ الم نہ ہو اور

۱ یعنی کیونکہ گواہوں کے انکار رجم سے شبہہ پایا گیا اور شبہہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے ۱۲۔ ۲ یعنی باوجود سالم العقل ہونے کے بصارت بھی رکھتا ہو یعنی اندھا

جو حد شارع نے مقرر فرمائی ہے اس سے زیادتی نہیں جائز ہے یہ کافی میں ہے۔ چاہیے کہ حد وہ قائم کرے جو عقل^(۱) رکھتا ہو اور دیکھتا ہو یہ ایضاً میں ہے۔ اس میں مرد و عورت یکساں ہیں پس اگر دونوں محسن ہوں تو دونوں رجم کیے جائیں گے یا دونوں محسن نہ ہوں تو ہر ایک پر سو درے مارے جائیں گے اور اگر ایک محسن اور دوسرا غیر محسن ہو تو محسن پر رجم اور دوسرے پر درے لازم ہوں گے اور اسی طرح اگر قاضی کے نزدیک گواہوں یا اقرار سے زنا ظاہر ہو جائے تو یہی حکم ہے یہ فتح القدر میں ہے۔

رجم کے واسطے گڑھا کھودا جائے گا:

حد و تعزیر کی سزا میں مرد ننگا کر دیا جائے گا فقط ایک ازار اس پر رہے گی اور اسی حالت میں اس کو سزا دے جائے گی شراب خواری کی سزا میں بھی ظاہر الروایۃ کے موافق یہی حکم ہے اور حد قذف کی سزا میں ننگا نہ کیا جائے گا لیکن حشو^(۱) فردہ اتار لیا جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور عورت کسی صورت میں ننگی نہ کی جائے گی مگر حشو و فردہ اس پر سے بھی اتار لیا جائے گا کذا فی الاختیار شرح المختار اور اگر عورت کے بدن پر سوائے حشو و فردہ کے اور کچھ نہ ہو تو یہ نہ اتارے جائے گے یہ عتابیہ میں ہے۔ عورت کو بٹھا کر حد ماری جائے گی اور رجم کی صورت میں اس کے واسطے گڑھا کھودا گیا تو بھی روا ہی اور اگر نہ کھودا گیا تو کچھ مضرت نہیں ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے لیکن گڑھا کھود دینا احسن ہے اور سینہ تک گڑھا گہرا کھودا جائے گا اور مرد کے واسطے گڑھا نہ کھودا جائے اور یہی ظاہر الروایۃ ہے یہ غایۃ البیان میں ہے۔ مرد کو تمام حد و میں کھڑے ہونے کی حالت میں سزا دی جائے گی الا آنکہ وہ لوگوں کو عاجز کرے تو باندھ دیا جائے گا یہ محیط سرخسی میں ہے اور ممدود کی یہ صورت بیان کی گئی ہے کہ زمین پر ڈال دیا جائے اور کھینچا جائے جیسا ہمارے زمانہ میں کیا جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ مد کی یہ صورت ہے کہ مارنے والا کوڑے کو کھینچے اور اپنے سر پر بلند کرے اور بعض نے کہا کہ مد یہ ہے کہ بعد مارنے کے کھینچے اور یہ سب اس واسطے نہ کیا جائے کہ یہ مستحق^(۲) سے زیادہ ہے یہ ہدایہ میں ہے اور کوڑے سوائے چہرہ اور فرج و آلہ تناسل اور سر کے اور تمام بدن پر متفرق مارے جائے گے یہ عتابیہ میں ہے اور محسن کے حق میں کوڑے مارنا و سنگسار کرنا دونوں نہ کیا جائے گا اور نہ باکرہ کے حق میں یہ کیا جائے کہ کوڑے مارے جائیں اور اس کے ساتھ وہ ایک سال کے واسطے غریب یعنی شہر بدر بھی کی جائے ہاں اگر امام المسلمین کی رائے میں تغریب یعنی شہر بدر کرنے میں مصلحت معلوم ہو تو اپنی رائے سے جس قدر مدت کے واسطے چاہے ازراہ سیاست و تعزیر شہر بدر کر دے نہ ازراہ حد اور یہ کچھ زنا کی صورت سے مختص نہیں ہے بلکہ ہر جرم میں جائز ہے اور یہ امام المسلمین کی رائے پر ہے یہ کافی میں ہے اور نہایہ میں تغریب کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ قید کی جائے اور یہ تفسیر احسن ہے کہ دوسرے اقلیم میں نکال دینے کی بہ نسبت قید کرنے میں زیادہ فتنہ دور ہوتا ہے یہ بحر الرائق و تبیین ہے اور اگر مریض پر حد واجب ہوئی پس اگر رجم کی حد واجب ہوئی تو فی الحال قائم کر دی جائے گی^(۱) اور اگر درے واجب ہوئے ہوں تو فی الحال نہ مارے جائے گے یہاں تک کہ وہ اچھا چنگا ہو جائے لیکن اگر ایسا مریض ہو کہ اس کی زندگی سے مایوسی ہو گئی ہو تو حد قائم کر دی جائے گی یہ ظہیر یہ میں ہے۔

۱۔ یعنی باوجود سالم العقل ہونے کی بصارت بھی رکھتا ہو یعنی اندھا نہ ہو ۱۲۔ ۲۔ یعنی سینہ تک گڑھا کھود کر اس میں اتاری گئی تاکہ کشف عورت نہ ہو ۱۲۔ ۳۔ یعنی جس قدر سزا کا سزاوار تھا اس سے اس پر زیادتی ہے ۱۲۔

(۱) پوسٹین یا روٹی دار بھراؤ کا کپڑا ۱۲۔ (۲) کیونکہ تاخیر سے کوئی فائدہ متصور نہیں ہے بلکہ جب وہ سنگسار کیا جائے گا تو انتظار صحت سے اس حال میں بہتر ہے بخلاف اس صورت کے کہ اس پر درہم واجب ہوئے تو تاخیر میں مصلحت ہے مبادا اس ضرب کا تحمل نہ ہو اور وہ فنا ہو جائے ۱۲۔

گواہوں نے ایک عورت پر زنا کی گواہی دی پس اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو اس کا قول قبول نہ ہوگا بلکہ عورتوں کو دکھلائی جائے گی:

اگر ایسا مرض ہو کہ اس کے زوال کی امید نہ ہو جیسے سل وغیرہ یا یہ شخص ناقص ضعیف الخلق ہو تو اس کو ایک عتکال مارا جائے جس میں سوتسمہ ہوں یعنی سوتسمہ کا ایک مٹھا بندھا ہو ایک بار مار دیا جائے اور ضرور ہے کہ ہر تسمہ اس کے بدن پر پہنچ جائے اور اس واسطے کہا گیا ہے کہ ایسی صورت میں تسموں کا کشادہ ہونا چاہیے یہ فتح القدر میں ہے اور جو عورت نفاس^(۱) میں ہو وہ حد قائم کرنے میں بمنزلہ مریضہ کے ہے اور جو عورت حیض میں ہو وہ بمنزلہ صحیحہ کے ہے کہ فوراً اس پر حد قائم کی جاسکتی ہے اور حیض سے خارج ہونے کا انتظار نہ کیا جائے گا یہ ظہیر یہ میں ہے اور حاملہ نے اگر زنا کیا تو حالت حمل میں اس کو حد نہ ماری جائے گی خواہ اس کی حد کوڑے ہوں یا رجم ہو لیکن اگر اس کا زنا بذریعہ گواہوں کے ثابت ہو گیا تو وہ قید کی جائے گی یہاں تک کہ وہ بچہ جنے پھر جب بچہ پیدا ہو گیا تو دیکھا جائے کہ اگر محض تھی تو وضع حمل کے بعد اس کو رجم کیا جائے گا یہ ظاہر الروایہ ہے اور اگر غیر محض تھی تو چھوڑ رکھی جائے گی یہاں تک کہ وہ نفاس سے خارج ہو پھر اس پر حد قائم کی جائے گی یہ غایت البیان میں ہے اور اگر اس کے اقرار سے حد ثابت ہوئی ہو تو قید نہ کی جائے گی لیکن اس سے کہا جائے گا کہ جب وضع حمل کرے تو حاضر ہو پس اگر بعد وضع حمل کے وہ آئی تو وہ رجم کر دی جائے گی بشرطیکہ ایسا کوئی ہو کہ اس کے بچہ کی پرورش دودھ پلائی کرے اور اگر ایسا کوئی نہ ہو تو انتظار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ بچہ کا دودھ چھڑا دے یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر چہ اس نے تاخیر میں طول دیا اور کہے جاتی ہو کہ ابھی نہیں جنی ہوں۔ گواہوں نے ایک عورت پر زنا کی گواہی دی پس اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو اس کا قول قبول نہ ہوگا بلکہ عورتوں کو دکھلائی جائے گی پس اگر عورتوں نے کہا کہ یہ حاملہ ہے تو اس کو دو سال کی مہلت دے گا پس اگر وہ نہ جنی تو اس کو رجم کر دے گا یہ فتح القدر میں ہے اگر گواہوں کے ایک عورت پر زنا کی گواہی دی پس اس نے دعویٰ کیا کہ میں عذرا^۲ یا رتقاء ہوں تو عورتوں کو دکھلائی جائے گی اگر انہوں نے کہا کہ یہ ایسی ہی ہے تو اس کے ذمہ سے حد دور کی جائے گی اور گواہوں پر بھی حد واجب نہ ہوگی اور اسی طرح اگر مرد کی صورت میں اس نے محبوب ہونے کا دعویٰ کیا تو بھی یہی حکم ہے اور عذراء^۳ ورتقاء وغیرہ جب چیزوں کے ثبوت میں عورتوں کے قول پر عمل ہوتا ہے ان کے ثبوت میں ایک عورت کا قول قبول ہوگا کذا فی الولوالجیہ اور اگر دو عورتوں ہوں تو احوط ہے یہ غایت البیان میں ہے اور مولیٰ اپنے غلام پر خود حد نہیں قائم کر سکتا ہے الا باجازت امام المسلمین یہ ہدایہ میں ہے۔

سخت گرمی یا سخت جاڑے میں حد نہیں قائم کی جائے گی یہ تا تاریخانیہ میں ہے اور اس طرح شدت گرمی یا شدت جاڑے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ سراج و ہاج میں ہے۔ ایک مرد سے فعل افاحشہ سرزد ہوا پھر اس نے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو وہ قاضی کو اپنے اس فعل منکر سے خبردار نہ کرے یہ ظہیر یہ میں ہے۔

۱ یعنی دعویٰ کیا کہ پردہ بکارت موجود ہے ۱۲۔ ۲ عذراء وہ عورت جس کی بکارت زائل ہوگئی اور رتقاء وہ عورت جس کا پردہ بکارت موجود ہو اور رتقاء ایک پردہ عارضہ بھی بعض عورتوں کی فرج کے منہ پر پیدا ہوتا ہے جو مانع جماع ہوتا ہے ۱۲۔

(۱) یعنی زچہ ۱۲۔

باب : ۳

جو وطی موجب حد ہے اور جو نہیں ہے اس کے بیان میں

جو وطی موجب حد ہوتی ہے وہ زنا ہے کذا فی الکافی پس اگر محض حرام ہو تو حد واجب ہوگی اور اگر اس میں کوئی شبہ بیٹھ گیا تو حد واجب نہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور شبہ یہ ہے کہ مشابہ ثابت کے ہو حالانکہ ثابت نہیں ہے اور وہ چند انواع ہیں ایک شبہ در فعل اور اس کو شبہ اشتباہ کہتے ہیں اور اس کی یہ صورت ہے کہ غیر دلیل الحکم کو دلیل گمان کرے اور اس کا تحقق ایسے شخص کے حق میں ہوگا کہ جس پر یہ مشتبہ ہو جائے نہ ایسے شخص کے حق میں جس پر مشتبہ نہ ہو اور گمان ہونا ضرور ہے تاکہ اشتباہ متحقق ہو پس اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میرا گمان تھا کہ یہ میرے واسطے حلال ہے تو حد نہ ماری جائے گی اور اگر یہ دعویٰ نہ کیا تو حد ماری جائے گی دوم شبہ در محل اور اس کو شبہ حکمیہ کہتے ہیں اور اس کی یہ صورت ہے کہ محل میں کوئی دلیل حلیت کی قائم ہے مگر اس کا عمل بسبب کسی مانع کے ممتنع ہو گیا پس یہ سب کے حق میں شبہ اعتبار کیا جائے گا اور مجرم کے گمان پر اور اس کے دعویٰ حل پر اس کا ثبوت موقوف نہ ہوگا پس حد دونوں طرح میں ساقط ہوگی مگر بچہ کا نسب دوسری طرح میں ثابت ہوگا اور اگر دعویٰ کرے اور اول صورت میں ثابت نہ ہوگا اگرچہ دعویٰ کرے اور نوع اول میں مہر مشکل واجب ہوگا اور سوم شبہ در عقد کہ جب عقد پایا گیا خواہ حلال ہو یا حرام ہو خواہ ایسا حرام ہو کہ اس کی تحریم پر اتفاق ہے یا اس میں اختلاف ہے خواہ وطی کنندہ حرام ہونے کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو بہر حال امام اعظمؒ کے نزدیک اس کو حد نہ ماری جائے گی اور صاحبینؒ کے نزدیک اگر اس نے ایسا نکاح کیا جس کی حرمت پر اجماع و اتفاق ہے تو یہ کچھ شبہ نہیں ہے پس اگر وہ تحریم کو جانتا تھا تو اس کو حد ماری جائے گی ورنہ حد نہیں مارے جائے گی یہ کافی میں ہے اور امام اسماعیلی نے فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ ہر گاہ اس نے شبہ کا دعویٰ کیا اور اس پر گواہ قائم کیے تو حد ساقط ہوگی پس بھر دو دعویٰ بھی حد ساقط ہوگی مگر دعویٰ اکراہ مسقط حد نہیں ہے جب تک کہ اکراہ واقع ہونے پر گواہ قائم نہ کرے یہ بحر الرائق میں ہے۔ اگر تین طلاق دی ہوئی عورت سے عدت میں وطی کی تو یہ شبہ در فعل ہے اور اگر تین طلاق دے دی پھر رجعت کی عدت گزر جانے کے بعد اس سے وطی کی تو بالا جماع اس کو حد مارے جائے گی اور مولیٰ نے اپنی ام ولد کو آزاد کر دیا یا مرد نے اپنی بیوی نے اپنی بیوی کو خلع دیا یا بیوی کو مال پر طلاق دی تو اس سے عدت میں وطی کرنا بمنزلہ تین طلاق دی ہوئی سے عدت میں وطی کرنے کے ہے کیونکہ حرمت بالا جماع ثابت ہوگئی ہے اور اگر اپنے باپ یا ماں کی باندی سے وطی کی کذا فی الکافی یا اپنی جد یا حدہ کتنے ہی اونچے درجے کی ہو اس کی باندی سے وطی کی تو بھی یہی حکم ہے یہ فتح القدر میں ہے اور اگر اپنی روجہ کی باندی سے یا اپنے مولیٰ کی باندی سے وطی کی تو بھی یہی حکم ہے اور اگر مرتہن نے مرہونہ باندی سے وطی کی تو بھی بروایت کتاب الحدود یہی حکم ہے کذا فی الکافی اور یہی مختار ہے یہ تبیین میں ہے اور جو (۱) مستعیر میں ہے اگر اس نے ایسا کیا تو وہ بھی اس بات میں بمنزلہ مرتہن کے ہے یہ فتح القدر میں ہے اور اگر دونوں (۲) میں سے ایک نے گمان کا دعویٰ کیا اور دوسرے

۱۔ اعتراض ہوا کہ اکراہ سے مباشرت نہ ہوتی بلکہ اختیاری ہوتی جواب یہ کہ خوف جان سے حد ساقط ہوئی ۱۲۔ ۲۔ اصل نسخہ میں قید رہن موجود ہے یعنی رہن کو مستعار لیا ہو اور مقام تامل ہے ۱۲۔

(۱) یعنی مال مرہونہ کو مستعار لیا ۱۲۔ (۲) یعنی زانی و زانیہ ۱۲۔

نے دعویٰ نہ کیا تو دونوں کو حد نہ ماری جائے گی جب تک کہ دونوں اس کا اقرار نہ کریں کہ ہم حرمت سے واقف تھے یہ کافی میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک غائب ہو پس حاضر نے کہا کہ میں نے جانا کہ وہ مجھ پر حرام ہے تو حاضر کو حد ماری جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر اپنے بھائی یا چچا کی لونڈی سے زنا کیا اور کہا کہ میرا گمان تھا کہ وہ مجھ پر حلال ہے تو اس کو حد ماری جائے گی اور یہی حکم باقی محادم میں ہے سوائے قرابت اولاد کے یہ کافی میں ہے اس طرح اگر اپنی بیوی کے کسی محرم کی باندی سے وطی کی تو بھی یہی حکم ہے یہ سرانج و ہانج میں ہے۔ اگر مستعار باندی سے وطی کی تو اس پر حد لازم آئے گی اگر چہ دعویٰ کرے کہ میرا گمان تھا کہ یہ مجھ پر حلال ہے کذا فی محیط السرخسی۔

اس طرح اگر مستاجرہ باندی سے جو خدمت کے لیے نوکر رکھی ہے یا ودیعت کی باندی سے وطی کی تو بھی حد لازم آئے گی یہ سرانج و ہانج میں ہے شبہ ذر محل کی یہ صورتیں ہیں کہ اپنے ولد کی باندی یا ولد الولد کی باندی سے وطی کی کذا فی خواہ اس کا ولد زندہ ہو یا مر گیا ہو یہ عتابیہ میں ہے اور پھر اگر وہ حاملہ ہو گئی اور بچہ پیدا ہوا تو باپ سے اس کا نسب ثابت ہوگا اور عقرو واجب نہ ہوگا اور اگر حاملہ نہ ہوئی تو باپ پر عقرو واجب ہوگا اور باپ کی ملک اس باندی میں ثابت نہ ہوگی اور دادا مثل باپ کے ہے لیکن باپ کے ہوتے دادا کا نسب ثابت نہ ہوگا یا ایسی بیوی سے عدت میں وطی کی جس پر بکنا یہ طلاق واقع ہوئی ہے یا بائع نے قبل سپرد کرنے کے مبیعہ باندی سے وطی کی یہ کافی میں ہے یا اپنے مکاتب کی باندی سے وطی کی یا ایسے غلام ماذون کی باندی سے وطی کی جس پر اس قدر قرضہ ہے کہ اس کے رقبہ و مال کو محیط ہے یا شوہر نے ایسی باندی سے قبل زوجہ کے سپرد کرنے کے وطی کر لی جس کو مہر میں دیا ہے ایسی باندی سے وطی کی جو اس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے یہ تبیین میں ہے اور اگر دو شریکوں میں سے ایک نے باندی کو آزاد کر دیا پس اگر شریک کو تاوان دے دیا پھر اس سے وطی کی تو حد نہ ماری جائے گی اور اگر شریک نے اس سے وطی کی تو حد ماری جائے گی اور اگر وہ باندی سعایت کرتی ہو پس اگر آزاد کنندہ نے اس سے وطی کی تو اس کو حد ماری جائے گی اور اگر دوسرے شریک نے اس سے وطی کی تو اس کو حد نہ ماری جائے گی یہ خزانۃ المفتیین میں ہے۔

اگر بیوی مرتد ہو گئی اور شوہر پر حرام ہو گئی یا بدنیوجہ حرام ہو گئی کہ شوہر نے اس کی ماں یا بیٹی (جو دوسرے شوہر سے ہے) سے وطی کر لی:

اس طرح اگر پوری باندی ایک شخص کی ہو اور اس میں سے نصف آزاد کر دیا پھر اس سے وطی کی تو بالاتفاق اس پر حد لازم نہ ہوگی کذا فی محیط اور اپنی باندی کو جس سے وطی کر رہا تھا اسی حالت میں آزاد کر دیا پھر اس سے جدا ہو گیا پھر اسی مجلس میں اس سے وطی کر لی تو اس کو حد نہ ماری جائے گی یہ خزانۃ المفتیین میں ہے اور اگر بیوی مرتد ہو گئی نعوذ باللہ منہا اور شوہر پر حرام ہو گئی یا بدنیوجہ حرام ہو گئی کہ شوہر نے اس کی ماں یا بیٹی (۱) سے وطی کر لی بدنیوجہ کہ عورت نے شوہر کے پسر کی سطاوعت کی پھر شوہر نے اس سے جماع کیا اور کہا کہ میں جانتا تھا کہ مجھ پر حرام ہے تو پھر اس پر حد واجب نہ ہوگی اور اسی طرح اگر پانچ عورتوں سے ایک عقد میں نکاح کیا یا چار کے نکاح میں پانچویں کا نکاح کیا یا اپنی بیوی کی بہن یا ماں سے نکاح کیا پس اس سے جماع کیا اور کہا کہ میں جانتا تھا کہ مجھ پر حرام ہے یا عورت سے بطور متعہ تزوج کیا تو ان صورتوں میں وطی کنندہ پر حد واجب نہ ہوگی اگر چہ اس نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر حرام ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر غنائم جہاد دار الحرب دار الاسلام میں آگئے پھر قبل تقسیم کے کسی غازی نے لوٹ کی

باندیوں میں سے کسی سے وطی کی تو اس پر حد واجب نہ ہوگی اگرچہ وہ کہے کہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر حرام ہے اور اس طرح اگر دار الحرب میں بھی اس نے ایسا کر لیا تو بھی یہی حکم ہے یہ سراج و ہاج میں ہے شبہ در عقد کی صورت میں ہے کہ اپنی نعلیٰ محرمہ سے نکاح کر کے وطی کرے تو امام اعظم کے نزدیک اس پر حد واجب نہ ہوگی لیکن اگر وہ جانتا ہو کہ یہ حرام ہے تو اس کو کوئی سزا دردناک دی جائے گی اور صاحبین کے نزدیک اگر وہ حرمت کو جانتا ہو تو اس کو حد ماری جائے گی اور اگر نہ جانتا ہو تو اس پر حد نہ ہوگی کذا فی الکافی اور اسی کو فقہ ابو الیث نے اختیار کیا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے یہ مضممرات میں ہے اور اسمیجانی نے کہا کہ صحیح قول امام اعظم کا ہے یہ نہر الفائق میں ہے۔

اگر غیر کی منکوحہ سے یا اس کی معتدہ سے یا اپنی مطلقہ ثلث سے نکاح کر لیا تو بعد تزوج کے وہ مثل محرمہ کے ہے۔ اگر نکاح مختلف فیہ ہو مثلاً بلا گواہوں کے کسی عورت سے نکاح کیا یا بلا ولی کے عورت سے نکاح کیا تو بالاتفاق اس پر حد واجب نہ ہوگی کیونکہ اس میں شبہ کل کے نزدیک متمکن ہے۔ اس طرح اگر آزاد بیوی پر ایک باندی نکاح کر کے وطی کی یا مجوسیہ سے نکاح کیا یا باندی سے بدوں اجازت اس کے مولیٰ کے نکاح کیا یا غلام نے کسی باندی سے بدوں اجازت اپنے مولیٰ کے نکاح کیا تو بالاتفاق اس وطی کنندہ پر حد واجب نہ ہوگی یہ کافی میں ہے۔ اگر وطی بملک نکاح یا بملک یحییٰ ہو اور حرمت کسی امر کے عارض ہونے سے ہو گئی تو اس سے وطی کرنا موجب حد نہیں ہے جیسے بیوی حائضہ یا نفسار یا صائمہ ہو یا احرام باندھے ہوئے ہو یا بشیہ^(۱) اس سے کسی نے وطی کی ہو یا بیوی سے ظہار کیا ہو یا ایلاء کیا ہو۔ اس طرح اگر اس کی مملوکہ باندی اس پر بسبب رضاعت یا صہریت کے حرام ہو یا یہ وجہ ہو کہ اس باندی کی ایسی ذی رحم محرم اس کے نکاح میں ہو کہ جس سے یہ باندی اس پر حرام ہو یا یہ باندی مجوسیہ یا مرتدہ ہو تو اس کے وطی کرنے سے مولیٰ پر حد واجب نہ ہوگی اگرچہ حرمت سے آگاہ ہونے کا اقرار کرے یہ محیط میں ہے۔

اگر ایک عورت کو اجارہ پر لیا تاکہ اس سے زنا کرے یا اس سے وطی کرے یا کہا کہ تو یہ دراہم لے تاکہ میں تجھ سے وطی کروں یا کہا کہ تو مجھے اپنے اوپر اس قدر درہموں کے عوض قابودے پس عورت نے منظور کیا اور ایسا واقع ہو تو اس کو حد نہ ماری جائے گی اور لظم میں اس بیان پر اس قدر زیادہ فرمایا کہ اس عورت کو اس کا مہر مثل ملے گا اور دونوں کو سزا دی جائے گی اور قید کیے جائے یہاں تک کہ دونوں تو بہ کریں اور صاحبین نے فرمایا کہ دونوں کو حد ماری جائے گی جیسے کہ اگر مرد نے عورت کو بلا شرط مال دیا اور ایسا کیا تو بھی یہی حکم ہے بخلاف اس کے اگر یوں کہا کہ تو یہ دراہم لے تاکہ میں تجھ سے تمتع حاصل کروں تو یہ حکم نہیں ہے اس واسطے کہ متعہ ابتدائے اسلام میں بسبب باعث تھا پس شبہ باقی رہا یہ تہمتی میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے تجھے اس قدر مہر دیا تاکہ تجھ سے زنا کروں تو حد واجب نہ ہوگی یہ کافی میں ہے اور زید کی باندی نے اگر کوئی جنایت عمد انکی پھر ولی جنایت نے اس عورت سے زنا کیا تو ولی جنایت پر بالاتفاق حد زنا واجب نہ ہوگی۔ اگر براہ خطا ہو اور ولی جنایت نے اس باندی سے زنا کیا تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ولی جنایت پر حد واجب ہوگی خواہ مولیٰ اس باندی کا دینا اختیار کرے یا اس کا فد یہ دینا اختیار کرے اور صاحبین نے فرمایا کہ اگر مولیٰ نے ولی جنایت کو یہ باندی اس جرم میں دینی اختیار کی تو اس کو حد نہ ماری جائے گی اور اگر فد یہ دینا اختیار کہا تو اس پر حد^(۲) واجب ہوگی۔ اگر کسی مرد نے ایک اجنبیہ کا شہوت سے بوسہ لیا یا شہوت سے اس کی فرج کو دیکھا پھر اس کی ماں یا بیٹی سے نکاح کر کے دخول کیا تو اس پر حد واجب نہ ہوگی اگرچہ اس نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ مجھ پر حرام ہے اور یہ امام اعظم کا قول ہے اور

۱۔ رضاعت یعنی دودھ پانے کے سبب سے یا صہریت یعنی بسبب دامادی کے ہو ۱۲۔ ۲۔ مثلاً عمرو کے ولی کوئل کیا پس دلی جنایت عمرو ہے ۱۲۔

(۱) پس عدت میں ہو ۱۲۔ (۲) حد زنا ۱۲۔

ایسی وطی سے اس کا احسان باطل نہ ہوگا حتیٰ کہ اس کا قذف کرنے والا حد قذف مارا جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کی ماں یا بیٹی کا بوسہ لیا یا بیوی نے شوہر کے پسریا باپ کا بوسہ لیا حتیٰ کہ اپنے شوہر پر حرام ہوگئی پھر شوہر نے اس سے وطی کر لی تو اس پر حد واجب نہ ہوگی اگرچہ شوہر کہے کہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر حرام ہے یہ تاتار خانہ میں ہے۔

ایسے شخص کی بابت مسئلہ جسے وقتاً فوقتاً جنون لاحق ہوتا رہتا ہے:

اصل میں مذکور ہے کہ گونگا حد زنا یا کسی حد کے واسطے حد دو میں سے ماخوذ نہ ہوگا اگرچہ وہ یا شارت یا بہ کتابت^(۱) اقرار کرے یا اس پر گواہ گواہی دیں اور جو شخص کبھی مجنون ہو جاتا ہو اور کبھی اس کو افاقہ ہوتا ہو پس اگر اس نے حالت افاقہ میں زنا کیا تو حد زنا کے واسطے ماخوذ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ میں نے اپنے جنون کی حالت میں زنا کیا ہے تو اس پر حد جاری نہ ہوگی جیسے بالغ نے اگر کہا کہ میں نے حالت نابالغی میں زنا کیا ہے تو ماخوذ نہیں ہوتا ہے یہ محیط میں ہے اور جس نے دارالہرب یا دارالہنئی^۱ میں زنا کیا پھر وہ ہمارے یہاں آگیا تو اس پر حد جاری نہ کی جائے گی یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر کوئی سر یہ دارالہرب^۲ میں داخل ہو اور ان میں سے کسی مرد نے وہاں زنا کیا تو اس پر حد جاری نہ ہوگی اور اس طرح میرا لشکر حد دو و قصاص کو قائم نہ کریں گا یہ کافی میں ہے۔ اگر خلیفہ نے بذات خود جہاد کیا یا امیر شہر^(۳) نے خود جہاد کیا جو اپنی ولایت کے لوگوں پر حد و قائم کرتا تھا تو وہ دارالہرب میں بھی حد دو و قصاص قائم کرے گا اور یہ اس وقت ہے کہ اس نے لشکر میں ہو کر زنا کیا اور اگر وہ اہل حرب سے جا ملا اور زنا کیا تو اس پر حد قائم نہ کی جائے گی اور مشائخ نے فرمایا کہ یہ امیر اپنے لشکر میں حد اسی صورت میں قائم کرے گا کہ جس پر حد قائم کرنا چاہتا ہے اس کی طرف سے مرتد ہو جانے اور اہل حرب سے مل جانے سے بخوف ہو اور اگر مرتد ہو جانے اور اہل حرب سے مل جانے کا خوف ہو تو حد قائم نہ کرے گا یہاں تک کہ دارالہرب سے جدا ہو کر دارالاسلام میں آئے یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر ذمی نے ایسی عورت حریہ سے جو امان لے کر دارالاسلام میں آئی ہے زنا کیا تو بالا جماع ذمی پر حد واجب ہوگی یہ عتابیہ میں ہے۔ اس طرح اگر ایسی عورت سے مسلمان نے زنا کیا تو اس پر حد جاری کی جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور جو عورت یا مرد اہل حرب میں سے امان لے کر یہاں داخل ہو ہے اس پر امام اعظم^۳ و امام محمد کے نزدیک حد نہیں ہے سوائے حد قذف کے اور اگر مسلمان عورت یا ذبیہ عورت نے حربی مستامن کو اپنے اوپر قابو دیا تو امام اعظم کے نزدیک مسلمہ اور ذمیہ کو حد ماری جائے گی اور امام محمد کے نزدیک دونوں میں سے کسی پر حد نہ ہوگی اور امام ابو یوسف کے نزدیک دونوں پر حد جاری کی جائے گی یہ عتابیہ میں ہے۔ ذمی نے اگر زنا کیا پھر مسلمان ہو اپس اگر یہ امر اس پر اس کے اقرار سے یا مسلمان گواہوں کی گواہی سے ثابت ہوا تو اس کے سر سے حد و نہ کی جائے گی اور اگر ذمی گواہوں کی گواہی سے اس پر ثابت ہوا پھر وہ مسلمان ہو گیا تو اس پر حد قائم نہ کی جائے گی یہ بحر الرائق میں ہے۔ اگر مرد تندرست نے مجنونہ عورت یا ایسی صغیرہ سے جو جماع کے قابل ہے زنا کیا تو بالا جماع خاصہ مرد پر حد قائم کی جائے گی یہ ہدایہ میں ہے اور اگر سوتی ہوئی عورت سے زنا کیا تو مرد پر حد واجب ہوگی یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اگر نابالغ یا مجنون نے عورت بالغہ عاقلہ سے زنا کیا اور عورت مذکورہ نے بخوشی قالود دیا تو بلا خلاف طفل و مجنون پر حد واجب نہ ہوگی اور رہی عورت سو ہمارے علماء کے قول پر اس کو حد کی سزا نہ دی جائے گی اور اگر صغیرہ نابالغہ سے زنا کیا تو دونوں پر حد نہ ہوگی اور زانی پر

۱۔ دارالہنئی وہ مقام جس کو باغیوں نے امام برحق سے بغاوت کر کے اپنے قبضہ میں کر لیا ۱۲۔ ۲۔ سر یہ وہ لشکر اسلام جس میں امام مسلمین موجود نہ ہو ۱۳۔

۳۔ حربی مستامن اور ذمیہ یا مسلمہ دونوں میں سے نہ زانی پر اور نہ زانیہ پر کسی پر ہوگی ۱۴۔

(۱) لکھ کر ۱۲۔ (۲) صوبہ دار ۱۲۔ (۳) کسی کو تہمت زنا لگائی ۱۲۔

اس کا مہر واجب ہوگا اور اگر طفل نے اس امر کا اقرار کیا تو اس کے اقرار سے اس پر کچھ لازم نہ ہوگا۔ اگر طفل نے بالغہ عورت سے زنا کیا اور اس کا پردہ بکارت زائل کر دیا اور یہ عورت باکراہ و مجبوری اس فعل میں مبتلا ہوگی ہے تو طفل مذکور اس کے مہر کا ضامن ہوگا بخلاف اس کے اگر عورت مذکورہ خوشی سے اس بات پر راضی ہوئی ہو تو ایسا نہیں ہے اور اگر نابالغہ لڑکی نے طفل کو اپنی طرف بلایا جس نے زنا کیا اور اس کا پردہ جاتا رہا تو طفل مذکور پر مہر واجب ہوگا اور باندی نے اگر طفل سے زنا کرایا تو وہ اس کے مہر کا ضامن ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر سوتے ہوئے مرد سے عورت نے خود وطی کی اور اپنے نفس پر قابو دے دیا تو دونوں پر حد واجب نہ ہوگی یہ محیط سرخسی میں ہے۔ اور جس مرد کو سلطان نے مجبور کیا حتیٰ کہ اس نے زنا کیا تو اس پر حد نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ پہلے فرماتے تھے کہ حد ہے پھر رجوع کیا اور فرمایا کہ اس پر حد نہیں اور اگر سواے سلطان کے دوسرے نے اکراہ کیا تو امام ابو یوسف و امام محمد نے فرمایا کہ اس پر حد نہیں ہے کذا فی فتح القدر اور اسی پر فتویٰ ہے یہ سراجیہ میں ہے۔

اگر عورت پر اکراہ کیا گیا یہاں تک کہ اس نے اپنے اوپر قابو دیا تو بالا جماع اس کو حد کی سزا نہ ہوگی اور اکراہ کردہ شدہ کے یہ معنی ہیں کہ ایلاج کے وقت تک یعنی داخل کئے جانے کے وقت تک مجبور کی گئی ہو اور اگر اکراہ کی گئی ہو یہاں تک کہ وہ لیٹی پھر قبل ایلاج کے اس نے خود قابو دے دیا تو مطاوعہ^۱ ہوگی یہ خزائنہ الفتاویٰ میں ہے۔ اگر مرد مکرہ ہو پس اس نے عورت سے جو مطاوعہ ہے زنا کیا تو مطاوعہ عورت ہی پر حد جاری کی جائے گی یہ امام اعظم کا قول ہے یہ فتح القدر میں ہے۔ پھر اصل یہ ہے کہ ہر دو زانی میں سے جب ایک سے حد بسبب شبہ کے ساقط ہوئی تو دوسرے سے بھی بسبب شرکت کے ساقط ہوگی۔ چنانچہ اگر ایک نے نکاح کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے نکاح^(۱) سے انکار کیا تو دونوں سے حد ساقط ہوگی اور جب بسبب قصور فعل کے ساقط ہوئی پس اگر قصور از جانب عورت ہو تو اسی سے حد ساقط ہوگی اور مرد سے ساقط نہ ہوگی اور جیسے ایسی صغیرہ سے جو قابل جماع ہے یا مجنونہ یا مکرہ یہ یا نامہ^(۲) سے زنا کیا تو عورت سے ساقط اور مرد محدود ہوگا اور اگر قصور از جانب مرد ہو تو حد دونوں سے ساقط ہوگی یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر مرد نے اپنے پسر کی ام ولد سے وطی کی اور کہا کہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر حرام ہے تو اس پر حد نہ ہوگی اور اگر مرد نے اپنے باپ کی بیوی سے بعد اپنے باپ کی موت کے نکاح کر لیا پس اس سے اولاد ہوئی تو فقیہ ابو بکر بلخی نے فرمایا کہ اگر اس نے چار مرتبہ مجالس مختلفہ میں وطی کا اقرار کیا تو دونوں پر حد جاری کی جائے گی اور اولاد کا نسب ثابت نہ ہوگا اور فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ یہ صاحبین کا قول ہے اور ہم اسی کو لیتے ہیں۔

اگر کسی مرد نے آزادہ عورت سے زنا کیا پھر خطا سے اس کو قتل کیا حتیٰ کہ دیت واجب ہوئی.....؟

ایک مرد نے مردہ عورت سے زنا کیا تو اس میں اختلاف ہے اہل مدینہ نے فرمایا کہ اس پر حد جاری کی جائے گی اور اہل بصرہ نے فرمایا کہ حد نہ ہوگی بلکہ تغیر دی جائے گی اور فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ ہم اسی کو لیتے ہیں اور ایک مرد نے مملوکہ لڑکی سے جماع کیا اور بسبب جماع کے وہ مرگئی تو اصل میں مذکور ہے کہ مرد مذکورہ پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور اس میں کچھ اختلاف ذکر نہیں فرمایا اور امام ابو یوسف نے امالی میں امام اعظم سے ذکر فرمایا کہ اس پر قیمت واجب ہے اور حد بھی لازم ہوگی اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اس پر قیمت واجب ہے اور حد لازم نہیں ہے اور یہی صحیح ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر آزادہ عورت سے

۱ بخوشی قابو دینے والی ۱۲۔ ۲ مکرہ جس مرد پر اکراہ کیا گیا مکرہ جس عورت پر اکراہ کیا گیا اور اس کے مقابل مطاوعہ و مطاوعہ ۱۲۔

(۱) محض زنا کا اقرار ہے ۱۲۔ (۲) سوتی ہوئی ۱۲۔

زنا کیا اور جماع سے اس کو مار ڈالا تو بالا جماع ویت کے ساتھ حد بھی واجب ہوگی یہ تبیین میں ہے۔ اگر کسی مرد نے آزادہ عورت سے زنا کیا پھر خطا سے اس کو قتل کیا حتیٰ کہ دیت واجب ہوئی تو حد بھی واجب ہوگی اس واسطے کہ یہ دونوں دو سب مختلف سے واجب ہوئی ہے یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر اجنبیہ عورت سے فرج کے سوائے وطی کی تو حد جاری نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ زنا نہیں ہے مگر اس کو تفریدی جائے گی اور اگر کسی عورت سے اس کے دیر میں وطی کی یا طفل سے لواطت کی تو امام اعظمؒ کے نزدیک حد نہ ہوگی اور مگر اس کو تفریدی جائے گی اور قید میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ تو بہ کرے اور صاحبین کے نزدیک اس پر زنا کی حد جاری کی جائے گی کہ اگر محسن ہے تو رجم کیا جائے گا اور اگر محسن جن میں ہے تو درے مارے جائے گے اور اگر ایسا امر اپنے غلام یا باندی یا بیوی کے ساتھ کیا خواہ بیوی سے نکاح صحیح ہو یا فاسد ہو تو بالا جماع اس پر حد واجب نہ گی یہ کافی میں ہے۔

اگر لواطت کسی کی عادت ہو گئی تو امام المسلمین اس کو قتل کر دے گا خواہ محسن ہو یا غیر محسن ہو یہ فتح القدیر میں ہے تبیین سے وطی کرنے والے پر ہمارے نزدیک حد واجب نہیں ہے یہ کافی میں ہے۔ اگر شب زفاف میں اس کے پاس اس کی بیوی کے سوائے دوسری بھیج دی گئی اور عورتوں نے کہا کہ یہ تیری بیوی ہے پس اس سے وطی کر لی تو اس پر حد نہ ہوگی مگر اس پر مہر واجب ہو گا اس واسطے کہ آدمی اپنی بیوی وغیر بیوی میں اول باری میں تمیز نہیں کر سکتا ہے۔ الا اخبار اور خبر واحد امور دین و معاملات میں کافی ہے اسی واسطے اگر کوئی باندی آئی اور کہا مجھے میرے مولیٰ نے تیرے پاس ہدیہ بھیجا ہے تو اس کے قول پر اعتماد کر کے اس سے وطی کر لینی حلال ہے۔ پھر جو عورت شب زفاف میں بھیجی گئی تھی اگر اس کے بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد سے ثابت ہوگا اور اس عورت پر عدت واجب ہوگی مگر اس عورت پر تہمت لگانے والے کو حد قذف کی سزا نہ دی جائے گی یہ غایۃ البیان میں ہے اور ایک مرد نے اندھیری رات میں اپنے بچھونے پر ایک عورت کو پایا اور حال یہ ہے کہ اس کی ایک بیوی پرانی ہے پس جس کو بستر پر پایا ہے اس سے وطی کر لی اور کہا کہ میں نے گمان کیا کہ وہ میری بیوی ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کا قول قبول نہ ہوگا اور اس پر حد واجب ہو گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر کسی مرد نے اپنی کوٹھری میں کسی عورت کو پایا اور اس سے وطی کر لی اور کہا کہ میں نے اس کو اپنی بیوی گمان کیا تھا تو اس مرد پر حد واجب ہوگی اور اگر چہ وہ اندھا ہو یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر اندھے نے اپنی عورت کو بستر پر بلایا پس غیر عورت نے جواب دیا اور آگنی پس اس سے جماع کر لیا تو امام محمد نے فرمایا کہ اس پر حد واجب ہو گی اور اگر غیر عورت نے جواب میں یوں کہا کہ میں فلانہ ہوں یعنی اس کی بیوی کا نام لیا پس اندھے نے اس سے جماع کر لیا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی اور اگر آنکھوں والا ہو تو ایسی صورت میں اس کی تصدیق نہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ ایک مرد نے اپنی باندی کسی دوسرے کے واسطے حلال کر دی پس دوسرے نے اس باندی سے وطی کر تو اس پر حد نہ ہوگی یہ محیط سرحسی میں ہے۔

جو شخص نشہ میں ہے اگر اس نے زنا کیا تو اس کو حد ماری جائے گی جب وہ ہوش میں آجائے یہ سراجیہ میں ہے۔ اگر بیع فاسد ہو اور مشتری نے بیعہ باندی سے قبل قبضہ کے یا بعد قبضہ کے وطی کی تو اس پر حد واجب نہ ہوگی۔ اگر بائع نے اپنے واسطے خیاری کی شرط کر کے باندی فروخت کر دی پس مشتری نے اس سے وطی کی یا خیاری مشتری کا تھا اور بائع نے اس سے وطی کی تو اس پر حد جاری کی جائے گی خواہ وہ حرام ہونے کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور امام محمد نے اصل میں فرمایا کہ اگر کوئی باندی غصب کر کے اس سے زنا کیا پھر اس کی قیمت تاوان دے دی تو بالا اتفاق اس پر حد نہ ہوگی اور اگر اس سے زنا کر کے پھر اس کو غصب

۱ لواطت انعام لوندے بازی یعنی دیر میں وطی کرنا خواہ بڑے سے ہو یا عورت سے ۱۲۔ ۲ چوپایہ مادہ خواہ بکری ہو یا گائے بھینس، گھوڑی، مدھی، اونٹنی

وغیر وہ ہونلیجہ بر ۱۲۔ ۳ شوہر کے ساتھ ہم بستری کی پہلی شب ۱۲۔

کیا اور اس کی قیمت تاوان دے دی تو امام ابوحنیفہؒ و امام محمدؒ کے نزدیک حد ساقط نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔ ایک شخص مرد چیت لینا پھر ایک عورت اجنبیہ آئی اور مرد کے اوپر بیٹھی یہاں تک کہ اپنی حاجت پوری (۱) کر لی تو دونوں پر حد واجب ہوگی یہ ظہیر یہ میں ہے۔ اگر باندی سے زنا کیا پھر اس کو خریدتا تو ظاہر الروایہ میں مذکور ہے کہ بالاتفاق اس کو حد کی سزا دی جائے گی اور اسی طرح اگر کسی آزاد عورت سے زنا کیا پھر اس سے نکاح کر لیا تو بھی یہی حکم ہے ایسا ہی شیخ الاسلام نے شرح کتاب الحدود میں ذکر کیا ہے۔ اگر ایک عورت سے زنا کیا پھر کہا کہ میں اس کو خرید کر چکا تھا تو اس پر حد واجب نہ ہوگی خواہ یہ عورت آزاد ہو یا باندی ہو اور اگر باندی سے زنا کیا پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو خرید ابدیں شرط کہ اس کے مولیٰ کو اختیار حاصل ہے اور اس کے مولیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے میں نے اس باندی کو فروخت نہیں کیا تو فرمایا کہ وطی پر حد واجب نہ ہوگی اور اسی طرح اگر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو بوصف الی اجل خرید یعنی کسی مدت کے وعدہ پر جس کو بیان کرتا ہے تو بھی یہی حکم ہے یہ محیط میں ہے۔

اگر عورت ایسی صغیرہ ہو کہ لائق جماع کے ہے تو وہ سب احکام مذکورہ میں مثل کبیرہ کے ہے سوائے ایک بات کے کہ اس کی رضا مندی سے ارش خباہت ساقط نہ ہوگا:

آزادہ عورت نے اگر ایک غلام سے زنا کیا پھر اس کو خرید لیا تو ان دونوں کو حد کی سزا دی جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ ایک مرد نے ایک باندی سے زنا کیا پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو بطور فاسد خرید لیا تھا یا مولیٰ نے اس کو مجھے جہہ کر دیا تھا حالانکہ مولیٰ نے اس کی تکذیب کی یا گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے زنا کرنے کا اقرار کیا اور اس نے قاضی کے سامنے خرید یا بیہ کا دعویٰ کیا تو اس کے ذمہ سے دور کی جائے گی یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اگر کبیرہ عورت سے زنا کیا پس اس کا پانچواں و پیشاب کا سوراخ ایک کر دیا پس اگر اس عورت نے اس کی مطاوعت بدوں دعویٰ شعبہ کے کر لی تھی تو دونوں پر حد واجب ہوگی اور زانی پر اس افضاء یعنی ہر دو سوراخ ایک کر دینے کے جرم میں کچھ لازم نہ ہوگا اس واسطے کہ عورت مذکور خود راضی ہوئی تھی اور چونکہ حد واجب ہوئی ہے اس وجہ سے اس کے واسطے کچھ مہر بھی ثابت نہ ہوگا اور اگر شعبہ کا دعویٰ پایا گیا تو ذاتی پر حد نہ ہوگی اور نیز اس جرم افضاء کی بابت بھی کچھ لازم نہ ہوگا مگر اس پر عقرو واجب ہوگا۔ اگر عورت سے زبردستی ایسا کیا گیا بدوں دعویٰ شعبہ کے تو مرد پر حد واجب ہوگی نہ عورت پر اور عورت کے واسطے مہر ثابت نہ ہوگا پھر افضاء کو دیکھا جائے گا کہ اس طرح سوراخ ایک ہو گیا کہ عورت اپنا پیشاب نہیں تھام سکتی ہے تو زانی مذکور پر عورت کی پوری ویت واجب ہوگی اور اگر پیشاب تھام سکتی ہو تو زانی کو حد ماری جائے گی اور اس پر تہائی دیت واجب ہوگی اور اگر باوجود اس کے دعویٰ شعبہ بھی ہو تو دونوں پر حد واجب نہ ہوگی پھر اگر عورت اپنا پیشاب تھام سکتی ہو تو اس مرد پر تہائی دیت واجب ہوگی اور پورا مہر لازم ہوگا یہ ظاہر الروایہ ہے اور اگر وہ پیشاب نہ تھام سکتی ہو تو مرد پر تمام دیت واجب ہوگی اور امام ابوحنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک مہر واجب نہ ہوگا۔ اگر عورت ایسی صغیرہ ہو کہ لائق جماع کے ہے تو وہ سب احکام مذکورہ میں مثل کبیرہ کے ہے سوائے ایک بات کے کہ اس کی رضا مندی سے ارش جنایت ساقط نہ ہوگا اور اگر ایسی صغیرہ ہو کہ لائق جماع نہیں ہے پس اگر زخم ایسا ہو کہ وہ اپنا پیشاب روک سکتی ہو تو اس مرد پر اس کی تہائی دیت اور پورا مہر واجب ہوگا اور حد واجب نہ ہوگی اور اگر نہ روک سکتی ہو تو پوری دیت کا ضامن ہوگا اور امام اعظمؒ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک مہر کا ضامن نہ ہوگا یہ تبیین میں ہے۔ اگر زانی نے کسی باندی سے وطی کی کہ وطی سے اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے تو زانی پر بلا خلاف حد نہ ہوگی اور اگر وطی سے

۱ افضاء یعنی عورت کے ہر دو سوراخ قبل و دبر کو صدمہ جماع سے ایک کر دینا ۱۲۔

(۱) مراد یہ ہے کہ زنا کیا فہم ۱۲۔

اس کی ران توڑ دی تو حد اور نصف قیمت واجب ہوگی۔ اگر عورت آزادہ ہو تو بلا خلاف زانی پر حد دیت واجب ہوگی یہ کتابیہ میں ہے۔

ایسے امام المسلمین نے جس کے اوپر امام نہیں ہے اگر ایسی بات کی جس سے حد واجب ہوتی ہے جیسے زنا و سرقہ و شراب خواری و قذف تو اس سے مواخذہ نہ کیا جائے گا سوائے قصاص و جرم مالی کے چنانچہ اگر اس نے کسی آدمی کو قتل کیا یا کسی کا مال تلف کیا تو اس کے واسطے ماخوذ ہوگا اور اگر منعت^۱ کی ضرورت پڑے تو تمام اہل ایمان مظلوم کے واسطے منعت ہوں گے پس وہ اپنا حق بھر پانے پر قادر ہوگا اور یہ مفید و خوب ہے یہ کافی میں ہے۔

باب : ۴

زنا پر گواہی دینے اور اس سے رجوع کرنے کے بیان میں

شہادت کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ گواہ چار ہوں اور مجلس شہادت بھی متحد ہو:

زنا پر گواہی نہیں قبول ہوتی ہے الا چار مسلمان آزاد مردوں کی یہ شرح طحاوی میں ہے اور اگر زنا پر چار سے کم ایک یا دو یا تین مردوں آزاد نے گواہی دی تو گواہی مرد دو اور گواہ کو حد قذف ماری جائے گی یہ ہمارے علماء کا مذہب ہے اور اگر قاضی کی مجلس میں چار گواہ حاضر ہوئے تاکہ ایک مرد پر زنا کہ گواہی دیں پھر ایک یا دو یا تین نے گواہی دی اور باقی نے انکار کیا تو ہمارے علماء کے نزدیک جس نے گواہی دی ہے اس کو حد قذف ماری جائے گی یہ محیط میں ہے۔ اگر چاروں میں سے تین نے اس کے زنا پر گواہی دی اور چوتھے نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو ایک لحاف میں دیکھا تو مشہود علیہ کو حد نہ ماری جائے گی اور تینوں گواہوں کو حد قذف ماری جائے گی اور چوتھے گواہ پر حد نہ ہوگی الا اگر اس نے اول یوں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے زنا کیا پھر زنا کرنے کی تفسیر اس طرح بیان کی جیسے ذکر ہوا تو اب اس کو بھی حد ماری جائے گی یہ شرح طحاوی میں ہے۔ ہمارے نزدیک شہادت کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ مجلس شہادت متحد ہو حتیٰ کہ اگر گواہوں نے مختلف مجلسوں میں گواہی دی تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور سب کو حد قذف کی سزا دی جائے گی یہ کافی میں ہے۔

امام محمد سے روایت ہے کہ اگر گواہ لوگ گواہوں کی جگہ کھڑے ہوں پس ایک بعد دوسرے کے اٹھا اور گواہی دی تو گواہی جائز ہے اور اگر سب مجلس سے باہر ہوں پھر ایک داخل ہو اور اس نے گواہی دی پھر باہر چلا گیا پھر دوسرا آیا اور گواہی دے کر باہر چلا گیا اس طرح ایک نے بعد دوسرے کے یوں ہی گواہی دی تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر دو گواہوں نے ایک مرد کے زنا کرنے پر گواہی دی اور دو گواہوں نے اس کے اقرار زنا پر گواہی دی تو مشہور علیہ پر حد نہ ہوگی اور گواہوں پر بھی حد قذف واجب نہ ہوگی اور اگر تین گواہوں نے اس کے زنا کرنے پر اور چوتھے نے اس کے اقرار زنا پر گواہی دی تو تین گواہان اول پر حد قذف واجب ہوگی یہ ظہیر یہ میں ہے۔ اگر گواہوں نے کہا کہ اس نے ایسی عورت سے زنا کیا کہ جس کو ہم نہیں پہنچانتے ہیں تو مشہور علیہ کو سزائے حد نہ دی جائے گی یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر مشہود علیہ نے کہا کہ جس عورت کو تم نے میرے ساتھ

۱۔ قولہ منعت یعنی ایسے سلطان سے استیفاء حق کیونکر ہوگا تو یہاں کر دیا کہ تمام اہل اسلام مظلوم کے مددگار ہوں پس ثابت ہوا کہ یہ واجب ہے ۱۲۔

۲۔ اعتراض ہوا کہ جب اول اس نے کہا کہ زنا کیا تو نصاب پورا ہوا جواب یہ کہ اصل مذکور جب کہ زنا پر گواہی ہو اگرچہ گواہ عادل نہ ٹھہرے اور یہاں اس نے

ایک لحاف میں کہا اور یہ زنا نہیں ہے فافہم ۱۲۔

دیکھا تھا وہ میری بیوی یا باندی نہ تھی تو بھی حد نہ ماری جائے گی اس واسطے کہ گواہی ایسی واقع ہوئی کہ وہ موجب حد نہیں ہے اور یہ کلام مذکور اس کی طرف سے اقرار نہیں ہے یہ فتح القدیر میں ہے۔ چار گواہوں^(۱) نے ایک آدمی پر گواہی دی کہ اس نے ایک عورت سے زنا کیا جس کو ہم نہیں پہنچانتے ہیں پھر کہا کہ وہ عورت فلانہ ہے تو مشہود علیہ کو سزائے حد نہ دی جائے گی اور گواہوں پر بھی حد قذف لازم نہ ہوگی اور چار مردوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے زنا کیا ہے مگر ان میں دو گواہوں نے اس طرح گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے بصرہ میں زنا کیا ہے اور دو نے اس طرح کہ اس عورت سے اس نے کوفہ میں زنا کیا ہے تو بالاتفاق سب کے قول کے موافق مرد پر یا عورت کسی پر حد واجب نہ ہوگی اور ہمارے نزدیک گواہوں پر بھی استحساناً حد لازم نہ ہوگی۔

اگر چار مردوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے زنا کیا مگر دو نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے وار کے اس بیت میں زنا کیا اور دو نے اس طرح کہ اس نے عورت سے اس بیت دیکر میں زنا کیا ہے تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی۔ اگر چار مردوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی بایں طور کہ دو نے کہا کہ اس عورت سے بروز جمعہ زنا کیا اور دو نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے بروز شنبہ زنا کیا یا دو نے اس طرح گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے اس دار کے بالا خانہ پر زنا کیا اور دو نے گواہی دی کہ اس نے اس وار کے سفل میں زنا کیا ہے یا دو نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے اس فلاں کے دار میں زنا کیا اور دو نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے اس فلاں دیگر کے دار میں زنا کیا تو ان مسائل میں مشہود علیہ پر حد نہیں ہے اور گواہوں پر بھی ہمارے نزدیک حد قذف لازم نہ آئے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اگر چار گواہوں نے گواہی دی کہ اس مرد نے اس عورت سے بصرہ میں وقت طلوع شمس کے بروز فلاں از ماہ فلاں از سنہ فلاں زنا کیا اور چار گواہوں نے اسی پر گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے کوفہ میں بعینہ اس وقت مذکور میں زنا کیا تو دونوں میں سے کسی پر حد واجب نہ ہوگی یہ نہر الرائق میں ہے اور اگر چار گواہوں میں سے دو مردوں نے کہا کہ اس نے اس عورت سے اس بیت کے اس گوشہ میں زنا کیا اور دوسرے دو مردوں نے گواہی میں کہا کہ اس نے اس عورت سے اس بیت کے اس گوشہ دیگر میں زنا کیا ہے تو مشہود علیہ اور عورت مشہود علیہ کو استحساناً سزائے حد دی جائے گی اس واسطے کہ احتمال ہے کہ ابتدائے زنا ایک گوشہ میں ہو اور انتہائے زنا دوسرے گوشہ میں ہو۔

اگر تین گواہوں نے باکراہ مجبور کرنے پر اور ایک نے عورت کی مطاوعت پر گواہی دی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان میں سے کسی پر حد نہ ہوگی:

یہ حکم اس وقت ہے کہ بیت چھوٹا ہو کہ اس میں اس کا امر کا جوہم نے بیان کیا ہے احتمال ہو اور اگر پڑا ہوگا تو یہ حکم نہ ہوگا اور اگر چار مردوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی کہ ہر ایک نے ان میں سے گواہی دی کہ اس نے اس فلاں عورت سے زنا کیا ہے تو ان کی گواہی مقبول ہوگی اور ہر ایک کی گواہی اسی زنا پر محمول ہوگی جس کی نسبت دوسرے ساتھی نے گواہی دی ہے یہ کافی میں ہے اور اگر چار گواہوں میں سے دو گواہوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ اس مرد نے فلاں عورت سے فلاں ساعت روز میں زنا کیا اور دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے فلاں عورت سے دن کی فلاں ساعت دیگر میں زنا کیا ہے تو ایسی مقبول نہ ہوگی اور

۱۔ اگر چہ گواہ چار ہیں مگر مقام مختلف بیان کرنے سے حد ساقط ہوگی ۱۲۔

(۱) مردوں نے ۱۲۔

مشائخ نے فرمایا کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب دوسرے دو گواہوں نے ایسی ساعت بیان کی ہو کہ ساعت اول و ثانی میں توفیق نہ ہو سکے مثلاً دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے روز جمعرات کی ساعت میں زنا کیا اور دوسرے دو گواہوں نے اس سے روز جمعہ کی ساعت میں زنا کرنے کی گواہی دی یا دوسرے دو گواہوں نے روز جمعرات کی ایسی ساعت بیان کی کہ اس ساعت تک زنا ممتد نہیں ہو سکتا ہے تو گواہی مقبول نہیں ہے اور اگر دوسرے دو گواہوں نے ایسی ساعت بیان کی ہو کہ اس وقت تک زنا ممتد ہو سکتا ہے تو قبول ہوگی۔ امام محمدؒ نے اصل میں فرمایا کہ چار مردوں نے ایک شخص پر زنا کی گواہی دی جس میں سے دو گواہوں نے کہا کہ اس مرد نے اس عورت کو باکراہ مجبور کر کے زنا کیا ہے اور دوسرے دو گواہوں نے کہا کہ اس عورت نے خود اس کی مطاوعت کی ہے تو امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ حد ان سب سے دور کر دی جائے گی یعنی مرد عورت و گواہوں سب سے دفع کی جائے گی۔ اگر چار مردوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ اس نے عورت سے زنا کیا ہے مگر ان میں سے تین مردوں نے گواہی میں کہا کہ اس عورت نے اس کی مطاوعت کی اور چوتھے نے گواہی میں کہا کہ اس مرد نے اس سے باکراہ مجبور کر کے ایسا کیا ہے تو بنا بر قول امام اعظمؒ کے ان میں سے کسی پر حد قائم نہ کی جائے گی یہ محیط میں ہے۔ اگر تین گواہوں نے باکراہ مجبور کرنے پر اور ایک نے عورت کی مطاوعت پر گواہی دی تو امام اعظمؒ کے نزدیک ان میں سے کسی پر حد نہ ہوگی۔ یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگر چار مردوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی مگر جس عورت سے زنا کیا ہے اس میں اختلاف کیا یا زنا کی جگہ میں اختلاف کیا یا زنا کے وقت میں اختلاف کیا تو ان کی گواہی باطل ہوگئی لیکن ہمارے نزدیک گواہوں پر حد واجب نہ ہوگی یہ مسبوط میں ہے۔ اگر گواہوں نے اس لباس میں اختلاف کیا جو زنا کے وقت مرد پر یا عورت پر تھا یا اس کے رنگ میں اختلاف کیا یا جس عورت سے زنا کیا ہے اس کے طول (۱) و قصر میں یا اس کی موٹائی و بلوائی میں اختلاف کیا تو کچھ مضر نہیں ہے اس واسطے کہ ان کا اختلاف ایسے امر میں ہے جس کے ذکر کے (۲) وہ محتاج نہ تھے اور اسی طرح اگر دو گواہوں نے کہا کہ اس نے سپید رنگ عورت سے زنا کیا اور دو گواہوں نے کہا کہ اس نے گندم گوں عورت سے زنا کیا ہے تو بھی کچھ مضر نہیں ہے اس واسطے کہ ہر دو رنگ باہم متشابہ ہیں پس یہ اختلاف درمیان اصل شہادت کے نہ ہوگا اور ایسے متخالف نہیں جیسے کالی و گوری میں اختلاف ہے اور اگر دو نے کہا کہ جیشیہ سے اور دو نے خراسانیہ سے یا دو نے کہا کہ کوفیہ سے اور دو نے کہا کہ بصریہ سے یا دو نے کہا کہ آزادہ عورت سے اور دو نے کہا کہ باندی سے یا دو نے کہا کہ بالغہ سے اور دو نے کہا کہ ایسی تھی کہ ہنوز بالغہ نہ تھی تو گواہی مقبول نہ ہوگی یہ ترمثاشی میں ہے۔ اگر چار گواہوں نے گواہی دی کہ اس مرد نے یوم البخر کو مکہ میں فلا نہ عورت سے زنا کیا اور چار گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے یوم النحر کو کوفہ میں فلاں کو قتل کیا تو ہر دو فریق گواہوں میں سے کوئی قبول نہ ہوگا اور گواہان زنا پر حد بھی واجب نہ ہوگی۔ اگر ہر دو فریق میں سے ایک فریق حاضر ہوا اور اس نے گواہی دی اور اس کی گواہی پر حاکم نے حکم دے دیا پھر دوسرے فریق کے گواہوں نے گواہی دی تو دوسرے فریق نے گواہی باطل ہے اور گواہان زنا پر حد قائم نہ کی جائے گی اگرچہ فریق ثانی کے گواہ وہی ہوں یہ مسبوط میں ہے۔

اگر گواہوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ اس نے فلا نہ عورت سے زنا کیا ہے حالانکہ یہ عورت غائبہ ہے تو مرد مذکور کو حد کی سزا دی جائے گی یہ فتح القدر میں ہے۔ اگر چار مردوں نے ایک عورت پر زنا کی گواہی دی پھر اس کو عورتوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ باکراہ ہے تو دونوں پر حد نہ ہوگی اور گواہوں پر بھی حد قذف نہ ہوگی۔ یہ کافی میں ہے اور اس طرح اگر انہوں نے کہا کہ یہ رتقاء یا قرناء ہے تو بھی یہی حکم ہے۔ یہ فتح القدر میں ہے اور اگر گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی حالانکہ وہ محبوب ہے تو اس کو سزائے حد

نہ دی جائے گی اور گواہوں کو بھی حد نہ ماری جائے گی چار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی پھر بعد رجم کیے جانے کے معلوم ہوا کہ یہ محبوب تھا تو اس کی دیت گواہوں پر ہوگی اور حد نہ ہوگی اور اگر عورت پر اس طرح گواہی دی پھر بعد رجم کے عورتوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ باکرہ یا رتقاء ہے تو گواہوں پر ضمان نہ ہوگی اور نہ ان پر حد واجب ہوگی۔ اگر چار مردوں نے ایک مرد پر ایک عورت سے زنا کرنے کی گواہی دی پھر چار مردوں نے ان گواہوں پر گواہی دی کہ انہیں نے اس عورت سے زنا کیا ہے تو ان میں سے کسی کی گواہی قبول نہ ہوگی اور کسی پر حد قائم نہ ہوگی کیونکہ شبہ پیدا ہو گیا یہ امام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نزدیک پہلے گواہوں پر حد قائم کی جائے گی بسبب اس کے کہ انکار زنا کرنا حجت سے ثابت ہو اور حجت چار گواہوں کی گواہی ہے پس وہ لوگ فاسق ٹھہرے اور اگر فریق ثانی نے کہا کہ ان لوگوں نے اس عورت سے زنا کیا ہے اور بس خاموش رہے تو ان لوگوں پر حد واجب ہوگی اس واسطے کہ انہوں نے دوسرے زنا کی گواہی دی ہے نہ اس زنا کی جس کی فریق اول نے گواہی دی ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگر گواہوں میں سے بعض فریق نے بعض پر زنا کرنے کی گواہی نہ دی بلکہ بعض پر محدود القذف

ہونے کی گواہی دی:

اگر چار مردوں نے ایک مرد پر ایک عورت سے زنا کرنے کی گواہی دی اور دوسرے چار گواہوں نے فریق اول گواہوں پر گواہی دی کہ انہیں نے اس عورت سے زنا کیا ہے اور تیسرے فریق نے چار مردوں نے دوسرے فریق گواہوں پر گواہی دی کہ انہیں نے اس عورت سے زنا کیا تو امام اعظم کے نزدیک سب پر حد نہ ہوگی اور صاحبین کے نزدیک مرد و عورت درمیانی فریق گواہوں پر حد زنا واجب ہوگی یہ یمنین میں ہے۔ اگر گواہوں میں سے بعض فریق نے بعض پر زنا کرنے کی گواہی نہ دی بلکہ بعض پر محدود القذف ہونے کی گواہی دی اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو مرد و عورت پر بسبب اول گواہی کے حد زنا واجب ہوگی یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اگر زنا کرنے پر گواہی دی حالانکہ گواہ غلام یا کافر یا محدود القذف ہیں یا اندھے ہیں تو مشہود علیہ پر حد واجب نہ ہوگی مگر گواہوں پر حد قذف واجب ہوگی یہ شرح طحاوی میں ہے اور اگر چار مردوں نے کسی پر زنا کی گواہی دی حالانکہ ایک ان میں سے غلام ہے یا محدود القذف ہے تو مشہود علیہ پر حد واجب نہ ہوگی مگر گواہوں پر حد قذف واجب ہوگی یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر غلام آزاد کیا گیا پھر ان لوگوں نے گواہی کا اعادہ کیا تو دوبارہ ان کو حد قذف کی سزا دی جائے گی اور اس طرح اگر سب گواہ غلام ہوں اور انہوں نے گواہی دی اور ان کو حد قذف کی سزا دی گئی پھر وہ آزاد کیے گئے پھر انہوں نے گواہی کا اعادہ کیا تو ان کو دوبارہ حد قذف کی سزا دی جائے گی بخلاف کافروں کے کہ اگر انہوں نے کسی مسلمان پر زنا کی گواہی دی پھر بعد محدود القذف ہونے کے مسلمان ہو کر انہوں نے گواہی کا اعادہ (۱) کیا تو یہ حکم نہ ہوگا اور امام محمد سے روایت ہے کہ اگر تھوڑی حد ماری گئی پھر ان میں سے ایک گواہ غلام نکلا پس دوسرے چار گواہوں نے گواہی دی تو مشہود علیہ کو حد نہ ماری جائے گی اس واسطے کہ یہ حد باطل ہو چکی ہے یہ عتابیہ میں ہے۔

اگر چاروں گواہوں میں سے ایک گواہ مکاتب یا طفل یا اندھا ہو تو سوائے طفل کے سب گواہوں کو حد قذف ماری جائے گی اور اگر یہ امر بعد مشہود علیہ کے رجم کیے جانے کے معلوم ہوا تو گواہوں کو حد نہ ماری جائے گی اور مرجوم کی دیت بیت المال سے دی جائے گی اور اگر مشہود علیہ کو حد میں درے مارے گئے ہوں تو گواہوں کو درے مارے جائے گے بشرطیکہ کہ مشہود علیہ اس کی درخواست کرے اور ہار ش ضرب (چوٹ کا تاون) سو وہ ہدر ہوگا یہ امام اعظم کا قول ہے یہ ایضاً میں ہے اور معتق بعض امام اعظم

(۱) کہ دوبارہ حد قذف ماری جائے ۱۲۔

کے نزدیک مثل مکاتب کے ہے اور مکاتب اہل شہادت میں سے نہیں ہے یہ مسبوط میں ہے اگر چار گواہوں نے گواہی دی حالانکہ وہ فاسق ہیں یا ظاہر ہوا کہ وہ فاسق ہیں تو ان کو حد قذف نہ ماری جائے گی یہ کافی میں ہے۔ اگر مشہود علیہ نے دعویٰ کیا کہ ان میں سے ایک گواہ غلام ہے تو قول اسی کا قبول ہوگا یہاں تک کہ ثابت کیا جائے کہ وہ آزاد ہے یہ تاتار خانہ میں ہے اور ایک مرد نے دوسرے کو زنا کی تہمت لگائی پھر اس قاذف نے اور تین مردوں کے ساتھ گواہی دی کہ یہ زانی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر مقذوف اس قاذف کو قاضی کے یہاں لایا پھر قاذف نے ان گواہوں کے ساتھ اس کے زانی ہونے کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اور اگر ہنوز اس کو قاضی کے پاس نہیں لایا تھا تو گواہی مقبول ہوگی یہ محیط سرخسی میں ہے۔

چار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی اور وہ محسن ہے.....:

امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا کہ چار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی حالانکہ یہ مرد غیر محسن ہے اور امام نے اس کو حد میں مارا پھر ظاہر ہوا کہ یہ گواہ غلام یا کفارہ یا محدود القذف تھے حالانکہ مشہود علیہ ان دروں کی سزا سے مر گیا ہے یا دروں سے اس کا بدن مجروح ہو گیا ہے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ قاضی پر یا بیت المال پر اس کا تاوان لازم نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر کوئی شخص گواہوں کی گواہی پر حد زنا میں درے مارا گیا پس دروں کی چوٹ سے وہ مر گیا یا مجروح ہو گیا پھر ظاہر ہوا کہ بعض گواہ غلام یا محدود القذف یا کافر ہیں تو ان گواہوں کو بالاتفاق حد قذف کی سزا دی جائے گی اور امام اعظم نے فرمایا کہ ان گواہوں پر اور نیز بیت المال پر کچھ تاوان واجب نہ ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے۔ چار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی اور وہ محسن ہے یا گواہوں نے اس پر زنا و احسان دونوں کی گواہی دی پس امام المسلمین نے اس کو رجم کیا پھر ایک گواہ غلام یا مکاتب یا محدود القذف پایا گیا تو رجم کی دیت قاضی پر واجب ہوگی اور قاضی اس کو بیت المال سے نہیں لے سکتا ہے اس پر جماع ہے اور اگر یہ ظاہر ہو کہ یہ گواہ فاسق تھے تو قاضی پر ضمان واجب نہ ہوگی چار مردوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی اور ان گواہوں کا چندہ نفر نے تزکیہ کیا اور کہا کہ یہ لوگ آزاد مسلمان عادل ہیں لیکن پیچھے ظاہر ہوا کہ یہ غلام یا کفارہ یا محدود القذف ہیں پس اگر تزکیہ کرنے والے اپنے تزکیہ پر جتے رہے اور اس سے رجوع نہ کیا لیکن یہ کہا کہ ہم سے خطا ہوئی تو بالاتفاق اس پر ضمان واجب نہ ہوگی اور ضمان بیت المال سے بالاتفاق واجب ہوگی اور اگر انہوں نے تزکیہ سے رجوع کیا اور کہا کہ ہم ان کو غلام یا کافر یا محدود القذف جانتے تھے مگر ہم نے باوجود اس کے عمدہ تزکیہ و تعدیل کی تو اس میں اختلاف ہے امام اعظم کے نزدیک ضمان ان تزکیہ کرنے والوں پر واجب ہوگی اور بیت المال سے واجب نہ ہوگی اور صاحبین نے فرمایا کہ تزکیہ کرنے والوں پر ضمان نہ ہوگی اور بیت المال سے واجب ہوگی اور یہ حکم اس وقت ہے کہ گواہوں کا غلام یا محدود القذف ہونا ظاہر ہو اور اگر یہ ظاہر ہوا کہ یہ گواہ فاسق ہیں اور تزکیہ کرنے والوں نے اپنی تعدیل سے رجوع کیا یعنی کہا کہ ہم نے جان بوجھ کر عمدہ تعدیل کی تو وہی ضامن ہوں گے اور یہ اس وقت سے کہ مزکیں نے یوں کہا کہ یہ لوگ آزاد مسلمان عدول ہیں اور اگر مزکیں نے فقط اتنا کہا کہ عدول ہیں پھر ظاہر ہوا کہ گواہ لوگ غلام ہیں تو مزکیں پر ضمان واجب نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔

چار مردوں نے غیر محسن پر زنا کی گواہی دی:

اگر معدلین (نبوت عدالت کے لوگوں) نے بلفظ شہادت کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ احرار ہیں یا بلفظ خبر کہا کہ یہ لوگ احرار ہیں تو ان دونوں میں فرق نہیں ہے یہ نہایت میں ہے اور گواہوں پر ضمان واجب نہ ہوگی اور نہ ان کو حد قذف کی سزا دی جائے گی یہ کافی میں ہے چار مردوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی پھر گواہوں نے قاضی کے حضور میں اقرار کیا کہ ہم نے باطل کی گواہی دی ہے تو

ان پر حد واجب ہوگی اور اگر قاضی نے ان کو حد نہ ماری یہاں تک کہ دوسرے چار گواہوں نے اسی مشہود علیہ پر زنا کی گواہی دی تو ان کی گواہی جائز ہوگی اور مشہود علیہ پر حد کی سزا واجب ہوگی اور فریق اول سے حد قذف دور کی جائے گی یہ مبسوط میں ہے اور اگر گواہوں نے مشہود علیہ کے کوڑوں سے مجروح ہو جانے کے بعد یا مر جانے کے بعد رجوع کیا تو امام اعظمؒ کے نزدیک کچھ ضامن نہ ہوں گے نہ تاوان ارش و نہ تاوان نفس کے اور صاحبین کے نزدیک اگر وہ کوڑوں سے نہیں مرا ہے تو ارش جراحات کے ضامن ہوں گے اور اگر مر گیا تو دیت کے ضامن ہوں گے یہ غایۃ البیان میں ہے۔ چار مردوں نے غیر محسن پر زنا کی گواہی دی پس قاضی نے اس کو کوڑے مارے کہ دروں نے اس کو مجروح کر دیا پھر گواہوں میں سے ایک نے رجوع کیا تو وہ ارش جراحات کا ضامن نہ ہوگا اسی طرح اگر وہ دروں سے مر گیا ہو تو بھی ضامن نہ ہوگا نہ گواہ رجوع کرنے والا اور نہ بیت المال کسی پر دیت نہ ہوگی اور امام اعظمؒ کا قول ہے اور صاحبین کے نزدیک جس نے رجوع کیا ہے وہ ضامن ہوگا یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر اس کی حد جلد یعنی درہ ہو پس گواہوں کی گواہی سے اس کو حد ماری گئی پھر گواہوں میں سے ایک نے رجوع کیا تو بالا جماع اسی اکیلے کو حد قذف ماری جائے گی یہ تبیین میں ہے۔ اگر مشہود علیہ کو حد ماری گئی اور ہنوز ایک درہ باقی رہا ہے کہ گواہوں میں سے ایک نے رجوع کیا تو سب گواہوں کو حد قذف ماری جائے گی اور مشہود علیہ سے باقی حد ساقط کی جائے گی اور اگر لوگوں نے اور گواہوں نے مشہود علیہ کو رجم کیا اور ہنوز مرانہ تھا کہ بعض گواہوں نے رجوع کیا تو گواہوں کو حد قذف ماری جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر فرع چار مردوں گواہوں نے اصل چار گواہوں کی گواہی پر ایک مرد پر زنا کی گواہی دی تو اس کو حد نہ ماری جائے گی پھر اگر اصل گواہ بھی آئے اور انہوں نے اس مرد پر بعینہ اسی زنا کی بابت گواہی دی تو بھی اس کو حد سزا نہ دی جائے گی اور گواہان فروغ و اصول کو بھی حد قذف کی سزا نہ دی جائے گی کذا فی الکافی اور اس طرح سوائے ان کے اور ان کی گواہی بھی مقبول نہ ہوگی۔ یہ خزائنہ المغنین میں ہے۔

اگر چار مردوں نے ایک مرد پر فلاں فلاں خاتون سے زنا کرنے کی گواہی دی:

اگر چار مردوں نے ایک مرد پر فلاں عورت سے زنا کرنے کی گواہی دی اور دوسرے چار گواہوں نے اس مرد کے دوسری عورت سے زنا کرنے کی گواہی دی پس مشہود علیہ سنگسار کیا گیا پھر دونوں فریق گواہوں نے رجوع کیا تو بالا جماع اس کی دیت کے ضامن ہوں گے اور امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ان کو حد قذف کی سزا بھی دی جائے گی یہ کافی میں ہے۔ اگر چار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی اور اس کے محسن ہونے کی گواہی دی پھر قبل حکم قضا کے ایک نے یا بعض نے رجوع کیا تو بالاتفاق رجوع کرنے والے کو حد قذف ماری جائے گی اور باقیوں کو ہمارے نزدیک حد قذف ماری جائے گی اور اگر بعض نے بعد حکم قضا ہونے کے قبل حد جاری کیے جانے کے رجوع کیا تو بالاتفاق رجوع کرنے والے کو حد قذف کی سزا دی جائے گی اور باقیوں کو امام اعظمؒ کے نزدیک اور موافق دوسرے قول کے امام ابو یوسفؒ کے نزدیک حد قذف کی سزا دی جائے گی۔ اگر بعد حکم قضا اور حد جاری ہونے کے بعض نے رجوع کیا تو بالاتفاق رجوع کرنے والے پر حد قذف واجب ہوگی اور باقیوں پر نہ ہوگی اور نیز بالاتفاق اس رجوع کرنے والے پر چہارم دیت خاص اس کے مال سے ایک سال میں ادا کرنی واجب ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اس طرح ہر بار جب کوئی رجوع کرے گا تو اس کو حد قذف ماری جائے گی اور چہارم دیت کا ضامن ہوگا یہ کافی میں ہے۔ اگر بعد قضا و امضاء کے سب گواہوں نے رجوع کیا تو ہمارے نزدیک سب کو حد قذف ماری جائے گی اور اس کی دیت ان سب کے مال سے واجب ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر پانچ گواہوں نے ایک مرد پر زنا کرنے اور اس کے محسن ہونے کی گواہی دی پس وہ رجم کیا گیا پھر ان میں سے ایک نے رجوع کیا تو اس پر کچھ نہیں ہے الا آنکہ ایک اور رجوع کر لے:

اگر ایسے مرجوم کو جس کے گواہ نے رجوع کیا ہے کسی نے قذف کیا تو قذف کرنے والے کو حد قذف نہ ماری جائے گی اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ بعد حکم قضاء ہو جانے کے گواہ کا رجوع کرنا دوسرے کے حق میں کارآمد نہیں اور مؤثر نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔ گواہوں نے ایک مرد پر اس کے آزاد ہو جانے اور زنا کرنے کی گواہی دی پس اس کو رجم کیا گیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو گواہوں کو حد قذف ماری جائے گی اور اس کی قیمت اس کے مولیٰ کو تاوان دے گے اور اس کی دیت اس کے وارثوں کو تاوان دے گے یہ تا تاریخانیہ میں ہے اور اگر گواہوں نے اس کے عتق کی گواہی سے رجوع کیا تو کچھ ضامن نہ ہوں گے اس واسطے کہ احسان کے گواہ اگر رجوع (۱) کرتے ہیں تو وہ ضامن نہیں ہوتے ہیں یہ خزانہ المفتیین میں ہے۔ اگر گواہان زنا پانچ ہوں پس ایک نے رجوع کر لیا تو باقیوں کی گواہی بر مشہود علیہ پر حد جاری کی جائے گی یہ ایضاً میں ہے۔ اگر پانچ گواہوں نے ایک مرد پر زنا کرنے اور اس کے محسن ہونے کی گواہی دی پس وہ رجم کیا گیا پھر ان میں سے ایک نے رجوع کیا تو اس پر کچھ نہیں ہے پھر اگر اور ایک نے رجوع کیا تو دونوں چہارم دیت کے ضامن ہوں گے اور دونوں کو حد قذف کی سزا دی جائے گی یہ مسبوط میں ہے۔ نیز بعد ان دونوں کے جو کوئی جب رجوع کرے گا چہارم دیت کا ضامن ہوگا اور اگر پانچوں گواہوں نے ایک بارگی رجوع کر لیا تو سب کے سب پوری دیت کے پانچ حصے کر کے ضامن ہوں گے کہ ہر ایک پانچوں حصے کا ضامن ہوگا یہ حاوی قدسی میں ہے۔

مفتی میں لکھا ہے کہ پانچ گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی اور وہ غیر محسن ہے پس قاضی نے اس کو درہ مارے پھر ان پانچ گواہوں میں سے ایک گواہ محدود القذف یا غلام نکلا پھر ان باقی چاروں گواہوں نے رجوع کیا تو انہیں چاروں کو حد قذف کی سزا دی جائے گی اور جو محدود القذف یا غلام نکلا ہے اس کو حد قذف کی سزا دی جائے گی اس واسطے کہ وہ ایسی حالت میں قاذف ہوا کہ جس کو تہمت دیتا ہے اس پر چار نے زنا کی گواہی دی ہے اور اس کو حد (پس ایسے شخص کے قذف کرنے سے کچھ سزا نہیں ہے) ماری گئی ہے۔ نیز مفتی میں مذکور ہے کہ ایک مرد چاروں مردوں اور چار عورتوں نے زنا کی کرنے کی گواہی دی حالانکہ وہ غیر محسن ہے پس اس کو حد میں درہ مارے گئے پھر ان سب گواہوں نے رجوع کیا تو مردوں کو حد قذف ماری جائے گی نہ عورتوں کو اور اگر ان گواہوں نے قبل مشہود علیہ (یعنی وہ شخص جس پر زنا کی گواہی دی گئی ۲۱) کے حد مارے جانے کے رجوع کیا ہو تو مردوں و عورتوں سب کو حد ماری جائے گی یہ محیط میں ہے۔ اگر چھ گواہوں کی گواہی سے کسی کو رجم کیا گیا پھر دو گواہوں نے ان میں سے رجوع کر لیا تو ان پر کچھ نہ ہوگا اور اگر تیسرے نے بھی رجوع کیا تو یہ تینوں چہارم دیت کے ضامن ہوں گے اور امام اعظم و امام ابو یوسف کے نزدیک ان سب کو حد قذف بھی ماری جائے گی اور اگر ان رجوع کرنے والوں نے باقیوں میں سے ایک کے رقیق (۲) ہونے کی گواہی دی تو اور چہارم دیت بیت المال پر واجب ہوگی اور اگر چھ میں سے دو نے رجوع کیا اور باقیوں میں سے درہ کے رقیق ہونے کی گواہی دی تو جائز ہے اور چہارم دیت ان دونوں رجوع کرنے والوں پر ہوگی اور چہارم دیت بیت المال پر ہوگی اور اگر ان دونوں نے تین باقی کے رقیق ہونے کی گواہی دی تو جائز نہ ہوگی۔

اور آٹھ گواہوں نے ایک مرد محسن پر زنا کی گواہی دی خواہ سبوں نے ایک ہی زنا پر باہر چار گواہوں نے علیحدہ علیحدہ زنا

(۱) اور آزادی از جملہ اور احسان ہے ۱۲۔ (۲) رقیق یعنی غلام مملوک ۱۲۔

پر گواہی دی اور اس کو رجم کیا گیا پس اگر چار گواہوں نے ان میں سے رجوع کیا تو ان پر ضمان و حد کچھ واجب نہ ہوگی پھر اگر پانچوں نے بھی رجوع کیا تو چہارم دیت یہ سب باہم حصہ دسد تاوان دیں گے اور امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک ان سب کو حد قذف ماری جائے گی یہ خزانہ المفتیین و عتابیہ میں ہے اور اگر قاضی نے تین گواہوں کی گواہی پر یا ایک مرد و دو عورتوں کی گواہی پر مشہود علیہ کو رجم کیا پس اگر قاضی نے کہا کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ جائز ہے تو اس کی دیت بیت المال پر واجب ہوگی اور اگر قاضی نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ نہیں جائز ہے تو دیت اس پر واجب ہوگی اور اگر قاضی نے اس کے ایک مرتبہ کے اقرار پر اس کو رجم کر دیا تو بہر حال ضامن نہ ہوگا یہ عتابیہ میں ہے۔ اگر گواہوں نے مرد و عورت سے غیر مجلس قاضی میں کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم دونوں زانی ہو اور پھر دونوں کو مجلس قاضی میں لائے اور ان پر اس امر کی گواہی دی اور ان دونوں نے کہا کہ ان گواہوں نے ہم سے یہ بات پہلے اس سے کہ آپ کے حضور میں لائے ہیں کہی ہے اور ہمارے پاس اس کے گواہ موجود ہیں تو اس امر پر ان دونوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور اس سے گواہوں کی گواہی ساقط نہ ہوگی اور بعد ثبوت کے مرد و عورت مذکورہ کو حد کی سزا دی جائے گی یہ مسبوط میں ہے اور امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا کہ ایک مرد پر اس کی اولاد میں سے چار مردوں نے یا اس کے چار بھائیوں نے یا اس کے چچا کی اولاد میں سے چار مردوں نے زنا کی گواہی دی اور یہ مرد مخلصن ہے اور یہ گواہ عادل ہیں پس قاضی نے اس پر رجم کا حکم دیں دیا جب رجم کا ارادہ کرے تو گواہوں کو حکم کرے گا کہ پہلے تم ابتدا کرو پس اگر ان اولاد نے اپنے باپ کو رجم کیا مگر ایسا پتھر نہ پڑا کہ وہ مر جائے اور بعد ان کے لوگوں نے رجم کیا کہ وہ مر گیا۔

حد قذف میں کس صورت میں مخاصمہ (جھگڑا، بحث و مباحثہ) کیا جا سکتا ہے؟

پھر ان گواہوں میں سے ایک نے رجوع کیا تو رجوع کرنے والا چہارم دیت کا ضامن ہوگا اور خاص اپنے مال سے دے گا اور یہ تین برس میں ادا کرے گا اور یہ مال اس مرجوم کے وارثوں اور اس رجوع کرنے والے کے درمیان میراث مشترک ہوگا پس اس مال میں سے بقدر حصہ اس رجوع کنندہ کے اس کے ذمہ سے ساقط کیا جائے گا اور باقی کا وہ ضامن رہے گا کہ جس کو تین سال میں ادا کرے گا بشرطیکہ اس کا حصہ چہارم دیت کو وانی نہ ہو اور مشائخ نے فرمایا کہ یہ رجوع کرنے والا چہارم دیت کا اسی وقت ضامن ہوگا کہ جنھوں نے رجوع نہیں کیا ہے انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارے باپ نے ضرور زنا کیا ہے جیسے ہم نے گواہی دی ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے اور تو نے نہیں دیکھا پس تو نے باطل گواہی دی پس اس صورت میں تاوان سب اماموں کے نزدیک واجب ہے اور اگر باقیوں نے اس سے کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ ہمارے باپ کو زنا کرتے دیکھا اور تو رجوع کرنے میں جھوٹا ہے تو رجوع کرنے والا ضامن نہ ہوگا اور ہمارے علمائے ثلاثہ کے نزدیک اس رجوع کرنے والے پر حد قذف واجب ہوگی الا آنکہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ گواہی دی ہے وہ اس پر حد قذف واجب ہونے سے منکر ہوں پس ان کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس سے دربارہ امر قذف کے مخاصمہ (جھگڑا، بحث) کریں۔ ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس مرجوم کا باپ یا دادا یا کوئی اور بیٹا جس نے اس پر گواہی نہیں دی ہے موجود ہے یا نہیں پس اگر ہوگا تو اس کو اختیار ہوگا کہ اس رجوع کنندہ سے دربارہ امر قذف مخاصمہ کرے اور اگر مرجوم (رجم کردہ شدہ و سنگسار کیا ہو) کا کوئی بیٹا یا باپ یا دادا نہ ہو مگر ان گواہوں میں سے بعض کی اولاد ہو تو دیکھا جائے کہ اگر وہ اسی رجوع کرنے والے کا بیٹا ہے تو اس کو اختیار نہ ہوگا کہ اپنے باپ سے دربارہ قذف اپنے دادا کے مخاصمہ کرے اور اگر بیٹا ان میں سے کسی کا ہو جنھوں نے رجوع نہیں کیا ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ اس رجوع کرنے والے سے حد قذف کا دعویٰ کر کے حد لے لے اور یہ سب اس وقت ہے کہ جب ان گواہوں نے مشہود علیہ کو سنگسار کیا اور وہ ان کی ضرب سے مرا نہیں۔

اگر انہوں نے پتھر مارے کہ وہ مر گیا پھر ان گواہوں میں سے ایک نے اپنی گواہی سے رجوع کیا اور سوائے ان گواہوں کے دیت کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس مسئلہ میں تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ باقیوں نے اس رجوع کرنے والے سے کہا کہ تو اپنے رجوع کرنے میں جھوٹا ہے اور گواہی دینے میں سچا ہے اور دوم آنکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پد رزانی تھا لیکن تو نے اس کا زنا کرنا نہیں دیکھا یا کہا کہ نہیں معلوم کہ تو نے اس کا زنا کرنا دیکھا یا نہیں اور تو نے باطل کے ساتھ گواہی دی سوم آنکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے کبھی زنا نہیں کیا اور تو نے جو کہا کہ وہ زانی ہے تو تو نے جھوٹ کہا پس وجہ اول میں رجوع کرنے والا کچھ ضامن نہ ہوگا اور میراث سے بھی محروم نہ ہوگا اور دوسری صورت میں رجوع کرنے والا چہارم دیت کا ضامن ہوگا اور میراث سے محروم ہوگا اور اس پر حد قذف واجب نہ ہوگی اگرچہ اس نے اپنے اوپر حد قذف کا اقرار کیا ہے لیکن چونکہ باقیوں نے قذف میں اس کی تصدیق کی اور حق حد قذف انہیں کا ہے ان سے تجاوز نہیں کرتا ہے پس اس پر حد نہ ہوگی حتیٰ کہ اگر ان کے سوائے کوئی اور وارث مستحق حد موجود ہو ان میں سے کہ جس کو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے تو وہ اس حد مذکور لے لے گا اور باقی گواہوں پر بھی دیت میں سے کچھ ضمان نہ ہوگی اور باقی تینوں گواہ ایسی گواہی کی وجہ سے مستحق حد قذف نہ ہوں گے اور تیسری صورت میں سب کے سب ضامن ہوں گے اور سب میراث سے محروم ہوں گے اور مقتول مذکور کی دیت ان لوگوں کے سوائے پھر جو شخص کو مقتول سے سب سے زیادہ قریب ہو اس کو ملے گی اور ان لوگوں کو حد قذف کی سزا دی جائے گی۔ ایک شخص کی دو عورتیں ہیں اور ان میں سے ایک سے اس کے پانچ بیٹے ہیں پھر ان میں سے چار بیٹوں نے اپنے بھائی پر جو پانچواں بیٹا ہے گواہی دی کہ اس نے ہمارے باپ کی بیوی سے زنا کیا ہے تو یہ امر خالی نہیں ہے کہ ان کے باپ نے اس عورت سے وطی کی ہوگی یا نہیں اور نیز ان گواہوں کی ماں زندہ ہوگی یا مر گئی ہوگی۔ نیز ان کے باپ نے ان کی تصدیق کی ہوگی یا تکذیب کی ہوگی اور نیز انہوں نے گواہی میں یا کہا ہوگا کہ اس عورت نے اس مرد کی مطاوعت (رضامندی و تابعداری) کی زنا کرنے میں یا یوں گواہی دی ہوگی کہ برادر مشہود علیہ کی طرف سے زنا میں اس کے اوپر زبردستی واقع ہوئی پس اگر انہوں نے گواہی دی کہ ہمارے بھائی نے اس عورت سے زنا کیا اور اس عورت نے بھی اس کی مطاوعت کی ہے اور حال یہ ہے کہ اس عورت سے ان کے باپ نے دخول نہیں کیا ہے پس اگر ان گواہوں کی ماں زندہ موجود ہو تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی خواہ ان کا باپ ان کی تصدیق کرتا ہو یا تکذیب اور ان کی ماں خواہ منکرہ ہو یا مدعیہ ہو اور اگر ان کی ماں مر گئی ہو پس اگر ان کا باپ اس کا مدعی ہو تو بھی اس ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر باپ اس سے منکر ہو تو گواہی مقبول ہوگی۔

اگر چار نصرانیوں نے دو نصرانیوں پر زنا کرنے کی گواہی دی اور قاضی نے ان کی گواہی پر حکم دے دیا پھر مرد یا عورت مسلمان ہو گئی تو دونوں سے حد ساقط ہو جائے گی:

اگر اس عورت سے ان کے باپ نے دخول کر لیا ہو پس اگر اس عورت نے اس مشہود علیہ کی زنا کرنے میں مطاوعت کی ہو اور گواہوں کی ماں زندہ ہو تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی خواہ ان کا باپ ان کی تصدیق کرتا ہو یا تکذیب اور خواہ ان کی ماں اس کی مدعیہ ہو یا منکرہ ہو اور اگر ان کی ماں مر گئی ہو پس اگر باپ اس کا مدعی ہو تو گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر منکرہ ہو تو مقبول ہوگی اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ گواہوں نے گواہی دی کہ اس مرد نے اس عورت سے زنا کیا در حالیکہ وہ مطاوعت تھی۔ اگر یہ گواہی دی کہ اس مشہود علیہ نے اس سے زبردستی زنا کیا ہے پس اگر ان کی ماں مر گئی ہو تو ان کی گواہی ہر حال میں مقبول ہوگی خواہ باپ مدعی ہو یا منکر ہو۔ خواہ باپ نے اس سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اگر ان کی ماں زندہ ہو پس اگر باپ ان کا اس امر کا مدعی ہو تو ان کی گواہی مقبول ہو

گی اور اگر منکر ہو تو مقبول نہ ہوگی خواہ ان کی ماں اس کی مدعیہ ہو یا منکرہ ہو اور ہر جس صورت میں ان کی گواہی مقبول ہوئی ہے تو حد زنا ان کے بھائی پر قائم کی جائے گی اور عورت پر بھی اگر اس نے راضی (۱) سے زنا کیا ہے قائم کی جائے گی یہ محیط میں ہے اور اگر چار نصرانیوں نے دو نصرانیوں پر زنا کرنے کی گواہی دی اور قاضی نے ان کی گواہی پر حکم دے دیا پھر مرد یا عورت مسلمان ہو گئی تو فرمایا کہ دونوں سے حد ساقط ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد گواہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تو کچھ نہ ہوگا خواہ وہ گواہی کو اعادہ کریں یا نہ کریں اور اگر انہوں نے دو مردوں اور دو عورتوں پر زنا کی گواہی دی پھر جب حاکم نے ان کے اوپر حد کا حکم دے دیا تو دونوں مردوں یا دونوں عورتوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو جو مسلمان ہوا ہے اس سے اور اس کے ساتھی سے حد ساقط ہوگی اور جو نہیں مسلمان ہوا ہے اس پر اس طرح حد رہے گی ساقط نہ ہوگی یہ مبسوط میں ہے۔

امام محمدؒ نے فرمایا کہ اگر مشہود علیہ برتا یعنی جس پر زنا کی گواہی دی گئی ہے دو گواہ لایا کہ جنہوں نے ان گواہوں میں سے ایک گواہ پر جس نے اس پر زنا کی گواہی دی ہے یہ گواہی دی کہ یہ گواہ محدود القذف ہے۔ تو قاضی ان دونوں گواہوں سے دریافت کرے گا کہ اس گواہ پر حد قذف کیونکر قائم ہوئی ہے یعنی کس نے قائم کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حد قذف از جانب سلطان یا نائب السلطان قائم ہوئی ہو تو ایسے گواہ کی گواہی باطل ہوگی اور اگر رعایا میں سے کسی نے بغیر اجازت امام المسلمین کے اس پر حد قذف قائم کر دی ہو تو اس کی گواہی اس طرح محدود ہونے سے باطل نہ ہوگی لہذا ضروری ہوا کہ یہ دریافت کیا جائے کہ کس نے اس پر حد قائم کی ہے۔ اگر اس کے دونوں گواہوں نے کہا کہ اس گواہ کو قاضی پر گنہ فلاں نے حد قذف کی سزا دی ہے اور اس قاضی کا نام بیان کر دیا پس اس گواہ نے جس پر محدود القذف ہونے کی گواہی دی گئی ہے کہا کہ میں گواہ پیش کرتا ہوں اس قاضی کے اقرار کی کہ اس نے مجھے حد نہیں ماری ہے اور دونوں فریق گواہوں نے اس کی کوئی تاریخ و وقت نہیں بیان کیا تو قاضی اس کے محدود القذف ہونے کا حکم دے دے گا اور بسبب گواہی گواہان اقرار مذکور کے محدود القذف ہونے کا حکم دینے سے باز نہ رہے گا اگر گواہوں نے اس کی حد ماری جانے کا کوئی وقت بھی بیان کیا ہو مثلاً کہا کہ قاضی کورہ فلاں نے اس کو حد قذف سنہ چار ستاون میں ماری ہے پھر مشہور علیہ نے گواہ قائم کیے کہ یہ قاضی سنہ چار سو چچین میں مر گیا ہے یا اس امر پر گواہ قائم کیے کہ یہ قاضی سنہ چار سو ستاون میں فلاں ملک دیگر کو گیا تھا تو قاضی اس کے محدود القذف ہونے کا حکم دے دے گا اور اس کے گواہوں کی طرف التفات نہ کرے گا۔

الا آنکہ ان میں سے کوئی بات مشہور ہو مثلاً قاضی مذکور کا مرنا اس وقت سے جو گواہان مشہود علیہ نے شاہد کے محدود ہونے کا بیان (مثلاً چار سو ستاون) کیا ہے پہلے واقع ہونا تمام میں عام مشہور ہو گیا ہو کہ ہر صغیر و کبیر و عالم و جاہل اس کو جانتا ہو یا مثلاً جس سال میں گواہوں نے اس پر حد قذف قائم کی جانی بیان کی ہے اس سال قاضی مذکور کا دوسرے ملک میں ہونا مشہور معروف ہو کہ اس کو ہر صغیر و کبیر و عالم و جاہل جانتا ہو تو ایسی صورت میں قاضی اس کے محدود القذف ہونے کا حکم نہ دے گا اور مشہود علیہ پر حد زنا کا حکم دے گا یہ محیط میں ہے۔ اگر مشہود علیہ نے یعنی جس پر زنا کی گواہی دی گئی ہے دعویٰ کیا کہ یہ گواہ محدود القذف ہے اور میرے پاس اس کے گواہ ہیں تو اس کے اور مجلس سے اٹھنے کے درمیان مہلت دی جائے گی بدوں اس کے وہ محلیٰ بالطبع کیا جائے پس اگر وہ گواہ لایا تو خیر ورنہ اس پر حد قائم کی جائے گی پس اگر اس نے اقرار کیا کہ میرے گواہ شہر میں موجود نہیں ہے اور درخواست کی کہ چند روز مجھے مہلت دی جائے تو قاضی اس کو مہلت نہ دے گا۔ اگر مشہود علیہ نے کچھ دعویٰ نہ کیا بلکہ کسی شخص دیگر نے گواہوں میں سے کسی پر

۱۔ محدود القذف یعنی زنا کی جہت کسی پر لگانے کی وجہ سے حد مارا گیا ہے ۱۲۔ ۲۔ یعنی اقرار قاضی کے گواہوں کی گواہی کی وجہ سے ۱۲۔

(۱) گواہوں نے کہا کہ عورت بھی راضی تھی ۱۲۔

دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے قذف کیا ہے تو مشہود علیہ قید رکھا جائے گا اور قذف کے گواہوں کا حال دریافت کیا جائے گا پس اگر ان کی تعدیل کی گئی تو حد قذف پہلے ماری جائے گی پس مشہود علیہ سے حد زنا ساقط کی جائے گی۔ اسی طرح اگر گواہان زنا میں سے کسی نے قاضی کے سامنے کسی کا قذف کیا پس اگر مقذوف یعنی جس کو تہمت لگائی ہے کہ آیا۔

اگر حد زنا قائم کی جانے کے بعد مقذوف نے آکر حد قذف کا مطالبہ کیا تو اس کے واسطے حد قذف بھی ماری جائے گی:

اس نے حد قذف کا مطالبہ کیا تو اس پر حد قذف قائم کی جائے گی اور حد زنا ساقط ہو جائے گی اور اگر مقذوف نہ آیا تاکہ اپنے حد قذف کا مطالبہ کرے تو حد زنا قائم کر دی جائے گی اور اگر حد زنا قائم کی جانے کے بعد مقذوف نے آکر حد قذف کا مطالبہ کیا تو اس کے واسطے حد قذف بھی ماری جائے گی۔ اسی طرح اگر بجائے قاذف کے چور ہو یا گواہی اور کسی حق کی حقوق العباد میں سے ہو تو بھی یہی حکم ہے یہ مبسوط میں ہے اور اگر چار مردوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی اور ہنوز تعدیل گواہوں کی نہ ہوئی تھی کہ مشہود علیہ کو کسی نے قتل کر ڈالا تو عداۃ قتل کرنے میں قصاص اور خطاۃ قتل کرنے میں دیت قاتل کی مددگار برادری پر واجب ہوگی اور اس طرح اگر بعد تعدیل گواہوں کے اس کو قتل کیا اور ہنوز حکم برجم نہیں ہوا ہے تو بھی یہی حکم ہے یہ کافی میں ہے اور جیسے ان دونوں صورتوں میں اس کی ضمان نفس واجب ہوتی ہے یعنی بالکل قتل کر دیا تو دیت یا قصاص واجب ہوتا ہے اس طرح اگر اس کے اطراف میں سے کوئی عضو کاٹ ڈالا یا ضائع کیا تو اس کی ضمان بھی واجب ہوگی جیسے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا یا آنکھ پھوڑ دی تو ضامن ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر اس کے رجم کا حکم دیا گیا ہو پھر اس کو کسی نے عمد یا خطاۃ قتل کیا تو اس پر کچھ نہیں ہے یہ کافی میں ہے اور جس طرح اس صورت میں اس کے نفس کی ضمان واجب ہوتی ہے ویسے ہی اس صورت میں اس کے اطراف کی ضمان بھی واجب نہ ہوگی اور اگر قاتل کے قتل کرنے کے بعد (یعنی بعد رجم کا حکم ہونے کے ہے) اس صورت میں گواہوں نے رجوع کیا تو قاتل پر کچھ واجب نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر بعد حکم ہو جانے کے اس کو عمد آقتل کر دیا پھر گواہ غلام یا کفارہ پائے گئے یا محدود القذف نکلے تو قیاس چاہتا ہے کہ قصاص واجب ہو اور استحساناً مقتول کی دیت قاتل کے مال سے تین سال (یعنی تین سال میں سب ادا کرے) میں واجب ہوگی۔ اگر قاتل نے اس کو بطریق رجم قتل کیا ہو پھر گواہان مذکور غلام نکلے تو اس کی دیت بیت المال سے واجب ہوگی اس واسطے کہ قاتل نے جو کچھ کیا وہ بامر امام المسلمین کیا ہے بخلاف اس کے اگر اس کو تلوار سے قتل کیا تو حکم امام کی فرمان برداری نہیں کی پس یہ حکم نہ ہوگا یہ کافی میں ہے۔ اگر گواہوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اس عورت سے وطی کی اور یہ نہ کہا کہ اس سے زنا کیا تو ان کی گواہی باطل ہے اور اسی طرح اگر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اس عورت سے جماع کیا یا مباحثت کی تو بھی یہی حکم ہے اور گواہوں پر حد واجب نہ ہوگی یہ مبسوط میں ہے اور اگر گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی اور کہا کہ ہم نے عمد نظر ڈال کر دیکھا ہے تو ان کی گواہی مقبول ہوگی یہ ہدایہ میں ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم نے تلذذ کے واسطے عمد نظر ڈالی تو بالا جماع قبول نہ ہوگی یہ فتح القدیر میں ہے یہ چار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی پس امام نے اس کو حد ماری چاہی پھر ان گواہوں میں

۱۔ اس واسطے کہ جب انہوں نے ایسا کہا تو گویا اپنے فسق کا اقرار کیا اور صورت اول میں دیکھنا بغرض محل شہادت بیان کیا تو اس کا دیکھنا بطور خواہش نفس نہ ہوا بلکہ محض اس غرض کے واسطے جو شرعاً جائز ہے بخلاف فریق ثانی کے کہ اس کو اس طور پر جائز نظر کرنی نہ تھی۔ پس دونوں میں فرق ظاہر ہو گیا ۱۲۔

سے ایک نے دوسرے کو تہمت لگائی یعنی قذف کیا پس مقذوف اس امر سے ڈرا کہ اگر میں حد قذف کا مطالبہ کرتا ہوں تو گواہی ہے باطل ہو جائے گی پس اس نے مطالبہ نہ کیا تو فرمایا کہ ان کی گواہی جائز ہے اور مشہود علیہ کو سزائے حد دی جائے گی یہ مبسوط میں ہے۔
چار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی اور اس کے احصان پر کسی نے گواہی نہ دی.....:

چار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی اور دو گواہوں نے اس پر محسن ہونے کی گواہی دی پس قاضی نے رجم کا حکم دے دیا اور وہ رجم کیا گیا کہ اسی درمیان میں گواہان احصان نے رجوع کر لیا یا وہ غلام نکلے اور مرد مذکور کو پتھروں نے زخمی کیا ہے مگر ہنوز وہ مرا نہیں ہے تو قیاس چاہتا ہے کہ اس پر سو کوڑے کی حد قائم کی جائے اور یہ امام اعظم و امام محمد کا قول ہے اور استحساناً اس سے سزائے جلد اور باقی رجم سب دور کیے جائیں گے اور ہر دو گواہ لوگ بھی جراحات کی بابت کچھ ضامن نہ ہوں گے اور نہ تاوان بیت المال پر ہوگا چار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی اور اس کے احصان پر کسی نے گواہی نہ دی پس قاضی نے اس کے درے مارنے کا حکم دے دیا پھر دو گواہوں نے اس پر بعد پورے سو درے مارے جانے کے محسن ہونے کی گواہی دی تو برقیاس اول اس صورت میں بھی یہ حکم ہوگا کہ رجم کیا جائے اور استحسان یہ ہے کہ رجم نہ کیا جائے گا اور اس مسئلہ میں ہمارے علماء نے استحسان ہی کو لیا ہے اور صورت اولیٰ میں قیاس کو اختیار کیا ہے اور یہ حکم جو ہم نے بیان کیا اس صورت میں ہے کہ اس پر پورے درے مارے گئے ہوں اور اگر ہنوز پورے درے نہیں مارے گئے کہ دو گواہوں نے اس پر محسن ہونے کی گواہی دی تو رجم جاری کرنے سے مانع نہ ہوگی یہ محیط میں ہے اگر چار مردوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی پس اس نے شبہ کا دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو اپنی بیوی یا باندی گمان کیا تھا تو اس کے ذمہ سے حد ساقط نہ ہوگی اور اگر کہا کہ یہ میری بیوی یا باندی ہے تو اس پر حد نہ ہوگی اور گواہوں پر بھی نہ ہوگی یہ سراج و ہاج میں ہے۔

اگر گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اس باندی سے زنا کیا پس اس نے کہا کہ میں اس کو خرید کر چکا تھا بخرید فاسد یا شرط خیار البائع یا صدقہ یا ہبہ کا دعویٰ کیا یا کہا کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا اور گواہوں نے کہا کہ اس نے اقرار کیا ہے اس میں میری کوئی ملک نہیں تو حد اس کے ذمہ سے دفع کی جائے گی اس واسطے کہ شبہ موجود ہے اور اس طرح حرو (عورت آزادہ) کی صورت میں بھی روایت ہے کہ اگر مشہود علیہ نے کہا کہ میں اس کو خرید چکا تھا تو اس سے حد و کی جائے گی۔ اسی طرح اگر گواہوں نے کہا کہ یہ اس کو آزاد کر چکا تھا پھر اس سے زنا کیا ہے اور وہ آزاد کرنے سے انکار کرتا ہے تو بھی یہی حکم ہے یہ عتابیہ میں ہے۔ اگر گواہوں نے ایک مرد اور ایک عورت پر گواہی دی پس عورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ پر زبردستی ایسا کیا ہے اور گواہوں نے اس کی گواہی نہیں دی بلکہ یہ کہا کہ اس عورت نے اس کی مطاوعت کی تو عورت پر بھی حد واجب ہوگی یہ مبسوط میں ہے اور اگر گواہوں نے ایسی حد کی گواہی دی جس کا عہد متقدم ہو گیا ہے یعنی زمانہ زیادہ گزرا ہے تو حد کی سزا نہ دی جائے گی سوائے حد قذف کے یہ کنز میں ہے اور اگر زنا متقارم کی گواہی دی تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ گواہوں کو حد قذف ماری جائے گی اور بعض نے کہا کہ ان کو بھی حد نہ ماری جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور تقدم^۱ میں ضروری ہے کہ بغیر عدد ریر کی گئی ہو اور اگر بعدر ہو جیسے مرض یا دوری مسافت یا خوف راہ وغیرہ تو گواہی مقبول ہوگی اور مشہود علیہ کو حد ماری جائے گی یہ نہر الفائق میں ہے۔

تقدم جیسے ابتدا قبول شہادت سے مانع ہے ویسے ہی بعد قضاء کے اقامت سے مانع ہے اور یہ حکم ہمارے نزدیک ہے چنانچہ اگر تھوڑی حد قائم کیے جانے کے بعد وہ بھاگ گیا پھر تقدم عہد کے بعد گرفتار ہو کر آیا تو اس پر باقی حد قائم نہ کی جائے گی۔

تقدم میں اختلاف ہے کہ کس قدر مدت میں تقدم ہوتا ہے تو امام محمد سے مروی ہے کہ انہوں نے تقدم کی مدت ایک مہینہ مقرر کیا ہے اور یہی روایت امام اعظم و امام ابو یوسف سے ہے اور یہی اصح ہے یہ ہدایہ میں ہے۔ شراب خواری کے سوائے حدود میں تقدم کی تقدیر ایک مہینہ ہے بالاتفاق اور یہی شراب خواری سو امام محمد کے نزدیک اس میں بھی یہی تقدیر ہے اور شیخین کے نزدیک اس میں بدبو شراب کی زائل ہو جانے تک کی تقدیر ہے یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر اس نے حد متقدم کا اقرار کر لیا تو اس کو حد کی سزا دی جائے گی سوائے شراب خواری کے یہ شرح وقایہ میں ہے اور جس نے کسی عورت معین یا غیر معین سے زنا کرنے کا اقرار چار مرتبہ کیا پھر عورت حاضر ہوئی تو دو حال سے خالی نہیں یا تو مرد پر حد قائم کیے جانے سے پہلے حاضر ہوئی یا بعد مرد پر حد قائم کیے جانے کے حاضر ہوئی پس اگر مرد پر حد قائم کیے جانے کے بعد حاضر ہوئی اور اس نے بھی مثل مرد کے اقرار کیا تو اس پر بھی حد قائم کی جائے گی اور اگر اس نے انکار کیا اور مرد مذکور پر قذف کرنے کا دعویٰ کیا تو مرد مذکور کو حد قذف نہ ماری جائے گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مرد پر دو حدیں واجب نہ ہوں گی ایک حد تو ہم اس پر قائم کر چکے ہیں پس دوسری اس پر قائم نہ ہوگی اور اگر مرد پر حد قائم کیے جانے سے پہلے حاضر ہوئی پس اگر اس نے زنا سے انکار کیا اور نکاح کا دعویٰ کیا تو حد دونوں سے ساقط ہوگی اور مرد پر عقوبت واجب ہوگا اور اگر اس نے نکاح کا دعویٰ نہ کیا اور زنا سے انکار کیا اور مرد پر حد قذف کا دعویٰ کیا تو امام اعظم کے نزدیک مرد سے حد زنا ساقط ہوگی اور اس طرح اگر عورت مقرر ہوئی اور مرد غائب ہو تو مرد کا حکم بھی اس باب میں مثل حکم عورت کے ہے یہ شرح طحاوی میں ہے۔

ایسا شخص کہ دار الحرب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقرار کیا کہ میں نے دار الحرب میں زنا کیا قبل مسلمان ہونے کے تو اس پر حد نہیں ہے:

اگر مرد مذکور پر حد قائم کیے جانے کے بعد عورت حاضر ہوئی اور اس نے نکاح کا دعویٰ کر کے اپنے مہر کا مطالبہ کیا تو اس کے واسطے کچھ مہر نہ ہوگا یہ مسبوط میں ہے منقحی میں لکھا ہے کہ ایک مرد نے زنا کا اقرار کیا اور وہ محسن ہے پس قاضی نے اس کے رجم کا حکم دیا پس لوگ اس کو رجم کرنے کو لے گئے پس اس نے اپنے اقرار سے رجوع کیا پس اس کو ایک شخص نے قتل کر ڈالا یعنی بطور رجم کے تو قاتل پر کچھ نہ ہوگا جب تک کہ قاضی اس سے رجم کو باطل نہ کرے اور اگر قاضی نے اس سے حکم باطل کیا پھر اس کو کسی نے قتل کیا تو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے گا یہ محیط سرحسی میں ہے اصل میں امام ابو حنیفہ سے مذکور ہے کہ ایک شخص نے زنا کا اقرار کیا اور عورت نے اکراہ کا دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے زبردستی ایسا کیا ہے تو امام نے فرمایا کہ مرد کو حد کی سزا دی جائے گی اور عورت پر حد نہیں قائم کی جائے گی یہ ایضاح میں ہے جو شخص کہ دار الحرب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقرار کیا کہ میں نے دار الحرب میں زنا کیا قبل مسلمان ہونے کے تو اس پر حد نہیں ہے یہ محیط میں ہے اور اگر مرد مسلمان دار الحرب میں امان لے کر داخل ہوا اور وہاں کسی مسلمان عورت یا ذمیہ عورت سے زنا کیا پھر وہاں سے دارالاسلام میں آیا اور زنا کرنے کا اقرار کیا تو ہمارے نزدیک اس کو حد نہ ماری جائے گی یہ مسبوط میں ہے اور اگر غلام نے بعد آزاد ہونے کے اقرار کیا کہ میں نے غلام ہونے کی حالت میں زنا کیا تھا تو اس پر غلاموں کی حد قائم کی جائے گی اور غلام پر حد اس کے اقرار سے اور سوائے اقرار کے اور امور موجب حد ہوتے ہیں پائے جانے سے بھی قائم ہوتی ہے اگرچہ اس کا مولیٰ غائب ہو اور چوری کے ہاتھ کاٹے جانے اور قصاص کا بھی یہی حکم ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر دو مرتبہ زنا کا اقرار کیا اور دو گواہوں نے زنا پر گواہی دی تو اس کو حد نہ ماری جائے گی یہ تہمتاشی میں ہے۔

۱ اگر بدبو زائل ہوگئی تو تقدم ہو گیا ۱۲۔ ۲ اس میں تقدم العہد ہو گیا ہے کہ اس پر گواہی مقبول نہ ہوگی لیکن اگر وہ خود اقرار کر لے تو حد ماری جائے گی ۱۲۔

باب : ۵

شراب خواری کی حد میں

”سکراں“ کا اطلاق کس شخص پر ہوتا ہے؟

ایک شخص نے شراب پی اور پکڑا گیا اور بنوز اس کی بدبو^(۱) موجود ہے یا اس پکڑ لائے در حالیکہ ہ نشہ میں مست تھا پس گواہوں نے اس پر شراب خواری کی گواہی دی تو اس پر حد واجب ہوگی قال المترجم یعنی اسی دزے۔ اسی طرح اگر اس نے خود اقرار کیا اور بدبو موجود ہے تو بھی یہی حکم ہے خواہ اس نے تھوڑی شراب پی ہو یا بہت۔ اگر اس نے بدبو جاتی رہنے کی بعد اقرار کیا تو امام اعظم و امام ابو یوسف کے نزدیک اس کو حد نہ ماری جائے گی اور اس طرح اگر بدبو جاتی رہنے کے بعد اور نشہ زائل ہونے کے بعد اس پر گواہوں نے گواہی دی تو بھی شخصین کے نزدیک اس کو حد نہ ماری جائے گی اور اگر گواہوں نے اس کو ایسی حالت میں پکڑا کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے نشہ میں ہے پس اس کو یہاں سے اس شہر کو لے چلے جہاں امام موجود ہے پس اس کے پاس پہنچنے سے پہلے بدبو نشہ جاتا رہا تو مرد مذکور کو بالا جماع حد ماری جائے گی یہ سراج و اباج میں ہے۔ اگر نشہ کے بیہوشی نے اپنے اوپر شراب خواری کا اقرار کیا تو اس کے اقرار (حالت نشہ میں) پر اس کو حد ماری جائے گی یہ ہدایہ میں ہے۔ مست شراب (جو مست ہے) کے پہنچانے میں اختلاف ہی چنانچہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نشہ شراب کا مست وہ ہے کہ زمین کو آسمان سے نہ پہنچاتا ہو اور مرد کو عورت سے نہ شناخت کرتا ہو اور صاحبین نے کہا کہ سکراں وہ ہے کہ اس کا کلام مختلط ہو کہ غالب کلام اس کا ہڈیاں ہو جائے تو وہ سکراں یعنی نشہ شراب کا مست ہے اور صاحبین ہی کے قول پر فتویٰ ہے اور

اگر قاضی کے پاس گواہوں نے ایک مرد پر شراب خواری کی گواہی دی تو قاضی ان سے دریافت کرے گا کہ شراب کیا چیز ہے پھر دریافت کرے گا کہ اس نے کیوں کر پی اس واسطے کہ احتمال ہے کہ اس نے بہ مجبوری زبردستی پی ہو پھر دریافت کرے گا کہ کب پی ہے کیونکہ احتمال تقادم ہے پھر دریافت کرے گا کہ کہاں پی ہے اس واسطے کہ احتمال ہے کہ اس نے دار الحرب میں پی ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے پس اگر گواہوں نے اب سب کو ٹھیک بیان کیا تو قاضی اس مشہود علیہ کو قید کرے گا تا کہ گواہوں کی عدالت دریافت کرے اور ظاہر عدالت پر حکم نہ کرے گا اور جس پر شراب خواری کی گواہی دی ہے ضروری ہے کہ وہ عاقل بالغ مسلمان اور ناطق ہو پس طفل پر ایسی حد نہیں ہے اور نہ مجنون اور نہ کافر پر تا تاریخانیہ میں لکھا ہے کہ گونگے کو بھی حد شراب خواری نہ ماری جائے گی خواہ گواہوں نے اس پر گواہی دی ہو یا اس نے خود ایسے اشارہ سے بتلایا کہ جو اس کی طرف سے معاملات میں اقرار شمار کیا جاتا ہے اور اندھے کو ایسی حد ماری جائے گی یہ بحر الرائق میں ہے۔ اگر دارالاسلام میں مسلمان نے شراب پی اور کہا کہ میں نے اس کے حرام ہونے کو نہیں جانتا تھا تو اس کو حد ماری جائے گی یہ سراجیہ میں ہے اور اگر ایک شخص پر شراب خواری کی گواہی دی گئی اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں دودھ سمجھ کر پی گیا تھا یا کہا کہ میں اس کو شراب نہیں جانتا تھا تو یہ قول اس کا مقبول نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس کو نہیں (معنی کباب الاشرہ میں مرقوم ہیں) سمجھا تھا تو یہ قول اس کا قبول ہوگا یہ بحر الرائق میں ہے۔

شراب کا پینا دو مردوں کی گواہی سے یا خود ایک مرتبہ اقرار کرنے سے ثابت ہو جاتا ہے اور اس میں مردوں کے ساتھ

۱۔ تقادم یعنی جس کو عرصہ دراز گزر گیا مثلاً ایک مہینہ یا اس سے زائد۔

(۱) اس کے منہ سے بدبو شراب کی آتی ہے۔

عورتوں کی گواہی نہیں (مثلاً ایک مرد و عورتوں ہوں) قبول ہوتی ہے یہ ہدایہ میں ہے اور جو شخص حالت نشہ میں ہے اور گواہوں نے اس پر شراب خواری کی گواہی دی تو اس پر حد نہیں قائم کی جائے گی یہاں تک کہ اس کو ہوش ہو جائے اور نشہ اتر جائے پھر جب افاقہ ہو گیا تو اس پر حد قائم کی جائے گی خواہ شراب کی بدبو اس سے جاتی رہی ہو یا نہ گنی ہو۔ مسلمان نے اگر شراب پی تو اس کو حد نہیں ماری جائے گی کیونکہ جائز میں ہے کہ زبردستی اس کو پلائی گئی ہو اور مسلمان کے منہ سے شراب کی بدبو پائی جانے سے اس کو حد نہ ماری جائے گی تا وقت تا وقتیکہ گواہ اس کی شراب خواری کی گواہی نہ دیں باوجود یہ کہ ایک مرتبہ اقرار نہ کرے۔ اگر دو گواہوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ اس نے شراب پی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس نے شراب پی ہے تو اس کو حد نہ ماری جائے گی اور اس طرح اگر دونوں نے اس کے شراب پینے پر گواہی دی اور بدبو اس سے پائی جاتی ہے لیکن دونوں گواہوں نے وقت میں اختلاف کیا تو بھی حد نہ ماری جائے گی اور اسی طرح اگر ایک نے اس کے شراب پینے کی اور دوسرے نے اس کے اقرار شراب خواری کی گواہی دی تو بھی حد نہ ماری جائے گی اور اس طرح اگر ایک نے گواہی دی کہ یہ خمر سے نشہ میں ہوا ہے اور دوسرے نے کہا کہ سکر سے نشہ میں ہوا ہے تو بھی اس کو حد نہ ماری جائے گی یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر تیج سے نشہ میں ہو گیا تو اس پر حد واجب ہونے میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس کو حد نہ ماری جائے گی سوائے خمر کے چھو ہارے و انگور تر و خشک وغیرہ سے جو شرابیں بنائی جاتی ہیں اگر ان سے بیہوش ہو تو اس کو حد نہ ماری جائے گی۔

انگور کا آب خام اگر اس میں غلیان^۱ و اشنداد^۲ ہو مگر جھاگ نہیں نکلی اور اس کو کوئی پی گیا اور نشہ میں ہو گیا تو امام اعظم کے نزدیک اس پر حد نہیں ہے اور وہ ان کے نزدیک مثل شیرۃ انگور کے ہے اور جو شراب کہ جبوب و فوا کہ مثل گیہوں و جو و جوار و آلو بخارا^۳ وغیرہ سے بنائی جاتی ہیں جب تک کہ وہ شیریں ہوں تو ان کا پینا حلال ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور جو شخص کہ نیند سے نشہ میں ہو اس کو حد ماری جائے گی مگر بیہوش کو اس وقت تک ماری نہ جائے گی جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ نیند سے نشہ میں ہو اور اس نے بلا جبر کے بطوع خود پی ہے یہ ہدایہ میں ہے۔ جس نے درای خمر پی تو اس کو حد نہ ماری جائے گی جب تک کہ وہ نشہ میں نہ ہو جائے یعنی اگر نشہ ہو جائے تو حد ماری جائے گی ورنہ نہیں اور جو شخص کہ منصف^۴ یا مثلث پی کر نشہ میں ہو گیا تو اس کو حد ماری جائے گی اور اگر نیند شہد یا مرز یا جعہ یا شیر ماؤہ خمر سے نشہ میں ہو گیا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی یہ سراجیہ میں ہے اور اگر خمر کو پانی یا دودھ یا تیل وغیرہ مائعات میں سے کسی کے ساتھ مخلوط کر دیا پس اگر خمر غالب ہے اور اس میں سے کوئی قطرہ پی لیا (مخلوط میں سے) تو اس کو حد ماری جائے گی اور اگر خمر مغلوب ہوگی تو اس کا پینا حلال نہیں ہے مگر جب تک نشہ نہ ہو جائے تب تک حد واجب نہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور سکر و خمر کی حد اگر چہ ایک ہی قطرہ پیا ہوا سی (۸۰) کوڑے ہیں یہ کنز میں ہے۔

مثل زنا کے کوڑوں کے اس کے بدن پر متفرق جگہ مارے جائے گے اور چہرہ سر مثل حد زنا کے بچایا جائے گا اور مشہور روایت کے موافق جس کو یہ حد ماری جائے گی وہ سوائے ستر کے ننگا کر دیا جائے گا اور اگر غلام ہوگا تو اس پر چالیس ہی کوڑے ہیں

۱۔ مترجم کہتا ہے کہ اگر چہ صاحبین کے نزدیک یہ بھی حرام ہے لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ اس کی حالت کے قائل ہیں اس لیے امر مشقہ ہوا اور شبہ سے حد ساقط ہوتی ہے پس یہاں بھی حد ساقط ہوئی اور ظاہر عبارت سے ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ اس حکم میں سب متفق ہوں مگر ایسا نہیں ہے بلکہ دوسرے علماء کے نزدیک حد ماری جائے گی اور ان کے قول پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو بخاری میں عمر سے مروی ہے ۱۲۔ ۲۔ غلیان جوش آنا یعنی جھاگ وغیرہ اٹھنے لگیں جو جوش پر دلالت کرتے ہیں ۱۲۔ ۳۔ آلو کو بہترین ان بحاری است و ہذا الضرورة نظراً الی المعروف ۱۲۔ ۴۔ منصف وہ جو بل کر نصف رہ جائے اور مثلث وہ جو دو حصہ بل کر ایک حصہ رہ جائے ۱۲۔ ۵۔ سکر نوح خمر کتاب الاشرار میں مذکور ہے ۱۲۔

اور جن سے خمر و سکر پینے کا اقرار کیا پھر رجوع کیا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی یہ سراج و ہاج میں ہے۔ ذمی پر کسی شراب پینے میں حد نہیں ہے اور امام المسلمین کے پاس اگر ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی ہے اور دو گواہوں نے اس پر اس امر کی گواہی دی پس اس نے کہا کہ میں خمر خواری پر مجبور کیا گیا تھا تو عذرنا مقبول ہو کر اس پر حد قائم کی جائے گی اور اس میں اور جس پر زنا کی گواہی دی گئی اور اس نے یوں دعویٰ کیا کہ میں نے نکاح کر لیا تھا ان دونوں میں فرق ہے اس وجہ سے کہ جس پر زنا کی گواہی دی گئی ہے وہ اس سبب کے پائے جانے سے جو موجب حد ہے انکار کرتا ہے اس واسطے کہ یہی فعل و طی بسبب نکاح کے زنا ہونے سے خارج ہوگا اور جس پر شراب خواری کی گواہی دی گئی ہے اس کے اکراہ کے عذر سے سبب حد منعدم نہیں ہوتا ہے یعنی شراب کا پینا درحقیقت منعدم نہیں ہوتا ہے ہاں یہ ایک عذر ہے کہ جس سے حد ساقط ہو سکتی ہے بشرطیکہ ثابت ہو جائے لہذا بدوں اکراہ پر گواہ قائم کیے اس کا عذر مذکور ثابت نہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے۔

باب : ۶

حد القذف اور تعزیر کے بیان میں

واضح ہو کہ شرع میں قذف کرنا زنا کرنا کسی ^۱ کے ذمہ لگانے کو کہتے ہیں اور اگر کسی مرد نے دوسرے مرد ^۲ یا عورت ^۳ کو صریح زنا کے ساتھ قذف کیا یعنی مثلاً کہا کہ تو نے زنا کیا یا اے زانی ^(۱) پس اس مقذوف نے نالش کر کے مطالبہ کیا تو قاذف کو حاکم اسی (۸۰) کوڑے مارے گا اگر آزاد ہو اور اگر غلام ہوگا تو چالیس کوڑے مارے گا یہ فتح القدر میں ہے۔ سوائے پوسٹین و حشو کے اس کے کپڑے اس کے بدن سے نہ اتارے جائے گے اور کوڑے اس کے بدن پر متفرق جگہوں پر مارے جائے گے جیسے زنا کی حد میں ہے یہ شرح نقایہ ابو امکارم میں ہے۔ قذف کا ثبوت قاذف کے خود ایک مرتبہ اقرار کرنے سے یا دو مردوں کی گواہی سے ہو جاتا ہے جیسے اور سب حقوق میں حکم ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے اور مردوں کے ساتھ عورتوں کے گواہ ہونے سے نہیں ثابت ہوتا ہے اور گواہی پر گواہی ہونے سے نہیں ثابت ہوتا اور اگر ایک قاضی کا خط بنام دوسرے قاضی کے درمقدمہ ثبوت قذف ہو تو دوسرے قاضی کے نزدیک ثبوت نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر اس نے قذف کا اقرار کیا پھر رجوع کر لیا تو رجوع مقبول نہ ہوگا یہ کافی میں ہے۔

محصن ہونے کی شرائط کا بیان :

قاذف پر حد قذف جب ہی ہوتی ہے کہ مقذوف محصن ہو اور محصن ہونے کی پانچ شرطیں ہیں یعنی آزاد، عاقل، بالغ، مسلمان، عفت (عفت والا پاکدامن و پارسا) ہو کہ اس نے تمام عمر میں کسی عورت سے زنا یا وطی، بشبہ یا بزناکاح فاسد نہ کی ہو یہ شرح طحاوی میں ہے اور پس اس کا احصان ہر وطی حرام سے جو غیر ملک میں واقع ہو باطل ہو جائے گا خواہ عورت صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو خواہ ایسی باندی ہو جو استحقاق میں لے لی گئی یا کسی مرد کی تین طلاق دی ہوئی معتدہ ہا یا بائسہ ہو یا کسی باندی سے وطی کی پھر اس کی خرید کا دعویٰ کیا

۱۔ واضح ہو کہ قذف در واقع بیان زنا ہی ہے مگر چونکہ بعضی صورتیں ایسی نکلتی ہیں کہ باوجود فی نفس الامر زنا ہونے کے کہنے والے کو حد قذف ماری جاتی ہے جیسے ایک مرد نے دیکھا کہ ایک مرد اور ایک اجنبی عورت فعل و طی کرتے ہیں تو اس کا گواہی دینا قذف ہوگا اس واسطے کہ اس کی گواہی سے زنا نہیں ثابت ہوگا پس ضرور قذف ہو لہذا مترجم نے لفظ تہمت سے گریز کیا فام ۱۲۔

(۱) یہ امر ثابت نہیں ہے ۱۲۔

یا اس سے نکاح کا دعویٰ کیا یا اپنے دوسرے کے درمیان مشترکہ باندی سے وطی کی یا ایسی عورت سے وطی کی جو وطی کرانے پر مجبور کی گئی یا ایسی عورت سے وطی کر لی جو شب زفاف میں اس کی بیوی کی جگہ (مداق سے) بھیجی گئی یا اس نے اپنے کفر کی حالت میں یا دار الحرب میں یا حالت جنون میں وطی کی یا اپنی ایسی باندی سے وطی کی جو ہمیشہ کے واسطے اس پر بسبب رضاعت کے حرام ہو گئی یہ خزانۃ المفتیین میں ہے اور یہی صحیح ہے یہ تمیز میں ہے۔

احسان کے زائل ہونے کی صورتیں:

اگر ایسی باندی خریدی جس سے اس کا باپ کا وطی کر چکا ہے یا خود اس کی ماں سے وطی کر چکا ہے پھر اس سے وطی کی پھر اس کو کسی نے قذف کیا تو بالا جماع قاذف پر حد نہ ہوگی اور اگر ایسی باندی خریدی جس کی ماں کو یا بیٹی کو شہوت سے چھوا ہے یا اس کی ماں یا بیٹی کو فرج کو بنظر شہوت دیکھا ہے یا اس کے باپ یا بیٹے نے اس کی فرج کو شہوت سے دیکھا ہے پھر اس سے وطی (خریدی ہوئی سے) کر لی تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس کا احسان زائل نہ ہوگا اور اس کے قاذف کو حد ماری جائے گی اور صاحبین نے فرمایا کہ اس کا احسان زائل ہوگا اور اس کے قاذف کو حد نہ ماری جائے گی اور اسی طرح اگر ایسی صفت کی عورت سے نکاح کر کے اس سے وطی کی تو اس میں بھی ایسا ہی اختلاف ہے یہ ظہیر یہ میں ہے۔ اگر ایسے مرد کو قذف کیا جس نے اپنی ماں سے وطی کی در حالیکہ اس کی ماں مجوسہ ہے یا نکاح کی ہوئی ہے یا باندی بطور فاسد کے خریدی ہوئی ہے یا اس کی بیوی ہے جس سے حالت حیض میں وطی کی یا اس سے ظہار کیا تھا یا فرض روزے سے تھی حالانکہ یہ اس کے روزہ دار ہونے کو جانتا تھا یا باندی حالت کتابت میں تھی تو اس کے قاذف کو حد قذف کی سزا دی جائے گی یہ فتح القدر میں ہے اور منقہی میں لکھا ہے کہ چار بیویوں کا نکاح موجود ہیں پھر پانچویں سے نکاح کر کے اس سے بھی وطی کر لی تو اس کے قاذف کو حد قذف نہ ماری جائے گی اور اگر مسلمان نے اپنی مرتدہ باندی سے وطی کی تو اس کا احسان زائل نہ ہوگا اور اس کے قاذف کو حد ماری جائے گی اور نیز منقہی میں لکھا ہے کہ اگر اپنی ایسی باندی سے وطی کی جو اپنے کسی شوہر کی عدت میں ہے تو میرے نزدیک اس کا احسان زائل نہ ہوگا اور میں اس کے قاذف کو حد ماروں گا یہ محیط میں ہے اور اگر آزادہ بیوی پر ایک باندی سے نکاح کیا یا دو بہنوں سے ایک عقد میں نکاح کیا یا ایک عورت اور اس عورت کی پھوپھی سے ایک عقد میں نکاح کیا تو ایسے عقود فاسدہ سے جو وطی واقع ہو وہ احسان کو زائل کر دیتی ہے اور اسی طرح اگر ایک عورت سے نکاح کر کے اس سے وطی کر لی پھر معلوم ہوا کہ یہ عورت اس پر بسبب مصاہرت کے حرام تھی تو بھی یہی حکم ہے یہ امام اعظم و امام محمد کا قول ہے۔ یہ مبسوط میں لکھا ہے۔

ایک شخص نے اپنے پسر کی باندی سے وطی کی کہ جس سے وہ حاملہ ہو گئی یا نہ ہوئی تو اس کا احسان ساقط نہ ہوگا چنانچہ اس کے قاذف کو حد قذف ماری جائے گی اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ہر وطی کرنے والا جس کے ذمہ سے حد دور کی جاتی ہے اور اس پر مہر قرار دیا جاتا ہے اور بچہ کا نسب اس سے ثابت کیا جاتا ہے تو ایسے وطی کرنے والے کا احسان ساقط نہیں ہوتا ہے چنانچہ میں اس کے قاذف کو حد ماروں گا اور اسی طرح اگر کسی کی باندی سے بغیر اجازت (۱) اس کے مولیٰ سے نکاح کیا اور اس سے دخول کیا تو میں ایسے شخص کو قاذف کو حد ماروں گا یہ ظہیر یہ میں ہے۔ اگر کسی عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا یا ایسی عورت سے نکاح کیا کہ جس کو جانتا ہے کہ اس کا شوہر موجود ہے یا یہ کسی دوسرے کی عدت میں ہے یا کسی اپنے ذی رحم محرم سے جان بوجھ کر نکاح کیا پھر اس سے وطی کی تو ایسے شخص کے قاذف پر کچھ حد واجب نہ ہوگی اور اگر ان دونوں میں سے کوئی صورت بغیر علم کے کی تو امام ابو یوسف نے

(۱) مولیٰ نے اپنے باندی کو اجازت نہیں دی تھی ۱۲۔

فرمایا کہ اس کے قاذف کو حد ماری جائے گی یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے اور ذمی نے اگر ایسی عورت سے نکاح کیا جس سے اس کے دین میں نکاح کرنا حلال تھا جیسے اپنی ذی رحم محرم سے نکاح کیا پھر مسلمان ہو گیا پھر اس کو کسی نے قذف کیا پس اگر اس نے بعد مسلمان ہونے کے اس عورت سے وطی کی ہے تو اس کے قاذف پر حد نہ ہوگی اور اگر حالت کفر میں دخول کر چکا ہے تو بھی صاحبین کے قول پر یہی حکم ہے اور امام اعظم کے نزدیک اس کے قاذف پر حد واجب ہوگی یہ شرح طحاوی میں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی دو باندیوں کا مالک ہو جو آپس میں سنگی بہنیں ہیں پس ان دونوں سے وطی کر لی تو اس کے قاذف کو حد قذف کی سزا دی جائے گی یہ مبسوط میں ہے۔

اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اے زانیہ پس عورت نے کہا کہ نہیں بلکہ تو ہے تو عورت کو حد قذف ماری جائے گی اور دونوں میں لعان نہ کرایا جائے گا:

اگر ایسی عورت کو قذف کیا جس کو زنا کی وجہ سے پہلے حد ماری گئی ہے تو اس کے قاذف پر حد نہ ہوگی اور اگر ایسی عورت ہو کہ اس کے ساتھ علامت زنا کی ہو اور وہ یہ ہے کہ قاضی اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان لعان کرا کے اس کے بچہ کا نسب اس کے شوہر سے قطع کر کے اس کے ساتھ لاحق کیا ہو یا ایسی عورت ہو کہ اس کے ساتھ ایک بچہ ہے کہ اس کا پدر معلوم نہیں ہوتا ہے تو ایسی عورت کے قاذف پر حد نہیں ہے اور اگر اس کے بچہ کو قذف کیا تو اس کے قاذف پر حد واجب ہوگی اور اگر بیوی و مرد کے درمیان بغیر ولد کے لعان ہو یا لعان بولد ہو مگر ولد کا نسب اس کے شوہر سے قطع نہیں کیا گیا یا قطع بھی کیا گیا مگر شوہر نے پھر اپنی تکذیب کی اور بچہ کا نسب اس کے ساتھ لاحق کیا گیا پھر کسی مرد (قید مرد، اتفاقی ہے مرد ہو خواہ عورت ہو) نے ایسی عورت کو قذف کیا تو اس کے قاذف پر حد واجب ہوگی یہ شرح طحاوی میں ہے۔ اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اے زانیہ پس عورت نے کہا کہ نہیں بلکہ تو ہی تو عورت کو حد قذف ماری جائے گی اور دونوں میں لعان نہ کرایا جائے گا اور اگر اجنبیہ سے کہا کہ اے زانیہ پس اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے زنا کیا تو مرد کو حد نہ ماری جائے گی اور عورت کو حد ماری جائے گی اور اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اے زانیہ پس اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے زنا کیا تو مرد پر حد نہیں ہے اور نہ لعان اور نیز عورت پر بھی حد نہیں ہے اور اسی طرح اگر عورت نے ابتداءً کہا کہ میں نے تجھ سے زنا کیا پس مرد نے اس کو قذف کیا تو بھی ان دونوں میں سے کسی پر حد نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔ اگر اجنبیہ عورت سے کہا کہ تیرے ساتھ تیرے شوہر نے تجھ سے نکاح کرنے سے پہلے زنا کیا تو وہ قاذف ہوگا اور اگر کہا کہ تجھ سے اپنی انگلی سے زنا کیا تو اس پر حد قذف نہ ہوگی یہ تاتار خانہ میں ہے اور اگر زید نے عمرو سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو زانی ہے اور خالد نے کہا کہ میں بھی گواہ ہوں تو خالد پر حد نہ ہوگی الا آنکہ یوں کہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں جس کی تو نے گواہی دی یہ عتابیہ میں ہے۔

زید نے عمرو و خالد سے کہا کہ تم میں سے ایک زانی ہے پس زید سے کہا گیا کہ یہ یعنی عمرو یا خالد کسی خاص کو دریافت کیا گیا کہ یہ ہے تو زید نے کہا کہ نہیں تو زید پر حد نہ ہو گیا اور اگر زید نے عمرو سے کہا کہ اوزانی پس خالد نے کہا کہ تو نے سچ کہا تو زید پر حد ہوگی جس نے پہلے کہا ہے اور خالد جس نے تصدیق کی ہے کہ اس پر نہ ہوگی اور اگر خالد نے یوں کہا کہ تو نے سچ کہا ہے ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو خالد بھی قاذف ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اسی طرح اگر خالد نے فقط یوں کہا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو خالد کو بھی حد قذف ماری جائے گی۔ یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر کسی مرد سے کہا اے مجتہ (زن فاحشہ) کے بچے یا عورت سے کہا کہ اے فلاں کی آشنا یا کہا کہ اے دعی یا اے وعید کے بچہ تو حد (قذف) واجب نہ ہوگی اور اسی طرح اگر کہا کہ بطور حرام تیرے ساتھ فلاں

نے مجامعت کی یا تجھ سے فلاں نے فجوری کیا یا کہا کہ فلاں کہتا ہے کہ تو زانی ہے یا تو زانیہ کرتی ہے یا کہا کہ میں نے تجھ سے اچھا زنا کرنے والا نہیں دیکھا یا لوگوں سے بڑھ کر زنا کرنے والا ہے یا تو مجھ سے بڑھ کر زانی ہے یا تو زانیوں سے بڑھ کر زانیہ ہے یا تو نے ماسوائے فرح کے زنا کیا یا تیری ران یا پاؤں نے زنا کیا یا کہا کہ اے وطی یا تو نے کار قوم لوط کیا یا فلاں تجھ سے زبردستی یا سونے میں یا جنون کی حالت میں زنا کیا گیا تو حد قذف واجب نہ ہوگی اور اسی طرح تعریض کرنے سے بھی حد قذف واجب نہ ہوگی اور اسی طرح قذف اخرس (گونگا) اور رتقاء عورتوں کے قذف سے اور دار الحرب میں زنا کرنے کے ساتھ باغیوں کے لشکر میں زنا کرنے کے ساتھ قذف کرنے سے بھی حد قذف واجب نہیں ہوتی ہے اور طفل کو یا ایسے مجنون کو جس کا جنون مطبق ہی قذف کرنے سے حد قذف واجب نہیں ہوتی ہے اور اگر مجنون کبھی حالت جنون میں ہوتا ہو اور کبھی افاقہ میں تو حد قذف واجب ہوگی اور اسی طرح محبوب کی قذف سے بھی حد نہیں واجب ہوتی اور خصی و عنین کی قذف سے حد نہیں واجب ہوتی ہے یہ خزانۃ المفتیین میں ہے۔

اگر کہا کہ اے ولد الزنا یا ابن الزنا حالانکہ اس کی ماں محضہ ہے تو کہنے والے کو حد ماری جائے گی اس واسطے کہ اس کی ماں کو قذف بزنا کیا ہے یہ ترمثاشی میں ہے۔ اگر طفل مراہق یعنی قریب بہ بلوغ کو قذف کیا پس طفل مذکور نے بلوغ بسن کا یا احتلام کا دعویٰ کیا تو اس کے قول سے قاذف کو حد قذف نہ ماری جائے گی یہ محیط میں ہے۔ اگر کسی مرد کو کہا کہ اے زانیہ (اے زنا کرنے والی بیذموت) تو اس پر حد واجب نہ ہوگی اور یہ امام اعظم و امام ابو یوسف کا قول ہے کذا فی شرح الطحاوی اور استحسان ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر کسی عورت سے کہا کہ اے زانی (زنا کرے، ۱۱۱) بدون تانیث کے تو بالا جماع قاذف پر حد واجب ہوگی۔ اگر کسی مرد سے کہا کہ زناست تو قاذف پر حد واجب ہوگی یہ شرح طحاوی میں ہے اور اگر کسی نے دوسرے مرد سے کہا کہ زناست فی الجبل اور کہا کہ میری مراد صعود جبل تھی اور جس حالت میں کہا ہے وہ حالت غضب تھی تو اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور امام اعظم و امام ابو یوسف کے نزدیک قاذف کو حد ماری جائے گی اور یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر اس نے لفظ زناست فی الجبل سے پہاڑ پر چڑھنا مراد نہ لیا ہو تو بالا جماع حد واجب ہوگی یہ تبیین میں ہے۔ اگر کہا کہ زناست علی الجبل تو بالا جماع حد واجب نہ ہوگی۔ یہ مضمرات میں ہے۔ اگر زناست علی الجبل حالت غضب میں کہا ہو تو بعض نے کہا کہ حد واجب نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ واجب ہوگی اور یہی وجہ ہے یہ فتح القدیر میں ہے۔ اگر کہا کہ زینت فی الجبل (تو نے پہاڑ میں زنا کیا) تو بالاتفاق اس کو حد ماری جائے گی یہ شرح طحاوی میں ہے۔

ایسے الفاظ کا بیان جو ”عربی“ میں ادا کیے جائیں تو قذف لاگو ہوتا ہے لیکن ”ہماری زبان“ میں استثناء ہے:

اگر کہا کہ یا زانی لہزہ تو اصل میں مذکور ہے کہ اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے کسی (اس نے کوئی چیز بیان کی کہ اس پر چڑھ جا، مراد لیا تھا) پر چڑھ جانے والا مراد لیا ہے تو اس کی تصدیق نہ ہوگی اور اس کو حد ماری جائے گی اور اس میں کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا ہے اور یہ محیط میں ہے۔ ابراہیم نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ ایک مرد نے اپنی باندی کو پکارا پس اس کو ایک آزادہ عورت نے جواب دیا پس مرد مذکور نے کہا کہ او چھناں حالانکہ اس کو دیکھتا نہیں ہے پھر عذر کیا کہ میں نے اپنی باندی گمان کیا تھا تو فرمایا کہ میں اس کے قول کی تصدیق نہ کروں گا اور اس کو حد قذف ماروں گا یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ زینت و فلاں معک یعنی تو نے زنا کیا اور فلاں تیرے ساتھ تو دونوں کا قذف کرنے والا ہو جائے گا اور اگر کہا کہ او میری مراد یہ تھی کہ اور فلاں تیرے ساتھ شاید تھا تو اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر کہا کہ پس زانیہ اور یہ مرد ساتھ اس عورت کے تھا تو وہ دوسری کا قذف کرنے والا ہوگا اور اسی طرح اگر دوسرے سے کہا کہ اور تو ساتھ اس عورت کے تھا تو بھی یہی حکم ہے اور یہ محیط میں ہے۔ اگر کہا کہ او پس زانیہ و فلاں ساتھ اس عورت کے تھا تو اس کی ماں و فلاں مرد دونوں کا قذف ہے اور اگر کہا کہ فلاں تیرے ساتھ تھا تو یہ

قذف نہ ہوگا اور اگر کہا کہ زینت و ہدامعک یعنی تو نے زنا کیا اور یہ تیرے ساتھ تھا یا تیرے ساتھ کا لفظ نہ کہا تو یہ دونوں کا قذف ہے قال المترجم یہ عربی زبان میں ہے ہماری زبان میں امید ہے کہ دوسرے کا قذف نہ ہو واللہ اعلم یہ خزائنہ المفتین میں ہے۔

ابن سماء نے امام ابو یوسفؒ سے روایت کی ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ یا ابن الزانیہ و هذا معک ابن الزانیہ اور یہ تیرے ساتھ اور یہ کلام ایک ہی دفعہ لگا تا کہ کہا تو وہ دوسرے کا قذف کرنے والا نہ ہوگا اور اگر کسی مرد نے کہا کہ یا زانیہ و هذا معک یعنی اے زانی ویہ تیرے ساتھ تو دوسرے کا قذف کرنے والا بھی ہوگا اور امام ابو یوسفؒ سے مروی ہے کہ اگر دوسرے سے کہا کہ یا ابن الزانیہ و هذا اور لفظ معک نہ کہا تو وہ دوسرے کا قذف کرنے والا بھی ہوگا ہی محیط میں ہے۔ اگر کسی نے زانی کو زنا کے ساتھ قذف کیا تو اس پر حد نہیں ہے خواہ بعینہ اسی زنا (جس سے وہ زانی معلوم ہوا ہے) کے ساتھ قذف کرے یا دوسرے زنا سے یہ مبسوط میں ہے۔ اگر کہا کہ تو نے ایک کے ساتھ ان دونوں عورتوں یا ان دونوں عورتوں سے زنا کیا تو قاذف کو حد ماری جائے گی اور یہ عتابیہ میں ہے۔ ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ تو فلاں سے کہہ کہ اے زانی پس اگر اپیلچی نے اس شخص کو جس کے پاس بھیجا گیا ہے یہ کہا کہ فلاں تجھ کو کہتا ہے کہ اے زانی تو کسی پر حد نہ ہوگی نہ اپیلچی پر اور نہ بھیجنے والے پر اور اگر اپیلچی نے یوں نہ کہا بلکہ جس کے پاس بھیجا گیا تھا اس سے جا کر کہا کہ اے زانی تو اپیلچی کو حد ماری جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر دوسرے سے کہا کہ یا ابن السماء اے برساتی پانی کے بچہ تو اس کو حد نہ ماری جائے گی اور اگر عربی آدمی سے کہا کہ اونہطی یا تو عربی نہیں ہے تو اس کو حد قذف نہ ماری جائے گی یہ کافی میں ہے۔

ایک نے ایک مسلمان سے جس کے ماں باپ دونوں کافر ہیں کہا کہ اے لست انت تو اپنے باپ کے واسطے نہیں ہے تو اس کو حد نہیں ماری جائے گی:

اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو بنی فلاں میں سے نہیں ہے یعنی ایسے قبیلہ کا نام لیا جس میں سے وہ مشہور ہے تو اس پر حد نہ ہوگی۔ ایک نے ایک مسلمان سے جس کے ماں باپ دونوں کافر ہیں کہا کہ "ای لست انت لابیك" تو اپنے باپ کے واسطے نہیں ہے تو اس کو حد نہیں ماری جائے گی اور ایک نے اپنے غلام سے جس کے ماں باپ مسلمان ہیں کہا کہ تو اپنے باپ کے واسطے نہیں ہے حالانکہ اس کے والدین آزاد ہو گئے ہیں تو مولیٰ پر حد نہ ہوگی اگر چہ غلام اس کے بعد آزاد ہو جائے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی سے کہا کہ تو اپنی ماں کے واسطے نہیں ہے تو وہ قاذف نہیں ہے اسی طرح اگر کہا کہ تو اپنے والدین کے واسطے نہیں ہے تو بھی قاذف نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے حالانکہ اس کی ماں آزاد ہے اور باپ کسی کا غلام ہے تو کہنے والے پر حد واجب ہوگی یعنی اس کی ماں کے واسطے اور اگر اس کا باپ آزاد ہو اور ماں باندی ہو تو حد نہ ماری جائے گی لیکن تعزیر دی جائے گی اور اگر کسی دوسرے سے کہا کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے یا تو ابن فلاں نہیں ہے اور یہ حالت غضب میں کہا تو کہنے والے کو حد قذف ماری جائے گی اور یہ کنز میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ تو ابن فلاں نہیں ہے اور فلاں سے اس کے دادا کا نام لیا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی یہ کافی میں ہے۔

اگر کسی سے کہا کہ "اے ابن ہزار زانیہ" تو قاذف کو حد ماری جائے گی:

ایک شخص کو اس کے باپ کے سوائے دوسرے کی طرف منسوب کیا بدون غضب (حالت غصہ) کے تو حد نہ ماری جائے گی

اور اگر حالت غصہ میں ایسا کیا ہو تو حد ماری جائے گی اور اگر اس کو اس کے دادا کی طرف منسوب کیا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی اس واسطے کہ دادا بھی باپ ہے اور اسی طرح اگر اس کو اس کے چچا یا ماموں کی طرف منسوب کیا یا اس کی ماں کے شوہر یعنی سوتیلے باپ کی طرف منسوب کیا تو بھی یہی حکم ہے اس واسطے کہ یہ لوگ بھی مجازاً باپ کہلاتے ہیں یہ تمرتاشی میں ہے۔ اگر کہا کہ تو ولادت فلاں سے نہیں ہے تو یہ قذف نہیں ہے اور اگر کہا کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے یا تجھے تیرے باپ نے نہیں پیدا کیا ہے تو یہ اس کی ماں کا قذف ہے اور اسی طرح اگر کہا کہ تو رشدت (حلال کا نہیں ہے) کا نہیں ہے تو بھی یہی حکم ہے اور یہ ظہیر یہ میں لکھا ہے۔ اگر کسی دوسرے سے کہا کہ تیرا جد (دادا یا نانا) زانی ہے تو قاذف پر حد نہ ہوگی یہ ایضاً صحیح میں ہے اور اگر کہا کہ اے زانی کے بھائی تو اس کے بھائی کے حق میں قذف ہے پس اگر اس کا بھائی ایک ہی ہو تو حق خصوصیت اس کو حاصل ہوگا اور اگر زید نے عمرو سے کہا کہ اے زانی کے بھائی پس عمرو نے کہا کہ نہیں بلکہ تو ہے تو عمرو کو حد ماری جائے گی اور زید کے ساتھ عمرو کے بھائی کی بابت قذف کی خصوصیت ہوگی اور یہ کتابیہ میں ہے اور اگر کسی سے کہا کہ اے ابن الزانی یعنی دوزانیہ عورتوں کے بیٹے اور حال یہ ہے کہ اس کی حقیقی ماں مسلمان ہے تو قاذف (تہمت زنا کسی کو لگانے والا) پر حد واجب ہوگی خواہ اس کی دور کی ماں یعنی جدہ مسلمان ہو یا نہ ہو اور اگر نانی مسلمان ہو اور ماں کافرہ ہو تو قاذف پر حد نہیں ہے اس واسطے کہ ولادت کی طرف جو اضافت ہو وہ سب سے نزدیک سے شامل ہونا شروع ہوتی ہے اور اگر کسی سے کہا کہ اے ابن ہزار زانیہ تو قاذف کو حد ماری جائے گی اور یہ سراج و ہانج میں ہے۔

اگر کسی سے کہا کہ اے ابن الزانی وال زانیہ یعنی اوزانی و زانیہ کے بیٹے تو یہ اس کی ماں و باپ دونوں کا قذف ہے پس اگر وہ دونوں زندہ ہوں تو حد قذف کے مطالبہ کا اختیار ان کو ہے اور اگر مر گئے ہوں تو مطالبہ حد کا اختیار اس کو ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ ایک مرد نے ایک اجنبیہ عورت سے کہا کہ تو نے اونٹ یا بیل یا گدھے کے ساتھ زنا کیا تو اس پر حد نہ ہوگی اور اگر کہا کہ تو نے زنا کیا بناقہ یا بقرہ یا بجامہ یا بدرہم تو قاذف پر حد واجب ہوگی اور اگر کسی مرد سے کہا کہ تو نے زنا کیا بقرہ یا بناقہ یا اس کے مانند تو اس پر حد نہیں ہے۔ اگر کہا کہ بہ کنیر یا بجامہ یا بدرہم تو اس پر حد واجب ہوگی یہ ظہیر یہ میں ہے اور امام محمد نے فرمایا کہ اگر دوسرے سے کہا کہ انت تنزنی (تو زنا کرے گا) تو کہنے والے پر حد نہیں ہے اس واسطے کہ یہ استقبال کے واسطے ہے ہے اور اگر کہا کہ انت (تو زنا کرے اور میں مارا جاؤں) تنزنی و اضوب انا تو کہنے والے پر حد نہیں ہے اس واسطے کہ یہ بطریق استفہام و تعبیر ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ فاعل کے سوائے دوسرے کا سزا یا ب ہونا کیونکر جائز ہے یہ ایضاً صحیح میں لکھا ہے اور اگر کسی آزادہ عورت سے کہا کہ تو نے زنا کیا قبل اس کے کہ تو مخلوق ہو یا قبل اس کے کہ تو پیدا ہو تو اس پر حد نہیں ہے یہ محیط میں ہے اور اگر کسی ایسی عورت یا مرد کو قذف کیا جس نے حالت نصرانیت میں زنا کیا ہے تو قذف کو حد نہ ماری جائے گی اور مراد یہ ہے کہ بعد اسلام کے ایسے زنا سے قذف کیا جو اس سے حالت نصرانیت میں واقع ہوا ہے مثلاً یوں کہا کہ تو نے زنا کیا در حالیکہ تو کافر تھی اور اسی طرح اگر کسی آزاد شدہ سے کہا کہ تو نے غلام ہونے کی حالت میں زنا کیا تو قاذف پر حد نہ ہوگی جیسے قذف نے اقرار کیا کہ میں نے زنا کے ساتھ قذف کیا در حالیکہ تو کتابیہ یا باندی تھی تو قاذف پر حد نہیں ہے یہ فتح القدیر میں ہے۔

سیاق و سباق سے ہٹ کر کسی پر تہمت لگانا:

اگر کسی شخص سے کہا کہ اے ٹنڈے یا لٹے یا حجام کے بیٹے حالانکہ اس کا باپ ایسا نہیں ہے تو کہنے والے پر حد نہیں ہے اور اگر کسی سے کہا کہ اے کربے یا اشقر اسود کے بیٹے حالانکہ اس کا باپ ایسا نہیں ہے تو بھی حد نہ ہوگی اور اگر کہا کہ او سندھی پس حبشی کے

بچہ تو یہ اس کے حق میں قذف نہ ہوگا اور کہنے والا قاذف نہ ہوگا اور اگر عربی آدمی سے کہا کہ اے عبد یا اے مولیٰ تو کہنے والے پر حد نہیں ہے اور اسی طرح اگر عربی سے کہا کہ اودہقان تو اس پر حد نہیں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ اے میرے بیٹے تو اس پر حد نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ تو میرا غلام یا آزاد کردہ ہے تو یہ اس پر رقیق کا یا ولاد کا دعویٰ ہے اور قذف بالکفر نہیں ہے۔ اگر کسی سے کہا کہ او یہودی یا انصرانی یا او مجوسی یا او پچی یہودی تو اس پر حد نہیں ہے اور مگر اس کو تعزیر دی جائے گی یہ مبسوط میں ہے۔ اگر کسی سے کہا کہ اے جو لاپہ کے بچے تو کہنے والے پر حد نہ ہوگی یہ فتح القدیر میں ہے۔ اگر کسی سے کہا کہ تو عربی نہیں ہے یا اے درزی کے بیٹے یا اے کانے کے بیٹے حالانکہ اس کا باپ ایسا نہیں ہے تو یہ قذف نہیں ہے اور اگر کہا کہ تو آدم کا بیٹا نہیں ہے یا تو انسان نہیں ہے یا تو مرد نہیں ہے یا آدمی نہیں ہے تو یہ قذف نہیں ہے اور اگر کہا کہ تو حلال نہیں ہے تو یہ قذف ہے یہ جوہرہ نیرہ میں ہے اور اگر کسی سے کہا کہ اے ابن الاصفر^۱ حالانکہ اس کا باپ ایسا نہیں ہے تو کہنے والے پر حد نہ ہوگی یہ شرح طحاوی میں ہے۔ ذکر آیا کہ فلاں میت مرد صالح تھا کہ اس نے نہ شراب پی اور نہ زنا کیا پس دوسرے نے کہا کہ کیا سب یا کہا کہ کیا اس نے سب تو یہ قذف نہیں ہے اور اگر کہا کہ اس نے یہ سب کیا تو یہ قذف ہے یہ دجیز کردری میں ہے۔

آثار میں امام ابو حنیفہ^۲ سے مروی ہے کہ اگر دوسرے سے کہا کہ یا بغل تو اس پر حد ہوگی اس واسطے کہ یہ لغت عمان میں یا زانی ہے اور مختصر بصاص میں حضرت ابراہیم نخعی^۳ سے مروی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے روپسی^۴ تو حد واجب ہوگی اور اسی طرح اگر کہا کہ اے سیاہ یا کہا کہ اے غریب یا کہا کہ اے جلب یا اور اس کے مثل کوئی لفظ کہا تو حد واجب نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ سب الفاظ عرفاً اس کے زانیہ ہونے سے منجر ہیں ایسا ہی اصل میں مذکور ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر کسی کو قذف کیا اور کہا کہ اے زانیہ کے بیٹے پھر قاذف نے دعویٰ کیا کہ اس کی ماں باندی یا نصرانیہ ہے اور مقذوف کہتا ہے کہ میری ماں آزادہ مسلمان ہے تو قول قاذف کا قول ہوگا اور مقذوف پر واجب ہے کہ گواہ لائے اور اسی طرح اگر اس کی ذات کو قذف کیا ہو اور دعویٰ کیا کہ مقذوف غلام ہے تو قول قاذف کا قبول ہوگا اور مقذوف پر واجب ہے کہ اپنے گواہ پیش کرے اور ظاہر اصل حریت کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر قاذف نے کہا کہ میں غلام ہوں اور مجھ پر غلاموں کی حد واجب ہے اور مقذوف نے کہا کہ تو آزاد ہے تو قول قاذف کا قبول ہوگا یہ ایضاً میں ہے اور اگر اپنے پسر یا ماں یا باپ یا بہن ان میں سے کسی کی باندی سے وطی کی پھر دعویٰ کیا کہ اس کے مالک نے اس کو میرے ہاتھ فروخت کیا تھا حالانکہ اس کے پاس بیچ کے گواہ نہیں ہیں تو اس کے قاذف پر یعنی اگر ایسے شخص کو کسی نے قذف کیا تو قاذف پر حد نہ ہوگی اور اسی طرح اگر خریدار پر ایک ہی گواہ قائم کیا ہو تو بھی یہی حکم ہے یہ مبسوط میں ہے۔

ایک مرد نے دوسرے مرد پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ کو قذف کیا ہے پھر دو گواہ لایا کہ یہ گواہی دیں گے کہ اس نے اس کو قذف کیا ہے تو قاضی ان گواہوں سے دریافت کرے گا کہ قذف کیا چیز ہے:

اگر زید نے عمرو کو قذف کیا حالانکہ عمرو کے پاس اس امر کے گواہ نہیں ہیں کہ زید نے اس کو قذف کیا ہے اور عمرو نے چاہا کہ زید سے قسم لے کہ واللہ میں نے اس کو قذف نہیں کیا ہے تو ہمارے نزدیک حاکم اس سے قسم نہ لے گا یہ جوہرہ نیرہ میں ہے۔ اگر کسی نے دوسرے پر قذف کا دعویٰ کیا پس اگر قاذف نے اس کا اقرار کیا یا اس پر اس امر کے گواہ قائم ہوئے تو قاذف سے کہا جائے

۱۔ ای غلام جیسے عبد عربی میں غلام کے معنی ہیں آتا ہے اس طرح مولیٰ کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس لفظ کے کئی معنی اور بھی ہیں ۱۲۔ ۲۔ اصفری یعنی زرد رنگ اور

سابق میں عرب کے لوگ روم نبی الاصفر کہا کرتے تھے ۱۲۔ ۳۔ روپسی زن بدکار جسہ و کسی یعنی ٹڈی ۱۲

گا کہ جو امر تو نے کیا ہے اس کو ثابت کر کہ یہ صحیح ہے پس اگر اس نے ثابت کیا تو خیر ورنہ اس پر حد قائم کی جائے گی یعنی حد قذف۔ فرمایا کہ اگر اس کو تھوڑی حد ماری گئی پھر قاذف نے اپنے سچے ہونے پر گواہ قائم کئے تو اس کے گواہوں کی سماعت ہوگی اور جب گواہوں کی سماعت ہوئی تو تھوڑے کوڑے جو باقی رہے ہیں اس کی ضرب سے ساقط کئے جائیں گے پھر اس شخص کی شہادت ساقط نہ ہوگی یعنی وہ اہل شہادت میں سے رہے گا اور کوئی نشان فسق اس کے ساتھ لازم نہ ہوگا یہ ایضاً صحیح میں ہے۔ امام محمدؒ نے فرمایا کہ اگر ایک مرد نے دوسرے مرد پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ کو قذف کیا ہے پھر دو گواہ لایا کہ یہ گواہی دیں گے کہ اس نے اس کو قذف کیا ہے تو قاضی ان گواہوں سے دریافت کرے گا کہ قذف کیا چیز ہے اور کیونکر ہوتی ہے پس اگر گواہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اس مرد کو کہا کہ اے زانی تو دونوں کی گواہی مقبول ہوگی اور قاذف کو حد قذف ماری جائے گی بشرطیکہ ہر دو گواہ عادل ہوں اور اگر قاضی ان گواہوں کی عدالت نہ جانتا ہو تو قاذف کو قید کرے گا یہاں تک کہ گواہوں کی عدالت دریافت کرے اور عدالت یہ ہے کہ ایسے امور کے کام میں لانے سے باز رہے جس کو آدمی اپنے دین میں مذموم و حرام جانتا ہے پس اگر ایک نے کہا کہ اس نے اس کو کہا کہ اے زانی اور یہ دن جمعہ کے کہا اور دوسرے نے کہا کہ اس نے اس کو جمعرات کے روز کہا کہ رانی تو امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ ایسی گواہی قبول ہوگی اور قاذف کو حد ماری جائے گی اور صاحبینؒ نے کہا کہ قبول نہ ہوگی یہ ظہیر یہ میں ہے اور قول امام اعظمؒ کا اولیٰ ہے۔ یہ محیط میں ہے۔

اگر دو گواہوں نے کسی پر دوسرے کو قذف کرنے کی گواہی دی مگر جس جگہ قذف کیا ہے اس میں اختلاف کیا تو امام اعظمؒ نے فرمایا کہ حد واجب ہوگی اور صاحبینؒ نے فرمایا کہ حد نہیں واجب ہوگی اور اگر ایک گواہ نے گواہی دی کہ اس نے اس کو جمعرات کے روز قذف کیا اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس قاذف نے اقرار کیا کہ میں نے اس کو جمعرات کے روز قذف کیا ہے تو بالاتفاق سب کے نزدیک قاذف پر حد نہ ہوگی یہ فتاویٰ کرنخی میں ہے اور اگر گواہوں نے جس زبان میں قذف واقع ہوا ہے اختلاف کیا یعنی مثلاً کسی نے کہا کہ عربی میں قذف کیا اور دوسرے نے کہا کہ فارسی میں یا اردو میں تو ان کی گواہی باطل ہوگی یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر ایک جماعت نے کہا کہ ہم نے زید کو دیکھا کہ وہ فلانہ عورت سے ماسوائے فرج کے زنا کرتا تھا تو ان میں سے کسی پر حد واجب نہ ہوگی نہ زید پر اور نہ جماعت مذکورہ پر۔ اگر جماعت نے کہا کہ ہم نے زید کو دیکھا کہ وہ فلانہ سے زنا کرتا تھا پھر اتنا کہہ کر خاموش رہے پھر کہا کہ ماسوائے فرج کے تو ان لوگوں پر حد قذف واجب ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کسی پر قذف کا دعویٰ کیا اور اس پر ایک گواہ قائم کیا تو قاذف کو قاضی حد نہ مارے گا اور رہا یہ کہ قید کرے گا یا نہیں سو اگر گواہ مذکور فاسق ہو تو قید نہیں کرے گا اور اگر عادل ہو اور مدعی نے کہا کہ میرا دوسرا گواہ بھی شہر میں ہے تو قیاس یہ ہے کہ اس کو قید نہ کرے گا اور استحساناً اس کو دو یا تین روز تک قید کرے گا اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ شہر سے باہر میرا گواہ ہے تو اس کو قید نہ رکھے گا اور یہ حکم اس وقت ہے کہ جس مقام پر دوسرے گواہ کے ہونے کو کہتا ہے وہ شہر سے اتنا دور ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکتا ہو اور اگر اتنا فاصلہ ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر لاسکتا ہے تو قاذف کو قید رکھے گا اور یہ ظہیر یہ میں ہے۔

تجنیس الناصری میں لکھا ہے اگر قاذف نے دعویٰ کیا کہ جس کو میں نے قذف کیا ہے یہ زانی ہے اور میرے پاس اس کے گواہ ہیں تو اس کو گواہ قائم کرنے کے واسطے مہلت دی جائے گی پس اگر اس نے گواہ قائم کئے تو خیر ورنہ اس کو حد قذف ماری جائے گی اور اگر اس نے ایسا نہ پایا جس کو گواہوں کے پاس بھیجے تو وہ خود کو توال کے ساتھ روانہ کیا جائے گا جو اس کی حفاظت کریں گے پس

اگر اس نے گواہ نہ پائے تو اس کو حد ماری جائے گی اور اگر اس کے بعد اس نے گواہ قائم کئے تو ان کی گواہی قبول ہوگی یہ تا تاریخانیہ میں ہے۔ اگر کسی کو قذف یا پھر قاذف چار گواہ فاسق لایا کہ یہ مقذوف ایسا ہی ہے جیسا میں نے کہا تو اس کے سر سے حد دور ہو جائے گی اور مقذوف اور گواہوں سے بھی دور ہوگی یہ ظہیر یہ میں ہے۔ جس کو قذف کیا ہے اگر وہ زندہ ہو تو حق خصوصیت اس کے سوائے کسی کو نہیں ہے خواہ وہ حاضر ہو یا غائب ہو اگر مرد مقذوف قبل مطالبہ کے یا بعد مطالبہ کے یا قاذف پر تھوڑی حد قائم کئے جانے کے بعد مر گیا تو قاذف سے حد باطل ہوگی اور بعض حد باقی رہی ہوئی بھی باطل ہوگی اگر چہ ایک ہی کوڑا رہا ہو یہ فتاویٰ کرنخی میں ہے اور اگر مرد مقذوف جو غائب تھا حاضر آیا اور قاذف کو قاضی کے پاس لایا پھر قاذف کو تھوڑی حد ماری گئی تھی کہ پھر وہ غائب ہو گیا تو حد پوری نہ کی جائے گی الا اسی صورت میں کہ پورے ہونے تک حاضر رہے اس واسطے کہ پوری حد میں مطالبہ شرط ہے یہ غایتہ البیان میں ہے۔ اگر میت مخصن کو قذف کیا تو اس کے والدین کو اگر چہ اونچے درجے کے ہوں یا دادا پر دادا وغیرہ اور اس کی اولاد کو اگر چہ نیچے درجے کے ہوں پوتے پوتے وغیرہ اس کی حد قذف کے مطالبہ کا اختیار ہے اور اسی مطالبہ میں خصوصیت وارث کی نہیں ہے خواہ وہ وارث ہو یا نہ ہو مثلاً کافر ہو یا مورث کا قاتل ہو یا خود رقیق ہو کہ اس صورت میں وارث نہ ہوگا مگر مطالبہ حد قذف کا مستحق ہے اور نیز اقرب دابعد دونوں یکساں ہیں اور اگر بعض نے مطالبہ ترک کیا تو باقیوں کو مطالبہ کا اختیار ہے یہ ترمناشی میں ہے۔

قال المترجم ۲ و هذا اذا ثبت له الاختيار والاستحقاق اور حد قذف میت کا مطالبہ نہیں کر سکتا الا اسی صورت میں کہ اس قذف سے اس کی نسبت میں قدح واقع ہوتا ہو یا یہ ہدایہ میں ہے اور اس مطالبہ میں پسر کا بیٹا اور دختر کا بیٹا ظاہر الراویہ کے موافق یکساں ہیں یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور ماں کے باپ یا ماں (نانی) کو اس مطالبہ کا اختیار نہیں ہے یہ محیط میں ہے اور بھائیوں و بہنوں و چچاؤں و پھوپھیوں و ماموؤں و خالوؤں کو مطالبہ حد قذف نہیں ہے یہ شرح طحاوی میں ہے اور اولاد کو مطالبہ حد قذف کا اختیار ہو اس وقت نہیں حاصل ہوتا ہے کہ قاذف اس کا باپ یا دادا وغیرہ کہتے ہی اونچے درجے کا ہو یا ماں و نانی وغیرہ ہو یہ ایضاح میں ہے۔ اگر اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا چچا کو قذف کیا تو قاذف کو حد ماری جائے گی ایک نے اپنے بیٹے کو کہا کہ او ابن الزانیہ اور اس کی ماں مرچکی ہے اور اس عورت کا ایک اور بیٹا کسی دوسرے خاوند سے ہے پس اس نے حد قذف کا مطالبہ کیا تو قاذف کو حد ماری جائے گی اور اسی طرح اگر میت مقذوف کے دو بیٹے ہوں پس ایک نے قاذف کے قول کی تصدیق کی تو دوسرے کو اختیار ہوگا کہ حد قذف کا مطالبہ کرے اور اگر مقذوف کا ایک ہی بیٹا ہو اور اس نے قذف میں قاذف کی تصدیق کی پھر چاہا کہ قذف کا مطالبہ کرے تو اس کو یہ اختیار نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

کسی غلام سے کہا کہ اے زانی پس اس نے کہا کہ نہیں بلکہ تو ہے تو غلام کو حد ماری جائے گی نہ

آزاد کو اور اگر دونوں آزاد ہوں تو اس صورت میں دونوں کو حد ماری جائے گی:

امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا کہ ایک مرد کا ایک غلام ہے اور اس غلام کی ماں آزادہ مسلمان تھی اور وہ مرچکی تھی پھر مولیٰ نے اس غلام کی ماں کو قذف کیا تو غلام کو اپنے مولیٰ سے اس کے حد قذف کے مواخذہ کا اختیار نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر دو مردوں نے باہم گالی گلوچ کی پس ایک نے کہا کہ میں تو زانی نہیں ہوں اور میری ماں زانیہ ہے تو فرمایا کہ ایسے واقعہ میں حد نہیں

ہے اور اگر کہا کہ جس نے ایسا ایسا کہا وہ زانیہ کا بیٹا ہے پس ایک نے کہا کہ یہ میں نے کہا ہے تو ابتدا کرنے والے پر حد نہیں ہے یہ فتاویٰ کرنی میں ہے۔ اگر کسی غلام سے کہا کہ اے زانی پس اس نے کہا کہ نہیں بلکہ تو ہے تو غلام کو حد ماری جائے گی نہ آزاد کو اور اگر دونوں آزاد ہوں تو اس صورت میں دونوں کو حد ماری جائے گی اور یہ خزانۃ المفتن میں ہے۔ اگر اجنبی نے کسی اجنبیہ کو قذف کیا جو محض ہے پس قاذف پر حد قائم کی گئی پھر اس عورت کو دوسرے نے قذف کیا تو دوسرے پر بھی حد قائم کی جائے گی۔ یہ محیط میں ہے۔ ابن سماعہ نے امام محمد سے رقیات میں روایت کیا ہے کہ چار مردوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ اس نے فلانہ بنت فلاں مخزومیہ سے زنا کیا اور یہ عورت جس کا نام لیا ہے عورت معروف ہے اور اس کا نام و نسب ٹھیک بیان کیا اور زنا کو بھی بیان کر دیا کہ زنا اس کو کہتے ہیں اور اس کو ثابت کیا اور یہ عورت غائبہ ہے پس مرد مذکور کو رجم کیا گیا پھر ایک مرد نے اس عورت غائبہ کو قذف کیا پس عورت نے اپنے حد قذف کا مطالبہ ایسے قاضی کے یہاں کیا جس نے مرد مذکور پر رجم کا حکم دیا ہے تو امام محمد نے فرمایا کہ قیاس یہ ہے کہ اس کے قاذف کو حد ماری جائے مگر میں استحساناً حکم دیتا ہوں کہ اس عورت کے قاذف کو حد نہ ماری جائے یہ ظہیر یہ میں ہے۔

جمع الجوامع میں لکھا ہے کہ اگر عورت مذکورہ نے اپنی حد قذف کا مطالبہ کسی دوسرے قاضی کے یہاں کیا تو وہ قاذف کو حد مارے گا الا آنکہ وہ قاضی اول کے حکم قضاء پر گواہ قائم کرے یہ تا تاریخانیہ میں ہے اور اگر کسی نے چند بار قذف کیا یا چند بار زنا کیا یا چند بار شراب پی پھر وہ ایک بار حد سے محدود ہوا تو وہ ان سب کے واسطے ہو جائے گی یہ کافی میں ہے اور اگر ایک جماعت کو کام واحد سے قذف کیا یا ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کام سے قذف کیا یا امام متفرقہ میں قذف کیا پھر ان سب نے اس پر حد قذف کا دعویٰ کیا تو ان سب کے واسطے اس کو حد واحد ماری جائے گی اور اسی طرح ان میں سے بعض نے دعویٰ کیا اور بعض نے نہ کیا پس اس کو حد ماری گئی تو یہ حد ان سب کے واسطے ہو جائے گی اور اسی طرح ان میں سے ایک حاضر ہوا تو قاذف پر ایک ہی حد ہوگی اور بس پھر اگر اس کے بعد جس نے مطالبہ نہیں کیا ہے وہ آیا تو اس کے حق کی حد قذف باطل ہوگی کہ اس کے واسطے دوسری بار اس کو حد نہ ماری جائے گی اور اگر قاذف کو سزائے حد دی گئی پھر بعد فارغ ہونے کے اس نے دوسرے کو قذف کیا تو دوسرے کے واسطے اس کو دوسری حد ماری جائے گی اور جو حد قذف جاری کر دی جاتی ہے وہ اپنے ما قبل کے حد و قذف کو باطل کر دیتی ہے اور جو اس کے ما بعد لازم آئیں ان کو ساقط نہیں کرتی ہے یہ سراج و ہاج میں ہے۔

اگر زنا یا شراب بخواری کی وجہ سے اس کو تھوڑی حد ماری گئی پھر وہ بھاگ گیا پھر اس نے دوبارہ زنا کیا یا شراب پی تو اس کو از سر نو حد ماری جائے گی اور اگر قذف میں ایسا ہوا تو دیکھا جائے گا کہ اگر اول مقذوف حاضر ہوا تو اس کے واسطے حد پوری کر دی جائے گی اور دوسرے مقذوف کی واسطے کچھ سزا نہ دی جائے گی اور اگر فقط دوسرا حاضر ہوا تو قاذف کو دوسرے قذف کے واسطے از سر نو حد ماری جائے گی اور اول کی باقی حد باطل ہوگی اور اگر ایک شخص پر اجناس مختلفہ کی حدود مجتمع ہوئیں مثلاً اس نے قذف کیا و زنا کیا و چوری کی اور شراب پی تو اس پر کل یہ حدود قائم کئے جائیں گے لیکن پے در پے قائم نہ کئے جائیں گے اس وجہ سے کہ اس کے ہلاک ہو جانے کا خوف ہے بلکہ انتظار کیا جائے گا یہاں تک کہ اول سے اچھا ہو جائے اور پس پہلے پہل اس پر حد قذف جاری کی جائے گی اس واسطے کہ اس میں حق العبد ہے پھر اس کے بعد امام المسلمین کو اختیار ہے چاہے پہلے حد زنا جاری کرے اور چاہے پہلے ہاتھ کاٹے اور شراب بخواری کی حد مؤخر کی جائے گی اور اگر باوجود اس کے اس نے کسی کو مجروح کیا ہو جس کا بدلہ بھی اس پر واجب ہو تو

۱۔ یہ قید مشعر ہے کہ اگر دوسرے قاضی کے یہاں مطالبہ پیش کرے تو وہ قیاساً و استحساناً قاذف کو حد مارے گا واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲۔ ۲۔ کافی ہو جائیں گے نہ یہ کہ قصد ابالات ان سب کے واسطے ہوگی الا بمطالبہ جمع؛ تک قائل فیہ ۱۲۔

پہلے جراحت کا بدلہ لے لے گا پھر حد قذف جاری کرے گا پھر جو باقیوں میں سے اقویٰ ہو علی الترتیب پوری کی جائے گی یہ تمیز میں ہے۔ اگر کہا کہ تم سب زانی ہو الا ایک تو اس کو حد ماری جائے گی۔ اس واسطے کہ اس کا کلام مستثنیٰ منہ یعنی اصل قذف موجب حد صادر ہوا پس ہر ایک کو حد قذف کے دعویٰ کا اختیار ہے تا وقتیکہ وہ مستثنیٰ کو معین نہ کرے یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔ ایک غلام نے ایک آزاد کو قذف کیا پھر آزاد کیا گیا پھر دوسرے کو قذف کیا پھر دونوں نے باجماع دعویٰ کیا تو اس کو اسی (۸۰) درے مارے جائیں گے اور اگر پہلے اول مقذوف آیا اور اس کے واسطے چالیس درے مارے گئے پھر دوسرے نے دعویٰ کیا تو اس کے واسطے اسی پورے کر دیئے جائیں گے یعنی فقط چالیس اور مارے جائیں گے اور اگر قبل اس کے کہ دوسرا مقذوف اس کو لائے اس نے ایک اور آزاد کو قذف کیا تو اسی ان دونوں کے واسطے ہوں گے مگر از سر نو اسے نہیں مارے جائیں گے اور اس واسطے کہ جس قدر باقی ہے وہ تہ حد الاحرار ہے پس اس میں آزاد مدعی کئی داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ فتح القدر میں ہے۔

اگر کوئی کافر حد قذف میں سزا یا ب ہوا تو اس کی گواہی دیگر اہل ذمہ پر جائز نہ ہوگی:

اگر مسلمان حد قذف میں سزا یا ب ہوا تو ہمارے نزدیک اس کی گواہی ہمیشہ کے واسطے ساقط ہوگئی یعنی کبھی کسی معاملہ میں اس کی گواہی مقبول نہ ہوگی اگرچہ وہ تو بہ کر لے الا عبادات میں قبول ہو سکتی ہے یہ شرح طحاویٰ میں ہے۔ اگر کوئی کافر حد قذف میں سزا یا ب ہوا تو اس کی گواہی دیگر اہل ذمہ پر جائز نہ ہوگی۔ پھر اگر مسلمان ہو گیا تو اس کی گواہی ذمی کافروں اور مسلمانوں سب پر مقبول ہوگی اور اگر قذف میں اس کو ایک کوڑا مارا گیا پھر باقی حد (کوڑے) ماری گئی تو اس کی گواہی جائز ہوگی اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اس کی گواہی رد کر دی جائے گی اور اقل تابع اکثر ہے لیکن اول اصح ہے یہ ہدایہ میں ہے اور اگر کسی نے حالت کفر میں قذف کیا اور حالت اسلام میں اس کو حد ماری گئی تو ہمیشہ کے واسطے اس کی گواہی باطل ہو جائے گی اور اگر غلام کو حد قذف ماری گئی پھر وہ آزاد کیا گیا اور اس نے تو بہ کی تو بھی اس کی گواہی ہمیشہ کے واسطے مقبول نہ ہوگی۔ اگر اس نے حالت رقیقیت میں قذف کیا پھر آزاد کیا گیا پھر اس پر حد جاری کی گئی تو غلاموں کو حد جاری کی جائے گی یہ شرح طحاویٰ میں ہے اور اگر مسلمان کو تھوڑی حد قذف ماری گئی یعنی قبل اسی (۸۰) کوڑے پورے ہونے کے وہ بھاگ گیا تو ظاہر الروایۃ کے موافق اس کی گواہی مقبول ہوگی جب تک اس کو پوری حد نہ ماری جائے۔ یہ سراج و ہاج میں ہے اور مبسوط میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک صحیح مذہب یہ ہے کہ جس پر پوری حد قذف جاری کی گئی پھر چار گواہ قائم ہوئے کہ اس نے قذف میں سچ کہا ہے تو اس کی گواہی مقبول ہوگی یہ فتح القدر میں ہے۔

اگر مقذوف نے قبل اس کے کہ اس کے قاذف پر حد قائم کی جائے زنا کیا یا کوئی وطی حرام غیر مملوک کی تو اس کے قاذف سے حد ساقط ہوگئی اور اسی طرح اگر مقذوف مرتد ہو گیا تو بھی اس کے قاذف سے حد ساقط ہوگئی پھر اس کے بعد اگر مسلمان ہو گیا تو اس کے قاذف پر حد عود نہ کرے گی اور اسی طرح اگر معتوہ ہو کہ اس کی عقل جاتی رہی ہو تو بھی یہی حکم ہے یہ مبسوط میں ہے۔ قاذف کے ذمہ سے اس طرح حد ساقط ہو جاتی ہے کہ مقذوف اس کے قول کی تصدیق کرے یا قاذف اس کے زنا کرنے پر چار گواہ قائم کرے خواہ اپنے محدود ہونے سے پہلے قائم کرے یا مارے جانے کے درمیان میں قائم کرے اور یہ بنا بر ایک روایت کے روایات

۱۔ قال المترجم قولہ حد ماری جائے گی یعنی مراد یہ ہے کہ اس کو حد ماری جائے گی ہر ایک شخص کے دعویٰ پر ان لوگوں میں سے جن کو اس نے تہمت لگائی ہے اور یہ مراد نہیں ہے کہ قاذف نے جس وقت استثنیٰ بطور ابہام کیا تو اس کو حد ماری جائے گی ورنہ ایسا حکم نہیں ہو اور یہ حکم اس بنا پر ہے کہ اس نے مبہم رکھا اور اگر وہ کسی کو معنی کر دیا تو خاص اس شخص کا دعویٰ ساقط ہو جاتا اور دوسروں کے حق میں وہ قاذف رہتا پس ان کا حق ساقط نہ ہوتا حاصل کلام یہ ہے کہ ہر حال میں وہ حد مارا جائے گا البتہ معین کرنے کی صورت میں خاص اسی شخص کا دعویٰ ساقط ہو جائے گا اور مبہم رکھنے میں نسب کا دعویٰ قائم ہو سکتا ہے۔ ۱۲۔

میں سے ہے اور یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر چار گواہوں سے کم مقذوف کے زنا کرنے پر اس کی طرف سے مقبول نہ ہوں گے پھر اگر وہ چار گواہ لایا جنہوں نے مقذوف کے زنا متصادم کی گواہی دی تو قاذف کے ذمہ سے استحساناً حد دور کی جائے گی اور اگر وہ تین گواہ لایا جنہوں نے مقذوف کے زنا پر گواہی دی اور قاذف نے کہا کہ میں چوتھا ہوں تو اس کے کلام پر التفات نہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی باقی تینوں گواہوں پر بھی حد قذف جاری کی جائے گی اور اگر دو مردوں نے یا دو عورتوں اور ایک مرد نے گواہی ادا کر دی کہ اس مقذوف نے اپنے زنا کا اقرار کیا ہے تو قاذف اور تینوں گواہوں سب کے ذمہ سے حد دور کی جائے گی یہ بمسوط میں ہے۔ اگر مکاتب اس قدر مال چھوڑ کر مر گیا کہ اس کے ادائے کتابت کے واسطے کافی ہے پس اس کا مال کتابت ادا کر کے آخر جرموا جزائے حیات میں اس کی آزادی کا حکم دیا گیا اور اس کا باقی ترکہ وارثان احرار کے درمیان تقسیم کیا گیا پھر اس مکاتب میت کو کسی نے قذف کیا تو اس پر حد جاری نہ کی جائے گی یہ محیط میں ہے۔

حد قذف اور حد زنا میں فرق:

اگر حریوں میں سے کوئی امان لے کر ہمارے یہاں آیا اور اس نے کسی مرد مسلمان کو قذف کیا تو اس پر حد واجب ہوگی اور یہ اخیر قول امام اعظم کا ہے اور یہی قول صاحبین کا ہے یہ شرح طحاوی میں ہے۔ حد قذف اور حد زنا میں فرق ہے کہ حد قذف بسبب تصادم (زمانہ گزر جانے سے) کے ساقط نہیں ہوتی ہے اور حد زنا و شراب خواری بسبب تصادم کے ساقط ہو جاتی ہے اور حد قذف بدوں مطالبہ مقذوف کے قائم نہیں کی جاتی ہے اور حد قذف پر گواہی بھی جب ہی مقبول ہوتی ہے کہ جب پہلے دعویٰ ثابت ہو جائے اور حد قذف ثابت ہو جانے کے بعد عفو کرنے اور بری کرنے سے ساقط نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر قاضی کے حضور میں مرافعہ ہونے سے پہلے عفو کیا تو بھی ساقط نہ ہوگی اور اسی طرح اگر قذف سے کسی قدر مال پر صلح کر لی تو باطل ہے مال صلح واپس کر دے اور مقذوف کو اختیار ہے گا کہ اس کے بعد حد قذف کا مطالبہ کرے اور یہ ہمارے نزدیک ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور ایسی حد تو قاضی اپنے علم پر قائم کر سکتا ہے جبکہ ایام قضاء میں آگاہ ہو اور اسی طرح اگر قاضی کے سامنے قذف کیا تو اس کو حد مارے گا اور اگر قاضی مقرر ہونے سے پہلے قاضی نے اس کو جانا پھر قاضی مقرر ہو تو قاضی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے علم پر اس حد کو جاری کرے جب تک اس کے پاس اس کی گواہی نہ گزرے یہ فتح القدیر میں ہے۔ اگر مقذوف نے مطالبہ چھوڑ دیا تو یہ بہتر ہے اور اسی طرح حاکم کے واسطے مستحسن ہے کہ جب اس کے پاس اس کا مرافعہ ہو تو اس کے اثبات سے پہلے مدعی سے کہے کہ تو اس سے درگزر کر یہ ایضاح میں ہے۔ امام اعظم و امام محمد کے قول میں غائب کی طرف سے حدود ثابت کرانے کے لئے وکیل (بلکہ خود متکفل ہو) مقرر کر دینا نہیں جائز ہے اور ربا حد پھر پانے کے لیے جاری کرالینے اور پورا کرالینے کے واسطے بالا جماع وکیل مقرر کر دینا نہیں جائز ہے اور یہ فتح القدیر میں ہے۔

تعزیر کا بیان

☆ فصل

تعزیر کی شرعی تعریف اور اقسام کا بیان:

واضح ہو کہ تعزیر ایسی تادیب ہے جو حد نہیں ہوتی ہے اور ایسے جرم میں واجب ہوتی ہے جو موجب حد نہیں ہے۔ یہ نہایت

میں ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں ایک بوجہ حق اللہ اور دوم بوجہ حق العباد اور اول یعنی تعزیر یعنی بحق اللہ تعالیٰ کا جاری کرنا امام المسلمین پر واجب ہے اور اس کا ترک کرنا امام کو جائز نہیں ہے اسی صورت میں کہ امام کو معلوم ہو جائے کہ یہ فاعل جرم قبل تعزیر کے منجر ہو گیا ہے۔ اس پر متفرع ہوتا ہے کہ اس کا ثابت کرنا ایسے مدعی سے جائز ہے جس نے اس کی گواہی دی یعنی اگر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ زید نے مثلاً ایسا ایسا جرم کیا جو حق اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے ساتھ ایک شخص گواہ ہے پس ممکن ہے کہ امام المسلمین مدعی ہو جائے اور جو مدعی تھا وہ گواہ ہو جائے پس دوسرے گواہ کے ساتھ ان دونوں گواہوں سے جرم مذکور ثابت کرنا جائز ہے یہ نہر الفائق میں ہے۔ مشائخ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ارتکاب جرم کرتا ہو تو ہر مسلمان کو ایسی حالت میں تعزیر جاری کرنا جائز ہے اور اگر وہ اس گناہ کے کرنے سے فارغ ہو گیا تو بعد اس کے حاکم کے سوائے دوسرے کو اس پر تعزیر جاری کرنا نہیں روا ہے اور قینہ میں مذکور ہے کہ اگر ایک نے دوسرے کا کوئی گناہ موجب تعزیر کرتے دیکھا پھر بدون اجازت محتسب کے اس کو تعزیر دی تو محتسب کو اختیار ہوگا کہ ایسی تعزیر دینے والے کو تعزیر دے بشرطیکہ مجرم کے گناہ سے فارغ ہونے کے بعد اس نے تعزیر دی ہو یہ بحر الرائق میں ہے۔ شیخ ابو جعفر ہندوانی سے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے (اجنبی غیر محرم) مرد کو دیکھا پس آیا اس کا قتل کر دینا اس کو روا ہے فرمایا کہ اگر وہ جانتا ہو کہ یہ چیخنے یا ہتھیار کے سوائے دوسری چیز سے مارنے سے زنا سے منجر ہوگا اور بازر ہے گا تو اس کا قتل کرنا حلال نہیں ہے اور اگر جانتا ہو کہ سوائے قتل کے وہ منجر نہ ہوگا تو اس کا قتل کر دینا حلال ہے اور اس کی بیوی نے اس کی مطاوعت کی ہو تو بیوی کا قتل کر دینا بھی روا ہے یہ نہا یہ میں ہے۔

تعزیر کا ثبوت دو مردوں یا ایک مرد و عورتوں کی گواہی سے ہوتا ہے:

جو شخص ظلم کے ساتھ مکا برہ کرتا ہو ڈانکو ہو یا نکس والا ہو اور نیز سب ظالموں اور ان کے مددگاروں اور ساعیوں کا قتل کرنا حلال ہے کہ ان کے قاتل کو ثواب حاصل ہوگا یہ نہر الفائق میں ہے اور تہمتا شی و مجتبیٰ میں ہے اور مولیٰ کو اختیار ہے کہ اپنی باندی غلام کو وقت بے ادبی کرنے اور ضرورت کے تعزیر دے یہ محیط سرخسی میں ہے اور جو تعزیر بوجہ حق العبد کے مثل قذف (بد گوئی و اتہام بڑنا) وغیرہ کے واجب ہوتی ہے تو چونکہ دعویٰ پر موقوف ہوتی ہے یعنی جب مدعی ہوگا تو البتہ تعزیر دی جائے گی لہذا اس کو سوائے حاکم کے کوئی قائم نہیں کر سکتا ہے آنکہ دونوں حکم کر لیں یہ فتح القدیر میں ہے۔ اس میں بری کرنا و عفو کرنا اور گواہی پر گواہی اور قسم جاری ہوتی ہے اور حقوق العباد میں ہوتا ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ تعزیر کا ثبوت دو مردوں یا ایک مرد و عورتوں کی گواہی سے ہوتا ہے کیونکہ یہ جنس حقوق العباد سے ہے یہ تبیین و کافی و محیطین میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے پر شینمہ (بری گالی فحش) فاحشہ کا دعویٰ کیا یا یہ دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے بھی مارا ہے اور کہا کہ میرے گواہ شہر میں موجود ہیں اور مدعا علیہ سے کفیل نفس مانگا تو مدعا علیہ سے تین روز کے واسطے کفیل بانفس لیا جائے گا پس اگر اس نے اپنے دعویٰ پر دو مرد یا ایک مرد و عورتیں یا دو گواہوں کی گواہی پر دو گواہ قائم کئے تو مدعا علیہ

یعنی حد تو ایک مقررہ سزا ہے کہ اس میں کمی بیشی کچھ نہیں ہو سکتی ہے اور تعزیر ایسی تاویہ ہے کہ وہ حد نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی سزا مقرر ہے بلکہ مجہول بڑے امام المسلمین ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ آیا حد سے زیادہ ہو سکتی ہے یا نہیں اور بیشتر کا مختار یہ ہے کہ نہیں اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا حد و تعزیر دونوں جمع ہو سکتی ہیں یا نہیں پس اکثر کا مختاری ہے کہ تفصیل ہے پس بنا بریں قولہ ایسے جرم میں واجب ہوتی ہے جو موجب حد نہیں ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جو جرم موجب حد ہے اس میں حد ہی واجب ہوگی اور بعینہ اس میں تعزیر نہیں ہے الا بوجہ دیگر از وجہ مثلاً زنا یا کرہ میں جلد ہی ورے بنظر اینکہ کے قتلہ فرد ہو جائے ایک سال اس کو شہر بدر کر دیا جائے نہ آنکہ سو کوڑے حد کے اور پچاس کوڑے نطبہ تعزیر کے مارے جائیں مثلاً تقابل ۱۲۔ ۲ ساعی سے وہ مراد ہے جو بادشاہوں کے یہاں جا کر چغلی کھا کر لوگوں کا مال لوٹاتے اور ہنگ کرتے ہیں ۱۲۔

سے نہیں بالنفس اس وقت تک کے واسطے لیا جائے گا ان گواہوں کا حال دریافت ہو پس اگر گواہوں کی تعدد کی گئی تو اس کو تعزیر دی جائے گی اور یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور تعزیر کبھی جس (ایک جگہ بند کی دیا گیا) کرنے کی ساتھ ہوتی ہے اور کبھی صفع و گوشمالی کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی سخت کلامی سے اور کبھی مارنے سے اور کبھی بانپٹور کہ قاضی اس کی طرف نظر ترش سے دیکھے یہ نہایہ میں ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک تعزیر سلطان کو روا ہے کہ اس کا مالک لے لے اور امام اعظم و امام محمد اور باقی تینوں اماموں کے نزدیک یہ جرگز نہیں جائز ہے اور یہ فتح القدر میں ہے۔

بر قول امام ابو یوسف کے مال لے لینے کے ساتھ تعزیر دینے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے مال میں سے کچھ مال لے کر اپنے پاس کسی مدت تک رکھ چھوڑے تاکہ وہ منزجر ہو پھر حاکم اس کو واپس کر دے اور یہ معنی نہیں ہیں کہ حاکم اس مال کو اپنے واسطے یا بیت المال کے واسطے بالکل لے لے جیسے ظالم لوگوں کا وہم ہے اس واسطے کہ کسی مسلمان کو نہیں روا ہے کہ کسی کا مال تبغیر سبب شرعی کے لے لے یہ بحر الرائق میں ہے اور ثانی میں لکھا ہے کہ تعزیر کے چند مراتب ہیں تعزیر اشرف الاشراف کہ علماء اور سادات علویہ ہیں باعلام ہوتی ہے یعنی قاضی اس سے کہے کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم ایسا کرتے ہو پس وہ اسی سے منزجر ہو جائے گا دیگر تعزیر اشرف کہ مراد زمیندار میں بایں طور کافی ہے کہ اعلام کرے اور اس کو دروازہ قاضی پر کھینچ لایا جائے اور اس کے ساتھ اس میں خصومت واقع ہو پس وہ منزجر ہو جائے گا اور دیگر تعزیر اوساط کہ بازاری ہیں بانپٹور کافی ہے کہ اعلام دور قاضی پر کھینچ لائے جانے کے ساتھ محبوس (اگر ضرورت دیکھی جائے) کر دیا جائے دیگر تعزیر حسہ و کمیزگان کہ ان سب باتوں کے ساتھ اس کو مار بھی دی جائے یہ نہایہ میں ہے اور زیادہ سے زیادہ تعزیر انتالیس ۳۹ کوڑے ہیں اور کم سے کم تین کوڑے ہیں اور ہمارے مشائخ نے ذکر فرمایا ہے کہ ادنیٰ مقدار برابر امام ہے کہ جس قدر سے وہ منزجر ہوتا نظر آئے اسی قدر مقدر کرے یہ ہدایہ میں ہے۔ قاضی کو چاہئے کہ اس کے سبب پر نظر کرے پس اگر اس جنس سے ہو کہ اس میں حد (اس کے بعض افراد ہیں) واجب ہوتی ہے حالانکہ اس صورت میں کسی عارض کی وجہ سے واجب نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں انتہا درجے کی تعزیر جاری کرے اور اس کی مثالیہ ہے کہ مثلاً کسی غیر کی باندی یا ام ولد کو کہا کہ اوزانیہ تو اس پر انتہا درجہ کی تعزیر جاری کرے اس واسطے کہ حد قذف اس صورت میں اس وجہ سے واجب نہ ہوئی کہ مقذوف میں احصان نہیں ہے حالانکہ یہ کلام اس جنس سے ہے کہ اس میں حد واجب ہوتی ہے یعنی قذف ہے اور اگر ایسی جنس سے ہو کہ اس میں حد نہیں واجب ہوتی مثلاً کسی دوسرے سے کہا کہ او خبیث اور اس میں تعزیر واجب ہوئی تو مقدار تعزیر امام کی رائے پر ہے یہ محیط میں ہے۔

بعد ضرب تعزیر کے محبوس کرنا بھی جائز ہے اگر اس میں کوئی مصلحت ہو یہ یعنی شرح کنز میں ہے اور جس کی مدت امام کی رائے کے سپرد ہے یہ بحر الرائق میں ہے۔ جن صورتوں میں کہ درے مارے جاتی ہیں ان میں تعزیر کے درے سب سے سخت و زور سے مارے جائیں گے پھر اس سے کم حد زنا کے درے پھر شراب خواری کے پھر حد قذف کے یعنی حد قذف کے درے سب سے ہلکے آسانی سے ماری جائیں گے اور جس شخص کو حد ماری گئی یا تعزیر پھر وہ اس سبب سے مر گیا تو اس کا خون بدر ہے بخلاف اس کے شوہر نے اپنی زوجہ کو بسبب ترک زینت و سنگار کے یا بسبب ترک اجابت کے یعنی شوہر نے اس کو اپنے بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی یا بسبب حج نماز کے یا بسبب بے مرضی شوہر کے گھر سے باہر نکلنے کے تعزیر دی پس وہ عورت اس تعزیر سے مرگئی تو شوہر اس کا ضامن (دیت) ہے اور جوگا اور یہ نہر الفائق میں ہے اور تعزیر مارنے میں کھرا کر کے کپڑے پہنے ہوئے اس کو درے مارے جائیں گے مگر اس پر سے پوستین و حشواتار لئے جائیں گے اور تعزیر دینے کی حد میں وہ ممدود (اس کے معنی حد زنا میں مفصل مذکور ہیں) نہ کیا جائے گا ضرب درہ اس کے سبب اعضا پر متفرق لگائی جائے گی سوائے سر اور فرج (مذکور کے ہو یا مؤنث کے باطلاق زبا عرب) کے اور یہ امام ابو حنیفہ و امام محمد کا قول

ہے اور یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور ایسا ہی حدود الاصل میں مذکور ہے۔

اگر گالی والے الفاظ بد کسی اشراف کو کہے جیسے فقہا میں سے کوئی فقیہ ہو یا کوئی علوی تو کہنے والے کو تعزیر دی جائے گی:

اثر بہ الاصل میں لکھا ہے کہ تعزیر ایک ہی جگہ ماری جائے گی پس جاننا چاہئے کہ اس مسئلہ میں اختلاف روایات نہیں ہے بلکہ اختلاف جواب بسبب اختلاف موضوع کے ہے یعنی متفرق سب اعضاء پر مارنے کا حکم اس صورت میں ہے کہ تعزیر انتہا درجہ کی ہو یعنی اُنتالیس کوڑے اور ایک ہی جگہ مانے کا حکم ایسی صورت میں ہے کہ تعزیر انتہا درجے تک نہ پہنچی ہو یہ تین میں لکھا ہے۔ اور وجوب تعزیر میں اصل یہ ہے کہ جو شخص کسی منکر کا مرتکب (۱) ہو یا کسی مسلمان کو ناحق اپنے قول یا فعل سے ایذا دی تو تعزیر واجب ہوگی آنکہ دروغ گوئی اس کے قول سے خود ظاہر ہو جیسے کسی آدمی کو کہا کہ اوکتے اوسور وغیرہ تو تعزیر واجب نہ ہوگی یہ شرح طحاوی میں ہے اور یہی صحیح ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور بعض نے فرمایا کہ اگر ایسا لفظ بد کسی اشراف کو کہا جیسے فقہا میں سے کوئی فقیہ ہو یا کوئی علوی (سید زاد اعلیٰ کرم اللہ وجہہ) ہو تو کہنے والے کو تعزیر دی جائے گی اور اگر عوام میں سے ہو تو تعزیر نہ دی جائے گی اور یہ قول احسن ہے یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کو کہا کہ او فاسق حالانکہ وہ فاسق نہیں ہے یا کہا کہ او فاسق کے بچہ یا کافر یا یہودی یا نصرانی یا نصرانی کے بچہ یا خبیث یا چور حالانکہ وہ چور نہیں ہے یا اور فاجر یا منافق یا لوطی یا قوم لوط کا کام کرنے والے یا لونڈے یا زیا سود خوار (بیعاج کھانے والا) یا شراب خوار یا دیوث یا مخمت یا خائن یا مجب کے بچہ یا زندیق یا قریطبان یا مادی الزوانی یا ماوی اللصوص تو کہنے والے کو تعزیر دی جائے گی اور اگر کہا کہ اولوک اور سانپ اور بھیڑیے اور حجام ای بغاء اے مواجر ای ولد الحرام اے عیار اے ناکس اے منکوس اے مسخرہ اے کشخان اے ضحکہ اے موسوس اے ابن موسوس اے ابن اسود (سیاہ) حالانکہ اس کا باپ ایسا نہیں ہے اے دیہاتی حالانکہ ایسا نہیں ہے اے لٹھے تو کہنے والے کو تعزیر نہ دی جائے گی اور یہ کافی میں ہے۔

مرد صالح سے کہا اے معفوح اے ابن قریطبان (دیوث) تو بقول ناقطی اُس پر تعزیر واجب ہوگی:

اگر کہا کہ اے ابن الفاجرہ یا او ابن الفاسقہ تو اس پر تعزیر واجب ہوگی اس واسطے کہ اس نے اس کو ایک طرح کا عیب لگایا ہے یہ غایۃ البیان میں ہے۔ اگر فاسق سے کہا کہ اے فاسق یا شراب خوار سے کہا کہ اے شراب خوار یا ظالم سے کہا کہ اے ظالم تو اس میں کچھ واجب نہ ہوگا یہ عتابیہ میں ہے اور اگر کسی مرد صالح ذی مردت سے کہا کہ اے چور اے مشرک اے کافر تو اس کو تعزیر دی جائے گی یہ غایۃ البیان میں ہے اور اگر کہا کہ اے پلید تو اس کو تعزیر دی جائے گی یہ واقعات میں ہے۔ اگر کہا کہ اے سفلیہ تو تعزیر دی جائے گی اور یہ جوہرہ نیرہ میں ہے۔ قال المترجم أما طلاق فی عرفنا ففیہ تامل اور اگر کہا کہ او بے نماز تو تعزیر دی جائے گا اور یہ سراجیہ میں ہے۔ اگر کسی مرد صالح سے کہ اوسقیہ تو تعزیر دی جائے گی یہ تمر تاشی میں ہے۔ اگر مرد صالح سے کہا کہ اے معفوح اے ابن قریطبان (ہمارے عرف میں بھڑا دیوث کہتے ہیں) تو ناقطی نے ذکر فرمایا ہے کہ اس پر تعزیر واجب ہوگی اور اگر کہا کہ اے بندر اے جلاد اے جواری تو اس میں تعزیر واجب نہ ہوگی اور یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ صدر الشہید نے فرمایا کہ جواری کہنے میں تعزیر

۱ اوچھنا کون کے ٹھکانے اور مراد کٹنا ہے جو اپنے گھر میں زانی مردوں و عورتوں کا ٹھکانا دے ۱۲۔ ۲ قال مترجم لیکن بیچاری عرف میں پس بعض اس میں ایسا ہے جس کی تاویل ہو سکتی ہے اور بعض ایسا ہے جس کی تاویل نہیں ممکن ہے تو ہمارے عرف میں جو قابل تاویل نہیں ہے اس پر لائق ہے کہ تعزیر دی جائے ۱۳۔

(۱) گناہ ممنوع شرعی جس پر انکار منع کرنا واجب ہے ۱۴

واجب ہوگی اور یہ خلاصہ میں ہے۔ اگر کہا کہ اے معفوج تو تعزیر دی جائے گی اور حد واجب نہ ہوگی اور یہ امام ابو یوسف و امام محمد کا قول ہے اور اگر کہا کہ یا معفوج السبیل تو حد واجب ہوگی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک کسی صورت میں قاذف نہ ہوگا لیکن اس پر تعزیر واجب ہوگی اس واسطے کہ اس نے اس کو ایک نوع کا عیب لگایا اور قولہ معفوج بمعنی مضروب الدبر یعنی جس کو گانڈ و کہتے ہیں اور یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر کہا کہ اے ابلہ اے لاشی (جینی ۷) یا اے ستور تو اس پر کچھ لازم نہ آئے گا اور اگر کہا کہ اے قذر (پلیدی) تو اس میں تعزیر واجب ہوگی یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے اور اگر کسی مرد نے کسی حادثہ میں علماء کا فتویٰ لے کر اپنے خصم کے سامنے پیش کیا پس خصم نے کہا کہ میں اس پر نہیں عمل کرتا ہوں یا کہا کہ جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے ایسا نہیں ہے حالانکہ یہ شخص جاہل ہے اور اس نے اہل علم کو تحقیر کے ساتھ یاد کیا ہے تو اس پر تعزیر واجب ہوگی۔ اگر کسی کو تعریض کے ساتھ قذف کیا یعنی اس کو زنا کاری کے ساتھ تعریض کی تو تعزیر واجب ہے یہ حاوی قدسی میں ہے۔ آدمی کے واسطے اولیٰ یہ ہے کہ جب اس سے ایسی بات کہی جائے جو موجب حد و تعزیر ہے تو اس کو جواب نہ دے اور مشائخ نے فرمایا کہ اگر کہا کہ اے خبیث تو احسن یہ ہے کہ اس سے باز رہے اور اگر باز نہ رہا اور قاضی کے حضور میں مرافعہ کیا تاکہ کہنے والے کو تادیب دے تو جائز ہے اور اگر باوجود اس کے کہنے والے کو جواب دیا کہ نہیں بلکہ تو ہے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے یہ بحر الرائق میں ہے اور ہمارے اصحاب سے مروی ہے کہ اگر کسی نے طرح طرح کے گناہ و فساد کرنے کی عادت پکڑ لی تو اس پر اس کا گھر گرا دیا جائے گا اور یہ سراجیہ میں ہے۔ فخر الاسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے مسجدوں کے دروازے پر چرانے کی عادت اختیار کر لی تو واجب ہے کہ اس کو تعزیر دی جائے اور مبالغہ کیا جائے یعنی بڑھ کر تعزیر دی جائے اور قید کیا جائے یہاں تک کہ تو بہ کرے یہ بحر الرائق میں ہے اور دروغ و فریب کے قبائے و خطوط لکھنا موجب تعزیر ہے اور نیز موجب تعزیر یہ بھی ہے کہ احکام شریعت کے ساتھ مہمازحت کرے یعنی ٹھٹھول اور منجملہ موجبات تعزیر کے وہ ہے جو ابن رستم نے ذکر کیا ہے اگر برزوں کی دم کا نڈا کی یعنی سر سے کاٹ ڈالی یا باندی کے سر کے بال مونڈ ڈالے تو تعزیر واجب ہوگی اور از آنجملہ اگر سلطان نے کسی کو کسی مسلمان کے قتل پر ناحق باکراہ مجبور کیا یعنی اس طرح اکراہ کیا کہ تجھ کو قتل کروں گا اگر تو اس کو قتل نہ کرے گا پس اس نے قتل کیا تو اس کا قصاص سلطان پر ہوگا اور تعزیر قاتل پر ہوگی یہ امام اعظم و امام محمد کا قول ہے اور از آنجملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کو زنا کرنے پر اکراہ کیا پس اس نے زنا کیا تو جس نے اکراہ کیا ہے اس پر تعزیر واجب ہوگی اور منجملہ موجبات تعزیر کے زہد مار دہے یہ تاتار خانہ میں ہے۔

اگر ایک نے دوسرے پر ایسا دعویٰ کیا جو موجب تکفیر ہو:

اگر بیمہ (چوپا یہ مثل گائے بکری وغیرہ کے) سے وطنیکی یا شبہہ میں وطنیکی کی یا کسی مسلمان کو تھپڑ مارا یا بازار میں اپنے سر سے مندریل اتار ڈالی یعنی ننگے سر پھر اتو اس کو تعزیر دی جائے گی اور یہ سراجیہ میں ہے اگر گواہان تعزیر بعد مشہود علیہ کے تعزیر دیئے جانے کے معلوم ہوا کہ غلام ہیں یا کافر ہیں حالانکہ مشہود علیہ تعزیر دیئے جانے سے مر گیا ہے یا ڈڑوں سے مجزرج ہے یا گواہوں نے بعد گواہی کے رجوع کیا تو امام اعظم کے نزدیک ان پر ضمان نہیں ہے اور صاحبین نے اس میں اختلاف کیا ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔ قینہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی سے کہا کہ یا فاسق پھر چاہا کہ گواہوں سے اس کا فسق ثابت کرے تاکہ اپنی ذات سے تعزیر دفع کرے تو اس کے گواہوں کی سماعت ہوگی اور اگر اس کے فسق کا اثبات ضمناً چاہا تو اس میں خصوصیت نہیں صحیح ہے مثل جرح گواہوں کے کہ کہا کہ میں نے اس کو اتنی رشوت دی ہے کہ اس پر رشوت کا مال واپس کر دینا واجب ہوگا اور گواہی قبول ہوگی ایسا ہی اس مقام پر ہے اور یہ اس

وقت ہے کہ گواہوں نے اس کے فسق کی گواہی دی اور کچھ تفصیل نہ بیان کی اور اگر فسق کی تفصیل کرنے میں ایسی بات بیان کی جو متضمن حق اللہ تعالیٰ یا حق العباد ہے تو ایسی گواہی قبول ہوگی مثال اس کی یہ ہے کہ زید نے مثلاً کسی سے کہا کہ اوفاسق پھر جب وہ زید کو قاضی کے حضور میں لے گیا تو زید نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے اجنبیہ عورت کا بوسہ لیا یا اس کو چپٹا لیا یا اس سے خلوت کی یا مثل اس کے کوئی امر فسق بیان کیا پھر دو گواہ قائم کئے کہ جنہوں نے گواہی دی کہ ہم نے اس کو ایسا کرتے دیکھا ہے تو شک نہیں کہ ایسی گواہی قبول ہوگی اور زید کی ذات سے تعزیر دور ہو جائے گی یہ بحر الرائق میں ہے اگر ایک نے دوسرے پر ایسا دعویٰ کیا جو موجب تکلیف ہے اور مدعی اپنے دعویٰ کے اثبات سے عاجز رہا تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا بشرطیکہ یہ کلام اس کی طرف سے بطریق دعویٰ نزد حاکم شرع صادر ہوا ہو اور اگر اس کا صدور بطریق بدگوئی یا اقتصاص بدگوئی یا اقتصاص کے صادر ہوا ہو تو اپنے لائق سزا دیا جائے گا یہ نہر الفائق میں سراجیہ سے منقول ہے ایک شخص حنفی مذہب کا شافعی المذہب ہو گیا تو اس کو تعزیر دی جائے گی یہ جوہر اخلاطی میں ہے زید نے عمر کو ناحق مارا پھر عمر نے زید کو بھی ناحق مارا تو دونوں کو تعزیر دی جائے گی اور تعزیر جاری کرنے میں پہل اس سے کی جائے گی جس نے مارنے میں پہل کی ہے یہ بحر الرائق میں ہے۔ جو شراب خواروں کے مجمع میں بیٹھا یا جو لوگ شراب خواروں کی ہیئت پر جمع ہوئے کہ شبہ شراب خواروں کا پڑتا اگرچہ شراب نہ پی ہو تو ہر ایک کو تعزیر دی جائے گی اور جس کے ساتھ رکوعہ خمر ہے اس کو تعزیر دی جائے گی اور محبوس کیا جائے گا اور جو مسلمان شراب بیچتا ہو یا سود کھاتا ہو اس کو تعزیر دی جائے گی اور قید کیا جائے گا یہاں تک کہ توبہ کرے اور ایسا ہی معنی و محنت (جو غلام کرانا ہو جینی ایسا فتنہ اس کی ذات سے برپا ہو) و ناکحہ (رونے والیاں جو مصیبتوں میں اجرت پر رو یا کرتی ہیں) ان سب کو تعزیر دی جائے گی اور قید کئے جائیں گے یہاں تک کہ توبہ کریں یہ نہر الفائق میں ہے خانیہ میں لکھا ہے کہ مسلمان متیم نے عمداً اگر رمضان میں افطار کھیا تو اس کو تعزیر دی جائے گی اور بعد اس کے قید کیا جائے گا اگر اس کی طرف سے دوبارہ افطار کر ڈالنے کا خوف ہو یہ تا تاریخانیہ میں ہے۔

ایک نے اپنے بچے صغیر کو خمر (شراب) پلائی تو اس کو تعزیر دی جائے گی:

ایک مرد نے اجنبیہ عورت آزادہ یا باندی کا بوسہ لیا یا اس سے معانقہ کیا یا چھوا اور یہ شہوت سے کیا تو اس کو تعزیر دی جائے گی اور اس طرح اگر فرج کے سوائے میں اس سے جماع کیا تو اس کو تعزیر دی جائے گی اور یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اگر کسی عورت نے بندر کو اپنے اوپر قابو دے دیا یا یعنی جماع کرنے دیا تو اس کا حکم وہی (تعزیر دی جائے گی) ہے کہ مرد نے چوپایہ جانور مادہ سے وٹلی کی یہ جوہرہ نیرہ میں ہے اور جو شخص قتل کرے یا چوری کرنے یا لوگوں کے مارنے میں متہم ہوا ہو وہ قید کیا جائے گا اور ہمیشہ برابر قید رہے گا یہاں تک کہ اپنی توبہ ظاہر کرے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور شیخ علی بن احمد سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کا دوسرے پر دعویٰ تھا مگر جس پر دعویٰ ہے وہ اس کو نہ ملا آخر اس نے یہ کہا کہ اس کے اہل و عیال وغیرہ کو ظالموں کے ہاتھ میں ڈال دیا اور ناحق ایسا کیا اور بدون کفالت کے یہ فعل کیا پس ظالموں نے ان کو قید کیا اور بیڑیاں ڈالیں اور ان کو خوب مارا اور بہت سہ ماہ عین ان کا حق غصب کر لیا پس اگر ان لوگوں نے یہ امور قاضی کے حضور میں ثابت کئے تو اس طرح پلا میں ڈالنے والے پر آیا تعزیر

۱۔ یہ امر محققین علماء کے نزدیک ایسی صورت پر محمول ہے کہ باوجود جاہل ہونے کے بطریق لہو و لعب اس نے ایسا کیا ہو ۱۲۰۔ ۲۔ افطار سے مراد یہ ہے کہ روزہ نہ رکھا اور یہ مراد نہیں ہے کہ روزہ رکھ کر توڑ ڈالا ۱۲۱۔ ۳۔ صدر شہید نے فرمایا کہ بوسہ اجنبیہ نشان شہوت ہی پس قضاء اس کا دعویٰ عدم شہوت قبول نہ ہوگا ۱۲۲۔

واجب ہوگی تو فرمایا کہ ہاں وہ تعزیر دیا جائے گا یہ تاتار خانہ میں ہے۔ تیمیہ سے منقول ہے کسی شخص نے ایک مرد کی بیوی یا دختر کو جو صغیرہ ہے مکر و فریب سے نکال کر کسی مرد کے ساتھ بیاہ دیا تو امام محمدؒ نے فرمایا کہ میں ایسا کرنے والے کو برابر ہمیشہ قید رکھوں گا یہاں تک کہ وہ اس عورت کو واپس کرے یا خود مر جائے۔ یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔ ایک نے اپنے بچہ صغیر کو خمر پلائی یعنی شراب تو اس کو تعزیر دی جائے گی یہ تاتار خانہ میں ہے۔ ہاتھ سے جلق لگانا حرام ہے اور اس میں تعزیر لازم آتی ہے اور اپنی بیوی یا باندی کو اپنے ذکر سے عبث کرنے کا قابو دیا حتیٰ کہ اس کو انزال ہو تو یہ مکروہ ہے اور ایسے مرد پر کچھ واجب نہیں ہے یہ سراج و ہاج میں ہے۔ شیخ ابو نصر الدبوسیؒ نے فرمایا کہ اگر کسی مرد نے اپنے غلام کا ہاتھ کاٹ ڈالا یا اس کو قتل کیا تو اس پر تعزیر واجب ہوگی یہ حاوی میں ہے۔ ایک غلام نے اپنے مولیٰ سے اپنی ذات کی بیع اپنے ہاتھ طلب کرتا ہے حالانکہ مولیٰ مقرر ہے کہ یہ میری صحبت و ساتھ میں اچھی طرح رہا مگر اس کی درخواست قبول نہیں کرتا ہے تو اس کو تعزیر دی جائے گی کیونکہ وہ معصیت ہے یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔

کتاب السرقة

سرقة اور اس کے ظہور کی صورت کے بیان میں

اس میں چار ابواب ہیں

باب : ①

سرقة کی شرعی تعریف:

شرع میں سرقة کی یہ تعریف ہے کہ آدمی عاقل بالغ نصاب محزر کو یا جس کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہو در حالیکہ وہ بلاشبہ غیر کی ملک ہو بطور خفیہ لے لینا سرقة ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے اور خفیہ لیا جانا آیا ابتدا میں معتبر ہے یا ابتدا اور انتہا دونوں میں معتبر ہے پس فرمایا کہ اگر سرقة دن میں ہو تو خفیہ کا اعتبار ابتدا میں ہے اور نہتا میں بھی ہے اور اگر سرقة رات میں واقع ہو تو خفیہ کا اعتبار فقط ابتدا میں ہے یہ نہر الفائق میں ہے حتیٰ کہ اگر رات میں خفیہ مکان میں سفید لگائی پھر مال بطریق مغالبہ و مکابره جہاں اس کے مالک سے لیا یا بطور کہ مالک جاگ گیا اور چور ہتھیار لے کر اندر داخل ہو اور جب مالک نے اس کو اپنے مال کے لینے سے روکا تو اس نے مالک سے مقابلہ (مگر مالک کو قتل نہیں کیا) کیا تو ایسی صورت میں بھی چور کا ہاتھ ہی کاٹا جائے گا اور اگر دن میں اس نے مالک سے مقاتلہ کیا مثلاً مکان میں پوشیدہ سفید لگائی اور بیت میں داخل ہو گیا پھر مال کو مالک سے بطور مقاتلہ و مغالبہ لیا تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا یہ محیط سرخسی میں ہے۔ سرقة کا کم سے کم نصاب دس درہم مضروبہ بوزن سبعة کہ کھرے ہوں یہ عتابیہ میں ہے اور اگر اس نے نبر جس کا وزن دس درہم مضروبہ ہے چورایا ایسی متاع جس کی قیمت دس درہم مضروبہ ہے چورائی تو بقول صحیح اس میں ہاتھ کاٹنا نہیں لازم آتا ہے اور اگر نصف دینار جس کی قیمت نصاب ہے چرایا تو ہمارے نزدیک ہاتھ کاٹنا لازم آتا ہے اور اگر ایسا دینار چرایا جس کی قیمت نصاب سے کم ہے تو قطع نہیں ہے یہ بحر الرائق میں ہے۔

اگر دس درہم کھونٹے جن کی چاندی غالب (نسبت تانبے یا پتیل وغیرہ کے) ہے چرائے تو ظاہر الروایہ کے موافق اس میں قطع (ہاتھ کاٹنا) نہیں ہے اور یہی اصح ہے یہ عتابیہ میں ہے اور اگر زیوف یا نہرہ یا ستوقہ دس درہم چرایے تو اس میں حد قطع نہیں آتی ہے الا آنکہ ایسے درہم بہت ہوں کہ جن کی قیمت کھرے دس درہم یا زیادہ ہو تو البتہ ہاتھ کاٹا جائے گا یہ بحر الرائق میں ہے اور جب مال مسروق کی تقویم واجب آئی پس آیا ایسے نقد سے قیمت اندازہ کی جائے گی جو عزیز الوجود ہے یعنی بہت کم ہے یا ایسے نقد سے جو شہر ۱ قال المتزجم فی فوائد القیود قولہ: آدمی عاقل بالغ خواہ مسلمان ہو یا کافر خواہ مرد ہو یا عورت قولہ نصاب محزر یعنی جو نصاب کہ حفاظت میں ہو اور مصنوع ہو قبل اس کے کہ اس پر ہاتھ ساق کا پہنچے: وانما قلنا انک علی اصول الحنفیة کما لا یحقی علی الماہر بفقنا و اصولنا اور نصاب سے یہاں مراد دس درہم یا زیادہ ہے اور قولہ یا جس کی قیمت یعنی عروض وغیرہ جو درم و دینار نہ ہوں قولہ در حالیکہ بلاشبہ اور لینے والا عادل یا شتہ بملک خود نہ ہو اور نیز غیر کی ملک تمام ہو جو مدعی ہے کہ میرا مال چرایا تو لہ بطور خفیہ یعنی پوشیدہ لینا نہ بطور غضب و راہزنی و ڈاکے کے و هذا یکفیک فاحفظہ ۱۲ ۲ سرقة جس کو ہمارے عرف میں چرانا بولتے ہیں۔ ۳ وزن سبعة معروف ہے اور ہم اس پر مقدمہ میں جرح بھی کر چکے ہیں۔

میں لوگوں کے درمیان بہت رائج ہے تو امام ابو یوسف نے امام اعظم سے روایت کی کہ ایسے دس درہم سے اندازہ کیا جائے گا جو شہر میں لوگوں میں زیادہ رائج ہے اور حسن نے امام اعظم سے روایت کی کہ وہ اعزازاً جو دس درہموں سے اندازہ کی جائے حتیٰ کہ شک کے ساتھ کاٹنا واجب ہوگا یہ محیط میں ہے اور یہی بعض کے نزدیک مختار ہے یہ خزانۃ المفتیین میں ہے اور ایک کے اندازہ کرنے پر نہ کاٹا جائے گا اور نہ اندازہ کرنے والوں کے اختلاف کرنے کی صورت میں یعنی اگر اندازہ کرنے والا ایک ہو یا اندازہ کرنے والے اگرچہ زیادہ ہوں مگر باہم اختلاف کریں اس طرح کہ کوئی اُس کی قیمت نصاب اندازے اور کوئی نصاب سے کم تو بھی ہاتھ نہ کاٹا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

قیمت ایسے دو مرد عادل کے کہنے سے ثابت ہوگی جن کو معرفت قیمت میں مہارت ہے یہ تمیین میں ہے اور نصاب کا پورا ہونا چور کے حق میں ہی معتبر ہے یعنی اسی کی طرف اعتبار کیا جائے گا کہ اُس نے چوری کس قدر کی ہے نہ مالکوں کی طرف اور اسی وجہ سے اگر چور نے دس آدمیوں کے مال سے ایک بیت سے دس درہم ہر ایک سے ایک ایک چرایا تو اُس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ محیط میں ہے مگر یہ شرط ہے کہ حرز ایک ہی ہو چنانچہ اگر دو منزل مختلف سے ملا کر ایک شخص نے پورا نصاب چرایا یعنی مثلاً ہر ایک منزل سے پانچ پانچ درہم کھرے چرائے تو اس میں قطع نہیں ہے اور ایک دار کے بیوت بمنزلہ بیت واحد کے ہیں چنانچہ اگر ایک دار میں دس بیت ہوں اور ہر بیت میں ایک ایک آدمی رہتا ہو پس چور نے ہر بیت سے رہنے والے کا ایک ایک درہم کھرا چرایا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا بخلاف اس کے اگر دار بڑا ہو اور اس میں حجرے مختلف متعدد ہوں تو ایسا حکم نہیں ہے یہ بحر الرائق میں ہے اور یہ بھی شرط ہے کہ اس سب کو ایک ہی بار نکال لائے اور اگر بعض کو نکال لایا پھر داخل ہو کر باقی کو نکال لایا تو ہاتھ نہ کاٹا جائے گا یہ نہر الفائق میں ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ظاہر نکال لائے چنانچہ اگر حرز میں ایک دینار نکل گیا اور باقی کو نکال لیا تو اُس کا ہاتھ قطع نہ کیا جائے گا اور اس کا انتظار نہ کیا جائے گا کہ چور اُس کو پانچ خانہ میں پھر لے بلکہ اُس کے مثل کا ضامن ہوگا یہ بحر الرائق میں ہے۔

اگر ایک جماعت ہو اور چوری کرنے کا مباشر اس میں فقط بعض ہے تو ان سب کا ہاتھ کاٹا جائے گا:

جو شخص کہ مباشر فعل چوری کے ساتھ اس کا رد (مددہ محافظ) ہو ظاہر الرویہ میں اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر ایک جماعت ہو اور چوری کرنے کا مباشر اس میں فقط بعض ہے تو ان سب کا ہاتھ کاٹا جائے گا بشرطیکہ ہر ایک کے حصہ میں بقدر نصاب آئے اور یہ استحسان ہے خواہ مکان حرز سے سب اس چوری کے مباشر کے ساتھ نکلے ہوں یا اس کے بعد فی الفور نکلے ہوں یا وہ ان کے بعد فی الفور نکلا ہو اگر ان چوروں میں کوئی صغیر یا مجنون یا معتہ ہو یا جس کا مال چرایا ہے اس کا ذی رحم محرم ہو تو کسی کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا یہ نہر الفائق میں ہے اور اگر ایک شخص نے دوسرے کے دس درہم چرائے پھر جس کا مال چرایا ہے وہ مر گیا پھر اس میت کے وارث دس آدمی ہوئے تو ان کو اختیار ہوگا کہ چوری مذکور کی بابت چور کا ہاتھ کنوا دیں اور اگر ان میں سے بعض غائب ہوں تو چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا یہاں تک کہ سب حاضر ہوں اگر زید نے عمرو کو وکیل کیا کہ تو میرے ہر حق کے مطالبہ کا وکیل ہے پس عمرو نے خالد کو پکڑا جسے زید کے دس درہم چرانے کا اقرار کیا ہے تو عمرو کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ دس درہم مال کا جس کی نسبت خالد نے اقرار کیا ہے مطالبہ کرے مگر میں اس کا ہاتھ نہ کاٹوں گا اور اگر وکیل کے واسطے خالد پر دس درہم کی ڈگری کر دی گئی پھر موکل خود حاضر ہوا تو بھی میں خالد کا ہاتھ نہ کاٹوں گا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

۱۔ ظاہر مقابل باطن ہے نہ مقابل حقیقی۔ چنانچہ اگلی عبارت سے ظاہر ہے ۱۲ منہ ۲ یعنی جو شخص چوری کر رہا ہے دوسرا اگرچہ ہاتھ سے چوری نہیں کرتا ہے مگر اس کا مددگار و محافظ ہے

سرقہ کی علت میں ہاتھ کاٹنے جانے میں غلام و آزاد برابر ہیں یہ ہدایہ میں ہے سرقہ کا ظہور دو باتوں میں سے ایک بات پائی جانے پر ہوتا ہے یعنی گواہ گواہی دیں یا مجرم خود اقرار کرے پس اگر سرقہ کا ظہور اقرار کے ساتھ ہو تو قاضی اُس سے دریافت کرے گا کہ سرقہ کیا ہے پس اگر اُس نے سرقہ کی ماہیت بیان کر دی تو قاضی اُس سے دریافت کرے گا کہ کیا چیز چرائی ہے کیوں کہ اگر مسروق (چرایا ہوا) مال نہ ہوگا تو اس کے واسطے ہاتھ کاٹنا لازم نہ آئے گا پس اگر اُس نے جنس مال بیان کی تو اُس سے مقدار مال دریافت کرے گا اور یہ اس وقت ہے کہ جو چیز اُس نے چرائی ہے وہ مجلس قضا میں حاضر نہ ہو بلکہ غائب ہو اور اگر مجلس قضا میں حاضر ہو اور جس کی یہ چیز چرائی ہے وہ اس کا مدعی ہو پس چور نے چوری کا اقرار کیا تو قاضی کو مسروق و اس کے مقدار کے دریافت کرنے کی کچھ حاجت نہیں ہے بلکہ اسی مسروق کو دیکھے گا کہ اس کے چرانے سے ہاتھ کاٹنا جاسکتا ہے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دے گا ورنہ نہیں پھر اس سے دریافت کرے گا کہ تو نے کیوں کر چرائی پھر اُس سے مکان و جگہ دریافت کرے گا مگر وقت دریافت نہ کرے گا اگرچہ اس میں تقادم عہد (درغزبانے) کا احتمال ہو پھر اُس سے دریافت کرے گا کہ کس کا مال چرایا ہے پھر جب اُس نے اس سب کو ٹھیک بیان کیا (بخلاف زنا کے) تو اب اس پر قاضی ہاتھ کاٹنے جانے کا حکم دے دے گا اور امام اعظم و امام محمد کے نزدیک ایک مرتبہ اقرار کرنا کافی ہے یہ محیط میں ہے اور امام المسلمین کے واسطے مستحب ہے کہ اس کو تلقین کرے تاکہ وہ چوری کا مقرر نہ ہو یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر چوری کا اقرار کیا پھر رجوع کیا پھر بعض مال کا اقرار کیا تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا:

اور نیز چاہیے کہ مقرر کو اقرار سے پھر جانے کی تلقین کرے کہ حیلہ اُس پر سے حد دور ہو جانے کا حاصل ہو پس اگر وہ اقرار سے پھر گیا تو ہاتھ کاٹنے جانے کے حق میں صحیح ہے یعنی ہاتھ نہ کاٹا جائے گا مگر مال تاوان نہ واجب ہونے کے حق میں نہیں صحیح ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے اور اگر اقرار کیا کہ میں نے اس سے سو درہم اس کے چرائے پھر کہا کہ مجھے وہم ہوا ہے بلکہ میں نے فلاں شخص کے سو درہم چرائے ہیں تو ان دونوں میں سے کسی کے واسطے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر اول مقرر کو مال واپس دے اور اسی کے مثل دوسرے کو واپس دے یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر اُس نے چوری کا اقرار کیا پھر رجوع کیا پھر بعض مال کا اقرار کیا تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا یہ عتابیہ میں ہے اور قدوری میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اقرار کیا کہ میں نے یہ درہم چرائے ہیں اور یہ میں نہیں جانتا ہوں کہ کس کے ہیں یا کہا کہ میں اس کے مالک کو نہیں پہچانتا ہوں تو اُس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا یہ ذخیرہ میں ہے۔

امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا کہ دو مردوں نے اقرار کیا کہ ہم نے یہ سو درہم چرائے ہیں پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ میرا مال ہے تو ان میں سے کسی کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا خواہ ان میں سے ایک نے یہ مقولہ حکم قضا ہونے سے پہلے کہا ہو یا بعد حکم قضا ہونے کے قبل ہاتھ کاٹنے جانے کے کہا ہو اسی کی امام محمد نے اصل میں تصریح کر دی ہے اس واسطے کہ باب حدود میں استیفاء کے لئے شعبہ بقضاء ثابت ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں نے فلاں شخص سے یہ کپڑا جو دونوں کے ہاتھ میں ہے چرایا ہے تو امام محمد نے یہ مسئلہ کتاب الاصل میں ذکر فرمایا اور اس کی دو صورتیں قرار دیں ایک یہ کہ دوسرے نے اس کے اقرار کی تصدیق کی پس اس صورت میں بالاجماع دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے گا دوم آنکہ دوسرے نے اس کی تکذیب کی تو اس کی دو صورتیں ہیں اول آنکہ دوسرا یہ کہے کہ میں نے چرایا نہیں ہے یہ کپڑا میرا کپڑا ہے، پس ایسی صورت میں بالاجماع ان دونوں میں سے کسی پر قطع واجب نہ ہوگا دوم آنکہ دوسرے نہ کہا کہ میں نے نہیں چرایا اور میں نہیں پہچانتا کیسا کپڑا اور اس صورت میں اختلاف ہے۔

۱۔ کیونکہ اس میں تقادم عہد سے مثل قذف کے سقوط لازم نہیں آتا ہے بخلاف حد شراب خوری وغیرہ کے کہ اس میں تقادم سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ ۲۔ بھر

ہے کہ امام ابوحنیفہ و امام محمد نے فرمایا کہ اقرار کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور ہانکار کرنے والا سو بالا جماع اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر دوسرے نے اُس کی تصدیق کی پھر اُس سے پھر گیا تو بالاتفاق اقرار کرنے والے سے قطع ساقط ہو جائے گا یہ عتابیہ میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے یہ کپڑا فلاں سے چرایا پس دوسرے نے کہا کہ تو جھوٹ بولا ہم نے نہیں چرایا ہے لیکن یہ کپڑا فلاں کا ہے تو امام اعظم کے نزدیک مقرر کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور منکر کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور ایک شخص نے دوسرے پر سرقہ کا دعویٰ کیا اور اُس نے انکار کیا تو اس سے قسم لی جائے گی پس اگر اُس نے قسم سے انکار کیا تو اُس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا لیکن مال کا ضامن ہو اور اگر اُس نے اقرار کر لیا پھر اپنے اقرار سے پھر گیا اور انکار کیا تو ہاتھ نہ کاٹا جائے گا لیکن مال کا ضامن ہوگا یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر زید نے سرقہ کا اقرار کیا پس عمرو نے کہا کہ نہیں بلکہ میں نے چرایا ہے نہ اس نے تو جس کا مال چرایا ہے وہ جس کی تصدیق کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا پس اگر اُس نے اول کی تصدیق کی پھر دوسرے کی تو ہاتھ کاٹنا مال کی ضمانت کچھ واجب نہ ہوگی اس واسطے کہ دوسرے کی تصدیق کرنا اس کی تکذیب ہے یہ عتابیہ میں ہے اور اگر مسروق منہ (جس کے ہاں چوری ہوئی) نے اول کی تصدیق کرنے کے بعد کہا کہ اس کو اول نے نہیں چرایا اور اُس کو دوسرے نے چرایا ہے تو دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا اور اول پر مال بھی واجب نہ ہوگا اور دوسرا مال کا ضامن ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے۔

اگر چور نے کہا کہ میں نے اسکو فلاں سے چرایا اور اسکو اس شخص کے پاس جسکے ہاتھ میں ہے ودیعت رکھا:

اگر اول کی تصدیق کی پھر دوسرے نے اقرار کیا پس اس کی بھی تصدیق کی تو دوسرا مقرر مال کا ضامن ہوگا اور اگر سرقہ کا اقرار کیا پھر مالک نے غصب کا دعویٰ کیا یا اس کے برعکس واقع ہو تو ہاتھ نہ کاٹا جائے گا مگر مال کا ضامن ہوگا یہ عتابیہ میں ہے اور اگر کہا کہ نہیں اور سکوت کیا پھر کہا کہ بلکہ تو نے مجھ سے غصب کر کے لے لیا ہے تو مال کا حکم نہ دیا جائے گا اور اگر اقرار کیا کہ میں نے اس طفل کے ساتھ چرایا ہے یا اس گونگے کے ساتھ چرایا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر چارے سرقہ کا اقرار کیا پھر دوسرے رجوع کیا تو ہاتھ کاٹنا نہیں جائے گا اور اسی طرح اگر دوسرے اقرار کیا پھر ایک نے رجوع کیا تو بھی یہی حکم ہے یہ عتابیہ میں ہے اور اگر زید نے اقرار کیا کہ میں نے یہ کپڑا عمرو کا چرایا ہے اور عمرو نے اقرار کیا کہ اس میں سے نصف کپڑا زید کا ہے یعنی کہا کہ اس میں سے نصف کپڑا تیرا ہے اور زید نے اس سے انکار کیا تو اُس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ محیط میں ہے اور اگر چور نے کہا کہ میں نے اس کو فلاں سے چرایا اور اس کو اس شخص کے پاس جس کے ہاتھ میں ہے ودیعت رکھا یا اس کو بہہ کر دیا یا اُس نے مجھ سے غصب کر لیا ہے اور قابض نے اُس سے انکار کیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا مگر قابض پر اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی یہ عتابیہ میں ہے۔

اگر زید نے اقرار کیا کہ میں نے اور عمرو نے خالد سے ہزار درہم چرائے تو آخر قول میں امام اعظم کے مقرر کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور یہی صاحبین کا قول ہے اور اُس کے شریک کا انتظار نہ کیا جائے گا یہ ظہیر یہ میں ہے اور نو اور بشر میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر اُس نے اقرار کیا کہ میں نے چرائے نو درہم نہیں بلکہ دس درہم تو امام اعظم کے قیاس پر اس کا ہاتھ کاٹنا لازم نہیں آتا ہے یہ محیط میں ہے متقی میں لکھا ہے کہ ایک نے کہا کہ میں نے مال فلاں سے سو درہم چرائے نہیں بلکہ دس دینار (۱۰) تو دس (۱۰) دینار کی وجہ سے اُس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور سو درہم کا وہ ضامن ہوگا اور مراد اس سے یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ

۱ یعنی وہ کیا کہتا ہے مقرر ہے یا منکر ہے۔ ۱۲ منہ

مقرلہ نے دونوں مالوں کا دعویٰ کیا ہو پس یہ امام اعظم کا قول ہے اور اگر اُس نے کہا کہ میں نے چرائے سو درہم نہیں بلکہ دو سو درہم تو اُس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور وہ ضامن نہ ہوگا اور مراد اس سے یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب مقرلہ نے فقط دو سو درہم کا دعویٰ کیا ہو یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگر اُس نے کہا کہ میں نے چرائے دو سو درہم نہیں بلکہ سو درہم تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا اور دو سو درہم کا ضامن ہوگا اس واسطے کہ اُس نے دو سو درہم چرانے کا اقرار کیا پھر اُس سے پھر گیا پس ضمان واجب ہوئی اور ہاتھ کاٹنا واجب نہ ہو اور سو درہم کا اقرار صحیح نہ ہوگا اس واسطے کہ مقرلہ اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہے اور اگر سو درہم پر رجوع کرنے میں مسروق منہ نے اس کی تصدیق کی تو ضمان بھی واجب نہ ہوگی یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر کہا کہ میں نے اس سے دس درہم چرائے نہیں بلکہ اُس سے نو تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں اول کے واسطے دس درہم کی ضمان دلو او نگا اور دوسرے (۱) کے واسطے ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا اور امام ابو یوسف فرماتے تھے کہ دوسرے کے واسطے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا یہاں تک کہ دوسرے کے واسطے ایک بار اور اقرار کرے پھر انہوں نے امام اعظم کے قول کی طرف رجوع کیا یہ محیط سرحسی میں ہے اور منقہی میں لکھا ہے کہ اگر اقرار کیا کہ میں نے اس سے دس درہم چرائے نہیں بلکہ میں نے ان کو اس سے چرائے تو فرمایا کہ میں ان دونوں کے واسطے دس درہم کا ضامن کروں گا اور ہاتھ نہیں کاٹوں گا (ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دوں گا) یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر کہا کہ میں نے چرایا یہ کپڑا اُس سے اور وہ سو درہم قیمت کا ہے پھر کہا کہ نہیں بلکہ میں نے اس دوسرے کو چرایا ہے تو امام اعظم کے نزدیک اول کی بابت ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور دوسرے کی بابت ہاتھ کاٹا جائے گا یہ محیط سرحسی میں ہے اور لڑکا یا لڑکی اقرار سرقہ کرے تو صحیح نہیں ہے اور اگر لڑکا ختم ہو یا اُس کے جماع کرنے سے حمل رہا یا لڑکی حالفہ یا حاملہ ہوئی پھر اُس نے اقرار کیا تو اقرار صحیح ہے یہ محیط میں ہے اور اگر کسی نے سرقہ کا بطوع خود اقرار کیا پھر کہا کہ یہ متاع میری متاع ہے یا کہا کہ میں نے اس کو ودیعت دی تھی یا کہا کہ میں نے اس کو اس سے بطور رہن کے بعوض اس دین کے جو میرا اس پر ہے لیا ہے تو اس مرد کے ذمہ سے ہاتھ کاٹنا دور کیا جائے گا جیسے اگر گواہوں سے سرقہ ثابت ہو ہو پھر اُس نے ایسا کہا تو یہی حکم ہے اور اگر قاضی نے کسی چور پر ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ گواہی یا باقرار دے دیا پھر جس کی چیز چرائی تھی اُس نے کہا کہ میری متاع نہیں ہے اس کی متاع ہے اُس نے مجھ سے چرائی نہیں ہے یہ میرے پاس ودیعت تھی یا کہا کہ میرے گواہوں نے جھوٹی گواہی دی یا اُس نے جھوٹا اقرار کیا یا مثل اس کے تو اس کی ذمہ سے ہاتھ کاٹنا ساقط ہو جائے گا یہ محیط میں ہے۔

زید نے عمر و پر سرقہ کا دعویٰ کیا تو مدعی پر گواہ لانے لازم ہیں اور مدعا علیہ پر قسم عائد ہوگی اور مارنا

خلاف شرح ہے اور فتویٰ دینے سے اجتناب ضروری ہے:

اور اگر کسی نے باکراہ چوری کا اقرار کیا تو اُس کا اقرار باطل ہے اور بعضے متاخرین نے اُس کے صحیح ہونے کا فتویٰ دیا ہے یہ ظہیر یہ میں ہے جس پر سرقہ کا دعویٰ کیا گیا ہے اگر اس نے سرقہ کا انکار کیا تو فقہ ابو بکر الاعمش سے مروی ہے کہ اس صورت میں امام المسلمین اپنی غالب رائے پر عمل کرے گا پس اگر اس کی غالب رائے میں آئے کہ یہ چور ہے اور مال اس کے پاس ہے تو اس کو وہ شخص جس کے واسطے اقرار کرنے والے نے اقرار کیا ۱۲ منہ ۲ مترجم کہتا ہے کہ یہ قول صحیح نہیں کیونکہ ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی مراد اس قول سے قطع ہے اور ہو سکتا ہے کہ شاید وہ قائل صحت کے ضمان کی راہ سے ہوں ۱۲ منہ

تعذیب (تعزیر) دے اور امام المسلمین کو ایسا کرنا جائز ہے اور عامہ مشائخ کے نزدیک امام المسلمین کو اس کے تعزیر دینے کا اختیار ہے جیسے کہ اس کو چوروں کے ساتھ جاتے دیکھے تو ایسا کر سکتا ہے (واسطے ظہور امر کے) یہ ذخیرہ میں ہے۔ زید نے عمرو پر سرقہ کا دعویٰ کیا تو مدعی پر گواہ لانے لازم ہیں اور مدعا علیہ پر قسم عائد ہوگی اور مارنا خلاف شرح ہے اس کا فتویٰ نہ دیا جائے گا اس واسطے کہ مفتی کا فتویٰ مطابق شرع ہونا چاہیے ہے زید نے عمرو پر چوری کا دعویٰ کر کے عمرو کو سلطان کے حضور میں پیش کیا اور درخواست کی کہ سلطان اس کو سزا دے تاکہ یہ اقرار کرے پھر اس کو سلطان نے ایک یا دو مرتبہ پٹوا کر قید خانہ میں واپس بھیج دیا پس عمرو کو پھر اپنے سزا پانے کا خوف ہوا اور وہ قید خانہ پر چڑھا پس وہاں سے گرا اور مر گیا اور اس کو اس قید خانہ میں ناحق مال دینے کا خسارہ بھی اٹھانا پڑا ہے پھر چوری مذکور کے سوائے خالد کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی تو وارثان عمرو کو اختیار ہوگا کہ زید سے اپنے مورث کی دیت اور جو کچھ مالی خسارہ لاحق ہوا ہے سب لے لیں اس واسطے کہ یہ سب اسی زید کے سبب سے پہنچا ہے اور زید اس سبب کے برا بیخنتہ کرنے میں ظالم ہے یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔

اگر چوری کا اقرار کیا پھر بھاگا تو کبھی اس کا پیچھا نہ کیا جائے گا نہ فی الفور نہ بعد بخلاف اس کے اگر گواہوں کی گواہی سے اس پر چوری ثابت ہوئی پھر بھاگا تو فی الفور اس کا پیچھا کیا جائے گا اور ہاتھ کاٹا جائے گا یہ محیط میں ہے اگر کسی نے کہا کہ انا سارق هذا الثواب یعنی قاف کو تنوین دی اور باء موحده کو زبردیا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اگر اس نے سارق هذا الثواب کہا یعنی باضافت تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ ظہیر یہ میں ہے امام محمد نے فرمایا کہ زید کے غلام کے ہاتھ میں دس درہم ہیں اس نے اقرار کیا کہ میں نے یہ درہم عمرو کے چرائے ہیں پس اگر ایسا غلام ہو کہ اس کو تجارت کرنے کی اجازت ہے یا مکاتب ہو اور اس نے ایسے مال کے سرقہ کا جس کو وہ تلف کر چکا ہے یا موجود ہے اقرار کیا تو اس کا اقرار ہاتھ کاٹنے اور ضمان مال دونوں کے حق میں صحیح ہے پس اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور مال مسروقہ اگر موجود ہو تو واپس دیا جائے گا اور اگر غلام مجبور ہو یعنی تصرفات سے ممنوع ہو پس اگر اس نے ایسے سرقہ کا اقرار کیا (مال) جس کو وہ تلف کر چکا ہے تو اس کا اقرار ہاتھ کاٹنے جانے کے حق میں صحیح ہے اور اگر اس نے ایسے مال کے سرقہ کا جو بعینہ اس کے ہاتھ میں موجود ہے اقرار کیا پس اگر مولیٰ نے اس کی تصدیق کی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور مال مسروقہ اس کے (مال کے) مالک کو واپس کیا جائے گا اور اگر مولیٰ نے مال کے حق میں اس کی تکذیب کی کہ یہ مال میرا ہے تو بنا بر قول امام اعظم کے اس صورت میں بھی اس کا اقرار حق قطع و مال دونوں میں صحیح ہے پس غلام کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور مال مذکور اس کے مالک کو واپس دیا جائے گا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر سرقہ کا ظہور گواہی (ثبوت) پر ہو تو شرط ہے کہ دو مرد عادل گواہ ہوں اور خالی عورتوں کی گواہی اس میں مقبول نہ ہوگی نہ حق مال (مال مسروق) میں اور نہ حق قطع (ہاتھ کاٹا جانا) میں اور مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی حق مال میں ہمارے نزدیک مقبول ہے اور حق قطع میں نہیں مقبول ہوگی اور ایسا ہی اگر گواہی پر گواہی ہو تو وہ بھی ہمارے نزدیک حق مال میں مقبول ہے اور ہاتھ کاٹنے جانے کے حق میں نہیں مقبول ہے جب دو مرد عادل نے سرقہ کی گواہی دی تو قاضی مال و قطع دونوں کے حق میں یہ گواہی قبول کرے گا پھر دونوں گواہوں سے دریافت کرے گا کہ سرقہ کیا چیز ہے پھر مال مسروق کی جنس و مقدار دریافت کرے گا بشرطیکہ مال مسروق کچھری قاضی میں حاضر نہ ہو اور اگر مجلس قضا میں حاضر ہو تو ان سے مال مسروق کی جنس مقدار دریافت نہ کرے گا لیکن سرقہ پر نظر کرے گا جسے ہم نے فصل اقرار میں بیان کیا ہے۔ پھر دونوں سے دریافت کرے گا کہ کیونکہ چوری کی اور گواہوں سے مکان و وقت و مسروق منہ کو بھی دریافت کرے گا پس جب انہوں نے اس سب کو ٹھیک بیان کیا اور قاضی ان گواہوں کی

۱۔ اور اگر وہ یوگنی تو امید ہے کہ حد دور ہو مگر مال کا ضمان ہوگا۔ ۲۔ یعنی اصلی گواہوں نے اپنی گواہی پر اوروں کو گواہ کر دیا۔ کماذکر فی باب الشادات۔

عدالت سے آگاہ ہے تو سارق پر ہاتھ کاٹے جانے کا حکم دے دے گا اور اگر وہ گواہوں کی عدالت سے واقف نہ ہو تو اس پر ہاتھ کاٹے جانے کا حکم نہ دے گا جب تک کہ گواہوں کا حال دریافت نہ کرے اور عدالت ظاہر ہونے تک سارق کو قید رکھے گا پھر اس حالت میں کہ وہ قید ہے اگر گواہوں کی عدالت ظاہر ہو گئی پس اگر مسروق منہ حاضر ہو تو قاضی چور پر ہاتھ کاٹے جانے کا حکم دے دے گا اور وہ غائب ہو تو سارق کے ہاتھ کاٹے جانے کا حکم نہ دے گا اور اگر مسروق منہ حاضر ہو اور قاضی نے چور پر ہاتھ کاٹے جانے کا حکم دے دیا پھر استیفاء قطع سے پہلے مسروق منہ غائب ہو گیا تو امام محمدؒ نے اس صورت کو کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ واجب ہے کہ اس میں امام اعظم کے دو قول ہوں کہ بر قول اول ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور بر قول دوم نہیں کاٹا جائے گا اور ان میں سے بعض نے فرمایا کہ استیفاء قطع امام اعظم کے اول و آخر دونوں قولوں کے موافق ممنوع ہے اور اگر وہ گواہوں نے چوری پر گواہی دی پھر ان دونوں کی عدالت ظاہر ہونے کے بعد دونوں غائب ہو گئے یا مر گئے اور بنو ز قاضی نے حکم نہیں دیا یا جاری نہیں ہوا ہے تو ان دونوں صورتوں میں امام اعظم کے اول قول کے موافق قاضی کچھ حکم نہ دے گا اور نہ نافذ کرے گا اور دوسرے قول کے موافق حکم دے کر نافذ کر دے گا اور اگر دونوں گواہ فاسق یا مرتد یا اندھے ہو گئے یا دونوں کی عقل جاتی رہی پس اگر ایسا امر قبل حکم قضاء کے واقع ہوا تو حکم قضا ہونے سے مانع ہے اور اگر یہ امور بعد حکم ہونے کے قبل پیش آئے تو جاری ہونے سے مانع ہوں گے اور اگر وہ گواہوں نے دو مردوں پر گواہی دی کہ فلاں و فلاں دونوں نے فلاں شخص کی چوری کی اور دونوں گواہوں نے سرقہ بیان کیا اور جن دونوں پر گواہی دی ہے ان میں سے ایک غائب ہے نہیں ملا اور ہاتھ نہیں آیا تو بنا بر آخر قول امام ابو حنیفہ کے اور وہی صاحبین کا قول ہے یہ حکم ہے کہ جو حاضر ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا پھر جو غائب ہے جب حاضر ہو اور مالک مال اس کو قاضی کے حضور میں لے گیا تو قاضی اس کو حکم دے گا کہ دوبارہ گواہ پیش کرے یہ محیط میں ہے۔

اگر امام المسلمین نے کسی چور کے ہاتھ کاٹے جانے کا حکم دے دیا پھر مسروق منہ نے اس کو عفو کر دیا کیا تو اس کا عفو کرنا باطل ہے یہ ایضاً میں لکھا ہے اگر دو کافروں نے ایک کافر و ایک مسلمان پر سرقہ کی گواہی دی تو کافر کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا جیسے مسلمان کا ہاتھ نہک اٹا جائے گا اگر دو گواہوں نے ایک آدمی پر گواہی دی کہ اس نے گائے چرائی ہے اور دونوں نے اس کے رنگ میں اختلاف کیا کہ دونوں میں سے ایک نے کہا کہ وہ سفید تھی اور دوسرے نے کہا کہ سیاہ تھی تو امام اعظم کے نزدیک گواہی مقبول ہوگی اور صاحبین نے اس میں خلاف کیا ہے اور کرنخی نے فرمایا کہ یہ اختلاف ایسے دو رنگوں میں ہے جو باہم متشابہ ہوں جیسے سرخی و زردی اور جو باہم متشابہ نہیں ہیں جیسے سپیدی و سیاہی تو یہ گواہی بالا جماع مقبول نہ ہوگی اور صحیح یہ ہے کہ سب میں اختلاف ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ اس نے نیل چرایا اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے گائے چرائی تو بالا جماع گواہی مقبول نہ ہوگا اور اگر دونوں نے گواہی دی کہ اس نے کپڑا چرایا ہے مگر ایک نے کہا کہ کپڑا ہر وی تھا اور دوسرے نے کہا کہ وہ مروی تھا تو نسخ ابی سلیمان میں مذکور ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے اور نسخ ابو حفص میں مذکور ہے کہ بالا جماع ایسی گواہی مقبول نہ ہوگی جس پر سرقہ کی گواہی دی گئی ہے اگر اس نے کہا کہ یہ میرا اسباب ہے کہ میں نے اس کے پاس رکھوایا تھا اور یہ منکر ہو گیا تھا یا میں نے اس سے خریدا تھا یا کہا کہ اس نے اقرار کیا تھا کہ یہ میرا ہے تو ان سب صورتوں میں چور کے ذمہ سے حد ساقط کی جائے گی یہ محیط میں ہے اور اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ یہ مال اس زید نے چرایا ہے اور دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہ یہ مال اس عمرو نے چرایا اور مسروق منہ یعنی جس کا مال چرایا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ زید نے چرایا ہے تو زید کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اور اگر گواہوں نے ایک غلام ماذون پر دس درہم یا زیادہ کے سرقہ کی گواہی دی اور غلام منکر ہے پس اگر اُس کا مولیٰ حاضر ہو تو بالاتفاق سب اماموں کے نزدیک غلام کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور مال مسروق کی نسبت یہ حکم ہے کہ اگر غلام نے اس کو تلف کر دیا ہو تو ضامن نہ ہوگا اور اگر بعینہ قائم ہو تو مسروق منہ کو واپس کر دے گا اور اگر مولیٰ غائب ہو تو امام اعظم و امام محمد کے نزدیک غلام کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا اور مال مسروق کا ضامن ہوگا اور اگر گواہوں نے دس درہم سے کم چرائے کی گواہی دی تو قاضی مال مذکور دینے کا حکم کرے گا اور ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ کرے گا خواہ مولیٰ حاضر ہو یا غائب ہو اور اگر گواہوں نے غلام ماذون کے دس درہم چرانے کے اقرار کی گواہی دی تو امام اعظم و امام محمد کے نزدیک قاضی اس پر مال کا حکم دے دے گا اور ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دے گا اور اگر کسی غلام مجبور پر دس (۱۰) درہم یا زیادہ چرانے کی گواہی دی تو امام اعظم و امام محمد کے نزدیک قاضی اس پر کچھ حکم نہ دے گا نہ ہاتھ کاٹنے کا اور مال کا اور اگر گواہوں نے غلام مجبور کے اقرار سرقہ کی گواہی دی تو قاضی ایسی گواہی کو کسی طرح قبول نہ کرے گا خواہ مولیٰ حاضر ہو یا غائب ہو حتیٰ کہ غلام کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا اور نہ مال کے واسطے مولیٰ اُس کے فروخت کرنے کے لیے ماخوذ ہوگا مگر غلام بعد اپنے آزاد ہونے کے مال کے واسطے ماخوذ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔

پس اگر کسی کے گھر میں داخل ہوا (چور چکا) جہاں متاع محفوظ ہے اور اُس نے متاع کو لے لیا اور اُس کو باہر نکالا تو مالک کو اختیار (ردا) ہے کہ اس کو قتل کر دے اور نوادر ابن سماعہ میں ہے کہ امام محمد نے فرمایا کہ اگر چور سیندھ دیتا ہو کوٹھری (گھر میں) میں اور مالک نے اس کو دیکھ کر چلانا شروع کیا پس اگر وہ بھاگ گیا تو خیر ورنہ اس کو روا ہے کہ چور کو قتل کرے اور نوادر ابن رستم میں قول امام محمد اس طرح مذکور ہے کہ امام محمد نے کہا کہ اگر چور مکان میں سیندھ دیتا ہو اور مالک نے اس کو قتل کر دیا تو کیا اس کی دیت کا ضامن ہوگا پس امام اعظم نے فرمایا کہ اُس کو قتل کرنا روا ہے اور دیت کا ضامن نہ ہوگا اور مجر د اور نوادر ابن سماعہ میں امام محمد سے مروی ہے کہ اگر چور کسی کے دار میں داخل ہو اور مالک مکان کو معلوم ہو اور یہ بھی جانا کہ میں اس کو پکڑ نہیں سکتا ہوں تو اس کو روا ہے کہ قتل کر دے خواہ وہ مکا برہ سے داخل ہو یا غیر مکا برہ سے مگر حال یہ ہو کہ اُس کے مال چرالے جانے کا ارادہ رکھتا ہو پس اگر اس کو قتل کر دیا تو قاتل پر قصاص و دیت کچھ لازم نہ ہوگی یہ محیط سرحسی میں ہے۔

ایک شخص دوسرے کے یہاں رات کو داخل ہوا اور مال چرا کر اس کو دار سے باہر نکال لایا پھر مالک مال

اُس کے پیچھے دوڑا اور اُس کو قتل کر ڈالا تو مالک پر کچھ نہیں ہے:

فتاویٰ اہل سمرقند میں لکھا ہے کہ چور نے ایک شخص کی دیوار میں سیندھ لگانی شروع کی اور ہنوز سوراخ نہ ہونے پایا تھا کہ مالک نے اُس کو دیکھ کر اوپر سے ایک پتھر ڈال دیا کہ وہ مر گیا تو مالک کی مددگار برادری پر اس کی دیت واجب ہوگی اور مالک مذکور پر قتل لازم آئے گا یہ ذخیرہ میں ہے فتاویٰ ابواللیث میں مذکور ہے کہ ایک شخص دوسرے کی دیوار پر چڑھا بغرض چوری کے اور دیوار پر چادر پڑی ہے پس مالک دیوار کو خوف ہوا کہ اگر میں چلایا تو یہ چادر لے کر چل دے گا پس آیا مالک کو حلال کہ اس کو پھینک مارے تو فرمایا کہ ہاں اس کو روا ہے بشرطیکہ چادر دس درہم یا زیادہ کی ہو اور فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ ہمارے اصحاب نے اس مقدار کی شرط نہیں لگائی ہے بلکہ مطلقاً فرمایا ہے کہ اُس کو تیر وغیرہ مار دینے کا اختیار ہے۔ جنایات الجامع الصغیر میں مذکور ہے کہ ایک شخص دوسرے کے یہاں رات کو داخل ہوا اور مال چرا کر اس کو دار سے باہر نکال لایا پھر مالک مال اُس کے پیچھے دوڑا اور اُس کو قتل کر ڈالا تو مالک

پر کچھ نہیں ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسی صورت میں ہے کہ سوائے قتل کرنے کے اور کسی طرح اس سے مال واپس نہ دے سکتا ہو پس جب کہ ایسی صورت ہو تو اُس کو قتل کرنا روا ہے اور قاتل پر ضمان واجب نہ ہوگی اور منقہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک گروہ روٹی ہو اور دوسرے نے اس سے چھین لینی چاہی تو مالک کو روا ہے کہ اس سے تلوار سے مقابلہ کرے جب کہ اپنے نفس پر بھوک سے خائف ہو اور اسی طرح اگر اس کے پینے کا پانی ہو تو اس میں بھی یہی حکم ہے یہ محیط میں ہے۔

قال المترجم جب اپنے نفس پر خائف ہو بھوک یا پیاس سے یہ عام ہے خواہ ملک ایسا ہو جہاں کثرت سے پانی ملتا ہے یا مثل عرب وغیرہ کے ہونا فہم۔ ایک چور معروف ہے یعنی مشہور چور ہے اس کو کسی نے ایسی حالت میں پایا کہ وہ چوری میں نہیں مشغول تھا بلکہ اپنی اور ضرورت میں مشغول تھا تو اس کو قتل کرنا روا نہیں ہے ہاں اس کو پکڑ کر امام المسلمین کے پاس لائے تاکہ امام اُس کو قید کر کے توبہ کرائے یہ ظہیر یہ میں ہے اگر مالک مال چور پر چلا یا کہ وہ بھاگ گیا تو مالک کو پیچھا کر کے اس کو مارنا روا نہیں ہے الا آنکہ اُس کا کچھ مال لے بھاگا ہو تو حلال ہے کہ اس کا پیچھا کر کے اس کو ہتھیار سے مارے یہاں تک کہ اُس کا مال ڈال دے یہ محیط میں ہے اور مدعی کے حق میں مستحب ہے کہ جب چور پر دعویٰ کرے تو باس لفظ دعویٰ کرے کہ اُس نے لے لیا نہ بلفظ سرقہ اسی طرح گواہوں کے حق میں مستحب ہے کہ چرانے کی لفظ سے گواہی نہ دیں بلکہ لے لینے کی گواہی دیں یا یوں کہیں کہ یہ مال اس طالب (مدعی) کا ہے تاکہ ہاتھ کاٹنے کی حد چور کے ذمہ سے ساقط ہو جائے۔ ایک نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے یہ مال چرا لیا ہے پس چور نے کہا کہ ہاں میں نے لے لیا ہے تو وہ مال کا ضامن ہوگا اور اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اگر چہ اس کے بعد وہ چرا لینے کا بھی اقرار کرے یہ سراجیہ میں ہے۔

ایک نے دوسرے پر سرقہ کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اُس سے انکار کیا تو امام اعظم نے فرمایا کہ اس سے قسم لی جائے گی پس اگر اُس نے قسم سے انکار کیا تو اس پر مال کا حکم دیا جائے گا اور ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا کذا فی الظہیر یہ اور اسی طرح اگر اُس نے اقرار سے رجوع کر لیا تو بھی یہی حکم ہے اور اسی طرح گواہی کی صورت میں اگر ایسا ہوا (یعنی رجوع کر لیا) تو یہی حکم ہے کہ مال کا ضامن ہوگا اور ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ عمدیہ میں ہے اور دو گواہوں نے ایک شخص پر چوری کی گواہی دی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا پھر گواہوں نے رجوع کیا کہ یہ نہیں بلکہ فلاں دوسرا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اول کی دیت کے دونوں گواہ ضامن ہوں گئے اور اگر دوسرے دو گواہوں نے اول گواہوں کے رجوع کر لینے پر گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی اور اُس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ دو گواہوں نے چور کے اقرار سرقہ پر گواہی دی اور منکر ہے یا خاموش ہے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا اور اگر چار نے گواہی دی پھر دو نے رجوع کیا اور دوسرے شخص پر چوری کی گواہی دی تو ان دونوں مشہور علیہا میں سے کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور مال کا حکم اول پر دیا جائے گا، یہ تاتار خانہ میں ہے۔

باب : ۲

ان صورتوں کے بیان میں جن میں ہاتھ کاٹا جائے گا اور جن میں نہ کاٹا جائے گا

اس میں تین فصلیں ہیں

فصل : ۱

جن صورتوں میں ہاتھ کاٹا جائے گا

جو چیز نافہ مباح دارالاسلام میں پائی جاتی ہے اُس کی چوری میں ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے جیسے جلانے کی لکڑیاں و گھاس و زرکل و مچھلیاں و زرخ و مغرہ و نورہ و غیرہ اور چھلی میں نمک دی ہوئی اور تازی دونوں داخل ہیں یہ ہدایہ میں ہے اور ساکھو و قنا و آنوس و صندل و سبز گننے (بیرا غیرہ) و یاقوت و زبرجد میں ہاتھ کاٹا جائے گا کذا فی الکافی حاصل آنکہ جملہ جواہر میں ہاتھ کاٹا جائے گا یہ غیاثیہ میں ہے اور سونا و چاندی و موتی و فیروزہ ان چیزوں میں ہشام نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ اگر اُس نے ان چیزوں کو ایسی صورت پر چرایا کہ جیسی مباح پائی جاتی ہیں یعنی مٹی میں ملی ہوئی اور پتھر میں مخلوط تو ہاتھ کاٹنا واجب نہ ہوگا اور ظاہر الروایت کے موافق بہر حال ہاتھ کاٹنا واجب ہوگا اور جس لکڑی سے (جسے چرانے سے) ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے اگر اس کا تخت یا کرسی یا دروازہ بنایا پھر اس کو کسی نے چرایا تو ہاتھ کاٹا جائے گا اور گھاس و زرکل و پتر میں جیسے قبل عمل کے ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا ویسے ہی اگر اس کی چٹائی و غیرہ بنائی تو بھی ہاتھ نہ کاٹا جائے گا یعنی مثلاً اُس کا بور یا بنایا جس کو کسی نے چرایا تو اُس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر بورے کے اصل مال پر دست کاری غالب ہو جیسے بغدادی و جر جانی چٹائیاں ہوتی ہیں کہ ان کی بناوٹ ہی کی قیمت کہلاتی ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ اس میں بھی ہاتھ کاٹا جائے گا یہ کافی میں ہے اور دروازوں کے سرقہ میں جب ہی ہاتھ کاٹا جائے گا کہ جب وہ حرز میں ہوں اور خفیف ہوں کہ ایک آدمی پر اُن کا اٹھالے جانا بھاری نہ ہو اس واسطے کہ بھاری دروازوں کی چوری پر رغبت نہیں کی جاتی ہے اور اگر در سے مرکب ہوں تو ان کے سرقہ میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ تبیین میں ہے اور جو چیزیں جلد ناسد و بگڑ جاتی ہیں جیسے دودھ و گوشت و فواکہ تر اُن کی چوری سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ ہدایہ میں ہے اور فواکہ خشک جو لوگوں کے پاس رہتے ہیں جیسے اخروٹ و بادام تو ان کے چرانے میں ہاتھ کاٹا جائے گا بشرطیکہ وہ حرز میں ہو اور جو فواکہ درخت پر ہوں اور جو کھیتی ہنوز کافی نہ گئی ہو تو اُسکی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اگر فواکہ بعد استحکام کے توڑا گیا اور کھیتی کاٹ کر کسی احاطہ میں جس کا دروازہ متفضل ہے رکھی گئی تو اُس کی چوری سے ہاتھ کاٹا جائے گا یہ سراج و ہاج میں ہے۔

گوشت سے جو ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے تو یہ عام ہے خواہ گوشت نمک دیا ہو یا غیر اس کا ہو یہ فتح القدر میں ہے اور اگر ایک نے دوسرے سے طعام چرایا حالانکہ ایسے سال میں چرایا کہ قحط ہے تو اس کی چوری سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا خواہ ایسا طعام ہو کہ جلد بگڑتا جاتا ہے یا جلد نہ ہو خواہ محرز ہو یا نہ ہو اور اگر سال فراہمی ہو پس اگر طعام ایسا ہو کہ جلد بگڑتا ہے تو بھی یہی حکم ہے اور اگر طعام ایسا ہو کہ جلد نہیں بگڑتا ہے اور وہ محرز ہو تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ پھلوں میں بھی اسی تفصیل سے یہی حکم ہے یعنی اگر سال قحط ہو تو پھلوں کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا خواہ ایسے پھل ہوں کہ جلد بگڑ جاتے ہوں یا جلد نہ

بگڑتے ہوں خواہ پھل درخت پر سے چرائے ہوں یا محرز ہوں اور اگر سال آسودگی ہو تو جلد بگڑنے والے پھلوں کی چوری سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور خواہ درخت پر سے لیے ہوں یا اور جگہ محرز ہوں اور اگر پھل ایسے ہوں کہ جلد نہ بگڑتے ہوں اور محرز ہوں تو ان کی چوری سے ہاتھ کاٹا جائے گا یہ ذخیرہ میں ہے۔

ثرید و روٹی کے چرانے میں ہاتھ کاٹنا نہیں آتا:

تمام حبوب میں اور روغنوں (کھی تیل یا چربی) میں اور طیب و عود و مشک ان سب کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا اور اسی طرح اگر روٹی یا کتان یا صوف کو چرایا تو بھی ہاتھ کاٹا جائے گا اور اسی طرح اگر گےہوں یا جو یا آٹا یا ستویا چھٹی یا چھوہارے یا منقہ یا روغن زیتون کو چرایا تو ہاتھ کاٹا جائے گا اور اسی طرح پہنے کی چیزوں اور فروش اور نیز لوہے و پیتل و جست کے برتنوں (یا تانبہ) اور لکڑی اور چمڑے کمائے ہوئے اور کاغذ و چھریاں و قینچیاں و ترازوئیں اور رسیاں چرانے میں بھی ہاتھ کاٹا جائے گا (بشرطیکہ نصاب سرقہ پورا ہو) اور پتھروں کے چرانے میں ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے یہ سراج و ہاج میں ہے اور خام کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے اور نیز پتھروں کی ہانڈیاں چرانے سے بھی ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے اور نمک چرانے سے بھی ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے یہ تمبین میں ہے اور امام اعظمؒ نے فرمایا کہ سینگوں کی چوری میں ہاتھ کاٹنا نہیں ہے خواہ معمولہ ہوں یا غیر معمولہ ہوں یعنی بنائے ہوئے ہوں یا کمائے ہوئے نہ ہوں اور اگر کوئی درخت جڑ سمیت باغ سے چرایا حالانکہ وہ دس درہم کا ہے تو اس میں ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے یہ سراج و ہاج میں ہے اور سرکہ (صاف کیا ہوا) و شہد کی چوری میں بالاتفاق ہاتھ کاٹا جاتا ہے یہ شرح مجمع البحرین میں ہے تا جراہل عدل سے کسی باغی نے کچھ چرایا در حالیکہ وہ ان کے درمیان تھا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ تارخانہ میں ہے اور شکر چرانے سے بالا جماع کاٹا جائے گا یہ ہدایہ میں ہے اور امام محمدؒ سے مروی ہے ہاتھی دانت چرانے میں جب کہ اس سے کوئی چیز نہیں بنائی گئی ہے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ ہاتھی دانت خواہ معمولہ ہو یا غیر معمولہ واجب ہے کہ اس میں ہاتھ نہ کاٹا جائے اس واسطے کہ اس کے مال ہونے میں اختلاف ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ یہ حکم جو امام محمدؒ نے ذکر فرمایا ہے واجب ہے کہ ایسے ہاتھی دانت میں ہو جو پائتخو انہائے جمال ہے اور ہاتھی دانت غیر معمولہ میں اس واسطے ہاتھ نہ کاٹا جائے گا وہ مباح میں سے ہے اور معمولہ میں اس واسطے ہاتھ کاٹا جاتا ہے کہ اس میں صنعت غالب (ہاتھی دانت پر صنعت غالب ہوتی ہے) ہے۔ پس ایسا ہو گیا جیسے معمولہ لکڑی کڈانی الا ایضاح یعنی جیسے لکڑی مباح ہوتی ہے مگر جب اس کے تحت وغیرہ بنائے گئے تو ان کے چرانے سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے ویسا ہی یہاں ہی فافہم اور ظاہر الروایۃ کے موافق آگینہ کی چوری سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ فتح القدر میں ہے۔

صید کے چرانے میں ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے خواہ صید وحشی ہو یا غیر وحشی ہو خواہ خشکی کی ہو یا تری کی یہ تارخانہ میں ہے اور حنا کی چوری میں ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے اور نہ بقول کی چوری میں اور نہ ریحان رطب یعنی تر و تازہ میں اور نیز انجیر د پانی و خرما کی گٹھلیاں چرانے سے ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے اور اگر درندہ جانوروں کو ذبح کیا گیا ہو اور ان کی کھال کسی نے چورائی تو ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے الا اس صورت میں کہ اس کھال کا بچھونا یا مصلے بنایا گیا ہو اور نیز ایسے برتن و ہانڈی کے چرانے میں جس میں طعام ہی ہاتھ

۱۔ لکڑی یعنی جو تخت و چپت وغیرہ کے کام میں آتی ہے بشرطیکہ وہ اپنی حرز میں کر لی ہوں۔ ۱۴۔ منہ ۲۔ مترجم کے نزدیک شاید ملح و جوارہ درخام سے وہ مراد ہے جو محرز نہ ہو ورنہ ایسی چیزیں جو مباح ہوتی ہیں بعد احراز کے اس کی ملک ہو جاتی ہیں جس نے ان کو احراز کیا۔ پس اگر وہ منقومہ ہوں گی تو قطع واجب ہوگا خصوصاً اس دیار میں جہاں ان کی باہم تجارت متعارف ہو و اللہ اعلم۔ لیکن ظاہر الروایۃ میں ہے کہ ایسی اشیاء میں قطع ہوگا خواہ وہ محرز ہوں یا نہ ہوں اور خواہ وہ ایسی ہوں کہ ان میں دستکاری کی گئی ہو یا نہیں اور یہی صحیح ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ۱۴۔ منہ۔

کاٹنا نہیں آتا ہے اور باز یا صقر^۱ وغیرہ تمام پرندوں کے چرانے میں ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے اور نیز و خوش کے چرانے میں ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے اور کتے اور چھتے کے چرانے سے ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے اور مرغی اور ربط اور کبوتر کے چرانے میں ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے یہ تمر تاشی میں ہے اور مشروبات تین درجہ کے ہوتے ہیں اول حلال جیسے فقاع کے مانند چیزیں پس ان کی چوری سے ہاتھ کاٹنا لازم آتا ہے اور دوم شراب نقیج التمر والنزیب چھو ہارے و منقے کو بھگو کر ان کا آب رلال لیتے ہیں اور صحیح یہ ہے کہ اس کے چرانے میں ہاتھ کاٹنا جائے گا اور سوم وغیرہ مسکرات پس ان کے چرانے میں ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے اور دو شتاب انگور میں ہاتھ کاٹنا جائے گا اور تمبر و فومز مارا اور ہر شے ملاہی کے چرانے میں قطع نہیں ہے یہ سراج و ہاج میں ہے اور طبل و ربط میں قطع نہیں ہے اور یہ حکم اس وقت ہے کہ اس نے طبل لہو چرایا ہو اور اگر غازیوں کا طبل چرایا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے جب کہ اس کی قیمت دس درہم ہو اور صدر شہید نے اختیار کیا ہے کہ ہاتھ کاٹنا نہیں واجب ہوتا ہے یہ محیط میں ہے اور یہی اصح ہے اور ولوالجیہ میں ہے کہ یہی مختار ہے یہ نہر الفائق میں ہے اور ثرید و رونی کے چرانے میں ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے یہ سراج و ہاج میں ہے اور نوادر ابو یوسف میں ہے کہ رب و جلاب میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے یہ یعنی شرح کنز میں ہے اور اگر ذمی نے ذمی کی خمر (شراب انگوری) یعنی شراب چرائی تو چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا یہ ایضاً میں ہے اور شرطیہ چرانے میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا اگر چہ سونے کی ہو اور نرد کا بھی یہی حکم ہے یہ محیط میں ہے اور مصحف مجید کے چرانے میں ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے اگر چہ اس پر ہزار درہم کا ہلیہ چڑھا ہو اور اسی طرح کتب فقہ و لغت و نحو و شعر کی کتابوں کے چرانے میں بھی ہاتھ نہ کاٹا جائے گا یہ سراج و ہاج میں ہے۔

اگر کسی نے سادے مجلد (جلد بندھے) اور اوراق کو قبل اس کے کہ ان میں کچھ لکھا جائے چرایا تو چور کا ہاتھ کاٹنا جائے گا جبکہ نصاب پورا ہو یہ محیط سرخسی میں ہے اور دفتر ہائے حساب (کھاتے) کے چرانے میں چور کا ہاتھ کاٹنا جاتا ہے یہ محیط میں ہے اور دفتر ہائے حساب سے وہ دفتر مراد ہیں جن کا حساب کتاب ہو چکا ہے اور اگر وہ ہنوز حساب میں ہوں ان کا حساب نہ گذر گیا ہو تو ہاتھ نہ کاٹا جائے گا اور دفتر ہائے قبچاء کے چرانے میں ہاتھ کاٹنا جاتا ہے اس واسطے کہ ان سے مقصود ورق ہیں یہ سراج و ہاج میں ہے اور تھوں کی ڈنڈیاں چرانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اگر اس کو خدنگ یعنی تیر بنا لیا پھر چور نے چرایا تو ہاتھ کاٹنا جائے گا یہ ذنیہ میں ہے اور سونے یا چاندی کی صلیب یا سونے و چاندی کے بت چرانے سے ہاتھ کاٹنا نہیں لازم آتا ہے اور جن ورموں پر تصاویر ہیں ان کے چرانے سے قطع لازم آئے گا اس واسطے کہ وہ عبادت کے واسطے نہیں رکھے گئے ہیں یہ جوہرہ نیرہ میں ہے اور زعفران و عنبر و ورس و وسد و کتم کی چوری سے قطع دست ہو گا یہ عتابیہ میں ہے اور اگر غلام اتنا بڑا ہو کہ میتز اپنے نفس کا معبر ہو تو اس کے چرانے سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اگر چہ وہ سوتا ہو یا مجنون یا اعمی ہو اس واسطے کہ یہ چوری نہیں ہے بلکہ غصب ہے یا فریب دہی و بہکانا ہے یہ نہر الفائق میں ہے اور اگر غلام غیر میتز ہو کہ اپنے نفس سے تعبیر نہ کر سکے تو بالا جماع اس کے چرانے سے ہاتھ کاٹنا جائے گا یہ فتح القدیر میں ہے اور منقہی میں لکھا ہے کہ اگر غلام صغیر پانچ درہم قیمت کا جس کے کان میں پانچ درہم کا موتی ہے کسی نے چرایا تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا یہ محیط میں ہے۔ اگر زید کے عمرو پر اس درہم قرضہ ہوں پس زید نے عمرو کے بیت سے اس کے مثل چرایے پس اگر قرضہ ایسا ہو کہ فی الحال ادا کرنا چاہیے ہے تو اس صورت میں اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا اور اگر قرضہ میعادی

۱۔ صقر ایک پرندہ شکاری ہے اور وہ قد و قامت میں چیل سے بڑا ہوتا ہے ہندی میں اس میں گلڑ کہتے ہیں اور اکثر کبوتر کو شکار کرتا ہے ۱۲ منہ ۲۔ آلات سازی ۱۳ ۳۔ یعنی اس کی زبان یہاں کی زبان نہ ہو ۱۲ منہ (یعنی مقامی زبان نہ ہو حافظ)

ہو تو قیاس یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے اور استحساناً ہاتھ نہ کاٹا جائے گا خواہ جو کچھ اس نے لیا ہے وہ بقدر اس کے مال کے ہو یا زیادہ ہو یا کم ہو اور اگر زید نے اس کا عوض مساوی دس درہم کے چرایا ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا لیکن اگر زید نے کہا کہ میں نے اس کو اپنے حق کے عوض رہن لیا ہے یا اپنے حق کی ادائیگی میں لیا ہے اور اس کی تصریح کر دی بالا جماع اس کے ذمہ سے حدود کی جائے گی اور اگر اس نے اپنے حق سے جید قسم کے درہم لے لیں یا اس سے کھوٹے لے لیے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ سراج و ہاج میں ہے۔

اگر مکاتب یا غلام نے مولیٰ کے قرض دار سے کچھ چرایا تو ہاتھ کاٹا جائے گا:

اگر اپنے حق کی جنس کے خلاف جنس کا نقد لیا ہو تو صحیح یہ ہے کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ تمین میں ہے اور اگر چاندی کا زیور چرایا حالانکہ قرض دار پر درہم قرضہ ہیں یا سونے کا زیور چرایا حالانکہ قرض دار پر دینار ہیں تو ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر متاع یا زیور کو چور نے تلف کر دیا اور اس پر اس کی قیمت واجب ہوئی اور وہ مثل اسی کے ہے جو قرض دار پر قرضہ آتا ہے تو بھی ہاتھ کاٹا جائے گا یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر مکاتب یا غلام نے مولیٰ کے قرض دار سے کچھ چرایا تو ہاتھ کاٹا جائے گا الا آنکہ ان کے مولیٰ نے ان کو اپنا مال وصول کرنے کا وکیل کیا ہو تو ایسی صورت میں ہاتھ کاٹنا واجب نہ ہوگا اور اگر کسی نے اپنے باپ کے قرض دار یا بالغ پسر یا اپنے مکاتب کے قرض دار سے چرایا تو ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر اپنے صغیر پسر کے قرض دار سے چرایا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ غایۃ البیان میں ہے۔ اگر اپنے غلام مازوں مدیوں کے قرض دار سے کچھ چرایا تو ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر غلام مذکور مدیوں نہ ہو یعنی قرض دار نہ ہو تو اس کا قرضہ خود مولیٰ کا مال ہوگا پس چوری سے ہاتھ نہ کاٹا جائے گا بشرطیکہ چوری کا مال اس کی جنس حق سے ہو یہ ایضاً میں ہے۔ اگر چوری ایسی دو چیزوں کی واقع ہوئی جن میں سے ایک ایسی ہے کہ اس کے چرانے سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور دوسری ایسی ہے کہ اس کے چرانے سے ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے تو اصل یہ ہے کہ جو چیز مقصود بدزدی ہے اگر ایسی ہو کہ اس کے چرانے میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور وہ نصاب کو پہنچی ہو تو بالا جماع ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر مقصود بدزدی دوسری چیز ہو کہ جس کے چرانے سے ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اگرچہ اس کے ساتھ ایسی چیز بھی ہو جس کے سبب سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور وہ پورے نصاب تک پہنچی ہو یہ امام اعظمؒ و امام محمدؒ کا قول ہے کہ کذا فی المحيط قال المترجم حاصل اصل یہ ہے کہ چوری کا مقصود ملحوظ ہوگا کہ چوری کرنے سے کیا چیز مقصود تھی اسی پر حکم کا مدار ہوگا قاتل۔

اگر چاندی کا برتن چرایا جس کی قیمت سو درہم ہے اور اس میں نمیند یا طعام ہے جو باقی نہیں رہ سکتا ہے یا دودھ ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اس صورت میں اس چیز کو مقصود قرار دیا جائے گا جو برتن کے اندر ہے اور اگر طفل آزاد کو چرایا تو ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے اگرچہ طفل مذکور پر زیور ہو اور یہ امام اعظمؒ و امام محمدؒ کا قول ہے اور امام ابو یوسفؒ نے کہا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا جب کہ طفل پر زیور ہو اور وہ نصاب کو پہنچ گیا ہو اور یہ اختلاف ایسے طفل میں ہے جو چلتا اور بولتا نہیں ہے کہ وہ خود اپنے قابو میں نہیں ہے اور اگر بولتا و چلتا ہو تو بالا جماع اس کے چرانے والے پر ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے اگرچہ اس پر کثرت سے زیور ہو یہ سراج و ہاج میں ہے منقہی میں لکھا ہے کہ اگر ایک کتا چرایا جس کی گردن میں درہم کا طوق ہے تو میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹوں گا اور اگر گدھا چرایا جس کی قیمت نو درہم ہے اور اس پر اکاف ایک درہم قیمت کا ہے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر کوزہ جس میں شہد ہی چرایا جس میں سے شہد کی قیمت ایک درہم اور کوزے کی قیمت نو درہم ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا اور اصل میں مذکور ہے کہ اگر خم شراب چرایا جس میں سے خم کی قیمت دس درہم ہے تو ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے اور شمس الائتمہ سرحی نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ اگر حرمین شراب کو پی لیا اور ہلکا

۱ مترجم کے نزدیک مناسب مقام یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اس طور پر استثنیٰ کیا جائے یعنی ایسی صورت میں کہ وہ سبکی کی طرف سے وکیل بالقبض ہو ۱۲ منہ

باہر نکالا اور ظرف ایسا ہے کہ اس کی چوری سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر قتمہ چرایا جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور وہ دس درہم کا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اگر قتمہ کا پانی اس نے دار کے اندر ہی پی لیا ہو پھر خالی قتمہ باہر نکال لایا تو ہاتھ کاٹا جائے گا یہ عتابیہ میں ہے۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ و امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کفن چور پر قطع ید نہیں:

قدوری میں فرمایا کہ اگر ایسی مندیل چرائی جس میں درہموں کی تھیلی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور مندیل (مٹھی رومال سے ہوتی ہے) سے وہ مندیل مراد ہے کہ عادت کے موافق اس میں درہم باندھتے ہیں یہ محیط میں ہے اور اگر ایسا کپڑا چرایا جس کی قیمت دس درہم نہیں ہے اور اس کی جیب میں دس درہم سکے زدہ پائے گئے حالانکہ چوران کو نہیں جانتا تھا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹوں گا اور اگر وہ ان کو جان کر کپڑا چرایا ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر جراب چرائی جس میں مال ہے یا جوال (تھیلہ) جس میں مال ہو یا کیسہ جس میں مال ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ مبسوط میں ہے اور اگر کسی نے فسطاط (بزخیمہ) چرایا پس اگر وہ کھڑا تھا اس حالت میں اس کو چرایا ہے تو ہاتھ نہ کاٹا جائے گا اور اگر کہیں لپٹا رکھا ہوا تھا اس حالف میں چرایا تو ہاتھ کاٹا جائے گا یہ سراج و بانج میں ہے اور اگر کسی مرد یا عورت سے دغل بازی (کھونائی یا فریب دہی سے لے لیا) کر کے مال لے لیا ہو یا لوٹ لیا یا اچک لے بھاگا تو اس پر ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے اور کفن چور پر ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے یہ امام اعظم و امام محمد کے نزدیک ہے یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر کسی نے قبر میں سے درہم یا دینار یا اور کوئی چیز سوائے کفن کے چرائی تو بالاجماع اس پر ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے یہ سراج و بانج میں ہے۔

اگر قبر کسی بیت متفعل میں ہو تو ہماری مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور اصحیہ ہے کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا خواہ اس نے کفن کھود کر قبر سے چرایا ہو یا کوئی دوسرا مال اس بیت سے چرایا ہو اور اسی طرح اگر تابوت سے جو قافلہ میں ہے کفن چور یا تو اصح یہ ہے کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ کافی میں ہے۔ اگر مشتری نے جو چیز بائع سے بشرط خیار بائع خریدی ہے مدت خیار کے اندر بائع سے چرائی تو اس پر ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے اور اگر کسی نے دوسرے کے واسطے کسی چیز کی وصیت کی پھر موصی کی موت سے پہلے اس نے موصی کے پاس سے چرائی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر موصی کی موت کے بعد قبل اپنے قبول کے چرائی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ سراج و بانج میں ہے اور اگر کسی نے مال غنائم میں سے یا بیت المال میں سے چرایا تو قطع نہیں آتا ہے خواہ آزاد ہو یا غلام ہو یہ نہا یہ میں ہے اور ایسے مال کے چرانے میں بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جس میں چور کی شرکت ہے یہ تبیین میں ہے۔ اگر چور کا ہاتھ کسی متاع کی چوری میں کاٹا گیا اور یہ متاع اس کے مالک کو واپس کر دی گئی پھر چور نے دوبارہ اس کو چور لیا تو اتھسنا ہمارے نزدیک ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ مبسوط میں ہے اور اسی طرح اگر چور کے پاس سے کسی دوسرے نے متاع سرقہ کو چرایا تو چور اول کو اور مالک کو دونوں میں سے کسی کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ دوسرے چور کا ہاتھ کاٹے یہ محیط سرحسی میں ہے اور اصل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب تک مال عین مسروقہ میں کچھ تبدیل نہیں آتا ہے اور بحالہ اس کو دوبارہ چور نے چرایا تو ہمارے نزدیک دوبارہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اگر اس کی غیبت میں دوبارہ تبدیل ہو گیا ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا مثلاً پہلے روٹی چرائی کہ چور کا ہاتھ کاٹ کر مالک کو واپس دی گئی پھر جب اس کا سوت کاٹ لیا گیا تو سوت کو دوبارہ چور نے چرایا یا سوت تھا کہ وہ بن کر کپڑا ہو گیا تو ایسا بالاجماع اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ شرح طحاوی میں ہے۔

اگر سودرہم چرائے پس اس کی وجہ سے چور کا ہاتھ کاٹا گیا اور درہم مذکور اس کے مالک کو واپس دیے گئے پھر دوبارہ انہیں

درہموں کو اس نے چرایا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اگر ان کو مع اور سو درہم کے چرایا تو اس کا پاؤں کاٹا جائے گا خواہ یہ دونوں سیکڑے درہموں کے باہم مخلوط ہوں یا جدا جدا ممتاز ہوں یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر سونا یا چاندی چرائی اور چور کا ہاتھ اس کی وجہ سے کاٹا گیا اور مال مذکور اس کے مالک کو واپس کیا گیا پھر مالک نے اس کا برتن بنوایا تھا یا برتن سے اس کے درہم سکہ دار بنوائے پھر چور نے اس کو دوبارہ چرایا تو امام اعظم کے نزدیک ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور صاحبین نے فرمایا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا یہ شرح طحاوی میں ہے۔ کفایۃ البقی میں مذکور ہے کہ ایک کپڑا چرایا اور اس کو سلایا پھر اس کو رد کر دیا (واپس کر دیے گئے) پھر اس میں نقصان آ گیا پھر اس نے ناقص کو چورایا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ نہر الفائق میں ہے اور اگر گائے چرائی کہ جس کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور گائے مذکور اس کے مالک کو واپس دی گئی پھر مالک کے پاس وہ بچہ جنی پھر چور نے اس کا بچہ چرایا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر کسی مال عین کی چوری میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور عین مذکور اس کے مالک کو واپس دی گئی اور مالک نے کسی کے ہاتھ فروخت کر دی پھر اس کو خرید لیا پھر دوبارہ چور نے اس کو چرایا تو امام محمد نے یہ مسئلہ کسی کتاب میں ذکر نہیں فرمایا اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے چنانچہ ہمارے عراقی مشائخ فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور مشائخ ماوراء النہر فرماتے ہیں کہ ہاتھ کاٹا جائے گا یہ ظہیر یہ میں ہے اور اسی طرح اگر مالک نے وہ چیز چور کے ہاتھ فروخت کر دی پھر اس سے خرید لی پھر دوبارہ چور نے اس کو چورایا تو بھی ایسا ہی حکم ہے یہ نہر الفائق میں ہے۔ ایک نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی اور الگ کر کے رکھی تاکہ فقیروں کو بانٹ دے پھر اس کو کسی غنی یا فقیر نے چرایا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اس واسطے کہ ہنوز وہ اس کی ملک میں باقی تھی اور یہی مختار ہے یہ غیاشیہ میں ہے اور اگر کسی چور نے حربی مستامن کا مال چرایا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور یہ ہمارے نزدیک بدلیل استحسان ہے۔ اہل عدل کے کسی آدمی نے اہل نبی کے لشکر میں رات کے وقت غارت کی اور ان میں سے کسی آدمی کا کچھ مال چرایا اور اس کو امام اہل عدل کے پاس لایا تو فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹوں گا اس واسطے کہ اہل عدل کو روا ہے کہ جس طور سے ان کو قدرت حاصل ہو اہل بغاوت کا مال لے لیں اور اس کو رکھ چھوڑیں یہاں تک کہ باغی لوگ تو بہ کریں یا مر جائیں پھر یہ مال ان کے وارثوں کو دے دیا جائے گا پس اس طرح چوری کرنے میں شبہ ہو گیا کہ اُس نے اسی طریق سے لے لیا ہو اور اسی طرح اگر باغیوں میں سے کوئی آدمی اہل حق و عدل کے لشکر میں غارت کر کے مال لے گیا تو اُس کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا اس واسطے کہ اہل بغاوت مال اہل عدل کا حلال جانتے ہیں اور ان کی تاویل اگرچہ فاسد ہے لیکن جب اس کے ساتھ متعہ کا انضمام کیا گیا تو وہ بمنزلہ تاویل صحیح کے ہو گئی اور اگر اہل عدل کے ملک میں سے کسی آدمی نے دوسرے کا مال چرایا حالانکہ چور اس کو کا فر کہتا ہے اور اس کا مال لینا و خون بہانا روا رکھتا ہے تو میں اُس کا ہاتھ کاٹوں گا اس واسطے کہ تاویل یہاں متعہ سے خالی ہے اور بدون متعہ کے تاویل کا کچھ اعتبار نہیں ہے اس واسطے اُس کی ضمان ساقط نہیں ہوتی ہے پس ایسا ہی ہاتھ کاٹنا بھی ساقط نہ ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اہل عدل کے تحت میں ہے پس امام اہل عدل کو اس پر دسترس ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی حد اس پر پوری جاری کر دے بخلاف اس شخص کے کہ جو اہل بغاوت کے لشکر میں ہے کہ اس پر امام اہل عدل کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے یہ مبسوط میں ہے۔

۱ یعنی جو شخص دارالحرب کا رہنے والا دارالسلام میں کچھ مدت کے واسطے امن لے کر داخل ہوا ۱۲ امن ۲ وہ لوگ جو امام وقت سے بغاوت اختیار کر کے

فصل : ۲

حرز اور حرز سے لینے کے بیان میں

حرز کی اقسام:

حرز دو طرح کا ہوتا ہے ایک حرز کہ جس میں کوئی بات حفاظت کی خود موجود ہے جیسے بیوت دور اور ایسے حرز کو حرز بہ مکان کہتے ہیں اور یہی فسطاط و دوکان و خیموں کا حکم ہے کہ یہ سب چیزیں حرز ہوتی ہیں اگرچہ ان میں کوئی شخص حافظ نہ ہو خواہ ان میں سے چور نے ایسی حالت میں چرایا کہ اُس کا دروازہ کھلا ہوا تھا یا دروازہ ہی نہ تھا اس واسطے کہ عمارت سے غرض احراز ہوتی ہے لیکن واضح رہے کہ ہاتھ اس وقت تک نہیں کاٹا جائے گا جب تک کہ مہر نہ نکال لائے بخلاف احراز بحافظ کے کہ اگر حافظ ہو اور چور نے لے لی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا خواہ وہ باہر لایا ہو یا نہ لایا ہو و محرز بحافظ جیسے کوئی شخص راستہ پر یا جنگل میں یا مسجد میں بیٹھا اور اپنے پاس اپنی متاع رکھ لی تو وہ اس متاع کا محرز ہے اور یہ حکم اس وقت ہے کہ حافظ مذکور اس متاع سے قریب ہو اور اگر اس سے دور ہو تو وہ اس کا حفاظت کرنے والا نہیں ہے اور قریب اس کو کہتے ہیں کہ اتنے فاصلہ پر ہو کہ اس کو دیکھتا اور حفاظت کر سکتا ہو اور اس میں کچھ فرق نہیں ہے کہ حافظ سوتا ہو یا جاگتا ہو اور متاع اُس کے نیچے ہو یا پاس رکھی ہو اور یہی صحیح ہے یہ سراج و بانج میں ہے اور اگر اپنے متاع کو صحرا میں جمع کیا اور اپنے متاع پر نہیں سویا بلکہ قریب اُس کے سویا اور وہ چوری گئی تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا بشرطیکہ ایسی جگہ سویا ہو کہ اُس کو دیکھتا اور اُس کی حفاظت کر سکتا ہے یہ محیط سرخسی میں ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اگر حمام میں کسی نے نیچے سے کپڑا چرایا تو اُس کا ہاتھ کاٹا جائیگا:

ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ہر نوع کا حرز علیحدہ ہے پس جو حرز جس کے واسطے معتبر ہے اگر اس میں سے یہ چیز چرائی تو ہاتھ کاٹا جائے گا جیسے مثلاً دابہ کو اصطبل سے یا بکری کو خطیرہ سے چرایا تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر ان مقاموں سے اس نے درم یا دینار چرائے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور فتاویٰ کرنی میں ہے کہ جو چیز ایک نوع کے واسطے حرز ہے وہ ہر نوع کے واسطے حرز ہے حتیٰ کہ علمائے شریعہ بقال اور قوصرہ ہائے خرما کو درہم و دینار و موتی کے واسطے حرز قرار دیا ہے اور فرمایا کہ یہی صحیح ہے یہ سراج و بانج میں ہے اور شمس الاممہ سرخسی نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک یہی مذہب ہے یہ ظہیر یہ میں ہے اور حرز بہ مکان میں احراز بحافظ کا اعتبار نہیں ہے اور یہی صحیح ہے یہ ہدایہ میں ہے اور اگر حمام میں سے رات کو چرایا تو ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر دن کو چرایا تو نہیں اور یہ جو لوگوں کی عادت حمام میں تھوڑی رات گئے تک جانے کی ہے اس قدر بمنزلہ دن کے ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے اور امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ اگر حمام میں کسی کے نیچے سے کسی نے کپڑا چرایا تو اُس کا ہاتھ کاٹا جائے گا جیسے مسجد میں سے کسی کی متاع چرائی حالانکہ اُس کا مالک اس کے پاس موجود ہے تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور صاحبین کے نزدیک ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور یہی ظاہر المذہب

۱۔ صحراء جنگل با بیان دایہ مایب علی الارض پھر چو پاؤں پھر سواری کے جانوروں و بقول بعض گھوڑے کے ساتھ مخصوص ہوا خطرہ۔ بجا مہملہ و ظاء مجملہ جو پتھروں یا کانٹوں یا لکڑیوں یا زکل وغیرہ سے کٹھرنے کے مانند میدان میں احاطہ جانوروں کے رکھنے کے لیے بناتے ہیں۔ ۲۔ نقل ترہ اترکاری ہے بقال ترہ فروش یعنی کنجرا شیریں جس میں ساگ وغیرہ رکھتا ہے اور وہ گہری نوکری سی ہوتی ہے یعنی کھانچہ و نوکرہ وغیرہ جو بانس و دیگر درختوں کی شاخوں سے بناتے

ہیں اور ہمارے عرف میں معروف ہے۔ تو صرہ بقاف و صاء مہملہ زمیل جس میں خرما وغیرہ رکھتے ہیں۔ ۱۳

ہے اور اسی پر فتویٰ ہے یہ کافی میں ہے اور اگر محرز بہ مکان ہے اور اُس کو اندر آنے کی اجازت دی گئی پھر اُس نے اجازت سے داخل ہو کر کوئی چیز چرائی تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اس کے حق میں یہ حرز نہ ہوگا اگرچہ وہاں کوئی نگہبان ہو اور اگرچہ مالک متاع اُس پر سوتا ہو اور ان عمارات میں جو ایسی ہو کہ اس میں بلا اجازت جب چاہے داخل ہو سکتا ہو اور منع نہ کیا جاتا ہو تو یہ اور جنگل کا میدان یکساں ہے کہ نگہبان بٹھالینے سے محرز ہو جائے گا جیسے مسجد و راستہ کا حکم ہے یہ ایضاً صحیح میں ہے اور اگر کسی نے گون کو پھانسی میں سے کچھ چرایا یا صندوق میں ہاتھ ڈال کر مال لے لیا تو اُس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ تمیین میں ہے۔

اور اگر اونٹ کو راستہ سے مع اُس کے بوجھ کے چرایا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا خواہ اُس کا مالک اُس پر ہو یا نہ ہو اس واسطے کہ یہ مال ظاہر غیر محرز ہے اور اسی طرح اگر جوال^۱ یعنی چرائی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اگر جوال کو چاک کر کے اس میں سے مال نکال لیا پس اگر اس کا مالک وہاں ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا ورنہ نہیں اور اگر جوال زمین پر پڑی ہوں پس جوال مع متاع کے چرائیں پس اگر اس کا مالک وہاں ہو اس طرح اس کی خدمت کر سکتا ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا خواہ سوتا ہو یا جاگتا ہو یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر کسی نے قطار میں سے اونٹ چرایا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا خواہ اس کے ساتھ قائد یا سائق ہو تو جو اس کو کھینچتا یا ہانکتا ہو یا نہ ہو پس امام نے قطار کو سائق و قائد سے محرز نہیں رکھا اگرچہ دونوں اس کے حافظ ہوں اس واسطے کہ مال جب ہی نگہبان سے محرز ہوتا ہے کہ جب اس کا قصد حفظ ہو اور جب اس کا قصد کوئی اور امر ہو اور حفاظت کرنا اس کی تبعیت میں حاصل ہوتا ہو تو ایسا نہیں ہے حتیٰ کہ اگر قطار کے ساتھ کوئی ایسا آدمی بھی ہو جو محض نگہبانی کرتا ہو تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر چور نے حرز میں اس کو لے لیا اور ہنوز باہر نہیں لایا خواہ اس کو لایا ہے یا نہیں تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اگر اس نے حرز میں سے باہر پھینک دیا جہاں اس کا ایک ساتھی ہے پس ساتھی نے اس کو لے لیا تو دونوں میں سے کسی پر ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے اور اگر اس نے دیوار کے پیچھے سے اپنے ساتھی کو دے دی اور خود اس چیز کے ساتھ نہیں نکلا تو امام اعظم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے کسی پر ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ جو اندر ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور باہر والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بشرطیکہ اس نے اندر ہاتھ نہ ڈالا ہو اور اگر باہر والے نے اپنا ہاتھ حرز میں داخل کر کے اندر والے سے یہ چیز لے لی تو امام اعظم کے قول میں ان دونوں میں سے کسی پر ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ دونوں کا ہاتھ کاٹوں گا یہ فتاویٰ کرنخی میں ہے۔

اگر اندر والے نے مال کے سیند کے منہ پر رکھ دیا پھر باہر نکل کر اس کو لے لیا تو اس کو امام محمد نے ذکر نہیں فرمایا اور یہ صحیح ہے کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اگر دار میں کوئی نہر جاری ہو اور چور نے متاع کو لے کر نہر میں ڈال دیا پھر وہاں سے نکل کر اس کو لے لیا پس اگر متاع مذکور خود پانی کے روز سے باہر نکل آئی تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اگر اس نے پانی کو حرکت دی جس سے وہ متاع باہر آگئی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اس کو امام ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ لیکن مبسوط میں ہے کہ اگر خود پانی کے زور سے بھی نکل آئی ہو تو صحیح یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ نہا یہ میں ہے اور اگر چور نے اندر سے اس کو راستہ میں پھینک دیا پھر نکل کر اس کو لے لیا تو اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اس کو ایسی جگہ پھینکا کہ اس کو دیکھتا ہے پھر نکل کر اس کو لے لیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر ایسی جگہ پھینک دیا کہ اس کو دیکھتا نہیں ہے تو اس پر ہاتھ کاٹنا چاہنا نہیں لازم آتا ہے اگرچہ نکل کر اس کو لے لیا ہو اور اگر اس کو گدھے پر لاد کر ہانک کر باہر نکال لایا تو ہاتھ کاٹا جائے گا یہ سراج و ہاج میں ہے۔ اگر مال چرایا اور اس کو دار سے باہر نہیں نکالا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور یہ حکم اس وقت ہے کہ دار چھوٹا ہو کہ اہل بیوت اس کے صحن سے بے پروا نہ ہوں یعنی صحن سے

۱ جوال معرب گوال لفظ فارسی بمانند گون تھیلہ وغیرہ کے۔ قائد آگے سے کھینچنے والا سائق پیچھے سے ہانکنے والا۔

انتفاع کے حاجت مند ہوں اور اگر دار کبیر ہو کہ اس میں مقاصیر ہوں^۱ یعنی مجرے و منازل ہوں اور ہر مقصورہ میں رہنے والے ہوں اور اہل منازل اس دار کبیر کے صحن سے بے پروا ہوں کہ اس سے انتفاع حاصل نہ کرے ہوں ہاں اسی قد انتفاع حاصل کرتے ہوں جیسے کوچہ سے نفع اٹھاتے ہیں پھر مقصورہ میں سے چرا کر صحن دار میں لایا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر بعض مقصورہ کے رہنے والے نے دوسرے مقصورہ کی کوئی چیز چرائی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ کافی میں ہے۔

اگر بیت نقب لگایا پھر نکلا اور کوئی چیز نہیں لی پھر دوسری رات میں آیا اور داخل ہو کر کوئی چیز چرایا پس اگر مالک بیت کو نقب کا علم ہو گیا مگر اس نے اس کو بند نہیں کیا یا نقب مذکور ظاہر ہو کہ رات کو چوکیدار و راہروا سکودیکھتے ہوں پھر وہ ایسی ہی پڑی رہی تو اس چور پر ہاتھ کاٹا جانا نہیں لازم آتا ہے ورنہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ سراج و ہاج میں ہے۔ چور ایک گدھے کو لے کر ایک مکان میں داخل ہوا اور کپڑے جمع کر کے گدھے پر لاد کر منزل سے باہر آیا اور اپنے گھر چلا گیا پھر اس کے بعد گدھا وہاں سے نکل کر اس کے گھر کو آیا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اسی طرح اگر کسی کبوتر وغیرہ کے پاؤں وغیرہ میں کوئی چیز باندھ دی اور چھوڑ دیا پس طائر مذکور اس کے گھر میں چلا آیا اور اس نے اس طائر سے وہ چیز کھول لی تو بھی یہی حکم ہے یہ فتاویٰ سراجیہ میں ہے اور اگر چور نے حر زمین سے مال چرایا پھر دوسرا اس حر زمین داخل ہوا اور چور کو مع مال کے اپنے اوپر لاد کر نکال لایا تو خاصیت جس کو لاد لایا ہے اسی کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر چور نے نصاب دو دفعہ یا زیادہ میں نکالا پس اگر ان دفعات کے درمیان میں مالک کو اطلاع ہو گئی کہ اس نے نقب کو درست کر دیا اور دروازہ بند کر دیا تو دوسری بار نکالنا دوسری چوری ہے اور ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا در صورت کہ ہر بار جو کچھ نکالا ہے وہ مقدار نصاب سے کم ہو اور اگر بیچ میں اطلاع (نقب) مالک وغیرہ واقع نہ ہوئی ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا یہ سراج و ہاج میں ہے۔ ایک نے چھت پر سے بقدر نصاب کے چرایا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ایک نے بدوں اجازت مالک کے دیوار کو پھوڑا پھر وہ غائب ہو گیا پھر ایک چور اس راہ سے بیت میں داخل ہوا اور کچھ چرایا تو مختار یہ ہے کہ جو کچھ چور نے چرایا ہے نقب لگانے والا اس کا ضامن نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اگر ایسا کپڑا چرایا جو کہ چہ میں بچھایا گیا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اگر خص^۲ میں بچھا ہوا جو کہ کوچہ کی جانب ہے چرایا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر دیوار بجانب دار پر یا خص بجانب سطح پر بچھایا ہو چرایا تو ہاتھ کاٹا جائے گا یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر آستین (شیروانی، کوٹ وغیرہ) کے باہر درہموں کی تھیلی لٹکتی ہوئی کو کاٹ کر درہم لے لیے تو اس کا

ہاتھ کاٹا نہ جائے گا:

چور نے بیت کو نقب لگا کر اس میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز لے لی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور یہ امام اعظم و امام محمد کے نزدیک ہے اور بعض ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ایسے بیت کبیر پر محمول ہے جس میں نقب سے داخل ہونا ممکن ہے اور اگر بیت اس قدر چھوٹا ہو کہ نقب سے اس میں داخل نہ ہو سکے پس اس میں ہاتھ ڈال کر مال لے لیا تو بالاجماع ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر صرف کے صندوق میں یا دوسرے کی آستین (شیروانی، کوٹ وغیرہ) میں ہاتھ ڈال کر مال لے لیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ سراج و ہاج میں ہے۔ چند لوگ ایک سرانے میں یا ایک بیت میں اترے پھر ان میں کسی نے دوسرے کا مال چرایا اور مالک اس کی حفاظت کرتا تھا یا اس کے سر کے نیچے تھی تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا یہ سراجیہ میں ہے۔ اگر آستین کے باہر درہموں کی تھیلی لٹکتی ہوئی کو کاٹ کر

۱ مقاصیر جمع مقصورہ جس کو ہمارے عرف میں حجرہ، کوٹھڑی بولتے ہیں۔ ۲ خص بالضم توارہ و کا زہ یعنی جو پھوس وغیرہ سے مثل چھپو وغیرہ کے بنایا جاتا ہے۔

درہم لے لیے تو اس کا ہاتھ کاٹنا جائے گا اور اگر آستین میں ہاتھ ڈال کر تھیلی کو چاک کر کے درہم لے لیے تو ہاتھ کاٹنا جائے گا اور اگر بندش کو کھول کر لیے تو اول صورت میں ہاتھ کاٹنا جائے گا اور دوسری صورت میں نہیں کاٹنا جائے گا یہ کافی میں ہے۔ منہتی میں حسن کی روایت سے امام اعظم سے مذکور ہے کہ امام نے فشاش کے حق میں فرمایا اور فشاش اس شخص کو کہتے ہیں جو دروازہ کی غلق کے واسطے ایسی چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے کہ جس سے اس کو کھول لے کہ اگر فشاش نے دن میں دروازہ بند کھول لیا اور دارو بیت میں کوئی نہیں ہے اور متاع لے لی تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا جائے گا اور اگر دارو بیت میں کوئی اہل دارو بیت میں سے ہو اور فشاش نے متاع اس میں سے لے لی حالانکہ وہ نہیں جانتا ہے تو ہاتھ کاٹنا جائے گا اور اسی طرح اگر فشاش نے بازار کا کوئی دروازہ کھولا تو بھی اس کا ہاتھ نہ کاٹنا جائے گا اور فقاف کا ہاتھ نہ کاٹنا جائے گا اور فقاف وہ ہے جس کو درہم پر کھنے کو دے جاتے ہیں پس وہ اس میں سے لے لیتا ہے اور مالک کو علم نہیں ہوتا ہے اور حاوی میں لکھا ہے کہ اگر دارو کا دروازہ بھڑا ہوا ہو اور معلق نہ ہو یعنی تالا نہ دیا ہو پھر چور اس میں خفیہ داخل ہو اور خفیہ اسباب لے لیا تو اس کا ہاتھ کاٹنا جائے گا اور اگر دروازہ دار کھلا ہوا ہو پس وہ دن میں داخل ہوا اور چرایا تو ہاتھ نہ کاٹنا جائے گا۔

اگر رات میں دروازہ دار سے داخل ہو اور دروازہ مقفل نہ تھا بھڑا ہوا تھا اور اس وقت داخل ہوا کہ لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے تھے اور خفیہ یا مکابرہ کے ساتھ مال لے لیا اور اس کے ساتھ ہتھیار ہے یا نہیں ہے اور مالک مکان اس سے آگاہ ہوا یا آگاہ نہ ہوا تو اس کا ہاتھ کاٹنا جائے گا اور اگر کوئی شخص کسی کے دار میں شام و عشاء کے درمیان داخل ہو اور لوگ ہنوز آتے جاتے ہیں تو یہ وقت بمنزلہ دن کے ہے اور اگر مالک دار کو چور کا آنا معلوم ہو اور چور نہیں جانتا ہے کہ مالک مکان اس میں ہے یا چور جانتا ہے کہ مالک مکان ہے اور مالک مکان اسکے آنے سے آگاہ نہ ہو تو چور کا ہاتھ کاٹنا جائے گا اور اگر دونوں کو علم ہے تو ہاتھ نہ کاٹنا جائے گا اور اگر دونوں نہ جانتے ہوں تو بھی ہاتھ کاٹنا جائے گا اور اگر رات میں کسی سے مکابرہ کیا حتیٰ کہ اس کا مال لے لیا تو اس کا ہاتھ کاٹنا جائے گا اور اگر دن میں اس سے مکابرہ کیا اور خفیہ اس کے گھر میں سیند لگا کر اس کی متاع کو زبردستی سے لیا تو ہاتھ نہ کاٹنا جائے گا اور قیاس چاہتا ہے کہ دونوں صورتوں میں نہ کاٹنا جائے لیکن ہم نے اول صورت میں استحسان کو لیا اور کہا کہ ہاتھ کاٹنا واجب ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر حرمین سے ایک بکری نکال لایا اور دوسری اس کے پیچھے چلی آئی اور پہلی بکری نصاب نہ تھی تو چور پر ہاتھ کاٹنا نہیں آئے گا یہ سران و ہانج میں ہے۔

اگر چراگاہ سے کوئی بکری یا گائے یا اونٹ چرایا تو اس کا ہاتھ نہ کاٹنا جائے گا ایسا ہی امام محمد نے ذکر فرمایا ہے اور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ الا اس صورت میں ہاتھ کاٹنا جائے گا کہ ان کے ساتھ کوئی چرواہا یا گاہبان ہو اور بقالی میں مذکور ہے کہ چراگاہ سے مویشی چرانے میں ہاتھ کاٹنا نہیں آتا ہے اگر چہ ان کے ساتھ چرواہا ہو اس واسطے کہ چرواہا چرانے کے واسطے مقرر ہوتا ہے نہ حفاظت کے واسطے پس وہ چرواہے کے ہونے سے حرمین نہ ہوں گے اور اگر سوائے چرواہے کے ان کے ساتھ کوئی اور نگہبان ہو تو ہاتھ کاٹنا واجب ہوگا اور اسی پر فتویٰ ہے اور اگر بکریاں کسی گھر میں رات کو آکر رہا کرتی ہوں جو انہیں کے واسطے بنایا گیا ہے اور اس گھر کا دروازہ مقفل ہوتا ہے پس چور نے در بند کو توڑ کر داخل ہو کر کوئی بکری چرایا تو اس کا ہاتھ کاٹنا جائے گا اور بقالی میں لکھا ہے کہ اگر دروازہ بھڑا ہو تو غلق کا اعتبار ضروری نہیں ہے الا آنکہ یہ گھر جنگل میں اکیلا ہو یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر پتھروں یا کانٹوں کا خطیرہ بنا لیا اور اس میں بکریاں جمع کیں وہ خود انہیں کے پاس سوتا ہے تو ان کے چور کا ہاتھ کاٹنا جائے گا امام محمد نے فرمایا کہ اگر بکریوں کو غیر خطیرہ میں جمع کیا اور نیز کوئی نگہبان ہے یا نہیں ہے حالانکہ وہ ان کو ایک مقام پر جمع کر چکا ہے تو پھر ان کے چرانے والے کو سزائے

صد یعنی ہاتھ کاٹنے کی دی جائے گی یہ حاوی میں ہے اور عامہ مشائخ کے نزدیک اگر اس نے بکریوں کو ایسے مقام پر جمع کیا جو اس نے ان کی حفاظت کے واسطے مقرر و مہیا کیا ہے پھر ان میں سے چور نے چرایا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا خواہ ان کے ساتھ نگہبان ہو یا نہ ہو یہ محیط میں ہے اور یہی صحیح ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر رضاعی ماں یا بہن کی کوئی چیز اس کے پاس سے چرائی تو ہاتھ کاٹا جائے گا:

اگر کسی نے اپنے ماں باپ سے اگرچہ کتنے ہی اونچے درجوں کے ہوں یا فرزند سے اگرچہ کتنے ہی نیچے درجے کے ہوں یا ذی رحم محرم سے مثل بھائی و بہن و چچا و ماموں و پھوپھی و خالہ کے کوئی چیز چرائی تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا اور اگر اس نے اپنے ذی رحم محرم کے گھر سے غیر کی متاع چرائی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اگر غیر کے گھر سے اپنے ذی رحم محرم کا مال چرایا تو ہاتھ کاٹا جائے گا یہ فتح القدر میں ہے۔ اگر رضاعی ماں یا بہن کی کوئی چیز اس کے پاس سے چرائی تو ہاتھ کاٹا جائے گا یہ کافی میں ہے۔ اگر بیوی و مرد میں سے کسی نے دوسرے کا مال چرایا تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا اور اسی طرح اگر بیوی مرد میں سے ایک نے دوسرے کی حرز خاص سے جس میں دونوں رہتے نہیں ہیں کوئی چیز چرائی تو بھی یہی حکم ہے یہ غایۃ البیان میں ہے۔ اگر بیوی نے اپنے شوہر سے یا شوہر نے اپنی بیوی سے مال چرایا پھر اس جو ر کو طلاق دے دی اور ہنوز اس سے دخول نہیں کیا تھا پس وہ بغیر عدت کے بائیں ہو گئی تو بھی دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اگر اپنی مبتوتہ یا مختلف سے یعنی جس کو طلاق قطعی دے چکا ہے یا جس کو خلع دے چکا ہے کوئی مال چرایا پس اگر وہ عدت میں ہو تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا خواہ ایک طلاق دی ہو یا دو طلاق یا تین طلاق اور اسی طرح اگر عورت نے طلاق دینے والے شوہر کے گھر چرایا اور یہ عدت میں ہے تو عورت کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر چوری کر لینے کے بعد بیوی کو طلاق بائن دے دی اور اس کی عدت گزر گئی پھر چوری کا مقدمہ قاضی کے حضور میں پیش ہوا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ تمیین میں ہے اور اگر مرد نے کسی اجنبیہ عورت سے اس کا مال چرایا یا عورت نے کسی اجنبی مرد سے اس کا مال چرایا پھر ہنوز قاضی کے حضور میں یا امام المسلمین کے حضور میں مرافعہ نہیں ہوا تھا کہ دونوں نے باہم نکاح کر لیا پھر اس مقدمہ کا مرافعہ ہوا اور چور (مرد ہو یا عورت) نے اقرار کیا تو قاضی اس کا ہاتھ نہیں کاٹے گا یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر قاضی نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا مگر ہنوز جاری نہ ہوا تھا کہ دونوں نے باہم نکاح کر لیا تو امام اعظم و امام محمد کے نزدیک چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ سراج و ہاج میں ہے۔ اگر ایسی بیوی سے چرایا جو اس پر اس وجہ سے حرام ہو گئی ہے کہ اس نے اس کی ماں یا بیٹی کا بوسہ لے لیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ محیط میں ہے۔ اگر صہر یا ختن کے یہاں سے چرایا تو امام اعظم کے نزدیک ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور صاحبین کے نزدیک ہاتھ کاٹا جائے گا اور یہ اختلاف ایسی صورت میں ہے کہ گھر داماد کا ہو اور اگر گھر اس کی دختر کا ہو تو بالاتفاق ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اسی طرح اگر صہر کا مال چرایا مگر اپنی زوجہ کے یہاں سے چرایا تو بالاتفاق ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے۔ ختن وہ مرد درشتہ دار ہے جو اس کی ذات رحم محرم عورت کا شوہر ہو جیسے دختر کا شوہر یا سگی بہن کا شوہر وغیرہ اور ختن کے ہر ذات رحم محرم کا اور صہر وہ ہے جو اس پر بمصاہرہ حرام ہو جیسے بیوی کی ماں و اس کی بیٹی یا جیسے باپ کی بیوی (سوتیلی ماں) اور ان کی اولاد سے ہر ذی رحم محرم بھی صہر ہیں یہ محیط میں ہے۔ اگر غلام نے اپنے مالک کا مال چرایا تو اس کا ہاتھ نہ

۱۔ اس کی تصریح کتاب الطلاق میں مذکور ہے وہاں دیکھنا چاہیے ۱۲۔ ۲۔ قال المتزجم عرف دیار میں قول شیخ الاسلام اظہر ہے واللہ اعلم ۱۲۔ ۳۔ جس کو ہمارے عرف میں داماد اور ہندی میں جوانی کہتے ہیں ۱۲۔

کانا جائے گا اور اسی طرح اگر مولیٰ کے باپ یا ماں یا کسی ذی رحم محرم کا مال چرایا تو بھی یہی حکم ہے اور نیز اگر مولیٰ کی بیوی کا مال چرایا تو بھی ہاتھ نہ کاننا جائے گا اور جن لوگوں کا مال چرانے سے مولیٰ کا ہاتھ نہیں کاننا جاتا ہے مولیٰ کے غلام کا ہاتھ بھی ان کے مال چرانے سے نہ کاننا جائے گا یہ محیط سرخسی میں ہے اور غلام خواہ محض غلام ہو یا مدبر یا مکاتب یا ماذوں یا ام ولد ہو کہ اس نے اپنے مولیٰ کا مال چرایا سب کا حکم یکساں ہے یہ سراج و ہاج میں ہے۔ اس طرح اگر مولیٰ نے اپنے مکاتب یا غلام ماذوں سے مال چرایا تو اس کا ہاتھ نہ کاننا جائے گا اور محض غلام سے چرانے میں مولیٰ کا ہاتھ کاننا جائے گا اس واسطے کہ وہ بمنزلہ مستودع کے ہے یعنی اس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے اور جو شخص و ذیعت رکھنے والے کے پاس سے چراتا ہے اس کا ہاتھ کاننا جاتا ہے یہ محیط سرخسی میں ہے۔

میزبان کے پاس سے مہمان نے کچھ چرایا تو؟

اگر مہمان نے میزبان کے یہاں سے کچھ چرایا تو اس پر ہاتھ کاننا جانا نہیں آتا ہے یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر ایک قوم کا ایک خادم ہو اور اس نے ان کی متاع چرالی تو اس پر ہاتھ کاننا نہیں آتا ہے اور اگر اجیر نے کسی ایسی جگہ سے جہاں جانے کی اس کو اجازت دی گئی تھی کوئی چیز چرالی تو اس پر بھی ہاتھ کاننا نہیں آتا ہے اور اگر کسی نے اپنا گھر دوے کو اجارہ پر دینے والے اور لینے والے دونوں میں سے کسی نے دوسرے کا کچھ مال (نصاب سے کم نہیں ہے) چرایا اور ہر ایک علیحدہ منزل میں ہے تو امام اعظم کے نزدیک ان میں سے چور کا ہاتھ کاننا جائے گا اور صاحبین کے نزدیک اگر موجد نے متاجر سے چرایا تو ہاتھ نہ کاننا جائے گا اور اگر متاجر نے موجد سے چرایا اور حال یہ ہے کہ بیت مفرد میں ہیں تو بالا جماع متاجر کا ہاتھ کاننا جائے گا۔ یہ سراج و ہاج میں ہے۔

فصل : ۳

کیفیت قطع و اس کے اثبات کے بیان میں

قال المترجم: یعنی اس فصل میں اول یہ بیان ہے کہ ہاتھ کیوں کر کاننا جاتا ہے اور چنانچہ فرمایا کہ چور کا داہنا ہاتھ گٹے کے جوڑے کاٹ کر الگ کر دیا جائے اور تیل میں تل دیا جائے اور تیل کے دام اور جسم کرانا یعنی تیل تل کر خون بند کرنا یہ ہمارے نزدیک چور پر لازم ہے یہ بحر الرائق میں ہے۔ اگر اس نے دوبارہ چرایا تو اس کا بائیں پاؤں کاننا جائے گا اور اگر اس نے تیسری بار چرایا تو باقی ہاتھ پاؤں کوئی نہیں کاننا جائے گا مگر وہ برابر قید خانہ میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ توبہ کرے اور یہ استحسان ہے اور اس کو تعزیر بھی دی جائے گی اس کو مشائخ نے ذکر فرمایا ہے یہ ہدایہ میں ہے اور امام المسلمین کو روا ہے کہ براہ سیاست اس کو قتل کر دے اس واسطے کہ وہ زمین میں فساد کرتا پھرتا ہے یہ سراجیہ میں ہے۔ اگر چور کا بائیں ہاتھ شل ہو یا کاننا ہو یا داہنا پاؤں کٹا ہو تو سزائے چوری میں داہنا ہاتھ یا بائیں پاؤں نہ کاننا جائے گا اور اگر اس کا بائیں پاؤں شل ہو تو بھی یہی حکم ہے اور اس طرح اگر اس کا بائیں انگوٹھا کٹا ہو یا شل ہو اور اس میں کی دو انگلیاں سوائے انگوٹھے کے ایسی ہوں تو بھی یہی حکم ہے اور اگر انگوٹھے کے سوائے ایک ہی انگلی ایسی ہو تو ہاتھ کاننا جائے گا یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر اس کا ہاتھ داہنا ہاتھ شل ہو یا اس میں انگلیاں کم و ناقص ہوں تو ظاہر الروایہ

۱۔ مدبر و مکاتب و غلام ماذوں دام ولد کا بیان مفصل کتاب العتاق میں درج ہے وہاں دیکھنا چاہیے ۱۲۔ ۲۔ تل کر خون بند کر دیا جائے ۱۳۔ ۳۔ قال فی

اصول زیت یعنی زیتون کا تیل ۱۴۔

کے موافق ہاتھ کاٹا جائے گا یہ تبیین میں ہے۔ اگر چور کے ایک ہی معصم^۱ میں دو ہتھلیاں ہوں تو بعض نے فرمایا کہ دونوں کاٹی جائے گی اور بعض نے کہا کہ اگر اصلی ہتھلی متمیز ہو اور اسی کے کاٹنے پر اقتصار ممکن ہو تو زائد نہ کاٹی جائے گی اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو دونوں کاٹی جائے گی اور یہی مختار ہے اور اگر وہ ان دونوں میں سے ایک ہی سے گرفت کرتا ہو تو جس سے گرفت کرتا ہے وہی کاٹی جائے گی یہ جو ہرۃ نیرہ میں ہے اور اگر اس کا داہنا پاؤں ایسا ہو کہ اس کی انگلیاں کٹی ہوئی ہوں پس اگر اس پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہو اور چل سکتا ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر اس پاؤں کے بل چل نہیں سکتا ہے تو ہاتھ نہ کاٹا جائے گا یہ مبسوط میں ہے۔

حد میں جنس منفعت کی گرفت کا بالکل فوت کر دینا جائز نہیں:

جس پر چوری کی وجہ سے قطع واجب ہو اور ہنوز اس کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا تھا کہ کسی شخص نے اس کا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالا پس اگر قبل خصومت کے ایسا ہوا تو اس کے ہاتھ کاٹنے والے پر عمداً کاٹنے کے صورت میں قصاص ہے اور خطا کی صورت میں ارش واجب ہے اور چور کا چوری میں بایاں پاؤں کاٹا جائے گا اور اگر بعد خصومت کے قبل حکم قضاء کے ایسا ہوا تو بھی یہی حکم ہے لیکن اتنا فرق ہوگا کہ چوری میں چور کا بایاں پاؤں نہ کاٹا جائے گا اور اگر بعد حکم قضاء کے ایسا ہوا تو کاٹنے والے پر ضمان واجب نہ ہوگی اور اس کا کاٹنا چوری میں کاٹے جانے کا نائب ہو جائے گا حتیٰ کہ چور نے جو مال سرقہ میں سے تلف کر دیا ہو اس پر اس کی ضمان واجب نہ ہوگی یہ شرح طحاوی میں ہے اور اگر کسی اجنبی نے داہنا ہاتھ نہیں بلکہ بایاں ہاتھ کاٹا تو چوری کی وجہ سے اس کا داہنا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا تاکہ جنس منفعت گرفت کا بالکل فوت کر دینا لازم نہ آئے اور اگر اس کا بایاں ہاتھ بھی نہ کاٹا گیا بلکہ داہنا پاؤں کاٹا گیا تو چوری کی وجہ سے جو قطع اس پر واجب تھا وہ ساقط ہو گیا اور اگر اس کا داہنا پاؤں بھی نہ کاٹا گیا بلکہ داہنا پاؤں کاٹا گیا تو چوری کی وجہ سے اس کا داہنا پاؤں کاٹا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر جلا د کے سوائے دوسرے نے بایاں ہاتھ کاٹ دیا تو پھر بھی ضامن نہ ہوگا:

اگر حاکم نے جلا د سے کہا کہ اس مرد کا داہنا ہاتھ کاٹ دے بحرم سرقہ جس کا یہ مرتکب ہوا ہے پس جلا د نے عمداً اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا تو امام اعظم کے نزدیک جلا د پر کچھ واجب نہ ہوگا لیکن اس کو بطور تادیب کچھ سزا دی جائے گی یہ فتح القدیر میں ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اس صورت میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف ایسی صورت میں ہے کہ جلا د نے عمداً اس کا بایاں ہاتھ کاٹا ہو اور اگر خطا اس نے ایسا کیا تو بالا جماع وہ ضامن نہ ہوگا خواہ جلا د نے اپنے اجتہاد میں خطا کی بایں طور کہ اس نے اجتہاد کیا کہ نص قرآنی میں مطلق ہاتھ مذکور ہے خواہ داہنا ہو یا بایاں ہو پس اس نے بایاں ہاتھ کاٹ دیا خواہ اس سے شناخت (دائے بائیں کی شناخت میں) میں خطا ہوئی کہ اس نے بایاں ہاتھ کاٹ دیا اور یہی صحیح ہے یہ منتقی میں ہے اور اگر حاکم نے یوں کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دے پس اس نے بایاں ہاتھ کاٹ دیا تو بالاتفاق ضامن نہ ہوگا اور اگر چور نے اپنا بایاں ہاتھ پیش کیا اور کہا کہ یہ میرا داہنا ہاتھ ہے پس جلا د نے اس کو کاٹ دیا تو ضامن نہ ہوگا اگرچہ جانتا ہو کہ یہ اس کا بایاں ہاتھ ہے اور حکم بالاتفاق ہے کذانی فتح القدیر اور اگر جلا د کے سوائے دوسرے نے اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا تو بھی ضامن نہ ہوگا اور یہی صحیح ہے۔ ہدایہ میں ہے اگر چور کا ہاتھ کاٹے جانے کا حکم ہو گیا پھر کسی نے اس کا داہنا ہاتھ بدوں اجازت امام المسلمین کے کاٹ دیا تو اس پر کچھ نہیں ہے لیکن امام اس کو اس فعل پر تادیب کرے گا یہ مبسوط میں ہے۔ اگر جلا د نے اس کا داہنا پاؤں کاٹ دیا تو جلا د اس پاؤں کی دیت کا ضامن ہوگا اور چور مال سرقہ کا

۱۔ معصم بالکسر جائے دست برنجن یعنی ہاتھ کا وہ مقام جہاں پر کنگن پہنتے ہیں اور اس کو ہمارے عرف میں پہنچا کہتے ہیں ۱۲۔ ۲۔ تادیب ادب دینا ۱۲۔

ضامن ہوگا اور اگر جلا دے تو اس کا ہاتھ چور کا داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر جلا دے تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹے تو اس کا داہنا ہاتھ چوری کے سبب سے کٹا ہوا قرار دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ کا جلا دضامن ہوگا کہ اس کی دیت چور کو ادا کرے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر جلا دے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دے تو چور کے واسطے جلا د اس کے بائیں ہاتھ اور دونوں پاؤں کا ضامن ہوگا اور اگر چور کا داہنا ہاتھ معدوم ہو تو اس کا بائیں پاؤں کاٹا جائے گا یہ فتاویٰ عتباہ میں ہے اور اگر چوری کے گواہوں سے چور پر سزائے قطع کا حکم دے دیا گیا پھر چھوٹ بھاگایا ہنوز حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ چھوٹ بھاگا پھر زانہ کے بعد پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اگر کو تو ال وغیرہ اس کے پیچھے دوڑ کر اسی وقت اس کو پکڑ لائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ مسبوط میں ہے اور اگر چور نے دو شخصوں سے چرایا ہو تو ایک کی غیبت میں چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا یہ عتباہ میں ہے۔ اگر کسی چور نے جوز جانبات سے چرایا اور مرافعہ قاضی بلخ کے حضور میں ہو تو قاضی مذکور کو بعد ثبوت کے اس کے ہاتھ کاٹنے کا اختیار ہے اور اگر جوز جانبات پر باغیوں میں سے کوئی شخص براہ بغاوت بدوں تقلید از جانب والی خراساں کے غالب ہو تو قاضی بلخ کو جوز جانبات کے چور پر حد سرقہ قائم کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور یہ نظیر اس کی ہے کہ خوارزم میں سے کسی نے چرایا اور قاضی بخارا کے پاس مرافعہ کیا گیا یہ محیط میں ہے۔ اگر سرقہ سخت سردی یا گرمی میں ثابت ہو کہ اس کی حالت میں اس کے ہاتھ کاٹنے سے اس کی موت کا خوف ہے تو قید رکھا جائے یہاں تک کہ سختی سردی یا گرمی کی فرد ہو جائے اور اگر اگر اس قدر شدت نہ ہو کہ کاٹنے سے چور کی موت کا خوف ہو تو تاخیر نہ کی جائے گی بلکہ قطع کر دیا جائے گا اور اگر سردی یا گرمی میں کمی آنے تک قید رکھا گیا پھر وہ قید خانہ میں مر گیا تو مال مسروقہ کی ضمانت اس چور کے ترکہ میں واجب ہوگی یہ مسبوط میں ہے۔

چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا تا آنکہ جس سے چرایا ہے وہ حاضر ہو اور سرقہ کا مطالبہ کرے اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں حد میں کاٹ دوں گا اور صحیح وہی ہے جو ظاہر روایہ ہے یہ زاد الفقہاء میں ہے۔ ہمارے نزدیک چوری کا گواہی سے ثابت ہونا یا خود چور کے اقرار سے ثابت ہونا دونوں یکساں ہیں کچھ فرق نہیں ہے اور اس طرح اگر وقت قطع کے غائب (جس کا مال چورایا ہے) ہو گیا تو بھی ہمارے نزدیک یہی (کہ کاٹا نہ جائے گا) حکم ہے یہ ہدایہ میں ہے۔ مستودع یعنی ودیعت رکھنے والے سے اگر مال ودیعت چرایا یا غاصب سے مال مغصوب چرایا یا صاحب ربوہ سے مال ربوہ یا مستعیر سے مال مستعار یا مستاجر سے مال اجارہ یا مضارب سے مال مضاربت یا مستبضع سے مال بضاعت یا جس نے خریدنے کے واسطے کسی چیز پر قبضہ کر لیا اس سے یہ چیز یا مرہون سے مال مرہون چرایا تو ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ چور کا ہاتھ کٹو اداے اور نیز ہر ایسا شخص جس کے ہاتھ میں دوسرے کی چیز حفاظت کے واسطے ہے جیسے باپ یا وصی وغیرہ اس کو اختیار ہے کہ چور اگر اس سے چرائے تو چور کا ہاتھ کٹو اداے اور نیز حد (جو حکم شرح لازم آئے وہ حد جاری کرادے) سرقہ بھی جاری کی جائے گی کہ جب ان لوگوں سے چرانے کی صورت میں مال مسروقہ کے اصل مالک نے نالش کی لیکن راہن کی خصومت سے جب ہی حد سرقہ چور پر جاری کی جائے گی جب بعد اداے قرضہ کے مال مرہون قائم ہو یہ کافی میں ہے۔

اگر کسی چور نے مال چرایا اور قبل اس کے کہ مقدمہ حاکم کے پاس جائے مال مسروقہ اس کے مالک کو واپس دیا تو چور کو سزائے قطع نہ دی جائے گی:

اگر کسی مال مسروقہ کے سرقت میں چور کا ہاتھ کاٹا گیا پھر دوسرے چور نے اس چور سے یہ چیز چرائی تو اول چور کو یا اصل مالک کو کسی کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ دوسرے چور کا ہاتھ کٹوائے اور ایک روایت کے موافق اول چور کو یہ اختیار ہے کہ اس سے واپس لے اور اگر دوسرے چور نے قبل اول چور کے ہاتھ کاٹنے کے یا کسی شہید کی وجہ سے اس کے ذمہ سے حد سرقتہ دور کیے جانے کے بعد چرایا تو اول چور کی خصوصیت کرنے سے دوسرے چور کا ہاتھ کاٹنا (حد سرقتہ دیا) جائے گا یہ ہدایہ میں ہے۔ نو اور ہشام میں ہے کہ میں نے امام محمد سے دریافت کیا کہ ایک نے دوسرے سے ہزار درہم چرائے پھر ایک اور شخص نے جس کے ہزار درہم اس مسروقہ منہ پر آتے ہیں یہ ہزار درہم مسروقہ اس چور سے غصب کر لیے تو امام محمد نے فرمایا کہ میں چور اول سے سزائے قطع دور کروں گا یہ محیط میں ہے۔ اگر کسی چور نے مال چرایا اور قبل اس کے کہ مقدمہ حاکم کے پاس جائے مال مسروقہ اس کے مالک کو واپس دیا تو چور کو سزائے قطع نہ دی جائے گی اور اگر گواہ اس نے جانے اور حکم ہو جانے کے بعد واپس کیا تو قطع کیا جائے گا اور قبل حکم قضا ہونے کے واپس کرنے میں استھسانا سزائے قطع جاری کی جائے گی اور اگر چور نے مالک مال کے فرزند یا کسی ذی رحم کو واپس دیا پس اگر وہ مالک مال کے عیال میں نہ ہو تو چور کو سزائے قطع دی جائے گی اور اگر اس کے عیال میں ہو تو نہ دی جائے گی اور اسی طرح اگر اس کی بیوی یا غلام یا اجیر کو جو ماہواری یا سالانہ پر نو کر ہے واپس کیا تو بھی حکم اسی تفصیل سے ہے اور اگر اس کے والد ماجد یا والدہ ماجدہ کو واپس دیا حالانکہ یہ لوگ اس کے عیال میں نہیں ہیں تو سزائے قطع نہ دی جائے گی اور اگر ان کے عیال میں جو شخص ہے اس کو دیا تو سزائے قطع دی جائے گی اور اگر اس کے مکاتب کو واپس دیا تو سزائے قطع نہ دی جائے گی کیونکہ مکاتب اس کا غلام ہے اور اگر کسی مکاتب کا مال چرایا اور اس کے مولیٰ کو واپس دیا تو سزائے قطع نہ دی جائے گی اور اگر عیال میں سے کسی سے چرایا اور ایسے شخص کو واپس دیا جس کے عیال میں یہ عیال ہے تو سزائے قطع دی جائے گی یہ کافی میں ہے۔

اگر کسی چور پر مال چوری کی بابت سزائے قطع کا حکم ہو گیا پھر مالک نے یہ مال اس کو ببہ کر کے سپرد کر دیا یا اس کے ہاتھ فروخت کر دیا تو ہاتھ نہ کاٹا جائے گا یہ فتح القدر میں ہے۔ اگر چور سے کسی نے یہ مال غصب کر لیا اور مالک نے غاصب سے ضمان اختیار کی تو چور سے سزائے قطع ساقط ہوگئی یہ عتابیہ میں ہے اور سرقتہ دس درہم کا ہونے میں یہ معتبر ہے کہ مال مسروقہ کی قیمت اور سرقتہ دس درہم ہو اور نیز بروز سزائے قطع دس درہم ہو چنانچہ اگر روز سرقتہ اس کی قیمت دس درہم ہو اور اس کے بعد اس میں نقصان آگیا پس اگر نقصان بدیں وجہ آیا کہ اس مال کے عین میں سے کچھ کمی ہوگئی ہے تو سزائے قطع دی جائے گی اور اگر بوجہ نقصان نرخ کے قیمت میں نقصان آیا ہو تو سزائے قطع نہ دی جائے گی یہ ظاہر الروایت کا حکم ہے کذا فی المحیط اور اگر کسی غلام نے دس درہم کی چوری کا اقرار کیا پس اگر یہ غلام ماذوں ہو تو اس کا اقرار صحیح ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور یہ مال مسروقہ منہ کو یعنی جس سے چرایا ہے واپس دیا جائے گا اگر قائم ہو اور اگر تلف ہو گیا ہو تو غلام مذکور پر ضمان واجب نہ ہوگی خواہ اس کے مولیٰ نے اس کے اقرار کی تصدیق کی ہو یا تکذیب کی ہو یہ سران و ہانج میں ہے۔ اگر یہ غلام مجبور ہو اور مال ویسا ہی موجود ہے پس اگر اس کے مولیٰ نے اس کے اقرار کی تصدیق کی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور مسروقہ منہ کو مال سرقتہ واپس دیا جائے گا اور اگر مولیٰ نے اس کی تکذیب کی اور

کہا کہ یہ مال میرا ہے تو امام اعظم کے نزدیک ہاتھ کاٹا جائے گا اور مال مذکور مسروق منہ کو واپس دیا جائے گا اور اگر مال مذکور تلف ہو گیا ہو تو ہمارے سب اصحاب کے نزدیک غلام مذکور کا اقرار بابت حد شرعی یعنی سزائے قطع کے صحیح ہوگا اور غلام مذکور پر ضمان واجب نہ ہوگی خواہ اس کے مولیٰ نے اس کی تکذیب کی ہو یا تصدیق کی ہو اور یہ سب اسی وقت ہے کہ غلام وقت اقرار کے کبیر ہو اور اگر وقت اقرار کے صغیر ہو تو اس پر سزائے قطع بالکل لازم نہیں آتی ہے لیکن مال کی نسبت یہ حکم ہے کہ اگر یہ صغیر ماذوں ہو تو مال مسروق مسروق منہ کو واپس دیا جائے گا بشرطیکہ ویسا ہی قائم ہو اور اگر تلف ہو گیا تو وہ ضامن ہوگا۔

اگر چور کو سزائے قطع دی گئی اور مال مسروقہ بعینہ اس کے پاس موجود ہے تو وہ مال اس کے مالک کو

واپس دیا جائے گا:

اگر غلام مجبور ہو پس اگر مولیٰ نے اس کے اقرار کی تصدیق کی ہو تو مال مسروقہ مسروق منہ کو واپس دیا جائے گا اگر ویسا ہی قائم ہو اور اگر تلف ہو گیا ہو تو اس پر ضمان نہ ہوگی نہ فی الحال اور نہ بعد آزاد ہونے کے یہ غایت البیان میں ہے۔ اگر غلام نے دس درہم سے کم کی چوری کا اقرار کیا تو اس پر سزائے قطع نہ ہوگی پھر مال کی بابت دیکھا جائے گا کہ اگر یہ غلام ماذوں ہو تو اس کا اقرار صحیح ہوگا اور مال مذکور مسروق منہ کو واپس دیا جائے گا اور اگر تلف ہو گیا ہو تو ضامن ہوگا خواہ غلام مذکور کبیر ہو یا صغیر ہو اور اگر غلام مذکور مجبور ہو پس اگر اس کے مولیٰ نے اس کے اقرار کی تصدیق کی تو یہی حکم ہے اور اگر تکذیب کی تو یہ مال مولیٰ کا ہوگا اور غلام کو دیکھا جائے گا کہ اگر وقت اقرار کے کبیر ہے تو بعد حقیق کے مال اقراری کا ضامن ہوگا اور اگر صغیر ہے تو ضامن نہ ہوگا یہ سراج و ہاج میں ہے۔ اگر چور کو سزائے قطع دی گئی اور مال مسروقہ بعینہ اس کے پاس موجود ہے تو وہ مال اس کے مالک کو واپس دیا جائے گا کیونکہ مال مذکور اپنے مالک کی ملک میں باقی ہے یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر تلف ہو گیا ہو تو سارق مذکور اس کا ضامن نہ ہوگا اور اسی طرح اگر اس نے تلف کر ڈالا ہو تو بھی بنا بر مشہور کے یہی حکم ہے کہ ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ ہمارے نزدیک سزائے قطع و ضمان مال کے درمیان جمع نہیں کی جاتی ہے یہ سراج و ہاج میں ہے۔

یہ اس وقت ہے کہ سزائے قطع واقع ہو گئی ہو اور اگر اس نے سزائے قطع دیے جانے سے پہلے تلف کر دیا یا تلف ہو گیا پس اگر مالک نے کہا کہ میں اس سے اپنے مال کی ضمان لوں گا تو پھر ہمارے نزدیک اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اگر مالک نے کہا کہ میں سزائے قطع کو اختیار کرتا ہوں تو چور کو سزائے قطع دے دی جائے گی اور اس پر ضمان نہ ہوگی یہ ہمارے نزدیک ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر چور کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا گیا پھر چور کے سوائے کسی دوسرے نے مال مسروقہ کو جو بعینہ موجود ہے تلف کر دیا تو مالک کو اختیار ہوگا کہ تلف کرنے والے سے اس کی قیمت تاوان لے لے اور اگر چور نے وہ مال کسی دوسرے کے پاس ودیعت رکھا ہو اور وہ اس کے پاس تلف ہو گیا تو مستودع ضامن نہ ہوگا یہ سراج و ہاج میں ہے۔ اگر چور نے مال مسروقہ کسی دوسرے کو اپنی طرف سے بذریعہ بیع یا ہبہ یا اس کے مانند وجہ کے مالک کر دیا اور یہ امر قبل چور کے ہاتھ کاٹنے جانے کے واقع ہو یا اس کے بعد واقع ہو تو یہ تمسک باطل ہے اور مال مسروقہ مسروق منہ کو واپس دیا جائے گا اور مشتری اپنا ثمن چور سے واپس لے گا اور اگر وہ مال مشتری یا موبہوب لہ کے پاس تلف ہو گیا ہو تو مشتری یا چور کسی پر ضمان نہ ہوگی ایسا ہی امام ابو یوسف سے مروی ہے اور اگر مشتری یا موبہوب لہ

۱۔ غلام مجبور کی تصریح اپنے مقام پر ہے وہاں دیکھنا چاہیے ۱۲۔ ۲۔ جیسا کہ معلوم ہو چکا کہ سزائے قطع و ضمان دونوں جمع نہیں کی جاتی ہیں ۱۲۔ ۳۔ اور اس صورت میں جمع قطع و ضمان لازم نہیں آئے گا ۱۲۔ ۴۔ کیونکہ یہ ہمارے تصرفات دوسرے کی ملک میں ہیں ۱۲۔

نے اس کو تلف کر دیا تو مالک کو اختیار ہوگا کہ اس سے تاوان (یعنی قیمت مال مذکور) لے پھر مشتری نے اپنا ثمن جو ادا کیا ہے چور سے واپس لے گا اور چور سے اس مال کی قیمت واپس نہیں لے سکتا ہے یہ محیط میں ہے۔

اگر ایک ہی شخص نے کئی بار سرقہ کا نصابِ کامل چرایا:

اگر کسی آدمی نے چور سے غصب کر لی اور چور کا ہاتھ کاٹے جانے کے بعد وہ غاصب کے پاس تلف ہو گئی تو چور کے واسطے اس پر ضمان نہ ہوگی اور مالک کے واسطے بھی ضمان نہ ہوگی یہ ایضاً میں ہے۔ امام محمدؒ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نے کئی بار چوری کی اور پھر اس کو ایک ہی حد کی سزا دی گئی تو یہ سزا اس سب کے واسطے ہوگی اس واسطے کہ جو حد و خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوتے ہیں جب وہ کئی مجتمع ہو جاتے ہیں تو متداخل ہو جاتے ہیں بشرطیکہ سب ایک ہی جنس کے ہوں اس لیے کہ مقصود و اقامت حد سے یہ ہوتا ہے کہ سب جرم کے ارتکاب سے منزجر ہو بخلاف اس کے اگر اس نے ایک بار چوری کی اور اس پر حد قائم کی گئی پھر اس نے دوسری بار چوری کی تو ایسا نہیں ہے بلکہ دوسری حد قائم کی جائے گی کیونکہ ہم کو یہ یقین معلوم ہوا کہ وہ حد اول سے منزجر نہیں ہوا ہے اور اس امر پر اجماع ہے کہ اگر چوری کے مالوں کے مالک حاضر ہوئے اور انہوں نے مخاصمہ کر کے چور پر سرقہ ثابت کیا پس اگر نالہائے سرقہ چور کے پاس تلف ہو گئے ہوں یا اس نے تلف کر دیے ہوں تو وہ ان کے واسطے کچھ ضامن نہ ہوگا اور اگر ان میں سے ایک یا دو حاضر ہوئے اور انہوں نے مخاصمہ کیا اور باقی لوگ غائب ہوں پس جو حاضر ہو اس کے واسطے قاضی نے چور کا ہاتھ کاٹا پھر باقی لوگ حاضر ہوئے پس اگر چور کے پاس مالہائے سرقہ تلف ہو گئے ہوں یا اس نے تلف کر دیے ہوں بہر حال امام اعظمؒ کے نزدیک وہ باقیوں کے واسطے ان کے اموال کا ضامن نہ ہوگا اور صاحبینؒ نے فرمایا کہ غائبوں کے سرقات کی قیمت کا ضامن ہوگا اور جو شخص وقت خصومت کے حاضر تھا اس کے سرقہ کا بالا اجماع ضامن نہ ہوگا اور اگر مالہائے سرقہ قائم ہوں تو امام ان کو ان کے مالکوں کو واپس کر دے گا اور یہ واپس کرنا سزائے قطع سے مانع نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر ایک ہی شخص نے کئی بار ہر بار سرقہ کا نصاب کا مال چرایا اور بعض سرقہ نصابِ کامل میں اس سے مخاصمہ کیا گیا حتیٰ کہ بعد ثبوت کے اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو باقی نصابوں کا امام اعظمؒ کے نزدیک ضامن نہ ہوگا اور اس میں صاحبینؒ کا خلاف ہے یہ غایۃ البیان میں ہے اور اگر چوری کا اقرار کیا اور جس سے چرایا ہے وہ غائب ہے پس حاکم نے اپنا اجتہاد کیا پس اپنے اجتہاد (اگرچہ امام اعظمؒ کے قول سے خلاف ہے) منہ سے اس کا ہاتھ کٹو ادا یا تو مسروق منہ کے واسطے چور مذکور کچھ ضامن نہ ہوگا اگرچہ مسروق منہ بعد حاضر آنے کے اس کے اقرار کی تصدیق کرے یہ مبسوط میں ہے۔

باب : ۳

سارق مال سرقہ میں جو شے پیدا کر دے اس کے بیان میں

اگر کسی دار میں کوئی کپڑا چرایا اور دار مذکور کے اندر ہے اس کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر دیے پھر اس کو باہر نکالا پس اگر یہ کپڑا بعد چاک کر ڈالنے کے مساوی دس درہم کے نہ ہو تو بالاتفاق اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا بخلاف اس کے اگر باہر نکال لانے کے بعد اس نے پھاڑا کہ جس سے اس کی قیمت نصابِ سرقہ سے کم ہو گئی اور اگر اس نے حرز کے اندر چاک کر دیا پھر اس کو باہر نکالا حالانکہ وہ مساوی دس درہم کے ہے پس اگر اس طرح عیب دار کر دینے سے نقصان یسر آ گیا ہو تو بالاتفاق چور پر سزائے قطع ہوگی اور اگر نقصان فاحش ہو پس اگر کپڑے کے مالک نے یہ اختیار کیا کہ کپڑا پھٹا ہوا لے کر اس سے اپنے نقصان کا تاوان لے لے تو چور پر

سزائے قطع ہوگی اور اگر یہ اختیار کیا کہ یہ کپڑا چور کو دے دے اور اس سے اپنے صحیح سالم کپڑے کی قیمت لے لے تو چور پر سزائے قطع نہ ہوگی اور امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ ہر دو صورت میں اس پر سزائے قطع نہیں ہے یہ مبسوط میں ہے اور علماء نے فاحش و لیسر کے فرق میں اختلاف کیا ہے اور صحیح یہ ہے کہ نقصان فاحش اس قدر نقصان ہے کہ جس سے عین مال و کچھ منفعت فوت ہو جائے اور لیسر وہ ہے کہ اس سے کچھ منفعت زائل نہ ہو بلکہ فقط عیب آگیا ہو یہ بحر الرائق میں ہے اور اگر کپڑا پھاڑ دینے سے اس کا اہتلاف ہو یعنی وہ کپڑا بے کار ہو گیا ہو تو مالک کو اختیار ہوگا کہ اس کپڑے کی پوری قیمت اس چور سے تاوان لے لے اور اس سے زیادہ اختیار نہیں ہے اور چور اس پھٹے ہوئے کپڑے کا مالک ہو جائے گا اور اس کو سزائے قطع نہ دی جائے گی اور اہتلاف یعنی بیکار کر ڈالنے کی یہ تعریف ہے کہ اس کپڑے کی قیمت نصف سے زیادہ گھٹ جائے یعنی اگر نصف قیمت کا بھی نہ رہے تو یہ اہتلاف ہے کذا فی التعمین۔

اگر لوہا، تانبا، پتیل یا مشابہ اس کے کوئی چیز چرائی پھر اس کے برتن بنائے

اگر بکری چرائی پس اس کو ذبح کر ڈالا پھر اس کو حرز سے باہر نکال لایا تو چور کو سزائے قطع دی جائے گی اگر چہ بعد ذبح کے وہ مساوی دس درہم یا زیادہ کی ہو لیکن مسروق منہ کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ فتح القدر میں ہے۔ اگر ایسی چاندی یا سونا چرایا جس میں قطع واجب ہے پھر اس کے درہم یا دینار بنالیے تو اس کو سزائے قطع دی جائے گی اور امام اعظمؒ نے نزدیک یہ درہم یا دینار مسروق منہ کو واپس دے گا اور صاحبین نے فرمایا کہ مسروق منہ کو ان درہموں یا دینار لینے کی کوئی راہ نہیں ہے کذا فی الہدایہ اور اسی طرح اگر اس چاندی یا سونے کے برتن یا زیور بنائے تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے یہ تمیمین میں ہے اور اگر اس نے لوہا، تانبا، پتیل یا مشابہ اس کے کوئی چیز چرائی پھر اس کے برتن بنائے پس اگر بنائے جانے کے بعد وہ وزن سے فروخت ہوتے ہوں تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور اگر بعد اس کے وہ عدو گنتی سے فروخت ہوتے ہوں تو وہ بالا جماع چور کے ہو جائے گے اور اگر کوئی کپڑا چرا کر قطع کر کے سلایا تو سزائے قطع دی جانے کے بعد بالا جماع وہ چور کا ہوگا اور کچھ ضامن نہ ہوگا کذا فی الغیاشیہ لیکن چور کو اس سے کسی طرح انتفاع حاصل کرنا حلال نہیں اور فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ چور اس کا ضامن ہے یہ ترمذی میں ہے اور اگر چور نے سروقہ کپڑے کی قمیص کرا کر ہنوز نہیں سی ہے کہ اس کو ہاتھ کاٹے جانے کی سزا دی گئی تو یہ کپڑا قطع کیا ہو مسروق منہ کو واپس دے گا یہ مبسوط میں ہے۔

اگر کپڑا چرا کر اس کو سرخ رنگا پس چور کا ہاتھ کاٹا گیا تو امام اعظمؒ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک یہ کپڑا اس سے نہ لیا جائے گا اور نہ وہ ضامن ہوگا کذا فی الکافی اور اگر ہاتھ کاٹے جانے کے اس نے رنگا ہو تو واپس دے گا یہ بحر الرائق و اختیار شرح مختار میں ہے اور اگر چور نے اس کو سیاہ رنگا پھر اس کا ہاتھ کاٹا گیا یا ہاتھ کاٹے جانے کے بعد اس نے سیاہ رنگا تو امام اعظمؒ و امام محمدؒ کے نزدیک اس سے لے لیا جائے گا اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اول صورت اور یہ دونوں یکساں ہیں یہ فتح القدر میں ہے اور نوادر بن ساعد میں امام محمدؒ سے مروی ہے کہ اگر چور کا ہاتھ کاٹا گیا حالانکہ وہ چوری کا کپڑا رنگ چکا تھا یا کتر کر قمیص سی چکا تھا حتیٰ کہ مالک کو اس کے واپس لینے کا اختیار نہیں رہا تو میں چور کے حق میں یہ فتویٰ دوں گا کہ اس کا فروخت کر کے جو کچھ اس نے رنگنے و سینے میں بڑھایا ہے اس قدر اس کے ثمن سے لے لے اور باقی کو صدقہ کر دے اور اسی طرح قمیص کو فروخت کر کے اس کے ثمن سے سلائی بھر لے کر باقی کو صدقہ کر دے اور اس طرح اگر گے ہوں چرا کر ان میں ستویا آٹے بنانے کا تصرف کیا تو اس میں بھی یہی حکم ہے کہ اس

۱۔ یہ امر ظاہر ہے کہ حکم یہی ہے لیکن دیکھنا اس کو اس سے انتفاع حلال نہ ہوگا اور وہ ضامن ہوگا ۱۲۔ ۲۔ مترجم کہتا ہے کہ اصل اس مسئلہ میں وہ ہے کہ جس کو ہم نے غصب کے احکام میں لکھا ہے پس اس پر اس کا حکم بھی عرف کی جانب ممنوع ہوگا ۱۲۔

کے ثمن سے بقدر اپنے خرچہ کے لے کر باقی کو صدقہ کر دے یہ محیط میں ہے اور اگر اس نے درہم چرا کر ان کو گداختہ کیا یا کنگن، ہمال لیا تو مسروق منہ کو اختیار ہے کہ ان کو واپس لے لے اور اگر مال مسروقہ پیشل ہو کہ اس کے قتمہ بنا لیے یا لوہا ہو کہ اس کی زدہ بنائی تو مسروق منہ اس کو نہیں لے سکتا ہے اور اسی طرح سوائے ان کے عروض میں سے اگر کوئی چیز چرائی اور اس کو اس کی حالت سے متغیر کر دیا پس اگر تغیر بقصان ہو تو مسروق منہ اس کو لے سکتا ہے اور اگر مال مسروقہ بکری ہو جو بچہ جنی تو مسروق منہ ان دونوں کو واپس لے لے گا یہ مبسوط میں ہے اور اگر گیسوں چرا کر ان کو پیسا تو سزائے قطع دے جانے کے بعد وہ آٹا چور کا ہوگا اور اگر ستو چرا کر ان کو شہد یا روغن میں لت کیا تو اس میں ویسا ہی اختلاف ہی جیسا رنگنے میں ہے یہ شرح طحاوی میں ہے۔

اگر ایک شخص نے کسی ایسے کا مال چرایا جس سے اس کا ہاتھ کاٹا جانا واجب ہو اور اس نے عمد کسی ایسے کا ہاتھ کاٹا ہے کہ قصاص میں اس کا ہاتھ کاٹا جانا واجب ہو اور اس کے ہاتھ پر چوری و قصاص دونوں طرح سے ہاتھ کاٹا جانا مجتمع ہو تو قصاص مقدم رکھا جائے گا یعنی پہلے قصاص میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا پس وہ مال مسروقہ کا ضامن ہوگا یعنی تاوان دے دے گا اور اگر قصاص کا حکم دیے جانے کے بعد ہی صاحب قصاص نے اس کو عفو کر دیا یا اس سے صلح کر لی تو چوری میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر صلح نہ کی یہاں تک کہ زمانہ گذر گیا حالانکہ وہ دونوں اس قصاص سے صلح باہمی کی رضا مندی ظاہر کرتے ہیں پھر بعد زمانہ گذرنے کے دونوں نے صلح کر لی تو پھر بسبب تقادم عہد کے سرقہ کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اگر چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جانا اور قصاص میں بایاں پاؤں کاٹا جانا دونوں مجتمع ہوئے تو پہلے اس سے قصاص لیا جائے گا پھر قید خانہ میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ اچھا ہو جائے پھر چوری کی بابت اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اس طرح اگر قصاص اس کے سر میں زخم کا ہو اور چوری کی بابت ہاتھ کاٹنا تو بھی یہی حکم ہے یہ مبسوط میں ہے۔

باب: ۴

فطاع الطرق یعنی راہزنوں کے بیان میں

راہزنوں کے واسطے مخصوص احکام کا بیان:

جاننا چاہیے کہ راہزنوں کے واسطے چند احکام خاص ہیں مثل سولی دیے جانے وغیرہ کے لیکن ایسے راہزن جن کے واسطے احکام مخصوص ہیں شرطیں بھی ہیں ایک یہ کہ ایسے لوگ ہوں کہ ان کے واسطے شوکت و نعت ایسی حاصل ہو کہ راہ سے گزرنے والے ان کا مقابلہ نہ کر سکیں اور سامنے نہ ٹھہر سکیں اور راہگیروں پر انہوں نے رہزنی کی ہو خواہ ہتھیار سے یا لٹھ سے یا پتھر وغیرہ سے دوم آنکہ رہزنی شہر سے باہر سے دور ہو اور نیا بیچ میں لکھا ہے کہ دو قریہ اور دو مصر (دونوں کے درمیان تین رات و دن دوری ہو) اور دو مدینہ کے درمیان رہزنی نہیں ہوتی ہے اور اگر ان لوگوں اور قصبہ کے درمیان میں رات دن کی راہ ہو تو وہاں رہزنی ہوگی ایسا ہی ظاہر الروایہ میں ہے اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اگر ان لوگوں اور قصبہ کے درمیان راہ سفر سے کم بھی ہو یا قصبہ میں انہوں نے رات کو رہزنی کی ہو تو ان پر احکام راہزنوں کے جاری کیے جائیں گے اور اسی پر فتویٰ ہے سوم آنکہ یہ امر دارالسلام میں ان سے

۱۔ یہ نہ ہوگا کہ چوری میں اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا واللہ اعلم بالصواب۔ ۲۔ جن لوگوں کا مال لوٹا ان کا کوئی راہزن ایسا رشتہ دار نہ ہو کہ اگر وہ چوری کرتا تو اس پر قطع واجب نہ ہوتی بلکہ یہ ہو کہ سب کے سب ایسے ہوں کہ چوری میں ان پر سزائے قطع واجب ہو۔

صادر ہوا ہو چہارم آنکہ تمام وہ شرائط جو چھوٹی چوری میں مذکور ہوئے ہیں پائے جائیں اور یہ شرط ہے کہ راہزن سب کے سب اجنبی ہوں صاحبان اموال کے حق میں اہل و عیال و قطع ہوں اور پنجم آنکہ ان راہزنوں کے توبہ کر لینے اور مالکوں کو مال واپس کر دینے سے پہلے امام المسلمین نے ان پر قابو پایا ہوئے یہ تارخانہ میں ہے۔

اگر ایک جماعت روک ٹوک کی قدرت رکھنے والی یا ایک یہی شخص ایسا کہ روکنے اور باز رکھنے پر قادر ہی نکلے پھر انہوں نے راہزنی کا قصد کیا مگر ہنوز نہ کچھ مال لیا تھا نہ کسی جان کو قتل کیا تھا کہ گرفتار ہوئے تو امام ان کو قید خانہ میں کرے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کریں مگر پہلے ان کو تعزیر دی جائے گی اور اگر انہوں نے مال معصوم لے لیا یعنی کسی مسلمان یا ذمی کا مال لیا اور اس قدر مال ہے کہ در صورت اس جماعت پر تقسیم کیے جانے کے ہر ایک کو دس درہم یا زیادہ پہنچتے ہیں یا ایسی چیز پہنچتی ہے جس کی قیمت اس قدر ہوتی ہے تو امام ان لوگوں کے داہنے ہاتھ اور اٹنے طرف کے پاؤں قطع کرے گا اور اگر حربی مستامنوں کی راہزنی کی ہو تو راہزنوں پر حد جاری نہ کی جائے گی اور اگر راہزنوں نے قتل کیا اور مال نہ لیا ہو تو امام المسلمین ان کو بسزائے حد شرعی قتل کرے گا حتیٰ کہ اگر اولیائے مقتول نے ان کو عفو کر دیا تو ان کی عفو کی طرف التفات نہ فرمائے گا۔ اگر راہزنوں نے مال بھی لیا اور قتل بھی کیا تو ان کو سزا دینے میں امام کو اختیار ہے چاہے ان کے داہنے ہاتھ اور بائیں پاؤں قطع کر کے پھر ان کو قتل کرے اور سولی دے اور چاہے بدوں قطع ان کو قتل کرے اور چاہے ان کو سولی دے اور جب سولی دینا چاہا تو ظاہر الروایہ کے موافق زندہ سولی دے کر نیزہ سے ان کا پیٹ پھوڑ دے تا کہ مر جائیں اور امام طحاوی سے مروی ہے کہ زندہ سولی نہ دے گا بلکہ قتل کر کے پھر سولی دے گا اور اول اصح ہے اور یہی امام کرنی کا قول ہے پھر صحیح یہ ہے کہ تین روز تک ان کو سولی دیا ہوا چھوڑ رکھے گا پھر روک دور کر دے گا تا کہ ان لوگوں کے جو کوئی وارث وغیرہ ہوں وہ ان کو اتار کر دفن کریں یہ کافی میں ہے۔

جب راہزن قتل کیا گیا یا قطع کیا گیا تو پھر اس پر مال کی ضمان نہیں ہوتی ہے کذا فی المحیط اور نیز جو اس نے قتل یا مجروح کیا ہے اس کا بھی ضامن نہیں ہوتا ہے یہ تبیین میں ہے اور اگر مباشر قتل ان میں سے ایک ہی ہوا ہوتا ہم حد شرعی ان سب پر جاری کی جائے گی۔ یہ اختیار شرح مختار میں ہے۔ اگر راہزن نے قتل نہ کیا اور نہ مال لیا مگر مجروح کیا ہے تو جس کے مجروح کرنے میں قصاص آتا ہے اس کی بابت اس سے قصاص لیا جاسکتا ہے اور جس میں ارش ہے اس کا ارش لیا جاسکتا ہے اور لینے کا اختیار والیاں قصاص کو ہے یہ ہدایہ میں ہے اور اگر راہزنوں نے مال لیا اور مجروح کیا تو داہنے طرف کے ہاتھ اور بائیں طرف کے پاؤں قطع کیے جائیں گے اور جراحات کا حکم باطل ہو جائے گا خواہ عمداً مجروح کیا ہو یا خطا سے یہ سراج و ہاج میں ہے اور اگر راہزن نے تونہ کر لی پھر پکڑا گیا حالانکہ اس نے راہزنی کو عمداً قتل کیا ہے تو اولیائے مقتول کو اختیار ہے چاہیں اس کو قتل کریں اور چاہیں اس کو عفو کریں اور جو مال لے لیا ہے اگر اس کے پاس تلف ہو گیا یا اس نے تلف کر دیا اس کی ضمان اس پر واجب ہوگی یہ ہدایہ میں ہے اور اگر گروہ راہزنان قبل توبہ کرنے کے گرفتار ہوا اور انہوں نے عمداً مقتول و مجروح کیا ہے لیکن جو کچھ مال انہوں نے لیا ہے وہ پوچ چیز ہے اور ہر ایک کے حصہ میں قدر نصاب نہیں پہنچتی ہے تو امر قصاص میں خواہ قصاص نفس ہو یا قصاص جرح اولیائے قصاص کو اختیار ہے چاہے قصاص لے لیں اور چاہیں عفو کر دیں یہ نہایہ میں ہے۔

۱۔ اس کی تفصیل اپنے موقع پر بیان ہوئی وہاں دیکھنا چاہیے ۱۲۔ ۲۔ قول اولیائے قصاص یہ لفظ نہایت جامع ہے یعنی اگر چنانچہ قصاص ہے تو مقتول کا وارث اور اگر جرح ہے تو خود مجروح یا اگر مر گیا ہو تو اس کے ذمہ ۱۲۔

اگر رہزنی کر کے مال لے لیا پھر اس فعل کو ترک کر کے اپنے اہل و عیال میں زمانہ تک مقیم رہا تو امام المسلمین استحساناً اس پر حد جاری نہ کرے گا:

اگر اس نے فقط مال لے لیا اور کچھ نہیں کیا پس اگر توبہ کر کے حاضر ہوا قبل اس کے کہ گرفتار کیا جائے تو اس پر واجب ہے کہ جو کچھ اس نے لیا ہے واپس کر دے اور تلف ہو گیا ہو تو اس کی ضمان دے یہ سراجیہ میں ہے اور اگر رہزنی کر کے مال لے لیا پھر اس فعل کو ترک کر کے اپنے اہل و عیال میں زمانہ تک مقیم رہا تو امام المسلمین استحساناً اس پر حد جاری نہ کرے گا یہ مبسوط میں ہے اور اگر رہزنیوں میں کوئی طفل ہو یا مجنون ہو یا جس آدمی کی رہزنی کی ہے اس کا کوئی ذورحم محرم ہو تو باقیوں کے ذمہ سے حد ساقط ہو جائے گی یہ کافی میں ہے۔ اسی طرح اگر ان میں کوئی گونگا ہو تو بھی یہی حکم ہے یہ محیط میں ہے اور اگر رہزنیوں نے ایک بڑے قافلہ کی جس میں مسلمان اور حربی متامن بھی ہیں رہزنی کی تو ان رہزنیوں پر حد جاری کی جائے گی الا آنکہ قتل کرنا اور مال لے لینا خاصۃً حربیوں کے ساتھ واقع ہوا ہو تو ایسی صورت میں اس پر حد واجب نہ ہوگی جیسے کہ جب خالی حربی ہوں ان کے ساتھ مسلمان و ذمی کوئی نہ ہوں تو رہزنی سے حد واجب نہیں ہوتی ہے یہ نہایت میں ہے اور اگر قافلہ والوں میں سے بعض نے بعض کی رہزنی کی تو حد واجب نہیں ہوتی ہے یہ ہدایہ میں ہے اور ابراہیم نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ رہزنیوں نے ایک قافلہ کی رہزنی کی اور ایک آدمی کو قتل کیا پھر پیٹھ پھیر کر چل دے تو امام محمد نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں میں ولی مقتول موجود ہو اور اس نے ان رہزنیوں کا پیچھا کیا تو قافلہ والوں کو بھی ان کا پیچھا کرنا روا ہے ورنہ نہیں اور اگر ان رہزنیوں نے کسی شخص کا مال لے لیا تو قافلہ والوں کو ان کا پیچھا کرنا روا ہے اگرچہ مالک مال نے ان کا پیچھا نہ کیا ہو اور اگر یہ مال تلف کر دیا گیا ہو تو قافلہ والوں کو پیچھا کرنا روا نہیں ہے اس واسطے کہ وہ مال ان تلف کرنے والوں کے ذمہ قرضہ ہو گیا ہے یہ محیط میں ہے اور اگر ان میں کوئی غلام ہو تو وہ مثل مروان آزاد کے ہے اور عورت کا بھی یہی حکم ہے یہ ظاہر الروایہ ہے یہ مبسوط میں ہے۔ اگر رہزنی کرنے میں مرد و عورتیں مشترک ہوئی ہوں تو ظاہر الروایہ کے موافق ان پر سزائے قطع کی حد نہیں واجب ہوگی۔

اگر گواہوں نے رہزنیوں پر عام لوگوں میں سے کسی کے رہزنی کرنے کی گواہی دی:

اگر رہزنیوں میں عورت ہو جس نے قتل کیا اور مال لے لیا اور مردوں نے یہ نہیں کیا تو عورت قتل نہ کی جائے گی بلکہ مرد قتل کیے جائیں گے اور یہی مختار ہے۔ دس عورتوں نے رہزنی کی اور انہوں نے قتل کر کے مال لے لیا تو سب قتل کی جائیں اور سب مال کی رضا مند ہوں گی یہ سراجیہ میں ہے۔ اگر رہزنیوں نے اقرار کیا تو رہزنی کے ایک بار اقرار کرنے سے قطع طریق ثابت ہو جاتا ہے لیکن سرقہ صغریٰ کے مثل اس میں بھی اقرار کنندہ کا پھر جانا مقبول ہے یعنی اگر اقرار سے رجوع کیا تو قبول ہوگا پس حد ساقط ہو جائے گی اور مال کا اس سے مواخذہ کیا جائے گا بشرطیکہ اس نے اقرار مذکور کے ساتھ مال لینے کا اقرار کیا ہو اور نیز قطع طریق کا ثبوت دو گواہوں کی گواہی سے ہوتا ہے بشرطیکہ دونوں رہزنی معائنہ کرنے کی رہزنیوں کے اقرار کرنے کی گواہی دیں اور اگر ایک نے رہزنی کے معائنہ کی اور دوسرے نے رہزنیوں کے اقرار رہزنی کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اگر گواہ نے اپنے باپ پر رہزنی کی گواہی دی تو خواہ باپ ہو یا دادا ہو یا پردادا وغیرہ کتنے ہی اونچے درجہ کا ہو گواہی قبول نہ ہوگی اور اس طرح اگر اپنے بیٹے یا پوتے یا

پروتے وغیرہ کتنے ہی نیچے درجہ کے فرزند پر رہزنی کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اور اگر دونوں گواہوں نے کہا کہ قطعاً علینا وعلی اصحابنا داخلہ واصلنا تو گواہی قبول نہ ہوگی اور اگر گواہوں نے رہزنیوں پر عام لوگوں میں سے کسی کے رہزنی کرنے کی گواہی دی اور اس شخص کا کوئی ولی معلوم ہوتا ہے یا نہیں معلوم ہوتا ہے تو بدوں کسی خصم کے حاضر ہونے کے ان پر حد نہیں قائم کی جائے گی اور اگر رہزنیوں نے امان لے کر داخل ہونے والے تاجروں کی رہزنی دار الحرب^۱ میں کی یا دارالاسلام میں ایسے مقام پر کی جہاں باغی لوگ غالب ہیں پھر یہ لوگ گرفتار کر کے امام المسلمین کے پاس لائے گئے تو ان پر حد نافذ نہ کرے گا اور اگر رہزنیوں کی ایسے قاضی کے پاس پہنچائے گئے جس کا یہ مذہب ہے کہ ان سے مال کی ضمانت کے پس اس نے مال کی ضمانت لے کر اولیائے مقتولین کے سپرد کر دیا یعنی ان رہزنیوں کو اولیائے مقتولین کے سپرد کر دیا پس ان لوگوں نے اولیائے مقتولین سے دیت ادا کرنے پر صلح کر لی پھر ایک زمانہ کے بعد یہ لوگ کسی دوسرے^(۱) قاضی کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ ان پر حد قائم نہ کرے گا اور جب کہ رہزنیوں کی نسبت قاضی نے قتل کا حکم دے دیا اور اس غرض سے ان کو قید خانہ میں بند کیا پھر کسی اجنبی نے جا کر ان کو قتل کر ڈالا تو قاتل پر کچھ نہیں ہے اور اسی طرح اگر ان کا ہاتھ کاٹ ڈالا تو بھی کچھ نہیں لازم آئے گا یہ فتح القدر میں ہے۔

اگر امام نے رہزنیوں کو قید خانہ میں بند کیا اور ہنوز ان پر پورا ثبوت نہیں ہوا ہے کہ کسی رہزنی کو کسی آدمی نے جا کر قتل کر دیا پھر رہزنی کی رہزنی کے گواہ قائم ہوئے تو اس کے قاتل پر بھی قصاص لازم آئے گا لیکن اگر یہ قاتل اس مقتول کا ولی ہو جس کو رہزنی نے رہزنی میں قتل کیا ہے تو اس صورت میں اس قاتل پر کچھ لازم نہیں ہوگا یہ مبسوط میں ہے اور اگر لصوص نے کسی قوم کا مال لے لیا پس ان لوگوں نے کسی اور قوم سے فریاد چاہی پس دوسری قوم کے لوگوں نے ان لصوص کا پیچھا کیا پس اگر مالکان مال ان کے ساتھ ہوں تو ان کو لصوص سے قتال کرنا روا ہے اور اسی طرح اگر لصوص غائب ہو گئے ہوں اور فریاد رسی کے واسطے نکلنے والے لوگ ان لصوص کی جگہ پہنچاتے ہوں اور ان سے مال واپس کر دینے پر قادر ہوں تو بھی یہی حکم ہے اور اگر یہ لوگ ان لصوص کا ٹھکانا نہ پہنچاتے ہوں اور ان سے مال واپس کر دینے کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو ان کو لصوص سے مقابلہ کرنا روا نہیں ہے اور اگر مالکان مال نے رہزنی سے مقابلہ کر کے اس کو قتل کیا تو ان پر کچھ واجب نہیں ہے اس واسطے کہ انہوں نے اپنے مال کے واسطے اس کو قتل کیا ہے اور اگر رہزنی ان کے سامنے سے بھاگ کر ایسی جگہ چلا گیا کہ اگر اس کو یہ لوگ اسی جگہ چھوڑ دیتے تو وہ ان کی رہزنی پر قادر نہ ہوتا مگر انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا تو ان پر اس کی دیت واجب ہوگی اس واسطے کہ انہوں نے قتل کر ڈالا نہ بغرض اپنے مال کے اور اگر رہزنیوں میں سے کوئی شخص بھاگا اور اس نے اپنے آپ کو ایسی جگہ میں ڈالا (گہرے کنوئیں میں) کہ اس حالت میں وہ قطع طریق پر قادر نہیں ہو سکتا ہے پھر یہ لوگ پیچھا کر کے اس تک پہنچے اور انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا تو ان پر اس کی دیت واجب ہوگی اس واسطے کہ اس کو قتل کرنا اپنے مال کے خوف سے نہیں واقع ہوا ہے۔ واضح ہو کہ آدمی کو اپنے مال کے واسطے قتال کرنا روا ہے اگرچہ مال مذکور بقدر نصاب بھی نہ ہو اور اس مال لینے کو جو شخص اس سے مقابلہ کرے اس کو قتل کر سکتا ہے یہ فتح القدر میں ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کا گلا گھونٹ کر اس کو مار ڈالا تو امام اعظم کے نزدیک اس کی دیت اس قاتل کی مددگار برابری پر ہوگی اور اگر اس نے شہر میں ایک بار سے زیادہ گلا گھونٹ کر مار ڈالنے کی حرکت کی ہو تو براہ سیاست یہ شخص قتل کر دیا جائے گا کذا فی الکافی۔

۱۔ انہوں نے ہمارے ساتھیوں کی راہ ماری و ہمارا مال لے لیا یعنی ان لوگوں نے ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کی رہزنی کی اور ہمارا مال لے لیا ۱۲۔

۲۔ دار الحرب و دارالاسلام کی تعریف اپنے اپنے موقع پر بیان ہوئی وہاں دیکھنا چاہیے ۱۲۔ ۳۔ لصوص جمع لصوص چور کو کہتے ہیں ۱۲۔ ۴۔ حتیٰ کہ اگر رہزنی

اس کو مار ڈالے تو یہ شہید ہوگا لفظ علیہ السلام من قتل دون ماله فهو شہید یعنی جو شخص اپنے مال کے سبب سے مار ڈالا گیا تو وہ شہید ہوا ہے ۱۲۔

(۱) جس کے نزدیک عفو کرنا کچھ مؤثر نہیں ہے بلکہ حد شرعی میں ان کو سزائے قتل و سولی دی جائے گی جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔

کتاب السیر

اس کی تفصیل شرعی و شرط و حکم کے بیان میں
اس میں دس ابواب ہیں

باب : ۱ تفسیر شرعی:

واضح ہو کہ اس کی تفسیر شرعی اس طرح کی گئی ہے کہ جہاد بلانا ہے طرف دین حق کے اور قتال کرنا ہر ایسے شخص کے ساتھ جو انکار کرتا ہے اور قبول کرنے سے تمرد^(۱) کرتا ہے خواہ یہ فعل اپنی جان سے کرے یا مال سے۔
شرط و حکم جہاد:

شرط اباحت جہاد دو یا تین ہیں ایک یہ کہ دشمن جس دین حق کی طرف بلایا جاتا ہے اس کے قبول سے انکار کرے اور دشمن کو ہماری طرف سے امان نہ دی گئی ہو اور ہمارے ان کے درمیان عہد ہو۔ دوم آنکہ جہاد کنندہ اپنے علم و اجتہاد سے یا جس کی رائے و اجتہاد کا معتقد ہے اس کے اجتہاد سے یہ امید کرتا ہو کہ اس جہاد سے اہل اسلام کو قوت و شوکت حاصل ہوگی اور اگر اس کو جہاد و قتال کرنے میں مسلمانوں کے واسطے قوت و شوکت حاصل ہونے کی امید نہ^(۲) ہو تو اس کو قتال کرنا حلال نہیں ہے کیونکہ اس میں اپنے نفس کو تہلکہ میں ڈالنا ہے۔ حکم جہاد یہ ہے کہ دنیا میں اس جہاد کرنے والے کے ذمہ سے واجب ساقط ہو جاتا ہے اور آخرت میں سعادت و ثواب عظیم حاصل ہوتا ہے جیسے اور عبادات میں ہے یہ محیط سرخسی میں ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جہاد قبل نفیر کے نفل ہے اور بعد نفیر کے فرض عین یعنی ہر فرد پر فرض ہو جاتا ہے۔

جہاد قبل نفیر کے فرض کفایہ ہے اور بعد نفیر کے فرض عین ہے:

عامہ مشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاد ہر حال میں فرض ہے مگر بات اتنی ہے کہ قبل نفیر کے فرض کفایہ ہے اور بعد نفیر کے فرض عین ہے اور یہی قول صحیح ہے۔

۱۔ اشارہ ہے کہ امام مخصوص بذات امام المسلمین نہیں ہے بلکہ کسی نے امان نہ دی ہو ۱۲۔ ۲۔ محصل کلام یہ ہے کہ جہاد کرنا جب مباح ہے کہ اس کے جہاں سے یہ امید ہو کہ اہل اسلام کو زور و قوت و شوکت حاصل ہوگی اور اگر اس امید کا علم خواہ اس کو اپنے علم سے حاصل ہو یا جس پر اس کو اعتماد اور اعتقاد ہے اس کے قول سے ثابت ہو کہ اگر جہاد کیا جائے تو یہ امر حاصل ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ ۱۲۔ ۳۔ یہ حکم مجموع مخصوص یہ جہاد واجب ہے اور جہاد قطوع میں ثواب آخرت عظیم ہے کذا قبل اور یہ نہیں صحیح ہے کیونکہ جہاد ہر حال میں فرض ہے وقد قال علیہ السلام الجہاد ماض اور قولہ شرط الا جب جہاد مراد یہ ہے کہ تحقیق جہاد جو فرض ہے اس شرط سے ہے دفیہ مسافتہ ۱۲۔ ۴۔ فرض عین وہ ہے کہ جس پر فرض ہو جب تک وہ اس کو نہ ادا کرے تب تک ادا نہیں ہوتا بخلاف فرض کفایہ کے کہ جب تک ادا نہ کیا جائے تب تک جس کے ذمہ فرض ہوا ہے سب کے ذمہ رہے اور جن لوگوں میں سے بعض نے ادا کر لیا تو باقیوں کے ذمہ سے ساقط ہو جائے ۱۲۔

(۱) سرکشی براہ نام فرماتی ہے ۱۲۔ (۲) ایک آدمی ایک نفس سے جہاد کرتا ہے ۱۲۔

نفیر کے معنی یہ ہیں کہ کسی شہر کے لوگوں کو خبر دی جائے کہ دشمن آگیا تمہاری جان و مال و اہل و اولاد کا قصد رکھتا ہے پس جب اس طور پر ان کو خبر دی گئی تو اس شہر میں سے جو جو شخص جہاد پر قادر ہے اس پر واجب ہوگا کہ جہاد کے واسطے نکلے اور قبل اس خبر کے ان کو جہاد کے واسطے نہ نکلنے کی گنجائش تھی۔ پھر نفیر عام آجانے کے بعد تمام اہل اسلام پر شرفاً و غرباً جہاد فرض عین نہیں ہو جاتا ہے اگرچہ ان کو فقیر عام پہنچ گئی ہو اور فرض عین انہیں پر ہوگا جو دشمن سے قریب ہیں اور وہ جہاد کرنے پر قادر ہیں اور ان پر جو دشمن سے دور ہیں تو ان پر بفرض کفایہ فرض ہوتا ہے بغرض عین حتیٰ کہ ان کو ترک جہاد کی گنجائش ہے پھر جب ان کی طرف حاجت پیش آئے بایں طور کہ جو دشمن سے قریب ہیں وہ دشمن سے مقابلہ کرنے سے عاجز ہوں یا تکاسل کر کے جہاد نہ کریں تو ان عاجز یا کسملندوں سے جو قریب ہیں ان پر فرض عین ہو جائے گا کہ وہ نکلیں اور اگر وہ بھی عاجز یا کسملند ہو جائیں تو جوان سے قریب ہیں ان پر فرض عین ہوگا علیٰ ہذا القیاس تمام اہل زمین پر شرفاً و غرباً اسی ترتیب سے فرض عین ہوگا پھر واضح ہو کہ نفیر دینے والا خواہ عادل ہو یا فاسق ہو اس معاملہ میں اس کی خبر مقبول ہوگی اور یہی حکم سلطانی منادی کا ہے کہ اس کی خبر بھی مقبول ہوگی خواہ عادل ہو یا فاسق ہو اور شیخ ابوالحسن کرخی نے اپنی مختصر میں فرمایا کہ نہ چاہیے کہ ثغور مسلمین سے کوئی ثغرا ایسے لوگوں سے جو دشمنوں کا مقابلہ لڑائی میں کریں خالی چھوڑا جائے اور اگر کسی ثغرا کے لوگ دشمن کے مقابلہ سے ضعیف ہوئے اور ان پر خوف ہو تو ان سے ادھر والے مسلمانوں پر واجب ہوگا کہ اگر وہ گروہ ان کی طرف جائیں اور پہلے ان پر جو سب سے قریب ہیں پھر جوان سے قریب ہیں اسی ترتیب سے واجب ہوتا جائے گا اور نیز واجب ہے کہ ہتھیاروں و سواری سے ان کی مدد گاری کریں تاکہ جہاد ہمیشہ قائم رہے یہ محیط میں ہے۔

ہر مرد آزاد عاقل تندرست پر جو جہاد پر قادر ہے جہاد کرنا واجب ہے:

قال المترجم واضح رہے کہ مشرکان غرب سے سوائے اسلام کے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور سوائے عرب کے اور ملک کے کفارہ سے اگر یہ اسلام نہ لائیں بلکہ جزیہ دینا قبول کریں تو قبول کیا جائے گا قال فی الکتاب اور مشرکان عرب سے جو اسلام نہیں لائے ہیں اور غیر عرب سے جو مسلمان نہیں ہوئے اور نہ انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا ہے قتال کرنا واجب ہے اگرچہ وہ لوگ ہم پر پہل نہ کریں یہ فتح القدر میں ہے۔ اور ہر مرد آزاد عاقل تندرست پر جو جہاد پر قادر ہے جہاد کرنا واجب ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے۔ طفل پر جہاد واجب نہیں ہے اور نہ غلام پر اور نہ عورت پر اور نہ اندھے پر اور نہ لہجے پر اور نہ قطع^(۱) پر یہ ہدایہ میں ہے۔ جب کسی مرد نے جہاد کے واسطے نکلنا چاہا حالانکہ اس کا باپ یا ماں زندہ ہو موجود ہے تو بدوں اس کی اجازت کے اس کو نکلنا نہ چاہیے الا نفیر عام کے وقت یعنی جب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور اگر اس کے ماں و باپ دونوں ہوں اور ایک نے اجازت دی اور دوسرے نے جانے کی اجازت نہ دی تو اس کو دوسرے کے حق کی وجہ سے نکلنا روا نہیں ہے پس جب ہر دو مادرو پدر نے یا دونوں میں سے ایک نے نکلنا مکروہ رکھا تو اس کو نکلنا مباح نہیں ہے خواہ یہ حالت ہو کہ ان کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو مثلاً دونوں تنگ دست ہوں کہ ان کا نفقہ اسی کے ذمہ ہے یا ان کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو اور یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے اس وقت ہے کہ اس کے والدین مسلمان ہوں اور اگر اس کے والدین کافر ہوں یا دونوں میں سے ایک کافر ہو اور دونوں نے اس کے جہاد کو جانا مکروہ رکھا یا کافر مکروہ رکھا تو اس پر لازم ہے کہ اس میں اپنے قلب سے تحری کرے پس اگر اس کی تحری میں یہ بات آئی۔

کہ انہوں نے میرا نکلنا اسی وجہ سے مکروہ رکھا ہے کہ میرے قتل ہو جانے کے خوف سے ان کے دل پر گھبراہٹ و صدمہ

۱۔ ثغور ایسے بلاد اسلام جو ملحق بسلام کفار ہو۔

(۱) ہاتھ پاؤں کٹنا ہوا۔

ہے تو نہ نکلے گا اور اگر اس کی تحری میں یہ بات آئے کہ انہوں نے میرا جہاد کا جانا اسی وجہ سے مکروہ رکھا کہ ہمارے دین و ملت والوں سے قتال کرے گا تو اس کو اختیار ہوگا کہ بدوں ان کی رضا مندی کے چلا جائے الا آنکہ ان کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں نہ نکلے گا اور اگر اس نے تحری کی اور اس کی تحری ان میں سے کسی بات پر واقع نہ ہوئی بلکہ اس کو شک رہا اور کوئی جانب گمان دوسرے پر مرجح نہ ہوئی تو یہ کتاب میں مذکور نہیں ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ چاہیے کہ نہ نکلے اور اگر دونوں کو اس کا نکلنا اسی وجہ سے گوارا نہ ہو کہ ہمارے اہل دین سبقتال کرے گا اور نیز اس کے قتل کے خوف سے بھی ان کو بے صبری اور صدمہ ہے تو جہاد کو نہ جائے۔ اگر اس کے مادر و پدر زندہ ہیں انہوں نے اس کو جہاد کو جانے کے واسطے اجازت دے دی اور اس کے جدین و جدتین (۱) بھی زندہ ہیں انہوں نے اس کا جانا مکروہ رکھا تو جد و جدہ کے اکراہ کی طرف التفات نہ کرے جہاد کے واسطے جائے اور اگر اس کے والدین مر گئے ہوں مگر دادا اور نانی زندہ ہوں یعنی باپ کا باپ اور ماں کی ماں تو بدوں ان دونوں کی اجازت کے نہیں جاسکتا ہے اور اگر اس کا دادا اور سگانا اور سگی دادا اور اس کی سگی نانی موجود ہوں تو اجازت کا اختیار سگی نانی اور سگی دادا کو ہے۔

یہ اس وقت ہے کہ اس نے جہاد کے واسطے نکلنا چاہا اور اگر یہ چاہا کہ تجارت کے واسطے دشمن کے ملک میں امان لے کر جائے پس والدین نے اس کے نکلنے کو مکروہ رکھا پس اگر دشمنوں کے ملک کا اسیر ایسا ہوں کہ اس کی طرف سے اس کو اپنے اوپر خوف نہ ہو اور یہ لوگ ایسی قوم ہوں کہ اپنے عہد کو وفا کرنے میں معروف ہوں اور اس کو وہاں تجارت کے لیے جانے میں منفعت ہو تو ضائع نہیں ہے کہ یہ ان کی نافرمانی کر کے چلا جائے اور اگر دشمنوں کے ملک کے تاجروں میں مسلمانوں کے لشکروں میں سے کسی لشکر کے ساتھ جاتا ہے پس اس کے والدین نے یا ایک نے اس کو مکروہ رکھا پس اگر یہ لشکر بڑا ہو کہ غائب رائے سے دشمنوں کی طرف سے ان پر خوف نہ ہو تو بھی نکلنے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور اگر غالب رائے کے موافق اس لشکر کے حق میں دشمنوں کی طرف سے خوف ہو تو نہ نکلے اور اسی طرح اگر سر یہ یا جریدہ الخلیل (۲) ہو تو بھی بدوں والدین کی اجازت کے نہ نکلے اس واسطے کہ غالب اس صورت میں ہلاکت ہی ہے اور یہ جو ہم نے ذکر کیا، یہ والدین اور اجداد و جدات کی صورت میں تھا اور رہا ان کے سوائے اور ذوی الرحم مثل بیٹے و بیٹیاں و بھائی و بہن و پھوپھیاں و ماموں و خالائیں وغیرہ ہر ذی رحم محرم کہ اس نے اس کا جہاد کے واسطے نکلنا مکروہ رکھا اور یہ امر ان پر شاق ہے پس اگر ان کے ضائع ہو جانے کا خوف ہے مثلاً ان کے ملک میں کچھ مال نہیں ہے اور وہ صغیر یا صغیرہ ہیں یا کبیرہ عورتیں ہیں مگر ان کے ازواج نہیں ہیں یا کبیر مرد ہیں مگر اپانچ ہیں کہ کسی طرف کے لائق نہیں ہیں اور ان کا نفقہ اسی پر ہے تو بدوں ان کی اجازت کے نہ جائے اور اگر ان کے حق میں ضائع ہونے کا خوف نہیں ہے ہاں طور پر ان کا نفقہ اس پر نہیں ہے مثلاً ان کا مال ہے یا مال نہیں ہے مگر وہ لوگ بالغ تندرست ہیں یا عورتیں بالغہ ہیں کہ جن کے شوہر موجود ہیں تو بدوں ان کی اجازت کے جاسکتا ہے اور رہی اس کی بیوی پس اگر اس کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو بدوں اس کی اجازت کے نہ جائے اور اگر اس کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو تو بدوں اس کی اجازت کے چلا جائے اگرچہ یہ امر اس پر شاق گذرے یہ ذخیرہ میں ہے۔

عورت نے اگر اپنے پسر کو جہاد سے منع کیا پس اگر اس عورت کا قلب اس کے صدمہ فراق کا متحمل نہیں ہے اور چھوڑنے سے اس کو ضرور پہنچانتا ہے تو اس کو منع کرنے کا اختیار ہے اور گنہگار نہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ امام محمد نے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں مردوں کے ساتھ ہو کر قتال کریں الا اس صورت میں کہ مسلمان لوگ مضطر ہوں اور مددگی

۱۔ سر یہ باج و تخفیف الراہ بڑے لشکر کا ایک حصہ جمع اس کی سرایا ہے۔ ۱۲۔

(۱) دادا نانا جدتین یعنی دادی و نانی واللہ اعلم۔ ۱۲۔ (۲) رسالہ سواروں کا ۱۲۔

جانب محتاج ہو جائیں پس اگر مسلمان اس کی طرف مضطر ہوں بایں طور کہ خبر نفیر آئی اور عورتوں کے نکلنے کی حاجت و ضرورت تھی تو قتال کے واسطے عورتوں کے نکلنے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور عورتوں کو ایسی حالت میں روا ہے کہ بدوں اجازت اپنے آباء اور شوہروں کے نکلیں اور آباء و شوہروں کو ایسی حالت میں ان کی ممانعت کا اختیار نہیں ہے اور اگر نکلنے سے منع کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور اسی طرح اگر مسلمان لوگ ان کی مدد کی طرف مضطر ہوں و لیکن ان عورتوں کو دور سے تیر اندازی کر کے قتال کرنا ممکن ہو تو بھی اس طرح قتال کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور غازیوں کے واسطے روٹی و کھانا پکانے و پانی پلانے اور مجروحوں کی دوا کرنے کے واسطے جوان عورتوں نہ جائیں اور رہیں مجوزہ یعنی بڑھیا عورتوں جن کا سن اس قدر دراز ہو گیا ہے تو مضائقہ نہیں ہے کہ وہ صوف وغیرہ کے کپڑے پہن کر بڑے لشکر کے ساتھ نکلیں اور مریضوں و مجروحوں کی مدارات کریں اور پانی پلائیں و روٹی کھانا پکائیں و لیکن قتال نہ کریں۔ یعنی حکم طفل کا اور اس مرد کا جو مرابط ہے یعنی قریب بہ بلوغ ہے اگر قتال کی طاقت رکھتا ہو تو مثل حکم بالغ کے ہے جب تک کہ نفیر عام نہ پہنچی ہو یعنی یہ حکم ہے کہ بدوں اجازت والدین کے نہ نکلے اور باپ اس کو اجازت دینے سے گنہگار نہ ہوگا جیسے بالغ کو اجازت دینے سے گنہگار نہیں ہوتا ہے اگر چہ جانتا ہو کہ اکثر اس میں قتل ہو جانا ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر مدیوں نے جہاد کرنا چاہا حالانکہ قرض خواہ غائب ہے پس اگر مدیوں کا مال اس قدر ہو کہ جو کچھ اس پر قرضہ ہے اس کے ادا کے واسطے دائی ہو تو اس کے جہاد کے لیے جانے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔

کسی کو وصی کر دے کہ اگر مجھ پر حادثہ موت پیش آئے تو میرے ترکہ میں سے میرا قرضہ ادا کر دے اور اگر اس کے پاس وفائے قرضہ کے لائق نہ ہو تو اولے یہ ہے کہ ٹھہرا رہے یہاں تک کہ تحمل اس کا قرضہ ادا کرے اور اگر باوجود اس کے بدوں اجازت قرض خواہ کے اس نے جہاد کیا تو یہ مکروہ ہے اور اگر قرض خواہ نے اس کو جہاد کرنے کی اجازت دے دی مگر قرضہ سے بری نہ کیا تو بھی مستحب یہی ہے کہ ادائے قرضہ کے واسطے تحمل کرے اور اگر ایسی حالت میں اس نے جہاد کیا تو بھی مضائقہ نہیں ہے اور اس طرح اگر قرضہ میعاد ہی ہو اور قرض دار بطریق ظاہر جانتا ہو کہ میں میعاد آنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا تو بھی یہی حکم ہے کذا فی الذخیرۃ اور اگر زید نے اپنے قرض خواہ کو عمرو پر اترائی کرا کے جہاد کا قصد کیا پس اگر زید کا عمرو پر مثل اس قرضہ کے قرض ہو تو اس کے جہاد میں جانے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور اگر زید کا عمرو پر مثل اس کے مال نہ ہو تو مستحب یہ ہے کہ نہ نکلے اور اگر عمرو نے زید کو جہاد میں جانے کی اجازت دی اور قرض خواہ نے نہ دی تو جانے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے جب کہ حوالہ تمام ہو گیا ہے اور اگر اس نے قرض خواہ کے لیے کسی پر اترائی نہیں کرائی و لیکن اس کی طرف سے بدوں اس کی اجازت کے کسی شخص نے اس کے قرض خواہ کے واسطے بدیں طور کفالت کر لی کہ وہ قرض دار کو بری کر دے اور اس نے قبول کیا تو ایسی صورت میں قرض دار کو روا ہے کہ جہاد کو چلا جائے اور ان دونوں میں سے کسی سے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر اس کی طرف سے کسی کفیل نے اس کے حکم سے کفالت کر لی ہو اور مدیوں کی برأت کی شرط نہیں کی تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ جہاد کو جائے جب تک کہ قرض خواہ کفیل سے اجازت حاصل نہ کرے اور اگر کفالت بغیر اس کے حکم کے کر لی ہے تو اس پر یہی واجب ہے کہ فقط طالب سے اجازت حاصل کرے اور کفیل سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہی حال کفالت بالنفس میں ہے کہ اگر کفیل نے اس کے حکم سے اس کے نفس کی کفالت کی ہے یعنی بایں طور کہ جب قرض خواہ اس کو طالب کرے گا تو میں اس کو حاضر کروں گا اس طرح کفالت بالنفس کر لی مگر اس کے حکم سے تو اس کو بدوں اجازت کفیل کے جانے کا اختیار نہیں ہے۔

یہ سب کچھ جو اوپر مذکور ہوا اس وقت ہے کہ نفیر عام نہ ہو اور جب نفیر عام ہو تو مضا لقتہ نہیں:

اگر بدوں اس کے حکم کے کفالت بانفس کر لی ہو تو بدوں اجازت لینے کفیل کے اس کے چلے جانے میں کچھ مضا لقتہ نہیں ہے اور اگر قرض دار مفلس ہو اور اس کو ادائے قرضہ کے لیے کوئی حیلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ غازیوں کے ساتھ دار الحرب میں تجارت کے واسطے جائے تو مضا لقتہ نہیں ہے کہ چلا جائے اور قرض خواہ سے اجازت لے اور اگر اس نے کہا کہ جہاد کے واسطے جاتا ہوں شاید مجھے نفل^۱ یا سہام میں سے ایسا کچھ مل جائے کہ میں اس سے اپنا قرضہ ادا کر دوں تو مجھے پسند نہیں ہے کہ بدوں اجازت قرض خواہ کے جائے۔ یہ سب جو مذکور ہوا اس وقت ہے کہ نفیر عام نہ ہو اور جب نفیر عام ہو تو مضا لقتہ نہیں ہے کہ قرض دار چلا جائے خواہ اس کے پاس وفائے قرضہ کے لائق مال ہو یا نہ ہو خواہ قرض خواہ نے اس کو جانے کی اجازت دی ہو یا منع کیا ہو پھر جب اس مقام پر پہنچنا جہاں مسلمانوں نے فرار پکڑا ہے پس اگر ایسا امر نظر آئے جس سے مسلمانوں کے حق میں خوف ہو تو ضرور قتال کرے اور اگر ایسا امر ہو کہ اس سے مسلمانوں کے حق میں خوف نظر نہ آئے تو اس کو رو نہیں ہے کہ مقابلہ کرے الا با اجازت اپنے قرض خواہ کے یہ محیط میں ہے۔ ایک شہر میں ایک عالم ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی فقیہ وہاں نہیں ہے تو اس کو جہاد نہ کرنا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کو اس کے ضائع ہونے سے نقصان پہنچے گا یہ سراجیہ میں ہے۔ قال المترجم یہ روایت فتاویٰ ہے اور کچھ نہیں ہے اور نہ میں نے کسی فقیہ معتمد کے قول کو دیکھا جس نے اس کی تصریح کی ہو بلکہ بعض نے تشبیح کی ہے اور اصح یہی ہے کہ جہاد بحفظ الدین ہے وقد غم النبي و ليس يمكن وجود احد مثله في العلمين من الاولين والآخرين من الملائكة والرسل والجن والانس كلهم اجمعين واللہ تعالیٰ اعلم۔

اگر کسی شخص کے پاس دو یعتیم ہوں جن کے مالک غائب ہوں پس اگر اس نے کسی کو وصی کر دیا کہ یہ دو یعتیم ان کے مالکوں کو واپس کر دے تو اس کو اختیار ہوگا کہ جہاد کے واسطے چلا جائے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ غلام کو نہ چاہیے کہ بدوں اجازت اپنے مولیٰ کے جہاد کے واسطے نکلے جب تک کہ نفیر عام نہ ہو یہ محیط سرحدی میں ہے۔ جب نفیر اہل روم کی جانب سے واقع ہو تو ہر شخص پر جو قتال کر سکتا ہے واجب ہے کہ جہاد کے واسطے نکلے اگر وہ اروراحلہ^(۱) کا مالک ہو اور کچھ زرہنا نہیں جائز ہے الا آنکہ کوئی مذکر کھلا ہو یا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر مشرک لوگ مسلمانوں کی زمین میں داخل ہوئے اور مال لے کر واولاد و عورتیں گرفتار کر کے لے گئے پھر مسلمانوں کو اس کا علم ہوا اور ان کو ان مشرکوں پر قوت حاصل ہے تو ان پر واجب ہوگا کہ ان کافروں کا پیچھا کریں یہاں تک کہ ان سب چیزوں^(۲) کو ان کے ہاتھ سے چھوڑ لادیں جب تک کہ کافر لوگ دارالاسلام میں ہیں اور جب وہ زمین حرب میں داخل ہو گئے تو بھی بچوں و عورتوں کے حق میں یہی حکم ہے کہ پیچھا کر کے ان کو چھوڑ دو اور جب تک کہ وہ ان کو لے کر اپنے قلعوں و حفاظت گاہ میں نہیں داخل ہوئے ہیں۔ اگر کافروں نے فقط مال ہی لے لیا اور دار الحرب میں پہنچ گئے تو مسلمانوں کو گنجائش ہے کہ ان کا پیچھا نہ کریں اور جب کافر لوگ ان چیزوں کو لے کر اپنے دار الحرب کے قلعوں و حفاظت گاہ میں پہنچ گئے پس مسلمان لوگ ان کے پیچھے وہاں پہنچے تاکہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں تو یہ افضل ہے اور اچھا کام نے اختیار کیا اور اگر انہوں نے پیچھا نہ کیا چھوڑ دیا تو مجھے امید ہے کہ اس کی گنجائش شرعاً ہو اور ایسی صورت میں ذمیوں کے بچے و عورتیں و مال اس حکم میں بمنزلہ مسلمانوں

۱۔ نفل وہ مال اسباب غنیمت جس کو امیر لشکر نے بوقت حملہ کر دیا کہ اس جنگ میں جو جس کے ہاتھ لگے وہ اس کا ہے ۱۲۔ ۲۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا حال انکہ ان کے مثل اولین و آخرین میں سے کوئی کسی عالم کی مانند نہ ہو گیا انبیاء و جن و انس جملہ میں سے نہیں ہے ۱۲۔

(۱) زاد در احد رکھا ہوا ۱۲۔ (۲) اموال و بچے و عورتوں ۱۲۔

کے بچے و عورتوں و مال کے ہیں پھر واضح رہے کہ ہر ایک مسلمان پر ان کا پیچھا کرنا جب فرض ہے کہ جب ان کو امید ہو کہ کافروں کے اپنے قلعوں میں گھس جانے سے پہلے ان تک پہنچ جائیں گے۔

بیت المال میں مال ہو تو امام کو سزاوار نہیں ہے کہ مالداروں پر ایسا حکم جاری کرے جس سے بدوں ان کی خوشی خاطر کے ان کا کچھ مال لے لے:

اگر ان کی غالب رائے میں یہ امر ہو کہ نہ پہنچیں گے تو ان کو گنجائش ہوگی کہ اپنے مقام پر ٹھہرے رہیں ان کا پیچھا نہ کریں یہ محیط میں ہے امام محمد کہتے ہیں کہ امام اعظم ابوحنیفہ نے فرمایا کہ جب تک مسلمانوں کے واسطے قوت ہو تب تک جعل مکروہ^(۱) ہے اور جب نہ ہو تو مضائقہ نہیں ہے کہ بعض کو تقویت دیں پس جب تجیز لشکر کی حاجت پڑے تو اس وقت دیکھا جائے کہ اگر مسلمانوں کے واسطے قتال کی قوت ہو یعنی بیت المال میں مال ہو تو امام کو سزاوار نہیں ہے کہ مالداروں پر ایسا حکم جاری کرے جس سے بدوں ان کی خوشی خاطر کے ان کا کچھ مال لے لے ہاں اگر صاحبان مال نے خود اپنی خوشی خاطر سے جعل دینا چاہا تو یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ بہتر و مرغوب فیہ ہے خواہ بیت المال میں مال ہو یا نہ ہو۔ اگر مسلمانوں کو قوت قتال حاصل نہ ہو بایں طور کہ بیت المال میں مال نہ ہو تو مضائقہ نہیں ہے کہ امام المسلمین مالداروں پر اس قدر مال دینے کا جو جہاد کے واسطے جانے والوں کے لیے کافی ہو حکم کے پھر جو شخص اپنی جان و مال سے جہاد کرنے پر قادر ہو اس پر اپنی جان و مال سے جہاد کرنا واجب ہے۔ جو شخص اپنی ذات سے جانے سے عاجز ہے اور اس کے پاس مال ہے تو اس پر واجب ہے کہ اپنے مال سے بجائے اپنے کسی دوسرے کو جہاد کے واسطے روانہ کرے پس ان دونوں میں سے ایک اپنی جان سے اور دوسرا اپنے مال سے جہاد کرنے والا ہو جائے گا۔

جو شخص اپنی ذات سے جانے پر قادر ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے پس اگر بیت المال میں مال ہو تو امام المسلمین اس کو بقدر کفایت کے بیت المال سے دے دے گا اور جب امام نے اس کو بیت المال سے قدر کفایت دے دیا تو پھر اس کو روایا نہیں ہے کہ کسی دوسرے سے بھی جعل لے۔ اگر بیت المال میں مال نہ ہو یا مگر امام نے اس کو نہیں دیا تو اس کو روایا ہے کہ دوسرے سے جعل لے کر جہاد کو جائے یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر زید نے عمرو کو جعل دیا کہ میری طرف سے جہاد کرے پس اگر زید نے جعل دینے کے وقت یہ لفظ کہا ہو کہ اس مال سے میری طرف سے جہاد کرو تو عمرو کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس سوائے جہاد کے اور جگہ اس مال کو صرف کرے حتیٰ کہ اس کو یہ اختیار حاصل نہ ہوگا کہ اس سے اپنا ذاتی قرضہ ادا کر کے جہاد کو جائے اور اپنے بال بچوں کا نفقہ اس میں سے چھوڑ جائے اور اگر زید نے اس سے یوں کہا ہو کہ یہ تیرے واسطے ہے تو اس سے جہاد کرو تو عمرو کو روایا ہوگا کہ اس مال کو غیر جہاد میں بھی صرف کرے جیسے اس کو جہاد میں صرف کر سکتا ہے یہ حکم شیخ الاسلام نے شرح سیر کبیر میں اور ثمنس الائمہ سرحی نے شرح سیر صغیر میں ذکر فرمایا ہے اور شیخ الاسلام نے شرح سیر صغیر میں ذکر فرمایا کہ عمرو کو دونوں صورتوں میں اختیار ہے کہ اس مال میں سے کچھ اپنے بال بچوں کو نفقہ کے واسطے چھوڑ جائے اس واسطے کہ اس کا جہاد کا جانا بدوں اسکے بن نہیں پڑے گا پھر یہ معنی جہاد کے اعمال میں سے

۱۔ ایک مالدار نے دوسرے کو خرچ و مال سے مدد کی کہ تو جا کر جہاد کر۔ ۲۔ بہر حال مالداروں کا مالی مدد کرنا بہت پسندیدہ ہے۔ ۳۔ قلت الاولی ان بقول اپنی ذات سے جانے سے معذور ہے۔ ۴۔ پس اس سے ظاہر ہوا کہ اس مسئلہ میں شیخ الاسلام سے دو قول ہیں اور بظاہر وہ دونوں باہم مخالف ہیں تو یہ بات ضروری ہوئی کہ کہا جائے کہ انہوں نے اس سے رجوع کیا اور اس قول پر ثمنس الائمہ کے ساتھ یا تو موافقت ہوگی یا مخالفت یا یوں کہا جائے کہ صورت اول جب ہے کہ اس کے عیال کے واسطے کافی نفقہ ہو اور صورت ثانی جب کہ ان کے واسطے نفقہ نہ ہو اسی کے مثل کوئی اور درجہ ہو واللہ اعلم۔ ۱۲

ہے۔ اگر زید نے عمر کو اپنی طرف سے جہاد کے واسطے جعل دیا پھر عمر کو از قسم مرض وغیرہ کوئی ایسا عذر پر پیش آتا جس سے وہ خود نہ جا سکا اور اس نے چاہا کہ بجائے اپنے کسی دوسرے کو جس قدر مال لیا ہے اس سے کم دے کر جہاد کرنے کے لیے روانہ کرے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں لیکن جو کچھ مال بچا لیا ہے اس کی نسبت اگر اس کی یہ مراد ہے کہ اس کو اپنی ذات کے واسطے نہیں بچائے رکھتا ہوں بلکہ بیت المال میں داخل کر دوں گا تو بچا لینے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔

اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کے واسطے کسی قدر جعل کی شرط کی بایں طور کہ کسی کافر حربی کو قتل کر دے پس اس نے قتل کر دیا تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں:

اگر اس کی مراد یہ ہے کہ اس کو اپنی ذات کے واسطے بچالوں تو دیکھنا چاہیے کہ اگر زید نے جعل دینے کے وقت عمر سے یوں کہا تھا کہ اس مال سے میری طرف سے جہاد کرو تو عمر کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ بچے ہوئے مال کو اپنی ذات کے واسطے رکھ لے اور اگر یوں کہا ہو کہ یہ مال تیرا ہے تو اس جہاد کو تو عمر کو اختیار ہوگا کہ بچے ہوئے مال کو اپنی ذات کے واسطے رکھ لے اور یہ ظاہر ہے کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اس صورت میں تو اس کے واسطے یہ جائز ہے کہ سب مال اپنی ذات کے واسطے رکھ لے جہاد نہ کرے۔ اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کے واسطے کسی قدر جعل کی شرط کی بایں طور کہ کسی کافر حربی کو قتل کر دے پس اس نے قتل کر دیا تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ شرط کر دینے والے کو لازم ہے کہ اس نے جو شرط کر دی ہے یعنی دینے والے کی وہ پوری کر دے تو لیکن حکم قضاء میں اس پر ادا کرنے کے واسطے جبر نہ کیا جائے گا اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب میں مذکور ہے یہ خاصۃً امام محمدؒ کا قول ہے اور امام اعظمؒ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک یہ شرط جائز نہیں ہے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ یہ بالا جماع جائز ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر امیر لشکر نے کسی مزدور کو اس کے اجر المثل سے اس قدر زائد پر کہ لوگ اپنے اندازے میں اتنا نقصان نہیں اٹھاتے ہیں مقرر کیا پس اجیر نے کام کیا اور مدت پوری ہو گئی تو اجر المثل سے جس قدر مزدوری زیادہ قرار دی ہے وہ زیادتی باطل ہے اور اگر امیر لشکر یا قاضی نے کہا کہ میں نے اس کو اس طرح مقرر کیا حالانکہ میں جانتا تھا کہ نہیں چاہیے تو پوری اجرت اس مقرر کرنے والے کو مال میں سے ہوگی اور اگر امیر لشکر نے کسی مسلمان یا ذمی سے کہا کہ اگر تو نے اس سوار کو قتل کیا تو تیرے واسطے سو درہم ہیں پس اس نے قتل کیا تو اس کو کچھ نہ ملے گا اور اگر حربی کفار مقتول پڑے ہوں پس امیر لشکر نے کہا کہ جو ان کے سر کاٹے اس کے واسطے دس درہم اجرت ہے تو یہ جائز ہے۔ کافروں کے سروں کا دارالاسلام میں لا دانا مکروہ ہے یہ مضمرات میں ہے۔

امام المسلمین پر واجب ہے کہ ثغور مسلمین کو قلعہ بند کرے اور دروازہ ہائے ثغور پر لشکر متعین کرے تاکہ کفارہ کو بلاد المسلمین میں وقوف سے مانع ہوں اور ان کو مقود کریں یہ خزانۃ المفتین میں ہے۔ اگر امام کوئی لشکر روانہ کرے تو چاہیے کہ ان پر کوئی شخص امیر مقرر کر دے اور ایسے ہی آدمی کو ان پر امیر مقرر کرے جو اس کے واسطے صالح و لائق ہو یعنی لڑائی کے کام میں خوش تدبیر ہو اور پرہیزگار ہو اور لشکر یوں پر شفقت کرنے والا ہو اور سخی ہو اور شجاع ہو اور جب اس طور پر ان پر کوئی امیر مقرر کیا تو چاہیے کہ ان مجاہدین کے واسطے اس کو وصیت کر دے یہ مبسوط میں ہے۔ جب شرائط سرداری کے آدمی میں جمع ہوں تو امام المسلمین کو چاہیے کہ

۱۔ و ہذا ہوا الاصح ۱۲۔ ۲۔ ثغور جمع ثغور بندیاں جائے دو حرب جس کو ہمارے عرف میں گھائی بولتے ہیں یعنی وہ کھوکھ جس کی راہ ہو کر مخفی طور پر دشمن پر ظاہر ہوں ۱۲۔ ۳۔ ہوشیاری و بھلائی و خیر و شفقت وغیرہ کی ۱۲۔

اس کو امیر مقرر کر دے خواہ وہ قریشی ہو یا اور قبیلہ عرب سے وہ یا نہی از موالی (۱) ہو یہ محیط میں ہے۔ یہ روا ہے کہ اگر امام کسی فاسق کو تدبیر لڑائی میں زیادہ لائق پائے تو اس کو امیر مقرر کر دے یہ عتابیہ میں ہے۔ امام محمدؑ نے فرمایا کہ جب امیر لشکر نے لشکر کو کسی بات کا حکم دیا تو لشکر پر واجب ہے کہ اس بات میں اس کی اطاعت کریں الا آنکہ بالیقین یہ بات گناہ ہو اور واضح ہو کہ اس مسئلہ کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ اہل لشکر یقین یہ جانتے ہوں کہ امیر نے جس بات کا حکم کیا ہے اس میں ہم کو نفع پہنچے گا مثلاً امیر لشکر نے ان کو حکم کیا کہ ابھی قتال شروع نہ کرو اور ان کو یقین معلوم ہو کہ ابھی قتال شروع نہ کرنے میں ہمارا نفع ہے بایں طور کہ یقین معلوم ہے کہ فی الحال ہم اہل حرب سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارے پیچھے دوسرے لشکر ہے کہ وہ فی الحال میں ہمارے ساتھ مل جائے گا اور قوت بڑھ جائے گی پس جب ایسی صورت ہے تو بالیقین فی الحال قتال کا ترک کرنا اہل لشکر کے حق میں نافع ہے تو اس صورت میں امیر لشکر کی اطاعت کریں۔

شک ہے کہ نفع ہوگا یا ضرر ہوگا دونوں طرف احتمال برابر ہو تو امیر کے حکم کی اطاعت کریں:

دوم آنکہ ان کو یقین معلوم ہو کہ جس امر کا حکم دیتا ہے اس سے ہمارا ضرر ہے مثلاً مثال مذکورہ میں دیکھتے ہوں اہل حرب ہم سے فی الحال نہیں لڑ سکتے ہیں اور تاخیر قتال میں عنقریب ان کی مدد آجائے گی جس سے ہمارا ان سے مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا اور ہم کو ضرر پہنچے گا اور یہ یقین ہو تو امیر لشکر کی اطاعت نہ کریں اور سوم آنکہ اہل لشکر کو شک ہو جس امر کا حکم دیتا ہے کہ اس میں ضرر ہوگا یا نفع ہوگا دونوں طرف احتمال یکساں ہو کسی امر کا ان کو یقین نہ ہو تو اہل لشکر پر اس کے قول کی اطاعت واجب ہے اور اسی طرح اگر امیر لشکر نے ان کو قتال کرنے کا حکم دیا اور وہ جانتے ہیں کہ یقین ہم کو نفع پہنچے گا یا اس میں ان کو شک ہے کہ نفع ہوگا یا ضرر ہوگا دونوں طرف احتمال برابر ہو تو امیر کے حکم کی اطاعت کریں اور اگر یقین جانتے ہوں کہ ہم کو نفع حاصل نہ ہوگا بلکہ ضرر پہنچے گا تو اس میں اس کے قول کی اطاعت نہ کریں۔ اگر اہل لشکر باہم مختلف ہوں بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہلاکت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں نجات ہے اور کسی گمان کو دونوں گمانوں میں سے دوسرے پر ترجیح نہ ہوئی بلکہ شک رہا تو اہل لشکر پر امیر کی اطاعت واجب ہے۔ اگر امیر لشکر نے لشکر کو کسی بات کا حکم دیا اور لشکر میں سے ایک نے نافرمانی کی تو اس کو اول باری میں تادیب نہ کرے گا یعنی سزا نہ دے گا بلکہ اس کو نصیحت و فہمائش کر دے گا تا کہ پھر ایسا نہ کرے پھر اگر اس کے بعد اس نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو اس کو تادیب کرے گا الا آنکہ وہ کوئی عذر بیان کرے تو البتہ اس کو چھوڑ دے گا و لیکن اس سے خدا کی قسم لے لے گا کہ میں نے ایسی حرکت بعد رکی ہے اس واسطے کہ وہ ایسی بات کا دعویٰ کرتا ہے جو اس پر وجوب تعزیر سے مانع ہے۔

اس کا ثبوت اسی کے قول سے ہوتا ہے پس وہ اپنے قول میں بدوں قسم کے سچا نہیں قرار دیا جائے گا اور اگر امیر لشکر نے لشکر کی ترتیب صف بندی میں یوں کیا کہ ساقہ میں اقوام معین کی خصوصیت کر دی اور میمنہ اور میسرہ میں بھی یوں ہی کیا کہ میمنہ چند اقوام خاص کے واسطے اور میسرہ چند اقوام خاص دیگر کے واسطے معین کر دی پھر دشمن نے ساقہ پر حملہ کیا اور بہت سختی سے مقاتلہ کیا اور میمنہ و میسرہ والوں کو اہل ساقہ کے حق میں سختی و شکست کا خوف لاحق ہوا تو مضائقہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ساقہ کی مدد کے واسطے ساقہ میں چلے جائیں۔ اور اس وقت ہے کہ اس سے ان کے مراکز میں خلل نہ پڑتا ہو اور اگر اس سے ان کے مراکز میں خلل پڑتا ہو تو

۱۔ میمنہ و فوج جو صف قتال میں دائیں جانب مقرر کی جاتی ہے اسی طرح میسرہ جو بائیں جانب مقرر ہوتی ہے ۱۲۔ ۲۔ وہ لوگ اپنے مرکز پر قائم رہیں ترتیب صف نہ بدلتی ہو کہ جس سے لشکر بالکل درہم برہم ہو جائے ۱۲۔

اہل ساقہ کو مدد دینا نہ چاہیے اور اگر امیر لشکر نے ان کو حکم دیا ہو کہ اپنے مرکزوں سے جنبش کر کے نہ جائیں اور منع کر دیا کہ کوئی دوسرے کو مدد نہ دیں تو ان کو نہ چاہیے کہ اہل ساقہ کو مدد دیں اگرچہ وہ اپنی جانب سے بے خوف ہوں اور اہل ساقہ کے حق میں خوف کرتے ہیں اور اگر امام نے اہل لشکر کو منع کر دیا کہ جانوروں کے چارہ کے واسطے نہ نکلیں تو ان کو نکلنا نہ چاہیے خواہ اہل منعت ہوں یا نہ ہوں یعنی اتنے لوگ کہ مکر دشمن کو دور کر سکتے و روک سکتے ہوں یا ایسے نہ ہوں تو دونوں یکساں ہیں لیکن امام نے جب ان کو چارہ کے واسطے جانے سے منع کیا تو امام کو چاہیے کہ لشکر میں سے ایک قوم کو چارہ کے واسطے روانہ کرے اور ان پر ایک شخص امیر مقرر کر دے کہ وہ تمام لشکر کے واسطے چارہ لادیں اور اگر امام نے کسی کو نہ بھیجا اور لشکر کو چارہ کی ضرورت لاحق ہوئی اور ان کو اپنی جانوں اور اپنی سوار یوں کے حق میں خوف لاحق ہو اور ان کے پاس اس قدر نہیں ہے کہ جس سے چارہ خریدیں تو مضائقہ نہیں ہے کہ وہ چارہ کے واسطے جائیں اگرچہ اس میں امیر لشکر کی نافرمانی ہے۔

تیرا اندازی سے لڑائی نہیں کر سکتا ہے تو مضائقہ نہیں ہے کہ جو کافر تیرا اندازی کرتا ہے اس کے سامنے سے فرار کر جائے:

اگر امیر لشکر نے حکم دے دیا کہ کوئی شخص چارہ کے واسطے نہ جائے الا فلاں شخص کے جھنڈے کے نیچے ہو کر تو اہل لشکر کو چاہیے کہ اس کی شرط کا لحاظ رکھیں کہ اسی کے جھنڈے کے نیچے جائیں اور اسی طرح اگر امیر لشکر نے بائیں عبارت کہا کہ جو شخص چارہ کے واسطے جانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ فلاں کے جھنڈے کے نیچے ہو کر جائے تو بھی چاہیے کہ اسی کے جھنڈے کے نیچے جائیں یہ محیط میں ہے۔ ماہبائے حرام میں قتال کرنا روا ہے اور ان مہینوں میں قتال سے جو ممانعت کی گئی تھی وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ اگر مسلمانوں کی تعداد کافروں کی تعداد سے نصف ہو تو مسلمانوں کو ان کی لڑائی سے بھاگ جانا حلال نہیں ہے اور یہ حکم اس وقت ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہتھیار ہوں۔ تو جس کے پاس ہتھیار نہ ہوں اس کو مضائقہ نہیں ہے کہ وہ ایسے کافر کے رو برو سے جس کے پاس ہتھیار ہیں دور بھاگ جائے اور اسی طرح اگر اس کے پاس تیرا اندازی کا آلہ نہ ہو یعنی تیرا اندازی سے لڑائی نہیں کر سکتا ہے تو مضائقہ نہیں ہے کہ جو کافر تیرا اندازی کرتا ہے اس کے سامنے سے فرار کر جائے اور علیٰ ہذا مضائقہ نہیں ہے کہ ایک آدمی تین کافروں کے مقابلہ سے فرار کرے یہ محیط سرخسی میں ہے۔ جب مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار یا زیادہ ہو تو ان کو کافروں کے مقابلہ سے بھاگنا حلال نہیں ہے اگرچہ تعداد کافروں کی گئی گو نہ ہو اور یہ حکم اس وقت ہے کہ ان سب کا کلمہ ایک ہی ہو اور اگر ان کا کلمہ متفرق ہو تو ایک کے مقابلہ میں دو کا اعتبار کیا جائے گا اور ہمارے زمانہ میں طاقت کا اعتبار ہے اور جو شخص ایسے مقام سے فرار کر گیا جہاں اہل قلعہ متلخیق وغیرہ مار کر ضرر رسائی کر سکتے ہیں یا ایسی جگہ سے جہاں تیروں یا پتھروں سے صدمہ پہنچاتے ہیں تو کچھ مضائقہ نہیں ہے یہ محیط میں ہے امام محمد نے فرمایا کہ مضائقہ نہیں ہے کہ امام المسلمین ایک مرد کو یا دو کو یا تین کو سر یہ بنا کر روانہ کرے بشرطیکہ اکیلا یا دو یا تین اس کی طاقت رکھتا ہو یہ ذخیرہ میں ہے۔ جہاد کے توابع سے رباط ہے یعنی ایسے مقام پر اقامت کرنا جہاں ہجوم دشمن کا کھٹکا ہے بدیں غرض کہ اگر وہ ناگاہ ہجوم کرے تو اس کو دفع کریں اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے اس واسطے کہ یہ ہر جگہ متحقق نہیں ہوتا ہے اور مختار یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ اس کے ورے اسلام نہ ہو اور تپسین میں اسی قول پر جزم کیا ہے یہ بحر الرائق میں ہے۔

۱۔ حقیقتاً جھنڈے کے سایہ میں مراد نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ اس کی معیت میں جائیں ۱۲۔ ۲۔ ماہبائے حرام چار ماہ ہیں رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم ۱۲۔ ۳۔ مصنف نے کہا کہ یہ قول محمد کا ہے لیکن دوسروں کے نزدیک جائز نہ ہوگا مگر اسی صورت میں کہ وہ تین ہوں اور یہ صحیح ہے ۱۲۔

قتال کی کیفیت کے بیان میں

کفار کی چند "اصناف" کا بیان:

جب امام المسلمین دار الحرب میں جانے کا قصد کرے تو اس کو چاہیے کہ لشکر کا معائنہ کرے تاکہ ان کی تعداد اور سواروں اور پیادوں کو معلوم کرے پس ان کے نام لکھ لے یہ شرح طحاوی میں ہے۔ جب مسلمان لوگ دار الحرب میں داخل ہو کر کسی شہر یا قلعہ کا محاصرہ کریں تو پہلے ان کو اسلام کی طرف بلائیں پس اگر وہ قبول کریں یعنی اسلام لائیں تو ان کے ساتھ قتال سے باز رہیں اور اگر انکار کریں تو ان کو ادائے جزیہ کی طرف بلائیں یعنی کہیں کہ تم لوگ اپنے دیں پر رہو مگر پست ہو کر جزیہ دیا کرو کذافی الہدایہ پس اگر قبول کریں تو جو نفع ہمارے واسطے ہے وہ ان کے واسطے اور جو ہم پر پڑے گا وہ ان پر بھی پڑے گا کذافی الکفر و لیکن جزیہ کے واسطے کہنا انہیں کے حق میں جن سے جزیہ قبول کیا جاسکتا ہے اور جن سے جزیہ نہ قبول کیا جائے گا ان کو جزیہ دینے کی طرف نہ بلائیں یہ تبیین میں ہے۔ واضح ہو کہ کفارہ چند صنف کے ہیں ایک صنف یہ ہے کہ ان سے جزیہ لینا جائز نہیں ہیں اور نہ ان کو ذمی بنایا جائز ہے اور وہ عرب کے ایسے مشرک ہیں جو کسی کتاب آسمانی کے قائل نہیں ہیں پس جب اہل اسلام ان پر غالب ہوں تو ان کے مرد یا تو اسلام لائیں ورنہ قتل کر دیے جائیں اور ان کی عورتیں و بچے سب فنی ہوں گے اور دوسری صنف وہ کہ بالا جماع ان سے جزیہ لینا جائز ہے اور وہ یہود و نصاریٰ ہیں خواہ عرب کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں اسی طرح مجوس سے بھی بالا جماع جزیہ لینا جائز ہے خواہ عرب کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں اور تیسری صنف وہ مشرکین ہیں کہ ان سے جزیہ لینے کے جواز میں اختلاف ہے اور وہ سوائے عرب اور سوائے اہل کتاب اور سوائے مجوس کے قوم مشرک ہیں پس ہمارے نزدیک ان سے جزیہ لینا روا ہے یہ محیط میں ہے۔

اور جس کو دعوت اسلام پہنچ گئی ہے اس کو بغرض مبالغہ انداز کے دعوت اسلام کر دینا مستحب ہے

لیکن واجب نہیں ہے:

جس کو دعوت اسلام نہیں پہنچائی گئی ہے اس سے قتال کرنا نہیں جائز ہے الا بعد اس کے کہ اس کو اسلام کی دعوت کرے کذافی الہدایہ اور اگر ان سے بغیر دعوت اسلام کے قتال کیا تو سب گنہگار ہوں گے لیکن جو کچھ انہوں نے ان کی جان و مال تلف کیے ہیں اس کے ضامن نہ ہوں گے جیسے ان کی عورتوں و بچوں کے تلف کرنے میں ضامن نہیں ہوتے ہیں یہ مبسوط میں ہے اور جس کو دعوت اسلام پہنچ گئی ہے اس کو بغرض مبالغہ انداز کے دعوت اسلام کر دینا مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے یہ ہدایہ میں ہے اور واضح رہے کہ تاکید کے واسطے دوبارہ دعوت اسلام کرنا دو شرطوں سے مستحب ہے ایک یہ کہ پہلے دوبارہ دعوت اسلام پہنچانے میں مسلمانوں کے حق میں ضرر نہ ہو اگر تقدیم دعوت اسلام میں مسلمانوں کے حق میں ضرر ہوں مثلاً معلوم ہو کہ اگر تقدیم دعوت کی جائے گی تو وہ قتال کے واسطے سامان تیار کر کے مستعد ہو رہے ہیں گے یا کوئی حیلہ برپا کر لیں گے یا اپنے قلعوں کی درستی و مضبوطی کر لیں گے تو

۱ مثلاً دشمن چڑھ آیا تو ہم ان کے مددگار ہوں گے ۱۲۔ ۲ تم ہمارے ذمہ داروں میں ہو جزیہ دیا کرو ۱۲۔ ۳ فنی ہوں کہ یعنی غنیمت میں شمار ہوں گے ۱۲۔ ۴ کفار کے ساتھ لڑائی کرنے کی حالت میں اگر حملہ کیا اور اس حملہ میں ان کی عورتیں و بچے بھی قتل ہوئے تو وہ ان کے ضامن نہیں ہوتے ہیں لیکن عداقت نہ کیے جائیں گے ۱۲۔

تقدیم دعوت اسلام دوبارہ مستحب نہیں ہے اور دوسری شرط یہ کہ اس دعوت سے طمع و امید ہو کہ شاید وہ لوگ قبول کر لیں اور اگر ان کو اس سے ناامیدی ہو تو دوبارہ دعوت میں بیکار مشغول نہ ہوں یہ محیط میں ہے۔ مضا لفقہ نہیں ہے کہ رات یا دن میں کافروں پر ایک بارگی تاخت کریں بدوں دعوت اسلام کے اور یہ ایسی زمین کے واسطے کہ ان کو دعوت اسلام پہنچ گئی ہے یہ محیط سرخسی میں ہے۔ لشکر بہت بڑا ہو جس پر بے خوفی و امن کے ساتھ اطمینان ہو تو اس کے ساتھ عورتوں اور قرآن مجید لے جانے میں مضا لفقہ نہیں:

پس جب کافروں نے اسلام اور ادائے جزیہ سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ عزوجل سے مدد و استعانت کی دعا کر کے کافروں سے جہاد و قتال کریں کذافی الاختیار شرح المختار اور روا ہے کہ ان کے قلعوں کے نیچے جیقین^۱ نصب کریں اور ان کو جلادیں اور ان پر پانی سے سیل بہائیں اور ان کے درخت کاٹ ڈالیں اور ان کی کھیتی خراب کر دیں یہ ہدایہ میں ہے۔ مضا لفقہ نہیں ہے کہ ان کے قلعہ خراب کر کے خاک میں ملائیں اور پانی میں اس کو غرق کر دیں اور عمارتیں ڈھادیں اور شیخ حسن بن زیاد کہتے تھے کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب یہ معلوم ہوا کہ اس قلعہ میں کوئی مسلمان قیدی نہیں ہے اور جب یہ بات معلوم ہو تو جلانا و غرق کرنا روا نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس امر سے ان کو منع کیا تو مشرکین کے ساتھ ان کو قتال کرنا وغالب ہونا مستعذر ہو جائے گا اور قلعے تو بہت کم کسی قیدی سے خالی ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ اس جلانے و غرق کرنے میں کافروں کا قصد کریں گے یہ مبسوط میں ہے اور مشرکوں کو تیر مارنے میں کچھ مضا لفقہ نہیں ہے اگرچہ ان میں مسلمان قیدی یا مسلمان تاجر ہوں اور اگر انہوں نے مسلمانوں کے بچے یا قیدیوں کو ڈھال بنایا تو ان کو تیر مارنے سے اہل اسلام باز نہ رہیں مگر تیر سے کفاروں کے قتل کا قصد رکھیں پھر اس طرح لڑائی میں جو مسلمان قیدی یا تاجر یا بچہ مسلمان تلف ہوا اس کی دیت ان مجاہدوں پر نہ ہوگی اور نہ ان پر کفارہ قتل لازم آئے گا اور جب لشکر بہت بڑا ہو جس پر بے خوفی و امن کے ساتھ اطمینان ہو تو اس کے ساتھ عورتوں اور قرآن مجید لے جانے میں مضا لفقہ نہیں ہے اور سر یہ یعنی چھوٹے لشکر کے ساتھ جس پر اطمینان مذکور نہیں ہے اس کے ساتھ عورتوں و مصاحف کا لے جانا مکروہ ہے۔

اگر کوئی مسلمان امان لے کر دار الحرب میں گیا تو مضا لفقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ قرآن مجید لے جائے بشرطیکہ یہ قوم کفار ایسے ہوں کہ اپنا عہد وفا کرتے ہوں یہ ہدایہ میں ہے اور جب لشکر بڑا ہو تو خدمت کے واسطے بوڑھی عورتوں کو ساتھ لے جانے میں مضا لفقہ نہیں ہے اور جو ان عورتوں کا اپنے گھر میں رہنا مسلم ہے اور اولیٰ یہ ہے کہ بخوف فتنہ عورتیں بالکل نہ جائیں اور اگر بغرض مجامعت عورتوں کا لے جانا ضروری ہو تو باندیوں کو لے جائیں نہ آزادوں کو یہ تمیز میں ہے ایک قوم پر ہیز گار لوگوں کی جہاد کے واسطے جانا چاہتی ہے اور اگر ان کے ساتھ فاسقوں کی ایک قوم بھی جہاد کو جاتی ہے جن کے ساتھ مزامیر ہیں پس اگر پر ہیز گاروں سے یہ ممکن ہو کہ بدوں ان فاسقوں کے چلے جائیں یعنی جہاد میں اس قدر کافی ہوں تو ان فاسقوں کے ساتھ نہ جائیں اور اگر بدوں ان فاسقوں کے جانا ممکن نہ ہو تو ان کے ساتھ جائیں یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ غدر نہ کریں اور غلول یعنی خیانت نہ کریں اور مثلہ^۲ نہ کریں کذافی الہدایہ اور عورتوں کو قتل نہ کریں اور نہ بچوں کو اور نہ مجنون کو اور نہ شیخ فانی^۳ کو اور نہ اندھے کو

۱۔ منہیق وہ آلہ جس کے ذریعہ سے بڑے بڑے پتھر وغیرہ دشمنوں کی طرف پھینکتے ہیں ہندی میں اس کو معلو اسی کہتے ہیں اور اب اس زمانہ میں ان کا چلن نہیں کیونکہ بجائے اس کے توپ سے جو کام نکلتا ہے وہ اس سے نہیں ممکن تھا ۱۲۔ ۲۔ مثلہ یعنی کافروں کے مقتولوں کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالنا ۱۲۔ ۳۔ وہ شخص جو اپنی کبر سنی کی وجہ سے اس قابل نہیں رہا کہ مقاتل کر سکے جس کو ہمارے عرف میں بوڑھا پھوس بولتے ہیں ۱۲۔

اور نہ لہجے کو الا اس صورت میں کہ ان میں سے کسی کو تدبیر جنگ میں مداخلت ہو یا عورت ملکہ ہو یعنی ان کی بادشاہ ہو تو اس کو قتل کر دیں۔ اس طرح اگر ان کا بادشاہ کوئی طفیل صغیر ہو اور اس کو میدان حرب میں اپنے ساتھ لائے ہوں اور اس کے قتل کرنے میں ان کی جماعت پریشان ہوئی جاتی ہو تو اس کے قتل کرنے میں مضائقہ ہے یہ جوہرہ نیرہ میں ہے اور اگر عورت مال والی ہو کہ لوگوں کو لڑائی پر اپنے مال سے برا بیچتہ کرتی ہو تو وہ قتل کر دی جائے گی یہ محیط میں ہے۔

اس طرح ان لوگوں میں سے جو مقاتلہ کرتا ہو تو وہ بھی قتل کیا جائے مگر اتنی بات ہے کہ طفل و مجنون اسی وقت تک قتل کیے جا سکتے ہیں جب تک لڑائی کرتے ہیں اور ان دونوں کے سوائے باقیوں کے قید کیے جانے کے بعد بھی قتل کر دینے میں مضائقہ نہیں ہے اور اگر مجنون کبھی اچھا ہو جاتا ہو اور کبھی پھر مجنون ہو جاتا ہو تو وہ افاقہ کی حالت میں مثل صحیح کے سے کذافی الہدایہ اور جس کا ایک ہاتھ ایک طرف سے اور دوسری طرف سے دوسرا پاؤں کٹا ہو یا جس کا خاصۃً داہنا ہاتھ کٹا ہو وہ قتل نہ کیا جائے گا بشرطیکہ ایسے لوگ اپنے مال سے یا اپنی رائے سے لڑائی میں شریک نہ ہوں یہ محیط میں ہے۔ جس کا ایک طرف کا بدن خشک ہو گیا ہو وہ قتل نہ کیا جائے گا اور اگر باوجود اس کے وہ قتال میں شریک ہے تو اس کے قتل کرنے میں مضائقہ نہیں ہے اور اسی طرح اندھا و لنگا و بوڑھا پھوسن اگر ایسے لوگ قتال میں حاضر ہوں اور کافروں کو لڑائی میں برا بیچتہ کریں تو ان کے قتل میں مضائقہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسے لوگوں میں سے کسی کو قتل کر دیا تو اس پر کچھ لازم نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور جس کا بائیں ہاتھ کٹا ہو یا دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں کٹا ہو تو وہ لڑائی کرنے والوں میں ہے پس وہ قتل کر دیا جائے گا اور اسی طرح گونگا و بہرا بھی قتل کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر مسلمانوں کو ایسے لوگوں کے جو قتل نہیں کیے جاتے ہیں لا دلانے اور دارالاسلام میں نکال لانے کی قوت حاصل ہو تو ان کو دارالحرب میں چھوڑ آنا نہ چاہیے:

طفل و معتوہ جب تک لڑائی برا بیچتہ کرتے ہوں تب تک ان کے قتل کر ڈالنے میں مضائقہ نہیں اور جب وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئے تو پھر مسلمانوں کو ان کا قتل کرنا نہیں چاہیے اگرچہ انہوں نے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور مضائقہ نہیں ہے کہ مرد مسلمان اپنے ہر ذی رحم محرم کو جو مشرک ہے پہل کر کے اس کو قتل کرے سوائے والد و والدہ کی اور اپنے اجداد و جدات^(۱) کے خواہ باپ دادا وغیرہ مردوں کی طرف سے ہوں یا ماں و نانی وغیرہ عورتوں کی طرف سے ہوں اور یہ حکم اس وقت ہے کہ اس کے والد نے اس کو اس کام کے کرنے پر مضطر نہ کیا ہو اور اگر باپ نے بیٹے کو اپنے قتل کرنے پر مضطر کیا مثلاً بیٹا اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے تو مضائقہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دے اور اگر صرف جنگ میں بیٹے نے اپنے باپ پر قابو پایا تو نہ چاہیے کہ قصد کر کے اس کو قتل کر دے اور یہ بھی نہ چاہیے کہ اس کو لوٹ جانے کا قابو دے تاکہ وہ جرأت حاصل کر کے مسلمانوں پر لوٹ کر آئے بلکہ اس کو کسی گوشہ میں یا کسی مقام پر جگہ تنگ کر کے لے جائے اور مضبوطی سے رکھے تاکہ کوئی دوسرا مسلمان آکر اس کو قتل کر دے یہ محیط میں ہے اور جب تک راہب صومعہ^۲ میں منزوی^۳ ہے تب تک قتل نہ کیا جائے گا الا آنکھ لوگوں میں مخالط^۴ ہو جائے فتاویٰ قاضی خان میں ہے پس اگر مسلمانوں کو ایسے لوگوں کے جو قتل نہیں کیے جاتے ہیں لا دلانے اور دارالاسلام میں نکال لانے کی قوت حاصل ہو تو ان کو دارالحرب میں چھوڑ آنا نہ چاہیے نہ عورت کو اور نہ طفل کو اور نہ معتوہ کو اور نہ اندھے کو اور نہ لہجے کو نہ دائیں و

۱۔ صومعہ عبادت خانہ یہود و نصاریٰ ۱۲۔ ۲۔ گوشہ نشین ہے ۱۲۔ ۳۔ مخالط ہو جائے یعنی رل مل جائے ۱۲۔

(۱) دادا دادا پر دادا پر دادا وغیرہ ۱۲۔

بائیں جانب سے ایک ہاتھ و ایک پاؤں کٹے ہوئے کو اور نہ داہنے ہاتھ کٹے ہوئے کو اس واسطے کہ ان سے اولاد پیدا ہوگی پس ان کے وہاں چھوڑ آنے میں مسلمانوں پر سختی و مدد ہو جائے گی اور باڈھا پھوس جس سے نطفہ نہیں قرار پاسکتا ہے تو چاہیں اس کو وہاں چھوڑ آئیں اور چاہیں نکال لائیں اور یہی حکم راہبوں اور صومعد والوں کا ہے بشرطیکہ وہ سب ایسے ہوں کہ عورتوں سے جماع نہیں کر سکتے ہیں اور یہی حکم ایسی بڑھی عورتوں کا ہے جن سے اولاد ہونے کی امید نہیں ہے یہ ہدایہ سے بحر الرائق میں منقول ہے۔

امام قدوری نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ کفار دو قسم کے ہیں بعض ان میں سے وہ ہیں جو اللہ عزوجل کے منکر ہیں اور بعض وہ ہیں جو اللہ عزوجل کا اقرار کرتے ہیں مگر اس کی وحدانیت کے منکر ہیں جیسے بت پرست پس جو منکر اللہ عزوجل ہے جب اس کا اقرار کر لے تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا اور جو شخص مقرر اللہ عزوجل ہے اور منکر اس کی وحدانیت کا ہے جب اس کی وحدانیت کا مقرر ہو جائے یاں طور کہ کہے لا الہ الا اللہ تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا اور جو مقرر بوحدانیت اللہ عزوجل ہو اور اس نے رسالت محمد رسول اللہ ﷺ سے انکار کیا ہے جب وہ رسالت محمد رسول کا اقرار کر لے تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔ بت پرست یا ذمی جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا ہے اگر اس نے کہا اللہ تو وہ مسلمان نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں مسلم ہوں تو وہ مسلمان ہو جائے گا پھر اگر اس نے کہا کہ میری یہ مراد تھی کہ میں حق پر ہوں، تو مسلمان نہ ہوگا اور یہودی یا نصرانی نے اگر کہا کہ لا الہ الا اللہ تو وہ مسلمان نہ ہوگا جب تک یہ نہ کہے و محمد رسول اللہ۔ مشائخ نے فرمایا کہ جو یہود و نصاریٰ آج کل مسلمانوں کے روبرو موجود ہیں اگر ان میں سے کسی نے کہا کہ اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمداً عبداً ورسولہ تو اس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا یہاں تک کہ اپنے دین سے بیزاری کا اقرار کرے چنانچہ اگر نصرانی ہے تو کہے کہ میں نصرانیت سے بیزار ہوں اور اگر یہودی ہے تو کہے کہ میں یہودیت سے بیزار ہوں اور باوجود اس کے یوں کہے کہ میں دین اسلام میں داخل ہوا۔ اگر یہودی یا نصرانی نے کہا کہ انا مسلم یعنی مسلم ہوں یا کہا کہ اسلام لایا میں تو اس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا اس واسطے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم وہ ہے جو تابع حق و گردن جھکائے ہوئے ہو۔

اگر نصرانی یا یہودی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ میں یہودیت یا نصرانیت سے بیزار ہوا اور اس کے ساتھ یوں نہ کہا کہ میں اسلام میں داخل ہوا تو اس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا:

ہم حق پر ہیں پس اگر اس نے کہا کہ میں مسلم ہوں تو اس سے دریافت کیا جائے گا اگر اس نے کہا کہ اس سے میری یہ مراد ہے کہ میں نے دین نصرانیت یا یہودیت کو چھوڑا اور میں دین اسلام میں داخل ہوا تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا حتیٰ کہ اگر اس کے بعد اس نے رجوع کیا یعنی اسلام سے پھر گیا تو قتل کیا جائے گا اور اگر اس نے کہا کہ میری مراد یہ ہے کہ میں حق کے واسطے گردن جھکائے ہوں اور میں حق پر ہوں تو مسلمان نہ ہوگا اور اگر اس سے دریافت نہ کیا گیا یہاں تک کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھی تو مسلمان ہوگا اور اگر وہ قبل دریافت کیے جانے یا قبل مسلمانوں کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھنے کے مر گیا تو مسلمان ہونے کی حالت میں مرنے کا حکم نہ دیا جائے گا اور اگر نصرانی یا یہودی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ میں یہودیت یا نصرانیت سے بیزار ہوا اور اس کے ساتھ یوں نہ کہا کہ میں اسلام میں داخل ہوا تو اس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا حتیٰ کہ اگر مر گیا تو اس پر نماز پڑھی جائے گی اور اگر اس نے اس کے ساتھ یہ کہا ہو کہ میں اسلام میں داخل ہوا تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر یہودی یا نصرانی نے کسی شخص کے جواب میں جس نے اس سے آنحضرت ﷺ کی

رسالت کو دریافت کیا تھا یوں کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا۔ بعض مشائخ سے مروی ہے کہ اگر نصرانی سے کہا گیا کہ محمد اللہ کے رسول برحق ہیں اس نے کہا کہ ہاں پھر اس سے کہا گیا کہ کیا دین نصرانیت باطل ہے پس اس نے کہا کہ ہاں پس بعض مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ وہ مسلمان نہ ہو اور بعض نے فتویٰ دیا کہ مسلمان ہو گیا۔ اس طرح اگر نصرانی یا یہودی نے کہا کہ میں دین حنیفیہ پر ہوں تو وہ مسلمان نہ ہو جائے گا یہ محیط میں ہے۔ بعض مشائخ سے مروی ہے کہ اگر یہودی نے کہا کہ میں داخل ہوا تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا اگرچہ اس نے یہ نہ کہا ہو کہ میں یہودیت سے بیزار ہوا اور مجوسی نے کہا کہ میں اسلام لایا یا کہا کہ میں مسلم ہوں تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا اس واسطے کہ یہ لوگ اپنی ذات کے واسطے وصف اسلام کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک گونہ بدگوئی شمار کرتے ہیں یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر اہل کتاب میں سے یا کسی اہل شرک نے ہماری جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو ہمارے نزدیک اس کے اسلام کا حکم دے دیا جائے گا اور اگر اس نے اکیلے نماز پڑھی تو امام اعظم کے قول پر اس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا اور بر بنائے قول صاحبین کے اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا۔ ہمارے بعض مشائخ نے کہا کہ حقیقت میں کچھ اختلاف نہیں ہے کیونکہ امام اعظم سے جو منقول ہے اس کی یہ تاویل ہے کہ اس نے بدون اذان و اقامت کے تنہا نماز پڑھی پس ایسی صورت میں اس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا اور صاحبین سے جو منقول ہے اس کی تاویل یہ ہے کہ اس نے اذان و اقامت کے ساتھ تنہا نماز پڑھی پس ایسی صورت میں اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا۔

جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے اس پر اتفاق ہے کچھ اختلاف نہیں ہے۔ اجناس میں لکھا ہے کہ اگر گواہوں نے کہا کہ دینا ہ یصلی بسنتہ یعنی ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ سنت نماز پڑھتا تھا اور یہ نہ کہا کہ جماعت نماز پڑھتا تھا پس اس نے کہا کہ میں نے اپنی نماز پڑھی ہے تو یہ اسلام نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ کہیں کہ اس نے ہماری ہی نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کا استقبال کیا یہ محیط میں ہے۔ اگر گواہوں نے گواہی دی کہ یہ اذان دیتا اور اقامت کرتا تھا تو مسلمان ہوگا خواہ اذان سفر میں ہو یا حضر میں اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو سنا کہ مسجد میں اذان دیتا تھا تو یہ کچھ نہیں ہے جب تک یہ نہ کہیں کہ یہ مؤذن ہے چنانچہ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ مؤذن ہے تو وہ مسلمان ہوگا اس واسطے کہ جب انہوں نے اس کو مؤذن کہا تو یہ عادت ہوگا پس وہ مسلمان ہوگا یہ بزاز یہ سے بحر الرائق میں منقول ہے۔ اگر اس نے روزہ رکھا یا حج کیا یا زکوٰۃ ادا کی تو ظاہر الروایت کے موافق اس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا اور داؤد بن رشید نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ اگر اس نے اس طور پر حج کیا جیسے مسلمان کرتے ہیں یا اس طور کہ لوگوں نے اس کو دیکھا کہ اس نے احرام کے واسطے تہیہ کیا اور تلبیہ کیا اور مسلمانوں کے ساتھ مناسک حج میں حاضر رہا تو مسلمان ہوگا اور اگر وہ مناسک میں حاضر نہ ہو یا مناسک میں حاضر ہوا مگر حج نہ کیا تو مسلمان نہ ہوگا۔ اگر ایک گواہ نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ بڑی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور دوسرے گواہ نے کہا کہ میں اس کو دیکھا کہ فلاں مسجد میں نماز پڑھتا تھا تو دونوں کی گواہی قبول کی جائے گی اور وہ اسلام کے واسطے مجبور کیا جائے گا کذافی فتاویٰ قاضی خان ولیکن وہ قتل نہ کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

حسن بن زیاد سے مروی ہے کہ اگر کسی نے ذمی سے کہا کہ اسلام لا پس اس نے کہا کہ میں اسلام لایا تو اسلام پر ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ امام محمد نے سیر کبیر میں فرمایا کہ اگر مسلمان نے کسی مشرک پر حملہ کیا تا کہ اس کو قتل کر دے پس جب اس کو تنگ دباؤ میں کر لیا تو اس نے کہا کہ اشھدان لاله الا اللہ پس اگر کافر ایسی قوم میں سے ہو کہ وہ لوگ اس کلمہ کو نہیں کہتے ہیں تو مسلمان پر واجب ہے کہ اس سے باز رہے اور اگر اس کو پکڑا کر امام المسلمین کے پاس لایا تو وہ آزاد مسلمان ہے بشرطیکہ اس نے یہ

کلمہ تو حید قبل مرد مسلمان کے اس کو مقہور کرنے کے کہا ہو اور اگر مسلمان نے اس کو مقہور کر لیا پھر اس نے یہ کلمہ کہا تو وہ فنی ہوگا لیکن قتل نہ کیا جائے گا پس اگر اس نے کہا کہ میں نے جو کہا تھا اس سے اسلام کی نیت نہیں کی تھی بلکہ یہودیت میں داخل ہونے کی نیت کی تھی یا میں نے چاہا تھا کہ مجھے پناہ ملے تاکہ تو مجھے قتل نہ کرے تو اس کے قول پر التفات نہ کیا جائے گا اور اگر ایسا ہوا کہ جب اس نے لالہ الا اللہ کہا اور مسلمان نے اس کے قتل سے ہاتھ روک لیا پس وہ بھاگ گیا اور مشرکوں میں جا ملا پھر لڑتا ہوا آیا پھر اس پر مرد مسلمان نے حملہ کیا پھر جب اس کو تنگ جا دیا تو اس نے کہا کہ لالہ الا اللہ پس اگر اس کا گروہ ہو کہ وہاں وہ پناہ میں جاسکتا ہو تو اس کے قتل کر ڈالنے میں مضائقہ نہیں ہے اور اگر اس کا گروہ پریشان و متفرق ہو گیا ہو تو مسلمان کو اس کا قتل کر دینا روا نہیں ہے لیکن اس کو تادیب کرے اس فعل پر جو اس سے صادر ہوا ہے۔ اگر یہ مشرک ایسے لوگوں میں سے ہو جو لالہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے مقرر نہیں ہیں اور باقی مسئلہ بحالہ ہو تو اس کے قتل کر دینے میں مضائقہ نہیں ہے اگرچہ اس نے یہ کلمہ کہا ہے اور اگر اس نے یوں کہا کہ اشہد لالہ الا اللہ و اشہدنا محمداً عبداً ورسولہ تو مسلمان پر واجب ہے کہ اس کے قتل سے ہاتھ روک لے اور جب کوئی کافر اسلام پر مجبور کیا گیا اور وہ اسلام لایا تو استحساناً اس کا اسلام صحیح ہوگا اور نوادر بن رستم میں مذکور ہے کہ جو شخص نشہ میں اسلام لایا تو اس کا اسلام قبول کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر بت پرست نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو وہ مسلمان ہوگا اور اسی طرح اگر کہا کہ میں دین محمد ﷺ پر ہوں یا میں حنیفیہ پر ہوں یا اسلام پر ہوں تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا اور اگر وہ مر گیا تو اس پر نماز پڑھی جائے گی اور اگر کسی کافر نے دوسرے کافر کو اسلام تلقین کیا تو وہ مسلمان نہ ہو اور اس طرح اگر اس کو قرآن سکھایا یا قرآن پڑھایا تو وہ مسلمان نہ ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

باب : ۳

مصالحہ اور امان کے بیان اور اس بیان میں کہ کس کی امان روا ہے

اگر امام المسلمین کی رائے میں آیا کہ اہل حرب سے مصالحہ کر لے یا بعض فریق اہل حرب سے مصالحہ کر لے اور اس میں مسلمانوں کے حق میں بھلائی ہے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے اور اگر امام المسلمین کی رائے میں آیا کہ اہل حرب سے موادعہ کر لے اور اس پر کچھ مال ان سے لے لے یعنی کچھ مال لے کر ان سے موادعہ کر لے تو مضائقہ نہیں ہے لیکن یہ حکم ہے کہ مسلمانوں کو مال کی حاجت ہو اور اگر حاجت نہ ہو تو اس طرح موادعت جائز نہیں ہے اور جس قدر مال اس موادعت سے لیا ہے وہ جزئیہ کے مصارف کے طور پر صرف کیا جائے گا بشرطیکہ مسلمانوں مجاہدین نے ان کے ملک میں جا کر نزول کر کے اس طرح موادعت سے مال نہ لیا ہو بلکہ اہل حرب نے اپنا اپنی بھیج کر اس طرح صلح کی درخواست کی ہو اور اگر مسلمانوں کے لشکر نے ان کو گھیرا پس انہوں نے مال دے کر صلح کر لی تو یہ مال غنیمت ہے کہ اس کا خمس یعنی پانچواں حصہ نکال کر باقی کو باہم مسلمانوں میں تقسیم کر دے یہ ہدایہ میں ہے اور اگر اہل حرب سے کسی ایک فریق مسلمانوں نے موادعت کر لی بدوں اجازت امام کے تو موادعت جائز ہے اور یہ نسب مسلمانوں پر جائز ہوگی یعنی کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا ہے اس واسطے کہ یہ امان ہے اور ایک کا امان دینا مثل سب کے امام دینے کے ہے یعنی سب کی

۱ یعنی اگر وہ ہوش میں آکر اسلام سے منکر ہو تو مرتد کے حکم میں داخل کیا جائے گا ۱۲۔ ۲ سکھانے والا مسلمان نہ ہو کیونکہ سکھانا اس کا اقرار نہیں

ہے ۱۲۔ ۳ باہم صلح و ملاپ کرنا ۱۲۔ ۴ وعدہ دینا یعنی کچھ معین مدت کے واسطے لڑائی موقوف کر دینا ۱۲۔

طرف سے امان ہوگی یہ سراج و ہاج میں ہے۔ اگر کسی مسلمان نے اہل حرب سے ہزار دینار پر ایک سال کی شرط پر صلح کر لی تو اس کی صلح جائز ہے پس اگر امام کو یہ بات معلوم نہ ہوئی یہاں تک کہ سال گذر گیا تو وہ مال لے کر اس کو بیت المال میں داخل کر دے اور اگر امام کو اس کی صلح کا حال معلوم ہو اور سال نہیں گذر گیا تو امام غور فرمائے گا پس اگر اس کے باقی رکھنے میں مصلحت ہو تو اس صلح کو باقی رکھے گا اور مال لے لے گا اور اگر اس کے توڑ دینے میں مصلحت معلوم ہو تو مال ان کو واپس دے گا پھر ان کی صلح ان کی طرف پھینک دے گا اور ان کے ساتھ قتال کرے گا اور اگر نصف سال گذر گیا ہو تو بھی کل مال استحساناً واپس کر دے گا یہ محیط سرخسی میں ہے۔

اگر مسلمان نے اہل حرب سے کہا کہ وادعتکم بالف دینار یعنی میں نے تم سے بعوض ہزار دینار کے بمقابلہ ایک سال کی صلح کی پھر سال میں سے تھوڑا گذر گیا اور تھوڑا باقی ہے کہ امام نے ان کی صلح ان کو رد کر دی یعنی رد صلح کی اطلاع کر دی تو امام کو مال میں سے بقدر گذری ہوئی مقدار سال کے حساب سے مال میں سے ملے گا یعنی اس قدر لے لے اور باقی کے مقابلہ میں جس قدر مال رہا وہ واپس کر دے مثلاً نصف سال گذرا ہے تو نصف مال کا استحقاق اور نصف مال واپس کر دے یہ محیط میں ہے۔ اگر اہل حرب سے تین سال کے واسطے ہر سال کی بعوض ہزار رہم کے صلح کی ہو اور کل مال وصول کر لیا پھر امام نے موادعہ مذکورہ کو توڑ دینے و رد کرنے دینے کا قصد کیا حالانکہ ایک سال گذرا ہے تو ان کو دو تہائی مال واپس کر دے اس واسطے کہ تسمیہ متفرق ہونے سے عقود متفرق ہو گئے بخلاف صورت اول کے کہ اس میں مال مذکور بشرط موادعت ایک سال کامل ہے اور عقد ایک ہی ہے اور مال بحرف شرط یعنی لفظ پر مذکور ہے یہ محیط سرخسی میں ہے۔ موادعت دس برس سے زیادہ تک کے واسطے روا ہے بشرطیکہ امام المسلمین کو اس موادعت میں مسلمانوں کے حق میں بہتری نظر آئے یہ اختیار شرح مختار میں ہے۔ اگر دشمن نے مسلمانوں کا محاصرہ کیا اور کہا کہ اگر مال دے کر صلح کر لو تو ہم کو منظور ہے تو امام المسلمین اس کو نا منظور فرمائے گا الا اسی صورت میں کہ خوف ہلاکت ہو تو روا ہے یہ ہدایہ میں ہے۔

اگر کافروں نے موادعت میں یہ شرط کی کہ امام ان کو وہ شخص واپس کر دے جو ان میں سے مسلمان ہو کر ہمارے پاس آجائے تو موادعت جائز اور شرط باطل ہے:

اگر اہل حرب نے امام المسلمین سے چند سال معلوم کے واسطے بدی شرط صلح کی درخواست کی کہ ہم ہر سال مسلمانوں کی اس قدر مال معلوم بدی شرط ادا کرے گا کہ ہمارے ملک میں ہم پر احکام اسلام جاری نہ ہوں تو امام اس کو منظور نہ فرمائے گا الا اسی صورت میں کہ مسلمانوں کے واسطے اس میں بہتری ہو پس اگر یہ امر مسلمانوں کے واسطے بہتر ہو اور صلح اس امر پر واقع ہوئی کہ ہر سال مسلمانوں کو سوراس النفس^۱ دیں گے تو اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ انہوں نے سوراس غیر معین پر صلح کی دوم آنکے سوراس معین پر صلح کی پس اگر سوراس غیر معین پر صلح ہو تو دیکھا جائے گا کہ اگر یہ سوراس جو شرط کیے ہیں خود اہل حرب اور ان کی اولاد میں سے ہوں^۲ تو یہ صلح جائز نہ ہوگی اور اگر یہ سوراس مشروطہ ان کے غلاموں و مملوکوں میں سے ہوں تو صلح جائز ہوگی اور اگر صلح سوراس معین پر جو ان کے خود نفوس و اولاد نہیں ہیں واقع ہوئی مثلاً انہوں نے شروع سال میں کہا کہ ہم کو امن دو بدی شرط کہ یہ لوگ تمہارے واسطے ملک ہوں گے اور ہم تم سے تین سال کے واسطے جواب سے آئیں گے اس شرط سے صلح کرتے ہیں کہ ہر سال ہم تم کو

۱۔ ہر سال کے عوض ہزار رہم بیان کر دینے سے یہ موادعہ سالہ تین عقد متفرق ہوئے کہ ہر سال کے واسطے ایک ایک عقد ہو گیا ۱۲۔ جو مفید یعنی شرط بحسب الاستعمال ہوتا ہے اگرچہ صریح حرف شرط باعتبار نحو کے نہیں ہے ۱۲۔ اس نفس یعنی نفس انسان آدمی ۱۲۔ اس واسطے کہ ہنوز وہ لوگ آزاد ہیں پس مال نہ ہوں گے ۱۲۔

سور اس اپنے مملوکوں سے دیں گے تو یہ جائز ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر کافروں نے موادعت میں یہ شرط کی کہ امام ان کو وہ شخص واپس کر دے جو ان میں سے مسلمان ہو کر ہمارے پاس آجائے تو موادعت جائز اور شرط باطل^۱ ہے کہ اس کا وفا کرنا واجب نہیں ہے یہ کافی میں ہے۔

اگر امام نے ان سے صلح کر لی پھر صلح کا توڑ دینا مصلحت معلوم ہو تو ان کی صلح ان پر پھینک دے پھر ان سے قتال کرے۔ بند یعنی صلح کا رد کرنا بھی ایسی طور سے ہوگا جس طور سے امان دینا واقع ہوا تھا یعنی اگر امان دینا منتشر و شہرت کے ساتھ تھا تو رد صلح بھی اعلان و انتشار کے ساتھ ہونی واجب ہے اور اگر امان دینا منتشر نہ تھا مثلاً ایک مسلمان نے ان کو پوشیدہ امان دے دی تھی تو اسی ایک شخص کا رد صلح کر دینا کافی ہے۔ پھر بعد رد صلح کے ان سے قتال کرنا اتنی مدت تک روا نہیں ہے کہ ان کا بادشاہ اس مدت میں اپنے اطراف مملکت میں خبر پہنچا سکے یعنی اتنے عرصہ تک اس کو مہلت دے کہ اس مدت میں وہ اپنے اطراف مملکت میں خبر پہنچا سکے خواہ پہنچائے یا نہ پہنچائے۔ اگر وہ لوگ اپنے قلعوں سے نکل کر شہروں میں منتشر ہو گئے ہوں اور مسلمانوں کے لشکر میں بھی آگئے ہوں یا اپنے قلعہ انہوں نے بے مرمت کر ڈالے ہوں بسبب امان و صلح ہونے کے تو ان کو مہلت دے یہاں تک کہ سب لوگ اپنے اپنے مامن میں واپس جائیں اور اپنے قلعوں کو اس طرح بنالیں جیسے وہ تھے اور یہ مہلت اس واسطے ہے کہ عذر کرنا ثابت نہ ہو اور یہ حکم نقض صلح کی اطلاع دہی اور مہلت دہی وغیرہ کا اس وقت ہے کہ امام نے کسی قدر مدت کے واسطے ان سے صلح کی ہو پھر قبل اس مدت کے گزرنے کے صلح توڑ دی ہو اور اگر مدت مذکور گزر گئی تو اس کے گزرنے پر خود ہی صلح ٹوٹ جائے گی پس ان کو اطلاع دہی نہ کرے گا یہ تبیین میں ہے۔ مسلمانوں کو ہرگز نہ چاہیے کہ اہل حرب پر یا ان کے اطراف ملک پر جب تک صلح باقی ہے لوٹ مار کریں یہ سراج و ہاج میں ہے۔ اگر انہوں نے عہد خیانت کی اور پہل کی تو ان کو نقض صلح کی اطلاع نہ دے اور ان سے قتال کرے بشرطیکہ یہ امر ان کے اتفاق کے ساتھ ہو یہ ہدایہ میں ہے۔

اگر اہل حرب میں سے جن کے ساتھ موادعت و صلح ہے ایک جماعت ایسی جن کے واسطے منعت و قوت حاصل نہیں ہے دار الحرب سے نکل کر انہوں نے دارالاسلام میں رہزنی کی تو یہ امر ان کی طرف سے نقض عہد نہیں ہے اور اگر ایسی قوم نکلی جن کو منعت و قوت حاصل ہے مگر بدوں اجازت اپنے بادشاہ یا اپنے اہل مملکت کے نکلی ہے تو ان کا بادشاہ و ان کے اہل مملکت اپنی موادعت پر باقی رہے گے اور یہ لوگ جنہوں نے رہزنی کی ہے ان کے قتل کرنے اور مملوک بنانے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے بادشاہ یا اپنے اہل مملکت کی اجازت سے نکلے ہیں تو یہ امر سب کے حق میں نقض عہد ہوگا یہ فتاویٰ کرنی میں ہے اگر اہل اسلام اور کسی اہل حرب سے صلح قائم ہو پھر ان میں سے ایک شخص ایسے کافروں کے ملک میں داخل ہوا جن سے مسلمانوں سے صلح نہیں ہے پھر مسلمانوں نے اس ملک پر جہاد کیا اور اس شخص کو گرفتار کیا تو وہ امن میں ہے اس پر کوئی راہ نہیں ہے اور نہ اس کے مال پر اور نہ اس کے رقیق وغیرہ پر کسی پر کوئی راہ نہیں ہے اور جن کافروں سے ہم نے صلح کر لی ہے وہ جہاں چاہیں جائیں اور جس ملک میں چاہیں داخل ہوں بہر حال وہ مامون ہیں کہ ہماری طرف سے ان کو امان ہے اور اگر مسلمانوں نے کسی ملک پر جہاد کیا ہے تو اس سے ہم سے مصالحت نہیں ہے اور وہاں کسی ایسے شخص کو گرفتار کیا جو ایسے ملک کا رہنے والا ہے جن سے ہم سے مصالحت ہے مگر وہ اس ملک کے کافروں کے پنجہ میں جن پر مسلمانوں نے جہاد کیا ہے اسیر تھا تو اس صورت میں وہ ہماری لوٹ کا مال ہوگا۔ یہ سراج و ہاج

۱ آنحضرت ﷺ نے کفار قریش سے اس شرط کے ساتھ صلح کی تھی جیسا کہ صحیح میں صلح حدیبیہ میں مذکور ہے لیکن اس زمانہ میں آیا یہ جائز ہے یا نہیں تو کتاب میں لکھا کہ نہیں جائز ہے اور کلام تمام اصول میں ہے ۱۲۔

میں ہے۔

ایسے اشخاص (ذمی) کا بیان جو جزیہ دے کر مسلمانوں کے تابع فرماں ہو کر رہیں:

واضح ہو کہ ذمی اس کو کہتے ہیں کہ اس نے عہد کیا کہ ہم مسلمانوں سے مقابلہ نہ کریں گے جزیہ ادا کریں گے اور اپنے دین پر مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں گے قال فی الکتاب اور اگر ذمیوں نے اپنا عہد توڑا تو وہ مثل ان مشرکوں کے ہیں جنہوں نے اپنی صلح کا عہد توڑا اور ان کا مال لے لینا جائز ہے اس واسطے کہ جزیہ کے ساتھ ان کا باقی رکھنا روا ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے۔ جو لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے اور انہوں نے غلبہ کیا اور جس ملک میں رہتے ہیں وہ دار الحرب ہو گیا تو خوف کی حالت میں ان سے بلا مال لیے صلح کر لینا روا ہے بشرطیکہ اس میں مسلمانوں کے حق میں بہتری ہو اور اگر ان سے مال لے کر صلح کی تو جب ان پر فتح یا ب ہوں یہ مال ان کو واپس نہ دیا جائے اس واسطے کہ یہ مال مسلمانوں کے واسطے غنیمت ہے بخلاف کے یعنی وہ گروہ مسلمان جو امام برحق کی اطاعت سے سرکشی کر کے باغی ہو جائیں تو جب لڑائی ختم ہو جائے اور باغی لوگ تابع ہوں تو ان کا مال جو ہاتھ آیا ہے وہ ان لوگوں کو واپس کر دینا واجب ہے اس واسطے کہ وہ مال غنیمت نہ ہو گا ہاں قبل لڑائی ختم ہونے کے ان کا مال ان کو واپس نہ کرے گا اس واسطے کہ اس میں ان کے حق میں اعانت ہے یہ نہر القائق و فتح القدر میں ہے اور عرب کے بت پرست لوگ مثل مرتدوں کے ہیں حکم موادعت میں اس واسطے کہ عرب کے بت پرستوں سے مثل مرتدوں کے سوائے اسلام کے اور کچھ قبول نہ کیا جائے گا پس وہ اسلام لادیں یا ان کو تلوار حکم ہے اور سردار لشکر اسلام کو یا اور کوئی قائد ہو اس کو یہ مکروہ ہے کہ اہل حرب کا ہدیہ قبول کر کے مخصوص اپنے واسطے کر لے بلکہ یوں کرنا چاہیے کہ اس کو مسلمانوں کے واسطے مال غنیمت قرار دے۔ اہل حرب کے ہاتھ ہتھیاروں و کراع کا فروخت کرنا مکروہ ہے خواہ ان سے صلح ہو گئی ہو یا نہ ہوئی ہو اور نیز ان کے پاس یہ سامان بھیجنا بھی مکروہ ہے اور اس طرح لوہا وغیرہ جو چیز اصل آلات حرب ہے ان کے یہاں بھیجنا یا ان کے ہاتھ فروخت کرنا مکروہ ہے اور ذمیوں کے یہاں ان چیزوں کا بھیجنا مکروہ نہیں ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے اور اگر حربی ایک تلوار لایا اور بجائے اس کے کمان یا نیزہ یا ڈھال خریدی تو دارالآسلام سے باہر نہ جانے ہے یہ مبسوط میں ہے اور اگر اس کو درہموں کے عوض فروخت کر کے پھر دوسرے خریدی تو مطلقاً منع کیا جائے گا یہ تبیین میں ہے اور اگر اہل حرب کے کسی بادشاہ نے درخواست کی کہ میں تمہارا ذمی ہوتا ہوں بدین شرط کہ جزیہ ادا کروں گا اور اپنی مملکت میں جس طرح چاہوں گا قتل و ظلم وغیرہ سے حکم کروں گا تو اسلام میں یہ امر روا نہیں ہے اور اس کی درخواست قبول نہ کی جائے گی اور اگر کوئی قطعہ زمین اس کا ہو جس میں اُس کے اہل مملکت سے ایک قوم ساکن ہو جو اس کے غلام ہوں کہ جس کو ان میں سے چاہتا ہے فروخت کرتا ہے پھر اُس نے مسلمانوں سے ذمی ہو کر صلح کر لی تو بعد صلح کے بھی وہ لوگ اُس کے غلام ہوں گے جیسے پہلے تھے کہ جن کو چاہے فروخت کر دے یہ فتح القدر میں ہے اور اگر ان پر اس کا دشمن غالب آیا پھر مسلمانوں نے اپنے ذمی ہونے کی وجہ سے اس دشمن کو زیر کر کے ان غلاموں کو اُس سے چھین لیا تو قبل تقسیم غنیمت کے یہ سب مملوک اس ذمی بادشاہ کو مفت واپس دیئے جائیں گے اور اگر تقسیم غنیمت ہو چکی ہو تو پھر بقیمت واپس دیئے جائیں گے جیسے دیگر اموال اہل ذمہ کا حکم ہے اور علی ہذا اگر بادشاہ مذکور مسلمان ہو گیا اور جو لوگ اُس کی مملوکہ زمین میں اُس کے غلام ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے یا اس کی زمین والے مسلمان ہوئے اور بادشاہ مسلمان نہ ہو تو یہ لوگ جو اُس کی زمین میں ہیں اس کے غلام رہیں گے۔ جیسے پہلے تھے یہ مبسوط میں ہے۔

فصل :

امان کے بیان میں

اگر کسی مرد مسلمان آزاد نے یا عورت مسلمہ آزادہ نے کسی کافر یا ایک جماعت کفار کو یا اہل قلعہ کو یا ایک شہر والوں کو امان دی تو اس کا ان لوگوں کو امان دینا صحیح ہے اور مسلمانوں میں سے کسی کو روانہ ہوگا کہ پھر ان لوگوں سے قتال کرے لیکن اگر اُس کا اس طرح امان دینا خلاف مصلحت ہو کہ اس میں مفسدہ نظر آئے تو امام المسلمین ان کی امان توڑنے سے ان کو اطلاع دے دے گا جیسے کہ اگر خود امام نے امان دی پھر مصلحت اس امان کے توڑ دینے میں ظاہر ہوئی تو ان کو امان توڑ دینے کی اطلاع کرے گا اور اگر امام نے کسی قلعہ کا محاصرہ کیا اور لشکر اسلام میں سے کسی آدمی نے ان کو امان دے دی حالانکہ اس میں خرابی ہے تو امام ان لوگوں کو امان توڑ دینے سے مطلع کر دے گا اور اس شخص کو جس نے امان دے دی تھی تا دیب کرے گا یہ ہدایہ میں ہے اور ذمی کا امان دینا باطل ہے لیکن اگر امام نے ذمی کو حکم کیا کہ ان حربیوں کو امان دے دے پس اُس نے دے دی تو جائز ہے یہ تمین میں ہے۔

اور مکاتب کا امان دینا روا ہے اور جو مسلمان کہ اہل حرب کے ملک میں تاجر ہے یا جو مسلمان کہ ان کے ہاتھ میں مقید ہے اس کا امان دینا روا نہیں ہے اور جو شخص دار الحرب میں مسلمان ہوا ہے اور وہاں موجود ہے اور اُس نے اہل حرب کو امان دے دی تو اُس کی امان روا نہیں ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر غلام نے امان دی پس اگر ہو جہاد و قتال کرنے میں اپنے مولیٰ کی طرف سے اجازت یافتہ ہے تو بلا خلاف اس غلام کا امان دینا روا ہے اور اگر وہ قتال سے ممنوع ہو تو امام اعظم کے نزدیک اُس کا امان دینا نہیں صحیح ہے اور امام محمد کے نزدیک صحیح ہے اور امام ابو یوسف کا قول اس مسئلہ میں مضطرب ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ غلام مجبور کی امان میں یہ اختلاف مذکور اُس صورت میں ہے کہ یہ جہاد بدون بغیر عام پہنچنے کے واقع ہوا ہو اور اگر جہاد کے واسطے بغیر عام پہنچی ہو کہ جس سے ہر فرد بشر پر جہاد کرنا فرض عین ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس غلام کی امان بلا خلاف صحیح ہوگی اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ہر صورت میں اختلاف ہے یہ محیط میں ہے۔

اگر طفل بالغ ہوا مگر ہو اسلام کے ارکان و اوصاف نہیں بیان کر سکتا ہے بسبب نہ جاننے کے اور امر

معیشت کو نہیں سمجھتا ہے تو اس کی امان صحیح نہیں :

اور باندی کے امان دینے میں بھی وہی تفصیل ہے جو غلام میں مذکور ہوئی یعنی اگر باندی اپنے مولیٰ کی اجازت سے قتال کرتی ہو تو اُس کا امان دینا صحیح ہے اور اگر وہ قتال نہ کرتی ہو تو امام اعظم کے نزدیک اس کی امان نہیں صحیح ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر کسی طفل نے امان دی حالانکہ غیر عاقل ہے یعنی اُس کے نفع و ضرر کو نہیں سمجھتا ہے تو اُس کی امان نہیں صحیح ہے جیسے مجنون کا حکم ہے اور اگر وہ اسلام کو سمجھتا ہو اور وصف اسلام بیان کرتا ہو یعنی اسلام کس کو کہتے ہیں پس ہو ٹھیک ٹھیک بیان کرتا ہو حالانکہ وہ قتال سے ممنوع ہے تو امام اعظم کے نزدیک نہیں صحیح ہے (امان اس کی) اور امام محمد کے نزدیک صحیح ہے اور اگر وہ قتال کے واسطے اجازت یافتہ ہو تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک بالاتفاق صحیح ہے یہ فتح القدر میں ہے اور جو شخص مختلط العقل ہو مگر وہ اسلام کو جانتا ہو اور اسہ وصف بیان کرتا ہو تو وہ بمنزلہ طفل عاقل کہ ہے یہ تمین میں ہے اور اگر طفل بالغ ہو مگر وہ اسلام کے ارکان و اوصاف نہیں بیان کر سکتا

ہے سبب نہ جاننے کے اور امر معیشت کو نہیں سمجھتا ہے تو اس کی امان صحیح نہیں ہے اس لئے کہ بمنزلہ امرتہ کے ہے اور یہی حکم لڑکی کا ہے خواہ لڑکی آزاد ہو یا باندی ہو یہ محیط میں ہے۔

اور اگر مسلمانوں میں سے کسی مرد نے ایک گروہ مشرکوں کو امان دے دی پھر دوسرے گروہ مسلمانوں نے ان پر تاخت کی اور مردوں کو قتل کیا اور عورتوں اور اموال کو لوٹ لیا اور اُس کو آپس میں تقسیم کر لیا اور ان عورتوں سے ان کی اونا دہوئی پھر اس گروہ مسلمانوں کو جنہوں نے تاخت کی ہے امان دیئے جانے کا حال معلوم ہوا تو قتل کرنے والوں پر جس کو انہوں نے قتل کیا ہے اس کی دیت واجب ہوگی اور عورتیں اور مال ان کے اہل کو واپس دیئے جائیں گے اور ان عورتوں سے چونکہ انہوں نے وطی کی ہے ان کا مہر تاوان دیں گے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ بغیر قیمت آزاد ہوں گے اور اپنے والد کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی تبعیت میں مسلمان ہوں گے کہ ان کے واپس دیئے جانے کی کوئی راہ نہیں ہے اور واضح ہو کہ عورتیں تین (۳) حیض گذر جانے کے بعد واپس دی جائیں گی اور اس عدت کے زمانہ میں یہ عورتیں کسی عادل کے پاس چھوڑی جائیں گی اور عادل اس معاملہ میں بوڑھی پرہیزگار عورت ہوگی نہ مرد یہ محیط میں ہے۔

امام محمدؒ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں نے اہل حرب کو امان کی ندا پکار دی تو سب اہل حرب ان کی امان دہی کی آواز سن کر امن میں ہو جائیں گے چاہے کسی زبان میں ان کو ندا دی ہو خواہ انہوں نے اس کلام کو سمجھ کر امان معلوم کر لی ہو یا اس زبان کو نہ سمجھے اور اس سے امان کو نہ معلوم کیا ہو صرف آواز سنی ہو جیسے عربی زبان میں ان کو امان دینے کی منادی کر دی حالانکہ وہ لوگ رومی ہیں کہ عربی نہیں سمجھتے ہیں یا بھٹی زبان میں ان کو ندائے امان دی حالانکہ یہ لوگ ایسی قوم ہیں کہ بھٹی نہیں سمجھتے ہیں اور مثل اس کے تو ایسی صورت میں آواز سن کر وہ مامون ہو جائیں گے اور اگر کافروں نے مسلمانوں کے امان دہی کی آواز نہیں سنی تو ان کے واسطے امان حاصل نہ ہوگی پس اس کا قتل کرنا اور گرفتار کرنا روا ہے اور اگر مسلمانوں نے ایسے مقام سے ان کو منادی کی کہ وہاں سے آواز سن سکتے ہیں مگر دیگر قرآن سے ہر جہت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے آواز نہیں سنی ہے مثلاً یہ لوگ خواب میں تھے یا قتال میں مشغول تھے تو یہ امان ہوگئی اور معلوم ہونے سے یہاں یہ مراد ہے کہ غالب رائے سے یہ امر معلوم ہوا نہ بعلم حقیقی اور واضح رہے کہ سب کو امان حاصل ہونے کے واسطے یہ شرط نہیں ہے کہ آواز امان کو سب لوگ سُنیں بلکہ اکثروں کا سُن لینا کافی ہے اور یہ سب کے سُن لینے کے قائم مقام رکھا جائے گا اور اگر مسلمانوں نے کسی حربی سے کہا کہ لا اتخف مت خوف کر یا اس سے کہا کہ تو امان یافتہ ہے یا اس سے کہا کہ لا باس علیک تو اندیشہ سختی مت کر تو یہ سب امان ہے اور اگر اُس سے کہا کہ لک امان اللہ تو امان ہوگی اور اس طرح اگر کہا کہ لک عہد اللہ یا لک ذمۃ اللہ یا اُس سے کہا کہ پڑھ اور اللہ تعالیٰ کا کلام سن یا اس سے کہا کہ انرناک ہم نے بچاؤ دیا تو بھی اس کو امان حاصل ہوگی اور اگر سردار لشکر اسلام نے کسی جماعت معین سے جو قلعہ میں محصور ہیں کہا کہ تم نکل کر ہماری طرف آؤ ہم تم سے صلح کی بابت مرادضت (مساوات رضامندی) کریں اور تم امان یافتہ ہو یا یہ لفظ نہ کہا کہ تم امان یافتہ نہ ہوں گے اور اگر ان سے کہا کہ ہمارے پاس آؤ تو یہ امان ہے اور اگر ان سے کہا کہ ہماری طرف نکلو اور ہم سے خریدو فروخت کرو تو یہ امان ہے اور اگر اہل حرب کسی قلعہ میں یا کسی مضبوط جگہ میں جہاں ان کو پناہ و قوت حاصل ہے موجود ہوں پس کسی مسلمان نے کسی حربی کو اشارہ سے کہا کہ ہمارے پاس چلا آیا اہل قلعہ کو اشارہ سے کہا کہ تم دروازہ کھول دو اور آسمان کی طرف اشارہ کیا پس انہوں نے دروازہ کھول دیا اور گمان کیا کہ یہ امان ہے اور جو فعل اس مرد مسلمان نے کیا ہے وہ مسلمانوں اور ان حربیوں کے درمیان معروف ہو کہ جب ایسا کیا جاتا

ہے تو امان ہوتی ہے یا یہ امر اس طرح ان میں معروف نہ ہوں بہر حال ان مشرکوں کو امان ہوگی اور اگر دشمن کی طرف اپنی انگلی سے اس طرح اشارہ کیا کہ جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ میرے پاس آؤں حالانکہ یہ اشارہ کرنے والا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو آئے گا تو میں تجھے قتل کروں گا پس دشمن مذکور چلا آیا تو وہ امان یافتہ ہے اُس کا قتل کرنا روا نہیں ہے اور یہ حکم اس وقت ہے کہ مشرک نے اس کے اشارہ کو سمجھا اور اس کو امان خیال کیا اور اشارہ کرنے والے کے اس قول کو کہ اگر آئے گا تو تجھے قتل کروں گا نہیں سنا یا سنا مگر نہ سمجھا ہو اور اگر اشارہ کرنے والے کا یہ قول سن کر سمجھ لیا ہے پھر بھی چلا آیا تو یہ امان نہ ہوگی اور علی ہذا اگر مسلمان نے کافر سے کہا کہ چلا آتا کہ میں تجھے قتل کر دوں پس کافر نے اول کلام سنا اور سمجھ لیا اور آخر کلام نہیں سنا یا سنا مگر نہیں سمجھا پس چلا آیا تو اس کو امان ہے اور اگر اُس نے آخر کلام سن کر سمجھ لیا ہے تو امان نہ ہوگی اور علی ہذا اگر مسلمان نے مشرک سے کہا کہ چلا آ اگر قتال کرنا چاہتا ہے اگر تو مرد ہے پس اُس نے اول کلام کو سن کر سمجھ لیا اور آخر کلام کو نہیں سنا یا آخر کلام کو سنا اور اُس کو نہیں سمجھا پس چلا آیا تو اس کو امان ہوگی اور اگر اُس نے اول و آخر کلام سب سنا اور سمجھ لیا ہے پھر چلا آیا تو اس کو امان نہ ہوگی اور علی ہذا اگر حربی سے کہا کہ یہاں آدیکھ تو میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں تو بھی ایسا ہی حکم ہے یہ ذخیرہ محیط میں ہے۔

اگر حربی نے کہا: آمنو بی اعلیٰ اولادی :

اگر ایک جماعت کفار نے مسلمانوں سے کہا کہ آمنونا علی ذرینا یعنی ہم کو امان دو بشرط آنکہ ہمارے ساتھ ہماری ذریات بھی امن میں ہوں پس مسلمانوں نے ان کو اس طرح پر امان دی تو وہ لوگ اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد اگرچہ کتنے ہی نیچے درجہ کی ہو سب امان میں داخل ہوگی و لیکن اولاد پسران اس امن میں داخل ہوگی اولاد دختران اس میں داخل نہ ہوگی یہ سیر کبیر میں ہے کذاتی الظہیر یہ اور اگر حربی نے کہا کہ آمنو بی اعلیٰ اولادی یعنی امان دو مجھ کو بشرط آنکہ اس میں میری اولاد بھی داخل ہو پس مسلمانوں نے اس کو اس طرح امان دی تو وہ اور اس کی اولاد صلیبہ سب اولاد میں سے مردوں کی اولاد سب داخل ہوں گی اور عورتوں (۱) کی طرف سے جو اس کی اولاد ہو وہ داخل نہ ہوگی اور اگر اُس نے کہا کہ امنو نئے علی اولاد اولادی یعنی مجھے امان دو بشرط آنکہ میری اولاد کی اولاد اس میں داخل ہو تو شیخ الاسلام اور قاضی رکن الاسلام علی سغدی نے ذکر کیا کہ اس مسئلہ میں دو روایتیں ہیں اور شمس اللائمہ مرحسی نے ذکر کیا کہ اس صورت میں دختروں کی اولاد از ردے حکم روایت داخل ہوں گی اور اگر اس نے کہا کہ امنو علی آبادی یعنی مجھے امان دو بشرط آنکہ میرے آباء اس میں داخل ہوں اور اُس کے مادر و پدر دونوں موجود ہیں تو امان میں داخل ہو جائیں گے اور اگر اُس کے مادر و پدر نہ ہوں بلکہ جد و جدہ موجود ہوں تو ان دونوں کے واسطے امان حاصل نہ ہوگی اور امام محمد نے فرمایا کہ اگر ان کی زبان میں جس میں وہ باتیں کرتے ہیں جد کو بھی باپ بولتے ہوں جیسے پسر کے پے کو بیٹا بولتے ہیں تو جد بھی بمنزلہ پسر کے امان میں داخل ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر حربی نے کہا کہ مجھے امان دو بدیں شرط کہ میرے مولیٰ اس میں داخل ہوں حالانکہ اس کے مولیٰ

یعنی غلام کوئی نہیں ہے فقط باندیاں ہیں تو استحساناً یہ باندیاں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں گی:

اگر حربیوں نے کہا کہ امنونا علی انبائنا یعنی ہم کو امان دو بایں شرط کہ ہمارے ابناء اس میں داخل ہوں حالانکہ ان کے

۱۔ قولہ صلیبہ یعنی خاص اس کی پشت و نطفہ سے بیٹا بیٹی جو کوئی جس قدر ہوں ۱۲۔

(۱) روایت آگئی ہے ۱۲۔

بیٹے و بیٹیاں موجود ہیں تو سب امان میں داخل ہوں گے اور اگر ان کی اولاد نہ رہے تو وہ کوئی امن میں داخل نہ ہوں گے بلکہ سب مال غنیمت ہوں گی اور اگر انہوں نے کہا کہ امنونا علی بناننا و اخواتنا یعنی ہم کو امان دو بشرطیکہ ہماری بیٹیاں و بہنیں امان میں داخل ہوں گی تو یہ امان خاصۃً^۱ مؤخجون کے واسطے ہوگی اس میں کوئی مذکر ان کی اولاد وغیرہ میں سے داخل نہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے اور اگر کہا کہ امنو نی علی اخوتی حالانکہ اس کے بھائی اور بہنیں موجود ہیں تو سب کی سب امان میں داخل ہوں گی اور اگر اس کی بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ کوئی مذکر نہ ہو تو بھی سب کی سب امان میں داخل ہوں گی یہ محیط میں ہے اور اگر حریوں نے کہا کہ امنو ناعلی اباننا حالانکہ ان کے صلبی فرزند و پسروں کے پسر موجود ہیں تو ہر دو فریق امان میں داخل ہوں گے اور اگر ان کے صلبی پسر نہ ہوں بلکہ پسروں کے پسر ہوں تو بھی وہ امان میں ہوں گے اور اگر حریوں نے کہا کہ امنو ناعلی اباننا حالانکہ ان کے باپ نہیں ہیں بلکہ اجداد موجود ہیں تو اجداد اس امان میں داخل نہ ہوں گے اور اسی طرح اگر انہوں نے کہا کہ ہم کو امان دو بشرط آنکہ ہماری مائیں اس میں داخل ہوں حالانکہ ان کی مائیں جنہوں نے ان کو جنا ہے نہیں موجود ہیں بلکہ ان کے جدات موجود ہیں تو یہ عورتیں اس امان میں داخل نہ ہوں گی اور اگر حربی نے کہا کہ مجھے امان دو بدیں شرط کہ میرے مولیٰ اس میں داخل ہوں حالانکہ اس کے مولیٰ یعنی غلام کوئی نہیں ہے فقط باندیاں ہیں تو استحساناً یہ باندیاں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں گی یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر کسی حربی نے قلعہ کے اندر سے امیر لشکر اسلام سے کہا کہ امنو نی علی متاعی مجھے امان دو بشرط آنکہ میری متاع اس میں داخل ہے پس اس طرح اُس کو امان دی تو وہ امن میں ہوگا اور اس کی متاع اُس کے ساتھ امن میں ہوگی کہ اُس کو سپرد کی جائے گی لیکن متاع میں درہم و دینار و سونا و چاندی و زیور و جواہر و جانوران سواری و ہتھیار^۲ داخل نہ ہوں گے اور ان کے سوائے باقی چیزیں کپڑے و فروش و تمام متاع بیت یہ سب شیزیں متاع میں داخل ہوں گی اور استحساناً متاع کے تحت میں بیوت بھی داخل ہوں گے یہ محیط میں ہے اور اگر حربی نے کہا کہ مجھے امان دو مع دس نفر کے تو یہ دس سوائے اُس کی ذات کے قرار دیئے جائیں گے اور ان دس کی تعیین کا خیار امام کو ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ امنو عشرة من اہل بیٹی اوفی اُس کے عشرة من اہل حصنی یعنی میرے اہل بیت کے دس آدمیوں میں یا میرے قلعہ کے دس آدمیوں کے ساتھ میں مجھے امان دو تو اُس کو اور اس کے سوائے اور نو نفر کو امن حاصل ہوگی اور اگر اُس نے کہا کہ مجھے امان دو میرے دس بھائیوں کے ساتھ میں تو اُس کو اور اُس کے سوائے اُس کے دس بھائیوں کو امان حاصل ہوگی اور اسی طرح اگر کہا کہ فی عشرة من ولدی یعنی میری دس اولاد کے ساتھ میں تو بھی یہی حکم ہے اور اگر کہا کہ امان دو مجھے میرے دس بھائیوں کے ساتھ میں جن میں بھی ہوں یا میری دس اولاد کے ساتھ ہیں جن میں بھی ہوں تو اس کے سوائے بھی دس نفر کو امان ملے گی اور اگر کہا کہ میرے دس اہل بیت کو جن میں سے میں بھی ہوں یا میرے دس اہل قلعہ کو جن میں میں بھی ہوں تو دس نفر کو امان ملے گی جن میں سے ایک یہ ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ امان دو مجھ کو میرے مولیٰ کے ساتھ میں حالانکہ اُس کے مولیٰ^۳ ایسے ہیں کہ انہوں نے اس کو آزاد کیا ہے اور مولیٰ ایسے ہیں کہ جن کو اُس نے آزاد کیا ہے تو یہ امان ان دونوں فریق کو شامل نہ ہوگی بلکہ ایک ہی فریق کو ان میں سے شامل ہوگی اور جس کو اس مستامن نے مراد لیا ہے اسی فریق کو شامل ہوگی یعنی بیان تعیین

۱۔ قولہ خاصۃً مؤخجون یعنی امان طلب کرنے والے مع ان کے مؤخجون کے خاصۃً بدوں شمول ترینہ اولاد کے ۱۲۔ ۲۔ کیونکہ لفظ متاع کے معنی ہیں یہ چیزیں داخل نہیں ہیں ۱۲۔ ۳۔ مولیٰ جمع مولیٰ اور مولیٰ آزاد کرنے والے اور آزاد کیے گئے دونوں پر بولتے ہیں ۱۲۔ ۴۔ یہ ہمارے نزدیک ہے اور برائے امام شافعی چاہیے کہ دونوں کو بھی نہ شامل ہوئے ۱۲۔

اس مستامن کو ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ میں نے کسی کی تعین کی نیت نہیں کی تھی تو ہر دو فریق استحساناً اس امان میں شامل ہوں گے اور اگر مسلمانوں نے کسی قلعہ کا محاصرہ کیا اور سردار قلعہ نے قلعہ پر سے ظاہر ہو کر کہا کہ مجھے مع میرے دس اہل قلعہ کے امان دو بدین شرط کہ میں قلعہ کو تمہارے واسطے کھولے دیتا ہوں پس مسلمانوں نے کہا کہ تیرے واسطے ایسا ہی ہے پس اُس نے کھول دیا تو وہ مع دس اہل قلعہ کے امن میں ہوگا پھر دس آدمیوں کے معین کرنے کا اختیار اسی سردار قلعہ کو ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ میرے واسطے مع میرے اہل قلعہ کے امان کا عقد کرو بدین شرط کہ تم اس قلعہ میں داخل ہو پس اس میں نماز پڑھو پس اسی پر اُس کے ساتھ عقد امان قرار دیا تو مسلمانوں کے لیے اس قلعہ میں سے نفوس و اموال میں سے قلیل و کثیر کچھ نہیں ہے یہ خزانہ مفتین میں ہے۔

اہل حرب میں سے کوئی شخص امان کا طالب ہو اور اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کا ذکر نہ کیا تو؟

اگر اہل حرب میں سے کسی مرد نے اہل اسلام سے امان طلب کی اور اس کو امان دی گئی پھر اپنے ساتھ ایک عورت کو لایا اور کہا کہ میری بیوی ہے اور اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے اطفال لایا اور کہا کہ یہ میری اولاد ہے حالانکہ ان کو اپنی امان میں ذکر نہیں کیا تھا بلکہ یہی کہا تھا کہ مجھے امان دو تا کہ میں تمہارے پاس آؤں یا دارالاسلام میں آؤں یا تمہارے لشکر میں آؤں جو دارالحرب میں موجود ہے تو ایسی صورت میں قیاس یہ ہے کہ سوائے اس کے باقی جتنے ہیں سب مال فنی ہوں لیکن یہ امر قبیح ہے پس اُس کے ساتھ ہم ان کو بھی استحساناً امان میں داخل کرتے ہیں اور اسی طرح اگر اُس کے بہت سے مرد و عورت ہوں پس اُس نے کہا کہ یہ میرے رقیق ہیں اور انہوں نے اُس کے قول کی تصدیق کی یا وہ لوگ صغیر ہیں کہ اپنے حال سے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں حتیٰ کہ اس میں ان کے تصدیق کرنے کی احتیاج نہیں ہے تو اس میں بھی ایسا ہی قیاس و استحسان جاری ہے چنانچہ بحکم استحسان ہم اُس سے قسم لے کر اُس کے قول کی تصدیق کریں گے اور اس کے ساتھ ان کو بھی مامون قرار دیں گے حالانکہ قیاس یہ ہے کہ یہ سب سوائے اُس کی ذات کے فنی ہوں۔ اسی طرح سواری کے جانوروں اور اجیر مزدور جو اس کے ساتھ آئیں ان میں بھی ایسا ہی حکم بقیاس و باستحسان ہے اور اگر اس کے ساتھ چند مرد ہوں جن کی نسبت وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ میری اولاد ہیں اور انہوں نے اُس کی تصدیق کی تو یہ لوگ قیاساً و استحساناً دونوں طرح سے فنی ہوں گے اور اگر اطفال صغیر اس کے ساتھ ہوں اور وہ ایسے ہیں کہ اپنے نفس سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ گون ہیں پس اس حربی نے کہا کہ یہ میری اولاد ہیں اور انہوں نے اُس کی تصدیق کی بحکم قیاس وہ فنی ہوں گے اور استحساناً وہ فنی نہ ہوں گے اور اگر ان اطفال نے اُس کی تکذیب کی تو وہ مسلمانوں کے لیے فنی ہوں گے اور اگر اس کے ساتھ بالغ عورتیں ہوں اور اُس نے دعویٰ کیا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اور ان عورتوں نے تصدیق کی تو قیاساً فنی ہوں گی اور استحساناً مامون ہوں گی بالجملہ اس جنس کے مسائل میں اصل یہ قرار پائی کہ جو شخص اپنے نفس کے واسطے اپنے آپ امان طلب کر سکتا ہے بلحاظ غالب و اکثر کے تو وہ امان میں دوسرے کا تابع نہیں قرار دیا جائے گا اور جو شخص بلحاظ غالب و اکثر کے اپنے واسطے امان اپنے آپ نہیں لیتا ہے تو وہ امان میں دوسرے کا تابع کیا جائے گا پس علیٰ ہذا اگر حربی نے اپنے واسطے امان لی تو اس کی ماں و جدہ نہیں و پھوپھیاں و خلائیں و ہر عورت جو اُس کی ذات رحم محرم ہو امان میں اس کے تابع کی جائیں گی اور اس حربی کا باپ و جد و بھائی وغیرہ جو خود امان لیتا ہے ایسے لوگ اس حربی کے ساتھ اس کی تبعیت میں داخل امان نہ ہوں گے اور جو شخص کہ مستامن کے امان تبعیت میں داخل امان ہوتا ہے اگر مستامن کے ساتھ دارالاسلام میں داخل ہوا پس معلوم ہوا کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ اُس نے کہا یعنی مستامن کے ساتھ داخل امان ہونے والے لوگوں میں سے ہے یا مستامن دعویٰ کیا کہ یہ ایسا ہے اور جو ساتھ آیا ہے اُس نے اس کے قول کی تصدیق کی تو بہر حال دونوں

صورتوں کا حکم یکساں ہے اور وہ اس مستامن کی امان کی تبعیت میں داخل امان ہوگا اور اگر اُس نے اس مستامن کی تکذیب کی تو وہ فُئی ہوگا اور اگر پہلے تکذیب کی پھر تصدیق کی تو بھی فُئی ہوگا اور اگر پہلے اس کی تصدیق کی پھر تکذیب کی تو اس میں تفصیل ہے کہ اس مستامن حربی کے مملوک رقیق اور اُس کی اولاد صغار جو اپنے نفس سے تعبیر کر سکتے ہیں ہن میں رہیں گے اور اُس کا اجیر و عورت بالغہ اگر اُنھوں نے اول مرتبہ اس کی تصدیق کی تو اپنی ذات پر اُس کے رقیق ہونے کا اقرار نہ کیا کیونکہ مستامن نے خود ہی ان پر رقیقیت کا دعویٰ نہیں کیا ہے پس دے آزاد باقی رہے پھر جب اس کے بعد اُنھوں نے اس کی تکذیب کی تو اُنھوں نے اپنی ذاتوں پر رقیقیت کا اقرار کر لیا اور حربی اگر اپنی ذات پر رقیقیت کا اقرار کرے تو اُس کا اقرار رقیق صحیح ہوتا ہے اور مسئلہ محصور میں بیان فرمایا کہ اگر محصور نے مسلمانوں سے امان طلب کر لی بدین شرط کہ میں مسلمانوں کے پاس حاضر آؤں گا تو امان میں اُس کا لباس اور جو ہتھیار پہنے ہوئے ہے اور جانور سواری اور جو کچھ روپیہ و اثرفی وغیرہ اپنے ساتھ نکال لایا ہے داخل ہوگا یہ استحسان ہے اور ماسوائے اس کے جو کچھ رہا وہ فُئی ہوگا پھر واضح ہو کہ اُس کے ہتھیاروں و کپڑوں میں سے اس قدر داخل امان ہوں گے جتنے ہتھیار اُس کے مثل آدمی باندھ سکتا ہے یا جتنے کپڑے اُس کے مثل آدمی پہنتا ہے حتیٰ کہ اگر اُس نے چند کمائیں اپنے مونڈھے پر لگائیں چند تلواریں لٹکائیں یا چند قبائیں پہنیں یا چند عمامہ اپنے سر پر باندھ لیے جیسے کوئی بوجھ لادے ہوئے ہے تو بقدر زیادتی کے اُس کے نہ ہوں گے (بلکہ فُئی ہوں گے) یہ محیط میں ہے۔

اگر سردار لشکر اسلام نے امیر قلعہ کے پاس کسی ضرورت سے کوئی ایچی بھیجا پھر ایچی وہاں گیا اور وہ مسلمان ہو گئے پھر جب اُس نے پیغام پہنچایا تو کہا کہ امیر لشکر اسلام نے میری زبانی تجھے اور تیرے اہل مملکت کے واسطے امان بھیجی ہے پس تو دروازہ کھول کے یا امیر قلعہ کے پاس دروغ بنایا ہو سردار لشکر اسلام کی طرف سے خط لیا گیا زبانی یہ امر بیان کیا اور اس بیان کے وقت چند آدمی مسلمان بھی حاضر تھے پس جب امیر قلعہ نے دروازہ کھول دیا اور مسلمان اس میں گھس پڑے اور اُنھوں نے لوشنا و گرفتار کرنا شروع کیا تو امیر قلعہ نے کہا کہ تمہارے ایچی نے ہم سے بیان کیا کہ تمہارے سردار لشکر نے ان کو امان دی ہے اور ان مسلمانوں نے جو وقت بیان کے حاضر تھے گواہی دی تو یہ سب لوگ امان میں ہوں گے کہ جو کچھ اُن سے لیا گیا ہے وہ سب ان کو واپس دیا جائے گا اور اگر یوں واقع ہوا کہ جو شخص امیر قلعہ کے پاس گیا ہے وہ سردار لشکر اسلام کا ایچی نہیں ہے بلکہ اُس نے اپنی طرف سے ایک خط جعلی بنایا اور اُس کو لے کر سردار قلعہ کے پاس گیا اور زبانی اُن سے یہ بات بیان کی اور کہا کہ میں سردار لشکر اسلام کا ایچی اور مسلمانوں کا ایچی ہوں پھر ایسا واقع ہوا تو یہ سب لوگ مسلمانوں کے واسطے فُئی ہوں گے و لیکن امام کو جائز ہے کہ ان لوگوں کا قول قبول کرے یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر سردار لشکر اسلام کے ایچی نے بعد سردار کے پیغام پہنچانے کے فلاں قائد لشکر نے تم کو امان دی ہے اور مجھے اس امر کے واسطے بھیجا ہے اور مسلمانوں نے تا دروازہ امیر لشکر تم کو امان دی ہے اور میں نے بھی تم کو قبل اپنے تمہارے پاس داخل ہونے کے تم کو امان دی تھی اور تم کو آواز و ندا کر دی تھی اور اس کی اس گفتگو پر قوم حاضرین مسلمان گواہ ہوئی تو اس صورت میں یہ سب فُئی ہوں گے بشرطیکہ جو کچھ اُس نے بیان کیا ہے وہ دروغ خبر دی ہو اور اگر کسی مسلمان نے اُس کو کسی حاجت واسطے بھیجا ہو پس ایچی نے اُس کی ضرورت پوری کر کے کہا کہ جس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اُس نے تم کو امان دی ہے تو یہ باطل ہے یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر امام نے یا کسی مسلمان نے کسی ذمی کو حکم کیا تو ان حربیوں کو امان دے دے پس اگر ذمی سے یوں کہا کہ ان کو

امان دے دے پس ذمی نے حربیوں سے کہا کہ میں نے تم کو امان دی یا کہا کہ فلاں نے تم کو امان دی تو دونوں یکساں ہیں اور وہ سب امان یافتہ ہو جائیں گے اور اگر ذمی سے کہا کہ تو فلاں نے تم کو امان دی پس ذمی نے ان سے کہا کہ فلاں نے تم کو امان دی تو بھی وہ سب امان یافتہ ہو جائیں گے اور اگر ذمی نے کہا کہ میں نے تم کو امان دی تو یہ باطل ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر مسلمانوں نے کسی قلعہ کا محاصرہ کیا پس امیر لشکر نے اہل قلعہ سے کہا کہ اگر کبھی کسی وقت میں تم کو امان دوں تو میری امان باطل ہے یا تو امان باطل ہے یا تو تمہارے واسطے امان حاصل نہ ہوگی یا تو میں نے وہ امان تمہارے سرماری یعنی رد کر دی پھر اسی امیر لشکر نے ان کو امان دی تو اس کی امان باطل ہوگی اور اگر امیر لشکر نے کسی منادی کو حکم دیا کہ لشکر میں پکار دے کہ جس نے تم میں سے اہل قلعہ کو امن دی تو اس کی امان باطل ہے پھر کسی مسلمان نے اہل قلعہ کو امان دی تو اس کی امان جائز ہوگی اور اگر منادی کو حکم کیا کہ اہل قلعہ کو پکار کر مطلع کر دے یا خط لکھ بھیجا یا اپنی بھیج دیا کہ اگر کسی مسلمان نے تم کو امن دیا تو اس کی امان پر اعتماد نہ کرنا کہ اس کی امان باطل ہے پھر کسی مسلمان نے ان کو امان دی اور اہل قلعہ اس کی امان پر قلعہ سے اتر آئے تو وہ لوگ فنی ہوں گے اور اگر امیر لشکر نے اہل قلعہ سے کہا کہ اگر تم کو کوئی مسلمان امان دے، تو تم کو امان حاصل نہ ہوگی یہاں تک کہ میں تم کو امان دوں پھر ان کے پاس کوئی مسلمان آیا اور کہا کہ میں سردار لشکر کی طرف سے تمہارے پاس اپنی آیا ہوں کہ تم کو سردار لشکر نے امان دی پس اہل قلعہ اس خبر پر قلعہ سے اتر کر حاضر ہوئے تو وہ سب امان یافتہ ہوں گے اگرچہ مرد مذکور اس خبر میں کاذب ہو اور اگر اہل قلعہ سے امیر لشکر نے کہہ دیا ہو کہ تم کو امان حاصل نہ ہوگی اگر کسی مسلمان نے تم کو امان دی یا میری طرف سے اپنی بن کر آیا یہاں تک کہ میں خود تم کو امان دوں اور باقی مسئلہ بحالہ واقع ہو تو یہ سب لوگ فنی ہوں گے اور اگر امیر نے اس کے پاس اپنی بھیجا ہو اور اس نے پیغام امان امیر کا پہنچایا تو وہ لوگ امان یافتہ ہوں گے اور اگر ان سے کہا کہ جب میں تم کو امان دوں تو میری امان باطل ہے پھر ان کو امان دی تو یہ امان صحیح ہوگی یہ سرحسی میں ہے۔

اگر مسلمانوں نے اہل حرب کے کسی قلعہ یا شہر کا محاصرہ کیا پس انہوں نے مسلمان سے درخواست کی کہ تم ہم کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اتار دینی ہم تمہارے پاس آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم پر حکم کرے اس شرط پر ہم کو بلاؤ تو مسلمانوں کو اس طرح پر بلانا نہیں چاہیے یہ محیط میں ہے اور اگر مسلمانوں نے ان کو حکم اللہ تعالیٰ پر اتارنا وجود یہ کہ ان کو ایسا نہ چاہیے تو امام کو چاہیے کہ ان پر اسلام پیش کرے پس اگر وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو سب آزاد ہوں گے (۱) کہ ان کو ان کا مال و عورتیں و اولاد سب سپرد کر دیئے جائیں گے اور ان کا ملک دار اسلام ہو جائے گا اور ان کی اراضی میں سے فقط عشر^۲ لیا جائے گا اور اگر انہوں نے اسلام سے انکار کیا تو امام ان کو ذمی بنا دے گا اور ان پر جزیہ مقرر کرے گا اور ان کی زمین پر خراج باندھے گا اور یہ لوگ رقیق نہیں بنائے جائیں گے اور نہ قتل کئے جائیں گے اور نہ وہ لوگ اپنی محفوظ جگہ میں واپس کیے جائیں گے اور اگر مسلمانوں میں سے کسی ایک معین کے حکم پر اترے تو یہ جائز ہے پس اگر اس مسلمان نے ان پر قتل کا یا رقیق بنائے جانے کا یا ذمی بنائے جانے کا حکم کیا تو یہ حکم جائز ہوگا اور اگر اس نے یہ حکم کیا کہ اپنی جگہ پر واپس کر دیئے جائیں تو یہ حکم نہیں جائز ہے اور اگر فلاں مذکور قبل اس کے کہ ان کے حق میں کچھ حکم کرے مر گیا یا قتل کیا گیا تو وہ لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اترے یعنی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو حکم اللہ تعالیٰ پر اتر آنے

۱ شامل ہے تمام زمانہ و وقتوں کو ۱۲۔ ۲ جب سے احاطہ عموم اوقات و زمانہ کا نہ ہوگا لہذا بعد وقت یا مجلس کے اس کا حکم نافذ نہ رہے گا پس امان صحیح ہوگی ۱۲۔

۳ جس کو ہمارے عرف میں محصول و لگان بولتے ہیں ۱۲۔

(۱) جیسے اراضی اسلام کا حکم ہو ۱۲۱۔

کی صورت میں مذکور ہوا ہے اور اگر اس مسلمان نے اپنے آپ کو حکومت سے خارج کیا یعنی کہا کہ میں ان کے حق میں حکم ہونے سے خارج ہوتا ہوں تو وہ خارج ہو جائے گا اور اگر اُس نے پہلے یہ حکم کیا کہ واپس کر دیئے جائیں پھر ان کے قتل کیے جانے کا حکم کیا تو استحساناً نہیں صحیح ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگر کافروں نے امان کی درخواست کی بدیں شرط کہ ہم پر ایمان پیش کیا جائے پس اگر ہم قبول کر لیں تو خیر ورنہ ہم اپنی جائے محفوظ میں واپس کر دیئے جائیں تو امام المسلمین پر اُس کا قبول کرنا واجب ہے:

اگر انھوں نے کسی مسلمان کو بطور مذکور حکم قرار دیا لیکن یہ مسلمان بسبب اپنے فسق کے یا بسبب محدود القذف ہونے کے ایسا ہے کہ اس کی گواہی روا نہیں ہے تو ان کے حق میں اس کا حکم جائز ہوگا خواہ ان کے قتل کیے جانے کا یا رقیق بنائے جانے کا یا سوائے اس کے اور حکم کرے^۱ یہ محیط میں ہے۔ نوازل میں لکھا ہے کہ اگر اہل حرب کسی ایسے شخص کے حکم پر اترے جو محدود القذف ہے یا اندھا ہے تو یہ جائز نہیں^۲ ہے یہ تاتار خانہ میں ہے۔ اگر انہوں نے کسی غلام یا طفل آزاد کو جو عاقل ہو گیا ہے حکم ہے تو اس کا حکم جائز نہ ہوگا اور اگر باوجود اس کے وہ اس کے حکم پر اترے تو ذمی بنائے جائیں گے جیسے حکم اللہ تعالیٰ پر اترنے کی صورت میں ہے۔ اگر وہ کسی ذمی کے حکم پر اترے پس اس ذمی نے قتل کیے جانے وان کی عورتیں و بچہ رقیق بنائے جانے کا یا اس کے اور حکم کیا تو جائز ہے ایسا ہی امام محمد نے سیر کبیر میں ذکر کیا ہے اور اگر قبل اس کے کہ ذمی کو اپنے اوپر حکم بنا دیں وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر ان کے حق میں ذمی کا کوئی حکم مثل قتل کیے جانے یا رقیق بنائے جانے وغیرہ کے جائز نہ ہوگا بلکہ اس صورت میں امام المسلمین ان کو آزاد مسلمان قرار دے گا کہ ان کے اوپر کوئی راہ نہ ہوگی۔ اگر انہوں نے کسی عورت کو حکم قرار دیا تو اس عورت کا حکم ان میں سب طرح کا روا ہے سوائے حکم قتل کے کہ اگر عورت مذکورہ ان کے حق میں قتل کیے جانے کا حکم کرے تو قبول نہ ہوگا ایسا ہی زیادات میں مذکور ہے۔ جو مسلمان ان کے ہاتھ میں مقید ہے وہ حکم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور اس طرح جو مسلمان ان کے ملک میں تاجر ہے وہ بھی حکم نہیں ہو سکتا ہے اور اس طرح اگر ان میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر رہا ہے وہ بھی حکم نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح ان میں کا جو شخص لشکر اسلام میں ہے وہ بھی حکم نہیں ہو سکتا ہے اور سیر کبیر میں لکھا ہے کہ اگر اہل حرب نے یہ شرط کی کہ ہم لوگ فلاں کے حکم پر اترتے ہیں بدیں شرط کہ اگر اس نے ہمارے حق میں کچھ حکم کیا تو یہ حکم پورا ہوگا اور اگر اس نے کچھ حکم نہ کیا تو ہم کو ہمارے مقام حفاظت میں واپس کر دو یا یہ شرط کی کہ ہم فلاں کے حکم پر بدیں شرط اترتے ہیں کہ اگر اس نے ہمارے حق میں یہ حکم کیا کہ یہ لوگ اپنے مقام محفوظ میں واپس پہنچادے جائیں تو تم لوگ اس کو پورا کر دو تو مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ ان کو اس شرط پر اتاریں اور اگر انہوں نے اس شرط پر ان کو اتارا تو حاکم کو نہ چاہیے کہ ان کے حق میں یہ حکم کرے کہ اپنے مقام محفوظ میں واپس کر دیئے جائیں اور اگر مسلمانوں نے ان کے اس شرط پر اتارا اور حاکم نے ان کے حق میں یہی حکم کیا کہ اپنے مقام محفوظ میں واپس کر دے جائیں تو ہم اس کے حکم کو پورا کریں گے اور اہل حرب کو ان کے مقام محفوظ میں واپس کر دیں گے۔ نوادر ابن سماعہ میں امام محمد سے مروی ہے کہ اگر امیر لشکر نے اہل قلعہ میں سے کسی قوم کو امان دی بدیں شرط کہ وہ فلاں کے غلام ہوں اور دے اس امر پر راضی ہوئے اور فلاں کی طرف اتر گئے تو مسلمانوں میں سے جو ان کو لوٹ لے اسی کے واسطے فنی ہوں گے اور فلاں کے بخصوص غلام نہ ہوں گے۔ اگر کافروں نے امان کی

۱۔ کسی کو تہمت زنا لگانے کے سبب سے حد مارا گیا ۱۲۔ ۲۔ مثلاً اگر اس نے حکم دیا کہ واپس کر دیئے جائیں تو یہ حکم روا نہیں ہے اگرچہ اس نے حکم دیا اور

اپنے عہد سے بری ہو گیا ۱۲۔ ۳۔ پس اس مسئلہ میں دو روایتیں ہیں ۱۲۔

درخواست کی بدین شرط کہ ہم پر ایمان پیش کیا جائے پس اگر ہم قبول کر لیں تو خیر ورنہ ہم اپنی جائے محفوظ میں واپس کر دیے جائیں تو امام المسلمین پر اس کا قبول کرنا واجب ہے اور اگر اس شرط پر کہ ان پر اسلام پیش کیا جائے وہ لوگ اترے پس ان پر اسلام پیش کیا گیا مگر انہوں نے قبول نہ کیا تو ان کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے قلعہ میں چلے جائیں اور مسلمانوں کو رو انہیں ہے کہ ان کو قتل کریں اور ان کی عورتوں و بال بچوں کو گرفتار کر لیں اور اگر ان لوگوں نے بعد انکار اسلام کے ادائے خراج پر رضامندی ظاہر کی تو یہ امر ان کے ذمہ لازم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ لوگ رہا نہ کیے جائیں گے کہ اپنے مقام محفوظ میں جا کر جنگ کریں اور اگر بعض اہل قلعہ اس شرط پر اتر آئے کہ فلاں جو کچھ ہمارے حق میں حکم کرے ہم کو منظور ہے پھر ان لوگوں کے قلعہ سے جدا ہونے کے بعد قلعہ مذکور فتح کیا گیا اور جو شخص مقابل قلعہ میں تھا قتل کیا گیا تو یہ لوگ جو اس شرط سے نکل آئے تھے اپنی شرط مذکور پر ہوں گے اور اگر ان لوگوں نے یہ بھی شرط کی ہو کہ بشرط عدم رضامندی کے ہم لوگ اپنے قلعہ کو واپس کئے جائیں اور حال یہ گذرا ہے کہ قلعہ منہدم کیا گیا ہے تو یہاں سے جو اقرب مقام ایسا ہو کہ اس میں محفوظ ہو سکیں وہاں بھیج دیئے جائیں گے اور اگر تمام اہل قلعہ کے اتفاق سے اتنے لوگ اس طرح صلح کے واسطے نکلے ہوں تو مسلمان لوگ اہل قلعہ کو قتل نہیں کریں گے اور اگر انہوں نے قتل کیا تو ان پر کچھ کفارہ وغیرہ لازم نہ آئے گا و لیکن انہوں نے اساءت کی اور اگر وہ لوگ اس شرط سے نکلے کہ ہمارے حق میں والی بذات خود حکم کرے تو والی مثل لشکر کے ایک سپاہی مسلمان کے ہے پس ویسا ہی اس کا حکم بھی ہوگا۔ اور اگر وہ لوگ علی حکم اللہ تعالیٰ و حکم فلاں اتر آئے تو یہ مثل اس کے ہے کہ علی حکم اللہ تعالیٰ اترے اور اگر وہ لوگ علی حکم فلاں و فلاں اتر آئے پھر ان دونوں میں سے ایک مر گیا تو اس کے بعد اکیلے دوسرے کا حکم ان کے حق میں روانہ ہوگا اور منتہی میں فرمایا کہ ہاں اس وقت روا ہوگا کہ ہر دو فریق یعنی کفار و مسلمان اس کے حکم تنہا پر رضامند ہو جائیں اور نیز اسی مقام پر فرمایا کہ اور اسی طرح اگر ہر دو زندہ ہیں مگر دونوں نے حکم میں اختلاف کیا تو بھی یہی حکم ہے کہ کسی کا حکم تنہا روانہ ہوگا الا آنکہ ہر دو فریق کسی ایک کے حکم پر رضامند ہو جائیں اور اگر ہر دو حکم میں سے ایک نے حکم کیا کہ ان میں سے لڑنے والے قتل کیے جائیں اور ان کے بال بچے رقیق بنائے جائیں اور دوسرے نے یہ حکم کیا کہ نہیں سب کے سب رقیق بنائے جائیں تو ان میں سے کوئی قتل نہ کیا جائے گا اور سب کے سب مرد عورت و بچے مسلمانوں کے واسطے فنی ہوں گے اور اگر دونوں نے حکم کیا کہ ان میں سے لڑنے والے قتل کیے جائیں اور ان کے بال بچے رقیق بنائے جائیں تو امام المسلمین کو ان کے حق میں اختیار ہے چاہے یہی کرے کہ لڑنے والوں کو قتل اور ان کی عورتوں و بچوں کو رقیق کرے اور چاہے سب کو نئی قرار دے اور اگر اہل حرب کسی مسلمان کے حکم پر اتر آئے اور کسی کو معین نہیں کیا تو معین کرنا امام المسلمین کے اختیار میں ہوگا کہ مسلمانوں میں سے جو شخص افضل ہوگا اس کو مختار کرے گا اور اگر بعد حکم قرار دینے کے قبل حکم جاری ہونے کے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ آزاد مسلمان ہوں گے اور اگر حاکم نے ان کے ذمی ہونے کا حکم قبل ان کے مسلمان ہونے کے دے دیا تو اراضی ان کے واسطے خراجی رہے گی اور اگر نے ان کے حق میں یہ حکم کیا کہ ان میں سے جتنے سر کردہ ہیں ان کے عذر کا خوف ہے قتل کیے جائیں اور باقی مرد عورتیں رقیق بنائی جائیں تو ایسا حکم جائز ہوگا اور اگر نے ان کے حق میں یہ حکم دیا کہ ان کے مرد قتل کیے جائیں اور عورتیں و بچے رقیق بنائے جائیں پس ان میں سے مرد قتل کیے گئے اور عورتیں و بچے رقیق بنائے گئے تو یہ زمین فنی ہوگی چاہے امام المسلمین اس کو پانچ حصے کر کے ایک حصہ رکھ کر چار حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے اور چاہے اس کو اپنے حال پر والی کے قبضہ میں چھوڑ دے اور اس زمین کی آبادانی کے واسطے ایسے لوگوں کو بلائے جو اس کو تعمیر کریں اور اس کا خراج ادا کریں جیسے ذمیوں کی زمین بیکار افتادہ کی نسبت حکم ہے

اور اگر اہل حرب کے اتر آنے کے بعد قبل حاکم کے حکم کے حاکم مر گیا تو یہ لوگ اپنے مقام محفوظ میں واپس کر دیئے جائیں ماسوائے مسلمانوں کے یعنی جو مسلمان ہو گئے ہیں کہ ان میں سے جو آزاد ہیں وہ مفت الگ کر دیئے جائیں گے اور ساتھ لے لیے جائیں گے اور جو لوگ مملوک ہیں وہ قیمت دیکر ان میں سے نکال لیے جائیں گے اسی طرح جو ہمارا اذی ان کے پاس ہو اور بھی جو ان کا زبردست مسلمان ہو کر ہم سے اعانت چاہے پھر واضح رہے کہ جس صورت میں بموجب شرائط وغیرہ کے یہ واجب ہوا کہ وہ اپنے مقام میں واپس کر دیئے جائیں تو اسی مقام پر واپس دیئے جائیں گے جہاں سے نکال کر ہمارے پاس آئے تھے اور جو مقام اس سے زیادہ مضبوط ہو یا جہاں لشکر زیادہ موجود ہے وہاں واپس نہ کیے جائیں گے یہ محیط میں ہے۔

جس چیز سے امان واقع ہو تو اس چیز کے مثل مضر اور اس سے زیادہ مضر دونوں سے امان ہوگی:

امام محمدؑ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں نے اہل قلعہ میں سے کسی شخص سے کہا کہ اگر تو منہ ہم کو کچھ نہیں چنانچہ رہنمائی کی تو تو امن دادہ شدہ ہے یا کہا کہ تو تجھ کو ہم نے امان دی پھر اُس نے اس طرح رہنمائی نہ کی تو امام کو اختیار ہے چاہے اس کو قتل کر دے اور چاہے اُس کو رقیق بنائے اور اگر اس سے یوں کہا کہ ہم نے تجھ کو امان دی بدین شرط کہ ہم کو کچھ نہیں و چنانچہ رہنمائی کرے اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہا پس اُس نے رہنمائی نہ کی تو امام محمدؑ نے اس صورت کو کتاب میں ذکر نہیں فرمایا اور اس میں یہ حکم ہے کہ وہ اپنی امان پر ہوگا کہ امام کو اُس کا قتل کرنا یا رقیق بنانا روا نہیں ہے اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی لشکر دار الحرب میں داخل ہوا اور اہل حرب کے کسی ایسے قلعہ یا شہر کے نزدیک ان کا گذر ہوا کہ ان مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے اور مسلمانوں نے چاہا کہ ان لوگوں کے سوائے دوسروں کے طرف جائیں پس اہل شہر نے اُن سے کہا کہ تم ہم کو اس بات کا عہد دو کہ ہماری اس نہر سے پانی نہ پیو یہاں تک کہ ہمارے یہاں سے کوچ کر جاؤ برس شرط کہ ہم تم سے قتال نہ کریں گے اور نہ تمہارا پیچھا کریں گے جس وقت تم کوچ کر جاؤ گے پس اگر ایسا عہد دینے میں مسلمانوں کے واسطے منفعت ہو تو اُن سے یہ معاہدہ کر لیں اور جب اُن سے یہ معاہدہ کر لیا تو ان کو نہ چاہیے کہ اس نہر سے خود پانی پییں یا اپنے جانوروں کو پلائیں بشرطیکہ بالیقین معلوم ہو کہ یہ ان لوگوں کے پانی کے واسطے مضر ہوگا یا ضرر و عدم ضرر کچھ نہ معلوم ہو اور اگر مسلمان اس پانی کی طرف محتاج ہوں تو ان کو چاہیے کہ یہ معاہدہ ان کے سر پھینک دیں یعنی توڑ دیں اور ان کو مطلع کر دیں اور اگر بالیقین ان کے پانی میں اس وجہ سے ضرر نہ پہنچتا ہو مثلاً پانی بہت کثرت سے ہو تو بدون رد معاہدہ کے مسلمانوں کو روا ہے کہ خود پییں اور اپنے جانوروں کو پلائیں اور جیسا حکم پانی کے حق میں مذکور ہوا ہے ویسا ہی گھاس و چارہ کے حق میں بھی ہے اور اگر ان لوگوں نے مسلمانوں سے یہ معاہدہ لیا ہو کہ ہمارے کھیتوں و درختوں و پھلوں سے کچھ معرض نہ ہوں اور مسلمانوں نے ان سے یہ عہد کر لیا پھر مسلمانوں کو اُس کی حاجت لاحق ہوئی تو مسلمانوں کو روا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی چیز سے کچھ معرض ہوں جب تک کہ ان کو عہد رد کر دینے کے بعد اس کی اطلاع نہ دے دیں خواہ یہ امر ان کفاروں کے حق میں مضر ہو یا نہ ہو اور اگر کفاروں نے عہد لیا کہ ہمارے کھیتوں و گھاس کو نہ جلاؤ پس مسلمانوں نے ان سے یہ عہد کر لیا تو مسلمانوں کو واجب ہے کہ اس کو فدا کریں پس ان کے کھیتوں و گھاس میں سے کچھ نہ جلائیں اور اس کا مضائقہ نہیں ہے کہ اس میں سے اپنے کھانے کی چیز کھائیں اور جانوروں کو چارہ دیں اور اگر انھوں نے یہ عہد لیا کہ ہمارے کھیتوں میں سے نہ کھاؤ اور نہ ہماری گھاس سے چارہ دو اور مسلمانوں نے ان سے عہد کر لیا تو مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ اس میں سے کچھ کھائیں یہ جلائیں یا اپنے جانوروں کو چارہ دیں اور اس جنس کے

مسائل میں اصل یہ ہے کہ جس چیز سے امان^۱ واقع ہو تو اس چیز کے مثل مضر اور اس سے زیادہ مضر دونوں سے امان ہوگی اور جو بات اس سے کم مضر ہے اس سے امان نہ ہوگی اور اسی وجہ سے اگر کافروں نے معاہدہ لیا کہ ہماری کھیتیاں نہ جلاؤ اور مسلمانوں نے یہ عہد دیا تو مسلمانوں کو رو نہیں ہے کہ ان کھیتوں کو غرق کر دیں یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر کفار شہر نے معاہدہ لیا کہ اس راہ سے نہ گزرو بدین شرط کہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہ کریں گے اور نہ قید کریں گے پس اگر یہ عہد دینا مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو تو عہد دینے میں مضائقہ نہیں ہے پس مسلمان لوگ دوسری راہ اختیار کریں اگرچہ دوسری راہ مسلمانوں پر دور پر مشقت ہو اور اگر اس کے بعد مسلمانوں نے اسی راہ سے گزرنا چاہا دوسری راہ سے نہیں جاتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ اختیار نہیں ہے جب تک کہ معاہدہ توڑ کر ان کو اطلاع نہ دی دیں اور مسلمان بھی ان میں کسی کو قتل یا قید نہ کریں گے اور اس راہ سے گزرنے سے امان ہونا قتل اور قید سے بھی امان ہوگی اور اگر کافروں نے ہم سے عہد لیا کہ ہم ان (جمع وہ علی المشورہ) کے دیہات (گاؤں) کو خراب نہ کریں یعنی ان کی عمارت برباد نہ کریں تو مضائقہ نہیں ہے کہ ان کے دیہات میں جو متاع وغیرہ از قسم عمارت نہیں ہے ہم پائیں اور لے لیں اور تخریب کرنے سے امان دینا متاع (اس واسطے کہ یہ قلیل الضرر ہے) و اناج وغیرہ سے امان نہ ہوگی اور اگر انھوں نے یہ شرط کی کہ جو شخص ہم ان کا قید کریں اس کو قتل نہ کریں تو اس کو اسیر کر لینے میں مضائقہ نہیں ہے اور اگر انھوں نے شرط لی کہ ہم ان میں سے کوئی قید کریں تو ہم کونہ چاہیے کہ ان کو قتل کریں یہ قید کریں یعنی دونوں باتیں ہم کو نہیں کرنی چاہیے ہیں یہ محیط میں ہے۔

اور اگر اہل حرب نے کہا کہ ہم کو امان دو حتیٰ کہ ہم تمہارے لیے دروازہ قلعہ کھول دیں اور تم داخل ہو بدین شرط کہ تم ہم پر اسلام پیش کرو پس ہم مسلمان ہو جائیں پھر انھوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تو وہ لوگ امن میں ہوں گے اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کے قلعہ سے نکل آئیں پھر ان کا عہد ان کو رد کر کے اطلاع دے دیں گے اور اگر مسلمانوں نے بھی ان پر شرط لیا ہو کہ اگر تم لوگ اسلام سے انکار کر جاؤ گے تو ہمارے تمہارے درمیان امان نہیں ہے اور وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور باقی مسئلہ بحال رہا ہے تو اگر انھوں نے اسلام سے انکار کیا تو مضائقہ نہیں ہے کہ ان میں سے لڑنے والے قتل کیے جائیں اور وہ رقیق بنائے جائیں اور اگر ان میں سے بعض نے اسلام قبول کیا اور بعض نے انکار کیا تو جو مسلمان ہو اوہ آزاد ہے اور جس نے انکار کیا وہ فئی ہے اور اگر امام المسلمین نے اس پر اسلام پیش کیا اور اُس نے انکار کیا اور وہ فئی قرار دیا گیا پھر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کو قتل نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ فئی رہے گا اور اگر امام نے اس پر اسلام پیش کیا اور اُس نے انکار کیا اور ہنوز اُس پر فئی ہونے کا حکم نہیں دیا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تو استحساناً آزاد ہوگا اور اگر حربی نے حاضر ہونے کے ارادہ پر یہ شرط کی ہو کہ مجھے تم امان دو بدین شرط کہ تم مجھ پر اسلام پیش کرو پس اگر میں تین روز تک میں مسلمان ہو گیا تو خیر ورنہ میرے واسطے امان نہ ہوگی پس مسلمانوں نے اس پر اسلام پیش کیا تو اس کو اس وقت سے تین رات دن تک مہلت ہوگی پس اگر مدت گزری اور وہ مسلمان نہ ہوا تو بدون حکم کے وہ فئی ہوگا اور اگر اُس نے اکیلے یہ شرط کی ہو کہ اگر میں تین روز تک مسلمان ہو گیا تو خیر ورنہ میں تمہارا غلام ہوں گا یا تمام اہل قلعہ نے یہی شرط کی تو وہ لوگ جیسے انھوں نے شرط کے ساتھ التزام کیا ہے سب مسلمانوں کے اہل ذمہ ہوں گے اور اگر مسلمان نے کافر سے کہا تو امان یافتہ ہے بریں کہ تو اتر آئے پس تو ایمان لائے تو وہ بعد چلے آنے کے قبل اسلام لانے کے امان یافتہ ہوگا پس اُس کو اس کی حفاظت گاہ میں پہنچا دینا واجب

۱۔ مثلاً کھیتی میں سے نہ کھانے پر معاہدہ ہو پس امان دی کہ نہ کھائیں گے تو یہ امان اس کے کھانے اور اس کے جلائے اور اس کو تباہ کر دینے وغیرہ سب سے امان ہوگی خواہ کھانا ہو یا کھانے کے مثل مضر امر ہو مثلاً نوج ڈالنا یا اس سے بڑھ کر مثلاً آگ لگانا دینا وغیرہ ۱۲۔

ہوگا اگر مسلمان نہ ہو جائے اور اسی طرح اگر کہا کہ تو امان یافتہ ہے بریکہ اتر آئے پس تو ہم کو سودینا ردے پس اُس نے قبول کیا اور چلا آیا پھر اُس نے دینار دینے سے انکار کیا تو بھی اس کا اس کے مامن میں پہنچا دینا واجب ہے اس واسطے کہ اول صورت میں یہ امان معلق بشرط قبول اسلام اور دوم میں معلق بادائے دینار ہے پس جب وہ چلا آیا اور قبول کیا تو وہ امان یافتہ ہوگا اور دینار اُس کے ذمہ ہوں گے پس جب اُس نے دینار دینے سے انکار کیا تو قید خانہ میں رکھا جائے گا تاکہ ان کو ادا کرے مگر وہ فنی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے حق میں امان ثابت ہو گئی ہے پس جب اُس نے کسی وقت دینار ادا کر دیئے تو اُس کی راہ چھوڑ دینی واجب ہوگی تاکہ وہ اپنے مامن میں پہنچ جائے اور یہ دینار اُس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوں گے الا اسلام لانے سے یا ذمی بن جانے سے اور اسی طرح اگر اُس نے صلح کی ہو بدین شرط کہ تم کو ایک راس دیں گے تو اس پر واجب ہوگا کہ اوسط درجہ کا ادا کرے یا اُس کی قیمت ادا کرے اور اگر حربی نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے امان دو بدین شرط کہ میں تمہارے پاس آؤں پس میں نے تم کو سودینا ردوں گا اور اگر تم کو نہ دوں تو میرے واسطے امان نہیں ہے یا یوں کہا کہ اگر میں قلعہ سے اتر کر تمہارے پاس آیا اور میں نے تم کو سودینا ردے دیئے تو میں امان یافتہ ہوں پھر وہ اتر کر چلا آیا اور مسلمانوں نے اس سے دینار طلب کیے پس اُس نے دینے سے انکار کیا تو قیاساً وہ فنی ہوگا مگر استحساناً فنی نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ امام المسلمین کے حضور میں پیش کیا جائے گا پس امام اس کو حکم کرے گا کہ مال ادا کرے پس اگر اُس نے ادا کیا تو خیر (وہ امان یافتہ ہوگا) ورنہ اُن کو فنی قرار دے گا اور اگر محصور لوگوں میں سے کسی شخص نے کہا کہ تم مجھے امان دو حتیٰ کہ میں تمہارے پاس اتر آؤں بدین شرط کہ میں تم کو نفر قیدیوں کی طرف کسی مقام پر رہنمائی کروں گا پس مسلمانوں نے اسی شرط پر اس کو امان دی پھر جب وہ اتر آیا تو اُن کو اس مقام پر لے آیا مگر دیکھا تو وہاں کوئی قیدی نہیں ہے۔ پس اُس نے کہا کہ قیدی یہاں تھے مگر کہیں چلے گئے مگر میں یہ نہیں جانتا ہو کہ کہاں چلے گئے تو یہ شخص اپنے قلعہ میں یا جہاں سے وہ آیا ہے وہیں پہنچا دیا جائے گا اور جو شخص حربی ہمارے قبضہ میں اسیر ہے اگر اُس نے کہا کہ مجھے امان دو بدین شرط کہ میں تمہیں سو راس نفر کی طرف رہنمائی کروں اور باقی مسئلہ بحال خود ہے پھر اُس نے مسلمانوں کی رہنمائی نہ کی تو امام کو اختیار ہوگا کہ اس کو قتل کر دے یعنی وہ امان یافتہ نہ ہو جائے گا اور اگر محصور نے کہا کہ مجھے امان دو کہ میں تمہارے پاس آؤں بدین شرط کہ میں تم کو سو راس نفر قیدیوں کی طرف کسی مقام پر رہنمائی کروں گا بدین شرط کہ اگر میں سو نفر کی طرف رہنمائی نہ کروں تو میں تمہارے واسطے فنی یا رقیق ہوں گا پھر اس نے شرط و فائدہ کی تو وہ مسلمانوں کے واسطے فنی ہوگا مگر مسلمانوں کو اُس کا قتل کرنا روانہ ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ تم مجھے امان دو بدین شرط کہ میں تمہارے پاس آؤں پس تم کو ایسے گاؤں کی رہنمائی کروں جس میں سو راس بردے ہیں اور حال یہ ہے کہ ان کو مسلمان پہلے پا چکے تھے یا اس کی رہنمائی سے پہلے وہ جانتے تھے اگرچہ پائے نہ تھے تو اس کی رہنمائی کچھ نہ ہوگی اور وہ فنی ہوگا اور اگر وہ مسلمانوں کو راہ سے لے گیا اور مسلمان اس راہ چلے پھر قبل وہاں تک پہنچنے کے مسلمان پہچان گئے یا مرد مذکور نے مسلمانوں کو اس جگہ کا پتا بتا دیا اور خود ان کے ساتھ نہ گیا پس مسلمان اس کے پتے پر گئے یہاں تک کہ انہوں نے یہ قیدی پائے تو یہ اس کی رہنمائی میں داخل ہے اور اگر اُس نے کہا کہ مجھے امان دو بدین شرط کہ میں تمہیں ایسے بطریق کی رہنمائی کروں کہ تم اس کے عیال و اولاد تک پہنچ جاؤ اور اگر ایسا نہ کروں تو میرے واسطے امان نہیں ہے پھر جب وہ اتر آیا تو دیکھا کہ مسلمانوں نے بطریق پالیا ہے پس کہا کہ یہی راستہ ہے جس کے بتلاے کا میں نے قصد کیا تھا تو کچھ نہیں ہے اور اگر اُس نے کہا کہ بدین شرط یہ اُن کو اس قلعہ کے بطریق کی رہنمائی کروں اور وہ قلعہ سے

۱۔ محصور وہ جن کو چاروں طرف سے حصار میں اس طرح گھیرا کہ ان کو کسی جانب نکلنے کی راہ نہیں ۱۲۔ ۲۔ واضح رہے کہ قیدیوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ مقید ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ میں رہنمائی کروں گا کہ سو جہازے تمہارے ہاتھ آئیں گے ۱۲۔

رہنمائی کرتا ہوا اتر آیا یہاں آکر دیکھا کہ مسلمان لوگ اس راستہ کو پا گئے تھے تو وہ امن یافتہ ہوگا اور اسی طرح اگر اُس نے کسی قلعہ یا شہر کی یا اس قلعہ یا اس شہر کی رہنمائی کا التزام کر لیا ہو تو ایسی صورت میں یہی حکم ہے یہ محیط سرحدی میں ہے۔

باب : ۴

غنائم اور اس کی تقسیم کے بیان میں

اس میں تین فصلیں ہیں

فصل : ۱

غنائم کے بیان میں

مالِ غنیمت اور مالِ فتنے میں فرق:

واضح ہو کہ غنیمت اس مال کا نام ہے جو کافروں سے قبضہ و غلبہ لیا گیا اور حالیکہ لڑائی قائم ہے اور فتنی اس مال کو کہتے ہیں جو کافروں سے بغیر قتال کے لیا گیا جیسے خراج و جزئیہ وغیرہ اور غنیمت سے پانچواں حصہ لیا جاتا ہے اور فتنی میں سے نہیں لیا جاتا ہے یہ غایۃ البیان میں ہے اور جو مال کافروں سے بطور ہدیہ یا سرقہ^۱ یا اچک لینے یا ہبہ کے حاصل ہوتا ہے وہ غنیمت نہیں ہے بلکہ وہ خاصکر لینے والے کا ہوتا ہے یہ خزانۃ المقتنین میں ہے امام محمد نے فرمایا کہ اگر کافران اہل حرب کے شہروں میں سے کسی شہر کے لوگ مسلمان ہو گئے قبل اس کے کہ مسلمان لوگ اُن پر لڑائی میں غالب آئیں تو وہ سب آزاد مسلمان ہوں گے کہ اُن پر یا ان کی اولاد دو عورتوں پر یا اُن کے اموال پر کوئی راہ نہیں ہے اور اُن کی اراضی پر مثل اراضی اسلام کے عشر مقرر کیا جائے گا نہ خراج یعنی پیداوار میں سے دسواں حصہ لیا جائے گا اور اسی طرح اگر قبل مسلمانوں کے غالب ہونے کے وہ لوگ ذمی ہو گئے تو بھی یہی حکم ہے لیکن اس قدر فرق ہے کہ اس صورت میں اُنکی اراضی پر خراج مقرر کیا جائے گا اور نیز ان پر ہر نفر پر جزئیہ موافق قاعدہ کے مقرر کیا جائے گا اور اگر مسلمان ان پر غالب ہو گئے اور بعد مسلمانوں کے غالب ہو جانے کے وہ اسلام لائے تو امام المسلمین کو ان کے حق میں اختیار ہے چاہے اُن کو اور ان کے مالوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے اور اس صورت میں پہلے پانچواں حصہ ان میں سے نکال لے گا اور وہ واسطے یتیموں اور مسکینوں اور ابناء السبیل^۲ وغیرہ کے رکھے گا اور چارو پانچویں حصے ان مجاہدین میں تقسیم کر دے گا جیسے مالِ غنیمت تقسیم ہوا ہے اور اس اراضی^۳ پر عشر مقرر کرے گا اور اگر چاہے ان پر احسان کرے کہ ان کی گردنیں اور بال بچے اور اموال سب ان کو واپس کر دے اور ان کی اراضی پر عشر مقرر کرے اور اگر چاہے خراج مقرر کرے اور اگر ان لوگوں پر مسلمان غالب آئے پس وہ مسلمان نہ ہوئے تو امام کو اختیار ہے چاہے ان کو رقیق بنا دے پس ان کو ان کے اموال کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے پس اگر اُس نے تقسیم کا قصد کیا تو اس کل غنیمت میں سے پانچواں حصہ نکال کر جہاں اس کو رکھنا و صرف کرنا چاہیے رکھے گا اور باقی کو ان مجاہدوں کے درمیان تقسیم کر دے گا اور اس اراضی پر عشر مقرر کرے گا اور چاہے ان میں سے مردوں کو قتل کر کے عورتوں و بچوں و

۱ واضح ہو کہ وہ واقع یہ سرقہ نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جیسے سرقہ سے حاصل ہوتا ہے اس طریقہ سے یا جیسے اچک لے بھاگنے سے حاصل ہوتا ہے اس طریقے سے حاصل کیا گیا ہے اور وہ درحالت قیام حرب کے مثل مالِ غنیمت کے حلال ہے ۱۲۔ ۲ وہ لوگ جو اپنے دیس سے ذور ہوں ۱۲۔ ۳ اس واسطے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں ۱۲۔

مالوں کو جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تقسیم کر دے اور چاہے ان کی جانوں و ان کے بال بچوں کے ساتھ احسان کر لے پس ان کو اور ان کے مالوں کو انہیں کے سپرد کر دے اور موافق دستور شرعی ان پر جزیہ مقرر کرے اور ان کی اراضی پر خراج باندھے کذا فی المحیط خواہ اس زمین کا پانی عشری ہو جیسے بارش کا پانی و چشموں و تالابوں و کنوؤں کا اور چاہے خراجی ہو جیسے ان نہروں کا پانی جن کو اہل عجم نے کندہ کیا ہے یہ غایۃ البیان میں ہے اور اگر کفار اہل حرب پر جو مغلوب ہوئے ہیں اس طرح احسان کیا کہ ان کی جانیں اور اراضی ان کو سپرد کر دی اور عورتیں و بچے و باقی اموال مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیے تو یہ جائز مگر مکروہ ہے الا اُس صورت میں کہ اُن کے پاس اتنا مال چھوڑ دیا ہو جس سے زراعت کر سکیں اسی طرح اگر یوں احسان کیا کہ ان کی جانیں و اراضی و عورتیں و بچے ان کے سپرد کیے اور باقی تمام اموال مجاہدین میں تقسیم کر دیئے تو یہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے الا آنکھ اُنکے قبضہ میں اس قدر مال بھی چھوڑ دیا جس سے وہ زراعت کر سکتے ہیں تو بغیر کراہت جائز ہے اور اگر فقط ان حربیوں کی جانیں ان کو بخش دیں اور باقی اراضی مع سب اموال دیگر کے غنمیں کے درمیان تقسیم کر دیں تو یہ جائز نہیں ہے اور اسی طرح اگر اُن لوگوں کی اراضی نہ ہو اور امام نے چاہا کہ ان پر ان کو بخش دینے کے ساتھ احسان کرے تو نہیں جائز ہے یہ محیط میں ہے اور چاہے ان سب کو تقسیم کر دے فقط اراضی رہنے دے اور اراضی کو بمنزلہ مجاہدین پر وقف کی ہوئی کے رکھے اور اگر چاہے اراضی میں اہل ذمہ میں سے دیگر اقوام کو لاکر بسائے اور اس کو خراجی قرار دے خواہ خراج مقاسمہ مقرر کرے یا خراج مقاطعہ اور یہ سب خراج انہیں مجاہدین کو حاصل ہوگا یہ شرح طحاوی سے تا تاریخانیہ میں نقل ہے۔

جو لوگ اسیر ہوں ان کے حق میں امام کو اختیار ہوتا ہے چاہے ان کو قتل کر دے اور چاہے رقیق بنا دے:

اگر کسی اہل ذمہ نے اپنا عہد توڑ کر غدر کیا اور اپنی اراضی پر غالب ہو گئے یا مسلمانوں کے ملکوں سے کسی شہر وغیرہ پر قابض ہوئے اور یہ دار بالاتفاق دار الحرب ہو گیا پھر مسلمانوں نے ان کو مغلوب کیا اور امام المسلمین کو اُن لوگوں کے حق میں اختیار حاصل ہوا تو امام چاہے ان پر احسان کرے کہ ان کی جانیں اور اموال و بال و بچے و اراضی کو تسلیم کر دے اور ان کی اراضی پر خراج مقرر کر دے اور چاہے عشر مقرر کرے اور یہ نام کے واسطے عشر ہے درحقیقت یہ خراج ہی ہے اور اسی وجہ سے ایسا عشر مصارف خراج کی جگہ صرف ہوتا ہے اور چاہے دو چند عشر مقرر کرے جیسے حضرت امام عادل عمرؓ نے بنی تغلب کے اوپر مقرر کیا تھا اور اگر امام نے ان میں سے مردوں کو قتل اور عورتوں و بچوں کو تقسیم کر دیا اور اراضی بالامالکان رہے گی پس اس میں کوئی قوم مسلمان لاکر بسائی کہ وہ مسلمانان غنمیں (صاحبان غنیمت) کی مددگاری کریں اور یہ اراضی اُن کے واسطے کر دی تاکہ اس سے مؤنث (مددگاری) ادا کریں تو جائز ہے لیکن یہ فعل برضامندی انہیں لوگوں کے کرے گا کہ جن کو اس اراضی میں منتقل کر کے لانا چاہتا ہے اور جب اس اراضی میں کسی قوم مسلمان کو منتقل کر کے لایا اور یہ اراضی ان کی مملوکہ ہو گئی تو چاہے اس اراضی پر عشر مقرر کرے اور چاہے خراج مقرر کرے اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی قوم مرتد ہو گئی اور وہ اپنے دیار پر یا مسلمانوں کے دیار میں سے کسی دار پر غالب ہوئی اور یہ دار بالاتفاق دار الحرب ہو گیا پھر مسلمان لوگ ان پر غالب ہوئے تو ان کے مردان سے سوائے تلوار یا اسلام کے کچھ قبول نہ کیا جائے گا چنانچہ اگر انہوں نے اسلام سے انکار کیا تو وہ قتل کر دیئے جائیں گے اور ان کی عورتیں و بچے غنمیں میں تقسیم کر دیئے جائیں گے اور ان پر اسلام لانے کے واسطے جبر کیا جائے گا اور ان کی اراضی و اموال بھی درمیان غنمیں تقسیم کر دیئے جائیں گے اور اس اراضی پر عشر مقرر کیا جائے گا اور اگر امام المسلمین کی رائے میں یہ بہتر معلوم ہوا کہ مرد سب قتل کر دیئے جائیں اور عورتیں و بچے ان مجاہدوں کے درمیان تقسیم کر دی اور اراضی تقسیم نہ کی جائے اور اُس نے یہ امر مسلمانوں کے حق میں بہتر دیکھا تو ایسا کر سکتا ہے پھر اس کے بعد اگر

اُس کی رائے میں بہتر معلوم ہو کہ اس زمین میں کوئی ذمی قوم لا کر بسائے کہ وہ اپنی ذات اور اس اراضی کا خراج ادا کیا کریں، تو ایسا کر سکتا ہے پھر جب اُس نے ایسا کر دیا تو یہ اراضی ان ذمیوں کی ملک ہو جائے گی کہ ان کی ذریات (عیال و اطفال و ان کی اولاد) نسلاً بعد نسل اُن کے وارث ہوں گے اور اس کی اراضی کا خراج ادا کرتے رہیں گے پس جاننا چاہیے کہ اس مقام پر ذمیوں کا منتقل کر کے لانا ذکر فرمایا یا بخلاف مسئلہ یا تقدم کے اس وجہ سے کہ ذمیوں کو مرتدوں کے قتل کیے جانے سے کچھ غیظ و غضب لاحق نہ ہوگا اور ما تقدم میں ایسا نہیں ہے اور اگر امام المسلمین کے غالب ہو جانے کے بعد مرتد لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ آزاد ہوں گے ان پر کوئی راہ نہ ہوگی لیکن ان کی عورتیں و بچے و اموال کے حق میں امام کو اختیار ہے چاہے ان کو غنائم کے درمیان تقسیم کر دے اور اراضی پر عشر مقرر کرے اور چاہے انہیں مرتدین مسلمان شدہ کو ان کی عورتیں و بچے و اراضی بطور احسان دے دے اور اراضی پر چاہے عشر مقرر کرے اور چاہے خراج باندھے اور اگر امام نے چاہا کہ ان کی جو اراضی عشری تھی اُس کو عشری رہنے دے اور جو خراجی تھی اُس کو خراجی اپنے حال سابق پر رکھے تو اُس کو یہ بھی اختیار ہے اور اگر ایسے ذمیوں پر جنہوں نے اپنا عہد توڑ دیا تھا یا اہل حرب پر امام غالب آیا اور امام نے چاہا کہ ان کو ذمی بنا دے کہ خراج ادا کیا کریں اور حال یہ ہے کہ قبل ان پر غالب ہونے کے لڑائی کی حالت میں اُن کا مال حاصل ہوا ہے تو یہ مال اُن لوگوں کو واپس نہ کیا جائے گا الا بسبب عذر کے اور عذر فقط یہ ہے کہ یہ لوگ تعمیر (آباد کرنا) اراضی و اُس کی زراعت پر بدون اس مال کے قادر نہ ہوں اور رہا وہ مال جو ان لوگوں کے قبضہ میں موجود رہا ہے پس اگر عمارت اراضی و اُس کی زراعت کے واسطے اس مال کی طرف محتاج ہوں تو امام اُس کو ان سے نہ لے گا اور اگر اس کے محتاج نہ ہوں تو امام کو اختیار ہے چاہے اس کو ان سے لے کر غنائم کے درمیان تقسیم کر دے اور چاہے نہ لے مگر اولیٰ یہ ہے کہ یہ مال انہیں کے قبضہ میں چھوڑ دے بغرض ان کی تالیف قلوب (خاطر داری و دل جوئی) کے تاکہ اسلام کی بھلائیوں پر واقف ہو کر مسلمان ہو جائیں اور اسی طرح ان پر غالب آنے سے پہلے ان کی عورتیں یا بچوں میں سے جو کوئی گرفتار کر لیا ہو وہ بھی واپس نہ کیا جائے گا اور بعد ان پر غالب آنے کے جو ان کے پاس ہیں اُن میں سے کوئی ان سے نہ لے گا اور جب امام نے بلاد اہل حرب سے کوئی بلد فتح کر لیا اور اس بلد کو اور اُس کے لوگوں کو مجاہدین فتح کرنے والوں کے درمیان تقسیم کر دیا پھر چاہا کہ ان لوگوں پر ان کی گردنوں و اراضی کے ساتھ احسان کرے یعنی ان کی جائیں ان کے سپرد کرے کہ ذمی رہیں اور ان کی اراضی ان کے ملک میں دے دے بادائے خراج تو امام کو یہ اختیار نہیں ہے اور اسی طرح اگر ان پر اس طرح احسان کر دیا پھر چاہا کہ تقسیم کرے تو یہ اختیار نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور جو لوگ اسیر ہوں ان کے حق میں امام کو اختیار ہوتا ہے چاہے ان کو قتل کر دے اور چاہے رقیق بنا دے سوائے ایسے اسیروں کے جو مشرکان عرب سے یا مرتد ان اسلام سے ہوں کہ اُن سے سوائے اسلام یا تلوار کے اور کچھ قبول نہیں کیا جائے گا اور چاہے ان کو مسلمانوں کا ذمی بنا کر آزاد چھوڑ دے مگر سوائے مشرکان عرب و مرتد ان اسلام کے کہ یہ لوگ ذمی بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور جو شخص ان اسروں میں سے مسلمان ہو گیا اُس کے حق میں اور کوئی اختیار نہیں ہے سوائے استرقاق کے کہ اس کو رقیق قرار دے سکتا ہے یہ تبیین میں ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ ان کو دارا ل حرب میں واپس کر دے۔

مفادات کرنے میں اہل لشکر کی رضا مندی شرط ہے:

واضح ہو کہ اگر مسلمانوں میں سے اہل حرب کے ہاتھ میں اسیر ہوں تو اہل حرب کے اسیروں سے مفادات کر لینا یعنی ان اسیروں کو اہل حرب کو دے کر اپنے اسروں کو اُن سے لے لینا امام اعظم کے نزدیک نہیں جائز ہے کذا فی الکافی و المتون لیکن اس میں اختلاف ہے بنا بریں زاد میں مذکور ہے کہ صحیح قول امام اعظم کا ہے اتھی اور امام محمد نے سیر کبیر میں فرمایا کہ کافروں کی

قیدی عورتیں یا مرد مسلمانوں کے قبضہ میں ہیں دے کر مسلمان قیدی سے جو کافروں کے بچے میں ہیں مفادات کر لینے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور یہ امام ابو یوسفؒ و امام محمدؒ کا قول ہے اور امام اعظمؒ سے اس مسئلہ میں دو روایتیں ہیں ان میں سے اظہر روایت یہی ہے کذا فی محیط اور یہی عامہ مشائخ کا قول ہے یہ نہر الفائق میں ہے۔ پھر واضح ہو کہ مفادات کرنے میں اہل لشکر کی رضا مندی شرط ہے اس واسطے کہ اس میں مال عین سے ان کے حق کا ابطال ہے اور اگر ماسوائے مردوں کے اس مفادات سے اہل لشکر نے انکار کیا تو امیر لشکر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ دیگر مفادات کرے اور رہے رجال یعنی قیدی مرداں کفار پس اگر ہنوز تقسیم واقع نہ ہوئی ہو تو امیر کو اختیار ہے کہ ان مردوں کو دے کر مسلمان قیدیوں کو چھڑا لے اور اگر تقسیم واقع ہو چکی ہو تو امام کو یہ اختیار نہیں ہے الا برضا مندی لشکر۔ اگر بادشاہ کفار کا ایلچی آیا کہ وہ کسی مقام پر اسیروں سے مفادات کرنا چاہتا ہے اور انہوں نے مسلمانوں سے عہد لیا کہ تم ہم کو امان دو ان قیدیوں کے لانے پر یہاں تک کہ فدیہ کر لینے سے فارغ ہوں اور اگر فدیہ کر لینے پر اتفاق نہ ہو تو ہم ان مسلمان قیدیوں سمیت جو ہمارے ساتھ ہیں واپس آئیں تو مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنا عہد وفا کریں اور جیسے ان سے مفادات کی شرط کی ہو مفادات کریں خواہ مفادات میں مال دینا شرط کیا ہو یا اور قیدی وغیرہ لیکن اگر مفادات پر باہم رضا مندی نہ ٹھہری اور کافروں نے مسلمان قیدیوں کو لے کر واپس جانا چاہا حالانکہ مسلمانوں کو ان پر قوت حاصل ہے تو مسلمانوں کو رو نہیں ہے کہ ان کافروں کو چھوڑ دیں کہ وہ مسلمان قیدیوں کو اپنے ملک میں واپس لیں جائیں اور ان پر لازم ہے کہ معاہدہ کی اس شرط کا وفا ترک کریں اور قیدیوں کو ان کے ہاتھوں سے چھڑائیں مگر سوائے اس چھڑا لینے کے اور کسی چیز کا ان سے تعرض نہ کریں یہ محیط میں ہے۔

کافروں سے اس طرح مال کے عوض مفادات کرنا کہ کافروں سے مال لے کر ان کے قیدی رہا کریں تو یہ امر مذہب مشہورہ میں سے کسی مذہب کے موافق نہیں جائز ہے۔ اگر کافروں کا قیدی جو ہمارے پاس ہے مسلمان ہو گیا تو رو نہیں ہے کہ جو مسلمان ان کی قید میں ہیں ان کے عوض اس سے مفادات کر لے جائے الا اُس صورت میں کہ اس کا دل اس امر سے خوش ہو اور یہ اپنے اسلام پر مامون ہو۔ اسیروں پر احسان کرنا یعنی ان کو مفت چھوڑ دینا رو نہیں ہے یہ کافی میں ہے۔ امام محمدؒ نے فرمایا کہ جب مشرکوں کے لڑکے اسیر کئے گئے اور ان کے ساتھ ان کی مائیں اور باپ بھی اسیر ہیں تو ان اطفال سے مفادات کر لینے میں مضائقہ نہیں ہے اور اگر اکیلا طفل اسیر کر کے دارالاسلام میں نکال لایا گیا تو بعد اس کے اس کے ساتھ مفادات کر لینا نہیں جائز ہے اور اسی طرح اگر دارالحرب میں غنیمت تقسیم کر دی گئی کہ طفل کسی مسلمان غازی کے حصہ میں آیا یا اموال غنیمت فروخت کر دیئے گئے یعنی کسی مسلمان نے یہ مال غنیمت خرید لیا تو بھی اس سے مفادات نہیں روا ہے کہ یہ طفل اس شخص کی تبعیت میں جس کے ملک میں بوجہ تقسیم کے یا خرید کے آیا ہے محکوم (اس پر مسلمان ہونے کا حکم بالتبع ہو گیا) باسلام ہو گیا ہے یہ محیط میں ہے۔ امام محمدؒ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں نے گھوڑے و ہتھیار کفار سے لئے پھر کافروں نے ان کے عوض مفادات کی درخواست کی بایں طور کہ مال لے کر یہ چیزیں ہم کو دے دی جائیں تو ایسا کرنا نہیں جائز ہے اور اگر انہوں نے درخواست کی کہ ہمارا قیدی ہم کو دے دو اور اس کی مفادات میں یہ مرد مشرک لے لو یا دو مشرک لے لو تو مسلمانوں کو ایسا کرنا نہیں جائز ہے۔ جو مسلمان دارالحرب میں اسیر ہوں ان کی مفادات کر لینا بعض اوقات درہم یا دیناروں کے یا ایسی چیزوں کے جن سے امر جنگ میں تقویت نہیں لے جاتی ہے جیسے کپڑے وغیرہ سے جائز ہے مگر ہتھیار یا گھوڑے دے کر چھڑانا نہیں جائز ہے یہ سراج و ہاج میں ہے امام محمدؒ نے سیر کبیر میں فرمایا کہ اگر آزاد مسلمان یا ذمی آدمی نے جو حربی کافروں کے بچے میں درالحرب میں قید ہے کسی مسلمان یا ذمی سے جو امان لے کر دارالحرب میں گیا ہے کہا کہ مجھے فدیہ دے کر ان

سے چھڑالے یا مجھے ان سے خرید لے پس اس نے ایسا ہی کیا اور اس کو دارالاسلام میں نکال لایا تو وہ یہاں آزاد ہوگا اس پر ملک کی کوئی راہ نہیں ہے لیکن جس قدر مال اس قیدی کے فدیہ میں اس نے دیا ہے وہ اس اسیر ہا شدہ کے ذمہ قرضہ ہوگا پس تمام جو کچھ اس نے فدیہ میں دیا ہے اس سے واپس لے گا بشرطیکہ مقدار دیت سے زائد نہ ہو اور اگر اس نے مقدار دیت سے زائد مال اس کے فدیہ میں دیا ہے تو اس پر ہا شدہ سے فقط بقدر دیت کے واپس لے سکتا ہے اور جو کچھ اس سے زیادہ ہے وہ نہیں لے سکتا ہے۔ قال المترجم یعنی جب اسیر مسلمان یا ذمی نے اپنے خرید لینے کا حکم دیا تو یہ حقیقت میں خرید نہیں بلکہ تقد یہ ہے پس ملک نہ ہوگی جو کچھ فدیہ دیا ہے واپس لے گا مگر جو مقدار دیت یعنی دس ہزار درہم سے زائد ہو وہ نہیں لے سکتا کیونکہ خرید کا حکم ہے پس زائد دیت سے نہیں (نہن فاحش جینی کھلا ہوا اتھمان جس کو عام طور پر لوگ جان سکتے ہیں) فاحش ناجائز ہوگا بخلاف حکم تقد یہ کے فافہم۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ بقیاس قول امام اعظم چاہئے کہ جس قدر اس نے اس کے فدیہ میں دیا ہے سب واپس لے لے خواہ مقدار دیت سے کم ہو یا زیادہ ہوا صحیح یہ ہے کہ امام اعظم اور امام ابو یوسف و امام محمد سب کے نزدیک وہی حکم ہے جو مذکور ہوا ہے اور علی ہذا اگر اسیر مذکور نے اس سے کہا ہو کہ ہزار درہم فدیہ دے کر مجھے ان سے چھڑالے اور مامور کو اتنے کے عوض چھڑالینا ممکن نہ ہو حتیٰ کہ اس نے زیادہ دے کر چھڑالیا تو مامور مذکور اس سے فقط ہزار درہم واپس لے سکتا ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر غلام ماذون نے کسی کو حکم کیا کہ مجھے فدیہ کرادے تو یہ اس ماذون کے مولیٰ پر جائز ہوگا:

اگر اسیر نے مامور سے یعنی جس سے اپنے چھڑانے کے واسطے کہا ہے یوں کہا کہ مجھے ان لوگوں سے فدیہ کرا لے بعض اس چیز کے جو تیری رائے میں آئے یا جس کے عوض تو چاہے یا یوں کہا کہ مجھے تو ان سے فدیہ کرا لے اور میرے فدیہ کرا لینے میں جو تو کرے گا جائز ہوگا تو اس صورت میں جو کچھ وہ اس کے فدیہ میں دے خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو سب واپس لے گا اور اگر یہ قیدی غلام ہو یا باندی ہو اور اس نے کسی مسلمان یا ذمی متامن سے کہا کہ مجھے ان سے خرید لے یا فدیہ کرا لے پس اس نے اس کی قیمت کے مثل یا کم یا زیادہ پر ایسا کر لیا تو یہ جائز ہے اور وہ اس مشتری کا غلام ہوگا۔ اگر غلام نے کہا کہ مجھے میرے واسطے خرید دے پس اگر اس کو اس کے مثل قیمت یا بغیں سیر خرید دیا اور ان کو خبر دی کہ میں اس کو اس کی ذات کے واسطے خریدتا ہوں تو یہ غلام آزاد ہوگا کہ اس پر ملک کی کوئی راہ نہ ہوگی پھر مامور کو اختیار ہوگا کہ جو کچھ اس نے اس غلام کو فدیہ میں دیا ہے اس سے واپس لے یہ محیط میں ہے۔ اگر مکاتب نے کسی شخص کو حکم دیا کہ مجھے فدیہ کرادے پس اس نے فدیہ کرادیا تو جس قدر اس نے فدیہ میں دیا ہے مکاتب سے واپس لے گا اور اگر مکاتب مذکور ادائے کتابت سے عاجز (جو مال کہ بدل کتابت مقرر ہوا تھا اس کو ادا نہ کر سکا) ہو گیا تو مال مذکور اس کی گردن پر قرضہ ہوگا یعنی اس کے عوض وہ مولیٰ کے پاس سے فروخت کر لیا جاسکتا ہے۔ اگر مکاتب نے اس کو حکم دیا کہ مجھے پانچ ہزار درہم کے عوض فدیہ کرادے حالانکہ اس کی قیمت ہزار درہم ہے تو امام اعظم کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے قول کے موافق نہیں جائز ہے الا بقدر ہزار درہم کے لیکن یہ اس وقت تک ہے کہ وہ آزاد نہیں ہوا ہے۔ اگر غلام ماذون نے کسی کو حکم کیا کہ مجھے فدیہ کرادے تو یہ اس ماذون کے مولیٰ پر جائز ہوگا یعنی اگر اس نے فدیہ کرادیا تو جو مال دیا ہے وہ اس ماذون کے مولیٰ سے نہیں لے سکتا ہے اور نہ اس ماذون کے رقبہ سے وصول پاسکتا ہے جب تک وہ مملوک ہے ہاں جب آزاد ہو جائے تو یہ مال اس پر ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر کسی اجنبی نے دوسرے کو حکم کیا کہ جو دارالحرب میں اسیر ہے اس کو خرید لے پس اگر مامور سے یوں کہا کہ اس کو میرے واسطے خرید لے یا کہا کہ اس کو میرے مال سے خرید لے تو مامور اس مال کو جس کے عوض خرید لے اس حکم دینے والے سے لے گا اور اگر اس نے یہ لفظ کہ میرے

واسطے یا میرے مال سے نہ کہا ہو تو وہ اس حکم دینے والے سے واپس نہیں لے سکتا ہے الا اس صورت میں کہ اس کا خلیط (شریک یا خلیط) ہو یہ ظہیر یہ میں ہے۔

فتاویٰ میں مذکور ہے کہ اگر قیدی نے کسی شخص کو وکیل کیا کہ مجھے فدیہ کرادے پھر وکیل نے کسی دوسرے سے کہا کہ اس کو میرے واسطے خرید دے تو جائز ہے اور اسی طرح اگر وکیل نے اس سے کہا کہ اس کو میرے واسطے میرے مال سے خرید دے تو بھی جائز ہے اور وکیل کو اختیار ہوگا کہ اس اسیر مؤکل سے یہ مال واپس لے اور اگر وکیل نے دوسرے وکیل سے یوں کہا کہ اس کو خرید اور یہ نہ کہا کہ میرے واسطے یا میرے مال سے پھر دوسرے وکیل نے خرید تو وہ متطوع یعنی احسان کنندہ ہو جائے گا حتیٰ کہ وکیل دوئم کسی سے یہ مال نہیں لے سکتا ہے اور وکیل اول بھی اپنے مؤکل سے کچھ نہیں لے سکتا ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر ایک گروہ مسلمانوں نے اپنے چندہ سے مال جمع کیا اور ایک شخص کو دیا کہ وہ دارالحرب میں جا کر حربیوں سے مسلمان قیدیوں کو خریدے تو یہ شخص اس ملک کے تاجروں سے دریافت کرے گا پس جس کی نسبت اس کو خبر دی جائے کہ یہ آزاد ہے اور ان لوگوں کے پنجہ میں اسیر ہے تو شخص مذکور اس کو خرید لے گا مگر اسی قدر قیمت دے گا کہ اگر یہ واقع میں غلام ہوتا تو اس مقام پر اس کی کیا قیمت ہوتی پس اسی قدر قیمت سے تجاوز نہ کرے گا یعنی بعوض اس کی مثل قیمت کے یا خیف زیادتی کے ساتھ خرید سکتا ہے اور اگر شخص مامور نے کسی اسیر کو خریدنا چاہا پس اسیر نے اس سے کہا کہ میرے واسطے مجھے خرید لے پس مامور نے اسی مال سے جو اس کو دیا گیا ہے خرید دیا تو مامور اس مال کا ضامن ہوگا اور اسیر مذکور سے جس کو خرید دیا ہے یہ مال واپس لے گا اور اگر شخص مامور مذکور نے اس اسیر سے جس نے اس سے وقت ارادہ خرید کے یہ کہا تھا کہ مجھے میرے واسطے خرید لے یوں کہا کہ میں تجھے بعوض اس مال کے جو مجھے دیا گیا ہے بغرض حصول ثواب خریدوں گا پھر اس کو خرید اتو مالکان مالک کے واسطے خریدنے والا ہوگا یہ تاتار خانہ میں ہے۔ اگر زید نے عمرو کو حکم کیا کہ دارالحرب میں سے ایک اسیر پر معین آزاد یعنی مثلاً خالد کو بعوض مال مسمیٰ کے یعنی مثلاً بعوض ہزار درہم کے خریدے پس عمرو نے خالد کو خرید اتو خالد پر عمرو کے واسطے اس مال سے کچھ واجب نہ ہوگا۔ ہاں عمرو کو یہ اختیار ہوگا کہ زید سے یہ مال واپس لے بشرطیکہ زید نے اس کے واسطے اس مال کی ضمانت کر لی ہو یا یہ کہا ہو کہ اس کو میرے واسطے خرید دے۔ اگر زید نے عمرو سے کہا ہو کہ تو خالد کو خالد کی ذات کے واسطے خرید اور اس کے ثواب کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھ تو عمرو زید سے کچھ نہیں لے سکتا ہے یہ محیط میں ہے۔

دارالحرب سے واپسی ہو تو کفار کے ظروف و اثاث میں سے ہر چیز کو اس طرح توڑے کہ بعد شکستہ ہونے کے وہ نفع کے لائق نہ رہیں:

ایک شخص دارالحرب میں داخل ہوا اور اس کے پاس اس قدر مال ہے کہ اس سے فقط ایک قیدی خرید سکتا ہے تو عالم اسیر کے خریدنے سے جاہل قیدی کا خریدنا افضل ہے یہ سرامیہ میں ہے۔ جب امام المسلمین نے دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف عود کرنا چاہا اور حال یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کثرت سے مویشی ہیں کہ ان کو دارالاسلام میں لانے پر قدرت نہیں ہے تو یہ نہ کرے کہ ان کی کوچیں کاٹ کر وہاں چھوڑے بلکہ ان کو ذبح کر کے جلادے اور ہتھیاروں کو بھی جلادے اور جو ہتھیار ایسے ہوں کہ سوختہ نہ ہو سکیں مثلاً لوہے کے ہیں تو ان کو ایسی جگہ دفن کر دے جہاں کفار واقف نہ ہوں یہ کافی میں ہے۔ کفار کے ظروف و اثاث میں سے ہر چیز کو اس طرح توڑے کہ بعد شکستہ ہونے کے وہ نفع کے لائق نہ رہیں اور روغنوں اور تمام سیال چیزوں کو اس طرح بہائے کہ پھر اہل

کفر اس سے انتفاع حاصل نہ کر سکیں اور یہ سب امور اس واسطے کرے کہ اہل کفر گھٹ کر جلیں اور رہے قیدی پس جب ایسے ہوں کہ ان کو دارالاسلام میں منتقل کر لانا معذرت ہو تو ان میں سے مردوں کو قتل کر دے اگر وہ اسلام نہ لائیں اور عورتوں و بچوں کو اور بوڑھوں کو ایسی زمین میں چھوڑ دے کہ وہاں بھوک و پیاس سے مرجائیں۔ اس واسطے کہ ان کا قتل کرنا تو معذرت ہے کیونکہ ممانعت ہے اور ان کا باقی رکھنا غیر موجب ہے اور اسی واسطے جب مسلمان لوگ دارالحرب میں سانپ یا بچھو پائیں تو یہ کریں گے کہ بچھو کی دم کاٹ دیں گے اور سانپ کے دانت توڑ دیں گے اور ان کو بالکل قتل نہ کریں گے تاکہ جب تک مسلمان وہاں ہیں تب تک مسلمانوں سے انکار ضرر و نفع ہو اور پیچھے ان کی نسل باقی رہے تاکہ موجب ایذا کے کفار ہو یہ سراج و ہاج میں ہے۔ واضح ہو کہ اصل یہ ہے کہ جب تک غنائم دارالاسلام میں نہ آجائیں کہ جس سے محرز ہو جاتے ہیں تب تک وہ مملوک نہیں ہو جاتے ہیں کذا فی محیط السرخسی اور اس اصل پر چند مسائل مبنی ہیں از انجملہ یہ ہے کہ اگر مجاہدین غانمین سے کسی شخص نے غنیمت کی باندیوں میں سے کسی باندی سے وطی کی پس اس کے بچہ پیدا ہوا اور وطی کرنے والے نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب ثابت نہ ہوگا اور عقراً واجب ہوگا اور یہ باندی اور بچہ اور یہ عقراً سب غانمین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا اور از انجملہ یہ ہے کہ اگر مال غنیمت امام نے دارالحرب میں تقسیم کر دیا پھر کوئی مجاہد جس کو غنیمت کا حصہ ملا ہے دارالحرب ہی میں مر گیا قبل اس کے کہ اس کا حصہ غنیمت دارالاسلام میں آجائے تو اس مال کی اس کے ورثہ میراث نہ پائیں گے۔ از انجملہ یہ ہے کہ اگر غنیمت میں سے کوئی چیز کسی غازی نے تلف کر دی تو ہمارے نزدیک وہ ضامن نہ ہوگا۔ اور از انجملہ یہ ہے کہ اگر امام نے بدوں اپنے اجتہاد کے اور بدوں حاجت غازیوں کے مال غنیمت تقسیم کر دیا تو ہمارے نزدیک نہیں صحیح ہے یہ نہیں میں ہے۔

یہ حکم اس وقت ہے کہ متصل بدارالاسلام نہ ہو اور جس صورت میں کہ متصل بدارالاسلام ہو اور امام نے اس کو فتح کر لیا اور اس پر احکام اسلام جاری کئے تو تقسیم کرنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ یہ شرح طحاوی میں ہے اور اگر امام نے غنیمت کو دارالحرب میں اپنے اجتہاد سے یا بسبب حاجت غازیوں کے تقسیم کر دیا تو قسمت صحیح ہے اور دارالاسلام میں غنیمت نکال لائے جانے کے بعد جو غازی مرا ہے اس کا حصہ اس کے وارثوں کے واسطے میراث ہوگا یہ ہدایہ میں ہے۔ جو مدد مسلمانوں کی دارالحرب میں جاتی ہے یہ لشکر مدد بھی اس غنیمت میں ان کا شریک ہوگا اور ان کی شرکت جب ہی منقطع ہوگی کہ جب یہ غنیمت دارالاسلام میں محرز ہو چکی ہو یا دارالحرب میں تقسیم ہو گئی ہو یا امام نے غنیمت کو فروخت کر دیا ہو۔ اگر لشکر نے دارالحرب میں سے کوئی شہر فتح کیا اور ان پر غالب ہو گئے پھر ان لوگوں سے مددی لشکر جا ملا تو مدد والے ان لوگوں کے ساتھ غنیمت میں شریک ہوں گے اس واسطے کہ یہ شہر بلاد اسلام میں سے ہو گیا۔ بازاری آدمیوں کے واسطے ہم نہیں ہوتا ہے الا اس صورت کہ وہ قتال کریں پس اگر وہ قتال کریں تو ان کو حصہ غنیمت ملے گا اور سوار و پیادہ کی حالت اس وقت کی معتبر ہے جس وقت اس نے قتال کیا ہے یعنی اگر سواری کی حالت میں قتال کیا ہے تو اس کو حصہ سوار ملے گا اور اگر پیادہ قتال کیا ہے تو حصہ پیادہ ملے گا یہ اختیار شرح مختار میں ہے اور اسی طرح جو شخص دارالحرب میں مسلمان ہوا تھا اور لشکر اسلام داخل ہونے پر وہ لشکر میں آ گیا اور جو مرتد ہو کر دارالحرب میں چلا گیا تھا تو بہ کر کے لشکر میں آ گیا اور جو

۱۔ وہ مال جو نکاح غیر صحیح کی وطی اور وطی شبہ سے مرد پر لازم ہوتا ہے ۱۲۔ ۲۔ اصل یوں ہے کہ اگر کوئی خانم قبل اس کے غنیمت دارالاسلام میں آ کر محرز ہو جائے مر گیا تو اس کے وارث اس کے حصے غنیمت کے وارث نہ ہوں گے ۱۲۔ ۳۔ امام عالم کامل ہے اس کے اجتہاد میں یہ ٹھیک معلوم ہوا کہ غنیمت بدوں اور دارالاسلام کے ملک میں ہو جاتی ہے پس اس نے تقسیم کر دی تو یہ روا ہے ۱۲۔ ۴۔ لشکر اسلام میں بازاری جو ہمیشہ ساتھ رہن اور ہم جیسے سوار و پیادہ کے واسطے ایک ہم و دو مہام مقرر ہیں ۱۲۔

امان لے کر دار الحرب میں تجارت کے واسطے گیا تھا اور لشکر اسلام میں ملحق ہو گیا تو ان کا بھی وہی حکم ہے کہ اگر انہوں نے شامل ہو کر قتال کیا تو مستحق حصہ غنیمت ہوں گے ورنہ ان کو کچھ نہ ملے گا یہ فتح القدر میں ہے۔ واضح رہے رد^۱ اور مقاتل دونوں یکساں ہیں یہ ہدایہ میں ہے۔

اگر امام کو ضرورت ہوئی کہ غنیمت بار کر کے دارالاسلام میں منتقل کیا جائے اور مال غنیمت میں جانوران بار برداری ہیں تو امام اس مال غنیمت کو ان پر لاد کر دارالاسلام میں منتقل کرائے گا:

اگر لشکر اسلام کے ساتھ اجیر ہوں یعنی مسلمان مزدور ہوں کہ ان کو کسی نے خدمت کے واسطے مزدور کر لیا ہو تو امام محمدؐ نے فرمایا کہ اگر اس نے خدمت ترک کر کے کفار سے قتال کیا تو وہ مستحق سہم ہو اور اگر اس نے خدمت ترک نہیں کی ہے تو اس کے واسطے کوئی استحقاق نہیں ہے دراصل یہ ہے کہ جو شخص قتال کے واسطے داخل ہو وہ مستحق سہم ہے خواہ اس نے قتال کیا ہو یا نہ کیا ہو اور جو شخص غیر قتال کے واسطے داخل ہو وہ مستحق نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ وہ قتال کرے اور قتال کی اہلیت بھی رکھتا ہو اور جو شخص لشکر کے ساتھ قتال کے واسطے داخل ہو پھر اس نے قتال کیا یا مرض وغیرہ کی وجہ سے قتال نہ کیا تو اس کے واسطے اس کا سہم غنیمت ہوگا اگر پیادہ ہے تو پیادہ کا حصہ اور اگر سوار ہے تو سوار کا حصہ اور جو شخص قتال کے واسطے داخل ہو پھر کفار کے ہاتھ میں اسیر ہو گیا پھر قبل اس کے کہ غنیمت دارالاسلام میں نکال لائی جائے وہ رہا ہو گیا تو اس کے واسطے اس کا سہم غنیمت ہوگا یہ سراج و ہاج میں ہے۔ اگر امام کو ضرورت ہوئی کہ غنیمت بار کر کے دارالاسلام میں منتقل کیا جائے اور مال غنیمت میں جانوران بار برداری ہیں تو امام اس مال غنیمت کو ان پر لاد کر دارالاسلام میں منتقل کرائے گا۔ اگر مال غنیمت میں جانوران بار برداری نہ ہوں لیکن امام کے ساتھ بیت المال میں سے جانور وغیرہ بار برداری فاضل ہیں تو ان پر لاد کر منتقل کرائے اور اگر امام کے ساتھ فاضل بار برداری نہ ہوں لیکن غنیمت حاصل کرنے والوں میں سے ہر ایک کے ساتھ فاضل بار برداری ہے پس اگر ان کی خوشی ہو تو اجرت پر ان کی بار برداری پر مال غنیمت لاد لائے اور اگر ان کی خوشی نہ ہو تو اجرت سے ان پر لاد لانے کے واسطے ان مالکوں پر جبر واکراہ نہیں کرے گا یہ سیر صغیر میں ہے اور سیر کبیر میں لکھا ہے کہ امام ان لوگوں کو ان کی بار برداریوں پر اجرامثل کے عوض اس مال کے لادنے پر مجبور کرے گا اور اگر غانمین میں سے ہر ایک کے واسطے فاضل بار برداری نہ ہو بلکہ بعض کے ساتھ فاضل بار برداری ہو پس اگر مالک خوشی سے راضی ہو کہ اجرت پر کل غنیمت اس کی بار برداری پر لاد لایا جائے تو جائز ہے اور اگر وہ خوش نہ ہو تو بنا بر روایت سیر صغیر کے اس کو مجبور نہیں کر سکتا اور بنا بر روایت سیر کبیر کے اس کو اس کام پر مجبور کرے گا۔ یہ محیط میں ہے اور مضائقہ نہیں ہے کہ دار الحرب میں لشکر کو علقہ دے اور جو طعام اہل لشکر پائیں وہ کھادیں، اور یہ مثل روٹی و گوشت اور اس چیز کے جو طعام میں مستعمل ہوتی ہے جیسے گھی اور شہد و روغن زیتون و سرکہ اور نیز مضائقہ نہیں ہے کہ تدہین^۲ کریں ایسے دہن (روغن) سے جو کھایا جاتا ہے مثل گھی و روغن زیتون و سرکہ کے اور مضائقہ نہیں ہے کہ کو داس سے تدہین کرے اور اپنے جانور کی اور جواد ہان^۳ کہ نہیں کھائے جاتے ہیں مثل روغن بنفشہ و خیری اور روغن ورد اور اس کے مانند کے تو اس کو رووا نہیں ہے کہ اس سے تدہین کرے۔ جو شے نہ کھائی جاتی ہے اور نہ پی جاتی ہے تو اہل لشکر میں سے کسی کو رووا نہیں ہے کہ اس سے کچھ انتفاع حاصل کرے خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر ہو۔

۱۔ وہ لوگ جو قتال کرنے والوں کے پیچھے ان کی حفاظت و مددگاری وغیرہ کے واسطے مسلح ہوں ۱۲۔ ۲۔ جو لوگ لشکر میں قتال کرتے ہیں اور جو لوگ ان کے پیچھے یا کسی گھائی پر یا عورتوں و بچوں و مال کے پاس مسلح تیار کھڑے ہیں دونوں یکساں ہیں اگرچہ محافظ روہ اور مال و اولاد قتال نہ کرتے ہوں ۱۲۔ ۳۔ کسی عضو میں روغن ملنا جس کو ہمارے عرف میں تیل لگانا بولتے ہیں ۱۲۔ ۴۔ ادہاں جمع دہن روغن کو کہتے ہیں ۱۲۔

اگر اہل لشکر کو آگ روشن کرنے کی حاجت ہوئی خواہ پکانے کے واسطے یا صدمہ سردی دفع کرنے کی غرض سے تو مضائقہ نہیں ہے کہ اہل حرب کی لکڑیاں و نرکل وغیرہ جو پائیں وہ جلا دیں بشرطیکہ یہ جلانے کے واسطے رکھی گئی ہوں:

اگر لشکر کے ساتھ تاجر لوگ دارالحرب میں داخل ہوئے جن کا ارادہ قتال کا نہیں ہے تو ان کو روانہ نہیں ہے کہ طعام میں سے کوئی چیز کھائیں یا اپنے جانوروں کو کھلائیں الا اس صورت میں کہ خرید کر کے دام دے دیں اور اگر ایسے تاجر نے اس میں سے کوئی چیز خود کھائی یا اپنے جانور کو کھلائی تو اس پر نمان واجب نہ ہوگی اور اگر اس کے پاس اس میں سے کوئی چیز باقی ہو تو اس سے وہ لے لی جائے گی اور رہا لشکر مجاہدین کا تو ان کو مضائقہ نہیں ہے کہ اپنے غلاموں کو جو ان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں بدین غرض کے سفر میں ان کے کاموں میں اعانت کریں ایسے کھانے پینے کی چیزوں سے ان کو کھلائیں اور یہی حکم ان مجاہدوں کی عورتوں اور بچوں کا ہے ہاں جو شخص ان مجاہدوں کے ساتھ مزدور خدمت کرنے کے واسطے مقرر ہو کر گیا ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ جب بڑھی عورتیں بدین غرض لشکر کے ساتھ داخل ہوئیں کہ لشکر کے بیماروں اور زخمیوں کا علاج کریں تو یہ عورتیں خود کھائیں گی اور اپنے جانوروں کو کھلائیں اور اپنے رفیقوں کو کھلائیں یہ سراج و ہاج میں ہے۔ کچھ فرق نہیں ہے ایسے طعام میں کہ جو کھانے کے واسطے مہیا ہو اور ایسے طعام میں جو کھانے کے واسطے مہیا نہ ہو یعنی دونوں طرح کا طعام کھا سکتے ہیں حتیٰ کہ اہل لشکر کو روا ہے کہ گائے، بکریاں اونٹ وغیرہ مویشی کو ذبح کر کے کھائیں اور ان کی کھالیں مال غنیمت میں داخل کر دیں اور اسی طرح حبوب و شکر و فواکہ تر و خشک (گیہوں، چنار، جو وغیرہ) اور ہر شے جو عادت کے موافق کھائی جاتی ہے کھائیں اور یہ اطلاق ایسے شخص کے حق میں ہے جس کے واسطے ہم غنیمت ہو یا وہ رخصت کے طور پر غنیمت سے پانے کی لیاقت رکھتا ہو خواہ وہ غنی ہو یا فقیر ہو اور تاجر و مزدور خدمت کو ایسا کھانا نہ دیا جائے گا الا آنکہ گیہوں کی روٹی یا پکا ہوا گوشت ہو تو ایسی صورت میں تاجر و مزدور کو بھی کھلا دینے میں مضائقہ نہیں ہے یہ تمہیں میں ہے۔ اگر لشکر نے چارہ اپنے جانوروں کے واسطے اور طعام اپنے کھانے کے واسطے اور لکڑیاں استعمال کے واسطے اور روغن استعمال کے لئے اور ہتھیار لڑائی کے واسطے دارالحرب سے لے لئے تو ان کو یہ روا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی چیز فروخت کریں اور نہ ان چیزوں سے تمول حاصل کرنا روا ہے یعنی ان کو ذخیرہ کر کے اپنے وقت حاجت کے واسطے نگاہ نہ رکھیں اور اگر انہوں نے اس میں سے کوئی چیز فروخت کی تو اس کا ثمن مال غنیمت میں داخل کر دیں یہ غایت البیان میں ہے۔ اگر انہوں نے تل یا پیاز یا ساگ یا مرچ وغیرہ ایسی چیزیں پائیں جو عادت کے موافق بطور تعیش کھائی جاتی ہیں تو ان میں سے تناول کرنے میں مضائقہ نہیں ہے اور دواؤں و خوشبو میں سے کچھ استعمال کرنا روا نہیں ہے اور واضح ہو کہ یہ حکم جو ازاں وقت ہے کہ امام المسلمین نے ان کو کھانے پینے کی چیزوں سے انتفاع حاصل کرنے سے منع نہ کیا ہو اور اگر امام نے ان کو اس سے منع کر دیا ہو تو ان کو ایسی چیزوں سے انتفاع حاصل کرنا مباح نہیں ہے اور اگر اہل لشکر کو آگ روشن کرنے کی حاجت ہوئی خواہ پکانے کے واسطے یا صدمہ سردی دفع کرنے کی غرض سے تو مضائقہ نہیں ہے کہ اہل حرب کی لکڑیاں و نرکل وغیرہ جو پائیں وہ جلا دیں بشرطیکہ یہ جلانے کے واسطے رکھی گئی ہوں اور اس کے سوائے اور کام کے واسطے رکھی گئی ہوں یعنی عادت کے موافق ظاہر ہو کہ ایسی چیز جلانے کی نہیں ہے مثلاً لکڑی کے کٹھوتے اور کٹھوتیاں بنانے کے واسطے رکھی گئی ہوں اور حال یہ کہ اس کی قیمت ہے تو اس کا استعمال کرنا روا نہیں ہے اور اگر گھوڑوں کے واسطے جو نہ ملیں تو مضائقہ نہیں ہے کہ گیہوں دے

۱۔ یعنی حصے میں سے مستحق حصہ ہو جیسے سوار و پیادہ لڑائی والا ۱۲۔ ۲۔ جیسے عورتیں کہ ان کے واسطے حصہ غنیمت نہیں ہے مگر رخصت کے طور پر دی جاسکتی ہیں ۱۲۔

اور اگر اس نے دارالحرب میں صابن یا حرض^۱ جو احراز میں کی ہوئی ہے پائی تو اس سے انتفاع حاصل نہیں کر سکتا ہے الا بروقت ضرورت اور اگر دارالحرب کی زمین میں حرض لگی ہو اور اس نے اس میں سے کچھ کاٹ لی پس اگر اس کاٹ لی ہوئی کی کچھ قیمت ہو تو اس سے انتفاع نہیں جائز ہے الا بوقت ضرورت اگر اس کی کچھ قیمت نہ ہو تو اس کو بدون ضرورت لاحق ہونے کے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اگر اہل لشکر میں سے ایک شخص نے کسی آدمی کو اپنے لئے چارہ لانے کے واسطے مزدور مقرر کیا اور وہ کسی مظلومہ کو گیا اور وہاں سے چارہ لایا پھر کہا کہ میری رائے میں یوں آیا ہے کہ میں یہ چارہ تجھے نہ دوں اور اپنے واسطے رکھوں اور تجھ کو تیری اجرت واپس کر دوں اور مستاجر نے ہٹ کی کہ نہیں میں یہ چارہ ہی لوں گا پس اگر اجیر نے یہ اقرار کیا کہ میں یہ چارہ بر بنائے اجارہ لایا ہوں تو اس پر جبر کیا جائے گا کہ مستاجر کو دے دے در صورتیکہ دونوں اس چارہ کے حاجت مند ہوں یا دونوں اس سے بے پروا ہوں اور اگر اجیر کو اس کی حاجت ہو اور مستاجر اس سے بے پروا ہو تو اجیر کو اختیار ہے کہ اس کو نہ دے لیکن اجیر کے واسطے اجرت بھی نہ ہوگی اور اگر اس کو اس واسطے اجارہ پر مقرر کیا ہو کہ میرے واسطے خشک گھاس کاٹ لائے اور باقی مسئلہ بحالہ ہو تو مستاجر کو اختیار ہوگا کہ اس سے لے لے اگر مستاجر اس گھاس سے بے پروا ہو اور اجیر کو اس کی ضرورت ہو مگر یہ حکم اس صورت میں ہے کہ اجیر نے اقرار کیا کہ میں اسی کے واسطے کاٹ لایا ہوں۔ یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر دارالحرب میں کوئی درخت پایا اور اس میں سے لکڑی لی پس اگر اس جگہ اس کی کچھ قیمت ہو تو اس سے انتفاع حاصل کرنا نہیں روا ہے الا اس صورت میں کہ کھانا پکانے یا صدمہ سردی دفع کرنے کے واسطے جلا دیں اور اگر اس جگہ اس لکڑی کی کچھ قیمت نہ ہو لیکن اہل لشکر نے اس میں کوئی ایسی دستکاری کی ہے جس سے اس کی قیمت ہوگئی ہے تو اس سے انتفاع حاصل کرنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ اگر اس کو دارالاسلام میں نکال لائے اور امام نے تقسیم مال غنیمت کا قصد کیا پس اگر اس مقام پر جہاں امام نے تقسیم غنائم کا قصد کیا ہے اس لکڑی میں سے بے بنی ہوئی کی کچھ قیمت ہو تو امام کو اس ساختہ کے حق میں اختیار ہے چاہے ان سے ساختہ کو لے کر ان کو اس قدر قیمت جو بسبب دستکاری کے اس میں بڑھ گئی ہے دے کر اس ساختہ کو غنائم میں داخل کر لے اور چاہے اس ساختہ کو فروخت کر کے اس کا ثمن اس کے ساختہ وغیر ساختہ دونوں قیمتوں پر تقسیم کرے پس جس قدر ساختہ کے حصہ میں بہ نسبت غیر ساختہ کے حصہ ثمن کی زیادتی ہو اس قدر حصہ دستکاری ہوگا وہ اس دستکار کو دے دے جس نے اس لکڑی میں دستکاری کی ہے اور جو باقی رہا وہ غنیمت میں داخل کر دے پس غنیمت پانے والوں کا حق دستکاری منقطع نہ ہوگا۔ اگر اس لکڑی کی دارالحرب میں کچھ قیمت نہ ہو اور دارالاسلام میں بھی جہاں امام نے تقسیم غنائم کا قصد کیا ہے کچھ قیمت نہ ہو تو وہ لکڑی اسی کو مسلم رہے گی جو اپنے ساتھ لے آیا ہے یہ محیط میں ہے۔

اگر کسی نے منیٰ یا عرفات میں سے کسی مقام پر اپنا خیمہ کھڑا کر لیا حالانکہ اس سے پہلے اس مقام پر

ایک شخص دیگر اتر کر تھا اور یہ امر معروف ہے:

اگر اہل لشکر میں سے کسی آدمی نے کسی مقام پر طعام کثیر پایا جس میں سے تھوڑا اس کی حاجت سے بچا اور اس نے چاہا کہ اس کو دوسرے مقام پر لاؤ لے جاؤں مگر دیگر حاجتمندان لشکر میں سے کسی نے اس سے اس طعام کو طلب کیا پس اگر وہ جانتا ہے کہ

۱۔ صحنین و بسکون و سبطی کو کہتے ہیں جو صابون بنانے والوں کے کام آتی ہے ۱۲۔ ۲۔ مزدوری کرنے والا ۱۳۔ ۳۔ کسی شخص کو مزدوری پر مقرر

مجھے اس دوسرے مقام پر طعام نہ ملے گا تو مضائقہ نہیں ہے کہ اس طلب کرنے والے کو دینے سے انکار کرے اور اپنے ساتھ اس کو دوسرے مقام پر لے جائے اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کا انکار کرنا حلال نہیں ہے اور اگر باوجود شخص اول کی حاجت کے دوسرے طالب نے اس سے یہ طعام لے لیا اور ہنوز اس میں سے کھایا نہیں ہے کہ شخص اول نے امام سے نالش کی اور امام کو شخص اول کی حاجت بجانب اس طعام کے معلوم ہوئی تو امام اس کو واپس کر دے گا اور اگر اول اس کا محتاج نہیں اور دوسرا اس کا محتاج معلوم ہو تو امام اس کو دوسرے سے واپس نہ لے گا اور اگر امام کے نزدیک ثابت ہو کہ دونوں اس سے بے پروا ہیں تو ایسی خصوصیت^۱ میں امام اس کو دوسرے سے لے لے گا مگر اول کو واپس نہ دے گا بلکہ ان دونوں کے سوائے کسی دوسرے کو دے گا۔ یہ حکم جو ہم نے بیان کیا ہے ہر ایسی چیز میں جاری ہے جس میں مسلمان لوگ بحق شرعی یکساں ہیں جیسے رباطات میں اترنا کسی مقام پر یا مسجدوں میں انتظار نماز کے واسطے بیٹھنا یا منیٰ میں یا عرفات میں حج کے واسطے کسی جگہ اترنا چنانچہ اگر مسجد میں کسی جگہ کوئی بیٹھا تو وہ اس مقام کا بہ نسبت دوسرے شخص کے مستحق ہے۔ اگر کسی نے بوریہ بچھایا اگر اس کو کسی دوسرے کے حکم سے بچھا دیا ہے تو بچھوانے والا کے خود بچھانے کے مانند ہے یعنی اس جگہ کا مستحق وہی ہے جس نے بچھوایا ہے اور اگر بچھانے والے نے خود بدون حکم دوسرے کے بچھایا ہے تو بچھانے والا اس کا مستحق ہے اس کو اختیار ہے کہ یہ جگہ جس کو چاہے دے دے۔ اسی طرح اگر کسی نے منیٰ یا عرفات میں سے کسی مقام پر اپنا خیمہ کھڑا کر لیا حالانکہ اس سے پہلے اس مقام پر ایک شخص دیگر اترتا تھا اور یہ امر معروف ہے تو جو شخص اب کی مرتبہ اس مقام پر پہلے آن کر اترتا ہے وہی اس کا مستحق ہے اور دوسرا جس کا اس مقام پر اترنا معروف ہے اس کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کو اس مقام سے اٹھائے۔ اگر اس نے اس مقام میں سے بہت جگہ وسیع اپنی حاجت سے زیادہ لی تو غیر کو اختیار ہے کہ اس سے اس کی جگہ کا وہ گوشہ جس کی اس کو حاجت نہیں ہے لے کر وہاں اس کے برابر آپ اترے اور اگر اتنی جگہ کو اس سے ایسے دو آدمیوں نے طلب کیا کہ ہر ایک کو ان میں سے اس جگہ کی ضرورت ہے اور جو شخص پہل کر کے وہاں اتر چکا ہے اس نے چاہا کہ میں ان میں سے ایک کو دوں دوسرے کو نہ دوں تو اس کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اگر ان دونوں میں سے ایک پیش قدمی کر کے وہاں اتر پڑا پھر اس شخص نے جو پہل کر کے اس مقام وسیع میں اتر چکا ہے اور وہ بے پروا ہے یہ چاہا کہ اس کو وہاں سے ہانک کر کے دوسرے ایسے شخص کو جو اس جگہ کا محتاج ہو وہاں اتارے تو اس کو یہ اختیار نہ ہوگا اور اگر اس شخص نے جو وہاں پہل کر کے اتر تھا یہ کہا کہ میں نے اس قدر زائد گوشہ مقام کو فلاں کے واسطے اس کے حکم سے لے لیا تھا کہ اس کو یہاں اتاروں گا اپنے واسطے نہیں لیا تھا تو اس سے اس امر پر قسم لی جائے گی اور بعد قسم کھانے کو اس کو یہ اختیار ہوگا کہ جو یہاں اترتا ہے اس کو اٹھائے اور یہی حکم طعام و چارہ کا ہے کہ اگر اس نے کہا کہ میں نے اس کو فلاں کے حکم سے اس کے واسطے لیا تو قسم لے کر اس کا قول مسلم ہوگا اور اگر اہل لشکر میں سے دو آدمیوں نے ایک نے جو پائے اور دوسرے نے نرکل۔ پھر دونوں نے باہم اس کا مبادلہ کیا اور جس نے جو چیز خرید لی ہے اس کا حاجت مند ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ جو کچھ اس نے دوسرے سے خریدا ہے اس کو استعمال میں لائے اور یہ دونوں کے درمیان میں بیع نہ ہوگی اس واسطے کہ ان دونوں چیزوں میں سے ہر ایک کو یہ اختیار تھا کہ بقدر اپنی حاجت کے لے لے لیکن چونکہ لانے والے کی حاجت مقدم مانع تھی کہ بغیر اس کے رضا مندی کے نہیں لے سکتا تھا پس بایں مباحہ ہر ایک نے دوسرے کو راضی کر لیا پھر جو استعمال کیا تو اصلی مباح ہونے پر نہ بایں مباحہ مذکورہ اور یہ صورت بمنزلہ اس کے ہے کہ چند مہمان ایک دسترخوان پر مجتمع ہوئے کہ ہر مہمان اس امر سے منع کیا گیا کہ اپنا ہاتھ اس طعام کی طرف دراز کرے جو دوسرے کے سامنے ہے بغیر رضا مندی دوسرے کے اور اگر دوسرے کی

۱۔ جس کو ہمارے عرف میں جھڑاؤ تکرار بولتے ہیں ۱۲۔ ۲۔ باہم ایک دوسرے کے شے کو کسی شے کے عوض لینا ۱۲۔

طرف سے رضامندی پائی گئی تو ہر ایک کو دونوں میں سے اختیار ہوگا کہ جو طعام چاہے کھائے مگر بایں نیت کہ مہمانی کرنے والے کی ملک ہے جو اس نے مباح کر دی ہے نہ آنکہ دوسرے مہمان نے مباح کر دی اور اگر یہ صورت ہو کہ دونوں میں سے ہر ایک نے جو کچھ دوسرے کے مبادلہ میں دیا ہے جیسے دوسرے سے لی ہوئی چیز کا حاجت مند تھا ویسا ہی اپنی دی ہوئی چیز کا حاجت مند ہے پس ان دونوں میں سے ایک نے چاہا کہ جو دونوں نے باہم مبادلہ کیا ہے اس کو توڑ دے تو اس کو یہ اختیار نہ ہوگا اور اگر یہ صورت ہو کہ جو کچھ بائع نے دیا ہے بائع اس کا حاجت مند ہو اور مشتری اس سے بے پروا ہو تو بائع کو اختیار ہے کہ جو دیا ہے وہ لے لے اور جو لیا ہے واپس کر دے اور اگر یہ ہو کہ جب بائع نے واپس کر لینے کا قصد کیا تو مشتری نے وہ چیز جو خریدی ہے کسی دوسرے شخص کو جو اس چیز کا حاجت مند ہے دے دی تو بائع کو اس سے واپس لینے کا اختیار نہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر دونوں نے باہم مباحثہ کر لی حالانکہ دونوں اس سے بے ہیں یا دونوں کو اس کی حاجت ہے یا ایک بے پروا ہے اور دوسرا حاجت مند ہے اور ہنوز دونوں میں باہمی قبضہ نہ ہوا تھا کہ ایک کی رائے میں آیا کہ اس مباحثہ کو توڑ دے تو اس کو اختیار ہوگا کہ ترک کر دے اور اگر ایک نے دوسرے کو کوئی چیز قرض (اس مال سے جو دارالخرب میں ہے) دی بدیں شرط کہ لینے والا اس کے مثل ادا کر دے گا پس اگر دونوں میں سے ہر ایک اس چیز سے بے پروا ہو یا ہر ایک اس کا حاجت مند ہو تو قرض لینے والے پر کچھ بھی واجب نہ ہوگا اگر اس نے اس چیز کو تلف کر دیا ہو اور اگر ہنوز تلف نہیں کیا ہے موجود ہے قرض دینے والا اس کا مستحق ہے اگر اس نے چاہا کہ میں واپس کر لوں تو واپس لے سکتا ہے اور اگر لینے والا حاجت مند ہو اور اس کا دینے والا اس سے بے ہو تو دینے والا اس سے واپس نہیں لے سکتا ہے۔ اگر یہ صورت ہو کہ قرض کے دین لین کے وقت دونوں اس سے بے ہوں پھر قبل اس کے کہ لینے والا اس کو تلف کر دے دونوں اس کے حاجت مند ہو گئے تو دینے والا اس کا مستحق ہے اور اگر لینے والا پہلے حاجت مند ہوا پھر دینے والا حاجت مند ہوا یا نہ ہو ابہر حال لینے والے پر دینے والے کو کوئی راہ نہیں ہے۔ اگر ایسے گیبوں میں سے جو داخل غنیمت ہیں کسی کے پاس سے دوسرے نے اپنے ذاتی درہموں کے عوض خریدے اور درہم دے دیئے اور گیبوں پر قبضہ کر لیا تو یہی مشتری ان گیبوں کا مستحق ہو بشرطیکہ ان کا حاجت مند ہو۔ اگر دونوں میں سے ایک نے بیع توڑ دینے کا قصد کیا اور گیبوں ہنوز بعینہ قائم ہیں تو اس کو یہ اختیار ہے پس مشتری گیبوں کو واپس کر دے گا اور اپنے درہم لے لے گا اور یہ اس صورت میں ہے کہ دونوں ان گیبوں سے بے پروا ہوں یا مشتری بے پروا ہو اور بائع ان کا حاجت مند ہو اور اگر مشتری ہی اس کا حاجت مند ہو تو بائع پر واجب ہوگا کہ مشتری کو اس کے درہم واپس کر دے اور گیبوں مشتری کو مسلم رہیں گے اور مشتری نے وہ گیبوں تلف کر دیئے ہوں تو بائع پر واجب ہوگا کہ مشتری کا ثمن واپس کر دے اور جو کچھ مشتری نے تلف کر دیا ہے وہ بہر حال اس کو مسلم رہا۔ اگر مشتری چلا گیا اور بائع کو یہ قدرت حاصل نہ ہوئی کہ اس کو اس کا ثمن واپس کر دے تو یہ درہم اس کے پاس بمنزلہ لقطہ کے ہوں گے مگر فرق یہ ہے کہ درہم اس کے پاس مضمون ہیں۔ اگر اس نے غنائم کے جمع و تقسیم کرتے والے کے حضور میں یہ امر پیش کیا پس اس نے کہا کہ میں نے تیری بیع کی اجازت دی اور ثمن داخل کرے تو اس کو جائز ہوگا کہ ثمن مذکور صاحب غنائم کے حضور میں پیش کر دے یعنی دے دے۔ پھر اگر اس کے بعد مالک درہم آیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے گیبوں قبل اس کے کہ صاحب غنائم بیع کی اجازت دے تلف کر دیئے ہوں تو درہم مذکورہ اس کو واپس دیئے جائیں گے اور اگر اس نے بعد اجازت بیع کے تلف کئے ہوں قبل اس کے کہ تلف نہ کئے ہوں تو درہم مذکورہ مال غنیمت میں داخل ہوں گے اور اگر مشتری نے کہا کہ قبل تیری اس بیع کی اجازت دینے کے میں نے گیبوں کھالئے تھے پس

مجھے درہم واپس کر دے اور اس نے اس امر پر قسم کھائی تو اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور اس کو درہم واپس نہ کئے جائیں گے یہاں تک کہ اس کے گواہ قائم کرے کہ میں نے اجازت بیع سے پہلے گیہوں کھالئے تھے۔ اگر دو آدمیوں میں سے ایک نے گیہوں پائے اور دوسرے نے کپڑا پھر دونوں نے باہم مباحثت کا قصد کیا تو دونوں کو یہ اختیار نہیں اور اگر دونوں نے ایسا کیا اور ہر ایک نے جو کچھ دوسرے سے لیا تھا وہ دارالحرب میں تلف کر دیا تو دونوں میں سے کسی پر ضمان واجب نہ ہوگی مگر اتنی بات ہے کہ کپڑے کا فروخت کرنے والا بیع کرنے میں گنہگار ہو اور اسی طرح اس کا مشتری بھی، اگر دونوں نے تلف نہ کیا یہاں تک کہ دارالاسلام میں داخل ہوئے تو ہر ایک پر یہ واجب ہوا کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ واپس کر دے اور اگر اس کو تلف کرے گا تو ضامن ہوگا اور اگر یہ دونوں دارالحرب میں ہوں اور دونوں تلف نہیں کیا ہے تو جس نے کپڑے پر قبضہ کیا ہے اس پر واجب ہے کہ کپڑے کو غنیمت میں داخل کر دے جیسے کہ اگر اسی نے ابتدا میں پایا ہوتا تو اس پر غنیمت میں داخل کر دینا واجب تھا۔ جس نے گیہوں پر قبضہ کیا ہے اس کے حق میں اس صورت میں بھی اسی تفصیل سے حکم ہے جو صورت اول میں گذرا باعتبار حاجت مندی ہر دو یا بے پروائی ہر دو یا حاجت گیرندہ نہ دہندہ یا حاجت دہندہ نہ گیرندہ اور گیہوں کا خریدنے والا چلا گیا کہ اس کا نشان و پتہ نہیں چلتا ہے تو صاحب مغنم^۱ اس کپڑے کو اس شخص سے جس کے پاس ہے لے گا جیسے اگر وہی ابتدا پایا تا تو لے لیتا۔ اگر کپڑے کا خریدنے والا چلا گیا اس طرح کا اس کا نشان و پتہ نہیں چلتا ہے اور دوسرا موجود ہے تو صاحب مغنم گیہوں کے خریدار سے جب تک دارالحرب میں ہیں کچھ متعرض نہ ہوگا جیسے کہ اگر اس نے ابتدا پائے ہوتے تو بھی یہی حکم تھا پھر اگر خریدنے والا ان گیہوں کو قبل اس کے کھا جائے دارالاسلام میں نکال لایا تو صاحب مغنم ان گیہوں کو اس سے لے کر مال غنیمت میں داخل کر دے گا۔ یہ محیط میں ہے۔

قبل تقسیم واقع ہونے کے بدون حاجت پیش آنے کے کپڑے و متاعہائے غنیمت سے انتفاع

حاصل کرنا مکروہ ہے:

اگر مال غنیمت میں سے کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہو یا کوئی کپڑا پہن لیا یا کوئی ہتھیار اٹھایا اور ہنوز تقسیم واقع نہیں ہوئی ہے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے جبکہ اس کو اس چیز کی حاجت پڑی ہو۔ پھر جب لڑائی سے فارغ ہوا تو اس کو غنیمت میں واپس کر دے اور اگر اس نے رد کرنے سے پہلے تلف کر دیا تو اس پر ضمان واجب نہ ہوگی اور اگر اس کو کچھ حاجت نہ ہو مگر وہ غنیمت کے گھوڑے پر سوار ہو لیا تا کہ اپنے گھوڑے کو محفوظ رکھے یا کپڑا پہن لیا تا کہ اپنے کپڑے محفوظ رکھے تو یہ مکروہ ہے لیکن اگر تلف ہو گیا تو وہ ضامن نہ ہوگا یہ شرح طحاوی میں ہے۔ قبل تقسیم واقع ہونے کے بدون حاجت پیش آنے کے کپڑے و متاعہائے غنیمت سے انتفاع حاصل کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں ایک جماعت کا اشتراک ہے لیکن جب یہ لوگ کپڑے اور گھوڑوں وغیرہ چار پاؤں و ہتھیار و متاع کے حاجت مند ہوں تو امام المسلمین دارالحرب میں ان کے درمیان اموال غنیمت تقسیم کر دے گا۔ پس حاصل یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو حاجت ہوئی تو اس کو اموال غنیمت سے انتفاع مباح ہے اور اگر سب کو حاجت ہوئی تو امام المسلمین تقسیم کر دے گا اور ان چیزوں کا حکم بخلاف مردمان اسیر شدہ کے ہے کہ اسیروں کو امام وہاں تقسیم نہ کرے گا اس واسطے کہ ان اسیروں کی طرف حاجت دو طرح سے ہے یا وطنی کے واسطے یا خدمت کے واسطے اور یہ فضول حاجت ہے یہ کافی میں ہے۔ اگر مجاہدین نے اجتماع کیا اور دارالحرب میں امام

۱ یعنی غنیمت میں داخل کر دے ۱۲۔ ۲ مغنم جمع مغنم بمعنی مال غنیمت ۱۲۔ ۳ ظاہر ایک سے مراد یہ ہے کہ کل نہیں ہوں وہ حاصل آنگہ اگر قلیل

محتاج ہوئے تو انتفاع حاصل کریں اور اگر کثیر محتاج ہوئے تو امام تقسیم کر دے ۱۲۔

سے تقسیم کی درخواست کی تو امام ان کو عطیہ دے گا پھر اگر انہوں نے عطیہ قبول نہ کیا تو بخوف فتنہ امام ان کے درمیان تقسیم کر دے گا۔ اسی طرح اگر امام کے پاس بار برداری نہ ہو جس پر مال غنیمت لادلائے تو بھی دارالحرب میں امام ان کے درمیان تقسیم کر دے گا۔ تاکہ ہر ایک اپنے حصہ کو دلانے کی کلفت برداشت کرے یہ محیط میں ہے اور جب مسلمان لوگ دارالحرب سے نکل آئے تو پھر ان کو رو نہیں ہے کہ اموال غنیمت سے اپنے چوپایوں کو چارہ دیں اور نہ یہ چائز ہے کہ خود اس میں سے کھائیں اور جس کے پاس چارہ و طعام بچ رہا ہو وہ غنیمت میں داخل کر دے اگر وہ تقسیم نہ ہوئی ہو اور اگر تقسیم ہو گئی ہو تو اگر خود غنی ہو تو بچے ہوئے کو صدقہ کر دے اور اگر فقیر ہو تو اس سے انتفاع حاصل کرے اور اگر دارالاسلام میں آجانے کے بعد اس سے انتفاع حاصل کر لیا تو اس کی قیمت مال غنیمت میں داخل کر دے اگر غنیمت ہنوز تقسیم نہیں ہوئی ہے اور اگر تقسیم ہو گئی ہو تو اس کی قیمت صدقہ کر دے بشرطیکہ تو نگر ہو اور اگر فقیر ہو تو اس پر کچھ نہیں ہے یہ کافی میں ہے۔

اگر کوئی مسلمان یا ذمی دارالحرب میں امان لے کر داخل ہوا اور وہاں اس نے مال پایا پھر مسلمان لوگ اس دارالحرب پر غالب ہوئے تو اس مال کا حکم بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ اس شخص کا ہے جو دارالحرب میں مسلمان ہوا:

جو حربی دارالحرب میں مسلمان ہو گیا تو اس نے اسلام سے اپنی جان و اپنی اولاد و خردسال کو جو بالغ نہیں ہوئی ہیں محفوظ کر لیا اور یہ حکم اس وقت ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہونے سے پہلے مسلمان ہو گیا اور اگر بعد گرفتار ہونے کے مسلمان ہوا تو وہ غلام ہے اور اسی طرح اگر اس کا مال و اولاد پکڑ لئے گئے اور وہ نہیں پکڑا گیا پھر وہ مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہونے سے اس نے فقط اپنے نفس کو محفوظ کیا اور نیز جو مال اس کے پاس ہے یا اس کی ودیعت کسی مسلمان یا ذمی کے پاس ہے اس کے ساتھ محفوظ ہوئی اور اس کی اولاد کبیر یعنی بالغہ اور اس کی زوجہ و زوجہ کا حمل اور اس کے اموال غیر منقولہ اور اس کا غلام جو حربیوں کی طرف سے قتال کرتا ہے اور جو اس کا مال کسی حربی کے پاس غصب یا ودیعت ہو ان میں سے کوئی محفوظ نہ ہوں گے بلکہ یہ سب فنی ہوں گے۔ اسی طرح جو چیز اس کی کسی مسلمان یا ذمی کے پاس غصب ہو وہ بھی امام اعظم کے نزدیک فنی ہوگی اور اگر کوئی مسلمان یا ذمی دارالحرب میں امان لے کر داخل ہوا اور وہاں اس نے مال پایا پھر مسلمان لوگ اس دارالحرب پر غالب ہوئے تو اس مال کا حکم بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ اس شخص کا ہے جو دارالحرب میں مسلمان ہوا چنانچہ سب صورتوں میں وہی حکم ہے سوائے ایسے مال کے جو اس کا کسی حربی کے پاس ہو کہ روایت ابوسلیمان کے موافق یہ مال اسی مسلمان یا ذمی متامن کا ہوگا اور روایت ابو حفص کے موافق اس میں بھی وہی حکم ہے کہ فنی ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ روایت ابوسلیمان اصح ہے اور یہ سب اس وقت ہے کہ مسلمان لوگ اس دارالحرب پر غالب آئے ہوں اور اگر مسلمانوں نے اس دارالحرب پر غارت کی اور غالب نہیں ہوئے تو بھی امام محمد کے نزدیک یہی حکم ہے مگر امام اعظم کے نزدیک اس کا تمام مال فنی ہو جائے گا سوائے اس کی جان اور اس کی اولاد و صغار کے اور جو شخص کہ دارالحرب میں مسلمان ہو کر دارالاسلام میں چلا آیا تو اس کا حکم بھی اسی تفصیل سے ہے جیسا کہ محیط میں ذکر فرمایا ہے یہ تمین میں ہے۔

فصل : ۲

در کیفیت قسمت

لشکری (سوار یا پیادہ) کے واسطے غنائم کی تقسیم:

امام المسلمین غنیمت کو تقسیم کرے گا پس پانچواں حصہ نکال کر باقی چار پانچویں حصے غنمین کے درمیان تقسیم کرے گا پھر امام اعظم کے نزدیک سوار کے واسطے دو سہام اور پیدل کے واسطے ایک سہم ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ سوار کے واسطے تین سہام ہیں یہ ہدایہ میں ہے اور جو شخص لشکر پر امیر مقرر کیا گیا ہے وہ اس حکم میں بمنزلہ ایک لشکری کے ہے یہ سرامیہ میں ہے۔ اسپجانی نے شرح طحاوی میں فرمایا کہ اگر سوار کے پاس کئی گھوڑے ہوں تو ظاہر الروایہ کے موافق فقط ایک ہی گھوڑے کا حصہ لگایا جائے گا اور گھوڑوں میں کچھ فرق نہیں ہے چنانچہ عربی و نجیب و برزوں و بحین وغیرہ جن پر گھوڑے کا اطلاق ہوتا ہے سب یکساں ہیں مگر جس کے پاس سواری میں اونٹ یا خیر یا گدھا ہو تو وہ اور پیدل یکساں ہیں۔ یہ غایۃ البیان میں ہے اور جو شخص دار الحرب میں سوار داخل ہوا پھر اس کا گھوڑا مر گیا تو وہ سوار کے حصہ کا مستحق ہے۔ اگر کسی نے گھوڑا مستعار لیا یا اجارہ پر لیا اور قتال کے واسطے لیا ہے پس وقت تقسیم غنیمت کے اس کو لے کر حاضر ہوا تو اس کے واسطے سوار کا حصہ لگایا جائے گا یعنی اس گھوڑے کا حصہ اس کو دیا جائے گا۔ اگر اس نے گھوڑا جس پر قتال کیا ہے غصب کر کے لیا ہے اور اس کو حاضر لایا تو بطریق حرام اس کے حصہ کا مستحق ہوا پس چاہئے کہ اس گھوڑے کا حصہ صدقہ کر دے۔ واضح رہے کہ اگر اس کا گھوڑا اس کے ساتھ رہا یہاں تک کہ غنیمت حاصل ہوئی یا جب وہ داخل ہوا اس کا گھوڑا مر گیا یا دشمن اس کو پکڑ لے گیا یا ٹانگ توڑ دی یا لنگڑا ہو گیا خواہ قبل حصول غنیمت کے یا بعد حصول غنیمت کے تو اس میں کچھ فرق نہ ہوگا بلکہ وہ سوار کے حصہ کا مستحق ہوگا خواہ وہ شخص دفتر میں سواروں میں لکھا ہو یا پیدلوں میں مرقوم ہو یہ سراج و ہاج میں ہے۔ اگر دار الحرب میں پیدل داخل ہوا پھر اس نے گھوڑا خرید یا مستعار لیا یا اس کے واسطے باسحقاق واجب ہوا اور اس نے سوار ہو کر قتال کیا تو اس کو پیدل کا حصہ ملے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اصل یہ قرار پائی ہے کہ معتبر ہمارے نزدیک وہ حالت ہے کہ جب اس نے دارالاسلام سے مجاوزت بدر الحرب کی ہے یعنی جس حال سے وہ دارالاسلام سے پار ہوا ہے۔ اگر اس نے سوار یہاں سے تجاوز کیا اور دار الحرب میں سوار داخل ہوا پھر اس نے اپنا گھوڑا فروخت کر دیا یا رہن کر دیا یا اجارہ پر دیا یا بہہ کیا یا عاریت دیا تو ظاہر الروایہ کے موافق گھوڑے کا حصہ باطل ہو جائے گا اور پیدل کا حصہ پائے گا۔ یہ سراج و ہاج میں ہے۔ اگر اس نے قتال سے فراغت کے بعد گھوڑا فروخت کر دیا تو اس کو سوار کا حصہ ساقط نہ ہوگا اور اس میں اتفاق ہے کچھ اختلاف نہیں ہے یہ فتح القدر میں ہے۔ اگر اس نے حالت قتال میں اس کو فروخت کر دیا تو اصح قول کے موافق اس کا حصہ سوار ساقط ہو جائے گا یہ کافی میں ہے۔ اگر کسی غاصب نے اس کا گھوڑا غصب کر لیا اور اس کو قیمت تاوان دے دی تو وہ پیادہ رہ گیا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر دار الحرب میں سوار داخل ہوا مگر قتال کی حالت میں اس نے بسبب ضیق مقام یا جھاڑ درختوں کے پیادہ قتال کیا تو ایسے لوگوں کو سواروں کا حصہ چاہئے اور اگر وہ دار الحرب میں ایسے گھوڑے پر سوار

۱ یعنی اگر سوار تو مثل سوار کے در نہ پیادہ ۱۲۔ ۲ عاریت لیا جس کو ہمارے عرف میں مانگے کا بولتے ہیں ۱۲۔ ۳ مترجم کہتا ہے کہ بعض فقہائے نے کہا کہ بڑائی کی حالت معتبر ہے یعنی جس حالت سے اس نے قتال کیا ہے ولیکن اصح وہی ہے جو وہاں مذکور ہوا فانہم والله اعلم ۱۲۔ ۴ یعنی جدہ کی تگلی کے

ہو کر داخل ہوا جس پر قتال کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے خواہ بسبب اس کے کہ یہ گھوڑا بہت بوڑھا ہے یا بسبب اس کے کہ یہ بہت بچہ ہے کہ سواری لینے کے لائق نہیں ہے تو وہ سوار کے حصہ کا مستحق نہ ہوگا۔ اگر یہ گھوڑا ایسا مریض ہو کہ اس پر سوار ہو کر قتال نہیں کر سکتا ہے مثلاً پتھر وغیرہ سے اس کا سم گھن گیا یا اس کو صلح کی بیماری پیدا ہوگئی پس اسی حال سے اس پر وہ حد دار الا سلام سے تجاوز کر کے دارالحرب میں داخل ہوا پھر اس کی بیماری زائل ہوگئی اور ایسا ہو گیا کہ اس پر قتال کر سکتا ہے اور یہ غنائم حاصل ہونے سے پہلے واقع ہوا تو استحساناً اس کا سواروں کا حصہ لگایا جائے گا۔ اگر اس نے غصب کئے ہوئے یا مستعار یا اجارہ لئے ہوئے گھوڑے پر درب سے تجاوز کیا پھر مالک نے اس سے واپس کر لیا پس وہ جنگ میں پیدل حاضر ہوا تو اس کے حق میں دو روایتیں ہیں یہ فتح القدر میں ہے۔

بحری جہاد والے کی بابت غنائم کا مسئلہ:

جو شخص بحر (دریا سمندر) میں کشتی پر سوار ہو کر قتال کرتا ہے وہ دو سہام کا مستحق ہے اگرچہ کشتی میں گھوڑے پر سوار ہو کر قتال نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بحر الرائق میں ہے۔ اگر اس نے اپنا گھوڑا کسی شخص کو ہبہ کر دیا اور اس کو سپرد کر دیا اور جس کو ہبہ کیا ہے وہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر دارالحرب میں بقصد قتال داخل ہوا اور اس لشکر کے ساتھ اس گھوڑے کا ہبہ کرنے والا بھی گیا پھر اس نے اپنی ہبہ سے رجوع کر کے اپنا گھوڑا لے لیا تو جس قدر غنائم قبل اس کے اپنی ہبہ سے رجوع کرنے کے حاصل ہوئے ہیں اس میں اس کو موہوب لہ کا حصہ سوار کا لگا دیا جائے گا اور جس قدر غنائم اس کے رجوع کر لینے کے بعد حاصل ہوئے ہیں ان میں اس کا پیدل کا حصہ لگایا جائے گا اور ہبہ کرنے والا جس نے ہبہ سے رجوع کر لیا ہے جملہ غنائم میں اس کا حصہ پیدل کا لگایا جائے گا اور اگر اپنا گھوڑا دار الا سلام میں بطور بیع فاسد کے فروخت کیا اور اس کو مشتری کے سپرد کر دیا جس کو مشتری لشکر کے ساتھ دارالحرب میں لے گیا اور گھوڑا بیچنے والا بھی ان کے ساتھ داخل ہوا ہے پھر اس نے بوجہ بیع فاسد ہونے کے اپنا گھوڑا واپس کر لیا تو جو کچھ غنائم میں حاصل ہوں اس میں بائع کا حصہ پیدل کا لگایا جائے گا خواہ واپس کر کے لینے سے پہلے حاصل ہوئے ہوں یا اس کے بعد اور مشتری ان غنائم کے حصہ میں جو واپس کر لینے سے پہلے حاصل ہوئے ہیں سوار قرار دیا جائے گا اور جو اس کے بعد حاصل ہوئے ہیں ان میں پیدل قرار دیا جائے گا۔ ایک شخص اپنا گھوڑا دارالحرب میں لے گیا تاکہ اس پر سوار ہو کر قتال کرے پھر کسی نے گواہ قائم کر کے اپنا استحقاق ثابت کر کے اس کے ہاتھ سے یہ گھوڑا لے لیا تو استحقاق ثابت کر لینے والا جملہ غنائم میں پیدل قرار دیا جائے گا اور جس پر استحقاق ثابت کر کے لیا ہے وہ ان غنائم میں جو قبل واپس لینے کے حاصل ہوئی ہیں سوار قرار دیا جائے گا اور جو اس کے بعد حاصل ہوئی ہیں ان میں پیدل ٹھہرایا جائے گا دو مردوں میں سے ایک کے پاس گھوڑا ہے اور دوسرے کے پاس خچر ہے پس دونوں نے باہم بیع کر لی اور دونوں ان کو لے کر دارالحرب میں داخل ہوئے پھر ایک نے اپنے خریدے ہوئے میں عیب پا کر واپس کر کے جو دیا تھا وہ واپس کر لیا تو خچر خریدنے والا جملہ غنائم میں پیدل ہوگا اور گھوڑا خریدنے والا ان غنائم میں جو قبل باہمی رد بیع کے حاصل ہوئی ہیں سوار قرار دیا جائے گا اور جو بعد اس کے حاصل ہوئی ہیں ان میں پیدل قرار دیا جائے گا۔ اگر اپنا گھوڑا دار الا سلام میں ایک شخص کے پاس جس کا اس پر قرضہ آتا ہے بعوض اس قرضہ کے رہن کر دیا پھر راہن و مرتہن دونوں دارالحرب میں داخل ہوئے اور مرتہن یہ گھوڑا بھی اپنے ساتھ لے گیا تاکہ اس پر قتال کرے پھر راہن نے مرتہن کو اس کا قرضہ دارالحرب میں ادا کر کے اس سے اپنا گھوڑا لے لیا تو رہن کرنے والا جملہ غنائم میں جو قبل رہن سے پہلے یا بعد حاصل ہوئی ہیں پیدل قرار دیا جائے گا اور اسی طرح مرتہن بھی جملہ غنائم میں پیدل ہوگا اور اگر اس نے اپنا گھوڑا دارالحرب میں فروخت کر دیا پھر دوسرا گھوڑا خرید لیا تو ہوا استحساناً جیسا سوار تھا ویسا ہی رہے گا اور اگر کسی

۱۔ درب پہاڑ کی تنگ کھائی کے دروازہ کو کہتے ہیں ۱۲۔ ۲۔ اس صورت میں کہ وہ وقت داخل ہونے دارالحرب کے پیدل تھا اور واضح ہو کہ مستحق علیہ غنائم قبل استرداد کے حصہ سوار کو قیاساً ظاہر یہ تھا کہ صدقہ کرے ولیکن استحساناً صدقہ نہ کرے گا فافہم ۱۲۔ ۳۔ غنائم غنیمت کی جمع ہے ۱۲۔

مسلمان نے کسی مسلمان دیگر کا گھوڑا قتل کر دیا اور مالک فرس کو قیمت دے دی اور اس نے لے لی اور اس کے عوض دوسرا گھوڑا نہ خرید اتو جو غنائم حاصل ہوئی ہیں ان میں اس کے واسطے سواروں کا حصہ لگایا جائے گا۔ جس نے اپنا گھوڑا دارالحرب میں پاکراہ فروخت کیا تو اس کے گھوڑے کا حصہ ساقط نہ ہوگا۔ اگر غازی نے اپنا گھوڑا دارالحرب میں درہموں کے عوض فروخت کر دیا حالانکہ اس سے پہلے غنائم حاصل ہو چکی ہیں پھر اس نے دوسرا گھوڑا مستعار لیا یا اجارہ پر لیا پھر اور غنائم حاصل ہوئیں تو جو غنائم بعد بیع کے حاصل ہوئی ہیں وہ ان میں پیدل قرار دیا جائے گا اور اجارہ لینے یا عاریت لینے والا بجائے مشتری کے قرار نہ دیا جائے گا بخلاف اس کے اگر اس نے دوسرا گھوڑا خرید لیا تو بنا بر حکم استحسان کے وہ سوار ہی قرار پائے گا۔ اگر کسی نے اپنا گھوڑا فروخت کر دیا پھر اس کو دوسرا گھوڑا بیہ کیا گیا اور اس کو سپرد کر دیا گیا تو وہ سوار قرار پائے گا اس واسطے کہ جو چیز بیہ کر دی گئی ہے وہ اپنی ذات سے اس کی ملک میں آگئی پس وہ مثل مشتری کے ہو اور اگر پہلا گھوڑا اس کے پاس باجارہ یا بعاریت ہو پس اس کے ہاتھ سے لے لیا گیا پھر اس نے دوسرا خرید اتو دوسرا بجائے اول کے قائم ہوگا اور اگر پہلا باجارہ ہو اور دوسرا بھی یہ اجارہ ہو یا پہلا بعاریت ہو تو دوسرا بھی بعاریت ہو تو بجائے اول کے قائم ہوگا اور اگر اول باجارہ ہو اور دوسرا بعاریت ہو تو دوسرا بجائے اول کے نہ ہوگا اور اگر اول عاریت ہو اور دوسرا باجارہ ہو تو دوسرا بجائے اول کے قائم ہوگا پھر دارالحرب میں عاریت لینے والے نے اگر پہلا گھوڑا اس کے ہاتھ سے واپس لئے جانے کے بعد دوسرا گھوڑا مستعار لیا تو بعد اس کے جو غنائم ہوں ان میں وہ سوار قرار دیئے جانے اور سواروں کے حصہ پانے کا بسبب قیام دوم کے مقام اول میں جب ہی مستحق ہوگا کہ جب دوسری عاریت والے کا کوئی اور گھوڑا سوائے اس گھوڑے کے ہو جو اس نے عاریت دیا ہے اور اگر عاریت دہندہ کا دوسرا گھوڑا سوائے اس کے نہ ہو تو جو غنائم اس کے بعد حاصل ہوں ان میں عاریت لینے والا سواروں کے حصہ کا مستحق نہ ہوگا پس عاریت دینے والا بسبب اپنے اس گھوڑے کے سواروں کے حصہ کا مستحق ہوگا پس اگر عاریت لینے والا بھی حصہ سوار کا مستحق ہو تو لازم آئے کہ دونوں میں سے ہر ایک بسبب ایک ہی گھوڑے کے ایک ہی غنیمت میں سے حصہ کامل کا مستحق ہو اور یہ جائز نہیں ہے اور اگر دارالاسلام میں اس نے ایک گھوڑا خرید اور ہنوز باہمی قبضہ واقع نہ ہو ایہاں تک کہ وہ دارالحرب میں داخل ہو پھر مشتری نے اس گھوڑے پر قبضہ کیا اور ثمن ادا کر دیا تو بائع و مشتری دونوں پیدل قرار پائیں گے اور اگر ثمن میعاد ہو یا فی الحال ادا کرنا ٹھہرا ہو کہ مشتری نے دارالحرب میں داخل ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دیا پھر دونوں دارالحرب میں داخل ہوئے اور مشتری نے گھوڑے پر قبضہ کیا تو استحساناً مشتری سوار قرار دیا جائے گا۔ اگر دو آدمی ایک گھوڑے کو جو ان کے درمیان شرکت میں ہے لے کر دارالحرب میں بدین قصد داخل ہوئے کہ کبھی اس پر سوار ہو کر یہ قتال کرے اور کبھی وہ تو یہ دونوں پیدلوں میں شمار ہوں گے اور اسی طرح اگر دو گھوڑے لے کر داخل ہوئے اور دونوں میں سے ہر ایک گھوڑا دونوں کے درمیان نصفاً نصف مشترک ہے تو بھی وہ دونوں پیدلوں میں شمار ہیں لیکن اگر دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو اپنا حصہ اجارہ پردے دیا یا قبل اس کے کہ وہ دارالحرب میں داخل ہوں تو اس صورت میں اجارہ لینے والا سوار ہوگا اور اگر دونوں نے باہم بخوشی خاطر یہ قرار دیا کہ ہر ایک دونوں گھوڑوں میں سے جس گھوڑے پر چاہے سوار ہو تو دیکھا جائے کہ اگر دارالحرب میں داخل ہونے سے پہلے دونوں میں ایسی رضا مندی باہمی ہو گئی ہے تو دونوں سوار ہوں گے اور اگر دارالحرب میں داخل ہونے کے بعد ایسا کیا ہے تو دونوں پیدل ہوں گے۔ بقصد قتال اس طرح سواری لینے کے ہنوارے پر دونوں میں سے کسی پر جبر نہ کیا جائے گا ہاں اگر یہ ہنوارہ نہ بقصد قتال ہو تو بنا بر قول امام محمد کے اور یہی قول امام ابو یوسف کا ہے دونوں اس پر مجبور کئے جائیں گے اور بنا بر قول امام اعظم کے مجبور نہیں کئے جائیں گے لیکن اگر دونوں اپنی خوشی خاطر سے اس پر راضی ہوئے تو قاضی اس کو نافذ کر دے گا۔ یہ محیط میں ہے۔

مملوک و آنسہ کے حصوں کے متعلق:

مملوک کے واسطے حصہ نہ لگایا جائے گا اور نہ عورت کے واسطے اور نہ طفل کے واسطے اور نہ ذمی کے واسطے لیکن برائے امام المسلمین ان کو رخص^۱ کے طور پر دیا جاسکتا ہے اور مکاتب بمنزلہ غلام کے ہے اور غلام کو رخص جب ہی دیا جائے گا کہ جب اس نے قتال کیا ہو اور عورت اگر مریضوں کی پرداخت کرتی ہو اور مجروحوں کی مداوات کرتی ہو تو اس کو رخص دیا جائے گا اور ذمی کو جب ہی رخص دیا جائے گا کہ جب اس نے قتال کیا یا راہ بتائی و قتال نہ کیا لیکن واضح رہے کہ جب اس نے قتال کیا تو اس کو رخص اس قدر نہ دیا جائے گا کہ ہم کے برابر پہنچ جائے لیکن اگر راہ بتائی کہ جس میں منفعت عظیم ہے تو اس کو ہم سے زیادہ بھی دیا جاسکتا ہے یہ ہدایہ میں ہے اور طفل مراہق جو قریب بہ بلوغ پہنچا اور بالغ نہیں ہوا ہے اور معتوہ^۲ اگر انہوں نے قتال کیا تو ان کو رخص دیا جائے گا یہ غایۃ البیان میں ہے۔ پھر واضح رہے کہ ہمارے نزدیک رخص غنیمت میں سے پانچواں حصہ نکال لینے سے پہلے دیا جاتا ہے۔ یہ فتح القدر میں ہے۔ پانچواں حصہ جو امام المسلمین نے غنائم میں سے نکال لیا ہے وہ تین سہام پر تقسیم کیا جائے گا جس میں سے ایک حصہ یتیموں کے واسطے ہوگا اور ایک حصہ مسکینوں کے واسطے اور ایک حصہ ابن السبیل کے لئے کہ فقراء ذوی القربی انہیں میں داخل ہوں گے اور وہ لوگ مقدم رکھے جائیں گے اور ذوی القربی میں سے تو نگروں کو نہ دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت میں خمس کے بیان میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے بھی ذکر کیا یعنی اپنا نام پاک بھی ذکر فرمایا سو یہ بدین فائدہ کہ تبرکاً افتتاح کلام بنام پاک او تعالیٰ عزہ ہوئے اور اسی آیت میں بعد اپنے نام پاک کے نام شریف اپنے رسول اللہ ﷺ کا ذکر فرمایا ہے سو حضرت محمد ﷺ کا حصہ بسبب ان کی وفات کے ساقط ہو گیا جیسے کہ صنفی ساقط ہو گیا اور صنفی وہ شے ہے کہ جو آنحضرت ﷺ غنیمت میں سے مثل زرہ یا تلوار یا باندی وغیرہ کے اپنے واسطے چن لیتے تھے یہ ہدایہ میں ہے۔

اگر امام نے غنائم کو لشکر یوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور ہر ایک نے اپنے اپنے حصہ پر قبضہ کر لیا اور

اپنے گھروں میں متفرق ہو گئے پھر ایک شخص آیا:

اگر پانچواں حصہ ان تینوں اصناف مذکورہ میں سے ایک ہی صنف کے صرف میں کر دیا تو بھی ہمارے نزدیک روا ہے۔ یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر امام نے غنائم کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور غنائم رقیق و متاع وغیرہ تھی پس امام نے بعضوں کو رقیق بانٹ دیئے اور بعضوں کو چوپائے جانور بانٹ دیئے اور بعضوں کو درہم یا دینار دیئے اور بعضوں کو گھوڑے یا ہتھیار دیئے مگر سوار و پیادہ میں سے ہر ایک کو اس کا حصہ جو شرعی مقرر ہے دیا تو یہ جائز ہے خواہ برضا مندی غانمین ہو یا بغیر رضا مندی غانمین اور خواہ اس طرح تقسیم دار الحرب میں کی ہو یا دار الاسلام میں۔ اگر امام نے غنائم کو تقسیم کیا اور ہر حق دار نے اپنا حق لے لیا اور مسلمانوں میں کسی کے حصہ میں ایک باندی آئی اور اہل لشکر اپنے اپنے گھروں میں متفرق ہو کر چلے گئے پھر جو باندی اس شخص کے حصہ میں آئی ہے اس نے دعویٰ کیا کہ میں آزادہ باندی اہل ذمہ میں سے ہوں مجھ کو مشرک لوگ قید کر کے لے گئے تھے اور اس نے اس دعویٰ پر دو گواہ عادل مسلمان قائم کئے تو امام اس کے آزاد ہونے کا حکم دے دے گا اور جب امام نے اس کے آزاد ہونے کا حکم دے دیا تو آیا تقسیم ٹوٹ جائے گی یا نہیں پس بنا برقیاس کے ٹوٹ جائے گی اور استحساناً جب وہ چیز جو استحقاق میں جاتی

۱۔ رخص عطیہ فلیل یعنی مذکورہ لوگوں کو مال غنیمت سے امام المسلمین بطور عطیہ کے تھوڑا سا مال دے گا اور وہ مجاہدین کی طرح تقسیم میں شریک نہ کیے جائیں گے

ایسی چیزیں غنیمت میں آئی ہیں جن کی قیمت ہے جیسے شکاری کتا و دیگر جانور پرندے تعلیم یافتہ مثل باز و شکرہ وغیرہ کے تو مثل اور اموال کے یہ مال بھی غنیمت ہیں:

اگر مسلمانوں نے مال غنیمت میں سونے یا چاندی کی گھنٹی جس میں صلیب و تماثیل پڑے ہیں پائی تو قبل تقسیم غنائم کے ان کا شکتہ کر دینا مستحب ہے اور اگر کسی مسلمان کے ہاتھ اس کو فروخت کرنا چاہا اگر یہ خریدار مرد معتد ہے کہ اس سے یہ خوف نہیں ہے کہ مشرکوں کے ہاتھ فروخت کر دے گا تو اس کے ہاتھ بیچ ڈالنے میں مضائقہ نہیں ہے اور اگر اس پر اعتماد نہ ہو بلکہ خوف ہو کہ شاید مشرکوں کے ہاتھ لالچ سے بیچ ڈالے تو اس کے ہاتھ فروخت کرنا مکروہ ہے اور اگر سکہ دار درہم و دینار پر صلیب یا تماثیل ہوں اور شکتہ کرنے سے پہلے ان کا تقسیم کرنا یا کسی کے ہاتھ بیچ کرنا چاہا تو کچھ مضائقہ نہیں ہے اور جو ایسی چیزیں غنیمت میں آئی ہیں جن کی قیمت ہے جیسے شکاری کتا و دیگر جانور پرندے تعلیم یافتہ مثل باز و شکرہ وغیرہ کے تو مثل اور اموال کے یہ مال بھی غنیمت ہیں کہ غانمین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے اور اسی طرح خشکی کے شکار و سونے چاندی وغیرہ کی کانیں اور گڑے ہوئے خزانہ جو کچھ حاصل ہوئے یا ان کے سمندر غوطہ خور مسلمانوں نے جو کچھ نکالا^(۱) ہے وہ سب فئی ہے کہ اس میں سے پانچواں حصہ نکال کر باقی غانمین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا اور مچھلیاں اور باقی سب جانور شکار جو کھائے جاتے ہیں اور شکار کر کے پکڑے جاتے ہیں ان کا حکم مثل دیگر ماکولات کے یعنی کھانے کی چیزوں کے ہے اور غنیمت کے شکاری کتے و باز و و صقر سے شکار کرنا مکروہ ہے اور بلیوں کا تقسیم کر دینا جائز ہے اور اگر مسلمانوں نے ایسا گھوڑا پایا جس پر یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف ہے تو یہ اور جس پر کچھ نہیں لکھا ہے دونوں یکساں ہیں رہا یہ امر کہ ایسا گھوڑا مسلمانوں کا قرار دیا جائے گا یا حریوں کی یعنی کس نے اس کو اس طرح وقف کیا ہے تو جس مقام پر وہ پایا گیا ہے اس سے استدلال کیا جائے گا پس اگر ایسی جگہ پایا گیا کہ بیشتر اس میں مسلمان ہیں یا مسلمانوں کے قریب ہو تو وہ مسلمانوں کا قرار دیا جائے گا اور نقطہ ہوگا پس اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو اور نقطوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

اگر ایسی جگہ پایا گیا کہ غالب وہاں مشرک ہیں یا قریب مشرکین کے ہے تو وہ اہل حرب کا قرار دیا جائے گا اور غنیمت میں شمار ہوگا پس اس کے ساتھ وہی برتاؤ ہوگا جو اور غنائم کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر مسلمانوں نے اس کو مشرکوں سے لیا اور مسلمانوں کے ایک قوم نے گواہی دی کہ یہ لشکر اسلام کے گھوڑوں میں سے ہے اور امام غنائم کو تقسیم کر چکا ہے یا اس گھوڑے کو فروخت کر چکا ہے یا ہنوز نہیں تقسیم کر چکا اور نہیں فروخت کیا ہے اور یہ گھوڑا جس کے قبضہ میں تھا وہ حاضر ہوا تو وہ اس گھوڑے کو مفت لے لے گا خواہ قبل تقسیم کے پائے یا بعد تقسیم کے اور اس کا حکم وہی ہوگا جو مد بروام ولد کے حق میں ہے۔ امام ابو یوسف و امام محمد کا قول ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر مسلمانوں نے غنیمت حاصل کی اور اس کو احراز نہیں کیا ہے یہاں تک کہ دشمن ان پر غالب آیا اور انہوں نے مسلمانوں سے یہ اموال غنیمت لے لیے پھر دوسرا لشکر مسلمانوں کا آیا اور اس نے غالب ہو کر دشمنوں سے یہ غنیمت لے لی تو یہ غنیمت ان دوسروں کے واسطے ہوگی پہلوں کے واسطے نہ ہوگی اور اگر پہلوں نے اس کو دارالاسلام میں لا کر احراز کر لیا ہو پھر ایسا واقع ہوا تو دوسروں پر واجب ہوگا کہ یہ اموال غنیمت پہلوں کو واپس کر دیں اور جب امام نے پانچواں حصہ نکال کر باقی چار پانچویں حصہ لشکر کو

۱۔ صلیب بمعنی چلیپا جو شکل سولی بنی ہوتی ہے اور انصاری اس کی پرستش کرتے ہیں۔ تماثیل جمع تمثیل بمعنی مورت خواہ وہ انسان کی ہو یا کسی دیگر جاندار کی جیسے اکثر ہندو گوسالہ و مہادیو وغیرہ کی بنا کر مکانوں میں رکھتے اور تبرگ گلے میں لٹھی میں ڈال کر پہنتے ہیں ۱۲۔

(۱) سوتی وغیرہ ۱۲۔ ☆ تماثیل (مذکر) تمثال کی جمع۔ (۱) تصویریں مورتیں۔ (۲) فرمان شامی۔ (فیروز اللغات)..... (حافظ)

دے دیں اور پانچواں حصہ اس کے پاس تلف ہو گیا تو اہل لشکر کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ ان کو مسلم رہے گا اور اسی طرح اگر اس نے پانچواں حصہ نکال کر اس کے مستحقین کو دیا اور باقی چار پانچویں حصے اس کے ہاتھ میں تلف ہو گئے تو پانچواں حصہ اپنے مستحقین کو مسلم رہے گا۔ اگر امام نے کچھ غنیمت لشکر میں سے بعض کے پاس دو بیت رکھی قبل اس کے کہ اموال غنائم تقسیم ہوں اور اس نے بیان نہ کیا جو کچھ اس نے کیا ہے یہاں تک کہ مر گیا تو وہ کچھ ضامن نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر ایسی جماعت نے جن کو قوت و منعت حاصل ہے دارالحرب میں داخل ہو کر غنیمت حاصل کی:

امام محمد نے سیر کبیر میں فرمایا کہ اگر ایک یا دو تین مسلمانوں یا اس قدر مسلمان یا ذمی جن کو قوت و منعت حاصل نہیں ہے بدوں اجازت امام کے دارالحرب میں داخل ہوئے اور وہاں انہوں نے غنائم حاصل کیے اور اس کو دارالاسلام میں نکال لائے تو یہ سب انہیں کے واسطے ہوگا اس میں سے پانچواں حصہ^۱ نہیں نکالا جائے گا اور اگر امام نے ایسے داخل ہونے والے کو اجازت دی ہو تو جو کچھ حاصل کریں اس میں سے پانچواں حصہ نکال لیا جائے گا اور جو باقی رہے وہ مثل سهام غنائم کے ان میں تقسیم ہوگا یہ غایت البیان میں ہے اور اگر ایسی جماعت نے جن کو قوت و منعت حاصل ہے دارالحرب میں داخل ہو کر غنیمت حاصل کی تو اس میں پانچواں حصہ ہے کہ امام لے لے گا اگرچہ امام نے ان کو اجازت نہ دی ہو یہ ہدایہ میں ہے۔ امام ابو الحسن کرخ^۲ نے فرمایا کہ اگر دارالحرب میں دو فریق آپس میں متفق ہوئے ایک وہ فریق ہے کہ امام کی اجازت سے داخل ہوا ہے اور دوسرا بغیر اجازت گیا ہے حالانکہ باوجود ان کے اجتماع کے بھی ان کو قوت و منعت حاصل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کچھ غنیمت حاصل کی تو جو کچھ ایسے لوگوں کو ملا ہے جس کو امام نے اجازت دی ہے اس میں سے پانچواں حصہ نکال کر باقی انہیں کے درمیان تقسیم ہوگا کہ اس میں دوسرے فریق والے شرکت نہیں کر سکتے ہیں اور جو کچھ ایسے لوگوں نے پایا ہے جن کو اجازت حاصل نہ تھی تو ان میں سے ہر ایک نے جو کچھ پایا ہے وہ اس کا ہے کہ اس میں اس کے ساتھیوں میں سے کوئی اور دوسرے فریق میں سے کوئی شرکت نہیں کر سکتا ہے اور اگر فریق اجازت یافتہ وغیرہ اجازت یافتہ دونوں ایک چیز کے لینے میں شریک ہوئے تو وہ ان میں لینے والوں کی تعداد پر تقسیم ہوگی پھر جس قدر اجازت یافتہ لینے والوں کے حصہ میں آئی ہے اس میں سے پانچواں حصہ لے کر باقی انہیں میں بحساب سهام غنیمت کے تقسیم کر دی جائے گی چنانچہ اس فریق کے سب لوگ لینے والے اور غیر لینے والے اس میں سے حصہ رسید پائیں گے اور جو کچھ اس فریق کے حصہ میں ہے جو اجازت یافتہ نہیں ہیں وہ ان کے لینے والوں کے درمیان انہیں کی تعداد پر تقسیم ہوگی اور اس فریق میں جو شخص لینے میں شریک نہ تھا اس کو کچھ نہ ملے گا اور اس میں سے پانچواں حصہ بھی نہیں ہے۔ اگر فریق اجازت یافتہ وغیرہ اجازت یافتہ دونوں مجتمع ہو گئے کہ ان کے اجتماع سے ان کو قوت و منعت حاصل ہو گئی تو ایک جماعت نے جو کچھ غنیمت حاصل کی وہ ان سب کے درمیان بعد پانچواں حصہ نکالنے کے بہ حساب سهام غنیمت کے تقسیم ہوگی اور اس طرح ہر گروہ نے قبل اکٹھا ہونے کے یا بعد اکٹھا ہونے کے جو کچھ حاصل کیا ہے دونوں کا حکم یکساں ہے چنانچہ اس میں سے پانچواں حصہ نکال لیا جائے گا اور باقی ان سب کے درمیان بحساب سهام غنیمت کے تقسیم ہوگا اور اگر وہ جماعت جو باجوازت امام داخل ہوئی ہے اس کو قوت و منعت حاصل ہے اور انہوں نے غنائم حاصل کیے پھر ایسے ایک یا دو آدمی جن کو منعت نہیں حاصل ہے بغیر اجازت امام کے دارالحرب میں چوروں کی طرح داخل ہوئے اور لشکر مذکور کے غنائم حاصل کرنے کے بعد ان سے مل گئے پھر اس کے بعد انہوں نے غنائم حاصل کیے اور ایک دو جو بطور چوروں

۱ یعنی مقابلہ کرنے والوں کو دور کر لیں ۱۲۔ ۲ اس لیے کہ انہوں نے باوجود قوت و منعت نہ ہونے کے بغیر اجازت امام کے اس طریقہ سے مال

حاصل کیا تو وہ انہیں کا حق ہوگا ہاں اگر امام کی اجازت سے یا قوت و منعت کے ساتھ ہوتے تو پانچواں حصہ نکالا جاتا ۱۲۔

کے داخل ہوئے ہیں انہوں نے بھی لشکر سے ملنے سے پہلے غنیمت حاصل کی اور اس کے بعد بھی حاصل کی تو ان سب نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس میں سے پانچواں حصہ نکالا جائے گا اور باقی ان کے درمیان بحساب سہام غنیمت کے تقسیم ہوگا لیکن جو غنیمت ان دو کے ملنے سے پہلے اہل لشکر نے حاصل کی ہے اس میں اہل لشکر کے ساتھ یہ ایک دو آدمی جو بطور چوروں کے داخل ہوئے ہیں شریک نہ ہوں گے مگر یہ ایک دو جو بطور چور کے داخل ہوئے ہیں انہوں نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس میں اہل لشکر شریک ہوں گے یہ سراج و باج میں ہے۔

اگر امام نے غنائم کو تقسیم کر دیا اور ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا اور غنیمت میں سے کچھ خفیہ باقی رہا کہ بسبب کثرت لشکر اور قلت اس چیز کے تقسیم نہیں بن پڑتی ہے تو امام المسلمین اس کو مساکین پر صدقہ کر دے اور اگر صدقہ نہ کی بلکہ مسلمانوں کے لیے کسی وقت حاجت و سختی کے واسطے بیت المال میں داخل کیا تو اس کو یہ بھی اختیار ہے اور اگر اہل لشکر میں سے ایک قوم امیر لشکر کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر دور ہیں ہم یہاں زیادہ نہیں ٹھہر سکتے پس غنائم میں سے ہمارے حق ہم کو تخمینہ و انداز سے دے دیجئے اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تم ہماری طرف سے حلت میں ہو پس امیر لشکر نے ان کو اسی انداز سے دے دیا اور وہ چلے گئے پھر جب باقیوں کو اسی انداز سے ان کا حصہ دیا تو جو لوگ چلے گئے تھے ان کے حصہ سے باقیوں کا حصہ زیادہ پڑا تو امیر المسلمین اس کو صدقہ نہ کرے گا بلکہ ایک سال اس کو رکھ چھوڑے گا اور ان مسلمانوں کو خبر کرے گا اور یہ بقیہ مال بسبب ان کے قول کے کہ تم حلت میں ہو اس امیر کا نہیں ہو جائے گا اور اگر امیر نے یہ مال صدقہ کر دیا پھر اس کے حقدار آئے تو ان کو اختیار ہوگا کہ اس کے مال سے اپنا حق تاوان لیں اور امیر اس تاوان کو بیت المال سے نہ لے سکے گا اور نہ خمس میں سے لے سکے گا۔ یہی حکم امام المسلمین کے حق میں ہے کہ اگر امام المسلمین نے یعنی جو سب سے بڑا سردار مسلمانوں کا ہے اس نے بذات خود جہاد کیا اور اس طرح تقسیم غنیمت واقع ہوئی اور اس نے بقیہ کو صدقہ کر دیا پھر اس کے حق دار آئے تو ان کو اختیار ہوگا کہ امام سے اس حق کا تاوان لیں اور یہ تاوان اس امام کے مال سے ہوگا کہ اس کو کہیں سے اور کسی سے واپس نہیں لے سکتا ہے جیسے امیر لشکر کی صورت میں مذکور ہوا ہے لیکن اگر امام نے یہ مصلحت دیکھی کہ یہ مال مسکینوں کو قرضہ دے اور قرضہ کے طور پر ان میں تقسیم کر دیا بسبب ان کی حاجت کے پھر جب اس کے حق دار آئے اور انہوں نے صدقہ کی اجازت نہ دی تو امام ان کو مالہائے فقر و مساکین میں سے اس قدر دے دے گا۔

صاحب مقاسم کو یہ اختیار نہیں کہ زیادتی کو صدقہ کرے:

مشائخ نے ذکر کیا کہ اس مقام پر تین نفر سردار ہیں اول امام اکبر دوئم امیر لشکر سوئم صاحب مقاسم یعنی وہ شخص کہ جس کو تقسیم غنائم کا کام سپرد کر دیا گیا ہے پس صاحب مقاسم کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ زیادتی کو صدقہ کر دے اور امیر لشکر کو یہ اختیار ہے کہ زیادتی کو صدقہ کر دے مگر یہ اختیار نہیں ہے کہ بیت المال فقر و مساکین پر فقیر و مسکینوں کو قرضہ دے دے اور امام اکبر کو یہ اختیار ہے کہ زیادتی کو صدقہ کرے اور چاہے بیت المال مساکین پر مسکینوں کو قرضہ دے دے اور اگر ایک لشکر عظیم نے غنائم حاصل کیے اور اس کو دارالاسلام میں نکال لائے اور وہ تقسیم نہیں کیے گئے یہاں تک کہ لوگ متفرق ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے اور ان کے گھروں کا پتہ معلوم نہیں ہے مگر بعض اس لشکر میں سے رہ گئے تو امام المسلمین ان باقیوں کو ان کے حصے دے دے گا اور غایبوں کے حصے رکھ چھوڑے گا پھر اگر ایک سال گزر گیا اور کوئی طالب حاضر نہ ہو تو ان کو صدقہ کر دے گا اور اگر غنائم میں سے کسی شخص نے کوئی

چیز بطور غلول لے لی اور اس کو نہ لایا یہاں تک کہ غنائم تقسیم کر دی گئی اور مستحقان غنائم متفرق ہو گئے پھر اس کو لایا تو امام کو روا ہے کہ اس کے قول کی تصدیق کرے اور اس سے لے کر اس میں سے پانچواں حصہ نکال کر فقیروں و مسکینوں کو دے دے اور باقی کو رکھ چھوڑے یہاں تک کہ اس کے مستحقین حاضر آئیں اور جب اس کے مستحقون کے آنے سے ناامید ہو جائے تو اس کو صدقہ کر دے اور یہ بھی روا ہے کہ اس کے قول کی تکذیب کرے اور جو کچھ لایا ہے اس میں سے پانچواں حصہ اس سے لے لے اور باقی چار پانچویں حصے اس کے پاس چھوڑے کہ اس کا مواخذہ اسی پر ہے۔ اگر غلول کرنے والا اس کو امام کے پاس نہ لایا بلکہ اس نے خود اس فعل سے توبہ کی تو اس کو رکھ چھوڑ دے اس وقت تک کہ اس کے مستحق کے آنے کی امید رکھتا ہو اور جب اس کی یہ امید منقطع ہو جائے تو اس کو اختیار ہے چاہے صدقہ کر دے مگر یہ بشرط ضمان ہوگا کہ اگر مستحق نے اس کے صدقہ کی اجازت نہ دی تو یہ ضامن ہوگا لیکن احسن وہی ہے کہ امام کو دے دے کذافی المحیط۔

فصل : ۳

تنفیل کے بیان میں

امام اور امیر لشکر کو مستحب ہے کہ تنفیل کرے۔ اگر امام یا امیر لشکر نے تنفیل کی اور کسی کے واسطے غنیمت میں سے جو غنائم کے ہاتھ آگئی ہے کچھ قرار دیا تو ایسی تنفیل جائز نہیں ہے اور تنفیل اسی مال کی جائز ہے جو ہنوز ہاتھ نہیں آیا چنانچہ اگر امام نے کہا کہ جو شخص جو کچھ پائے وہ اس کی ہے پھر ان میں سے کسی ایک نے دار الحرب میں کوئی چیز پائی تو وہ خاصہ اسی کی ہوگی کہ اس میں خمس یعنی پانچواں حصہ نہ ہوگا اور نہ اس میں کوئی دوسرا مشارک ہوگا اور اگر وہ دار الحرب میں مر گیا تو جو کچھ اس نے پایا ہے وہ اس کی میراث ہوگا یعنی اس کے وارثوں کو جو دارالاسلام میں ہیں ملے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ امام کو یہ نہ چاہیے کہ کل ماخوذ کی تنفیل کرے بایں طور کہ لشکر سے کہے کہ جو کچھ تم حاصل کرو وہ تمہارا ہے۔ اگر امام دار الحرب میں لشکر کے ساتھ داخل ہو اور کسی ٹکڑے لشکر پر کوئی امیر کر کے سریہ روانہ کیا اور ان سے کہے دیا جو کچھ تم حاصل کرو وہ تمہارا ہے تو یہ جائز ہے اور اگر دارالاسلام سے اس طرح سریہ روانہ کیا اور ان کے لیے کل غنیمت کی جو حاصل کریں تنفیل کر دی تو یہ نہیں چاہیے اور دارالاسلام میں غنیمت احراز کر لینے کے بعد غنیمت میں سے تنفیل نہیں کر سکتا ہے الا خمس یعنی پانچویں حصہ میں سے تنفیل ہوگی یہ کافی میں ہے اور بعد غنیمت حاصل ہونے کے قبل تقسیم کے بعض ایسے مجاہدین کے واسطے جن کو سختی و محنت زیادہ پہنچی تھی اپنے اجتہاد سے تنفیل کی پھر ایسے امام کے پاس مقدمہ پیش ہوا جو بعد حصول غنیمت کے تنفیل روا نہیں جانتا ہے تو دوسرے امام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جو اول نے کیا اس کو توڑ دے۔

امام نے کوئی سریہ (چھوٹا لشکر) روانہ کیا اور کہا جو کچھ تم حاصل کرو اس میں سے تمہارے واسطے

تہائی ہے:

امام محمد نے فرمایا کہ قاتل اسباب مقتول کا بنفس القتل مستحق نہیں ہوتا ہے تا وقت کہ امام پہلے قتل کرنے کے واسطے تنفیل نہ کرے یعنی یوں کہہ دے کہ جس مجاہد نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس کا اسباب اسی قاتل کا ہے اور یہ ہمارے سب علماء کا مذہب

۱۔ مال غنیمت سے کسی شے کے چرائینے کو غلول بولتے ہیں ۱۲۔ ۲۔ امیر لشکر مجاہدین لشکر سے لڑائی پر جاتے وقت یوں کہے کہ دشمن کا مال جو کچھ جس کے ہاتھ اس لڑائی میں آئے وہ اسی کا ہے ۱۲۔

ہے اور اگر پانچواں حصہ نکال لینے کے بعد تنفیل کی بانٹو رکھ امام نے سر یہ روانہ کیا اور ان سے کہا کہ جو کچھ تم حاصل کرو اس میں سے بعد پانچواں حصہ نکال لینے کے تمہارے واسطے تہائی یا چوتھائی ہے پھر باقی میں تم لوگ لشکر کے شریک ہو تو یہ مطلقاً جائز ہے اس طرح یہ بھی جائز ہے کہ امام نے کوئی سر یہ (چھوٹا لشکر یعنی بڑے لشکر کا ایک حصہ قلیل) روانہ کیا اور ان سے کہا کہ جو کچھ تم حاصل کرو اس میں سے تمہارے واسطے تہائی ہے یا کہا کہ تمہارے واسطے چوتھائی ہے پھر باقی میں تم لوگ لشکر والوں کے ساتھ شریک ہو پس یہ روا ہے اگرچہ اس میں خمس میں جو فقراء کا حق ہے ان کے حق کا ابطال لازم آتا ہے کہ بعد خمس لے لینے کے تنفیل باقی میں سے نہیں کی ہے پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر ان کے واسطے تہائی یا چوتھائی مطلقاً نفل کی ہو تو ان کو تہائی یا چوتھائی تمام غنیمت میں سے پہلے دے دے گا پھر باقی میں سے پانچواں حصہ نکال کر باقی کو تمام لشکر پر تقسیم غنیمت میں شروع ہے اور سر یہ والے جن کو نفل مل چکی ان لوگوں میں شامل ہوں گے اور اگر اہل سر یہ کے واسطے تہائی یا چوتھائی کی نفل بعد پانچواں حصہ نکالنے کے کی ہو تو پہلے تمام غنیمت میں سے پانچواں حصہ نکال کر باقی میں سے اہل سر یہ کو ان کا حصہ نفل دے دے گا پھر باقی کو تمام لشکر پر مع اہل سر یہ کے بحساب سہام غنیمت تقسیم کر دے گا۔

امام محمد نے فرمایا کہ اگر امام نے اہل لشکر سے کہا کہ جو کچھ تم حاصل کرو اس میں سے پانچواں حصہ نکالنے کے بعد باقی تم سب پر مساوی نفل ہے تو یہ باطل ہے یہ محیط میں ہے۔ جب کہ اسباب مقتول کا قاتل کے واسطے نفل نہ قرار دیا گیا تو وہ منجملہ غنیمت کے ہوگا کہ اس میں قاتل وغیرہ قاتل سب برابر ہوں گے اور اسباب مقتول اس کا گھوڑا ہے یا جو سواری ہو اور جو اس پر کپڑے و ہتھیار ہوں اور جو مرکب پر کٹھی وزیں وغیرہ آلات ہوں اور جو اس کا مال اس کے ساتھ گھوڑے پر اس کے حقیقہ یا کمر میں ہو مگر اس کا غلام اور جو کچھ غلام کے ساتھ ہو اور غلام کی سواری کا جانور اور جو کچھ اس جانور پر ہے اور جو کچھ مقتول کے گھر میں ہے وہ اسباب مقتول میں داخل نہیں ہے یہ کافی میں ہے۔ اگر امیر لشکر نے کہا کہ جس کسی نے کافر کو قتل کیا تو مقتول کا گھوڑا اس کا ہے پھر ایک نے ایک کافر کو پایا وہ قتل کیا حالانکہ اس کافر کے ساتھ اس کا غلام اس کا گھوڑا لیے اس کے پہلو میں ایک جانب دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہے تو یہ گھوڑا اس قاتل کا ہوگا اس واسطے کہ مقصود امام یہ ہے کہ ایسے کافر کو قتل کرے جو سوار ہو کر لڑنے پر قادر ہو اور اس مقتول پر صادق ہے کہ وہ سوار ہو کر لڑنے پر قادر تھا بخلاف اس کے اگر اس کا غلام اس کا گھوڑا اس کے پہلو میں ایک جانب لیے ہوئے نہ کھڑا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا یہ تمیین میں ہے۔ پھر جاننا چاہیے کہ تنفیل سے صرف اس قدر ہوتا ہے کہ باقی مجاہدین کا حق اس مال نفل سے منقطع ہو جاتا ہے اور رہا یہ امر کہ جس کے واسطے نفل کر دیا ہے اس کی ملک میں آ جانا سو یہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب یہ مال دار الاسلام میں آ جانے سے احراز میں ہو جائے جیسے اور غنائم میں حکم ہے پس اگر امام نے لشکر سے کہا کہ جن سے کوئی باندی پائی وہ اسی کی ہے پھر کسی مسلمان نے ایک باندی پائی اور اس کا استبراء کر لیا اور ہنوز وہ دار الحرب میں ہے تو امام اعظم و امام ابو یوسف کے نزدیک اس باندی سے اس کو واپس کرنا یا اس کو فروخت کر دینا روا نہیں ہے یہ کافی میں ہے۔

امام کو نہ چاہے کہ کافروں کی ہزیمت و اسلام کی فتح کے روز تنفیل کرے اور اسی طرح یہ بھی نہ چاہے کہ قبل ہزیمت و فتح کے تنفیل مطلقاً کرے بدون استثناء روز ہزیمت و فتح کے یعنی یوں کہے کہ جن سے جس کافر کو قتل کیا اس کا اسباب اسی کا ہے یا جس نے کوئی قیدی گرفتار کیا وہ اسی کا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جس نے جو کافر قتل کیا قبل ہزیمت کفار و فتح اسلام کے تو اس کا اسباب قاتل ہی کا ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ چاہیے نہیں اگر امام نے اس طرح مطلقاً تنفیل کی کہ روز فتح کو استثناء نہ کیا تو تنفیل مذکور بروز فتح و ہزیمت بھی باقی رہے گی چنانچہ بروز فتح و ہزیمت جو غازی جس کافر کو قتل کرے گا اس کا اسباب اسی غازی کا ہوگا یہ محیط میں ہے

امام محمد نے فرمایا کہ اگر امام نے کہا کہ جس نے جس کا فر کو قتل کیا اس کا اسباب اسی قاتل کا ہے پھر ایک غازی نے ایک کافر کو مجروح (گھٹاں) کیا اور دوسرے غازی نے اس کو قتل کر دیا پس اگر اول نے اس کا فر کو ایسا مجروح کیا ہو کہ ایسے زخم سے زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور مجروح کو اتنی قوت نہیں رہی ہے کہ قتل میں مدد کر سکے یا ہاتھ سے یا کلام مشورہ سے اہل کفر کو مدد دے سکے تو اس کا اسباب پہلے غازی کا ہوگا اور اگر اول کے زخم سے یہ زندہ رہ سکتا ہو یا وجود اس زخم کے اس میں ہاتھ یا کلام مشورہ سے مدد دینے کی قوت ہو تو اس کا اسباب دوسرے غازی کا ہوگا پھر جاننا چاہیے کہ اگر امام نے تفصیل بعد خمس کی یعنی مثلاً یوں کہا کہ جس نے کسی کا فر کو قتل کیا تو پانچواں حصہ لینے کے بعد اس کا اسباب اسی قاتل کا ہے تو پانچواں حصہ اس اسباب میں سے لے لیا جائے گا اور اگر مطلقاً اس کے اسباب کو نفل کر دیا یعنی یوں کہا کہ جس نے جس کا فر کو قتل کیا اس کا باپ اسی قاتل کا ہے تو اس صورت میں اسباب میں سے پانچواں حصہ نہ لیا جائے گا اور یہی ہمارے علماء کا مذہب ہے یہ محیط میں ہے۔

اسلوب عربیت سے مسائل اخذ کرنے میں احتیاطیں:

اگر امیر نے لشکر سے دار الحرب میں جب کہ وہ بمقابلہ دشمن صف آرا تھے کہا کہ جس نے جس دشمن کو قتل کیا اس کا اسباب اسی قاتل کا ہے پھر امیر لشکر نے خود کسی کا فر کو قتل کیا تو استحساناً مقتول کا اسباب امیر لشکر کا ہوگا اور اگر یوں کہا کہ جس کا فر کو میں نے قتل کیا تو اس کا اسباب میرا ہی ہوگا تو اس طرح وہ اس اسباب کا مستحق نہ ہوگا اور اگر امیر نے یوں کہا کہ جس نے تم میں سے کسی کا فر کو قتل کیا تو اس کا اسباب قاتل ہے کا ہے پھر امیر لشکر نے کسی کا فر کو قتل کیا تو امیر کو کچھ نہ ملے گا اور اگر امیر نے کہا کہ جس کو میں نے قتل کیا اس کا اسباب میرا ہی ہے پھر کسی کو قتل نہ کیا یہاں تک کہ کہا کہ تم میں سے جس نے کسی کو قتل کیا تو اس کا اسباب اسی قاتل کا ہے پھر امیر نے خود کسی کا فر کو قتل کیا تو اس کا اسباب ملے گا۔ اگر امیر نے لشکر سے کہا کہ اگر تم میں سے کسی مرد نے کسی کا فر کو قتل کیا تو مقتول کا اسباب اسی کا ہے پھر دو آدمیوں نے ایک کا فر کو قتل کیا تو استحساناً اس کا اسباب ان دونوں کا ہوگا اور اسی طرح اگر یوں کہا کہ جس نے قتل کیا کسی کا فر کو تو مقتول کا اسباب اسی کا ہے تو بھی صورت مذکورہ میں مقتول کا اسباب ان دونوں کا ہوگا اور اگر تین آدمیوں نے ایک کو قتل کیا تو استحساناً ان کے واسطے کچھ نہ ہوگا قال المترجم یہ باسلوب عربیت ہے فی قوله ان قتل رجل منکم و قوله من قتل قتیل اور ہماری زبانیں پس میرا گمان ہے کہ ہر صورت میں سوا۔ ایک کے قاتل ہونے کے اس استحسان کے موافق اسباب کا استحقاق نہ ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اگر امام نے کہا کہ جس نے جس کا فر کو قتل کیا تو اس کا اسباب اسی کا ہے پھر ایک مسلمان نے ایک کافر کو تیر یا نیزہ مار کر اس کو گھوڑے سے گرا دیا اور اپنے لشکر میں کھینچ لایا اور کافر مذکور یہاں چند روزہ کر اس زخم سے مر گیا اور ہنوز مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا ہے تو اس مقتول کا اسباب اس کے قاتل ہی کو ملے گا اور اگر کافر مذکور دارالاسلام میں آ کر غنیمت تقسیم ہونے کے بعد مر گیا تو قاتل کو اس اسباب میں بایں خصوصیت کچھ نہ ملے گا اور اگر غازی نے اس کو مجروح کیا اور مشرکوں نے اس مجروح کو چھین لیا اور اپنے لشکر میں لے بھاگے اور غازی نے اس کا اسباب لے لیا پھر اس غازی اور باقی غانمین میں اختلاف ہو چنانچہ غازی نے کہا کہ مجروح مذکور قبل تقسیم غنیمت کے مر گیا اور غانمین نے کہا کہ نہیں بعد تقسیم غنیمت مرا ہے تو قول غانمین کا قبول ہوگا اور غازی کے گواہ ان لوگوں پر قبول نہ ہوں گے الا آنکہ گواہ مسلمان ہوں اور اگر کوئی مرد غازی کسی کافر کو اس کے گھوڑے کی زین سے اٹھا لایا اور صرف یا لشکر کی طرف لاکر اس کو ذبح کر ڈالا تو اس کے اسباب میں سے اس غازی کے واسطے کچھ نہ ہوگا اور ایسا کرنا مکروہ ہے اور اگر اس کو صف

میں اٹھالانے کے بعد اس سے قتال کر کے اس کو قتل کیا تو وہ مستحق اسباب ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے۔

اگر امیر لشکر نے کہا کہ جس نے اکیلے تم میں سے کسی کافر کو قتل کیا وہ اس کے اسباب کا مستحق ہے پھر دو غازیوں نے کسی کو قتل کیا تو اس کے اسباب کے مستحق نہ ہوں گے اور نوادر بن سماء میں امام ابو یوسفؒ سے روایت ہے کہ اگر کسی مسلمان سے کہا کہ اگر تو نے اس کافر کو قتل کیا تو اس کا اسباب تیرے ہی واسطے ہے پس اس مسلمان اور ایک دوسرے مسلمان دونوں نے اس کو قتل کیا تو پورا سامان اسی مسلمان (جس کو امیر نے خطاب کیا تھا کہ اگر تو نے اس کافر کو قتل کیا ۱۲ منہ) کو ملے گا اور دوسرے کے واسطے اس میں سے کچھ نہ ہوگا اور منقحی میں مذکور ہے کہ اگر امام نے دس مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم نے قتل کیا ان دس کو خاصۃً یا دس مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم نے فلاں قریہ کے لوگوں کو اسیر کیا یا قتل کیا تو تمہارے واسطے چنیں و چنان ہے یعنی کوئی غیر معین چیز کی تفصیل کی پھر ان لوگوں کے ساتھ سوائے ان کے اور لوگ بھی شریک ہو گئے بدوں اجازت امام المسلمین کے تو یہ سب کے سب مال غنیمت میں شریک ہوں گے اور فرمایا کہ یہ صورت مشابہ تفصیل شے معین کے نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر امیر نے ایک غازی سے کہا کہ اگر تو نے ایک کافر کو قتل کیا تو تیرے واسطے اس کا اسباب ہوگا پس اس نے دو کافروں کو قتل کیا تو اس کے واسطے خاصۃً اول مقتول کا اسباب ہوگا اور اگر امیر نے تمام اہل لشکر سے کہا کہ اگر تم میں سے کسی مرد نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا پھر ان میں سے ایک نے دس کافروں کو قتل کیا تو ان سب کے اسباب کا مستحق ہوگا یہ استحسان ہے۔

اگر کسی مرد معین سے کہا کہ اگر تو نے کافر کو قتل کیا تو تیرے واسطے اس کا اسباب ہے پس اس نے دو کافروں کو ساتھ ہی قتل کیا تو اس کے واسطے ان میں سے ایک کا اسباب ہے پس دونوں میں سے ایک اسباب جس کو چاہے اختیار کرے اور اختیار کرنے کا کام اس قاتل کو سپرد ہوگا نہ امام کو کذا فی الظہیر یہ اور اسی طرح اگر امیر نے کہا کہ اگر تو نے کوئی قیدی حاصل کیا تو وہ تیرا ہوگا پس اس نے آگے پیچھے دو قیدی پکڑے تو پہلا قیدی اسی کا ہوگا اور اگر اس نے ساتھ ہی دو قیدی پکڑے تو ان میں سے ایک چھانٹ لینے کا اختیار اسی کو ہوگا اور اگر مشرکوں کی صف میں سے دس مشرک نکل کر میدان میں قتال کرنے کو آئے اور مبارز (مقابل کہ ان کے ساتھ لڑائی کے واسطے آئیں ۱۲ منہ) طلب کیے پس امیر نے دس مسلمانوں سے کہا کہ ان کی جانب نکل کر جاؤ اگر تم نے ان کو قتل کیا تو ان کے سامان تمہارے واسطے ہوں گے پس یہ مسلمان نکلے اور ہر مسلمان نے اپنے مقابل کو قتل کیا تو استحساناً ہر قاتل کے واسطے اپنے مقتول کا اسباب ہوگا اور اگر انہوں نے نو مشرکوں کو قتل کیا اور دسواں بھاگ گیا تو استحساناً ان کے اسباب کے مستحق ہوں گے یہ محیط سرخسی میں ہے۔ اگر امیر نے کہا کہ جس نے کافر کو قتل کیا تو اس کے واسطے اسباب ہے پھر ایک ذمی نے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو کر قتال کرتا تھا کسی کافر کو قتل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا۔

اس طرح اگر کسی تاجر نے کسی کافر کو قتل کیا تو وہ بھی اس کے اسباب کا مستحق ہوگا خواہ قبل اس کے وہ قتال کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اور اسی طرح اگر مسلمان عورت یا ذمیہ عورت نے قتل کیا تو وہ اپنے مقتول کے اسباب کی مستحق ہوگی اور اسی طرح اگر غلام نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا خواہ وہ اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ ہو کر قتال کرتا ہو یا نہ کرتا ہو بہر حال یہ لوگ اپنے مقتول کے اسباب کے مستحق ہوں گے اور اگر امیر نے کہا کہ جس نے کسی کافر کو قتل کیا اس کے واسطے اس کا اسباب ہے پس اس

۱۔ عمد نہیں چھوڑا ہے بلکہ اتفاق سے وہ رہا ہو کر اس کے ساتھ مقابل ہو پس مسلمان نے اسے قتل کیا اور عمد بغرض حصول اسباب چھوڑنا حیف و حرام ہے کہ نظر بجھا نہیں بلکہ بحال ہوئی ۱۲۔ ۲۔ شے معین کی تفصیل کرنی مثل غیر معین کی تفصیل کے نہیں ہے ۱۲۔

کلام کو بعض نے سنا اور بعض دیگر نے نہ سنا پھر کسی نے ایک کافر کو قتل کیا تو مقتول کا اسباب اس کو ملے گا اگرچہ اس نے کلام امام کو نہ سنا ہو۔ اگر امام نے کوئی سریہ روانہ کیا اور اپنے اہل لشکر میں کہا کہ میں نے اس سریہ کے واسطے چہارم غنیمت نفل کر دی حالانکہ اہل سریہ میں سے اس کو کسی نے نہ سنا تو استحساناً اہل سریہ کو نفل ملے گی اور اگر امیر نے کہا کہ جس نے قیدی پکڑا وہ اسی کا ہے پھر ایک نے دو یا تین قیدی پکڑے تو سب اسی کے ہوں گے اور اگر امیر نے کہا کہ جو شخص تم میں سے کچھ چیز لایا اس کے واسطے اس چیز میں سے تھوڑا ہوگا پھر ایک شخص کپڑے یا برے لایا تو جس قدر اس میں سے امیر کی رائے میں آئے اس کو دے دے کہ یہ اختیار امیر کے ہاتھ ہے۔ اگر امیر نے کہا کہ جس نے کوئی کافر قتل کیا اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا پس اس نے کسی اجیر کو جو مشرکوں کا مزدور تھا اور ان کے ساتھ ہو کر لڑتا تھا قتل کیا یا ان کے ساتھ کے تاجر کو یا غلام کو جو اپنے مولیٰ کے ساتھ خدمت گزار تھا یا ایسے شخص کو جو عود بالمد مرند ہو کر دارالہرب میں چلا گیا تھا یا ایسے ذمی کو جو عہد توڑ کر مشرکوں حریوں کے ساتھ مل گیا تھا قتل کیا تو قاتل کو ان کا اسباب ملے گا اور اگر اس نے کسی عورت مشرک کو قتل کیا پس اگر وہ قتال کرتی تھی تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر قتال نہ کرتی تھی تو اس کا اسباب قاتل کو نہ ملے گا اور اگر ایسے طفل کو جو نابالغ نہیں ہوا ہے قتل کیا تو اسباب نہ پائے گا۔

اگر حریوں میں سے کسی مریض یا مجروح کو قتل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا خواہ اس مریض یا مجروح کو استطاعت قتال ہو یا نہ ہو۔ اگر بڑھے پھوس کو قتل کیا جس سے خود قتال کرنے یا رائے دینے کا وہم نہیں ہوتا ہے اور نہ اس سے نسل کی امید ہے تو اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے۔ اگر امیر نے کہا کہ جس نے کسی بطریق (بطریق رئیس نصاریٰ مثلاً صوبہ دار وغیرہ ۱۲ھ) کو قتل کیا تو اس کا اسباب اسی قاتل کا ہے پھر بطریقوں میں سے نہیں بلکہ اور کافروں میں سے ایک کو قتل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے ادھیر کو قتل کیا اس کا اسباب اس کے قاتل کا ہے پس اس نے جو ان کو قتل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر امیر نے کہا کہ جو ان قتل کرے پھر اس نے بوزھے کو قتل کیا تو اسباب کا مستحق نہ ہوگا۔ اگر امیر نے کہا کہ جو اسیر کو لایا اس کے واسطے اس قدر نفل ہے پھر ایک شخص و صیف کو پکڑ لایا تو اس کے واسطے کچھ نہ ہوگا اس واسطے کہ اسیر اسم بالغ مذکر کا ہے اور و صیف اسم صغیر کا ہے پس اس نے جنس میں اختلاف کیا اور اسی طرح اگر اس نے کہا کہ جو و صیف لائے اس کے واسطے اس قدر ہے پھر ایک شخص اسیر یعنی بالغ مذکور کو یا دودھ پیتے ہوئے کو گرفتار کر کے لایا تو کچھ مستحق نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے جنس میں خلاف کیا اور اگر امیر نے کہا کہ جس نے مشرکین کے صعلو کون میں سے کسی صعلوک کو قتل کیا تو اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا پھر کسی غازی نے ایک بطریق کو قتل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا اس واسطے کہ بطریق کے اسباب کی قیمت بہ نسبت اسباب صعلوک کے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کہا کہ جو شخص ہزار درہم غنیمت لایا اس کے واسطے اس قدر ہے پھر ایک شخص ہزار دینار لایا تو کچھ مستحق نہ ہوگا اس واسطے کہ خلاف جنس لایا ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگر کافروں نے شکست کھائی اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تو حکم تفصیل مذکور باقی رہے گا:

اگر لشکر اسلام دارالہرب میں داخل ہوا اور قبل ازاں قتال کی نوبت پہنچے امیر لشکر نے کہا کہ جس نے کسی کافر کو قتل کیا اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا تو یہ حکم تفصیل کا ہرقتیل کے حق میں ہے جس کو دارالہرب میں اپنے اسی جہاد میں قتل کریں برابر جاری رہے گا یہاں تک کہ یہ لوگ دارالاسلام میں واپس آئیں اور اگر اسی روز باہم مسلمانوں و مشرکوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور کوئی

فریق دوسرے سے منہزم نہ ہوا حتیٰ کہ پھر دوسرے روز لڑائی ہوئی اور کسی مسلمانوں نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اس واسطے کہ جنگ اول باقی ہے تو تفصیل بھی باقی رہے گی اور اگر کافروں نے شکست کھائی اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تو حکم تفصیل مذکور باقی رہے گا اور اسی طرح اگر کافران حربی شکست کھا کر بھاگے اور اپنے قلعوں میں داخل ہوئے اور مسلمان ان کے تعاقب میں ہیں ہنوز واپس نہیں ہوئے حتیٰ کہ کافروں نے اپنے قلعوں میں قرار پکڑا اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور برابر لڑائی جا رہی تو تفصیل مذکور کا حکم برابر رہے گا اور اگر کافران حربی نے شکست کھا کر اپنے شہروں و قلعوں میں پناہ لی اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا پھر مسلمان لوگ ان کے شہروں و قلعوں میں سے کسی شہر یا قلعہ کی طرف گزرے اور ان کا محاصرہ کیا پھر کسی مسلمان نے کسی ایسے کافر کو قتل کیا جو شکست کھا کر یہاں پناہ گریں ہوا ہے تو اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا اور اس طرح اگر مسلمانوں نے منہزم شدہ کافروں کا پیچھا کیا اور راہ میں ایک قلعہ کی طرف گزر ہوا جس میں سوائے ان منہزم شدہ کافروں کے جن کا تعاقب کیا ہے ایک جماعت کفارہ باقوت منعت ہے پھر ان میں سے کسی کافر کو کسی مسلمان نے قتل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر کوئی بطریق قتل کیا گیا پس اسیر نے کہا کہ جو شخص اس کا سر لائے اس کے واسطے اس قدر نفل ہے پس اگر یہ بطریق مقتول و اس کا سر ایسے مقام پر ہو کہ اس پر قدرت نہیں ہو سکتی ہے الاقبال و خوف تو سر لانے والا مستحق نفل ہوگا اور اگر ایسے مقام پر ہو کہ بغیر قتال و خوف کے اس کا سر حاصل ہو سکتا ہے تو لانے والا کچھ مستحق نہ ہوگا اور اگر امیر نے معین چند لوگوں سے کہا ہو کہ جو شخص تم میں سے اس کا سر لائے اس کے واسطے اس قدر ہے تو یہ تفصیل نہیں بلکہ اجارہ فاسدہ (مزدوری پر مقرر کیا ۱۲۰۱ھ) ہے یہ محیط سرخی میں ہے۔

اگر مسلمانوں و کافروں نے قتال کے واسطے صف بندی کی اور اس وقت میں امیر لشکر نے مسلمانوں سے کہا کہ جو شخص کسی کافر کا سر لایا اس کے واسطے غنیمت میں سے پانچ سو درہم ہیں تو یہ مردوں کے سروں پر ہوگی نہ لڑکوں کے سروں پر چنانچہ جو شخص کسی مرد کافر کا سر لایا وہ مستحق پانچ سو درہم کا ہوگا ورنہ نہیں اور بخلاف اس کے اگر ایسی حالت میں کہ کفار شکست کھا کر بھاگ گئے اور لڑائی بھٹم گئی ہے امیر لشکر نے کسی سے زبان عربی میں کہا کہ من جاء بر اس فله کذا یعنی جو کوئی اس لایا یعنی سر لایا اس کے واسطے پانچ سو درہم ہیں تو یہ قیدیوں پر ہوگی نہ مردوں کے سر کاٹ لانے پر۔ اگر زید ایک مرد کافر کا سر لایا اور کہا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے اور اس کا سر لایا ہوں اور عمر و نے کہا کہ میں نے اس کو قتل کیا مگر اس کا سر اس زید نے لے لیا تو جو شخص اس مقتول کا سر لایا ہے وہی پانچ سو درہم کا مستحق ہوگا اور اسی کا قول قسم سے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے قبول ہوگا اور دوسرے پر اپنے دعویٰ کے گواہ لانا لازم ہیں چنانچہ اگر اس نے مسلمان گواہ پیش کیے کہ اسی نے اس کو قتل کیا ہے تو اسی کے واسطے پانچ سو درہم کا حکم دیا جائے گا اور اگر ایک شخص ایک سر لایا اور مسلمانوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ سردشمنوں میں سے ایک شخص کا ہے جو مر گیا تھا اور اس نے اس کا سر کاٹ لیا اور جو شخص سر لایا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے تو قول اسی کا قبول ہوگا جو سر لایا ہے لیکن اس سے قسم لی جائے گی۔

یہ اس وقت ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ سر کسی مشرک کا سر ہے اور اگر شک پیدا ہوا گیا کہ یہ مسلمان کا سر ہے یا مشرک کا سر ہے اور معلوم نہیں ہوتا ہے تو علامت سے شناخت کی جائے پس اگر اس پر علامت مشرکان ہو مثلاً اس کے بال کترے ہوئے ہوں تو وہ مستحق نفل ہوگا اور اگر اس پر علامت اسلام ہو مثلاً دازھی میں خضاب سرخ ہو تو وہ مستحق نفل نہ ہوگا اور اگر اس طرح بھی شناخت نہیں ہو سکتی او اشتباہ موجود رہا یہ نہ کھلا کہ مسلمان کا سر ہے یا کافر کا تو لانے والا مستحق نفل نہ ہوگا اور اگر زید ایک سر لایا کہتا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے اور اس کے ساتھ عمر و ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے ہی قتل کیا ہے اور زید سے قسم طلب کی پس زید نے قسم اس نفل

(قسم کھانے سے انکار کیا ۱۲ منہ) کیا تو قیاساً دونوں میں سے کوئی مستحق نفل نہ ہوگا اور استحساناً عمر و کو مال نفل دیا جائے گا۔ اگر دو آدمی ایک سر لائے کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے اور سر مذکور دونوں کے قبضہ میں ہے تو مال نفل ان دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا اور اسی طرح اگر تین آدمی یا زیادہ ہوں تو بھی یہی حکم ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر امیر لشکر نے کہا کہ جو اس شہر کے دروازہ سے یا اس قلعہ کے دروازہ سے یا اس مطمورہ کے دروازہ سے داخل ہو اس کے واسطے ہزار درہم ہیں پھر مسلمانوں میں سے ایک قوم ہجوم کر کے ایک بارگی اس میں داخل ہوگئی پھر آگے اس کا ایک دوسرا دروازہ بند نظر آیا تو ان لوگوں کے واسطے نفل کا استحقاق ہوگا اور ان میں سے ہر ایک ہزار درہم کا مستحق ہوگا بخلاف اس کے اگر امیر نے کہا کہ جو اس میں داخل ہو اس کے واسطے چہارم غنیمت ہے پھر دس آدمی ایک بارگی داخل ہوئے تو ان کے واسطے فقط ایک چوتھائی غنیمت ملے گی جس میں سب شریک ہوں گے اور اگر داخل ہوا پھر دوسرا داخل ہوا تو برابر ایسے سب داخل ہونے والے اس مقدار نفل میں شریک ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ دشمن ملتجی ہوئے۔

اگر امیر لشکر نے کہا کہ جو دروازہ مطمورہ (تہہ خانہ) میں داخل ہو اس کے واسطے اس مطمورہ کا بطریق ہے یعنی بطریق مذکور اس کو دیا جائے گا پھر ایک جماعت داخل ہوئی تو ان کے واسطے فقط یہی بطریق ہوگا بخلاف اس کے اگر امیر نے مطلقاً کہا کہ اس کے واسطے بطریق ہے پھر چند لوگ داخل ہوئے تو ہر ایک کو ایک ایک بطریق علیحدہ علیحدہ ملے گا اور اگر قلعہ کے اندر فقط تین بطریق پائے گئے تو ان لوگوں کے واسطے یہی تین بطریق ہوں گے اور کچھ نہ ملے گا بخلاف اس کے اگر کہا کہ جو شخص اس میں داخل ہوا پس واسطے اس کے ایک باندی ہے پھر لوگ داخل ہوئے اور قلعہ فتح ہونے پر دیکھا گیا اس میں فقط دو یا تین باندیاں تھیں تو ہر ایک داخل ہونے والے کے واسطے اوسط درجہ کی باندی کی قیمت ہوگی اس واسطے کہ یہ کہنا کہ اس کے واسطے ایک باندی ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کے واسطے اوسط درجہ کی باندی کی قیمت ہوگی اور اگر یوں کہا کہ تو اس کے واسطے ان کی باندیوں میں سے ایک باندی ہوگی پھر دیکھا گیا تو اس میں فقط دو یا تین باندیوں تھیں تو مثل مذکورہ سابق ان سب داخل ہونے والوں کو یہی باندیاں ملیں گی اور کچھ نہ ملے گا اور اگر امام نے کہا کہ جو اس میں داخل ہو اس کے واسطے ہزار درہم ہیں پس کچھ لوگ جانب دروازہ سے داخل ہوئے اور کچھ لوگ چھت کی طرف سے اس طرح اترے کہ اوروں نے ان کو ان کی اجازت سے لٹکا کر اتار دیا پس ان سب نے قلعہ مذکور فتح کر لیا تو یہ لوگ مال کے مستحق ہوں گے یعنی ہر ایک ہزار درہم کا مستحق ہوگا مگر یہ حکم اس وقت ہے کہ لٹک کر ایسی جگہ پہنچ گئے ہوں کہ اہل قلعہ سے مقابلہ کر سکتے ہوں اور اگر ایسی جگہ ہوں کہ مقابلہ نہیں کر سکتے مثلاً دیوار سے ایک ہاتھ یا دو ہاتھ لٹکے ہوئے ہوں تو یہ لوگ نفل کے مستحق نہ ہوں گے۔

اگر امیر نے تین اشخاص معین سے کہا کہ جو تم میں سے اس قلعہ کے دروازہ سے اولاً داخل ہو اس کے

۱۔ قولہ بخلاف اس کے الخ مترجم کہتا ہے کہ نسخہ میں یہاں مطبوعہ میں یہاں عبارت تعبیر دے کر برخلاف اصل نسخہ کے یوں لکھی بخلاف الوقان ہن دخل افلا جاریہ یعنی قلعہ قیمتہ جاریہ فاینہ یطعی لکل واحد قیمتہ جاریہ وسط اتنی اور مترجم کو اس مقام کی صحت میں بہت تامل ہواں گاہ نظر آیا کہ تعبیر کرنے والے نے اصل نسخہ کی عبارت بھی حاشیہ پر لکھ کر طبع کر دی ہے اس عبارت پر نظر کرنے سے تردد واقع ہوا اور روسی عبارت صحیح ہے پس میں نے اسی کا ترجمہ کیا ہے اور جو عبارت متغیر لکھی گئی وہ غلط ہے اور بدلنے والے کی غلط فہمی ظاہر کیونکہ حاصل مقام یہ ہے کہ امیر نے اگر باصافہ تعقیل کی مثلاً چہارم غنیمت یا بطریق قلعہ یا مملو کہ اہل قلعہ تو اس صورت میں وہ سب ملے گا جو حاصل ہو زیادہ کچھ نہ ملے گا اور اگر امیر نے بلا اضافہ کہا مثلاً جو داخل ہو اس کے لیے ہزار درہم یا غلام یا بطریق یا باندی ہو تو ایسی صورت میں چاہے قلعہ میں سے درہم یا غلام یا باندی ملیں یا نہ ملیں لشکری کو ایسی چیز میں سے اوسط درجہ کی قیمت دی جائے گی اور واضح ہو کہ ظاہر العبادت بدلنے والے حسین کلکتہ میں جنسوں نے مقام کو نہ سمجھا اور عبارت بدل ڈالی متعدد بر۱۲۔

واسطے تین راس بردے ہیں اور درم کے واسطے دو راس اور سوم کے واسطے ایک راس ہے:

اگر لڑکانے والوں نے ان کو لڑکا یا حتیٰ کہ جب بیچ تک پہنچ تو رشتی ٹوٹ گئی اور یہ لوگ قلعہ میں گرے تو ایسی صورت میں بھی مستحق نفل ہوں گے اور اگر امیر نے کہا کہ جو اول داخل ہوا اس کے واسطے تین راس بردے ہیں اور جو درم داخل ہوا اس کے واسطے دو راس اور جو سوم داخل ہوا اس کے واسطے ایک راس ہے پس ایک داخل ہوا پھر ایک اور داخل ہوا تو ہر ایک اس قدر کا مستحق ہوگا جو اس کے واسطے بیان کر دیا ہے اور اسی طرح اگر کہا کہ تم میں جو داخل ہوا اس کے واسطے تین راس بردے ہیں اور دوئم کے واسطے دو راس اور سوم کے واسطے ایک راس ہے تو بھی یہی حکم ہے اور اگر تینوں ساتھ ہی داخل ہوئے تو اول و ثانی کی نفل باطل ہوگئی اور ثالث کی نفل میں یہ لوگ سب مشترک ہوں گے اور اگر اول مرتبہ دو ایک ساتھ داخل ہوئے تو اول کی نفل باطل ہوئی اور دوئم کی نفل میں یہ دونوں شریک ہوں گے اور اگر کسی مرد سے کہا کہ اگر تو اولاً داخل ہوا تو میں تجھے کھانا نہ دوں گا (میں تجھے کچھ نفل نہ دوں گا) اور اگر تو دوبارہ داخل ہوا تو تیرے واسطے دو راس بردے ہیں۔ پھر وہ اولاً داخل ہوا تو قیاساً اس کے واسطے کچھ نہیں ہے مگر استحساناً وہ نفل مشروط یعنی دو بردے کا مستحق ہوگا اور اگر اس سے پہلے ایسی گفتگو نہ ہوئی ہو تو وہ کچھ مستحق نہ ہوگا اور اگر امیر نے تین اشخاص معین سے کہا کہ جو تم میں سے اس قلعہ کے دروازہ سے اولاً داخل ہوا اس کے واسطے تین راس بردے ہیں دوم کے واسطے دو راس اور سوم کے واسطے ایک راس ہے پھر ان تینوں میں سے ایک مرد اس قلعہ کے دروازہ سے داخل ہوا حالانکہ اس کے ساتھ مسلمانوں میں سے ایک جماعت ہے تو تین بردے اسی کے واسطے ہوں گے کہ امیر نے ان تین کی طرف اس تفصیل میں اضافت کر دی ہے چنانچہ یہ کہہ دیا کہ تم میں سے پس مراد اس کی اول سے یہ ہوئی کہ تم میں سے جو اول داخل ہو خواہ تنہا یا عام کے ساتھ آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر امیر نے یوں کہا کہ دو آدمیوں میں سے جو اول داخل ہو پھر ایک مرد داخل ہوا اور اس کے ساتھ چند بہائم گھس گئے یا کہا کہ مردوں میں سے جو اول داخل ہو پھر ایک مرد داخل ہوا اور اس کے ساتھ چند عورتیں گھس گئیں تو یہ اول داخل ہونے والا مستحق نفل مشروط ہوتا ہے پس ایسا ہی صورت مذکورہ میں بھی ہے۔

اگر امیر نے تینوں سے یوں کہا کہ تم میں سے جو شخص کہ لوگوں سے قبل اولاً داخل ہوا تو اس کے واسطے اس قدر نفل ہے پھر ان میں ایک داخل ہوا اور اس کے ساتھ دوسرا شخص بھی انہیں تین میں سے اور لوگوں مسلمان یا کافروں میں سے داخل ہوا تو اس کے واسطے کچھ استحقاق نہ ہوگا۔ اگر امیر نے کہا کہ مسلمانوں میں سے جو شخص اولاً اس قلعہ میں داخل ہوا اس کے واسطے تین بردے ہیں پھر اس قلعہ میں پہلے ایک ذمی داخل ہوا پھر ایک مسلمان داخل ہوا تو وہ نفل مذکور کا مستحق ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ لوگوں میں جو شخص اولاً اس میں داخل ہوا اس کے واسطے تین بردے ہیں پھر ایک ذمی پہلے داخل ہوا پھر ایک مسلمان داخل ہوا تو مسلمان مذکور مستحق نفل نہ ہوگا۔ اگر امیر نے کہا کہ کل جو شخص کہ تم میں سے اولاً اس قلعہ میں داخل ہوا اس کے واسطے ایک بردہ ہے پھر پانچ آدمی ایک ساتھ داخل ہوئے تو ہر ایک داخل ہونے والا ایک راس کا مستحق ہوگا بخلاف اس کے اگر یوں کہا کہ جو داخل ہوا یا کوئی مرد کہ داخل ہوا تو یہ حکم نہیں ہے اس واسطے کہ یہ کلمہ ایک فرد کے واسطے ہے اور اگر امیر نے کہا کہ جو شخص تم میں پانچوں داخل ہوا اس کے واسطے ایک راس ہے پھر پانچ آدمی ایک ساتھ داخل ہوئے تو ان میں ہر ایک داخل ہونے والا پانچویں کی نفل کا مستحق ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے۔

اگر امیر نے کہا کہ جس نے سونا پایا وہ اس کا ہے یا کہا کہ جس نے چاندی پائی وہ اس کی ہے پھر ایک شخص نے تلوار جس میں چاندی یا سونے کا حلیہ ہے پائی تو یہ حلیہ (زیورہ آرائش جیسے تلوار کے قبضہ پر طائی و نقرئی زیور بناتے ہیں) اس کا ہوگا اور تلوار غنیمت میں

ہوگی پس دیکھا جائے گا کہ اگر حلیہ الگ کرنے میں ضرر فاحش نہ ہو تو تلوار میں سے الگ کر کے اس شخص کو دیا جائے گا اور اگر حلیہ الگ کرنے میں حاضر فاحش ہو تو قیمت حلیہ اور قیمت شمشیر پر نظر کی جائے گی پس اگر حلیہ کی قیمت زیادہ ہو تو اس شخص کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہے تلوار کی قیمت دے کر تلوار مع حلیہ اور قیمت شمشیر پر نظر کی جائے گی پس اگر حلیہ کی قیمت زیادہ ہو تو اس شخص کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہے تلوار کی قیمت دے کر تلوار مع حلیہ یعنی اسی طرح محلی نے لے اور اگر تلوار کی قیمت زیادہ ہو تو امام کو اختیار ہوگا یہ چاہے اس شخص کو حلیہ کی قیمت جنس حلیہ کے خلاف سے جو ساختہ ہو دے دے یعنی اگر حلیہ چاندی کا ہے تو دیناروں سے اس کی قیمت یا سونے کا ہے تو درہموں سے اس کی قیمت دے دے اور تلوار مع حلیہ کے غنیمت میں داخل کر دے اور چاہے حلیہ اس کے پاس چھوڑ دے اور اگر دونوں میں سے کسی نے نہ لی تو تلوار فروخت کر دی جائے گی اور اس کا ثمن اس تلوار کے پھل اور حلیہ کی قیمت پر تقسیم کیا جائے گا پس ثمن میں سے جو حصہ قیمت حلیہ کے پڑتے میں پڑے وہ اس شخص کا ہوگا جس کے واسطے نفل کی گئی تھی اور باقی داخل غنیمت ہوگا اور کتاب میں یہ مذکور نہیں ہے کہ اگر تلوار کی اور حلیہ کی قیمت مساوی ہو تو کیا حکم ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ اس صورت میں امام کو اختیار حاصل ہونا چاہے یہ محیط میں ہے۔

اگر امیر نے کہا کہ جس نے زیور پایا وہ اسی کا ہے پھر ایک نے کافروں کے بادشاہ کا تاج پایا تو یہ اُس کا نہ ہوگا:

اگر سرخ (زین جس میں چاندی کا کام ہے) مفضض یا لگام مفضض یا جلد بندھی ہوئی مفضض جس میں وہ اپنی کتابیں لکھتے تھے ایسے شخص نے پائی جس کی نسبت امام نے سونا و چاندی نفل کر دی ہے تو اس کو فقط چاندی ملے گی اور اصل شے داخل غنیمت ہوگی اور اسی طرح اگر سونے یا چاندی کا زیور جس میں گنیمتیں جڑے ہیں یا انگوٹھی جس پر گنیمتیں ہے پائی تو زیور اس کا ہوگا اور اس میں سے سب گنیمت نکال کر غنیمت میں داخل کیے جائیں گے۔ اگر اس نے کواڑ پائے جس میں چاندی کی کیلین اس طرح جڑی ہیں کہ اگر اس نے جدا کی جائیں تو دروازہ تباہ ہو جائے حتیٰ کہ دروازہ نہ باقی رہے تو ایسی حالت میں اس کو کچھ نہ ملے گا اور اسی طرح اگر زین میں اس طرح کی کیلین جڑی ہوں یا اس پر ایک یا دو پھلیاں اس طرح ہوں کہ اکھاڑ لینے کی صورت میں زین نہیں رہتی ہے تباہ ہوئی جاتی ہے تو بھی اس کو کچھ نہ ملے گا اور اگر اس نے مشرکوں میں سے کوئی شخص گرفتار کیا جس نے اپنے دانت سونے سے باندھے تھے تو اس کو یہ سونا نہ ملے گا بخلاف اس کے اگر اس نے اپنی ناک سونے کی بنا کر لگائی ہو تو اس کو یہ ناک ملے گی اور اگر امیر نے کہا کہ جس نے زیور پایا وہ اسی کا ہے پھر ایک نے کافروں کے بادشاہ کا تاج (شرعاً ناجائز ہے ہذا ہوا اصل ۱۲۰۱ء) پایا تو یہ اس کا نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر تاجہائے زمانہ میں سے ہو تو اس کا ہوگا اور اگر اس نے موتی یا یاقوت یا زمرہ پایا جس میں کچھ سونا نہیں ہے تو امام اعظم کے نزدیک اس کو کچھ نہ ملے گا اور صاحبین کے نزدیک یہ اسی کے ہوں گے۔

اگر امیر نے کہا کہ جس نے لوہا پایا وہ اسی کا ہے اور جس نے سوائے اس کے کچھ پایا تو اس کو اس کا نصف ہے تو لوہا سب اسی کو ملے گا خواہ پتر ہو یا برتن یا ہتھیار وغیرہ اور رہا جنس تلوار اور چھری سواں میں سے نصف اس کا ہوگا کیونکہ وہ غیر حدید ہے اور اگر کہا کہ جس نے سونا یا چاندی پائی وہ اس کی ہے پھر ایک نے سونے کی بافت کا کپڑا پایا پس اگر سونا اس کا تار ہو تو اس کو کچھ نہ ملے گا یہ محیط سرخسی میں ہے۔ اگر امیر نے اہل لشکر سے کہا کہ جس نے تم میں سے سونا پایا تو اس میں سے اس کے واسطے اس قدر ہے تو اس

۱۔ ظاہر حکم مطلق ہے کہ گنیمت اکھاڑنے سے ضرر فاحش ہو یا نہ ہو اور شاید محلی تلوار کے مانند تفصیل ہو ۱۲۔ ۲۔ ہفتن نیام یعنی تلوار و خنجر کا میان جس میں ان ہتھیاروں کو رکھتے ہیں ۱۲۔

تفیل کی تحت میں دراہم مضروبہ و سونے کا زیور و تیر سب داخل ہوں گے اور اسی طرح اگر کہا کہ جس نے چاندی پائی تو تفیل کے تحت میں دراہم مضروبہ چاندی کا زیور و چاندی کا تیر سب داخل ہوں گے یہ محیط میں ہے۔ اگر کہا کہ جس نے قز پائی وہ اسی کی ہے پھر ایک شخص نے قبایحید پایا جس کی تہ میں قز بھری ہے تو اس کے واسطے کچھ نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے قز کا کپڑا پایا وہ اسی کا ہے پھر ایک شخص نے جبہ پایا جس کا استر قز کا اور ابرہ اور کپڑا ہے تو اس کو قز کا کپڑا ملے گا اور دوسرا کپڑا داخل غنیمت ہوگا پس یہ جبہ فروخت کر دیا جائے گا اور اس کا ثمن اس کے استر کی قیمت اور باقی کی قیمت پر تقسیم کیا جائے گا چنانچہ جس قدر قیمت استر ہو وہ اس شخص کو دے دیا جائے گا اور باقی داخل غنیمت ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے جبہ حریر پایا وہ اسی کا ہے پھر ایک نے جبہ پایا جس کا ابرہ یا استر حریر ہے پس اگر اس کا ابرہ حریر ہو تو پورا جبہ اسی کا ہوگا اور اگر استر حریر ہو تو اس کے واسطے اس میں سے کچھ نہ ہوگا اور اگر کہا جس نے جبہ خز پایا وہ اسی کا ہے پھر ایک نے ایک جبہ پایا جس کا ابرہ خز ہے اور استر سمور یا قز تو کچھ نہ ملے گا اس واسطے کہ جبہ کی نسبت سمور فانک کی طرف ہوتی ہے نہ خز کی طرف یعنی سمور کا جبہ کہلائے گا خز کا نہ کہلائے گا اور اگر کہا کہ جس نے خز کا کپڑا پایا وہ اسی کا ہے پھر ایک نے جبہ خز پایا کہ اس کا استر سمور یا فانک ہے تو اس میں فقط ابرہ اس کا ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے فانک پایا وہ اسی کا ہے پھر ایک نے جبہ خز پایا جس کا استر فانک ہے تو استر اسی کا ہوگا اس واسطے کہ استر کپڑا کہلاتا ہے۔

اگر کہا کہ جس نے ”بز“ حاصل کیا تو یہ لفظ روئی اور کتان کے کپڑوں پر ہوگا:

اگر معین کر کے کہا کہ جس نے یہ جبہ خز پایا وہ اسی کا ہے پھر ایک نے اس کو پایا پھر دیکھا گیا تو اس کا استر فانک وغیرہ کسی دوسرے کپڑے کا ہے تو پورا جبہ اسی کا ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے تم میں سے قبائے خز یا قبائے مروی پائی وہ اسی کی ہے پھر ایک نے اس صنف کی قبائے پائی جس کا استر خز نہیں ہے یا مردی نہیں ہے تو اس کو فقط ابرہ ملے گا اور اگر کہا کہ جو جزرہ لایا وہ اسی کے واسطے ہے پھر ایک جزرہ یا گائے یا بیل لایا تو اس کو کچھ نہ ملے گا اور اگر کہا کہ جو جزور لایا وہ اسی کے واسطے ہے پھر ایک شخص ناقہ یا اونٹ لایا تو اسی کے واسطے ہوگا اور اگر کہا کہ جو شخص بکر لایا وہ اسی کے واسطے ہے پھر ایک شخص بھینس لایا تو اس کے واسطے کچھ نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جو شخص کیش لایا وہ اسی کے واسطے ہے پھر ایک شخص نعجہ یا مغر لایا تو اس کو کچھ نہ ملے گا یہ محیط سرخی میں ہے۔ اگر کہا کہ جس نے بز حاصل کیا تو یہ لفظ روئی کے اور کتان کے کپڑوں پر ہوگا ایسا ہی امام محمد نے سیر کبیر میں ذکر فرمایا ہے اور مشائخ نے کہا کہ یہ اہل کوفہ کے عرف پر ہے کیونکہ اہل کوفہ کے عرف میں بز کا لفظ روئی و کتان کے کپڑے پر واقع ہوتا ہے اور ان کا بیچنے والا بز از کہلاتا ہے اور ہمارے دیار کے عرف میں بز کا لفظ روئی و کتان پر واقع نہیں ہوتا ہے اور ان کا بائع بز از نہیں کہلاتا ہے بلکہ کرباسی کہلاتا ہے اور ہمارے عرف میں بز کا لفظ فقط ریشمی کپڑوں پر واقع ہوتا ہے اور اسی کے بائع کو بز از بولتے ہیں۔

قال المترجم ہمارے عرف میں بز از ہر قسم کے کپڑے فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں کچھ خصوصیت ریشمی و روئی و کتان کی نہیں ہے اور لفظ بز کا استعمال بطور عرف نہیں ہے۔ ثوب کا اطلاق شامل ہے دیباچ کو و برسوں کو یعنی سندس و قزد کساء اور اس کے مانند کو اور نہیں شامل ہے فرش و ناٹ و مکمل و پردہ وغیرہ کے مانند کو اور اس لفظ کے تحت میں ٹوپی و عمامہ داخل نہیں ہے اور لفظ متاع کا اطلاق کپڑوں و قمیص و فرش و پردوں پر ہوتا ہے پس اگر ثوب کی نفل کردی اور اس نے ان میں سے کوئی چیز پائی تو اس کا مستحق ہوگا اور اگر ظروف و چھاکلین و قمقمے و پتیلیاں تانبے یا پتیل کی پائیں تو اس کو کچھ نہ ملے گا۔ اگر امیر لشکر اسلام نے دار الحرب میں داخل

۱۔ قولہ دراہم مضروبہ ظاہر یہ ہو ہے اور صحیح یہ ہے دینار ہائے مضروبہ ۱۲۔ ۲۔ جزرہ جیم و سکون زامنقوٹہ بعدہ راہ مہملہ گو سپند فریبہ اور جزرہ بمعنی ایک گو سپند

ہونے کا قصد کیا اور اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس زرہیں کم ہیں حالانکہ ان کو اپنے قتال میں اس کی ضرورت ہے پس اس نے کہا کہ جو شخص زرہ کے ساتھ داخل ہوا اس کے واسطے غنیمت میں سے اس قدر نفل ہے یا کہا کہ اس کے واسطے مثل حصہ غنیمت کے حصہ ہے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور اسی طرح اگر کہا کہ جو شخص دوزرہ کے ساتھ داخل ہوا اس کے واسطے اس قدر ہے تو اس میں بھی کچھ مضائقہ نہیں ہے اور اگر کہا کہ جو شخص تین زرہوں کے ساتھ داخل ہوا اس کے واسطے تین سو ہیں اور جو چار زرہوں کے ساتھ داخل ہوا اس کے واسطے چار سو ہیں تو ان میں سے دوزرہوں کی نفل جائز ہے اور اس سے زیادہ جو کچھ ہے اس کی نفل نہیں روا ہے یعنی ابتداء سے منعقد ہی نہ ہوگی اور امام محمد نے فرمایا کہ اگر تین زرہوں کا پہنا ممکن ہے اور ان کو پہن کر قتال کر سکتا ہے اور اس میں مسلمانوں کے حق میں کچھ زیادہ نفع ہے تو تین کے ساتھ بھی نفل جائز ہوگی۔ اگر امیر نے کہا کہ جو شخص گھوڑے کے ساتھ داخل ہوا اس کے واسطے اس قدر ہے تو ایسی تفصیل نہیں روا ہے بخلاف اس کے اگر کہا کہ جو شخص زرہوں کے ساتھ داخل ہوا۔

اس کے واسطے اس قدر ہے کہ جائز ہے اور نوزدر میں نیزوں و ڈھالوں کے ساتھ داخل ہونے کی صورت ذکر کر کے جواب دیا کہ اس کی تفصیل بھی جائز ہے اور اسی طرح اگر امیر نے گھوڑے سواروں سے کہا کہ جو شخص تم میں سے داخل ہوا اور حالیکہ اس کے گھوڑے پر ایک تجفاف ہے تو اس کے واسطے اس قدر ہے اور جو اس طرح داخل ہوا کہ اس کے گھوڑے پر دو تجفاف ہیں تو اس کے واسطے اس قدر نفل ہے تو جاننا چاہیے کہ یہ مسئلہ بعض نسخوں میں مذکور ہے اور اس کی صورت میں ذکر کیا کہ ایک شخص دو تجفاف کے ساتھ داخل ہوا اور اس کے ساتھ دو گھوڑے ہیں تو دونوں کے واسطے جو نفل قرار دی ہے وہ جائز ہے اور بعض نسخوں میں ہے کہ ایک شخص دو تجفاف کے ساتھ داخل ہوا اور اس میں دو گھوڑوں کے ساتھ ہونے کا ذکر نہیں ہے اور جواب دہی مذکور ہے کہ دونوں کی تفصیل جائز ہے اور حکم دونوں حال میں صحیح ہے۔ اگر امیر نے کہا کہ جو شخص تم میں سے تین تجفاف کے ساتھ داخل ہوا تو اس کے واسطے اس قدر ہے تو دو تجفاف کی نفل جائز ہوگی اور اس سے زیادہ کی جائز نہ ہوگی اور شیخ الاسلام نے کہا کہ اس صورت میں دو سے زیادہ کی بھی جائز ہوگی کہ تین تجفاف میں اس کے حق میں اور مسلمانوں کے حق میں منفعت ہو جیسے تین زرہوں کی صورت میں مذکور ہوا ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر امیر نے کسی کو دیوار قلعہ پر دیکھا جو مسلمانوں سے قتال کرتا ہے پس کہا کہ جو شخص چھت پر چڑھ کر اس کو پکڑ لائے تو وہ اسی کے واسطے اور پانچ سو درہم ہیں پھر ایک شخص چڑھ کر پکڑ لایا تو بھی پوری نفل پائے گا۔

امیر نے دیوار قلعہ پر کسی کو دیکھا کہ جس نے اسکو گرفتار کیا اسی کا ہے پھر مرد مذکور دیوار پر سے باہر کی جانب گر پڑا:

اگر یہ شخص دیوار قلعہ سے باہر کی طرف گر پڑا حالانکہ امیر نے اس کی گرفتاری کے واسطے نفل مذکور مقرر کر دی تھی پھر اس کو کسی مسلمان نے گرفتار کر کے قتل کر دیا تو اس کو کچھ نفل نہ ملے گی اور اگر دیوار قلعہ سے اس کو کسی مسلمان نے تیر مار کر گرا دیا تو وہ نفل کا مستحق ہوگا اور اگر کوئی شخص دیوار پر چڑھ گیا اور اس کا قصد کیا حالانکہ وہ دیوار سے اندر قلعہ کی جانب گر پڑا ہے پس اس کو قتل کر دیا تو نفل کا مستحق ہوگا اور اگر امیر نے دیوار قلعہ پر کسی کو دیکھ کر کہا کہ جس نے اس کو گرفتار کیا اسی کا ہے پھر مرد مذکور دیوار پر سے باہر کی جانب گر پڑا اور کسی نے اس کو پکڑا تو دیکھا جائے گا کہ اگر ایسے مقام پر گرا ہے کہ مسلمانوں کی گرفتاری سے روکا جاتا ہے تو گرفتار کرنے والے کا ہوگا اور اگر ایسے مقام پر گرا ہو کہ مسلمانوں کے گرفتار کرنے سے روکا نہیں جاتا ہے تو اس کا نہ ہوگا اور اگر امیر نے کہا

تجفاف اپنہ یعنی وہ پکڑا کہ گھوڑے کا پسینہ خشک کرنے کے واسطے اس کی پیٹھ پر زین کے نیچے رکھتے ہیں ہندی میں اس کو تیرا تلوار اور اردو میں عرق گیر کہتے ہیں ۱۲۔

کہ جو قلعہ پر چڑھ کر اہل قلعہ پر اثر اس کے واسطے اس قدر ہے پھر ایک شخص دیوار پر چڑھ گیا مگر اندر نہیں اتر سکتا ہے تو اس کے واسطے کچھ نہ ہوگا اور اگر امیر نے ایک ٹلمہ (روزن کو کہتے ہیں جس کو ہندی میں موسیٰ بولتے ہیں ۱۲ منہ) دیکھ کر کہا جو ٹلمہ سے داخل ہوا اس کے واسطے اس قدر ہے پھر ایک شخص دوسرے ٹلمہ سے داخل ہوا تو دیکھا جائے گا کہ اگر دوسرا ٹلمہ سختی و تکلف متعہ میں مثل اول کے ہو تو وہ نفل کا مستحق ہوگا اور اگر اس سے کم ہو تو کچھ مستحق نہ ہوگا۔

اگر امیر نے کہا کہ جو شخص ہم کو راہ بتا دے دس نفر رقیق پر اس کے واسطے ایک نفر ہے پھر ایک نے بتائی اور اس کے بتانے کے پتہ و نشان پر مسلمان لوگ گئے اور یہ راہ بتانے والا ان کے ساتھ نہ گیا اور انہوں نے رقیق پائے تو راہ بتانے والے کے لیے کچھ نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر امیر نے حربی قیدیوں سے کہا کہ تم میں سے جس نے دس نفر پر رہنمائی کی وہ آزاد ہے پھر ان میں سے ایک نے دس نفر پر راہ بتائی اور خود ساتھ نہ گیا اور مسلمان لوگ پتہ و نشان بتائے ہوئے پر گئے اور وہاں انہوں نے دس نفر اسیر کیے تو راہ بتانے والا آزاد ہوگا لیکن چھوڑ دیا جائے گا کہ دار الحرب میں واپس جائے لیکن اگر قیدی مذکور نے یہ شرط کر لی ہو کہ جب میں تم کو راہ بتا دوں اور پہنچا دوں تو میں آزاد ہوں تم مجھے چھوڑ دوں کہ میں اپنے شہر کو چلا جاؤں تو اس صورت میں کہ اس نے راہ بتائی اور مسلمان اس طرح پہنچ گئے تو اس کی راہ چھوڑ دی جائے گی اور اگر اسیر نے کہا کہ میں تم کو دس لڑنے والوں پر راہ بتا دوں گا اور میں آزاد ہوں پس امام نے کہا کہ ہاں پھر وہ گیا اور اس نے راہ بتائی یعنی دس مل گئے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر امام نے اہل حرب سے کہا کہ ہم کو سفر نفی و بدین شرط کہ تم لوگ اپنے قلعوں میں امن سے رہو پس انہوں نے نوے نفر دیے تو امام کو روا ہے کہ ان سے مقاتلہ کرے لیکن جس قدر ان سے لیے ہیں ان کو واپس کر دے گا اور اگر یہ لوگ سب مسلمان ہو گئے یا بعض مسلمان ہو گئے تو ان کی قیمت واپس کر دے گا اور اگر امام نے سردار اہل قلعہ سے کہا کہ تمہارے پاس جو سو نفر مسلمان قیدی ہیں ہم کو دے دو بریکہ تم امن سے ہو پھر اس نے نوے نفر دیے تو ان سے مقاتلہ کرے اور اس میں سے کوئی بھی واپس نہ دے گا اور نہ کچھ معاوضہ میں واپس دے گا۔

اگر امیر نے کسی قیدی سے کہا کہ جس نے ہمیں ولالت کی دس قتال کرنے والوں پر یعنی ایسے دس آدمیوں حربیوں پر جو قتال کرنے کی قدرت رکھتے ہیں تو وہ آزاد ہے پھر ایک قیدی نے ان کو لے جا کر ایسے دس حربیوں پر دلالت کی جو ایک قلعہ کے اندر ہیں کہ ان پر دسترس نہیں ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر اس نے ایسے دس حربیوں پر دلالت کی جن پر دسترس ہی بوجہ قلعہ وغیرہ کے ممتنع نہیں ہے لیکن وہ مسلمانوں سے بھاگ گئے تو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ مسلمانوں کے قریب ہو جانے سے پہلے بھاگ گئے تو مقہور کر لینے و غالب ہو جانے کی دلالت اس کے طرف سے نہ پائی گئی پس وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر مسلمانوں کے قریب ہو جانے کے بعد وہ بھاگ گئے تو وہ آزاد ہوگا اور اگر امیر لشکر نے قیدیوں سے کہا کہ جس نے ہم کو فلاں قلعہ یا ایسے جنگل یا لشکر گاہ شاہی کی دلالت کی تو وہ آزاد ہے پھر ان میں سے ایک نے ان کو اس طرح رہنمائی کی مگر اہل اسلام ظفر یاب نہ ہوئے تو قیدی مذکور آزاد ہوگا اور اگر امیر نے دار الحرب میں غنائم حاصل کیے اور دارالاسلام کی طرف متوجہ ہو اور کہا کہ جو شخص ہم کو دارالاسلام کے سیدھے راستہ پر دلالت کرے اس کے واسطے ایک نفر ہے پھر ایک مسلمان نے اس کو پتہ و نشان بتا کر راہ دارالاسلام کی رہنمائی کی اور خود ساتھ نہ گیا تو وہ کچھ مستحق نہ ہوگا اور اگر ان کے ساتھ گیا اور راستہ کی دلالت کی تو اس کو اس کا اجر المثل ملے گا کہ مسمی سے متجاوز نہ ہوگا یعنی اگر ایسے رہنمائی کرنے والے کی اجرت ایک نفر بردہ ہو تو اس کو بردہ ملے گا اور اگر کم ہو تو کم ملے گی اور اگر زیادہ ہو تو بردہ سے زیادہ نہ ملے گی۔

تاجر لوگ اہل استحقاقِ غنیمت سے ہیں پس وہ مستحقِ نفل بھی ہوں گے:

اگر کہا کہ جس نے ہم کو راہ کی دلالت کی تو اس کے واسطے اس کی اہل و اولاد ہوگی پھر ایک قیدی نے اس کو راہ بتلائی تو یہ لوگ یعنی قیدی و اس کے اہل و اولاد اپنے قیدی ہونے میں مثل سابق اسیر ہوں گے اور اگر کہا کہ تو اس کے واسطے اس کی جان اور اس کے اہل و اولاد و سودر ہم از غنیمت ہوں گے پھر اس نے رہنمائی کی تو اس کے واسطے یہ سب ہوں گے اور اگر کہا کہ اگر کسی نے ہم کو فلاں حصن کے راہ کی رہنمائی کی تو وہ آزاد ہے پھر ایک قیدی نے ان کو اس قلعہ کی کئی راہوں میں سے جو سب سے ذور کی راہ تھی وہ بتلائی تو وہ آزاد ہو جائے گا بشرطیکہ لوگ یہ راہ چلتے ہوں اور اگر لوگ اس راہ سے وہاں نہ جاتے ہوں تو وہ آزاد نہ ہوگا۔ اگر امیر نے کہا کہ جس نے ہم کو فلاں قلعہ کی فلاں راہ بتلائی تو وہ آزاد ہے پھر ایک قیدی نے اس کو سوائے اس راہ کے دوسری راہ کی دلالت کی تو دیکھا جائے گا کہ جس راہ کو امیر نے بیان کیا ہے یہ دوسری راہ فراخی اور رفاہیت میں اس کے مثل ہو تو وہ آزاد ہوگا اور اگر اس دوسری راہ میں بد نسبت راہ مذکورہ امیر کے مشقت زیادہ ہو تو آزاد نہ ہوگا یہ محیط سرحدی میں ہے۔ امیر لشکر نے اگر دار الحرب میں اہل لشکر کو تنفیل کی اور کہا کہ جس نے کراع و سلاح و متاع وغیرہ ایسی چیزوں سے کچھ حاصل کیا تو اس کے واسطے اس میں سے چہارم ہے تو اس تنفیل کے تحت میں ہر وہ آدمی داخل ہوگا جس کو مال غنیمت میں سے بطور سہم یا بطور انفق کے کچھ ملتا ہے اور جس کو سہم بارضی کی طرح کچھ غنیمت سے نصیب نہیں ملتا ہے وہ اس تنفیل میں داخل نہ ہوگا پس عورتیں و لڑکے و غلام و اہل ذمہ کہ جن کو غنیمت میں سے بطور رضح ملتا ہے وہ اس نفل کے مستحق ہوں گے یہ محیط میں لکھا ہے۔ لیکن اگر امام نے آزاد بالغ مسلمانوں کی تخصیص کر دی ہو تو ایسی صورت میں عورتوں و لڑکوں و غلاموں و اہل ذمہ کو اس تنفیل میں کچھ استحقاق نہ ہوگا یہ محیط سرحدی میں ہے اور تاجر لوگ اہل استحقاق غنیمت سے ہیں پس وہ مستحق نفل بھی ہوں گے اور جو حرینی کہ اس نے ہم سے امان کر لی ہے اگر بدوں اجازت امام کے اس نے قتال کیا ہو تو اس کے واسطے غنیمت سے کچھ نہیں ہے پس وہ مستحق نفل بھی نہ ہوگا اور اگر اس نے باجائزت امام قتال کیا ہو تو بطور رضح کے وہ مستحق غنیمت ہے پس وہ مستحق نفل بھی ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر امام نے کہا کہ جس نے تم میں سے کسی کو قتل کیا تو اس کا اسباب اسی کے واسطے ہے پھر اہل حرب میں سے کوئی قوم مسلمان ہوگئی اور ان میں سے کسی نے کسی مشرک کو قتل کیا یا لشکر کے بازاریوں میں سے کسی نے کسی مشرک کو قتل کیا تو قیاساً وہ مستحق اسبابِ مقتول نہ ہوگا اور استحساناً اس کے اسباب کا مستحق ہوگا۔ اگر کہا کہ جس نے کسی کو قتل کیا تو اسی کا اسباب اسی کے واسطے ہے پھر اس لشکر کی مدد کے واسطے دوسرا لشکر دارالاسلام سے داخل ہوا اور ان میں سے کسی نے کسی مشرک کو قتل کیا تو اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا بشرطیکہ سردار اول ہے دونوں لشکروں کا سردار ہو اور اصل یہ ہے کہ جس کا قتل فی الجملہ مباح ہو تنفیل میں اس کے قتل کر ڈالنے سے اس کے اسباب کا مستحق ہوتا ہے اور ہر اسباب کہ اگر اس میں تنفیل نہ ہو تو بذریعہ غنیمت کے اس کا استحقاق ثابت ہو تو اس کی تنفیل صحیح ہے اور جس اسباب کا استحقاق بذریعہ غنیمت نہیں ہوتا ہے اس کی تنفیل بھی صحیح نہیں ہے۔ پس اگر امیر نے کہا کہ جس نے تم میں سے کسی کا قتل کیا اس کا اسباب اسی کا ہے پھر ایک غازی نے کسی اجیر اہل حرب کو جس نے مسلمانوں سے قتال نہیں کیا ہے یا کسی تاجر حرینی کو جو ان کے لشکر میں ہے یا کسی ذمی کو جو عہد توڑ کر حریبوں کی طرف چلا گیا ہے یا کسی حربی مریض کو جو قتال کرنے پر قادر نہیں ہے قتل کر دیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اس واسطے کہ ان لوگوں کا قتل مباح ہے اور اگر کسی عورت یا طفل کو قتل کیا تو اس

کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ یہ دونوں مقاتل ہوں اور اگر کسی بڑھے پھوس کو قتل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کسی مسلمان نے کفار کے ساتھ ہو کر مسلمان سے قتال کیا اور اس مسلمان کو کسی غازی نے قتل کر دیا تو نفل میں اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا اس واسطے کہ مسلمان اور جو اس کے ساتھ ہے وہ غنیمت نہیں ہو سکتا ہے اور اگر یہ اسباب جو اس کے پاس ہے مشرکوں نے اس کو عاریت دیا ہو پس مسلمانوں نے اُس کو قتل کیا تو اس اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر حربیوں کی عورت یا طفل نے کسی مشرک کو اپنا اسباب عاریت دیا ہو جو اس کے پاس ہے پس کسی غازی نے اس مشرک کو قتل کیا تو یہ اسباب ایسا ہے کہ جیسے اہل حرب میں سے بالغ کا اسباب اس کے پاس عاریت ہو یعنی یہ اسباب نفل و غنیمت ہوگا۔

اگر کسی مسلمان نے کسی مشرک کو درحالیکہ وہ اپنی صف میں ہے تیر مار کر قتل کیا اور مشرکوں نے اس مقتول کا اسباب اتار لیا پھر کافروں نے شکست کھائی اور یہ اسباب مالِ غنیمت میں پایا گیا تو وہ غنیمت ہی ہوگا اور قاتل کو نہ ملے گا:

اگر مسلمان یا ذمی نے اپنے ہتھیار کسی حربی کو عاریت دیئے اور اس نے مسلمانوں سے قتال کیا اور کسی غازی نے اس حربی کو قتل کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر یہ مسلمان ہیں دارالحرب میں مسلمان ہو اور ہنوز ہمارے یہاں ہجرت کر کے نہیں آیا تو اس حربی مقتول کا اسباب اس کے قاتل کا ہوگا اور یہ امام اعظمؒ کا قول ہے اور صاحبین نے اس میں خلاف کیا ہے اور یہ اختلاف اس بناء پر ہے کہ ایسے مسلمان کا مال امام اعظمؒ کے نزدیک غنیمت ہوتا ہے اور صاحبین کے نزدیک نہیں ہوتا ہے اور اگر یہ عاریت دینے والا مسلمان دارالاسلام کا ہے تو حربی مذکور مقتول کا ایسا اسباب نفل نہ ہوگا کیونکہ ایسے مسلمان کا مال بالاتفاق غنیمت نہیں ہوتا ہے اور اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں مسلمان ہو اور دارالاسلام میں ہجرت کر کے نہیں آیا ہے پھر کسی حربی نے براہِ غصب اس کے ہتھیار لے کر ان سے قتال کیا اور کسی مسلمان نے اس کو قتل کیا تو قاتل اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان امان لے کر دارالحرب میں داخل ہو اور کسی مشرک نے اس کے ہتھیار غصب کر لیے اور انہیں ہتھیاروں سے لشکر اسلام سے قتال کیا اور کسی غازی نے اس کو قتل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا۔ اگر کسی مسلمان نے کسی مشرک کو درحالیکہ وہ اپنی صف میں ہے تیر مار کر قتل کیا اور مشرکوں نے اس مقتول کا اسباب اتار لیا پھر کافروں نے شکست کھائی اور یہ اسباب مالِ غنیمت میں پایا گیا تو وہ غنیمت ہی ہوگا اور قاتل کو نہ ملے گا اور اگر کافروں نے شکست کھائی اور بھاگے اور یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے اس کا اسباب اتار لیا ہے یا نہیں اتارا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر انہوں نے اس کے تن سے اسباب اتارا ہے اور پایا گیا تو وہ فنی ہوگا اور اگر مقتول کے تن سے کچھ نہیں اتارا ہے تو وہ سب قاتل کا ہوگا۔ اسی طرح اگر اس کے مقتول ہونے پر مشرک لوگ اس کو کھینچ لے گئے اور ہنوز اس کا اسباب اس کے تن پر ہے اس میں سے کچھ نہیں اتارا گیا ہے کہ کافروں نے شکست کھائی اور بھاگے تو اس کا اسباب قاتل کا ہوگا۔

اگر لشکر ایک مرحلہ یا دو مرحلہ چلا تھا کہ لوگوں نے اس اسباب کو کسی جانور پر لدا ہوا پایا اور یہ معلوم نہیں کہ یہ کسی شخص کے ہاتھ میں تھا یا نہیں تو قیاساً یہ اسباب قاتل کا ہوگا اور استحساناً نہ ہوگا اور اگر مشرکین نے اس کا جانور پکڑ لیا اور اس پر مقتول کو لاد لیا حالانکہ اسباب مقتول اس کے تن پر موجود ہے پھر مسلمانوں نے اس کو پکڑا تو اسباب مذکور قاتل کا ہوگا اور اگر کافروں نے مقتول کے جانور پر مقتول کو اور اس کے ہتھیاروں اور اپنے ہتھیاروں اور متاع کو لاد لیا پھر یہ گرفتار کیا گیا تو یہ فنی ہوگا الا اس صورت میں کہ

اسباب دیگر بہت خفیف مثل لوٹے وغیرہ کے ہو تو اسباب مذکور قاتل کا ہوگا اور اگر وارثان مقتول نے اس کا جانور پکڑ لیا اور اس پر مقتول اور اس کے ہتھیاروں کو لاد لیا تو یہ فنی ہوگا اور اسی طرح اگر وصی ہو تو بمنزلہ وارث کے ہے اور اگر امیر نے کہا کہ جس نے کسی مشرک کو قتل کیا تو اس کے واسطے اس کا فرس^۱ ہے پھر ایک نے ایسے مشرک کو جو بزون (دونام گھوڑا جو فرس نہیں کھاتا ۱۲ منہ) پر سوار ہے قتل کیا تو قاتل اس کے اسباب کا مستحق ہوگا۔ اگر گدھے یا خچر یا اونٹ پر سوار ہو تو اس کے سلب کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے کسی مشرک کو قتل کیا تو قاتل کے واسطے اس کا بزون ہے پھر کسی مشرک کو جو فرس پر سوار ہے قتل کیا تو اس کے فرس کا مستحق نہ ہوگا اس واسطے کہ گھنیا چیز کی تشفیل سے وہ بڑھیا چیز کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے کسی کافر کو قتل کیا تو مقتول کا روا ہے یعنی جانور سواری قاتل کے واسطے ہے پھر کسی کافر کو جو گدھے یا خچر یا فرس پر سوار تھا قتل کیا تو اس جانور کا مستحق ہوگا اور اگر اونٹ پر سوار تھا تو اونٹ کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے کسی مشرک کو خرمادہ پر قتل کیا وہ اسی کے واسطے ہے پھر زنگدھے پر کسی کافر کو قتل کیا تو قاتل زنگدھے کا مستحق نہ ہوگا اس واسطے کہ جو لفظ مادہ کے واسطے ہے وہ زکوٰۃ شامل نہیں ہے اور اسی طرح اونٹنی و اونٹ میں ہے بخلاف بغل و بغلہ کے کہ یہ دونوں اسم جنس میں کہ خچر و خچریہ دونوں پر بولتے ہیں پس زکوٰۃ دونوں شامل ہیں یہ محیط سرحسی میں ہے۔

باب : ۵

استیلاء کفار کے بیان میں

کفار ترک اگر کفار روم پر غالب ہوئے اور ان کو قید کر کے لے گئے اور ان کے اموال لوٹ لیے تو ان کے مالک ہو جائیں گے پھر اگر ہم لوگ ترک پر غالب آئے تو جو کچھ وہ روم سے لے گئے ہیں اس میں سے بھی جو کچھ ہم کو ملے گا وہ ہمارے واسطے حلال ہوگا اگرچہ ہمارے اور روم کے درمیان موادعت ہو اور ہم سے اور ان ہر دو گروہ میں سے ہر ایک سے موادعت (مدت معین کے واسطے صلح ہے ۱۲ منہ) ہو اور اگر ہر دو فریق باہم لڑے اور ایک فریق غالب ہو تو ہم کو روا ہے کہ فریق غالب سے دوسرے فریق کا مال جو انہوں نے لوٹا ہے خرید کریں اور خلاصہ میں مذکور ہے کہ دار الحرب میں احراز کر لینا شرط ہے اور یہ شرط نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنے دیار میں اس مال غنیمت کو احراز کر لیں اور اگر ہم سے ہر دو فریق سے موادعت ہو اور دونوں فریق ہمارے دیار میں باہم لڑے تو ہم کو فرقہ غالب سے کچھ خرید لینا روا نہیں ہے اور اگر ہر دو فریق اپنے دیار میں لڑے جو مسلمان امان لے کر وہاں گیا ہے اس کو فریق غالب سے فریق مغلوب کا لوٹا ہوا مال خرید لینا جائز ہے خواہ آدمی ہو یا اور مال ہو یہ فتح القدر میں ہے۔ اگر حربی لوگ ہمارے اموال پر غالب ہوئے اور اس کو اپنے دیار میں لے جا کر احراز میں کر لیا تو ہمارے مذہب کے موافق اس کے مالک ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اگر مسلمان لوگ ان پر غالب ہوئے اور لوٹ کے مال میں مالک قدیم نے اپنی چیز جس کو کافر لوٹ لائے تھے پائی اور ہنوز غنیمت تقسیم نہیں ہوئی ہے تو اس کو مفت لے لے گا اور اگر بعد تقسیم غنیمت کے ایسے شخص کے پاس پائی جس کے حصہ میں آئی ہے پس اگر قیمتی چیزوں میں سے ہو تو بقیمت اس کو لے لے گا اگر چاہے اور اگر مثلی چیزوں میں سے ہو تو بعد تقسیم ہو جانے کے اس کو

۱۔ سوار کافر کا وہ گھوڑا جس پر وہ سوار ہے اور فرس و بزون وغیرہ کہتے ہیں تفاوت زبان عرب کی اصطلاح میں ہے اور ہماری زبان میں مطلق گھوڑا بولتے ہیں تفاوت نہیں ہے ۱۲۔ غالب ہو جانے کو استیلاء کہتے ہیں استیلاء کفار کافروں کا غالب ہونا ۱۲۔ خرید جائز ہونے کے واسطے یہ شرط ہے کہ ان کے حرز میں آگیا ہو اور حرز اس طرح ہو جاتی ہے کہ دار الحرب میں انہوں نے احراز کیا ہو یہ شرط نہیں ہے کہ اپنے دار میں احراز کریں جیسے مسلمانوں کے حق میں شرط ملک ہے ۱۲۔

نہیں لے سکتا ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ابن مالک نے بواسطہ امام ابو یوسفؒ کے امام اعظمؒ سے روایت کی کہ اگر غنیمت کے مال میں ایسی لوٹھی یا غلام آیا جس کو کفار مسلمانوں کے یہاں سے قید کر لے گئے تھے اور وہ تقسیم غنیمت سے کسی شخص کے حصہ میں آیا پھر اس کا مولیٰ قدیم آیا تو اس شخص سے جس کے حصہ میں پڑا ہے اس کے لینے کے روز کی قیمت دے کر لے سکتا ہے اور جس روز خود لینا چاہتا ہے اس روز کی قیمت (اگر اس روز کی قیمت سے آج کم ہو تو پائے گا ۱۲) دینے سے نہیں لے سکتا ہے یہ محیط میں ہے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ کافر لوگ مسلمانوں کے مالوں پر غالب ہو کر اس کو دار الحرب میں اپنے احراز میں لے گئے ہوں اور اگر انہوں نے ان اموال کا احراز نہ کیا ہو یہاں تک کہ مسلمان لوگ ان پر غالب ہو گئے اور اموال مذکورہ ان سے چھین لیے پھر کسی مال کا مالک آیا تو اس کو مفت لے لے گا اس واسطے کہ یہ بسبب عدم احراز کے کافر لوگ اس کے مالک نہیں (پس مال مذکور اپنے مالک کی ملک رہا ۱۲ منہ) ہوئے تھے اور اسی طرح اگر کافروں نے ان اموال کو دارالاسلام میں تقسیم کر لیا تو ان کی تقسیم نہیں جائز ہے تو جب مسلمان لوگ ان پر غالب ہو گئے اور یہ اموال ان سے لے لیے تو ہر مال کا مالک اس کو مفت لے لے گا اور اگر کسی مسلمان نے ایک غلام جس کو حربی قید کر کے لے گئے تھے دار الحرب میں ان سے خرید کر کے لایا اور اس کا مولیٰ قدیم آیا تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے ثمن دے کر اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ اگر مولیٰ مذکور اس کو لینے سے پہلے مر گیا پھر اس کا وارث اس غلام کے لینے کا مطالبہ کرتا ہو آیا تو امام ابو یوسفؒ سے روایت ہے کہ وارث مذکور نہیں لے سکتا ہے اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ اس کو بھی لینے کا اختیار ہے یہ سراج و ہاج میں ہے۔

اگر مثلی چیز کو دشمن نے کسی مسلمان کو ہبہ کیا اور وہ لایا تو اس کے مثل دے کر مالک قدیم اس کو نہ لے گا
اس واسطے کہ اس میں کچھ فائدہ نہیں:

ابن سماعہ نے امام ابو یوسفؒ سے روایت کی کہ اگر ایک مسلمان نے ایک غلام فروخت کیا اور ہنوز مشتری کو سپرد نہ کیا تھا کہ دشمن اس کو قید کر کے لے گیا پھر بائع مر گیا پھر کوئی مسلمان اس کو خرید لایا تو بائع کے وارث کو اختیار ہوگا کہ اس کو اس مسلمان سے ثمن دے کر لے لے اور مشتری اول کو یہ اختیار ہوگا کہ چاہے ہر دو ثمن دے کر اس کو وارث بائع سے لے لے لیکن اگر مشتری اول کا حق اس میں نہ ہوتا تو وارث بائع کو خرید لانے والے مسلمان سے لے لینے کا اختیار نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ جس کو دشمن گرفتار کر کے لے گیا ہے اس سے کسی تاجر نے خرید اور دار الحرب سے یہاں لایا تو مالک قدیم اس کو تاجر مذکور سے بعوض اس ثمن کے لے سکتا ہے جس کے عوض تاجر مذکور نے اس سے خریدا ہے اور اگر تاجر نے اس کو کسی اسباب کے عوض خریدا ہو تو اس اسباب کی قیمت کے عوض لے سکتا ہے اور اگر تاجر نے اس کو حربی سے بیع فاسد خریدا ہو تو اس غلام کی قیمت کے عوض لے سکتا ہے اور اگر حربی نے کسی مسلمان کو یہ غلام ہبہ کر دیا ہو تو بھی مالک قدیم اس کو اس کی قیمت کے عوض لے سکتا ہے کذا فی التبیین و یہی حکم مثلی چیز کا ہے کہ اگر مثلی چیز کو دشمن نے کسی مسلمان کو ہبہ کیا اور وہ لایا تو اس کے مثل دے کر مالک قدیم اس کو نہ لے گا اس واسطے کہ اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے اور نیز اگر ایسی چیز کو حربی سے کسی مسلمان نے قدر و صفت میں اس کے مثل دے کر خریدا ہو تو بھی مالک قدیم اس کو نہ لے گا کیونکہ بے فائدہ ہے لیکن اگر مشتری نے کم مقدار یا کھوٹی چیز دے کر خریدا ہو تو ایسی صورت میں مالک قدیم کو اختیار ہے کہ جو کچھ اس نے دے کر لیا ہے اسی کے مثل دے کر لے لے کیونکہ اس میں فائدہ ہے یہ غایۃ البیان میں ہے۔

ایک مسلمان نے اپنے دو غلاموں سے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے اور بیان (کون تم میں سے آزاد ہے) نہ کیا یہاں تک کہ

ان دونوں کو دشمن قید کر کے لے گیا پھر مسلمان لوگ ان پر غالب ہوئے اور یہ دونوں غلام ہاتھ آئے اور ان کو دارالاسلام میں نکال لائے تو دونوں اپنے مولیٰ کو دیئے جائیں گے اور اگر ان دونوں کے قید ہو کر دارالحرب میں محرز ہو جانے کے بعد مالک مذکور نے ان دونوں میں سے ایک کے حق میں معین کر کے عتق بیان کر دیا ہو تو اس کا بیان صحیح ہوگا اور اہل کفر دوسرے غلام کے مالک ہو جائیں گے اور اگر اہل کفر ان دونوں میں سے ایک ہی کو اپنے احراز دارالحرب میں لے گئے ہوں تو دوسرا جو باقی رہا وہی عتق کے واسطے متعین ہو جائے گا یہ کافی میں ہے اور اگر حربی کوئی غلام گرفتار کر کے لے گئے اور اس کو کوئی شخص خرید کر کے دارالاسلام میں نکال لایا پھر اس کی آنکھ پھوڑی گئی اور اس کا ارش اس آنکھ پھوڑنے والے سے لیا گیا تو غلام کا مولانا نے قدیم اس کو اس دشمن کے عوض لے سکتا ہے جس کے عوض خریدنے والے نے دشمن سے خریدنا ہے اور ارش مذکور اس سے نہیں لے سکتا ہے اور دشمن میں سے بھی کچھ گھٹایا نہ جائے گا اور اگر اہل حرب کسی غلام کو گرفتار کر کے لے گئے اور ایک شخص نے ان سے ہزار درہم کو خریدنا پھر دوبارہ اہل حرب اس کو گرفتار کر کے دارالحرب میں لے گئے پھر ان کو دوسرے شخص نے ان سے ہزار درہم کو خریدنا تو مولیٰ اول کو یہ اختیار نہیں ہے کہ دوسرے مشتری سے اس کو لے لے مگر مشتری اول کو اختیار ہے کہ چاہیے دوسرے مشتری سے اس کا دشمن دے کر لے لے پھر مولیٰ اول اس مشتری سے چاہیے تو دو ہزار درہم دے کر لے لے اور اسی طرح اگر وہ شخص جس کے پاس سے دوبارہ قید کر لیا تھا غائب ہو تو مولیٰ اول کو اس کے لینے کا اختیار نہ ہوگا جیسے کہ اس کی حالت حضور میں ہے کذافی الہدایہ اور اگر مشتری اول نے اس کے لینے سے انکار کیا تو مولیٰ اول اس کو دوسرے مشتری سے نہیں لے سکتا ہے یہ کافی میں ہے۔

اگر مشتری اول نے اس کو دوسرے مشتری سے خرید لیا تو ملک قدیم کو اس سے لینے کا اختیار نہ رہے گا اس واسطے کہ مشتری اول کی ملک عود کرنے کے ضمن میں مالک قدیم کے لیے لینے کا حق ثابت ہوا تھا اور اس صورت میں اس کی ملک سابق نے عود نہ کیا تھا بلکہ بخرید جدید ملک جدید حاصل ہونی ہے یہ تمیز میں ہے۔ اگر کسی شخص نے دشمن سے گرفتار کردہ شدہ غلام خرید کیا اور اس کو دارالاسلام میں نکال لایا پھر اس کا مالک قدیم حاضر نہ ہوا یہاں تک کہ اس مشتری نے اس کو کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا پھر مالک قدیم حاضر ہوا تو اس کو اختیار ہوگا کہ دوسرے مشتری سے دشمن دے کر لے لے اور اول سے مطالبہ کی اس کو کوئی راہ نہیں ہے اول مشتری سے جب ہی لے سکتا ہے کہ جب تک غلام مذکور اس کی ملک میں باقی ہو اور اس میں کوئی ایسی بات نہ پیدا ہوئی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ مولیٰ قدیم کی ملک میں کر دینے سے ممنوع ہو اور اگر مالک قدیم نے چاہا کہ بیع ثانی کو توڑ دے پھر مشتری اول سے اس دشمن کو دے کر لے لے جو اس نے دشمن کو دیا ہے تو امام اعظم و امام ابو یوسف کے نزدیک اس کو یہ اختیار نہیں ہے یہ سراج و ہاج میں ہے۔ امام محمد نے سیر صغیر میں فرمایا کہ اگر حربی سے خرید لانے والے نے اس کو اجارہ پر دیا یا رہن کیا اور مولیٰ قدیم نے لینا چاہا تو مولیٰ قدیم کو اختیار ہے کہ اس کا عقد اجارہ توڑ دے اور یہ اختیار نہیں ہے کہ عقد رہن توڑ دے یہ محیط میں ہے۔ اگر مشتری اول نے یہ غلام کسی کو ہبہ کر دیا ہو تو مولیٰ قدیم اس عقد ہبہ کو توڑ نہیں سکتا ہے مگر موہوب لہ (جس کے واسطے داہب لے ہبہ کیا) سے اس غلام کی قیمت اس کو دے کر لے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر غلام مذکور نے جنایت کی اور مشتری اول نے اولیائے جنایت کو یہ غلام دے دیا تو ولی جنایت سے بھی مولیٰ قدیم اس کی قیمت دے کر لے سکتا ہے۔

اسی طرح اگر مشتری اول نے عدا جنایت کی پھر دلی جنایت سے اس غلام کے دینے پر صلح کر لی تو بھی مولیٰ قدیم اس صلح کو توڑ نہیں سکتا بلکہ اس کی قیمت دے کر دلی جنایت سے لے سکتا ہے اور اگر جنایت عدا نہ ہو بلکہ بخلاف ہو تو مولیٰ قدیم اس جنایت کے ارش کو دے کر ولی جنایت سے لے سکتا ہے اور اگر حربی نے کسی مسلمان کو ایسا غلام ہبہ کر دیا پھر کسی شخص نے اس کی آنکھ پھوڑ دی اور

اس مسلمان نے یہ غلام اسی کے ذمہ ڈال کر اس سے اس کی قیمت لے لی تو مالک قدیم کو اختیار ہے کہ اس آنکھ پھوڑنے والے سے اس غلام کو قیمت دے کر لے لے جو کانے کے حساب سے ہے یہ امام اعظم کا قول ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ سلامت دونوں آنکھوں کی صورت میں جو قیمت تھی وہ دے کر لے سکتا ہے اور یہ وہ قیمت ہے جو اس نے موہوب لہ کو دی اور اگر بجائے غلام کے باندی ہو اور باندی کے بچہ پیدا ہوا اور اس بچہ کو کسی نے قتل کیا حتیٰ کہ موہوب لہ نے قاتل سے اس کی قیمت لے لی پھر مالک قدیم حاضر آیا تو اس کو بچہ کی قیمت لینے کی کوئی راہ نہیں ہے لیکن باندی کو چاہے وہ قیمت دے کر جو موہوب لہ کے قبضہ کے روز تھی لے لے یا چھوڑ دے اور اگر ماں مرگئی یا قتل کی گئی اور بچہ موجود ہو تو مالک قدیم اس بچہ کو بعوض اس کے حصہ کے لے سکتا ہے یعنی قیمت کو بچہ اور اس کی ماں پر اس طرح تقسیم کیا جائے کہ ماں کی وہ قیمت اعتبار کی جائے جو بروز بہرہ قبضہ تھی اور بچہ کی وہ قیمت جو اس روز ہے یعنی جس دن مالک لینا چاہتا ہے پس اس تقسیم میں جو حصہ قیمت بمقابلہ قیمت ولد آئے اسی کے عوض بچہ کو لے سکتا ہے۔ اگر دارالاسلام میں ایک نے دوسرے سے ایک غلام بعوض ہزار درہم کے جو فی الحال ادا کرنا قرار پائے ہیں خرید کیا اور ہنوز اس پر قبضہ نہ کیا تھا کہ دشمن اس کو گرفتار کر کے لے گیا پھر کوئی شخص اس کو پانچ سو درہم کو خرید لایا تو بائع اس کو پانچ سو درہم دے کر لے سکتا ہے پھر جب بائع نے اس کو لے لیا تو مشتری بائع سے دونوں ٹمن ایک ہزار پانچ سو درہم کے عوض لے سکتا ہے۔

اگر بائع نے اس کے لینے سے انکار کر دیا تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ چاہے خریدنے والے سے پانچ سو درہم دے کر لے لے۔ اگر بائع نے اس کو ہزار درہم ادھار کو فروخت کیا ہو تو مشتری اس کے واپس لینے کا مستحق ہوگا بہ نسبت بائع کے اور اگر اس نے انکار کیا تو بائع سے کہا جائے گا کہ پانچ سو درہم کے عوض لے لے کر تیرے ہی سپرد کیا جائے گا اور اگر دشمن کسی غلام کو گرفتار کر کے لے گیا اور کسی نے اس سے ہزار درہم کو خرید کیا اور دارالاسلام میں لایا پھر دوبارہ اس کو دشمن قید کر کے لے گیا پھر دوسرے نے دشمن سے پانچ سو درہم کو خرید لیا پھر مالک قدیم اور مشتری اول دونوں محکمہ قاضی میں حاضر ہوئے اور قاضی کو اول مشتری کی خرید کا حال معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے پس قاضی نے مالک قدیم کے واسطے مشتری سے لے لینے کا حکم دیا تو یہ حکم نافذ نہ ہوگا۔ پس غلام مذکور دوسرے مشتری کو واپس دیا جائے گا تا کہ مشتری اول اس سے لے لے پھر مشتری اول سے مالک قدیم ہر دو ٹمن دے کر لے سکتا ہے اور اگر مالک قدیم نے مشتری دوم سے بدوں حکم قضاء کے لے لیا یا اس سے خرید لیا پھر مشتری اول حاضر ہوا تو اس کو مالک قدیم سے ہزار درہم دے کر لے سکتا ہے پھر مالک قدیم اس سے ہر دو ٹمن دے کر لے سکتا ہے۔ اس طرح اگر مشتری دوم نے غلام مذکور اس کے مالک قدیم کو بہرہ کر دیا تو مشتری اول سے لے سکتا ہے مگر اس کی قیمت دے کر لے سکتا ہے اس واسطے کہ وہ اس صورت میں مثل اجنبی کے ہوا پھر مالک قدیم کو اس سے یعنی مشتری اول سے ٹمن اور یہ قیمت دونوں دے کر لے سکتا ہے اور اگر مرتہن کے پاس سے غلام مرہوں گرفتار کر لیا گیا اور اس کو کوئی شخص ہزار درہم کو خرید لایا اور راہن و مرتہن دونوں حاضر ہوئے تو لینے کا استحقاق مرتہن کو ہے پس اگر اس نے یہ ٹمن دے کر لے لیا تو احسان کرنے والا ہوا یعنی یہ ٹمن محسوب بحساب راہن نہیں کر سکتا اور اس سے نہیں لے سکتا ہے جیسے کہ غلام نے اس کے پاس جنایت کی اور اس نے فدیہ دے کر بچا لیا تو اس فدیہ میں وہ متطوع ہوتا ہے اور اگر مرتہن نے اس کے لینے سے انکار کر دیا تو راہن اس کو ٹمن دے کر لے سکتا ہے اور جب راہن نے اس کو لے لیا تو قرضہ مرتہن ساقط ہو گیا اور فدیہ ان دونوں پر آدھا آدھا ہوگا اگر مرہوں کی قیمت دو ہزار اور قرضہ ایک ہزار ہو اور جس طرح وہ رہن تھا ویسا ہی رہے گا اور اگر مرتہن نے اس کا فدیہ دینے سے انکار کیا پس راہن نے اس کا فدیہ دے دیا تو مرتہن اس کو لے لے گا اور اس کے پاس بعوض نصف قرضہ کے رہن رہے گا۔

اگر کسی غلام نے جنایت کی پھر کافر لوگ غالب ہوئے اور اس غلام کو بھی قید کر کے دارالحرب میں لے گئے پھر لشکر اسلام ان پر غالب آیا.....:

اگر راہن نے اس کا فدیہ دینے سے انکار کیا اور مرتہن نے فدیہ دے کر اس کو لے لیا تو مثل سابق کے اس کے پاس رہن رہے گا اور مرتہن مذکور فدیہ کے حصہ راہن میں یعنی نصف فدیہ حصہ راہن دینے میں احسان کنندہ ہوگا اور اگر راہن غائب ہو اور مرتہن نے اس کا فدیہ دے دیا تو امام اعظم کے نزدیک نصف فدیہ کو راہن سے لے لے گا احسان کنندہ قرار نہ دیا جائے گا اور صاحبین کے نزدیک اس صورت میں بھی احسان کنندہ ہوگا اور اگر مال مرہون کوئی مثلی چیز ہو اور مرتہن نے فدیہ نہ دیا تو راہن کے فدیہ دے کر لینے کے بعد مرتہن اس کو راہن سے نہیں لے سکتا ہے یہ کافی میں ہے۔ اگر کسی غلام نے جنایت کی پھر کافر لوگ غالب ہوئے اور اس غلام کو بھی قید کر کے دارالحرب میں لے گئے پھر لشکر اسلام ان پر غالب آتا اور غلام مذکور کو دارالاسلام میں نکال لائے اور مالک قدیم نے اس کو نہ لیا چھوڑ دیا اور دلی جنایت نے اس کو جرم جنایت سے لینا چاہا حالانکہ غنیمت تقسیم ہو چکی ہے تو اس کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس واسطے کہ دلی جنایت کے واسطے خالی حق ثابت ہے اور اس سے ملک^۱ توڑنا نہیں جائز ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر ایسا غلام جس کو کفار قید کر لے گئے تھے اور بعد غلبہ لشکر اسلام کے دارالاسلام میں غنیمت تقسیم ہونے میں وہ کسی شخص کے حصہ میں آیا اور اس کا مولیٰ قدیم حاضر نہ ہو ایہاں تک کہ اس شخص نے اس کو آزاد یا مدبر کر دیا تو روا ہے۔ اگر بجائے غلام کے باندی تھی کہ اس کو اس شخص نے کسی کے ساتھ بیاہ دیا اور شوہر سے اولاد جنی تو مالک قدیم کو حاضر ہو کر اختیار ہوگا کہ باندی اور اس کی اولاد کو لے لے اور نکاح توڑنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر اس شخص نے جس کے حصہ میں پڑی ہے اس کا عقر^۲ لیا یا کسی نے اس باندی پر جنایت کی تھی اس کا جرم مان لیا ہو تو مولیٰ قدیم کو اس باندی کے ساتھ اس عقر و جرم مانہ کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی۔ یہ مبسوط میں ہے۔

امام محمد نے فرمایا کہ ایک شخص کی ملک میں ایک گرجا فارسی جید چھو ہارے ہیں اس کو کفارہ نے لیا اور دارالحرب میں لے گئے پھر کوئی مسلمان امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوا اور ان سے یہ چھو ہارے بعوض دو گرجا فارسی ردی چھو ہارے کے خریدے اور ان کو دارالاسلام میں لے آیا پھر مالک قدیم حاضر ہوا تو اس کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس خریدنے والے سے لئے^۳ ایسا ہی زیادات میں مذکور ہے اور اسیر کبیر میں امام محمد نے ذکر فرمایا کہ دو گرجا ردی چھو ہارے دے کر لے سکتا ہے اس واسطے کہ جس نے دشمن سے یہ گرجا خرید کیا ہے اس نے بہ خرید صحیح خریدا ہے اس واسطے کہ دارالحرب میں مسلمان و حربی کے درمیان ربوا^۴ جاری نہیں ہوتا ہے پس جب خرید صحیح ہوئی تو جتنے کو مشتری کو پڑی ہے وہ دے کر لے لینے کا استحقاق اس کو حاصل ہوگا جیسے درہموں کے عوض خریدنے کی صورت میں اس قدر درہم دے کر لے سکتا ہے اور زیادات میں جو حکم مذکور ہے کہ نہیں لے سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے دشمن سے یہ گرجا خریدا ہے اس نے بخرید (بخرید صحیح نہیں خریدا ہے) فاسد خریدا ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ربوا کو مطلقاً حرام کر دیا ہے پس چونکہ اس بیع میں ربوا واقع ہو بیع فاسد ہوئی اور جو چیز بہ بیع فاسد خریدی گئی ہے وہ مشتری کے پاس مضمون بالقیمتہ ہے یعنی اس کے تاوان میں مشتری پر قیمت واجب ہے دشمن نہیں واجب ہے اور اس صورت میں اس خریدی ہوئی چیز کی قیمت یہ ہے کہ اس کے مثل

۱۔ جس کے حصہ میں پڑا ہے اس کی ملک میں آگیا ہے پس اس کی ملک اتنے حق کی وجہ سے نہیں ٹوٹ سکتی ہے ۱۲۔ ۲۔ کسی نے اس باندی سے شبہ میں وطی کی اس کا مہر ۱۲۔ ۳۔ جو کچھ اس نے دیا ہے وہ دشمن دے کر کسی طرح نہیں لے سکتا ہے ہاں چاہے خرید لے ۱۲۔ ۴۔ وہ زیادتی جو بطریق نامشروع لی جائے جس کو بیاج کہتے ہیں ۱۲۔ ۵۔ اگر ایسا معاملہ بیع واقع ہوا جو دارالاسلام میں سو قرار پاتا ہے تو وہاں بھی سو قرار دیا جائے گا ۱۲۔

چھوہارے دیں اور اس کے مثل چھوہارے دے کر لینے میں کچھ فائدہ نہیں ہے اور مبادلہ میں جب فائدہ نہ ہو تو بیع ناروا ہے اور ہمارے مشائخ میں سے محققین نے فرمایا کہ جو حکم سیر کبیر میں مذکور ہے وہ امام اعظم و امام محمد کا قول ہے اور جو حکم زیادات میں مذکور ہے وہ امام ابو یوسف کا قول ہے اس واسطے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک مسلمان و حربی کے درمیان دار الحرب میں ربوا جاری ہوتا ہے۔

اگر صورت مذکورہ میں مسلمان نے حربی سے گر مذکور کے برابر ردی چھوہارے (جیسے اور جس قدر اپنے دیئے ہیں) ہاتھوں ہاتھ دے کر لیے ہوں اور ان کو دارالاسلام میں نکال لایا تو سب روایات کے موافق مالک قدیم کو اختیار ہوگا کہ اس سے ایک گر ردی دے کر لے لے اور اگر مشتری نے حربیوں سے گر مذکور بعض شراب یا سور کے خریدنا ہو اور دارالاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کو سب روایات کے موافق لینے کا اختیار نہ ہوگا لیکن اگر یہ مشتری ذمی ہو تو مالک قدیم کو اختیار ہوگا کہ اس کو سور یا شراب کی قیمت دے کر اس سے لے لے اور اگر حربیوں سے خریدنے والے نے اس کو اسی کے مثل دے کر خرید کیا ہو اور دارالاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کو سب روایات کے موافق اس سے لینے کا اختیار نہ ہوگا۔ اگر مشتری مذکور نے اس کے مثل ادھار پر خریدا ہو اور دارالاسلام میں لے آیا تو بھی مالک قدیم کو (اس واسطے کہ مبادلہ بیفائدہ ہے) اس سے لینے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر کافروں نے کسی مسلمان کے ہزار درہم ان درہموں میں سے جو بیت المال میں قبول کیے جاتے ہیں یعنی کھرے درہم لیے اور ان کو دار الحرب میں لے گئے پھر کوئی مسلمان وہاں داخل ہوا اور اس نے غلہ کے ہزار درہم دے کر ان سے یہ ہزار درہم خریدے اور باہمی قبضہ کے بعد دونوں متفرق ہوئے پھر دارالاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کو سب روایات کے موافق اختیار ہوگا جیسے درہم غلہ اس نے دیئے ہیں انہیں کے مثل دے کر درہم مذکورہ لے لے اور اگر ان کو دیناروں کے عوض بھری صحیح خرید کیا اور دارالاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کو اختیار ہوگا کہ انہیں دیناروں کے مثل دے کر اس سے لے لے۔

اس طرح اگر اس مسلمان نے ان کے ہاتھ ہزار درہم غلہ کے عوض ہزار درہم بیت المال کے نقد کے فروخت کیے اور حربیوں نے نقد بیت المال میں وہی درہم دے جن کو وہ لوگ یہاں سے لوٹ لے گئے ہیں اور مسلمانوں مذکور ان کو دارالاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کو اختیار ہوگا کہ مثل درہم غلہ دے کر اس سے یہ درہم لے لے۔ اگر کافر لوگ دارالاسلام سے مسلمان کا گر لے گئے اور اس کو دار الحرب میں لے جا کر اقرار کر لیا پھر امان لے کر کوئی مسلمان دار الحرب میں داخل ہوا اور ایک کرگیہوں کی بیع سلم میں ان کو سود درہم دیے اور یہ بیع سلم صحیح قرار پائی ہے پھر جب مسلم فیہ ادا کرنے کی میعاد آئی تو انہوں نے یہی کر جو دارالاسلام سے لے گئے ہیں اس کو ادا کیا پس اس نے قبضہ کر لیا اور اس کو دارالاسلام میں نکال لایا تو مالک قدیم کو اختیار ہوگا کہ اس سے سود درہم دے کر لے لے اور اگر مسلمان نے حربیوں کے ہاتھ کوئی اسباب ایسے ہزار درہم کو فروخت کیا جو نقد بیت المال ہوں پھر انہوں نے اس کو وہی ہزار درہم نقد بیت المال دیے جو دارالاسلام میں سے کسی مسلمان کے لیے گئے ہیں اور اپنے احراز میں کر لیے ہیں پس اس نے ان پر قبضہ کیا اور ان کو دارالاسلام میں لایا تو مالک قدیم کو اختیار نہ ہوگا کہ اس سے یہ درہم لے لے اور اگر اہل حرب کسی مسلمان کا ایک کرگیہوں لے گئے اور دار الحرب میں لے جا کر اپنے احراز میں کر لیا پھر کوئی مسلمان امان لے کر دار الحرب میں داخل ہوا اور ان کے ہاتھ کوئی اسباب بعض کرگیہوں کے جو بیع نہ نہیں ہیں بلکہ مشتری کے ذمہ قرار پائے ہیں فروخت کیا پھر مشتری نے وہی گر جس کو دارالاسلام سے لے گئے ہیں ادا کیا پس بائع نے قبضہ کر لیا اور اس کو دارالاسلام میں نکال لایا تو مالک قدیم

۱۔ اگر ایسا معاملہ بیع واقع ہوا جو دارالاسلام میں سود قرار پاتا ہے تو وہاں بھی سود قرار دیا جائے گا ۱۲۔ ۲۔ وہ جنس جو بیع مسلم میں بائع سے قرار پائی ہے ۱۲۔

کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کو لے لے۔ اگر حربیوں نے مگر مسلمان کو اپنے دار میں احراز کر لیا پھر کوئی مسلمان امان لے کر ان کے دار میں داخل ہوا اور اس نے ان لوگوں کو ایک گریہوں قرضہ دیے پھر انہوں نے اس کو اس کے قرضہ میں وہی گرا دیا جس کو وہ دارالاسلام سے اپنی حرز دار الحرب میں لے گئے ہیں پس قبضہ کر کے اس کو دارالاسلام میں نکال لایا تو مالک قدیم کو اس گھر کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی جو اس نے قرضہ میں دیا ہے اور حربیوں نے لیا ہے وہ اس گھر کے جو وہ اپنی حرز میں لے گئے ہیں مثل ہو یا گھٹ کے ہو یا اس سے کھرا ہو یہ محیط میں ہے۔

اہل حرب کسی مسلمان کی چاندی کی چھاگل لے گئے ہوں جس کی قیمت ہزار درہم اور وزن پانچ سو
مشقال ہے پھر کسی مسلمان نے دشمن سے اس کے وزن سے زیادہ یا کم کے عوض اس کو خریدتا تو مالک
قدیم اس کی قیمت کے عوض اس کو لے سکتا ہے:

اگر دشمن نے مسلمان سے دس کپڑے لیے یعنی غالب ہو کر کسی مسلمان کے دس کپڑے لوٹ کر دارالاسلام سے دارالحرب میں نکال لے گیا پھر کوئی مسلمان دارالحرب میں امان لے کر داخل ہوا اور اس نے کوئی اسباب دشمن کے ہاتھ دس کپڑوں کے عوض فروخت کیا جن کا وصف اور ادا کرنے کی مدت بیان ہوگئی ہے حتیٰ کہ بیع بہمہ وجوہ صحیح ہے پھر دشمن نے اس کو وہی دس کپڑے ادا کیے جن کو لوٹ کر اپنے احراز میں لے گیا پس مسلمان مذکور ان کپڑوں کو دارالاسلام میں نکال لایا تو مالک قدیم کو اختیار ہوگا کہ اس کو اس کی متاع کی قیمت دے کر یہ کپڑے لے لے۔ اگر گریہوں کا گھر جس کو اہل حرب یہاں سے اپنے احراز میں لے گئے ہیں دو مسلمانوں نے اہل حرب سے خرید لیا اور باہم تقسیم کر لیا پھر ایک نے اپنا حصہ تلف کر ڈالا تو مالک قدیم کو اختیار ہے کہ نصف باقی کو نصف دشمن مذکور دے کر لے لے اور اگر بجائے کر کے اس مسئلہ میں کپڑے ہوں تو باقی نصف کپڑوں کو مالک قدیم اگر چاہے تو چوتھائی دشمن اور تلف شدہ کی نصف قیمت دے کر لے سکتا ہے اور اہل حرب کسی مسلمان کی چاندی کی چھاگل لے گئے ہوں جس کی قیمت ہزار درہم اور وزن پانچ سو مشقال ہے پھر کسی مسلمان نے دشمن سے اس کے وزن سے زیادہ یا کم کے عوض اس کو خریدتا تو مالک قدیم اس کی قیمت کے عوض اس کو لے سکتا ہے چاہے جس قدر تک پہنچے مگر یہ قیمت اس کی جنس کے خلاف سے ہوگی یعنی اگر چاندی کی چھاگل ہے تو سونے سے قیمت اور اگر سونے کی چھاگل ہے تو چاندی سے قیمت ادا کرے گا یہ کافی میں ہے۔

اگر اس کے وزن کے مثل درہم ہاتھوں ہاتھ دے کر خرید کر کے دارالاسلام میں لایا ہو تو مالک قدیم کو اختیار ہوگا کہ اسی قدر درہم دے کر اس سے لے لے یہ سب روایات کے موافق حکم ہے اور اگر اس کے مثل وزن کے درہم ادھار پر خرید کر کے دارالاسلام میں لایا تو یہ صورت اور در صورت یہ کہ اس نے زیادہ یا کم درہموں کے عوض خریدا ہے سب یکساں ہیں یعنی مالک قدیم بقیمت لے سکتا ہے اور اگر تاجر مذکور نے ابریق کو حربیوں سے بعوض شراب یا سور کے خریدا ہو تو مالک قدیم کل روایات کے موافق مختار ہے کہ چاہے اس کے خلاف جنس سے اس کی قیمت دے کر لے لے اور اگر کوئی ذمی اس کو شراب یا سور کے عوض خرید کر کے دارالاسلام میں لایا ہو تو مالک قدیم اس ابریق کو بعوض قیمت شراب یا سور کے جو اس نے دیئے ہیں لے سکتا ہے اور سیر کبیر میں مذکور ہے کہ کسی غلام کو اہل حرب گرفتار کر کے لے گئے اور کوئی مسلمان ان سے اس غلام کو بعوض ہزار درہم اور ایک رطل شراب کے خرید کر کے دارالاسلام میں لایا تو دیکھا جائے کہ اگر اس کی قیمت ہزار درہم یا ہزار سے کم ہے تو مولیٰ قدیم اس کو ہزار درہم دے کر لے

سکتا ہے اور اگر ہزار سے زیادہ ہے تو پوری قیمت دے کر لے سکتا ہے مگر شراب جس کا دینا مذکور ہوا ہے اس کے بسبب سے ہزار سے کم یا ہزار سے زیادتی نہ کی جائے گی اور اگر مسلمان نے ان سے یہ غلام بے عوض ہزار درہم اور مردار جانور یا خون کے خرید ہو تو مالک قدیم اس کو ہزار درہم دے کر لے سکتا ہے اور مردار خون کی وجہ سے ہزار پر کچھ بڑھایا نہ جائے گا اگر چہ غلام کی قیمت ہزار سے زیادہ ہو اور اگر زید نے عمرو سے ایک غلام غصب کیا اور غاصب کے ہاتھ سے حریوں نے غلبہ کر کے لیا اور اس کو اپنے حزر دار الحرب میں لے گئے پھر مسلمان نے اس دار الحرب میں فتح پا کر غنیمت حاصل کی پھر عمرو نے یہ غلام غنیمت میں دیکھا اور ہنوز غنیمت تقسیم نہیں ہوئی ہے تو اس کو مفت لے سکتا ہے اور غاصب پر ضمان نہ ہوگی اور اگر بعد تقسیم غنیمت کے جس غازی کے حصہ میں آیا ہے اس کے پاس دیکھا تو مذکور ہے کہ عمرو کو اختیار ہے کہ چاہے اس شخص سے جس کے حصہ میں آیا ہے اس غلام کی اس روز کی قیمت جس روز لینا چاہتا ہے اس کو دے کر لے لے اور اگر چاہے اس سے غلام نہ لے اور غاصب سے غلام کی اس روز کی قیمت جس دن اس نے غصب کیا تھا تاوان لے لے پھر اگر مالک قدیم نے یہ اختیار کیا کہ غازی سے لینے کے روز کی غلام کی قیمت دے کر غلام لے لیا تو غاصب سے بھی قیمت نہیں لے سکتا ہے بلکہ اس قیمت اور غاصب کرنے کے روز کی غلام کی قیمت دونوں میں سے جو کم ہو وہ لے لے گا مثلاً غلام مذکور کی قیمت بروز غصب ہزار درہم تھی اور جس غازی کے حصہ میں پڑا ہے اس سے لینے کے روز کی قیمت دو ہزار درہم ہے پس مالک قدیم دو ہزار درہم دے کر اس سے لے لیا تو وہ غاصب سے وہی قیمت لے گا جو بروز غصب تھی یعنی ہزار درہم اور اگر روز غصب کی قیمت ہزار درہم ہو پھر نرخ گھٹ جانے کی وجہ سے غازی سے لینے کے روز پانچ سو درہم تھے کہ اس نے پانچ سو درہم دے کر لے لیا تو غاصب سے بھی پانچ سو درہم واپس لے گا۔

یہ سب اس صورت میں کہ مالک قدیم نے غازی سے جس کے حصہ میں آیا ہے غلام لینا اختیار کیا اور اگر اس نے غازی سے نہ لیا بلکہ غاصب سے اس کے غصب کرنے کے روز کی قیمت تاوان یعنی اختیار کی تو جب غاصب نے تاوان دے دیا تو اس کا حکم بعد تاوان دینے کے مثل مالک قدیم کے ہے یعنی جس سے غصب کر لیا تھا چنانچہ اگر اس نے غلام کو غنیمت میں قبل اس کی تقسیم کے پایا تو بغیر کچھ دیئے ہوئے مفت لے لے گا اور اگر بعد تقسیم غنیمت کے کسی غازی کے پاس جس کے حصہ میں پڑا ہے پایا تو اس کی قیمت دے کر اس کو لے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں نے جہاد میں غالب ہو کر یہ غلام غنیمت میں حاصل نہیں کیا بلکہ کوئی مسلمان جو دار الحرب میں داخل ہوا ہے ان سے خرید لایا یا پس اگر مولیٰ قدیم نے غاصب سے ہنوز اس کی قیمت بروز غصب تاوان نہ لی ہو تو اس کو دو طرح کا اختیار ہے چاہے خرید لانے والے کو اس کا دشمن دے کر اس سے غلام لے لے اور چاہے اس سے نہ لے اور غاصب سے بروز غصب کی قیمت غلام لے لے پس اگر اس نے خرید لانے والے سے اس کا دشمن دے کر غلام لے لیا تو غاصب سے قیمت روز غصب اور دشمن مذکور جو اس نے مشتری کو ادا کیا ہے دونوں میں سے جو کم ہو وہ تاوان لے سکتا ہے اور اگر اس نے خرید لانے والے سے غلام نہ لیا اور غاصب سے بروز غصب کی قیمت تاوان لے لی تو اس کے بعد مالک قدیم کو غلام پر ہاتھ لگانے کی کوئی راہ نہ ہوگی اور غاصب مذکور بجائے مالک قدیم کے قائم ہوگا پس غاصب مذکور کو اختیار ہوگا کہ چاہے خرید لانے والے سے اس کا دشمن دے کر غلام لے لے اور چاہے چھوڑ دے۔ پھر اگر غاصب نے خرید لانے والے کو اس کا دشمن دے دیا یا جس غازی کے حصہ میں پڑا ہے اس کو اس کی قیمت دے دی اور غلام اس سے لے لیا پھر مالک قدیم نے چاہا کہ غاصب سے جو قیمت تاوان لی ہے وہ غاصب کو واپس کر کے غلام اس سے لے لے تو اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اگر مالک قدیم نے غاصب سے اپنے زعم کے موافق قیمت

حاصل کی ہے بایں طور کہ دونوں نے روز غصب کی قیمت میں اختلاف کیا چنانچہ غاصب نے کہا کہ جس روز میں نے غصب کیا ہے اس روز غلام کی قیمت ہزار درہم تھی اور مالک نے کہا کہ دو ہزار درہم تھی اور مالک نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے اور غاصب سے دو ہزار درہم قیمت پائی یا گواہ نہ تھے پس غاصب سے قسم طلب کی اور غاصب نے قسم کھانے سے انکار کیا پس غاصب سے دو ہزار درہم حاصل کیے یا دونوں نے مالک کے دعویٰ کے موافق مقدار پر باہمی رضامندی سے صلح کر لی تو ان تینوں صورتوں میں مالک قدیم کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ چاہے غاصب کو اس کی قیمت واپس کر کے غلام لے لے یا چھوڑ دے۔

جس صورت میں مالک قدیم کو اختیار واپسی قیمت واخذ غلام یا ترک غلام حاصل ہوا ہے اگر ایسی صورت میں مالک قدیم نے کہا کہ میں یہ قیمت جو مجھے ملی ہے رکھے لیتا ہوں.....:

دوئم یہ کہ اگر مالک نے غاصب کے زعم کے موافق قیمت پائی ہے بایں طور کہ مالک کے پاس گواہ نہ تھے اس نے غاصب سے قسم طلب کی پس غاصب نے قسم کھائی اور مالک نے اس سے ہزار درہم موافق اس کے دعویٰ کے پائے پھر غلام مذکور غاصب کے ہاتھ میں آیا جیسے کہ ہم نے بیان کیا ہے تو مالک قدیم کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہے غاصب سے جو قیمت لی ہے اس کو واپس کر کے غلام لے لے اور چاہے غلام اسی کے پاس رہنے دے۔ پھر امام محمدؒ نے کتاب میں ذکر فرمایا کہ ہر گاہ مالک قدیم نے غاصب کے زعم کے موافق غلام کی قیمت اس سے لے لی ہو پھر اس نے غلام مذکور حریوں سے خرید لانے والے کے پاس یا ان سے غازی کے پاس جس کے حصہ میں پڑا ہے دیکھا اور قیمت غلام وہی ہے جو مالک قدیم کہتا تھا یعنی مثلاً دو ہزار درہم تو مالک قدیم کو اختیار دیا جائے گا اور اگر غلام کی قیمت اس قدر پائی گئی جیسے غالب کہتا تھا یا اس سے بھی کم پائی گئی پس آیا مالک قدیم کو اختیار حاصل ہوگا یا نہیں سو امام محمدؒ نے اس صورت کو ذکر نہیں فرمایا ہے اور فقیہ ابو جعفر ہندوانی سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ایک روایت میں ہے کہ اس کو اختیار حاصل ہوگا اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ نہیں حاصل ہوگا پھر واضح ہو کہ جس صورت میں مالک قدیم کو اختیار واپسی قیمت واخذ غلام یا ترک غلام حاصل ہوا ہے اگر ایسی صورت میں مالک قدیم نے کہا کہ میں یہ قیمت جو مجھے ملی ہے رکھے لیتا ہوں اور اس غلام ظاہر شدہ کے روز غصب کی پوری قیمت تک میں جس قدر اور مجھے زیادہ چاہیے ہے وہ غاصب سے لے لوں گا تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے بلکہ اس قدر وہ اختیار رکھتا ہے کہ چاہے یہ قیمت واپس کر کے غلام لے لے اور چاہے یہی قیمت رہنے دے یہ محیط میں ہے۔

اگر کوئی مالک عین کسی مستاجر کے اجارہ میں یا کسی کے پاس عاریت یا ودیعت ہو اور حربی کفار غالب ہو کر اس کو اپنے حرز دار الحرب میں لے گئے پھر مال مذکور دارالاسلام میں آیا پس آیا مستاجر یا مستودع یا مستعیر کو خصمہ کر کے واپس لینے کا اختیار شرعی ہے یا نہیں ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر وہ مال عین جہاد کی غنیمت میں آیا تو مستاجر کو اختیار ہے کہ مطالبہ کرے پس قبل تقسیم ہونے غنیمت کے مطالبہ کرنے سے مفت بغیر کچھ دیئے ہوئے لے گا اور یہی اختیار مستعیر^۱ و مستودع کو ہے پھر جب مستاجر اس کو لے لے گا تو اس کا اجارہ عود کرے گا اور اجرت اس مدت گذشتہ کی کہ جس میں اس نے کوئی انتفاع نہیں پایا ہے اس کے ذمہ سے ساقط ہوگی یہ بحر الرائق میں ہے۔ اگر مستاجر کے اس دعویٰ سے کہ یہ مال جو غنیمت میں آیا ہے اس کے پاس اجارہ میں تھا مسلمانوں نے انکار کیا تو

۱ اپنی کتاب میں جس سے مسئلہ مذکور نقل ہوا ۱۲۱۔ ۲ اجارہ یعنی والا جس کو ہمارے عرف میں ٹھیکہ دار بولتے ہیں مستوجب جس کے پاس ودیعت رکھی

گئی مستعیر عاریت لینے والا ۱۲۱۔

مستاجر کو اس امر کے گواہ قائم کرنے ضرور ہوں گے کہ یہ اس کے پاس اجارہ سے انکار کیا میں تھا اور جب حاکم نے گواہ قبول کر کے مال مذکورہ اس کو دے دیا پھر اجارہ دینے والا آیا اور اُس نے اُس کے اجارہ سے انکار کیا اور بیان کیا کہ یہ مال اس کے پاس عاریت یا ودیعت تھا تو اس میں قول اس مال کے مالک عین کا مقبول ہوگا۔ اگر غنیمت تقسیم ہوگئی پھر اس نے کسی غازی کے پاس پایا جس کے حصہ میں پڑا ہے تو بھی اس کو مخصوصہ کا اختیار ہے پس اگر اس شخص نے جس کے حصہ میں پڑا ہے مدعی کے پاس اجارہ میں ہونے سے انکار کیا اور مدعی نے اجارہ پر گواہ قائم کیے تو اثبات اجارہ کے گواہ مقبول ہوں گے اور وہ اثبات اجارہ کے واسطے خصم ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد اس کو یہ اختیار ہوگا کہ چاہے اس غازی کو اس مال کی قیمت دے کر اس سے لے یا اسی کے پاس چھوڑے اور اگر بجائے مستاجر کے مستغیر یا مستودع ہو اور بعد تقسیم غنیمت کے اس نے کسی غازی کے پاس جس کے حصہ میں آیا ہے پایا تو وہ اس غازی کے مقابلہ میں خصم نہیں ہو سکتا ہے حتیٰ کہ اگر اس نے گواہ قائم کیے کہ یہ مال مذکور اس کے پاس ودیعت یا عاریت تھا تو اس کے گواہوں کی سماعت نہ ہوگی اور تقسیم ہو جانے کے بعد ان دونوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جس کے حصہ میں آیا ہے اس سے قیمت دے کر لے لیں اور بعد قیمت کے یہ دونوں اس مال کی نسبت مثل اجنبی کے ہوں گے یہ محیط میں ہے۔

اگر غلام مسلمان کو دشمن اسیر کر کے لے گئے اور اپنے دارالہرب میں لے جا کر اپنے احراز میں کر لیا پھر وہ ان سے چھوٹ گیا:

اگر کسی یتیم کا غلام اہل حرب قید کر کے لے گئے اور اس کو کوئی مشتری دام دے کر خرید لایا اس خرید لائے ہوئے غلام کا مولیٰ قدیم مرچکا ہے جس کا وارث اس کا فرزند یتیم موجود ہے تو اس یتیم کے وصی کو اختیار ہے کہ یتیم کے واسطے مشتری کو اس کا ثمن دے کر لے لے اور اپنی ذات کے واسطے نہیں لے سکتا ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ یتیم کے واسطے بھی وصی کو مشتری کا ثمن دے کر اس سے لے لینے کا جب ہی اختیار ہے کہ ثمن مذکور اس غلام کی قیمت کے برابر ہو یہ محیط سرحسی میں ہے منتہی میں ہے کہ کسی مسلمان کے غلام کو اہل حرب قید کر کے اپنے حرز دارالہرب میں لے گئے پھر کسی مسلمان نے دارالہرب میں داخل ہو کر ان سے یہ غلام خریدا اور دارالاسلام میں نکال لایا اور یہاں کسی عورت سے اس غلام کے رقبہ پر نکاح کیا اور نکاح میں اس غلام کا رقبہ مہر قرار دیا ہے پھر اس کا مولیٰ قدیم حاضر آیا تو اس کو اختیار ہوگا کہ چاہے اس غلام کو اس کی قیمت دے کر لے لے۔ اگر مشتری نے بغیر مہر کسی عورت کو اس کے نکاح میں لیا پھر اس عورت سے اس امر پر صلح کی کہ اس کے مہر کے عوض جو واجب ہوا ہے یہ غلام سپرد کرے گا تو مولیٰ قدیم سے کہا جائے گا کہ چاہے اس عورت کے مہر مثل کے عوض اس غلام کو لے لے یا چھوڑ دے۔ اگر کسی شخص نے مشتری پر کسی مال کا دعویٰ کیا اور دعویٰ بیان نہ کیا پھر مشتری نے اس سے اس کے اس دعویٰ سے اس غلام پر صلح کر لی تو مولیٰ قدیم اس سے یہ غلام اس کی قیمت دے کر لے سکتا ہے اور اگر دونوں نے مقدار دعویٰ میں اختلاف کیا تو صلح کنندہ کا قول قبول ہوگا اگر غلام مسلمان کو دشمن اسیر کر کے لے گئے اور اپنے دارالہرب میں لے جا کر اپنے احراز میں کر لیا پھر وہ ان سے چھوٹ گیا اور ان کا کچھ مال بھی لے آیا اور دارالاسلام کی طرف بھاگا پھر کسی مسلمان نے اس کو پکڑ لیا پھر اس کا مولیٰ قدیم آیا تو پکڑ لینے والے سے یوں ہی لے سکتا ہے کہ اس کی قیمت دے دے اور یہ امام محمد کا قول ہے۔

جو کچھ مال اس غلام کے پاس تھا وہ اسی کا ہے جس نے اس کو گرفتار کیا چنانچہ مولیٰ قدیم کو اس کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی

اور بقیاس قول امام اعظمؒ کے مولیٰ قدیم اس کو مفت بغیر کچھ دیے ہوئے لے لے گا کیونکہ جب وہ دارالاسلام میں داخل ہوا تو وہ جماعت مسلمانوں کے واسطے فئی ہو گیا کہ امام المسلمین اس کو لے لے گا اور اس کا پانچواں حصہ لے کر باقی چار پانچویں حصے تمام مسلمانوں میں تقسیم کروں گا اور امام محمدؒ نے اپنے اس قول سے رجوع کیا ہے اور کہا کہ جب اس کو پکڑ لیا تو وہ غنیمت ہو اور اس کے پانچ حصے میں سے ایک حصہ لے لیا جائے گا اگر اس کا مولیٰ قدیم حاضر نہ آیا اور باقی پانچویں حصے اور جو مال اس کے پاس ہے سب پکڑ لینے والے کا کر دیا جائے گا پھر اگر اس کے بعد اس کا مولیٰ قدیم حاضر ہوا تو اس کی قیمت دے کر لے سکتا ہے اور اگر پانچ حصے کیے جانے سے پہلے حاضر آیا تو اس کو مفت لے لے گا اور اگر کسی مسلمان کے غلام کو اہل حرب قید کر کے لے گئے اور اس کے مولیٰ نے مسلمان نے اس کو آزاد کر دیا پھر مسلمان لوگ ان پر غالب ہوئے اور یہ غلام ہاتھ آیا تو اس کا مولیٰ قدیم اس کو مفت لے لے گا اور حقیق مذکور باطل ہے اور اگر مسلمان لوگ اس کو دار الحرب سے نکال لائے پھر مولیٰ قدیم نے قبل اس کے تقسیم کیے جانے کے آزاد کر دیا تو اس کا آزاد کرنا جائز ہے۔ ایک حربی دارالاسلام میں امان کے کر داخل ہوا یہاں کسی کا کچھ طعام یا کوئی متاع چرائی اور اس کو لے کر دار الحرب میں داخل ہوا پھر اس سے کوئی مسلمان خرید کر کے اس کو دارالاسلام میں نکال لایا تو اس کا مالک اس کو مفت لے سکتا ہے اس واسطے کہ حربی مذکور اس مال کا دارالاسلام سے نکال لے جانے سے پہلے ضامن تھا پس دار الحرب میں لے جانے سے اس کا احراز کر لینے والا نہ ہوگا اور اگر کسی مسلمان نے اس حربی کے پاس کچھ مال و دیعت رکھا کہ جس کو وہ دار الحرب میں لے گیا تو حربی مذکور اس مال کا احراز کر لینے والا جائے گا پھر اگر اہل حرب جب سب مسلمان ہو گئے یا ذمی ہو گئے یا یہی شخص مسلمان یا ذمی ہو گیا تو مال مذکور اسی کا ہوگا اس واسطے کہ وہ دارالاسلام میں اس مال کا ضامن نہ تھا کوئی حربی ہمارے یہاں امان لے کر داخل ہوا حالانکہ اس کے ساتھ کوئی ایسا غلام ہے جس کو اس نے مسلمانوں سے دار الحرب میں لے جا کر اپنے حرز میں کر لیا ہے پھر اس کو حربی مذکور سے کسی مسلمان نے خرید لیا تو مالک قدیم کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ مشتری کو اس کا ثمن دے کر اس سے یہ غلام لے لے۔

بشر بن الولید نے امام ابو یوسفؒ سے املاء میں روایت کی ہے کہ اگر اسیر کی ہوئی باندی کو اہل حرب سے کسی مسلمان نے خرید لیا اس کے حصہ غنیمت میں آئی اور اس سے اس باندی کو اس کے مولیٰ قدیم نے بحکم حاکم لے لیا یعنی قبل گرفتار ہونے کے جو کوئی جنایت یا قرضہ اس باندی کے ذمہ ہو وہ اس باندی کے ساتھ لگے گا اور جس بائع سے مالک قدیم نے اس کو خریدا ہے اگر اس میں سے کسی عیب قدیم ہونے سے واقف ہو تو بائع اول کو بسبب اس عیب کے واپس کر سکتا ہے اور اگر اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا ہو کہ جس سے واپس نہیں کر سکتا ہے تو عیب قدیم کا نقصان بائع اول سے لے سکتا ہے اور مولیٰ مذکور کون امور کے مطالبہ کی اہل حرب سے خرید لانے والے یا جس کے حصہ میں پڑی ہے اس کی طرف کوئی راہ نہیں ہے لیکن اگر اس میں کوئی ایسا عیب نکلا جو اہل حرب کے پاس پیدا ہو گیا ہے یا اس نے خرید لانے والے کے پاس یا جس کے حصہ میں پڑی ہے اس کے پاس پیدا ہو گیا ہے تو اس عیب کی وجہ سے اس کو واپس کر سکتا ہے اور اگر وہ اس کے پاس مرگئی یا اس میں کوئی عیب اس کے پاس پیدا ہو گیا تو نقصان عیب نہیں لے سکتا ہے اور اگر مالک قدیم نے اس سے باندی کو بدوں حکم حاکم کے لیا ہو تو جو کچھ قرضہ اس باندی پر ہوگا وہ اس کے ساتھ آئے گا اور جنایت جو اس کے گرفتاروں پر ہوگی وہ اس باندی پر ہوگی وہ اس باندی کے پیچھے ساتھ نہ لگے گا اور مالک مذکور اس باندی کو کسی عیب قدیم کے پانے سے اس کے بائع اول کو واپس نہ کر سکے گا مگر جس سے لیا ہے اس کو بسبب عیب قدیم یا جدید کے واپس کر سکتا ہے اور اگر باندی مذکورہ اس کے پاس مرگئی ہو یعنی واپس نہ کر سکتا ہو تو جس سے لیا ہے اس سے اس کے نقصان عیب قدیم یا جدید کو لے سکتا

ہے اور اگر اس شخص کے پاس سے جس نے اس کو بہ قیمت لے لیا ہے کسی نے استحقاق ثابت کر کے لیا یعنی یہ ثابت کر دیا کہ یہ باندی میری ملک ہے پس اگر اس لینے والے نے اس کو حکم حاکم کے ساتھ لیا ہو تو جس سے یہ باندی لی ہے اسی کو واپس کر دے پھر یہ استحقاق ثابت کرنے والا اس سے بہ قیمت یا ثمن لے لے گا اور اگر اس نے بغیر حکم حاکم لی ہو تو جس نے گواہوں سے اپنا استحقاق ثابت کیا ہے وہ اسی قدر دے کر لے لے گا جس قدر لینے والے نے لی ہے۔

ایک شخص کے غلام کو اہل حرب گرفتار کر کے لے گئے پھر مولیٰ نے ایک شخص کو حکم کیا کہ غلام مذکور میرے واسطے بعوض ہزار درہم کے ان سے خرید کر پھر مرد مذکور نے اس کو اپنے واسطے خرید اتو غلام مذکور اسی حکم دینے والے یعنی مولیٰ قدیم کا ہوگا:

ہر دو صورت میں اس استحقاق ثابت کرنے والے کو اختیار ہوگا کہ اگر اس میں کوئی عیب قدیم پایا جائے تو جس بائع سے اس کو خرید اہو اس سے رجوع کرے اور اگر اس شخص نے جس نے باندی مذکورہ کو اول مرتبہ ثمن دے کر لے لیا ہے باندی مذکورہ کو آزاد کر دیا یا باندی مذکورہ اس سے بچہ جنی پس اگر اس نے بحکم قاضی اس کو لیا ہے تو جب اس مستحق نے اپنا استحقاق ثابت کیا تب قاضی اس کے آزاد کرنے کو باطل کر دے گا اور قیاساً وہ شخص اس بچہ کو بھی مثل اس کی ماں کے اس مستحق کی ملک میں رقیق^۱ واپس کر دے گا لیکن میں استحساناً یہ حکم دیتا ہوں کہ جس نے اول مرتبہ لیا ہے وہ اپنے اس بچہ کو مستحق اس کی قیمت دے کر آزاد اپنے پاس رکھے۔ اگر دو غلاموں کو اہل حرب گرفتار کر کے لے گئے اور ان دونوں کو ایک شخص ایک ہی ثمن دے کر خرید لایا تو ان کے مولیٰ کو اختیار ہوگا کہ چاہے ان دونوں میں سے ایک ہی کو اس کا حصہ ثمن مشتری کو ادا کر کے لے لے اور دوسرے کو چھوڑ دے۔ ابن سماعہ نے امام محمد سے روایت کی کہ ایک شخص کے غلام کو اہل حرب گرفتار کر کے لے گئے پھر مولیٰ نے ایک شخص کو حکم کیا کہ غلام مذکور میرے واسطے بعوض ہزار درہم کے ان سے خرید کر پھر مرد مذکور نے اس کو اپنے واسطے خرید اتو غلام مذکور اسی حکم دینے والے یعنی مولیٰ قدیم کا ہوگا اور اس طرح اگر مولیٰ نے اس شخص کو حکم کیا کہ میرے واسطے ان لوگوں سے ہبہ مانگ لے پس مرد مذکور نے اپنے واسطے ہبہ مانگ لیا تو بھی وہ مولیٰ مذکور کا ہوگا اور اس طرح اگر مولیٰ نے اس کو حکم کیا کہ اہل حرب سے غلام مذکور اس کے مولیٰ کے واسطے مانگ لے پھر مرد مذکور نے اس کو اہل حرب سے خرید کیا اور یہ خرید بعوض شراب کے واقع ہوئی تو بھی یہ غلام اپنے مولیٰ کے واسطے ہوگا اور یہ غلام حربیوں کی طرف سے مولیٰ مذکور کے لیے ہبہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر مولیٰ کو آگاہی حاصل ہوئی کہ میرا مملوک دارالحرب سے نکالا گیا ہے پھر اس نے ایک مہینہ تک اس کو طلب نہ کیا تو درنگی سے اس کا حق ساقط نہ ہو جائے گا اور امام محمد سے روایت کیا گیا ہے کہ ساقط ہو جائے گا اور اگر غلام اسیر شدہ کا وہ مولیٰ جس کے پاس سے غلام مذکور اسیر کیا گیا تھا مشتری کے دارالحرب سے نکال لانے کے بعد مر گیا تو امام محمد کے قول پر اس کے وارثوں کو اختیار ہوگا کہ مشتری مذکور سے لے لیں مگر فقط بعض وارث اگر چاہیں تو نہیں لے سکتے ہیں اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ وارثوں کو لینے کا اختیار نہیں ہے اور اگر کافر حربی کسی مسلمان کا غلام اسیر کر کے دارالحرب میں لے گیا اور اپنے احراز میں کر لیا پھر اس کو آزاد یا مدبر یا مکاتب کر دیا یا بجائے غلام کے باندی تھی کہ اس سے استیلا ذکر لیا کہ اس سے اولاد پیدا ہوئی پھر اہل اسلام نے غالب ہو کر ان اسیر شدہ مملوکوں کو مع اولاد کے پایا تو یہ سب آزاد ہوں گے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

۱۔ جس طرح اس بچہ کی ماں صاحب استحقاق کی مملوکہ ہے اسی طرح یہ بچہ بھی مملوک ہوگا۔ ۱۲۔

ابن سماعہ نے امام ابو یوسفؒ سے روایت کی کہ کسی مسلمان کے غلام کو اہل حرب گرفتار کر کے لے گئے پھر ان سے کسی شخص نے یہ غلام خرید کیا اور دارالاسلام میں لایا پھر اہل حرب دوبارہ اس کو گرفتار کر کے لے گئے پھر اہل حرب نے غلام مذکور اس مشتری کو ہبہ کر دیا تو مولیٰ قدیم کو یہ اختیار ہوگا کہ چاہے مشتری سے مشتری کا ثمن اور غلام کی قیمت دونوں دے کر لے لے اور بشر نے اپنی نوا در میں امام ابو یوسفؒ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام غصب کیا اور غاصب سے اہل حرب گرفتار کر کے لے گئے پھر غاصب نے غلام مذکور ایک شخص کے ہاتھ میں پایا جس نے اس کو اہل حرب سے خرید لیا ہے تو اس غاصب کو اس غلام کی جانب کوئی راہ نہیں ہے یہاں تک کہ اس کا مولیٰ حاضر ہو اور املاء میں امام محمدؒ سے روایت ہے کہ اگر مشرکوں نے کسی نابالغ کا غلام اسیر کر لیا اور دارالحرب میں لے گئے پھر مسلمانوں نے اس ملک پر جہاد کیا اور غلام مذکور غنیمت میں آیا اور ایک غازی کے حصہ میں پڑا پھر اس صغیر کے باپ نے قیمت دے کر نہ لیا بلکہ غازی مذکور کے سپرد کیا پھر نابالغ مذکور بالغ ہوا تو آیا غلام لے لینے کا حق جاتا رہا تو امام محمدؒ نے فرمایا کہ نہیں وہ غلام کی نسبت اپنا حق رکھتا ہے چاہے لے لے یہ محیط میں ہے۔ واضح رہے کہ اگر اہل حرب ہمارے آزاد مرد و عورتیں یا مدبر یا مکاتب یا ہماری ام ولد باندیاں گرفتار کر کے لے جائیں تو ہمارے استحقاق کی رو سے وہ ان کے مالک نہ ہو جائیں گے اور اگر ہم لوگ ان کے ان مذکوریں کو گرفتار کر لائیں تو ہم ان سب کے مالک ہو جائیں یہ کافی میں ہے۔

اگر اہل حرب کسی مسلمان کا مملوک مدبر یا مکاتب یا امام ولد گرفتار کر کے لے گئے اور مسلمانوں نے جہاد کر کے غنیمت میں اس کو حاصل کیا اور تقسیم غنیمت میں وہ کسی کے حصہ میں آیا تو اس کا مولیٰ قدیم اس کو بعد قسمت^۱ واقع ہونے کے بھی مفت بغیر کچھ دینے ہوئے لے لے گا مگر جس کے حصے میں پڑا تھا اس کو امام المسلمین اس کی قیمت بیت المال سے دے دے گا یہ مبسوط میں ہے۔ اگر اس کو اہل حرب سے کوئی شخص دام دے کر خرید لایا ہو تو مولیٰ قدیم کو اختیار ہوگا کہ اس مشتری سے مفت لے لے اور اگر یہ شخص جس کو حربی گرفتار کر کے لے گئے ہیں محض آزاد ہو پھر اس کو کوئی شخص حربیوں سے خرید کر کے دارالاسلام میں نکال لایا تو آزاد مذکور ویسا ہی آزاد ہوگا مشتری کا اس پر کچھ نہیں ہے الا اس صورت میں کہ اس نے مشتری مذکور کو اس طرح حربیوں سے معاملہ خرید کرنے کا حکم کیا ہوئے تو ایسی صورت میں ثمن مذکور اس پر قرضہ ہوگا اور اگر مسلمان کا غلام دارالاسلام سے حربیوں کی طرف بھاگ گیا اور انہوں نے پکڑ لیا تو امام اعظمؒ کے نزدیک اس کے مالک نہ ہوں گے اور اگر غلام مذکور کی جگہ مکاتب مدبر یا ام ولد یا ایسا مملوک جو اپنی قیمت ادا کرنے کے واسطے سعایت میں ہے بھاگ گیا اور حربیوں نے اس کو گرفتار کر لیا تو بالاتفاق اس کے مالک نہ ہوں گے اور جب ثابت ہوا کہ امام اعظمؒ کے نزدیک بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ لینے سے اہل حرب اس کے مالک نہیں ہوتے ہیں تو اگر ایسے غلام کو حربیوں سے کوئی شخص خرید لایا یا انہوں نے اس کو ہبہ کیا یا غنیمت میں آیا خواہ غنیمت تقسیم کر دی گئی یا نہیں پھر مالک قدیم نے اس کو پایا تو جہاں پائے مفت لے لے گا لیکن در صورت یہ کہ غنیمت تقسیم ہو گئی اور یہ غلام کسی کے حصہ میں آیا پھر اس سے مالک قدیم نے بناء پر استحقاق مذکور لے لیا تو اس شخص کو جس کے حصہ میں آیا تھا اس کا عوض بیت المال سے دے دیا جائے گا اور جس کے حصہ میں تھا اس کے لیے غلام مذکور واپس لانے کا جعل^۲ بھی مالک مذکور پر واجب نہ ہوگا۔

اگر حربیوں میں سے کسی کا غلام مسلمان ہو گیا پھر ہمارے یہاں نکل کر چلا آیا یا اس ملک پر مسلمان

۱۔ جیسے وہ قبل تقسیم کے مفت لے سکتا تھا اس طرح بعد تقسیم کے بھی مفت لے لے گا، مگر اس صورت میں کہ بعد تقسیم لیا ہے جن کے حصہ میں وہ پڑا تھا۔ اس کا

معیض بیت المال سے ہوگا ۱۲۔ ۲۔ عوض مشقت یعنی مزدوری ۱۲۔

غالب ہوئے تو وہ آزاد ہے:

فقہاء نے فرمایا کہ اگر غلام بھاگ گیا اور اس کے پاس مولیٰ کا مال ہے تو حربی لوگ اس مال کے جو اس کے پاس ہے مالک ہو جائیں گے اور خود اس غلام کے مالک نہ ہوں گے اور اگر کوئی اونٹ چھوٹ کر وحشیانہ ان کے یہاں بھاگ گیا اور انہوں نے پکڑ لیا تو اس کے مالک ہو جائیں گے اور اگر کوئی آدمی خرید کر کے اس کو دارالاسلام میں نکال لایا تو اس کے مالک قدیم کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ چاہے ثمن دے کر اس کو لے لے۔ اگر کوئی غلام اپنے ساتھ ایک گھوڑا و متاع لے کر حربیوں کی جانب بھاگ گیا اور انہوں نے یہ سب پکڑ لیا اور کسی شخص نے ان سے یہ سب خریدا اور دارالاسلام میں نکال لایا تو مولیٰ قدیم کو اختیار ہے کہ غلام کو مفت اور گھوڑے و متاع کو مشتری کا ثمن دے کر لے لے اور یہ امام اعظمؒ کے نزدیک ہے کذا فی السراج و ہاج۔ اگر حربیوں میں سے کسی کا غلام مسلمان ہو گیا پھر ہمارے یہاں نکل کر چلا آیا یا اس ملک پر مسلمان غالب ہوئے تو وہ آزاد ہے اور اس طرح اگر حربیوں کے غلام ہمارے لشکر میں نکل کر چلے آئے تو وہ آزاد ہیں یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر حربی ہمارے یہاں امان لے کر داخل ہوا اور اس نے کوئی مسلمان غلام خریدا اور کسی طور سے اس کو دارالحرب میں لے گیا تو امام اعظمؒ کے نزدیک غلام مذکور اس کی ملک سے آزاد ہو جائے گا اور صاحبین کے نزدیک آزاد نہ ہوگا اور امام ابو یوسفؒ سے ایک روایت مثل قول امام اعظمؒ کے بھی مروی ہے کہ اور اسی طرح اگر غلام مذکور ذمی ہو تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور اگر حربی کا غلام دارالحرب میں مسلمان ہو گیا تو بالاتفاق وہ اس حربی کا غلام ہوگا جیسے تھا پس اگر حربی نے اس کو کسی مسلمان یا حربی کے ہاتھ فروخت کیا تو امام اعظمؒ کے نزدیک آزاد ہا جائے گا اور صاحبین کے نزدیک آزاد نہ ہوگا اور اگر کوئی دارالحرب میں مسلمان ہو گیا اور وہاں اس کے مملوک موجود ہیں پھر وہ ہمارے یہاں نکل کر چلا آیا تو پھر اس کے پیچھے اس کا کوئی غلام بھی مسلمان ہو کر دارالاسلام میں چلا آیا تو وہ مثل سابق کے اپنے مولیٰ مذکور کا غلام ہوگا اور اس طرح اگر وہ حالت کفر ہی میں نکل آیا تو بھی یہی حکم ہے یہ سراج و ہاج میں ہے۔

اگر اہل حرب کسی مال پر جس کو انہوں نے مسلمانوں سے لیا تھا مسلمان ہوئے یا سب ذمی ہو گئے تو مال مذکور انہیں کا ہوگا کہ مسلمانوں کو ان سے لے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اور اس طرح اگر کوئی حربی دارالحرب سے نکل کر ہمارے یہاں چلا آیا یعنی یہی کی سکونت اختیار کی اور اس کے ساتھ ایسے مال مذکور میں سے کچھ ہے تو اس سے اس مال کی نسبت تعرض نہیں ہو سکتا ہے یہ مبسوط میں ہے اگر مسلمانوں نے اہل حرب میں سے کچھ لوگ گرفتار کیے اور ہنوز ان کو باہم تقسیم نہ کیا اور نہ ان کو دارالاسلام میں نکال لائے یہاں تک کہ یہ قیدی ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اپنے مامن میں بھاگ گئے یا اہل حرب نے غلبہ کیا اور ان کو چھوڑ کر اپنے مامن میں لے گئے پھر مسلمانوں میں سے دوسری قوم غالب ہوئی اور خاص ان قیدیوں کو بھی گرفتار کر کے دارالاسلام میں نکال لائے خواہ باہم تقسیم کر لیا یا ہنوز تقسیم نہیں کیا پھر اول فریق اور دوم فریق نے ان اسیروں کی بابت قاضی کے حضور میں مخاصمہ کیا تو فریق دوم ہی ان قیدیوں کا مستحق ہے اور اگر مسئلہ مذکورہ میں فریق اول نے دارالحرب میں ان قیدیوں کو باہم تقسیم کر لیا ہو مگر ان کو دارالاسلام میں نکال کر نہیں لائے اور باقی مسئلہ بحال خود واقع ہوا تو ایسی صورت میں فریق اول ہی ان اسیروں کا مستحق ہوگا پس اگر فریق اول نے ان اسیروں کو دوسرے فریق کے پاس قبل تقسیم غنیمت کے پایا تو مفت بغیر کچھ دیئے ہوئے لے لیں گے اور اگر تقسیم ہونے کے بعد پایا تو ان کو یہ اختیار ہوگا کہ چاہیں قیمت دے کر اس سے لے لیں جیسے ان کو اپنی اور املاک کی نسبت بھی اختیار حاصل ہے اور اس طرح اگر فریق اول ان کو دارالاسلام میں نکال لایا اور باہم تقسیم کر لیا پھر وہ بھاگ گئے یا اہل حرب پر غالب ہو کر ان کو چھوڑا لے گئے اور باقی مسئلہ بحال خود واقع ہوا تو بھی فریق اول ہی ان کا مستحق ہوگا اور اگر فریق اول ان اسیروں کو دارالاسلام میں نکال لایا اور ہنوز

باہم تقسیم نہ کیا تھا کہ یہ لوگ چھوٹ کر بھاگ گئے یا حربی لوگ غالب ہو کر ان کو چھوڑائے گئے پھر باقی مسئلہ بحال خود واقع ہوا تو اس صورت میں اگر فریق دوم کے باہم تقسیم کر لینے کے بعد فریق اول حاضر آیا تو فریق دوم ہی ان قیدیوں کا مستحق ہوگا چنانچہ اسی طرح یہ مسئلہ زیادات میں مذکور ہے۔

اگر فریق دوم کے باہم تقسیم کر لینے سے پہلے فریق اول حاضر ہوا تو اس میں دو روایتیں ہیں ایک روایت میں مذکور ہے کہ فریق اول ہی مستحق ہوگا اور دوسری روایت میں ہے کہ فریق دوم مستحق ہوگا اور اگر فریق اول ان کو اپنے احراز میں نکال لائے اور باہم تقسیم نہ کیا یہاں تک کہ حربیوں نے غالب ہو کر ان کو چھوڑ لیا اور ہنوز ان کو دارالحرب میں اپنے احراز میں نہیں لے جانے پائے تھے کہ مسلمانوں میں سے دوسری قوم نے دارالاسلام میں ان پر غالب ہو کر ان اسیروں کو ان سے لے لیا تو فریق دوم ان اسیروں کو فریق اول کو واپس کر دینے کے خواہ باہم تقسیم کر لیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن اگر فریق دوم کے درمیان ان کا بانٹ دینے والا ایسا امام ہو جس کے نزدیک مشرکوں کا اس طرح لے لینا تمسک و احراز ہے تو ایسی صورت میں فریق دوم ہی ان کا مستحق رہے گا یہ محیط میں ہے۔ جاننا چاہیے کہ دارالحرب ایک ہی شرط سے دارالاسلام ہو جاتا ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ اس ملک میں اسلام کا اظہار ہو۔ امام محمد نے زیادات میں بیان فرمایا کہ دارالاسلام امام اعظم کے نزدیک جب ہی دارالحرب ہو جاتا ہے کہ تین شرطیں پائی جائیں ایک یہ کہ اس میں احکام کفار کے برسبیل اشتہار جاری ہوں اور حکم اسلام کے موافق اس میں حکم نہ دیا جائے دوم یہ کہ یہ ملک دارالحرب سے اس طرح متصل ہو کہ ان دونوں کے درمیان بلاد اسلام میں سے کوئی بلاد نہ ہو اور سوم یہ کہ اس میں کوئی مسلمان اور کوئی ذمی اپنی امان اول پر جو اس کو قبل غلبہ کفار کے حاصل تھی باقی نہ رہے یعنی جو امان مسلمان کو اپنے اسلام سے اور ذمی کو اپنے عقد ذمہ سے حاصل تھی باقی نہ رہے اور اس صورت مسئلہ تین وجہ سے ہے ایک یہ کہ اہل حرب ہمارے کسی دیار پر غالب ہو جائیں اور دوم یہ کسی شہر کے لوگ اسلام سے مرتد ہو کر غالب ہو جائیں اور احکام کفر وہاں جاری کریں سوم یہ کہ کسی شہر کے ذمی اپنا عقد ذمہ توڑ دیں اور برسبیل تغلب اس شہر پر قابض ہو جائیں تو ان سب صورتوں میں سے ہر صورت میں یہ صوبہ یا شہر یا ملک جب ہی دارالحرب ہو جائے گا کہ جب تینوں شرطیں مذکورہ بالا پائی جائیں اور امام ابو یوسف و امام محمد نے فرمایا کہ ایک ہی شرط ہے دارالاسلام بھی دارالحرب ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں احکام کفر جاری و ظاہر ہوں اور یہ قول موافق قیاس کے ہے۔ پھر اگر کوئی ملک بسبب تینوں شرائط مذکورہ بالا پائی جانے کے دارالحرب ہو گیا پھر اس کو امام نے فتح کیا اور غنیمت لوٹ میں آئی پھر قبل تقسیم غنیمت کے وہاں کے لوگ حاضر ہوئے تو اس کو مفت بغیر کچھ دیئے لے لیں گے یعنی دی جائے گی اور اگر بعد تقسیم ہو جانے کے حاضر ہوئے تو ہر ایک اپنی اپنی چیز اس کی قیمت دے کر لے سکتا ہے اور رہی زمین پس بعد فتح کر لینے امام المسلمین کے وہ اپنے حکم اول کی طرف عود کرے گی یعنی اگر وہ زمین خراجی تھی تو خراجی ہو جائے گی اور اگر عشری تھی تو عشری ہو جائے گی لیکن اگر قبل اس کے امام نے اس پر خراج باندھ دیا ہو تو وہ عود کرنے میں عشری نہ ہوگی یہ سراج و ہاج میں ہے۔

باب : ۶

مستامن یعنی امان لے کر داخل ہونے والے کے بیان میں

اس میں تین فصلیں ہیں

فصل : ۱

مسلمان کی امان لے کر دارالحرب میں داخل ہونے کے بیان میں

اگر کوئی مسلمان تاجر امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوا تو اس پر حرام ہے کہ حربیوں کی جانوں یا مالوں سے کچھ تعرض کرے لیکن اگر ان تاجروں کے ساتھ حربیوں کے بادشاہ نے جان بوجھ کر عذر کیا یا اس طور کہ ان کے مال لے لیے یا قید کیا یا اور کسی نے ظلم کیا اور بادشاہ نے جان بوجھ کر منع نہ کیا تو ایسی حالت میں ان تاجروں کو ان کی جانوں و مالوں سے تعرض کرنا مباح ہے مانند اس شخص کے جس کو اہل حرب قید کر کے لے گئے یا بطور چوروں کے وہ ان کے ملک میں پوشیدہ داخل ہوا کہ اس کو یہ امور مباح ہوتے ہیں پس اس طرح ایسے تاجروں کو بھی روا ہے کہ ان کا مال لے لے اور ان کو قتل کرے مگر یہ نہیں روا ہے کہ وہاں کی کسی عورت سے حلال جان کروٹی کرے اس واسطے کہ فروج کی حاست سوائے ملک کے نہیں ہوتی ہے اور جب تک کہ اپنے دارالاسلام میں حربیہ عورت کو لا کر اپنے احراز میں نہ کرے تب تک ملک متحقق نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس نے دارالاسلام میں اپنی منکوہ عورت کو جس کو اہل حرب قید کر کے لے گئے ہیں پایا یا اپنی ام ولد یا مدبرہ کو پایا اور حال یہ ہے کہ اہل حرب نے ان عورتوں سے وطی نہیں کی ہے تو یہ عورتیں اس کی ملک میں باقی ہیں پس ان سے وطی کر سکتا ہے مگر ان عورتوں سے اگر اہل حرب نے وطی کی ہو تو ان عورتوں کے حق میں شبہ پیدا ہوگا پس ان عورتوں پر عدت واجب ہوگی لہذا جب تک ان کی عدت منقضی نہ ہو جائے تب تک ان سے وطی کرنا اس کو روا نہیں ہے بخلاف اس کے اگر شخص مملوکہ باندی کو اہل حرب قید کر کے لے گئے ہوں اور اس کو اس نے وہاں پایا تو اس کے ساتھ اس کو وطی کرنا جائز نہیں ہے اگرچہ اہل حرب نے اس سے وطی نہ کی ہو اس واسطے کہ حربی ایسی باندی کے مالک ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے اس کو جائز نہیں ہے کہ اس باندی سے کسی طرح کچھ تعرض کرے بشرطیکہ ان کے دیار میں امان لے کر داخل ہوا اور امان توڑی نہیں گئی اور اپنی زوجہ و ام ولد و مدبرہ سے اس کو تعرض جائز ہے یہ تبیین میں ہے۔

اگر دو مسلمان امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوئے پھر ان میں سے ایک نے دوسرے کو عمداً یا

خطا قتل کیا تو قاتل پر اس کے مال سے مقتول کی دیت واجب ہوگی:

اگر تاجر مذکور نے خود عذر کیا اور حربیوں کی کوئی چیز لے کر دارالاسلام میں نکال لایا تو اس کا مالک تو ہو جائے گا مگر بہ ملک حبیث یعنی حرام طور پر مالک ہوگا پس اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ چیز صدقہ کر دے۔ اگر اس تاجر کے ہاتھ کسی حربی نے کوئی چیز قرض بیچی یا اس نے کسی حربی کے ہاتھ قرض بیچی یا اس تاجر حربی میں سے کسی نے دوسرے سے غصب کر لی پھر تاجر مذکور دارالاسلام میں چلا آیا اور حربی مذکور بھی امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہوا یا کسی حربی نے دوسرے حربی کے ہاتھ کوئی چیز قرض بیچی یا ایک حربی نے دوسرے حربی کی کوئی چیز غصب کر لی پھر دونوں امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہوئے اور یہاں کے حاکم کے حضور میں نالش پیش کی تو ان دونوں میں سے کسی کے واسطے دوسرے پر کچھ حکم کسی چیز کا نہ دیا جائے گا اور اگر دونوں حربی مذکور مسلمان ہو کر

دارالاسلام میں آگئے ہوں تو جس کا قرضہ چاہیے ہے اس کے واسطے قرض دار پر اس کے قرضہ کا حکم دے دیا جائے گا اور رہی غصب کی صورت سو سب وجوہ مذکورہ بالا میں غصب کی بابت قضاء کچھ تعرض نہ کیا جائے گا لیکن جس صورت میں کہ مسلمان حربیوں کے یہاں امان لے کر داخل ہوا اور حربی کی کوئی چیز غصب کر لی ہے اور حربی مسلمان ہو کر یہاں آیا اور ناش پیش کی ہے تو غاصب کو ازراہ دیانت مال غصب اس کو واپس کر دینے کا حکم دیا جائے گا مگر قضاء اس پر حکم نہ دیا جائے گا۔ اگر دو مسلمان امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوئے پھر ان میں سے ایک نے دوسرے کو عمدہ یا خطا قتل کیا تو قاتل پر اس کے مال سے مقتول کی دیت واجب ہوگی اور خطا قتل کرنے کی صورت میں اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا اور رہا قصاص سوطا ہر الروایہ کے موافق قصاص واجب نہیں ہوتا ہے اگر یہ دونوں قیدی ہوں یعنی کفار ان کو دارالاسلام سے قید کر کے لے گئے ہوں پھر ایک نے دوسرے کو قتل کیا یا مسلمان تاجر نے کسی مسلمان اسیر کو قتل کیا تو امام اعظمؒ کے نزدیک قاتل پر کچھ واجب نہیں ہے سوائے اس کے کہ خطا قتل کرنے کی صورت میں کفارہ قتل ادا کرنا واجب ہے یہ کافی میں ہے امام محمدؒ نے فرمایا کہ مضائقہ نہیں ہے کہ مسلمان تاجر اہل حرب کے یہاں چاہے جو چیز لے جائے سوائے کراع و سلاح و سبی کے اور اگر حربیوں کے یہاں کچھ نہ لے جائے تو میرے نزدیک پسندیدہ تر ہے۔

کراع و سلاح سے مراد:

شیخ شمس الاممہ سرخسی نے شرح سیر کبیر میں فرمایا کہ کراع سے مراد ہر طرح کے گھوڑے اور فخر و گدھے و اونٹ و مال لادنے کے بیل ہیں اور سلاح سے مراد یہ ہے کہ جو قتال کے واسطے مہیا کیا ہو اور لڑائی میں استعمال کیا جاتا ہے خواہ اس کے ساتھ وہ سوائے لڑائی کے اور کام میں استعمال کیا جاتا ہو یا نہ کیا جاتا ہو اور تمام جنس سلاح ہے خواہ خرد ہو یا کلاں ہو چنانچہ کہ سوئی و سو جا تک ان کے یہاں بھر لے جانا کراہیت میں یکساں ہیں۔ اسی طرح جس لوہے سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں اس کا بھرتی کر کے دارالحرب میں لے جانا مکروہ ہے اور اسی طرح حریر و دیباچ اور قز جو غیر معمول یعنی ساختہ ہوئے تو اس کا لے جانا بھی مکروہ ہے۔ اگر حریریشم یا قز کے باریک کپڑے ہوں تو ان کو لے جانے میں مضائقہ نہیں ہے اور پیتل و کانسہ اہل حرب کے یہاں لے جانے میں مضائقہ نہیں ہے اور یہی حکم قلعی کا ہے اس واسطے کہ غالباً انکا استعمال ہتھیاروں میں نہیں ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ غالب ہتھیار اپنے اس سے بناتے ہوں تو ان میں سے کسی چیز کا ان کے یہاں لے جانا حلال نہیں ہے اور نسور زندہ (جمع نسر طائر ۱۲ منہ) یا مذبح کا مع بازو دن کے اہل حرب کے یہاں لے جانا و انہیں ہے اس واسطے کہ غالباً ان کے بازو کے پروں سے نشاوب و نیل کی ڈنڈی لگائی جاتی ہے اور اگر عقاب کے بازو کے پروں سے ایسا کیا جاتا ہو تو اس کا بھی اسطور سے داخل کرنا روا نہیں ہے اور اگر وہ شکاری ہی کے واسطے اس ملک میں جاتے ہوں تو ان کا وہاں لے جانا روا ہے اور بازو و صقرا کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر مسلمانوں نے امان لے کر دارالحرب میں تجارت کے واسطے جانے کا مقصد کیا حالانکہ اس کے ساتھ اس کا گھوڑا و ہتھیار ہیں کہ جس کو اہل حرب کے ہاتھ فروخت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے ساتھ لے جانے سے منع نہ کیا جائے گا لیکن یہ اس وقت ہے کہ یہ معلوم ہو کہ اہل حرب اس سے ان چیزوں کے واسطے کچھ متعرض نہ ہوں گے اور اسی طرح باقی جانور ان سواری کا بھی یہی حکم ہے لیکن اگر یہ تاجر ان چیزوں سے کسی چیز کی نسبت متہم ہو کہ ان کے ہاتھ بیچنے کے واسطے لیے جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قسم لی جائے گی کہ میں بیچ کے واسطے ان چیزوں کو نہیں لیے جاتا ہوں اور فروخت نہ کروں گا یہاں تک کہ اس کو دارالحرب سے دارالاسلام میں نکال لاؤں الا بوجہ

۱۔ بازو و صقرا دونوں پرندے شکاری ہیں بازو تو معروف ہے اور صقرا کی ہندی لگڑ ہے جو کبوتر وغیرہ کا شکار کرتا ہے ۱۲☆

☆ ص ۳۰۳ پر ہم اس کے متعلق لکھ چکے وہاں سے ملاحظہ کریں یہاں پہ (کئی اور جگہ کی طرح) مترجم نے احتیاطاً بطور تکرار لکھا ہے..... (حافظ)

ضرورت و سختی پیش آنے کے پس اگر اس نے اس طور پر قسم کھائی تو تہمت مذکورہ اس کے ذمہ سے دور ہو جائے گی اور دارالحرب میں لے جانے دیا جائے گا اور اگر اس نے قسم نہ کھائی تو ان میں سے کوئی چیز دارالحرب میں نہ لے جانے پاؤں گا اور روکا جائے گا۔

اگر ذمی نے تجارت کے واسطے امان لے کر جانے کا قصد کیا تو وہ گھوڑا و ہتھیار ساتھ لے جانے سے منع کیا جائیگا:

اس طرح اگر ذریا کی راہ سے مال تجارت کشتی میں بھر کر لے جانا چاہا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر ایک یا دو غلام لے جانے کا قصد کیا تا کہ اس کی خدمت کیا کریں تو اس کو ممانعت نہ کی جائے گی اس واسطے کہ اس کو خدمت کی حاجت ہے مگر ایسے غلاموں کے لے جانے سے منع کیا جائے گا جن کی تجارت کا ارادہ رکھتا ہے پس اگر متہم ہوا کہ بیچنے کے واسطے لے جاتا ہے تو اس سے قسم لی جائے گی۔ اگر ذمی نے تجارت کے واسطے امان لے کر جانے کا قصد کیا تو وہ گھوڑا و برذون و ہتھیار ساتھ لے جانے سے منع کیا جائے گا لیکن اگر ذمی مذکور ان اہل حرب جب کے ساتھ عداوت رکھنے میں معروف ہو اور ماموں ہو کہ ایسا نہ کرے گا تو اس کا حال مثل مسلمان تاجر کے ہے۔ اگر اس نے اپنی تجارت کے واسطے نچر یا گدھے یا گاڑی یا اونٹ پر سوار ہو کر یا لاد کردار الحرب میں جانا چاہا تو منع نہ کیا جائے گا مگر اس سے قسم لی جائے گی کہ نچر و کشتی و رقیق جو وہاں ساتھ لے جاتا ہے ان کے ہاتھ فروخت کرنے کا قصد نہیں رکھتا ہے اور ان کو فروخت نہ کرے گا یہاں تک کہ ان کو دارالاسلام میں نکال لائے گا الا بسبب ضرورت پیش آنے کے اور اگر حربی متامن نے دارالاسلام سے دارالحرب کی طرف لوٹ جانے کا ارادہ کیا ہو اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ذکر کی ہیں کسی چیز کو ساتھ لے جانا چاہا تو اس کو اس سے منع کیا جائے گا اور روکا جائے گا لیکن اگر حربی مذکور کسی مسلمان یا ذمی کو کشتی یا کوئی جانور سواری کرایہ پر دے کر لایا ہو اور یہاں سے یہ چیز واپس لیے جاتا ہو تو ایسی صورت میں وہ منع نہ کیا جائے گا اور اگر اہل حرب ایسے لوگ ہوں کہ جب کوئی تاجر مسلمان یا ذمی ان کے یہاں ان چیزوں میں سے کوئی چیز لے جاتا ہے تو پھر واپس نہیں لانے دیتے ہیں مگر اس کا ثمن اس کو دے دیتے ہیں تو تاجر مسلمان یا ذمی کو ان کے یہاں ہر قسم کے گھوڑے و ہتھیار و رقیق لے جانے سے ممانعت کی جائے گی مگر نچر و گدھے و بیل و اونٹ لے جانے سے نہ روکا جائے گا اور اسی طرح ایک کشتی لے جانے سے جس پر سوار ہوتا ہے اور اسباب لادتا ہے منع نہ کیا جائے گا اور اگر اس نے دوسری کشتی اس کے ساتھ لے جانے کا قصد کیا تو اس سے روک دیا جائے گا اور یہ سب بحکم استحسان ہے اور ایسی حالت میں وہ اپنے ساتھ کوئی خادم خواہ مسلمان ہو یا کافر ہونے سے لے جانے پائے گا اور اگر کوئی حربی ہمارے یہاں امان لے کر کراع و سلاح و رقیق کے ساتھ داخل ہوا تو جو کچھ ساتھ لایا ہے اس کو لے کر لوٹ جانے سے منع نہ کیا جائے گا اور اگر اس نے چیزیں درہموں یعنی نقد کے عوض بیچ ڈالیں پھر اس نقد کے عوض یہاں سے بھی دوسری چیزیں خریدیں خواہ ویسے ہی کہ ایسی اس کی تھیں یا ان سے افضل یا ان سے بدتر تو وہ ان چیزوں میں سے کسی کو دارالحرب میں نہ لے جانے پائے گا اور اس طرح اگر اس نے وہی بعینہ خرید لیں جن کو فروخت کیا ہے یا مشتری سے درخواست کی کہ مجھے اقالہ^۱ کر لے پس مشتری نے اس بیع کا قبل قبضہ بیع کے یا بعد قبضہ بیع کے اقالہ کر دیا یا مشتری نے ان خریدی ہوئی چیزوں کو بسبب خیاردویت کے یا بسبب خیار شرط کے جو مشتری نے اپنے واسطے شرط کیا تھا حربی مذکور کو واپس کر دیا تو بھی یہی حکم ہے کہ حربی مذکور ان چیزوں کو یہاں سے نہ لے جانے پائے گا۔ اگر حربی مذکور نے بیع میں اپنے واسطے خیار شرط کر لیا ہو پھر اس خیار کی وجہ سے بیع کو توڑ دیا تو اس کو اختیار رہے گا چاہے ان چیزوں کو اپنے ساتھ واپس کے جائے۔ یہ محیط میں ہے۔

۱۔ اس بیع کو رد کرے اور بیع کو توڑ دے ۱۲۔ ۲۔ چاہے فروخت کر کے قیمت و دام نقد لے جائے یا سوائے ایسی چیزوں کے دوسرے قسم کے اسباب کو

اگر حربی کوئی توار لایا اور بجائے اس کے گمان یا نیرہ یا ہال خریدی تو یہاں سے دارالحرب میں نہ لے جانے پائے گا اور اسی طرح اگر اپنی توار سے بہتر دوسری توار اپنی توار سے بدل لی تو بھی یہی حکم ہے اور اگر دوسری توار اس کی توار کے مثل یا خراب ہو تو اس کو ساتھ لے جانے سے منع نہ کیا جائے گا یہ مبسوط میں ہے اور اس جنس کے مسائل میں اصل یہ ہے کہ ہر گاہ اس نے اپنے ہتھیار کے عوض دوسری جنس کا ہتھیار بدل لیا تو اس کو نہ لے جانے پائے گا اور اس پر جبر کیا جائے گا کہ اس کو دارالاسلام میں فروخت کر دے خواہ یہ ہتھیار جو اس نے بدل لیا ہے اس کے ہتھیار کی نسبت فائدہ میں بہتر ہو یا بدتر ہو اور اگر اس نے اپنے ہتھیار کے بدل میں اسی جنس کا ہتھیار لیا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے ہتھیار کے مثل یا اس سے خراب ہے تو اس کو لے کر دارالحرب میں لوٹا جا سکتا ہے روکا نہ جائے گا اور اگر اس ہتھیار سے اچھا ہو تو لے جانے نہ پائے گا اور اگر اس نے اپنے ہتھیار کے مثل بدل لیا پھر دونوں نے باہم بیع کا اقالہ کر لیا ہو تو جو ہتھیار اس کو ملا ہے یعنی اسی کا پہلا ہتھیار کہ بعد اقالہ کے ملا ہے اس کو لے کر دارالحرب میں لوٹا جا سکتا ہے اور اگر اس نے بیع مبادلہ میں اپنے ہتھیار سے اچھا یا خراب بدل لیا ہو پھر دونوں نے بیع کا اقالہ کر لیا تو بعد اقالہ کے جو ہتھیار اس کا اس کے ہاتھ آیا ہے اس کو دونوں صورتوں میں ساتھ لے کر واپس نہیں جا سکتا ہے اور کرایع کا مبادلہ کرنا سب صورتوں میں وہی حکم رکھتا ہے جو ہتھیار کے مبادلہ میں ہم نے بیان کیا اور اگر اس نے اپنے نرگدھے کے عوض مادہ گدھی بدل لی یا نرگھوڑے کے عوض مادہ گھوڑی بدل لی تو اس کو دارالحرب میں لے جانے سے روکا جائے گا اگرچہ جس کو لے جاتا ہے قیمت میں اس سے کم ہو جس کو بدل کر چھوڑے جاتا ہے اور اگر اس نے اپنے نر خچر کے عوض مادہ خچری بدل لی خواہ قیمت میں اس کے مثل ہو یا کم ہو تو چھوڑ دیا جائے گا کہ اس کو لے جائے۔

اگر روم کے دو اشخاص حربی امان لے کر ہمارے یہاں داخل ہوئے اور ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ رقیق اور دوسرے کے ساتھ ہتھیار ہیں:

اگر اس نے اپنی مادیان کے عوض نر بدل لیا تو نہیں لے جانے پائے گا اور اگر اس نے اپنے اصل گھوڑے کے عوض پر ذون یعنی دوغلا گھوڑا یا بر ذون عوض اصل گھوڑا بدل لیا تو اس کے ساتھ لے جانے سے روکا جائے گا اور نہ لے جانے پائے گا اور اگر اس نے اپنی مادہ گھوڑی کے عوض دوسری مادہ گھوڑی جو اس کی گھوڑی سے دوڑ میں کم ہے بدل لی لیکن بدلی ہوئی گھوڑی اس کی گھوڑی کے بہ نسبت مضبوط زیادہ ہے اور اس سے نسل کی امید زیادہ ہے تو لے جانے سے روکا جائے گا اور اس پر جبر کیا جائے گا کہ اس کو یہاں فروخت کر دے لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ جو گھوڑی اس نے دے دی ہے اس کی بہ نسبت یہ گھوڑی جس کو لے جاتا ہے انتفاع حاصل کرنے میں سب طرح سے کم یا برابر ہے تو لے جا سکتا ہے اور رہی باندی و غلام یعنی رقیق سوان کو کسی طرح بعد تبدیل کر لینے کے نہیں لے جا سکتا ہے اس پر جبر کیا جائے گا کہ فروخت کر دے خواہ جو رقیق بدلے میں لیا ہے اس جنس کا ہو جو اس نے دیا ہے یا غیر جنس ہو خواہ اس سے گھٹ کر ہو یا بڑھ کر ہو یا برابر ہو۔ اگر روم کے دو اشخاص حربی امان لے کر ہمارے یہاں داخل ہوئے اور ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ رقیق اور دوسرے کے ساتھ ہتھیار ہیں پھر دونوں نے آپس میں رقیق اور ہتھیاروں کا مبادلہ کر لیا یا ہر ایک نے اپنا مال دوسرے کے ہاتھ درہموں کے عوض بیچ ڈالا پھر ہر ایک نے اس چیز کو جو اس نے اس طرح حاصل کی ہے دارالحرب میں لے جانا چاہا تو منع نہ کیا جائے گا اور اگر روم کا کوئی حربی یہاں امان لے کر داخل ہو اور اپنے ساتھ کرایع یا سلاح یا رقیق لایا پھر یہاں سے اس نے چاہا کہ تاتاریا ویلم وغیرہ کسی ایسے کافروں کے ملک میں جو مسلمان کے دشمن ہیں ان چیزوں کو لے کر جائے تاکہ

ان کے ہاتھ فروخت کرے تو اس کو اس سے منع کیا جائے گا اور اسی طرح اگر ان چیزوں کو ایسے دارالحرب میں داخل کرنا چاہا جن سے مسلمانوں کو موادعت ہے تو بھی منع کیا جائے گا اور اگر ایسے ملک میں لے جانا چاہا جہاں کے لوگ مسلمانوں کے اہل ذمہ ہیں تو منع نہ کیا جائے گا اور اگر دو حربی مستامن ہمارے یہاں آئے ایک درہم کا ہے اور دوسرا تاتار کا ہے اور ان میں سے ایک کے ساتھ رقیق اور دوسرے کے ساتھ کراع یا سلاح ہیں پھر دونوں نے باہم ان چیزوں کا مبادلہ کر لیا یا ہر ایک نے دوسرے کی متاع کو درہموں کے عوض خریدا تو دونوں میں سے کسی کو نہ چھوڑا جائے گا کہ وہ اپنی خریدی ہوئی اس چیز کو اپنے ملک میں لے جائے اور اگر دونوں میں سے ہر ایک نے یکساں صنعت کے ہتھیار بدل لیے تو ہر ایک کو اختیار دیا جائے گا کہ اپنی خریدی ہوئی چیز کو اپنے ملک میں لے جائے۔

اگر دونوں میں سے ایک نے بہ نسبت دوسرے کے بہتر لیا ہو تو جس نے دونوں میں سے خراب لیا ہے وہ اپنے خراب ہتھیار کو اپنے ملک میں لے جاسکتا ہے اور جس نے بہتر لیا ہے وہ نہیں لے جاسکتا ہے بلکہ اس پر جبر کیا جائے گا کہ اس کو فروخت کر دے بمنزلہ اس کے جیسے کہ حربی نے مسلمان سے ایسا مبادلہ کیا چنانچہ اس میں بھی یہی حکم ہوتا ہے اور اس طرح اگر دونوں میں سے افضل ہتھیار کے بائع کو مشتری نے بسبب خیار رویت یا اپنے خیار شرط یا بسبب عیب کے خریدا ہوا ہتھیار واپس کر دیا ہو تو بھی وہ اس کو دارالحرب میں واپس نہیں لے جاسکتا ہے بخلاف اس کے اگر دونوں نے باہم رقیق سے مبادلہ کر لیا اور یہ دونوں رقیق یکساں ہیں یا ان میں سے ایک بہ نسبت دوسرے کے افضل ہے تو اس صورت میں ان دونوں کا مبادلہ بمنزلہ مبادلہ مسلمان یا ذمی و مستامن کے قرار نہ دیا جائے گا پس در صورتیکہ ہر دو رقیق میں مساوات متحقق ہو تو جس کی ملک میں اس بیع سے جو رقیق آ گیا ہے اس کو اپنے ملک میں لے جانے سے ممانعت نہ کی جائے گی اور اگر دونوں میں سے ایک افضل ہو اور دوسرا گھٹیا ہو تو جس نے گھٹیا لیا ہے وہ منع نہ کیا جائے گا اور جس نے افضل لیا ہے اس کو ممانعت (روکا جائے گا ۱۲ منہ) کی جائے گی اور اگر دونوں نے باہم باندی و غلام کا مبادلہ کیا ہو تو دونوں میں سے کسی کو اجازت نہ ہوگی کہ جو اس نے لیا ہے اس کو اپنے ملک میں لے جائے اس واسطے کہ نہ موادہ کا اختلاف جنسی ہے کذا فی المحیط۔

فصل : ۲

حربی کے امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہونے کے بیان میں

اگر حربی امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہوا تو اس کو یہ قدرت نہ دی جائے گی کہ یہاں سال بھر تک رہے اور امام المسلمین اس سے فرما دے گا کہ اگر تو سال بھر تک یہاں رہے گا تو میں تجھ پر جزیہ باندھ دوں گا پھر اگر امام کے اس طرح اس سے فرمانے کے بعد وہ سال تمام ہونے سے پہلے اپنے ملک کو واپس گیا تو اس پر کوئی راہ نہیں ہے اور اگر نہ گیا یہیں رہا تو وہ ذمی ہے اور جزیہ کے واسطے سال اس وقت سے شمار ہوگا جس وقت سے امام نے اس سے کہہ دیا ہے نہ۔ اس وقت سے کہ جس وقت سے وہ دارالاسلام میں داخل ہوا ہے اور امام کو یہ بھی روا ہے کہ اگر مصلحت دیکھے تو اس کے واسطے اس سے کم مدت مقرر کر دے مثلاً مہینہ یا دو مہینے چنانچہ اس کے بعد اگر وہ رہا تو ذمی ہو جائے گا پھر جو مدت مقرر کر دی ہے اگر اس کے بعد گزر جانے کے وہ ذمی ہو گیا تو از سر نو اس سے اس وقت کے بعد سے آئندہ سال کے واسطے جزیہ لے گا لیکن اگر اس کے واسطے یہ شرط کر دی ہو کہ اگر تو سال بھر تک رہا تو

۱ مدت معین تک باہم صلح ہے اور اس وقت تک لڑائی سے مہلت دی گئی ہے ۱۲۔ ۲ یعنی غلام کو دوسرے غلام سے مبادلہ کیا ۱۲۔

تجھ سے جزیہ لوں گا تو ایسی صورت میں سال تمام ہونے پر جزیہ لے لے گا کذا فی التسمیٰ۔

پھر اس کے بعد وہ نہ چھوڑا جائے گا کہ دار الحرب میں لوٹ جائے یہ کفایہ میں ہے۔ اگر کوئی حربی ہمارے ملک میں امان لے کر آیا اور اس نے یہاں کوئی زمین خرابی خریدی پھر جب اس پر خراج باندھا گیا تب ہی سے وہ ذمی ہو گیا اور اس طرح اگر اس نے زمین عشری خریدی تو وہ زمین بنا بر قول امام محمد کے عشری رہے گی اور بنا بر قول امام اعظم کے خراجی ہو جائے گی پس خراجی باندھے جانے کے وقت سے اس سے آئندہ سال کا جزیہ لیا جائے گا اور اس کے حق میں زمیوں کے احکام ثابت ہوں گے چنانچہ دار الحرب میں جانے سے منع کیا جائے گا اور اس کے و مسلمان کے درمیان قصاص جاری ہوگا اور اگر کسی مسلمان نے اس کی شراب یا سور کو تلف کر دیا تو اس کی قیمت تاوان دے گا اور اگر وہ خطا سے قتل کیا گیا تو اس کی دیت واجب ہوگی اور واجب ہوگا کہ جو چیز اس کو تکلیف دہ ہو وہ اس سے دور کی جائے چنانچہ اس کی غنیمت حرام ہوگی جیسے مسلمان کی غنیمت حرام ہے اور خراج باندھنے سے یہ مراد ہے کہ اس پر خراج لازم کر دیا جائے گا اور جب سے اس نے سبب خراج کیا ہے اس وقت سے وقت خراج کی میعاد پوری ہو جانے پر اس سے لے لیا جائے گا اور سبب خراج اس اراضی کی زراعت ہے یا اس کو اس زمین میں زراعت کی قدرت حاصل ہو اگرچہ اس نے بیکار چھوڑ رکھا ہو بشرطیکہ اس کی ملک میں یہ فتح القدر میں ہے۔

اگر کوئی حربی ہمارے یہاں امان لے کر داخل ہوا اور اس نے کسی ذمیہ عورت سے نکاح کیا تو اس عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے یہ مرد حربی ذمی نہ ہو جائے گا:

خالی خریدنے ہی سے ظاہر الروایت کے موافق ذمی نہیں ہو جاتا ہے اور امام محمد نے فرمایا کہ اگر اس نے اس اراضی کو فروخت کر دیا قبل اس کے کہ اس کا خراج واجب ہوئے تو اس کے خرید کی وجہ سے ذمی نہ ہو جائے گا اور اگر خراجی زمین کو اجارہ پر لے کر اس میں زراعت کی تو ذمی نہ ہو جائے گا اور اگر ایسی زمین خراجی ہو کہ جس کا خراج موظف نہیں ہے بلکہ بٹائی ہے اور حربی نے اپنے بیٹوں سے اس میں زراعت کی پھر جو کچھ پیداوار ہوئی اس میں سے امام نے خراج لیا اور خراج کا حکم اس مزارع یعنی حربی پر جاری کیا نہ مالک زمین پر تو امام اس حربی کو ذمی قرار دے گا اور اس پر اس کی جان کا خراج بھی مقرر کرے گا یعنی جزیہ مقرر کرے گا اور اگر حربی مستامن نے ایسی اراضی کو خریداجس کا خراج بٹائی پر ہے اور اس کو کسی مسلمان کو اجارہ پر دے دیا اور امام نے اس کا خراج اس مسلمان مستاجر سے لے لیا اور اس کا مذہب یہ ہے کہ خراج مذکور زراعت پر ہوتا ہے تو مستامن مذکور ذمی نہ ہو جائے گا اور اگر مستامن نے خریدی ہوئی زمین میں زراعت کی اور یہ زمین خراجی ہے پھر اس کی کھیتی جی پھر زراعت کو ایسی آفت پہنچی کہ وہ جاتی رہی تو زمین مذکور پر اس سال خراج نہ ہوگا اور حربی مذکور ذمی نہ ہو جائے گا۔ اگر حربی مستامن ایک زمین کا مالک ہو اور مالک ہونے کے وقت سے چھ مہینے سے کم میں اس اراضی پر خراج واجب ہو تو جس وقت سے اس کی زمین پر خراج واجب ہوا ہے جس کا ادا کرنا اس پر واجب ہوا ہے اس وقت سے وہ ذمی ہو جائے گا اور اس پر اس کے نفس کا جزیہ واجب ہوگا کہ جس روز سے اس کی زمین پر خراج واجب ہوا ہے اس کے بعد سے ایک سال گزرنے پر اس سے یہ جزیہ لے لیا جائے گا۔ اگر حربیہ عورت امان لے کر ہمارے یہاں داخل ہوئی اور ان سے کسی ذمی یا مسلمان سے نکاح کر لیا تو وہ ذمیہ ہوگئی اور اگر کوئی حربی ہمارے یہاں امان لے کر داخل ہوا اور اس نے کسی ذمیہ عورت سے نکاح کیا تو اس عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے یہ مرد حربی ذمی نہ ہو جائے گا۔ یہ

۱۔ اگر کوئی معاملہ پیش آئے ۱۲۔ ۲۔ مقدار معینہ و مقررہ ۱۲۔ ۳۔ زراعت کنندہ جس کو کاشتکار کہتے ہیں ۱۲۔ ۴۔ باین طور کہ وہ عورت یہودیہ یا نصرانیہ یعنی اہل کتاب سے تھی ۱۲۔

سراج و ہاج میں ہے۔

اگر حربی مستامن اپنے دارالحرب میں لوٹ گیا اور کسی مسلمان یا ذمی کے پاس کچھ ودیعت چھوڑ گیا یا ان پر کچھ قرضہ چھوڑ گیا تو حربی مذکور کا خون بعد دارالحرب میں داخل ہونے کے حلال ہو گیا و لیکن جو مال اس کا مسلمانوں یا ذمیوں کے پاس دارالاسلام میں ہے وہ ویسا ہی باقی رہے گا کہ اس کا تصرف میں لانا حرام ہے پھر اگر حربی مذکور وہاں سے گرفتار کر کے لایا گیا یا لشکر اسلام اس دارالحرب پر غالب ہو اور حربی مذکور قتل کیا گیا تو اس کا قرضہ ساقط ہو گیا اور جو مال اس کا ودیعت تھا وہ فنی ہو گیا اور اگر اس کا کچھ مال یہاں رہن تھا تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس کو مرتہن اپنے قرضہ میں لے لے گا اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ یہ مال مرہون فروخت کیا جائے گا اور اس کے ثمن سے مرتہن کا قرضہ پورا ادا کر کے جو کچھ باقی بچے گا وہ بیت المال کا ہے یہ تمین میں ہے۔ اگر اہل اسلام اس دارالحرب پر غالب نہ ہوئے مگر حربی مذکور قتل کیا گیا تو اس کا قرضہ و مال ودیعت اس کے وارثوں کا حق ہے اور اسی طرح اگر وہ اپنی موت سے مر گیا تو بھی یہی حکم ہے اور جو مالہائے اہل حرب کہ مسلمانوں کو بغیر قتال حاصل ہوئے ہیں وہ مثل خراج کے مسلمانوں کی مصلحتوں میں صرف کیے جائیں گے اور مشائخ نے فرمایا کہ مراد اس مال سے مثل اس اراضی کے ہے جس سے وہاں کے کافروں کو جلاء وطن کر دیا اور مثل جزیہ کے ہے اور جاننا چاہے کہ کہ ایسے مالوں میں پانچواں حصہ نہیں ہوتا ہے یہ ہدایہ میں ہے۔

اگر حربی مستامن دارالاسلام میں اپنا مال چھوڑ کر مر گیا اور اس کے وارث دارالحرب میں ہیں تو اس کا مال اس کے وارثوں کے واسطے رکھ چھوڑا جائے گا پھر جب وہ لوگ یہاں آئیں تو ضروری ہے کہ اپنی وارثت پر گواہ قائم کریں تاکہ مال پائیں پھر اگر انہوں نے اہل ذمہ میں سے گواہ قائم کیے تو استھاناً مقبول ہوں گے پھر اگر ان گواہوں نے اس طرح بیان کیا کہ حربی مذکور کا ہم کوئی وارث سوائے ان کے نہیں جانتے ہیں تو مال مذکور ان لوگوں کو دے دیا جائے گا مگر ان لوگوں سے کفیل لے لیا جائے گا بنظر آنکہ مال مذکور کا کوئی مستحق ظاہر ہو تو کفیل مذکور ضامن رہے۔ اگر حربیوں کے بادشاہ نے ان کی وارثت کا خط لکھ دیا تو مقبول نہ ہوگا اگرچہ ثابت ہو جائے کہ یہ خط ان کے بادشاہ کا ہے یہ فتح القدر میں ہے۔ اگرچہ حربی نے اپنا غلام تاجر دارالاسلام میں امان لے کر بھیجا پھر غلام مذکور یہاں مسلمان ہو گیا تو فروخت کر دیا جائے گا اور اس کا ثمن حربی مذکور کا ہوگا یہ مبسوط میں ہے اور اگر حربی امان لے کر ہمارے یہاں داخل ہوا اور دارالحرب میں اس کی بیوی اور نابالغ و بالغ اولاد اور مال ہے کہ جس میں سے کچھ کسی ذمی کے پاس ودیعت ہے اور کچھ کسی حربی کے پاس ودیعت ہے اور کچھ کسی مسلمان کے پاس ودیعت ہے پھر حربی مذکور یہاں مسلمان ہو گیا حتیٰ کہ وہ آزاد مسلمان رہا پھر اس دارالحرب پر لشکر اسلام غالب آیا تو یہ سب جو مذکور ہوا ہے فنی ہوگا یعنی اس کی بیوی اولاد و صغار و کبار و حملہ مال ودیعت سب فنی ہوگا اور اسی طرح اگر اس کی بیوی حاملہ ہو تو جو لڑکا یا لڑکی اس کے پیٹ میں ہے وہ بھی فنی ہوگا یہ ہدایہ میں ہے۔

اگر مقتول لقیط ہو اور اس کو ملتقط نے یا کسی دوسرے نے قتل کیا:

اگر اس مسئلہ میں اس کی اولاد میں سے کوئی بچہ گرفتار ہو کر دارالاسلام میں آیا تو وہ اپنے باپ کی تبعیت میں مسلمان ہوگا مگر وہ جیسا فنی یعنی مال غنیمت تھا ویسا ہی رہے گا اور اس کا مسلمان ہونا اس کے رقیق ہونے کی منافی نہیں ہے یہ تمین میں ہے اور اگر وہ دارالحرب ہی میں مسلمان ہو کر دارالاسلام میں چلا آیا پھر اس دارالحرب پر لشکر اسلام نے غلبہ پایا تو اس کی اولاد و صغار جو دارالحرب لے لے جو فرمایا کہ جو مالہائے اہل حرب بغیر قتال حاصل ہوئے ہوں اس مال سے مراد ایسے مال ہیں جیسے زمین حاصل ہوئی کہ وہاں کے لوگوں کو جائے وطن کر دیا اور وہ اس پر راضی ہوئے کہ قتال نہ کریں گے تم زمین لے لو ہم یہاں سے چلے جائیں گے مثلاً یا جزیہ ہے کہ بغیر قتال حاصل ہوتا ہے اگرچہ پہلے قتال ہو چکا ہو اور یہ غرض نہیں ہے کہ ان باتوں میں مثل اس کے ہے جیسا کہ وہم ہوتا ہے ۱۲۔

میں ہیں وہ اپنے باپ کی تبعیت میں آزاد مسلمان ہوں گے اور جس قدر مال اس نے کسی مسلمان یا ذمی کے پاس وہاں ودیعت رکھا تھا وہ سب اسی کا ہوگا اور باقی جو کچھ مال سوانے اس کے ہے وہ سب فنی ہوگا یہ کافی میں ہے۔ اگر کوئی حربی دارالحرب میں مسلمان ہوا پھر اس کو کسی مسلمان نے عمد یا خطا قتل کیا اور اس مقتول کے وارث وہاں مسلمان موجود ہیں تو اس قاتل پر کچھ واجب نہ ہو گے سوائے کفارہ کے کہ فقط خطا سے قتل کرنے کی صورت میں کفارہ قتل واجب ہوگا یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر کسی نے خطا سے ایسے مسلمان کو قتل کیا جس کا کوئی ولی نہیں ہے یا ایسے حربی کو قتل کیا جو امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہو کر پھر مسلمان ہو گیا تھا تو ایسے مقتول کی دیت اس قاتل کی مددگار برادری پر واجب ہوگی اور اس دیت کو امام المسلمین وصول کر لے گا اور اس قاتل پر کفارہ قتل واجب ہوگا اور اگر ایسے مسلمان کو قتل کیا جس کا کوئی وارث نہیں ہے یا ایسے حربی مستامن کو قتل کیا جو مسلمان ہو گیا تھا اور حال یہ ہے کہ اس مستامن مسلمان ہو جانے والے کے ساتھ میں اس کا کوئی وارث قصداً مسلمان نہیں ہوا ہے اور نہ ہبغا مسلمان ہوا یا بایں طور کہ اپنے ساتھ اپنا کوئی صغیر لڑکا لایا ہوتا تو ایسی صورت میں امام المسلمین کو اختیار ہے کہ چاہے قاتل کو قصاص میں قتل کرے اور چاہے قاتل سے مقتول مذکور کی دیت بطور صلح کے نہ بطور جبر کے لے لے لیکن اگر قاتل کو عفو کر دینا چاہے تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اگر مقتول تیطہ ہو اور اس کو ملتقط اُٹنے یا کسی دوسرے نے قتل کیا پس اگر خطا سے قتل کیا ہے تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کی دیت قاتل کی مددگار برادری پر واجب ہو کر دیت الممال میں داخل ہوگی اور قاتل پر کفارہ قتل واجب ہوگا اور اگر عمداً قتل کیا تو امام کو اختیار ہے چاہے قاتل کو قصاص میں قتل کرے اور چاہے اس سے دیت پر صلح کر لے اور یہ امام اعظم و امام محمد کے نزدیک ہے یہ فتح القدر میں ہے۔

جہاد کر کے کسی قوم کو اسیر کیا اور ان کو لے آئے پس اس قوم نے دعویٰ کیا کہ ہم اہل اسلام سے ہیں یا مسلمانوں کے ذمیوں میں سے ہیں:

اصل یہ ہے کہ جو شخص جس دار میں ہے اس کے اس دار کے اہل ہونے کے واسطے یہ دار دلیل ظاہری ہے یعنی جس مقام پر جو شخص پایا گیا وہ مقام اس امر کی دلیل ظاہری ہے کہ یہ شخص وہیں کا ہے اور علامات بہ نسبت مکان کے اقویٰ ہوتے ہیں اور گواہ بہ نسبت علامات وغیرہ سب کے اقویٰ ہیں چنانچہ اگر کسی چھوٹے لشکر اسلام نے جو باحتی کسی سردار کے سوائے امام المسلمین کے ہے جہاد کر کے کسی قوم کو اسیر کیا اور ان کو لے آئے پس اس قوم نے دعویٰ کیا کہ ہم اہل اسلام سے ہیں یا مسلمانوں کے ذمیوں میں سے ہیں اور ان لوگوں نے ہم کو دارالاسلام سے اسیر کیا ہے اور اس لشکر والوں نے کہا کہ یہ لوگ اہل حرب ہیں ہم نے ان کو دارالحرب میں گرفتار کیا ہے تو قول ان اسیروں کا قبول ہوگا اور اگر قیدیوں نے کہا کہ انہوں نے ہم کو دارالحرب میں قید کیا ہے لیکن ہم اہل اسلام یا ذمی ہیں اور ہم دارالحرب میں امان لے کر تجارت کے لیے یا ملاقات کے واسطے داخل ہوئے تھے یا ہم لوگ اہل حرب کے پنجہ میں اسیر تھے تو ان لوگوں کا قول قبول نہ ہوگا اور یہ لوگ رقیق قرار دیے جائیں گے لیکن اگر ان لوگوں میں اسلام کی علامتیں مثل ختنہ و خضاب و موچھیں کتری ہونے و قرأت قرآن و فقہ وغیرہ کے پائی جائیں اور انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا تو ان سے گرفتار و رقیق ہونا دور کیا جائے گا اور اسی طرح اگر دارالحرب پر غالب ہو جانے کے بعد دارالحرب میں کسی قیدی میں ایسی علامات پائی گئیں تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔

اگر اس لشکر میں سے بعض نے ان قیدیوں پر گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ گواہی اپنی ذات و نفع کے واسطے

ہے اور اگر تاجروں (دارالحرب میں جو مسلمان تاجر مال لے کر گئے ہیں ۱۲ منہ) نے ان قیدیوں پر گواہی دی تو مقبول ہوگی اس واسطے کہ ان کی ان قیدیوں میں شرکت نہیں ہے اور سیر کبیر میں لکھا ہے کہ اہل لشکر میں سے بعض کی گواہی ان پر مقبول ہوگی اور یہ اختلاف اس جہت سے ہے کہ وضع مسئلہ مختلف ہے یعنی سیر کبیر میں صورت مسئلہ میں یہ ہے کہ بڑا لشکر جہاد کر کے ان کو اسیر کر کے لایا پس ایسی صورت میں شرکت عام ہوگی اور ایسی عام شرکت ایسی گواہی قبول ہونے سے مانع نہیں ہے جیسے دو فقیروں کی گواہی بیت المال کے واسطے ہوتی ہے کہ شرکت تمام فقیروں کی علی المعوم ہے اور یہاں وضع مسئلہ چھوٹے لشکر میں ہے اور ایسی شرکت خاص ہے پس یہ قبول گواہی سے مانع ہوگی اور اگر اہل ذمہ نے ان قیدیوں کے نفع کی گواہی دی باس طور کہ یہ لوگ مسلمان یا ذمی ہیں تو ایسی گواہی قبول نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ ذمیوں کی گواہی مسلمانوں پر ہے یہ کافی میں ہے۔

فصل : ۳

ایسے ہدیہ کے بیان میں ہیں جو بادشاہ اہل حرب مسلمانوں کے سردار لشکر کے پاس بھیجے

اگر مسلمانوں میں سے کسی ایک بزرگ مسلمان کے پاس جس کو قوت منفعت حاصل نہیں ہے ہدیہ بھیجا تو یہ ہدیہ خاص اسی کا ہوگا:

امام محمد نے فرمایا کہ دشمنوں کا بادشاہ جو ہدیہ لشکر اسلام کے سردار کے پاس یا امام المسلمین کے پاس جو لشکر کے ہمراہ ہے بھیجے تو اس کے قبول کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور یہ مال ہدیہ مسلمانوں کے واسطے فنی جائے گا۔ اسی طرح اگر دنیوں کے بادشاہ نے مسلمانوں کے قائدین میں سے کسی قائد کے پاس جن کو قوت منفعت حاصل ہے ہدیہ بھیجا تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے کسی ایک بزرگ مسلمان کے پاس جس کو قوت منفعت حاصل نہیں ہے ہدیہ بھیجا تو یہ ہدیہ خاص اسی کا ہوگا مشفق میں لکھا ہے کہ اگر کوئی گروہ لشکر دار الحرب میں داخل ہو اور اہل حرب نے اس لشکر میں سے کسی لشکر یا قائد کو ہدیہ بھیجا تو وہ غنیمت ہوگا لیکن اگر اس طرح تفصیل کر دی گئی ہو کہ جو چیز جس کو ہدیہ بھیجی جائے وہ اسی کی ہوگی تو ایسا ہی ہوگا اور امام محمد نے فرمایا کہ اسی طرح اگر خلیفہ کے عاملوں میں سے کسی عامل کو جب کہ خلیفہ نے اس کو کسی کام کے واسطے بھیجا ہے کوئی چیز ہدیہ دی گئی تو خلیفہ کو چاہیے کہ یہ مال ہدیہ اس عامل سے لے کر مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دے بشرطیکہ ہدیہ دینے والے نے اپنی خوشی خاطر سے اس کو ہدیہ بھیجا ہو اور اگر باکراہ و مجبوری بھیجا ہو تو چاہیے کہ ہدیہ دینے والے کو واپس کر دے اگر اس پر قادر ہو اور اگر نہ قادر ہو تو اس کو بیت المال میں رکھ دے اور اس پر یہی قصہ جو اس کی بابت گذرا ہے تحریر کر دے اور اس کا حکم مثل مال لقط کے ہوگا اور اگر مسلمانوں کا کوئی لشکر دار الحرب میں داخل ہو پھر اس لشکر کے سردار نے دشمن کے بادشاہ کو کچھ ہدیہ بھیجا تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے پھر اگر اس کے بعد دشمنوں کے بادشاہ نے بھی ہدیہ بھیجا تو دیکھا جائے گا کہ دشمنوں کے بادشاہ نے جو کچھ ہدیہ بھیجا ہے اگر اس کی قیمت اس ہدیہ کی قیمت کے برابر ہو جو سردار لشکر نے دشمنوں کے بادشاہ کو بھیجا تھا یا اس سے خفیف زیادہ ہو کہ لوگ اپنے اندازہ میں ایسا نقصان

۱۔ کافروں کی گواہی مسلمانوں پر ہے اور یہ جائز نہیں ہے ۱۲۔ ۲۔ قائد یعنی لشکر کے سردار سے نیچی تھوڑی فوج کے جو افسر ہیں ان میں سے کسی پاس بھیجا بشرطیکہ اس کو اپنی ماتحت فوج سے ایسی قوت و منفعت حاصل ہو کہ دفع کر سکے؛ گو نہ پہنچا سکے ۱۲۔ ۳۔ اس کی توضیح قبل ازیں ایک دو بار گزر چکی وہاں پر دیکھیں ۱۲۔

اٹھاتے ہیں تو وہ خاصیت سردار لشکر کے واسطے ہوگا اور اگر ہدیہ بادشاہ دشمنان اس قدر زیادہ ہو کہ لوگ ایسے نقصان کو اپنے اندازہ میں نہیں اٹھاتے ہیں تو اس میں سے بقدر ہدیہ امیر لشکر کے امیر کا ہوگا اور جس قدر زیادہ ہو وہ غنیمت ہوگا قال المتر جم قولہ لوگ اپنے اندازہ میں ایسا نقصان اٹھاتے ہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ جو لوگ مبصر ہیں ان میں سے ایک نے مثلاً دس روپیہ قیمت اندازہ کی اور دوسرے نے ساڑھے دس روپیہ انداز کی اور باقی اندازہ کرنے والے اس دس اور ساڑھے دس میں انداز کرتے ہیں تو یہ آدھا درہم زیادتی ایسی زیادتی شمار کی جاتی ہے کہ جو لوگ اپنے اندازہ میں اٹھا جاتے ہیں بلکہ گویا یہ زیادتی ہے اور اگر مثلاً ہدیہ بادشاہ حربیاں بارہ یا پاندرہ روپیہ یا زیادہ ہو تو ساڑھے دس روپیہ سے جس قدر زائد ہے وہ ایسی زیادتی قرار دی جائے گی کہ لوگ اپنے اندازہ میں نہیں اٹھاتے ہیں اور تامل سے یہ مقام سمجھ لینا چاہیے اور جہاں کہیں یہ عبارت مذکور ہے اس کا یہی مطلب ہے۔

اسی طرح اگر امیر شغوز نے حربیوں کے بادشاہ کو ہدیہ بھیجا اور بادشاہ مذکور نے اس سے دو چند یا زیادہ ہدیہ بھیجا تو اس میں بھی یہی حکم ہے یعنی اس میں سے بقدر ہدیہ سردار موصوف کے سردار موصوف کا ہوگا اور باقی جس قدر زائد ہے وہ سب بیت المال میں داخل ہوگا اور اگر مسلمانوں نے اہل حرب کے قلعوں میں سے کسی قلعہ کا یا شہروں میں سے کسی شہر کا محاصرہ کیا اور اس حالت میں امیر لشکر نے حربیوں کے ہاتھ اپنا کوئی اسباب وغیرہ فروخت کیا تو اس کے ثمن کو دیکھا جائے گا کہ جو ثمن حربیوں نے دیا ہے اگر اس چیز کی قیمت کے برابر ہو جو امیر نے اس کے ہاتھ فروخت کر دی ہے یا اس کی قیمت سے فقط اس قدر زیادہ ہو جس قدر لوگ اپنے اندازہ کرنے میں نقصان اٹھا جاتے ہیں تو یہ پورا ثمن امیر مذکور کا ہوگا اور اگر ثمن مذکور بیچ مذکور کی قیمت سے اس قدر زائد ہو کہ لوگ اپنے اندازہ کرنے میں ایسی زیادتی دے کر خسارہ نہیں اٹھاتے ہیں تو اس میں سے قیمت اسباب سے جتنا زیادہ ہو وہ داخل غنیمت ہوگا۔ رہا یہ امر کہ ایسی حالت میں حربیوں کے ہاتھ فروخت کرنا کیسا ہے تو امام محمدؒ نے فرمایا کہ مکروہ ہے خواہ کوئی چیز ہو سب چیزوں کا حکم یکساں ہے یہ محیط میں ہے۔

باب : ۷

عشر و خراج کے بیان میں

اراضی کی اقسام و احکام:

اگر زمین سے مال گزاری مقاسمہ یا موظف لے جائے یعنی خراج تو وہ زمین خراجی ہے اور اگر دسواں حصہ لیا جائے تو وہ زمین عشری ہے۔ ہکذا قال المتر جم تفہیمًا للناس۔ اراضی دو قسم کی ہوتی ہے عشری و خراجی پس زمین عرب سب عشری ہے اور یہ زمین تہامہ و حجاز و مکہ و یمن و طائف و عمان و بحرین کی ہے اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ زمین عرب کی عذیب سے تا کہ وعدن تا اقصائے حجر اور سواد عراق کی بھی زمین ایسی ہی ہے پس جو زمین اس میں سے عجمیوں کی (کھودی گئی) نہروں سے سینچی جائے اور وہ خراجی ہوگی اور سواد عراق کی حد طولی تجوم موصل سے تا زمین عبادان و حد عرضی زمین حلوان کی منقطع الجبل سے تا اقصائے زمین قادسیہ ہے جو متصل بعذیب از اراضی عرب ہے۔ ماسوائے اس کے ہر ملک جو بعنوت (بغیر و غلبہ) فتح کیا گیا اور وہاں کے لوگ مسلمان نہ ہوئے اور امام نے ان لوگوں پر احسان کیا تو یہ زمین خراجی ہوگی اگر اس زمین کو خراجی پانی پہنچتا ہو۔ جو ملک بے صلح فتح کیا گیا اور اس کے لوگوں نے خراج قبول کیا تو یہ زمین خراجی ہوگی اور جو ملک کہ بعنوت فتح کیا گیا اور امام نے اس ملک کو فتح کرنے والے مجاہدین کے

درمیان تقسیم کر دیا تو وہ عشری اراضی ہوگی اور جو ملک بعنوت فتح کیا گیا اور قبل اس کے کہ امام ان کے حق میں کچھ حکم کر دے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو امام کو اس اراضی کی بابت اختیار ہی چاہیے اس کو غانمین کے درمیان تقسیم کر دے پس وہ عشری ہوگی اور چاہے وہاں کے لوگوں پر احسان کر کے انہیں کے پاس رہنے دے بھر اس کے بعد امام کو اختیار ہوگا چاہے اس اراضی پر خراج باندھے بشرطیکہ خراجی پانی سے سپنچی جاتی ہو اور چاہے عشر مقرر کرے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

بلاد عجم میں سے جو ملک کہ امام نے قہر و غلبہ سے فتح کیا اور اس میں متردد ہوا کہ آیا ان لوگوں پر ان کی جانوں اور اراضی کے ساتھ احسان کرے کہ ان کو آزاد کر کے ان کی زمین ان کے پاس چھوڑے.....:

جس ملک کے لوگ بطوع^۱ خود مسلمان ہو گئے وہ اراضی عشری ہوگی اور اس طرح اراضی عرب میں سے اگر کوئی زمین قہر و غلبہ سے فتح کی گئی حالانکہ وہاں کے لوگ بت پرست تھے پھر وہ لوگ بعد فتح ہو جانے کے مسلمان ہو گئے اور امام نے اراضی مذکور ان کے پاس چھوڑی تو ان کے پاس وہ اراضی عشری رہے گی اور اسی طرح بلاد عجم میں سے جو ملک کہ امام نے قہر و غلبہ سے فتح کیا اور اس میں متردد ہوا کہ آیا ان لوگوں پر ان کی جانوں اور اراضی کے ساتھ احسان کرے کہ ان کو آزاد کر کے ان کی زمین ان کے پاس چھوڑے اور اراضی پر خراج باندھے یا اراضی کو غانمین کے درمیان تقسیم کر کے اس پر عشر باندھے پھر کہا کہ میں نے اس اراضی کو عشری کر دیا پھر اس کی رائے میں آیا کہ اس اراضی کے لوگوں پر ان کی گردنوں اور اراضی کے ساتھ احسان کرے تو احسان مذکور کے بعد یہ اراضی باقی رہے گی۔ ایسا ہی امام محمد نے اپنے نوادر میں اور کرنی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور اسی طرح اگر زمین خراجی سے خراج کا پانی منقطع ہو گیا اور وہ عشری پانی سے سپنچی جانے لگی تو وہ بھی عشری ہو جائے گی یہ محیط میں ہے۔

خراج قفیر ایک درہم ہے جریب رطبہ پر پانچ درہم ہیں جریب کرم یعنی پھلواری انگور پر دس درہم ہیں:

اگر کسی نے ارض موات^۲ کو زندہ کیا پس اگر یہ زمین اراضی خراجی سے ہو تو خراجی ہوگی اور اگر تحت عشری سے ہو تو عشری ہوگی اور یہ حکم اس وقت ہے کہ اس زمین کا زندہ کرنے والا یعنی آباد و مردوع کرنے والا مسلمان ہو۔ اگر ذمی ہوگا تو اس پر خراج باندھا جائے گا اگر چہ وہ تحت عشری سے ہو۔ اراضی بصرہ ہمارے نزدیک عشری ہے بسبب اجماع صحابہ کے یہ سراج و ہاج میں ہے۔ خراج دو قسم کا ہوتا ہے خراج مقاسمہ و خراج وظیفہ پس خراج مقاسمہ یہ ہے کہ زمین کی پیداوار میں سے مثل پانچواں حصہ یا چھٹا حصہ وغیرہ کے باندھ دیا جائے اور خراج وظیفہ یہ ہے کہ مالک زمین کے ذمہ کچھ واجب کر دیا جائے کہ جب اس کو اراضی سے انتفاع کرنے پر قابو حاصل ہو تو خراج مذکور اس کے ذمہ متعلق ہوگا یا فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ خراج مقاسمہ متعلق بہ پیداوار ہے اور زراعت پر قابو پانے سے متعلق نہیں ہے حتیٰ کہ اگر اس نے باوجود قدرت زراعت کے اراضی کو معطل چھوڑ دیا تو خراج مذکور مثل عشر کے واجب نہ ہوگا یہ تا تاریخانیہ میں ظہیر یہ سے منقول ہے اور خراج وظیفہ اس تفصیل سے ہے کہ امام محمد نے فرمایا کہ اراضی خراجی کی ہر جریب پر جو زراعت کی صلاحیت رکھتی ہے ایک قفیر ایک درہم ہے اور جریب رطبہ پر پانچ درہم ہیں اور جریب کرم یعنی پھلواری انگور پر دس درہم ہیں کذافی المحیط اور ما سوائے مذکور کے دیگر اصناف مثل زعفران دروئی و بستان وغیرہ کے بحسب طاقت خراج باندھا جائے گا اور انتہائے طاقت یہ ہے کہ خراج اس کی نصف پیداوار تک پہنچتے اور بستان ہر ایسی اراضی ہے کہ دیواروں سے گھری ہوا

۱ اپنی خوشی خاطر و رغبت و رضامندی کے ساتھ مسلمان ہو گئے ۱۲۔ ۲ اراض موات وہ زمین جو محض ہیکار پڑی ہو اور کسی طرح کی منفعت از قسم زراعت وغیرہ اس سے حاصل نہ ہوتی ہو اور اس کا زندہ کرنا یہ کہ اس میں زراعت کرے ۱۲۔

اور اس میں درختان خرما اور درختان انگور و دیگر اشجار^۱ ہوں اور اسی طرح ہوں کہ درختوں کے درمیان کشادہ میں زراعت ممکن ہو اور اگر اشجار باہم ایسے گنجان ہوں کہ اراضی میں زراعت ممکن نہ ہو تو وہ کرم یعنی چار دیواری کا باغ انگور ہوگا کذا فی الکافی۔

حریب ذراع ملک سے ساٹھ ہاتھ مربع رقبہ کا نام ہے اور ذراع ملک سات مٹھی کا ہوتا ہے جو عام لوگوں کے ذراع سے ایک مشت زیادہ ہوتا ہے یہ سب کتاب العشر والخراج کی عبارت ہے اور شیخ اسلام خواہر زادہ نے فرمایا کہ امام محمد نے کہا کہ حریب ساٹھ ہاتھ مربع زمین کا نام ہے یہ قول امام محمد کا اپنی اراضی کی حریبوں کا بیان ہے اور یہی تقدیر تمام اراضی کے حق میں لازم نہیں ہے بلکہ شہروں کے اختلاف سے اراضی کی حریب بھی مختلف ہوتی ہیں پس ہر شہر میں وہاں کے لوگوں کا رواج معتبر ہوگا اور قفیز سے مراد صاع ہے پس وہ آٹھ رطل عراقی ہوتے ہیں جس کے چار من شرعی ہوئے اور یہ امام اعظم و امام محمد کا قول ہے اور یہی پہلا قول امام ابو یوسف کا ہے اور یہ قفیز گیبوں سے ہوگی چنانچہ کتاب العشر والخراج کے ایک مقام پر یوں ہی لکھا ہے اور دوسرے مقام پر اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو اس زمین میں بویا جائے اس اناج سے یہ قفیز ہوگی اور یہی صحیح ہے اور چاہے کہ یوں کہا جائے کہ یہ قفیز مع دولب اناج کے ہوگی اور دولپ کی تفسیر میں گفتگو ہے۔ بعضوں نے کہا دولپ زائد کے یہ معنی ہیں کہ ناپنے والا ڈھیری میں سے ناپنے کے وقت قفیز کے دونوں جانب اپنے ہاتھ کشادہ رکھ لے اور جس قدر اناج اس کے ہاتھ میں گرے اس کو تھامے رہے اور قفیز مع اس اناج کے عاشر کی تھیلی میں ڈال دے اور بعضوں نے کہا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ ناپنے والا قفیز کو پڑ کرے پھر قفیز کی چوٹی پر ہاتھ پھیرے حتیٰ کہ جو دانہ اس کی چوٹی پر ہیں وہ گر پڑیں پھر اس قفیز کو عاشر (دو شخص جو عاشر لینے کے واسطے مقرر ہے ۱۲) کی تھیلی میں ڈال دے پھر ڈھیری سے دولپ بھر کے زائد اس کی تھیلی میں ڈال دے اب جاننا چاہیے کہ یہ مقدار مذکور جو خراج موظف قرار دی گئی ہے سال میں فقط ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے چاہے مالک زمین اس زمین میں ایک مرتبہ زراعت کرے یا کئی مرتبہ زراعت کرے۔ بخلاف خراج مقاسمہ و عشر کے اس واسطے کہ خراج مقاسمہ و عشر میں پیداوار کا کوئی حصہ واجب ہوتا ہے پس مکرر پیداوار سے مکرر واجب ہوگا۔ پھر یہ مقدار اخراج جو ہم نے بیان کی ہے یہ جب ہی واجب ہوگی کہ اراضی کو اس کو ادائیگی کی طاقت ہو یعنی اس کی پیداوار اس قدر ہو کہ اس پر خراج پانچ ہا جا جائے اور اگر اراضی اس کی طاقت نہ رکھتی ہو بایں طور کہ اس کی پیداوار کم ہو تو جس مقدار تک اس کی طاقت ہو وہاں تک گھنا دیا جائے گا پس جو وظیفہ حضرت عمرؓ نے مقرر کیا ہے اگر اراضی کو اس کی برداشت کی طاقت نہ ہو تو اس سے کمیہ دینا بالاجماع جائز ہے اور بایں امر کہ اس وظیفہ سے بڑھ دینا جب کہ اراضی کو اس بڑھتی کی طاقت ہے بایں طور کہ اس کی پیداوار بہت کثرت سے ہے تو اس کا کیا حکم ہے سو جس اراضی پر وظیفہ مقرر کر دینا حضرت عمرؓ سے صادر ہو گیا ہے اس پر زیادہ کر دینا بالاجماع جائز نہیں ہے۔

خراج مقاسمہ کی تقدیر امام المسلمین کی رائے کے سپرد ہے:

اس طرح اگر کسی اور امام سے ان اراضی پر حضرت عمرؓ کے وظیفہ کے مثل وظیفہ مقرر کرنا صادر ہو گیا ہو تو ان پر بڑھانا بھی بالاجماع نہیں جائز ہے اگرچہ یہ اراضی اس زیادتی کی طاقت رکھتی ہوں اور اگر اسی امام نے اس اراضی پر حضرت عمرؓ کے وظیفہ کے برابر وظیفہ مقرر کر دیا پھر اس وظیفہ پر بنظر طاقت اراضی بڑھانے کا قصد کیا تو اس کو یہ روا نہیں ہے اگرچہ اراضی کو زیادہ خراج موظف برداشت کرنے کی طاقت ہو اور اس طرح اگر اسی امام نے چاہا کہ اس وظیفہ سے تجویل کر کے دوسرا وظیفہ مقرر کرے یعنی

۱۔ دو چیزیں جو ساگ و بھاجی وغیرہ کہلاتی ہیں۔ ۲۔ مصنف امام خصاص ۱۲۔ ۳۔ وہ شخص جو عاشر لینے کے واسطے مقرر ہے ۱۲۔

مثلاً پہلے درہموں سے اس کا خراج تھا اب اس کو تحویل کر کے خراج مقاسمہ باندھنا چاہا یا خراج مقاسمہ بندھا تھا اس کو تحویل کر کے خراج درہم باندھنا چاہا تو یہ بھی اس کو روانہ نہیں اور اگر اس نے وظیفہ مذکورہ سے بڑھا کر مالکان اراضی پر زیادہ باندھ دیا یا تحویل کر کے ان پر دوسرا وظیفہ مقرر کیا اور ان پر اس کا حکم دے دیا اور یہ اس نے اپنی رائے سے کیا پھر اس کے بعد دوسرا شخص والی ہو اور دوسرے کی رائے اس کے خلاف ہے تو دیکھا جائے کہ اگر والی اول نے جو کچھ ان پر کیا ہے وہ ان کی خوشی خاطر سے کیا ہے تو جو کچھ اول نے کہا ہے دوسرا بھی اس کو جاری رکھے اور اگر اول والی نے اس امر کو بغیر ان کی خوشی خاطر سے کیا ہو تو اراضی کو دیکھا جائے کہ اگر یہ اراضی قبر و غلبہ سے فتح کی گئی ہوں پھر امام نے لوگوں پر احسان کر کے ان کے سپرد کی ہوں تو بھی جو کچھ اول نے کیا ہے دوسرا اس کو جاری رکھے اور اگر غلبہ اسلام سے پہلے صلح ہو کر یہ اراضی فتح ہوئی ہوں اور باقی مسئلہ بحال ہے تو دوسرا امام اس فعل کو جو اول نے کیا ہے تو توڑ دے گا اور رہیں وہ اراضی جن پر پہلے پہل امام المسلمین خراج باندھنا چاہتا ہے اور اس نے وظیفہ حضرت عمرؓ سے زیادہ باندھنا چاہا تو امام ابو یوسفؒ سے دو روایتوں میں سے ایک روایت کے موافق و بنا بر قول امام محمدؒ کے جائز ہے اور بنا بر دوسری روایت کے امام ابو یوسفؒ سے اور بنا بر قول امام اعظمؒ کے نہیں جائز ہے اور یہی صحیح ہے اور با خراج مقاسمہ سو خراج مقاسمہ کی تقدیر امام المسلمین کی رائے کے سپرد ہے لیکن نصف پیداوار سے زائد مقدار نہ ہوگی جو شخص زمین خراجی کا مالک ہو اس سے خراج لیا جائے گا چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو صغیر ہو یا بالغ ہو آزاد ہو یا غلام مازون یا مکاتب ہو مرد ہو یا عورت ہو یہ محیط میں ہے۔

اگر اراضی وقف ہو تو اس پر بھی عشر یا خراج جسی زمین ہو واجب ہوگا یہ وجہ کر دری میں ہے اگر کسی اراضی کو جس کا خراج موظف ہے کسی غاصب نے غصب کر لیا پس اگر غاصب مذکور منکر ہو اور مالک کے پاس گواہ نہ ہوں تو دیکھا جائے گا کہ اگر غاصب نے اس میں زراعت نہیں کی تو اس کا خراج کسی پر نہ ہوگا اور اگر غاصب نے اس میں سے زراعت کی ہے اور زراعت نے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا تو اس کا خراج غاصب پر ہوگا اور اگر غاصب مذکور غصب کر لینے کا اقرار کرتا ہو یا مالک کے پاس گواہ ہوں اور زراعت نے زمین مذکور کو نقصان نہیں پہنچایا تو اس کا خراج مالک زمین پر ہوگا اور اگر زراعت نے اس کو نقصان پہنچایا تو امام اعظمؒ کے نزدیک اس کا خراج مالک زمین پر ہوگا خواہ نقصان قلیل ہو یا کثیر ہو گو مالک نے مقدار نقصان کے عوض جس کو غاصب سے تاوان لے گا اس کو اجارہ پردی ہے۔ بیع الوفا کی صورت میں اگر مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا تو مشتری بمنزلہ غاصب کے قرار دیا جائے گا اور اگر اپنی خراجی زمین کسی کو اجارہ پردی یا عاریت دی تو اس کا خراج مالک زمین پر ہوگا جیسے مزارعت پر دینے کی صورت میں ہے۔ لیکن اگر اراضی مذکور چار دیواری دار باغ انگور ہو یا طاب ہو یا اس کے درخت باہم بہت گنجان ہوں کہ درمیانی زمین قابل زراعت نہ ہو تو یہ حکم نہیں ہے اور اگر اپنی زمین عشری کو اجارہ پردی یا تو امام اعظمؒ کے نزدیک اس کا عشر مالک پر ہوگا اور صاحبین کے نزدیک مستاجر پر ہوگا اور اگر اپنی زمین عشری کسی کو عاریت دی اور مستعیر نے اس میں زراعت کی تو اس میں امام اعظمؒ سے دو روایتیں ہیں یعنی ایک روایت میں عشر مالک پر اور دوسری میں عشر مستعیر پر ہوگا اور اگر قابل زراعت کو اجارہ پر یا مستعیر لیا پھر مستاجر یا مستعیر نے اس میں انگور کے پیڑ لگائے یا اس کو رطاب لگایا تو امام اعظمؒ و امام محمدؒ کے نزدیک اس کا خراج مستاجر یا مستعیر پر ہوگا۔

عشری زمین کو غصب کرنا اور بعد ازاں اس میں کھیتی باڑی کرنا:

اگر عشری زمین غصب کر کے اس میں زراعت کی اور زراعت نے زمین کو نقصان نہیں پہنچایا تو مالک زمین پر اس کا عشر واجب نہ ہوگا اور اگر زراعت نے اس میں نقصان پہنچایا ہے تو مالک زمین پر اس کا عشر واجب ہوگا گو یا مقدار نقصان کے عوض مالک

نے غاصب کو اجارہ پردی ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی نے اپنی خراجی زمین کسی کے ہاتھ فروخت کر دی در حالیکہ وہ زمین فارغ ہے یعنی اس میں کھیتی وغیرہ موجود نہیں ہے پس اگر سال میں سے اس قدر مدت باقی ہو کہ اس میں مشتری اراضی مذکور میں زراعت کر سکتا ہو تو مشتری مذکور پر خراج واجب ہوگا خواہ زراعت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اگر سال میں سے اس قدر مدت کہ جس میں مشتری زراعت کر سکے باقی نہ رہی ہو تو اس کا خراج بائع کے ذمہ ہوگا اور اس میں گفتگو ہے کہ اس باب میں فقط گیہوں و جو کی کھیتی کا اعتبار ہے یا چاہے کوئی زراعت ہو عام ہے اور نیز معتبر اس قدر مدت ہے کہ کھیتی اس میں تیار ہو کر کاٹنے کے لائق ہو جائے یا اتنی مدت کہ کھیتی اس میں خراج سے دو چند قیمت پر پہنچ جائے چنانچہ ان سب میں اختلاف ہے اور فتویٰ اس پر ہے کہ مقدار مدت تین مہینہ ہے پس اگر تین مہینہ باقی ہوں تو مشتری پر خراج واجب ہوگا ورنہ بائع پر واجب ہوگا یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔

اگر زمین میں دو فصلیں ربیع و حریف پیدا ہوتی ہوں اور ان دونوں میں سے ایک بائع کو ملی ہے اور دوسری مشتری کو سپرد کی گئی ہے:

اگر کسی نے زمین خراجی خریدی اور مشتری کو اتنا وقت نہ ملا کہ جس میں زراعت کر سکے اور سلطان نے سال تمام پر مشتری سے اس کا خراج لے لیا تو مشتری کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ بائع سے اس کو واپس لے لے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر مالک نے کاشتکار سے اپنی زمین نکال لی حالانکہ اس کے قبضہ میں تھی اور وہ روکنے پر قادر نہیں ہے پھر سلطان نے سال تمام پر کاشتکار سے خراج لے لیا تو وہ مالک سے خراج مذکور کے مثل واپس لے گا اور ظاہر الروایت کے موافق واپس نہیں لے سکتا ہے اور یہی صحیح ہے یہ وجہ کر دی میں ہے۔ اگر زمین میں دو فصلیں ربیع و حریف پیدا ہوتی ہوں اور ان دونوں میں سے ایک بائع کو ملی ہے اور دوسری مشتری کو سپرد کی گئی ہے یا بائع و مشتری دونوں میں سے ہر ایک اپنے واسطے ایک ایک پیداوار کو حاصل (ہر ایک کو اتنا وقت ملا ہے) کر سکتا ہے تو اس زمین کا خراج ان دونوں پر ہوگا ایسا صدر الاسلام نے شرح کتاب العشر و الخراج میں ذکر کیا ہے یہ محیط میں ہے۔ ایک شخص نے زمین خراجی فروخت کی پھر مشتری نے ایک مہینہ کے بعد دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دی پھر دوسرے نے تیسرے کے ہاتھ اسی طرح فروخت کی یہاں تک کہ سال گذر گیا اور زمین مذکور ان میں سے کسی کے ہاتھ میں تین ماہ نہیں رہی تو اس کا خراج کسی پر نہ ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں صحیح حکم یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر اخیر مشتری کے قبضہ میں ہونے کی حالت میں تین ماہ باقی رہے ہوں تو زمین مذکور کا خراج اسی پر ہوگا کسی نے ایسی زمین فروخت کی جس میں کھیتی ہے جو ہنوز تیاری پر نہیں پہنچی ہے پس زمین کو مع اس کھیتی کے فروخت کیا تو بہر حال اس کا خراج مشتری پر ہوگا اور اگر کھیتی میں دانہ بستہ ہو کر کھیتی تیار ہو جانے کے بعد فروخت کی ہو تو فقہ ابو اللیث نے ذکر فرمایا کہ یہ بمنزلہ ایسی صورت کے ہے کہ جب زمین فارغ یعنی کھیتی وغیرہ سے خالی فروخت کی اور اس کے ساتھ کٹے ہوئے گیہوں یعنی کٹی ہوئی کھیتی فروخت کی اور یہ سب اس وقت ہے کہ جب خراج لینے والے آخر سال پر خراج لیتے ہوں اور اگر شروع سال میں خراج لے لیتے ہوں بطور تعجیل کے تو یہ محض ظلم ہے کہ نہ بائع پر واجب ہونا ہے اور مشتری پر اور اگر کسی شخص کی زمین خراجی میں اس کا ایک قریہ ہے جس میں بیوت (کوٹھریاں و جوئیلیاں) و منازل میں جن کو وہ کرایہ پر چلاتا ہے یا نہیں چلاتا ہے تو اس قریہ کی بابت کچھ واجب نہ ہوگا۔

اگر کسی شخص کی ملک میں مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں کوئی مدار خط^۱ ہو جس کو اس نے بستان بنایا یا اس میں

درختان خرما لگائے اور اس کو اپنی منزل (جس میں رہتا ہے) سے خارج کر دیا تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ ماقبی زمین بھی تابع (جس میں رہتا ہے ۱۲) دار مذکور ہے اور اگر اس نے کل دار کو بستان بنایا پس اگر وہ اراضی عشری میں سے ہو تو اس پر عشر اور اگر اراضی خراجی کے تحت میں ہو تو اس پر خراج واجب ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص نے زمین خراجی خریدی اور اس میں مکان بنایا تو اس پر خراج واجب ہوگا اگرچہ اس میں زراعت کرنے پر قدرت نہیں باقی رہی یہ محیط میں ہے۔ اگر سلطان نے خراج زمین کو مالک زمین کے واسطے کر کے بدون اس سے وصول کر کے اس کو دینے کے اسی پر چھوڑ دیا تو امام ابو یوسفؒ کے قول پر جائز ہے بخلاف قول امام محمدؒ کے اور فتویٰ امام ابو یوسفؒ کے قول پر ہے بشرطیکہ مالک زمین خراج سے پانے کی اہلیت رکھتا ہو اور اسی جواز مذکور پر قاضیوں اور عالموں کے واسطے بھی اس طرح جائز ہے اور جس پر خراج واجب ہو اگر سلطان نے اس سے طلب نہ کیا تو مالک زمین پر واجب ہے کہ اس کو صدقہ کر دے اور اگر بعد طلب کرنے کے بطور خود صدقہ کر دیا تو اس کے عہدہ سے بری و خارج نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر عامل نے بدون علم سلطان کے کاشتکار پر خراج چھوڑ دیا تو حلال نہیں ہے اگرچہ کاشتکار مذکور کو خراج میں سے پانے کی اہلیت رکھتا ہو یہ وجہ ردی میں ہے۔ امام محمدؒ نے فرمایا کہ اگر سلطان نے عشر کو مالک زمین کے واسطے کر دیا تو یہ جائز نہیں ہے اور یہ حکم بالا اتفاق ہے اور شیخ الاسلام نے ذکر کیا کہ اگر سلطان نے عشر کو مالک زمین پر چھوڑ دیا تو اس میں دو صورتیں ہیں اول یہ کہ غفلت سے چھوڑا یاں طور کہ بھول گیا تو ایسی صورت میں جس پر عشر واجب ہوا ہے اس پر واجب ہے کہ بقدر عشر کے فقیر پر صدقہ کر دے اور دوم یہ کہ قصد آبا و جود اپنے علم کے چھوڑا اور اس میں بھی دو صورتیں ہیں اول آنکہ جس پر عشر واجب ہوا ہے وہ غنی ہے تو ایسی صورت میں یہ مال اس کے واسطے سلطان کی طرف ہی جائز ہوگا اور سلطان اس کے برابر مال کو بیت المال خراجی سے نکال کر بطور تاوان کے بیت المال صدقہ میں داخل کرے گا اور دوم آنکہ جس پر واجب ہوا ہے وہ فقیر ہو یعنی عشر کی جانب حاجت مند ہو تو اس پر اس کا چھوڑ دینا جائز ہے اور یہ اس پر صدقہ ہوگا پس جائز ہوگا جیسے کہ اگر اس سے لے کر پھر اس کو مصرف خراج کے طور پر دے دیا تو جائز ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

مشائخ رحمہم اللہ نے فرمایا کہ جس کاشتکار نے ادنیٰ و اعلیٰ دو کاشتوں میں سے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کی طرف بلا عذر انتقال کیا تو اس پر اعلیٰ کا خراج واجب ہوگا:

امام محمدؒ نے جامع صغیر میں ذکر فرمایا کہ اگر کسی کی ملک میں زمین خراجی ہو اور اس نے اس زمین کو معطل رکھا تو اس پر خراج واجب ہوگا کذا فی محیط اور یہ حکم اس وقت ہے کہ خراج موظف ہو اور اگر خراج مقاسمہ ہو تو کچھ واجب نہ ہوگا یہ سراج و ہاج میں ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ جس کاشتکار نے ادنیٰ و اعلیٰ دو کاشتوں میں سے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کی طرف بلا عذر انتقال کیا تو اس پر اعلیٰ کا خراج واجب ہوگا مثلاً کسی کے پاس زعفران کی کاشت کے لائق زمین ہے اس نے زعفران چھوڑ کر کوئی اناج بویا تو اس پر زعفران کا خراج واجب ہوگا اور اسی طرح اگر کسی کے پاس چار دیواری دارباغ انگور ہو اور اس نے کاٹ کر صاف زمین کر کے اناج بویا تو اس پر باغ انگور مذکور کا خراج واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ خود جان لینا چاہیے اور فتویٰ نہ دینا چاہیے تاکہ حکام ظالم ماہبائے رعیت پر طمع کا ہاتھ نہ پھیلائیں یہ کافی میں ہے۔ جس پر خراج بندھا ہے اگر وہ مسلمان ہو گیا تو بدستور سابق اس سے خراج لیا جائے گا اور یہ روا ہے کہ مسلمان کسی ذمی سے خراجی زمین خریدے اور مشتری سے خراج لیا جائے یہ ہدایہ میں ہے۔ ایک ہی زمین پر عشر و

خراج جمع نہ کیا جائے گا چاہے زمین عشریہ ہو یا خراجیہ ہو۔ اگر تجارت کے واسطے کوئی زمین عشری یا خراجی خریدی تو زمین مذکور کا عشر یا خراج واجب ہوگا اور زکوٰۃ تجارت لازم نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔ اگر کسی ذمی کافر نے زمین عشری خریدی تو امام اعظم و امام محمد نے فرمایا کہ اس سے خراج لیا جائے گا یہ زاد میں ہے۔ اگر ایسی قوم جس پر خراج بندھا ہے اپنی اراضی کے آباد کرنے و پیداوار کرنے و حاصلات اٹھانے سے عاجز ہوئے اور ان کے پاس اس قدر نہیں ہے کہ اس سے خراج ادا کریں تو امام کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ ان کی اراضی ان کے ہاتھ سے نکال کر دوسرے کی ملک میں دے دے یہ ذخیرہ میں ہے۔

خراجی اراضی کو عضو معطل کی طرح برکار چھوڑ رکھا تو؟

کتاب العشر و خراج میں فرمایا کہ اگر اراضی خراجیہ میں سے کسی زمین کا مالک اس کی کمائی سے عاجز ہوا اور اس کو معطل^۱ چھوڑ دیا تو امام کو اختیار ہے کہ اس کے قبضہ سے نکال کر ایسے شخص کے قبضہ میں دے دے جو اس کی پرداخت کرے اور اس کا اخراج ادا کرے اور خمس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں صحیح حکم یہ ہے کہ پہلے اس زمین کو اجارہ پر دیئے اور اجرت سے بقدر خراج کے لے کر باقی کو مالک کے واسطے رکھ چھوڑے ایسا ہے امام محمد نے زیادات میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر اجارہ پر لینے والا کوئی نہ ملے تو کسی کو تہائی یا چوتھائی وغیرہ حصہ کی بٹائی پر جیسے حصہ بٹائی پر ایسی زمین دی جاتی ہو دے دے پھر مالک زمین کے حصہ میں سے بقدر خراج کے لے کر باقی کو مالک زمین کے واسطے رکھ چھوڑے اور اگر بٹائی پر لینے والا بھی کوئی نہ ملے تو ایسے شخص کو دے دے جو اس کی پرداخت کرے اور اس کا خراج ادا کرے اور اس کے جواز کی وجہ دو باتوں میں سے ایک پر ہے یا تو یہ کہ جس کو دی ہے وہ زراعت کرنے و خراج ادا کرنے میں قائم مقام مالک کا ہے یا اس کے پاس مقدار خراج کے عوض اجارہ میں ہے کہ جو کچھ اس سے لیا گیا وہ امام کے حق میں خراج ہے اور جس نے دیا ہے اس کے حق میں مال اجارہ ہے یعنی اس نے گویا اجرت ادا کی ہے پھر فرمایا کہ اگر امام کو ایسا شخص بھی نہ ملا جو اس کو خراج پر لے تو امام اس کو فروخت کر کے اس کے ثمن سے بقدر خراج کے نکال کر باقی کو مالک زمین کے واسطے رکھ چھوڑے اور بعض نے فرمایا کہ یہ جو ذکر فرمایا ہے کہ امام اس اراضی کو فروخت کرے یہ امام ابو یوسف و امام محمد کا قول ہے اور بنا بر قول امام اعظم کے چاہیے کہ اس کو فروخت نہ کرے اس واسطے کہ اس کے مال کو فروخت کر ڈالنے میں اس پر حجر یعنی منع از تصرف لازم آتا ہے حالانکہ امام کے نزدیک مرد آزاد پر حجر روانہ نہیں ہے اور بعض نے فرمایا کہ نہیں یہ سب اماموں کا قول ہے اور یہی صحیح ہے اس واسطے کہ امام اعظم ایسے موقع پر آزاد کے حق میں بھی حجر روا رکھتے ہیں جس کا نفع عائد بجانب عام ہو۔

بعضی کتابوں میں اس مسئلہ میں مذکور ہے کہ امام المسلمین دوات زراعت و بیل خرید کر کے کسی آدمی کو دیں دے تاکہ وہ اس سے زراعت کرے پھر جب حاصلات آئے تو اس میں سے جو کچھ خرچ پڑا ہے اور خراج لے کر باقی کو مالک زمین کے واسطے رکھ چھوڑے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ امام المسلمین مالک زمین کو بیت المال سے اس قدر قرضہ دے کہ جس سے وہ بیل اور اودات کا شکار خریدے اور مضبوطی کر لے اور کوئی تحریر کر لے تاکہ وہ زراعت کرے پھر جب حاصلات ظاہر ہو تو اس میں سے خراج لے لے اور جو کچھ قرض دیا ہے وہ مالک زمین پر ادھار ہوگا اور فرمایا کہ اگر بیت المال میں کچھ نہ ہو تو زمین مذکور ایسے شخص کو دے دے جو اس کی پرداخت کرے اور اس کا خراج ادا کیا کرے۔ پھر درصوتیکہ مالک زمین زراعت سے عاجز ہوا اور امام نے اراضی مذکورہ کے ساتھ ایسا فعل کیا جو ہم نے بیان کیا ہے پھر مالک زمین کو قدرت زراعت و کام کی قوت حاصل ہوگئی تو جس کے قبضہ میں ہے امام اس سے لے کر مالک زمین کو واپس کر دے گا سوائے ایک صورت بیع کے کہ اگر کسی کے ہاتھ فروخت کر دی ہو تو

اس سے واپس نہ لے گا یہ محیط میں ہے اور اگر اہل خراج اراضی چھوڑ کر بھاگ گئے تو حسن نے امام اعظم سے روایت ذکر کی ہے کہ امام کو اختیار ہے چاہے اس اراضی کی پرداخت بیت المال سے کرے اور جو غلہ حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کا ہوگا اور چاہے کہ لوگوں کو مقاطعہ پردے دے اور جو ان سے لے گا وہ بیت المال کا ہوگا اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر اہل خراج مر گئے تو امام المسلمین ان کی اراضی زراعت پردے دے اور چاہے اس اراضی کو اجارہ پردے اور اس کی اجرت بیت المال میں داخل کرے اور اگر اہل خراج چھوڑ کر بھاگ گئے تو امام اس اراضی کو اجارہ پردے اور اجرت میں سے بقدر خراج کے لے لے اور باقی کو مالکان اراضی کے واسطے رکھ چھوڑے پھر جب وہ لوگ واپس آئیں تو یہ باقیات ان کو دے دے اور جس سال وہ لوگ بھاگے ہیں جب تک وہ سال نہ گزر جائے تب تک اجارہ پر نہ دے گا یہ سراج و باج میں ہے۔

اگر اہل ذمہ اپنی اراضی سے دوسرے ملک میں منتقل کیے گئے تو بعد صحیح ہے اور بدوں عذر نہیں صحیح ہے اور عذر یہ ہے کہ ان لوگوں کو قوت و شوکت حاصل نہ ہو پس اہل حرب کی طرف سے ان پر خوف ہو یا ان کی طرف سے ہم پر خوف ہو بایں طور کہ مسلمانوں کے پوشیدہ حالات سے اہل حرب کو آگاہ کر دیں اور ان لوگوں کو ان کی اراضی کی قیمت ملے گی یا اس ملک سے جہاں منتقل کیے گئے ہیں ان کو اراضی کے مثل اراضی ملے گی اور ان پر اس اراضی کا جہاں منتقل کیے گئے ہیں خراج واجب ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جہاں سے منتقل کیے گئے ہیں اس اراضی کا خراج ان پر واجب ہوگا مگر اول اصح ہے اور ان کی اراضی سابقہ خراجیہ ہوگی اور اگر کسی مسلمان نے اس میں توطن اختیار کی تو اس پر اس اراضی کا خراج واجب ہوگا یہ کافی میں ہے۔ کسی گاؤں میں اراضی ہے جس کے مالکان مر گئے یا غائب ہو گئے اور اہل قریہ اس کے خراج ادا کرنے سے عاجز ہوئے اور چاہا کہ اس کو سلطان کے سپرد کر دیں تو سلطان اس اراضی کے حق میں وہی کرے گا جو ہم نے بیان کیا ہے اور اگر سلطان نے چاہا کہ اس اراضی کو اپنی ذات کے واسطے لے لے تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی مشتری کے ہاتھ فروخت کر کے پھر اس سے خود خرید لے۔ ایک قوم نے ایک قطعہ زمین خرید جس میں چار دیواری کے باغبانے انگور اور کھیت ہیں تو کل کا اخراج یکجائی مشترک ادا کریں اور اگر ان میں سے ایک نے باغبانے انگور اور دوسرے نے اراضی خریدی اور خراج کی تقسیم چاہی تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر باغبانے انگور کا خراج معلوم ہو اور نیز خراج اراضی معلوم ہو تو حکم وہی رہے گا جو قبل خرید کے تھا۔

اگر خراج اراضی کسی مسلمان پر متوالی دو سال کا چڑھ گیا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ و امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اُس سے پورے گذشتہ ایام کا خراج لیا جائے گا اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں:

اگر خراج باغ ہائے انگور معلوم نہ ہو اور تمام قطعہ مذکور کا خراج یکجائی ہو تو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ باغبانے انگور دراصل باغبانے انگور ہی تھے کہ سوائے باغ ان کو ہونے کے ان کا کچھ اور ہونا ثابت و معلوم نہیں ہوتا ہے یعنی کوئی نہ نہیں کہتا ہے کہ دراصل اراضی تھی پھر باغ انگور ہو گئی بلکہ سب یہی کہتے ہیں کہ دراصل یہ باغبانے انگور ہی تھے اور اس اراضی کا بھی یہی حال ہے تو خراج باغبانے انگور اور خراج اراضی پر نظر کی جائے پس جب ان میں سے ہر ایک کا خراج معلوم ہو جائے تو پورے قطعہ زمین کا خراج ان دونوں پر تقسیم کر دیا جائے پس جس قدر ہر ایک کے پرتے میں پڑے وہی اس پر واجب ہوگا۔ کسی گاؤں کی اراضی کا خراج علی التفاوت ہے یکساں نہیں ہے پھر جس کی اراضی کا خراج زیادہ ہے اس نے درخواست دی کہ میری اراضی کا خراج اور دن کے برابر

کر دیا جائے تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ خراج ابتداء میں برابر تھا یا علی تفاوت تھا تو جیسا قبل اس کے ہوتا رہا ہے اسی حال پر چھوڑا جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ فتاویٰ میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی خراجی زمین کو مقبرہ یا بھاڑے کی کاروان سرائے یا فقیروں کا مسکن بنا دیا تو خراج ساقط ہو جائے گا۔ اگر خراج اراضی کسی مسلمان پر متوالی دو سال کا چڑھ گیا تو امام ابو یوسف و امام محمد کے نزدیک اس سے پورے گذشتہ ایام کا خراج لیا جائے گا اور امام اعظم کے نزدیک نہیں بلکہ اسی سال کا لیا جائے گا جس میں وہ اب ہے ایسا ہی شیخ الاسلام نے شرح سیر صغیر میں ذکر کیا ہے۔

صدر الاسلام نے کتاب العشر والخراج میں امام اعظم سے دو روایتیں ذکر کی ہیں اور صدر اسلام نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ اس سے پورا گذشتہ کا خراج لے لیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔ اگر اس کی زمین پر پانی چڑھ آیا یعنی غرق ہو گئی یا اس سے پانی منقطع ہو گیا یعنی ٹوٹ گیا یا وہ زراعت کرنے سے باز رکھا گیا تو اس پر خراج واجب نہ ہوگا یہ نہر الفائق میں ہے۔ امام محمد نے نوادر میں ذکر کیا ہے کہ اگر زمین خراجی ڈوب گئی پھر دوسرا سال شروع ہونے سے اس قدر مدت پہلے اس کا پانی خشک ہو گیا کہ اتنی مدت میں وہ دوبارہ زراعت کرنے پر قادر ہے مگر اس نے زراعت نہ کی تو اس پر خراج واجب ہوگا اور اگر دوسرا سال شروع ہونے سے پہلے اتنی مدت پانی خشک ہوا کہ اتنے دنوں میں زراعت کر لینے پر قادر نہیں ہوا تو اس پر خراج واجب نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر کھیتی کو کوئی آفت آسمانی ایسی پہنچی کہ اس سے احتراز ناممکن ہے مثل غرق و سونگی و شدت پالا و اولاد وغیرہ تو اس پر خراج واجب نہ ہوگا اور اگر غیر آسمانی آفت ایسی پہنچی کہ اس سے احتراز ممکن ہے جیسے کھالینا بندروں یا درندوں یا چوپاؤں وغیرہ کا یا اس کے مثل کوئی آفت پہنچی تو خراج ساقط نہ ہوگا اور یہی اصح ہے اور شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ اگر کاٹنے سے پہلے کھیتی تلف ہو گئی تو خراج ساقط ہوگا اور اگر کاٹے جانے کے بعد تلف ہوئی تو ساقط نہ ہوگا یہ سراج و ہاج میں ہے۔

جوزین عشری ہے اگر اس کی کھیتی قبل کاٹے جانے کے تلف ہوئی تو عشر ساقط ہوگا اور اگر بعد کاٹے جانے کے تلف ہوئی تو جو کچھ نصب مالک زمین تھا وہ اس کے ذمہ سے ساقط ہوگا اور جو کاشکار کے حصہ رسدی پر حصہ عشر تھا وہ بذمہ مالک زمین باقی رہے گا۔ خراج مقاسمہ بھی بمنزلہ عشر کے ہے اس واسطے کہ اس میں بھی اسی پیداوار میں سے کچھ حصہ واجب ہوتا ہے عشر میں اور اس میں فقط یہی فرق ہے کہ دونوں کا مصرف جدا جدا ہے اور یہ سب اس وقت ہے کہ کل پیداوار تلف ہو گئی اور اگر اکثر حصہ تلف ہو گیا اور کچھ باقی رہ گیا تو باقی کو دیکھا جائے کہ اگر اتنا رہ گیا ہے کہ دو قفیز۔ دو درہم تک پہنچتا ہے تو ایک فقیر ایک درہم خراج واجب ہوگا اور بالکل ساقط نہ ہوگا اور اگر اس سے کم باقی رہا تو نصف حاصلات واجب ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ صواب اس صورت میں یہ ہے کہ پہلے دیکھا جائے کہ اس شخص نے اس زمین میں کیا خرچ کیا ہے پھر حاصلات کو دیکھا جائے پھر پہلے اس حاصلات میں سے جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے وہ اس کو محسوب دیا جائے پھر اگر کچھ باقی رہے تو اس میں اسی طور سے کیا جائے جیسے ہم نے بیان کیا ہے یہ سراج و ہاج و محیط میں ہے۔

کیا حاکم آسمانی آفات کی صورت میں نقصان میں حصہ دار ہوگا؟

حاصل پیداوار تلف ہو جانے سے خراج جب ہی ساقط ہو جاتا ہے کہ سال میں سے اتنی مدت نہ باقی رہی ہو کہ اس میں دوبارہ کھیتی کر لینے پر قادر ہوئے اور اگر ایسی مدت باقی رہی ہو تو خراج ساقط نہ ہوگا (یہ خراج موظف میں ہے) اور ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا اول تھا ہی نہیں اور ایسا ہی حکم کرم یعنی باغ انگور کا ہے کہ اگر اس کے پھل آسمانی آفت سے جاتے رہے پس اگر کچھ جاتے

۱۔ کیونکہ عشر اس کی پیداوار میں سے واجب ہے نہ مثل خراج موظف کے فعل ہذا خراج مقاسمہ بھی مثل عشر کے ہے ۱۲۔

رہے اور کچھ باقی رہے پس اگر باقی اتنے ہیں کہ بیس درہم تک پہنچ جاتے ہیں اس سے زیادہ ہیں تو اس پر دس درہم واجب ہوں گے اور اگر بیس درہم تک نہیں پہنچتے ہیں تو باقی میں نصف مقدار واجب ہوگی اور یہی حکم رطاب کا ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اکاسرہ^۱ یعنی شاہان کسری جو مجوسی تھے ان کے افعال پسندیدہ میں سے ایک یہ بات تھی کہ جب کاشتکار کی کھیتی کو کوئی آفت آسانی ان کے عہد میں پہنچتی تھی تو اس کا خرچہ و بیج اپنے خزانہ سے اس کو تاوان دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ کاشتکار نفع میں ہمارا شریک ہے پس نقصان میں ہم اس کے شریک کیوں کرنے ہوں اور مسلمان سلطان اس خلق کے اختیار کرنے میں بدرجہ اولیٰ لائق ہے یہ وجہ کر دہی میں ہے اگر کسی نے خراجی زمین میں باغ انگور لگایا تو جب تک باغ انگور پھل نہ دبوئے تب تک اس پر زمین زراعت کا خراج واجب ہوگا اور اسی طرح اگر دیگر پھلدار درخت لگائے تو بھی درختاں مذکورہ کے پھل دینے تک اس پر زمین زراعت کا خراج واجب ہوگا اور جب درختاں انگور پورے ہو کر پھل لائے پس اگر انگوروں کی قیمت بیس درہم یا زیادہ تک پہنچی تو اس پر دس درہم واجب (جو بھیتی کا خراج ہے) ہوں گے اور اگر بیس درہم سے کم پہنچتی ہو تو اس پر نصف پیداوار حاصلات واجب ہوگی اور اگر نصف حاصلات مذکور بقدر ایک قفیز (نی جریب دس درہم) ایک درہم کے بھی نہ پہنچی ہو تو ایک قفیز و ایک درہم سے کم نہ کیا جائے گا اس واسطے کہ وہ زراعت کرنے پر قادر تھا۔

اگر کسی کے ملک میں ایسا قطعہ زمین ہے کہ وہ اجمہ^۲ ہے حالانکہ اس میں کثرت سے شکار ہے تو اس پر خراج واجب نہیں ہے اور اگر کسی کی زمین میں نرکل کھڑا ہے یعنی منیستان^۳ ہے یا جھاؤ کا جنگل ہے یا درختاں صنوبر یا بید مجنون یا دیگر اشجار ایسے لگے ہیں کہ پھل نہیں دیتے ہیں تو دیکھا جائے کہ اگر مالک زمین اس کو قطع کر کے اس کے مزرعہ کرنے پر قادر تھا مگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس پر خراج واجب ہوگا اور اگر اس کے درست کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس پر خراج بھی واجب نہ ہوگا اور اگر زمین خراجی ہیں ایسی زمین ہو کہ اس میں سے قلیل یا کثیر نمک نکلنا ہے تو اس کا حکم بھی ایسا ہی ہے کہ اگر مالک زمین اس کے اصلاح کرنے اور مزرعہ کر دینے اور خراجی پانی سے پانی پہنچانے پر قادر تھا تو اس پر خراج واجب ہوگا اور اگر وہاں خراجی پانی نہیں پہنچ سکتا تھا یا وہ پہاڑ پر واقع ہے کہ وہاں پانی نہیں پہنچ سکتا ہے تو خراج واجب نہ ہوگا۔ اگر زمین خراجی کے درمیان کوئی قطعہ زمین سپیٹ^۴ واقع ہے کہ مزارعت کے لائق نہیں یا اس کو پانی نہیں پہنچتا ہے پس اگر مالک زمین مذکور اس کی اصلاح کر سکتا تھا مگر نہ کی تو اس پر اس کا خراج واجب ہوگا اور اگر اصلاح نہیں کر سکتا تھا تو اس پر خراج بھی واجب نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ قال المترجم واضح ہو کہ یہاں دو وقت ہیں ایک وقت وجوب خراج اور دوسرا وقت ادائے خراج واجب فافہم۔

امام اعظم^۵ کے نزدیک وقت وجوب خراج کا اول سال ہے یعنی شروع سال مگر بدیں شرط کہ زمین نامیہ حقیقتاً یا اعتباراً اس کے قبضہ میں ایک سال باقی رہے یہ ذخیرہ کی کتاب العشر والخراج میں ہے اور والی ملک کو چاہیے کہ خراج کے واسطے ایسے شایستہ آدمی کو مقرر کرے جو لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور ان سے خراج لینے میں انصاف و عدل کو پیش نظر رکھے اور ہر بار جب غلہ پیدا ہو تب ان سے بقدر اس کے خراج لے لے یہاں تک کہ آخر غلہ پر پورا خراج حاصل ہو جائے اور اس کلام سے مراد یہ ہے کہ بقدر غلہ کے خراج مقرر کرے چنانچہ اگر کسی زمین میں ربیع و خریف دو فصلیں پیدا ہوتی ہوں تو غلہ ربیع حاصل ہونے کے وقت شایستہ

۱۔ بعضوں نے کہا کہ لقب شاہان فارس کا ہے اور یہ اقرب ہے ۱۲۔ ۲۔ تالاب ہے کہ اس میں نرکل وغیرہ کے درخت ہوتے ہیں ۱۲۔ ۳۔ جھاڑی مختلف درختوں کی مثلاً پتاو و نرکل و بانس و دیگر درختاں خود دو وغیرہ ۱۲۔ ۴۔ اگر اصلاح پر قادر نہیں ہے تو بدرجہ اولیٰ واجب نہ ہوگا ۱۲۔ ۵۔ شورہ زار جس کو ہندی میں اوسر بولتیت ہیں کہ اس مقام پر کنگروریت ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں جمتی ہے ۱۲۔

متولے مذکور انداز و تخمینا سے یہ لحاظ کرے کہ اس زمین میں غلہ خریف کتنا پیدا ہوگا پس اگر اس کی خاطر میں جم جائے کہ مثل غلہ ربیع کے پیدا ہوگا تو خراج کے دو حصہ کر ڈالے پس غلہ ربیع میں سے نصف خراج لے لے اور باقی نصف خراج میں تاخیر کرے یہاں تک کہ غلہ خریف پیدا ہوئے پس نصف خراج اس میں سے لے لے۔ ایسا ہی بقول میں کرے کہ دیکھے کہ اگر یہ ایسی چیزوں میں سے ہے جو پانچ مرتبہ نوچی جاتی ہیں یعنی ایک مرتبہ نوچنے کے بعد پھر ہری ہو کر دو بارہ و سہ بارہ اسی طرح پانچ مرتبہ تک نوبت پہنچتی ہے تو خراج کے پانچ ٹکڑے کر کے ہر مرتبہ سے پانچواں حصہ خراج لے لے اور اگر ایسی نباتات سے ہو کہ چار مرتبہ نوچی جاتی ہیں تو ہر مرتبہ سے چہارم خراج وصول کر لے اور اسی قیاس پر سمجھ لینا چاہیے یہ محیط میں ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نوادر میں ذکر فرمایا کہ اگر کسی نے خوشی سے اپنی زمین کا خراج سال یا دو سال کا پیشگی بطور تعجیل ادا کر دیا تو یہ جائز ہے:

جس پر خراج یا عشر واجب ہو گیا ہے اگر وہ مر گیا تو یہ اس کے ترکہ سے وصول کر لیا جائے گا اور اختلاف بلاد کے موافق غلہ کی پختگی کا وقت بھی مختلف ہے پس پیداوار غلہ کی ادراک کے وقت خراج لیا جائے گا اور مالک اراضی کو حلال نہیں ہے کہ جب تک خراج ادا نہیں کیا ہے تب اس پیداوار میں سے کھائے ہاں بعد ادائے کرنے کے کھانا حلال ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور نیز جس میں سے عشر دینا چاہیے ہے اس میں سے بھی کھانا حلال نہیں ہے یہاں تک کہ عشر ادا کرے اور اگر کھاجائے گا تو ضامن ہوگا اور سلطان کو اختیار ہے کہ زمین خراج کی پیداوار روک رکھے یہاں تک کہ خراج وصول کر لے یہ ظہیر یہ میں ہے اور امام محمد نے اپنی نوادر میں ذکر فرمایا کہ اگر کسی نے خوشی سے اپنی زمین کا خراج سال یا دو سال کا پیشگی بطور تعجیل ادا کر دیا تو یہ جائز ہے اور منقہ میں ہے کہ اگر کسی نے اپنی زمین کا خراج پیشگی دیا پھر اسی سال زمین غرق ہو گئی تو فرمایا کہ جو کچھ خراج اس نے ادا کیا ہے وہ اس کو واپس کر دیا جائے پھر اگر اس کے قبضہ میں نہ دیا گیا اور اس نے دوسرے سال اس میں زراعت کی تو اس سال کے خراج میں محسوب کر دیا جائے گا۔ امام محمد سے مروی ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی زمین کا دو سال کا خراج ادا کر دیا یعنی پیشگی پھر اس زمین پر پانی چڑھ آیا اور غرق آب ہو کر دجلہ ہو گئی تو فرمایا کہ جو کچھ امام نے وصول کیا ہے وہ اس کو واپس کر دے بشرطیکہ بعینہ موجود ہو اور اگر امام نے اس خراج کو دے دیا ہو یعنی مجاہدین کے صرف میں لایا ہو تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔

باب : ۸

جزیہ کے بیان میں

جزیہ اس مال کا نام ہے جو اہل ذمہ سے لیا جاتا ہے کذا فی الہنایہ اور جزیہ فقط اسی ذمی پر واجب ہوتا ہے کہ مرد بالغ ہو لیاقت قتال رکھتا ہو عاقل ہو محترف ہو اگر چہ اپنے حرفہ کو اچھی طرح نہ جانتا ہو یہ سراجیہ میں ہے اور جزیہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ کہ صلح و تراخی سے ان پر مقرر کیا گیا ہو پس اس کی مقدار وہی رہے گی جس پر باہم اتفاق ہوا ہے اسی حساب سے ہر ایک پر مقرر ہوگا یہ کافی میں ہے پس اس مقدار سے زیادہ نہ کیا جائے گا اور کم بھی نہ کیا جائے گا یہ نہر الفائق میں ہے۔ دوم جزیہ وہ کہ جب امام المسلمین

۱۔ خواہ مخواہ لے لینا حرام ہے ۱۲۔ ۲۔ نسخہ مطبوعہ میں دخل اول مہملہ جیم کے ساتھ ہے پس اس بنا پر اس کے دیار کی جانب یہ حکم راجع ہوگا اور صورت مسئلہ اس زمین کے واسطے ہوگی جو دجلہ کے دونوں کنارے پر واقع ہے اور نظائر نزدیک مترجم کے دخل بود و جاء مہملہ ہے فافہم ۱۲۔

کافروں پر غالب ہو اور احسان کر کے ان کو ان کی املاک پر باقی رکھ کر ان پر از سر نو جزئیہ اپنی رائے سے مقرر کیا کذا فی الکافی۔ پس یہ جزئیہ مقدر بقدر معلوم ہے خواہ چاہیں یا انکار کریں راضی ہوں یا تاراض ہوں پس تو نگر پر ہر سال میں وزن سبغہ کے اڑتالیس درہم مقرر کیے جائیں گے چنانچہ ماہواری چار درہم وصول کر لے گا اور جو شخص متوسط الحال ہے اس پر سالانہ چوبیس درہم یعنی ماہواری دو درہم ہوں گے اور جو شخص فقیر معتمل ہے اس پر سالانہ بارہ درہم یعنی ماہواری ایک درہم مقرر ہوگا کہ کذا فی فتح القدير والهدایہ والکافی۔

معتمل سے کیا مراد ہے؟

معتمل کے معنی میں گفتگو ہے اور اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ معتمل وہ ہے کہ جو کام کرنے پر قادر ہو اگرچہ اپنا حرفہ اچھی طرح نہ جانتا ہو۔ علماء نے تو انگریز اور متوسط الحال اور فقران تینوں کی شناخت میں گفتگو کی ہے چنانچہ شیخ امام ابو جعفرؒ نے فرمایا کہ ہر بلا میں وہاں کا عرف معتبر ہوگا پس جس بلا دو الے اپنے شہر میں جس کو تو انگر شمار کرتے ہوں یا متوسط یا فقیر شمار کرتے ہوں وہ ایسا ہی ہوگا اور یہی اصح ہے یہ محیط میں ہے اور امام کرخیؒ نے فرمایا کہ فقیر وہ ہے جو دو سو درہم یا کم کا مالک ہو اور متوسط وہ ہے جو دو سو درہم سے زائد دس ہزار درہم تک کا مالک ہو اور تو نگر وہ ہے جو دس ہزار درہم سے زائد کا مالک ہو اور شیخ رضی اللہ عنہ (قاضی حسن بن منصور) نے فرمایا کہ اعتماد اس باب میں کرخیؒ کے قول پر ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ معتمل میں یہ ضروری ہے کہ وہ تندرست ہو اور سال میں زیادہ مدت اس کی تندرستی ہونا کافی ہے یہ ہدایہ میں ہے۔ ایضاً میں مذکور ہے کہ اگر ذمی تمام سال بیمار رہا اور اس نے کام کرنے پر قدرت نہ پائی حالانکہ وہ خوشحال ہے تو اس پر جزئیہ واجب نہ ہوگا اور اسی طرح اگر نصف سال یا زیادہ بیمار رہا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر باوجود قدرت و تندرستی کے اس نے کام کرنا چھوڑا تو وہ معتمل کے حکم میں ہوگا یہ نہایت میں ہے۔ جزئیہ ہمارے نزدیک ابتدائے سال سے واجب ہوتا ہے اور جزئیہ اہل کتاب پر ہے خواہ وہ عرب کے ہوں یا عجم کے اور مجوس و بت پرستان عجم پر ہے یہ کافی میں ہے۔ پھر یہ جزئیہ لینے کا وقت سال کا آخر زمانہ ہے قبل اس کے کہ دوسرا سال شروع ہو جائے اور امام ابو یوسفؒ سے روایت ہے کہ ہر دو مہینہ پر قسط کر کے لیا جائے گا اور امام محمدؒ سے روایت ہے کہ ماہواری یعنی ہر مہینہ لیا جائے گا اور اصح وہی قول اول ہے یہ مبسوط میں ہے۔

یہودیوں میں سامری داخل ہیں اور نصاریٰ میں فرنگ و ارمنی داخل ہیں۔ اگر لشکر اسلام نے اہل کتاب و مجوس و بت پرستوں پر جو عجم کے ہوں غلبہ پایا قبل اس کے کہ ان پر جزئیہ مقرر کیا جائے یعنی بغیر صلح کے تو وہ لوگ اور ان کی عورتیں و بچے سب فنی ہوں گے یہ فتح القدير میں ہے۔ رہے صابی لوگ سو امام اعظمؒ نے فرمایا کہ ان سے جزئیہ لیا جائے گا اور صاحبین نے فرمایا کہ نہیں لیا جائے گا اور رہے مہیضہ سو مشائخ نے فرمایا کہ دیکھا جائے کہ اگر وہ جدید پیدا ہوئے ہیں تو وہ لوگ مرتد ہیں کہ ان سے جزئیہ نہ لیا جائے گا بلکہ وہ لوگ قتل کیے جائیں گے اور اگر وہ لوگ پرانے ہوں یعنی قدیمی یہ فرقہ چلا آتا ہو تو ان سے جزئیہ لیا جائے گا اور رہے زندیق لوگ سو ان سے جزئیہ لیا جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ عرب کے بت پرستوں پر جزئیہ باندھا جائے گا اور نہ مرتد لوگوں پر جزئیہ ہوگا بلکہ اسلام لائیں یا قتل کیے جائیں اور اگر ان لوگوں پر غلبہ حاصل ہو تو ان کی عورتیں و بچے فنی ہوں گے اور ان کے مردوں میں سے جو شخص مسلمان نہ ہو وہ قتل کیا جائے اور واضح ہو کہ عورت و بچہ و اندھے پر جزئیہ نہیں ہے اور نیز مفلوج اور بڈھے پھوس اور فقیر غیر معتمل پر بھی جزئیہ نہیں ہے۔ یہ ہدایہ میں ہے اور نیز مجنون اور پاہج پر بھی جزئیہ نہیں ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے

اور معتوہ سے بھی نہ لیا جائے گا یہ محیط میں ہے اور جن لوگوں کے ہاتھ و پاؤں کٹے ہوئے ہوں ان پر جزیہ واجب نہیں ہوتا ہے یہ تاتار خانہ میں ہے اور مملوک و مکاتب و مد بردام ولد پر جزیہ نہیں باندھا جائے گا نہ ان کے مولیٰ اور ان کی طرف سے ادا کریں گے اور ایسے راہبوں پر بھی نہیں باندھا جائے گا جو لوگوں سے الگ ہیں مخالفت نہیں کرتے ہیں یہ ہدایہ میں ہے اور دل جوائی نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ نصارے بخران پر ان کے رؤس و اراضی پر سالانہ ہزار حلقہ کر ہر حلقہ پچاس درہم کا ہوئے باندھا جائے گا جس میں سے ہزار حلقہ ماہ صفر میں اور ہزار حلقہ ماہ رجب میں واجب ہوں گے اور یہ ان کے رؤس یعنی ہر ہر نفر پر اور ان کی اراضی پر تقسیم کیا جائے گا پس جو کچھ ان کے رؤس کے مقابلہ میں آئے وہ جزیہ ہوگا اور جو ان کی اراضی پر پڑے وہ خراج ہوگا اور یہ دلوالجی نے فرمایا ہے یہی صحیح ہے بسبب اس کے کہ حدیث کے موافق ہے مگر اس کی اتنی بات کہ ہر حلقہ پچاس درہم کا ہو اور امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں فرمایا کہ یہ حلہ بیان کردہ شدہ دو ہزار حلقہ میں جو ان کی اراضی اور ان کے رؤس پر باندھے جائیں گے اور ان کے مردوں کی تعداد ہر ہر نفر پر جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور بخران کی ہر ہر زمین پر تقسیم کیے جائیں گے اگرچہ بعض نے اپنی زمین پوری یا تھوڑی کسی مسلمان کے ہاتھ فروخت کر دی ہو یا کسی ذمی یا تغلمی^۱ کے ہاتھ فروخت کر دی ہو اور اراضی کے خراج مذکور میں عورت و بچہ سب کی اراضی مثل مردوں کی اراضی کے ہیں مگر جزیہ رؤس سوہ مردوں پر ہے عورتوں و بچوں پر نہیں ہے۔ یہ غایتہ البیان میں ہے۔

اگر نصرانی کما تا ہوئے مگر اس کے خرچ سے نہیں بچتا ہے تو اس سے جزیہ راس نہ لیا جائے گا:

امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں حلہ کو بیان کیا ہے چنانچہ فرمایا کہ ہر حلہ ایک اوقیہ ہے یعنی اس کی قیمت اس قدر ہے قلت و اوقیہ چالیس درہم وزن کا ہوتا ہے اور شائد اس پر پچاس درہم چڑھتے ہوں بس قول دلوالجی اس کے موافق ہوگا لیکن نہر الفائق میں نقلاً از فتح القدر اس پر اعتراض کیا کہ بس قول دلوالجی کے ہر حلقہ پچاس درہم ہو صحیح نہیں ہے اس واسطے کہ اوقیہ چالیس درہم ہے انتھی و قد اشترت الی الجواب فافہم اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر ان کے سب مرد مر گئے یا مسلمان ہو گئے تو دو ہزار حلقہ میں سے کچھ کم نہ ہوگا اور یہ سب مقدار یعنی دو ہزار درہم ان کی اراضی سے وصول کیا جائے گا یہ حاوی قدسی میں ہے اور جو مردان میں سے مسلمان ہو گیا اس کے راس کا جزیہ ساقط ہو جائے گا اور وہ مقدر ان لوگوں پر ڈالی جائے گی جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ بخران کا آزاد کیا ہو غلام جس کو مولیٰ کہتے ہیں وہ مثل ذمی کے غلام آزاد کیے ہوئے کے ہے کہ اس پر اس کی ذات کا جزیہ باندھا جائے گا یہ تاتار خانہ میں دلوالجیہ سے نقل ہے اور واضح ہو کہ حلہ کہتے ہیں تہ بند و چادر کو اور یہی اور جب تک دو کپڑے نہ ہوں تب تک حلہ نہ کھلایا جائے گا یہ کفایہ میں ہے اور حجت میں لکھا ہے کہ اگر نصرانی کما تا ہوئے مگر اس کے خرچ سے نہیں بچتا ہے تو اس سے جزیہ راس نہ لیا جائے گا یہ تاتار خانہ میں ہے اور اگر مسلمان کا آزاد کیا ہو غلام مرد نصرانی ہو تو اس پر جزیہ باندھا جائے گا یہ ہدایہ میں ہے۔

قریشی نے اگر کا فر غلام آزاد کر دیا تو اس سے جزیہ لیا جائے گا یہ کافی میں ہے۔ اگر ذمیوں میں سے کوئی لڑکا شروع سال میں قبل اس کے کہ ان لوگوں پر جزیہ باندھا جائے مٹلم ہو یعنی اس کو احتلام ہو جو علامات بلوغ ہے اور حال یہ ہے کہ وہ تو انگر ہے تو اس پر جزیہ باندھا جائے گا اور اس سے اس سال کا جزیہ لے لیا جائے گا اور اگر ان لوگوں یعنی ذمی مردوں پر جزیہ باندھے جانے کے بعد وہ مٹلم ہوا ہے تو اس پر جزیہ نہ باندھا جائے گا یہاں تک کہ یہ سال گزر جائے اور اگر شروع سال میں کوئی غلام آزاد کیا گیا

۱ تغلمی قوم ہے مشرکان عرب سے جس پر دو چند جزیہ صلح میں قرار پایا ہے۔

حالانکہ اس کے پاس مال اس کی ملک ہے پس اگر ان لوگوں پر جزیہ باندھے جانے سے پہلے آزاد کیا گیا تو اس پر بھی جزیہ باندھا جائے گا اور اس سال کا جزیہ اس سے لیا جائے گا اور اگر مردوں پر جزیہ باندھے جانے کے بعد وہ آزاد کیا گیا تو اس پر جزیہ باندھا جائے گا یہاں تک کہ سال گزر جائے اور اگر حربی قبل اس کے کہ ذمی مردوں پر جزیہ باندھا جائے ذمی ہو گیا تو اس پر جزیہ باندھا جائے گا اور اس سال کا جزیہ اس سے لیا جائے گا اور اگر ذمی مردوں پر جزیہ باندھے جانے کے بعد وہ ذمی ہو تو اس پر جزیہ نہ باندھا جائے گا یہاں تک کہ یہ سال گزر جائے اور جو شخص کسی ایسے مرض وغیرہ میں گرفتار ہے کہ قابل جزیہ کے نہیں ہے اگر اس کو افاقہ ہو گیا تو جب تک یہ سال نہ گزر جائے اس پر جزیہ نہ باندھا جائے گا خواہ ذمی مردوں پر جزیہ باندھے جانے سے پہلے اس کو افاقہ ہو گیا ہو یا اس کے بعد ہوا ہوئے اور خواہ وہ بعد وضع جزیہ کے غنی ہو گیا یا اس سے غنی ہو گیا اور جس پر جزیہ واجب الادا ہے اگر وہ مر گیا یا مسلمان ہو گیا حالانکہ اس پر گزشتہ کا جزیہ باقی ہے تو ہمارے نزدیک یہ باقی اس سے نہ لے جائے گی اور اسی طرح اگر وہ اندھا ہو گیا یا لنگیا یا لولا یا بڈھا پھوس ہو گیا کہ کسی کام کرنے پر قادر نہیں ہے یا فقیر ہو گیا کہ اس کو کچھ دسترس نہیں ہے حالانکہ اس پر پچھلا جزیہ نفس باقی ہے تو یہ باقی ساقط ہو جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور خانہ میں لکھا ہے کہ اگر ذمی سال میں کچھ دنوں غنی رہا اور کچھ دنوں فقیر رہا تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر زیادہ دنوں غنی رہا تو اس سے تو انگریوں کا جزیہ لیا جائے گا (جو تو نگروں سے لیا جاتا ہے) اور اگر اس کے برعکس ہو تو فقیروں کا جزیہ لیا جائے گا اور اگر آدھے سال تو نگر اور آدھے سال فقیر رہا تو اس سے متوسط حال والوں کا جزیہ لیا جائے گا یہ تاتار خانہ میں ہے۔

اگر امام کے جزیہ مقرر کرنے سے پہلے مریض چنگا ہو گیا تو اس پر جزیہ باندھا جائے گا اور جزیہ باندھنے کے بعد اگر وہ چنگا ہو تو اس پر جزیہ اس سال کا نہ باندھا جائے گا اور جزیہ کا پیشگی دو سال یا زیادہ کے واسطے ادا کرنا جائز ہے اور اگر ذمی نے دو سال کے واسطے پیشگی جزیہ ادا کیا پھر اسلام لایا تو اس میں سے ایک سال کا خراج واپس کر دیا جائے گا مگر سال اول کا خراج واپس نہ کیا جائے گا جبکہ یہ سال شروع ہو جانے کے بعد وہ مسلمان ہو یا مر گیا ہو یہ اختیار شرح مختار میں ہے اور یہ مسئلہ اس امام کے قول پر ہے جو شروع سال سے جزیہ واجب ہونے کے فرمانا ہے اور جامع صغیر میں اسی پر تخصیص کر دی ہے اور اسی پر فتویٰ کبریٰ میں ہے اور اگر پے در پے چند سال ذمی پر چڑھ گئے اور اس سے جزیہ نہ لیا گیا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا تو ہمارے نزدیک اس سے جزیہ کا مطالبہ نہ کیا جائے گا اور اگر ذمی مذکور مسلمان نہ ہو بلکہ اپنے کفر پر جہار ہا تو امام اعظم نے فرمایا کہ اس سے گذشتہ سالوں کے جزیہ کا مطالبہ نہ کیا جائے گا اور نیز اس سال کے جزیہ کا جس میں وہ ہے مطالبہ نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ یہ سال پورا ہوئے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اگر ذمی بخزانی و بطنی کے درمیان ایک باندی ہے اور اس کے لڑکا پیدا ہوا پس دونوں نے ساتھ ہی اس کے نسب کا دعویٰ کیا پھر وہ بچہ بڑا یعنی بالغ ہوا تو اس پر نصف خراج بخزانیوں کا سا اور نصف خراج بطنیوں کا سا ہوگا یہ سراجیہ میں ہے۔

اگر بخزانی و بطنی کے درمیان مشترک باندی سے لڑکا پیدا ہوا اور دونوں نے ساتھ ہی اس کے نسب کا دعویٰ کیا پھر اس کے ہر دو باپ مر گئے اور یہ لڑکا بالغ ہوا تو سیر میں مذکور ہے کہ اگر پہلے تغلبی مرے تو اس سے اہل بخزان کا جزیہ لیا جائے گا اور اگر پہلے بخزانی مر گیا تو اس سے بنی تغلب کا جزیہ لیا جائے گا اور اگر دونوں ساتھ ہی مر گئے تو نصف تغلبیوں کا سا اور نصف بخزانیوں کا سا لیا جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر ذمی نے مال جزیہ اپنے غلام یا نایب کے ہاتھ بھیجا تو یہ قدرت اس کو نہ دی جائے گی چنانچہ سب روایات میں سے صحیح روایت یہی ہے بلکہ اس کو تاکید کی جائے گی کہ جزیہ کو خود حاضر کرے اور کھڑا ہو کر ادا کرے اور اس

سے وصول کرنے والا بیٹھا ہوگا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کی سہلت کو پکڑ کر خوب جنبش دے گا اور کہے گا کہ اے ذمی لا اپنا جزیہ دے یہ تمہیں میں ہے اور ادا کرنے والے کا ہاتھ نیچے رہے گا اور لینے والا کا ہاتھ اوپر ہوگا یہ تاتار خانہ میں ہے۔ امام المسلمین کو اختیار ہے چاہے اراضی و جماجم کو جمع کر کے دونوں کا خراج یکجائی درہموں یا دیناروں یا کیلی یا وزنی یا کپڑوں سے مقرر کرے اور چاہے ہر ایک کو الگ الگ کر دے یعنی ہر ایک کے واسطے علیحدہ علیحدہ خراج مقرر کرے پس اگر امام نے جمع کر کے ایک ہی خراج مقرر کیا تو بقدر حال جماجم و ان کی تعداد کے و بقدر اراضی کے دونوں پر یہ جزیہ مجموعی عدل و انصاف سے تقسیم کیا جائے گا پس جس قدر جماجم کے حصہ میں پڑے وہ جزیہ ہے کہ رؤس ذمیوں پر ترتیب مذکورہ بالا مقرر ہوگا اور جس قدر اراضی کے حصہ میں پڑے وہ خراج ہوگا کہ ہر اراضی پر بقدر اس کی پیداوار کے ترتیب مذکورہ بالا مقرر کیا جائے گا پھر اگر جماجم میں سے بسبب موت یا اسلام لانے کے تعداد کم ہوگئی تو جماجم کے حصہ میں سے اسی قدر حصہ گھٹا کر اراضی پر منتقل کیا جائے گا بشرطیکہ اراضی ان کو برداشت کر سکے اور اس طرح اگر کل جماجم ہلاک ہو گئے تو ان کا حصہ منتقل کر کے اراضی پر بڑھا دیا جائے گا بشرطیکہ اراضی برداشت کر سکے اور اگر اراضی برداشت نہ کر سکے تو یہ مقدار مذکورہ تمام مجموعی خراج سے طرح دی جائے گی۔

اگر جماجم اس کے بعد کثرت سے ہو گئے تو جماجم کا حصہ ان کی طرف رو کر دیا جائے گا اور اگر اراضی کی پیداوار میں کمی ہو گئی تو بقدر نقصان کے اس میں سے حصہ کم کر کے جماجم پر ڈالا جائے گا بشرطیکہ جماجم اس کو برداشت کر سکیں پھر اگر اس کے بعد اراضی اپنے حال کمال پر ہوگئی تو حصہ مذکورہ پھر اراضی پر رد کر دیا جائے گا اور اگر اس حصہ کو جماجم نہیں برداشت کر سکتے ہیں تو ساقط ہو جائے گا لیکن جب پھر اس اراضی دینی طاقت پر آجائے اور برداشت کر سکے تو پھر پورا کر دیا جائے گا اور اگر اراضی تمام تلف ہو گئیں یا بیطور کہ غرق ہو گئیں یا نمناک ہو گئیں یعنی ان میں سے پانی چھوٹے لگا اور وہ ایسی تر مٹی ہوگئی کہ قابل زراعت نہیں ہے اور جماجم باقی رہے تو حصہ اراضی بجانب جماجم منتقل نہ کیا جائے گا اور اگر امام نے علیحدہ علیحدہ جماجم و اراضی کا خراج مقرر کیا پس جماجم پر کسی قدر حصہ مقرر کیا اور اراضی پر بھی کسی قدر حصہ معلومہ بیان کیا تو کمی وغیرہ کی صورت میں یہ نہ ہوگا کہ ہر دو میں سے کوئی دوسرے کا حصہ برداشت کرے بلکہ وہ حصہ جو سردست نہیں اٹھا سکتا ہے اس قدر سے جو اس پر مقرر کی گئی ہے طرح دے دیا جائے گا یہاں تک کہ پھر اس کی ایسی حالت ہو جائے کہ جو طرح دیا گیا ہے اس کو برداشت کرے پس پھر اس پر عائد کیا جائے گا اور اگر امام نے ان لوگوں سے اس طور پر صلح کی کہ ان کی اراضی سے کل مال لے لے گا اور جماجم سے کل لے لے گا اور اراضی سے کچھ نہ لے گا تو یہ صحیح نہیں ہے بلکہ کل مال جماجم و اراضی پر ترتیب مذکورہ سابق تقسیم کیا جائے گا یہ کافی میں ہے۔

اگر کسی ملک کے لوگ جن سے امام نے کسی قدر مال معلوم پر صلح کی ہے کہ جس کو وہ اپنے جماجم و اراضی سے ادا کریں گے سب مسلمان ہو گئے تو ان کا خراج رؤس ساقط ہو جائے گا اور خراج اراضی ساقط نہ ہوگا یہ تاتار خانہ میں ہے واللہ اعلم۔

فصل :

اگر ذمیوں نے جدید بیعوں یا کنیسوں کا بنانا چاہا یا مجوس نے آتش خانہ بنانا چاہا

اگر انہوں نے مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر یا فنائے شہر میں اس کا بنانا چاہا تو بالاتفاق سب کے نزدیک منع کیے

۱۔ جماجم جمع جمعہ بمعنی کاہر و مراد یہاں رؤس کفار ہیں یعنی ہر ہر بضر کفار و ہر ہر عدو ۱۲۔ ۲۔ اس طرح بمعنی اگر انا اور یہاں مراد کم کر دینے سے ہے یعنی اسی قدر کم کر دی جائے گی ۱۲۔ ۳۔ بیعہ و کنیہ عبادت خانہ یہود و نصاریٰ جس کو ہمارے عرف میں گر جا بولتے ہیں اور بیعہ اہل کتاب کے درویشوں کے خانقاہ کو بولتے ہیں ۱۲۔

جائیں گے اور اگر انہوں نے سواد اور دیہات میں اس کا بنانا چاہا تو اس میں روایات مختلف ہیں اور روایتوں کے خلاف کی وجہ سے مشائخ نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے چنانچہ مشائخ بلخ نے فرمایا کہ اس سے بھی منع کیے جائیں گے مگر ایسے گاؤں میں جہاں کے اکثر رہنے والے ذمی ہوں منع نہ کیے جائیں اور مشائخ بخارا نے جس میں سے امام ابو بکر محمد ابن الفضل بھی ہیں فرمایا کہ منع نہ کیے جائیں گے اور شمس الائمہ سرخسی نے فرمایا کہ میرے نزدیک اصح یہ ہے کہ وہ لوگ سواد شہر میں بھی بنانے سے منع کیے جائیں گے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ زمین عرب میں شہروں و دیہاتوں سب جگہ اس سے منع کیے جائیں گے یہ ہدایہ میں ہے۔

جیسے جدید بیعہ و کنیسہ کا بنانا نہیں روا ہے ایسے ہی جدید صومعہ کا بنانا بھی نہیں روا ہے کہ جس میں یہاں تک کہ ایک شخص ان میں سے اپنے طریقہ پر عبادت کرے بخلاف اس کے اگر کسی نے اپنے گھر میں کوئی جگہ نماز کے واسطے بنائی کہ اس میں نماز پڑھے تو اس سے منع نہ کیا جائے گا یہ غایۃ البیان میں ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ سواد شہر و دیہات میں جو بیعے و کنائس قدیمی بنے ہوئے ہوں وہ نہ دھائے جائیں گے اور رہا شہروں میں سو امام محمد نے اجارات میں ذکر کیا ہے کہ شہر میں جو ہوں وہ نہ ڈھائے جائیں گے اور کتاب العشر و الخراج میں ذکر کیا کہ مسلمانوں کے شہروں میں جو ہوں وہ ڈھائے جائیں گے اور شمس الائمہ سرخسی نے فرمایا کہ میرے نزدیک اصح اجارات کی روایت ہے کہ یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر ان کی بیعوں میں سے یا کنیسوں میں سے کوئی بیعہ یا کنیسہ قدیمی منہدم ہو گیا تو ان کو اختیار ہوگا کہ اسی مقام پر جیسا تھا ویسا بنالیں اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو یہاں سے تحویل کر کے دوسری جگہ بنادیں گے تو ان کو یہ اختیار نہ ہوگا بلکہ اسی مقام پر اس قدر عمارت کا جیسا پہلے تھا بنا سکتے ہیں اور پہلی عمارت سے زیادہ کرنے سے منع کیے جائیں گے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

واضح رہے کہ قدیمی سے یہ مراد ہے کہ جب امام اسلام نے ان کے شہر کو فتح کیا یا ان سے مصالحہ کر لیا کہ جزیہ دیا کریں اور تابع اسلام ہو کر اپنے دین پر اپنے ملک پر قائم رہیں اس سے پہلے کا بنا ہوا ہو اور یہ شرط نہیں ہے کہ لامحالہ وہ زمانہ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ کے زمانہ میں موجود ہو یہ غایۃ البیان میں ہے اور اگر ان کا کوئی کنیسہ کسی گاؤں میں ہو پھر اس کنیسہ والوں نے اس میں بہت عمارت بنالی پھر یہ گاؤں بھی منجملہ امصار^۱ کے ہو گیا تو بنا بر روایت کتاب العشر کے ان کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو گرا دیں اور بنا بر عامہ روایات کے ان کو یہ حکم نہ کیا جانے کا اور اس طرح اگر ان کا کوئی کنیسہ کسی شہر سے قریب ہو پھر انہوں نے اس کے گرد عمارت بنانی شروع کیں اور یہاں تک بڑھیں کہ یہ موضع اس شہر سے متصل ہو گیا اور ایسا ہو گیا کہ گویا شہر کے محلوں میں سے ایک محلہ ہے تو بھی ان کو اس کنیسہ کے ڈھادینے کا حکم کیا جائے گا اور صحیح وہی حکم ہے جو عامہ روایات میں مذکور ہے یہ تاتار خانہ میں ہے۔ اگر اہل حرب کی کسی قوم نے درخواست صلح اس شرط پر کی کہ ہم لوگ مسلمانوں کے اہل ذمہ اس شرط سے ہوتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے ہمارے ملک میں کوئی شہر اپنے واسطے بنایا یا اختیار کیا تو ہم کو اس میں جدید بیعہ یا کنیسہ بنانے سے اور علانیہ شراب و سور فروخت کرنے سے منع نہ کریں تو مسلمانوں کو اس شرط پر ان سے مصالحہ نہ کرنا چاہیے اور اگر اس شرط پر ان سے صلح کر لی تو ان کو اس صلح کے توڑنے کا اختیار ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔

کنائس بیعے و آتش خانہ جو کہ اس مقام کے شہر اسلام ہو جانے سے پہلے کے تھے وہ اسی حال پر چھوڑ

دیئے جائیں گے جس طرح شہر اسلام ہو جانے سے پہلے اہل ذمہ وہاں کیا کرتے تھے:

اگر کسی قوم اہل حرب نے مسلمانوں سے صلح کی بدین شرط کہ ہم اپنے جانوں و اراضی سے مسلمانوں کے اہل ذمہ بدین شرط ہوتے ہیں کہ ہم سے مسلمان لوگ یہ شرط کر لیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھروں و گاؤں و قصبوں و شہروں میں مقاسمہ کریں حالانکہ اس میں کنیسے و بیعے و آتش خانہ ہیں اور ان میں شراب و سور علانیہ فروخت کی جاتی ہے اور علانیہ ماؤں و بیٹیوں و بہنوں سے نکاح کیا جاتا ہے اور مجوس کا ذبیحہ و مردار علانیہ فروخت کیا جاتا ہے تو ایسی صلح میں جو چھوٹا یا بڑا شہر کہ وہ مسلمانوں کا شہر ہو جائے گا کہ اس میں نماز جمعہ قائم کی جائے گی اور حد و شرعی جاری کیے جائیں گے تو ایسے شہروں میں ان آدمیوں کو ان سب امور کے اظہار سے ممانعت کی جائے گی اور ان کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس میں کوئی جدید بیعہ یا کنیسہ یا آتش خانہ بنائیں جو قبل صلح کے نہ تھا اور اس میں علانیہ شراب نہ بیچنے پائیں گے اور نہ سور اور نہ مردار اور نہ مجوسیوں کا ذبح کیا ہو جانور۔ نیز یہ بھی اختیار نہ ہوگا کہ اس میں علانیہ ماؤں و دیگر محارم عورتوں کے ساتھ نکاح ظاہر کریں اور ان کے لیے کچھ بھی روانہ ہوگا الا خصلت واحدہ۔ کنائس و بیعے و آتش خانہ جو کہ اس مقام کے شہر اسلام ہو جانے سے پہلے وہ اسی حال پر چھوڑ دیے جائیں گے جس طرح شہر اسلام ہو جانے سے پہلے اہل ذمہ وہاں کیا کرتے تھے لیکن یہ لوگ اپنی صلیبیں اپنے کنائس سے باہر نہ نکالیں گے۔ اگر ان کے ایسے کنیسوں میں سے کوئی کنیسہ مجہدم ہو گیا تو اس کو ویسا ہی بنالیں گے جیسا وہ پہلے تھا اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو یہاں سے تحویل کر کے شہر میں دوسرے مقام پر بنائیں گے تو ان کو یہ اختیار نہ ہوگا اور اگر امام کسی قوم اہل حرب پر غالب آیا پھر اس کو مصلحت معلوم ہو کہ ان کو ذمی بنا کر ان پر اور ان کی اراضی پر خرچ باندھے اور اس ملک کو غانمین کے درمیان تقسیم نہ کرے جیسے حضرت عمرؓ نے سودا کو ذمہ والوں کے ساتھ کیا تھا تو یہ جائز ہے پس جب ایسا کیا تو یہ لوگ ذمی ہو جائیں گے اور منع نہ کیے جائیں گے کنیسہ بنانے سے اور نہ بیعہ بنانے سے اور نہ آتش خانہ بنانے سے اور نہ بیع خمر سے اور نہ بیع خنزیر سے اور نہ اظہار ان تمام افعال سے جو ہم نے ان کی ملت کے بیان کیے ہیں یہ سراج و باج میں ہے۔

اگر اہل حرب میں سے کسی قوم نے ذمی ہو جانے پر اس شرط سے صلح کی کہ اپنے ذمی ہو جانے کے بعد ہم اپنے دیہاتوں یا شہر میں کنیسے و بیعے و آتش خانہ بنائیں گے.....؟

اگر امام نے بلاد اہل شرک میں سے کوئی شہر قہر و غلبہ سے فتح کیا پھر ان لوگوں سے اس شرط پر صلح کی کہ ان کو ذمی بنائے حالانکہ اس سرزمین میں قدیمی بیعے و کنائس و آتش خانہ میں یا اہل شرک کے گاؤں میں سے کوئی گاؤں ایسا ہے پھر یہ گاؤں مسلمانوں کے شہروں میں سے ایسا شہر ہو گیا کہ اس میں نماز جمعہ قائم کی جاتی ہے اور حد و شرعی جاری ہیں تو امام ان اہل ذمہ کو ان کنیسوں و بیعوں میں اپنی ملت کی نماز پڑھنے سے ممانعت کر دے گا اور ان کو حکم کرے گا کہ ان مکانوں کو اپنے رہنے کے گھر بنالیں کہ ان میں رہا کریں اور امام کو یہ نہ چاہیے کہ ان کو منہدم کر دی اور اگر اہل حرب میں سے کسی قوم نے ذمی ہو جانے پر اس شرط سے صلح کی کہ اپنے ذمی ہو جانے کے بعد ہم اپنے دیہاتوں یا شہر میں کنیسے و بیعے و آتش خانہ بنادیں گے پھر بعد صلح کے ایسا موضع جہاں انہوں نے بنایا ہے مسلمانوں کے شہروں میں سے ایک شہر ہو گیا تو مسلمانوں کو روانہ نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ ڈھادیں اور یہ حکم بنا بر عامہ روایت کے ہے اور بنا بر روایت کتاب العشر و الخراج کے مسلمانوں کو ان کے ڈھادینے کا اختیار ہے۔ اسی طرح اگر ان کے شہروں میں

سے کوئی شہر مسلمانوں کے واسطے ایسا شہر ہو گیا کہ اس میں جمعہ قائم کیا جاتا ہے اور حد و شرعی جاری ہیں پھر مسلمانوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور دوسرے مقام پر چلے گئے اور یہاں کوئی مسلمان نہ رہا سوائے پانچ سات مسلمانوں کے یعنی بہت کم پھر اہل ذمہ نے اس کو اس میں کیسے بنائے پھر مسلمانوں نے اپنی مصلحت دیکھ کر عود کیا اور اسی شہر میں آکر رہی اور یہ شہر ایسا ہو گیا کہ اس میں نماز جمعہ وعیدین قائم کی جاتی ہے اور حد و شرعی جاری ہیں تو جو کنائس انہوں نے جدید بنالیے تھے وہ ہدم نہ کیے جائیں گے۔

شیخ رکن الاسلام علی سعدی نے فرمایا کہ اسی طرح اگر اس شہر کے مسلمانوں کا شہر ہو جانے کے بعد اہل ذمہ نے اس میں کوئی جدید کنیہ بنالیا اور مسلمانوں نے اس کو ہدم نہ کیا یہاں تک کہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے پھر مصلحت سمجھ کر مسلمان لوگ اس میں عود کر کے چلے آئے اور وہ مسلمانوں کا شہر ہو گیا تو بھی کنیسا سے مذکور ہدم نہ کیے جائیں گے اور جو شہر ایسا ہو کہ وہ مسلمانوں کا شہر بنایا ہوا ہے اور قبل اس کے شہر بنانے کے اس میں بیعے و کنیسے تھے پھر مسلمانوں نے چاہا کہ ذمیوں کو ان میں نماز پڑھنے سے منع کریں پس ذمیوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسی قوم اہل ذمہ ہیں کہ ہم نے امام المسلمین سے اپنے بلاد پر صلح کر لی ہے پس تم کو یہ روا نہیں ہے کہ ہم کو ان کنیسوں میں نماز پڑھنے سے منع کرو اور مسلمانوں نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم نے تمہارے ملک کو بزور شمشیر غلبہ کر کے فتح کیا ہے پس ہم نے تم کو اہل ذمہ کر دیا پس ہم کو روا ہے کہ ہم تم کو ان کنائس میں نماز پڑھنے سے منع کریں پس یہ مقدمہ اس امام کے حضور میں پیش کیا گیا جو اس وقت میں امام ہے اور اس ملک کے فتح کا زمانہ دراز گذرا ہے اور یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ بات کیوں کر ہوئی تھی تو امام موصوف دریافت کرادیں گا کہ فقہا و اہل خبر کے پاس اس باب میں کوئی خبر ہے پس اگر فقہیہوں نے کوئی خبر بیان کی تو اس کو لے کر اس کے موافق کار بند ہوگا اور اگر فقہیہوں کے پاس کوئی خبر نہ ہو یا اخبار مختلف ہوں تو امام اس دیار کو بطریق صلح فتح کیا ہوا قرار دے گا اور قول انہیں اہل ذمہ کا قبول کرے گا مگر ان نے قسم لے گا اور اگر ایک خبر میں بیان ہوا کہ یہ صلح سے فتح ہوا ہے اور دوسری خبر میں مذکور ہے کہ یہ قہر و غلبہ سے فتح ہوا ہے تو بھی قول اہل ذمہ قبول ہوگا۔

اگر کسی قوم نے دوسری قوم کی شہادت پر شہادت یعنی گواہی دی کہ اس دیار والوں سے صلح کر کے فتح کیا گیا ہے اور دوسری قوم نے دوسری قوم کی شہادت پر شہادت دی کہ دیار قہر و غلبہ سے فتح کیا گیا ہے تو قہر و غلبہ سے فتح کیے جانے کی گواہی اولیٰ یعنی مقبول ہوگی اور اگر کوئی اثر کسی ثقہ سے روایت کیا ہو املا کہ یہ دیار صلح سے لیا گیا ہے اور شہادت پر شہادت گذری کہ یہ دیار صلح سے فتح کیا گیا ہے تو جو امر اس گواہی میں مذکور ہے وہی حق یعنی وہی مقبول ہوگا لیکن اس شرط سے کہ گواہان اصل و گواہان فرع ہر دو فریق مسلمان ہوں اور اگر اثر کسی ثقہ سے روایت کیا گیا کہ یہ دیار صلح سے لیا گیا ہے اور شہادت پر شہادت گذری کہ قہر و غلبہ سے فتح کیا گیا ہے تو بھی گواہی مذکور مقبول ہوگی بلکہ اس صورت میں عام ہے خواہ گواہ لوگ مسلمانوں میں سے ہوں یا ذمیوں میں سے ہوں یہ ذخیرہ میں ہے۔ یہ سزاوار ہے کہ کوئی ذمی اس اختیار پر نہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ مسلمان سے مشابہت پیدا کرے یعنی ذمی مسلمان سے مشابہت نہ کرنے پائے نہ لباس میں اور نہ سواری میں اور نہ وضع و ہیات میں اور ذمیوں کو گھوڑے کی سواری سے منع کیا جائے الا اس وقت سوار ہونے پائیں کہ اس کی حاجت ہوئے کذافی المحیط پھر جب اہل ذمہ بسبب ضرورت کے سوار ہوئے مثلاً امام کو محاربہ اور مسلمانوں سے برائی دور کرنے میں ان کی مدد کی حاجت ہوئی پس سوار ہو کر دشمن سے لڑنے کو گئے تو چاہیے کہ جہاں مسلمانوں کا مجمع ہو وہاں سواری سے اتر پڑیں پھر اگر ضرورت برابر باقی رہے تو ان کو حکم کیا جائے کہ اکاف کی ہیات کی زین بنوادیں کذافی۔

الكافي قال المترجم اکاف الاخر کذا قالو اور نچر پر سوار ہونے سے منع نہ کیے جائیں گے اور نیز گدھے کی سواری سے بھی منع نہ کیے جائیں لیکن اس سے ممانعت کیے جائے کہ مسلمانوں کے زین کے طور کی زین بنادیں اور چاہیے کہ ان کے قربوس

زین پر مثل انار کے ہو اور شیخ ابو جعفر نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی قبروں میں زین مثل مقدم اکاف کے جو مثل انار کے ہوتا ہے ہونی چاہیے ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ ان کی زین مثل مسلمانوں کی زین کے ہو لیکن اس کے آگے کی طرف ایک چیز مثل انار کے بنی ہو لیکن قول اول اصح ہے اور منع کیے جائیں چار در پہننے اور عماموں اور دراعہ پہننے سے جس کو علمائے دین پہنتے ہیں اور چاہیے کہ وہ لوگ کلاہہائے مضروبہ اوڑھیں اور اس طرح اس سے منع کیے جائیں کہ ان کی نعلین کی شراک مثل شراک مسلمانوں کی نعلین کے ہوں اور ہمارے دیاہ میں مرد لوگ نعلین نہیں پہنتے ہیں بلکہ مکعب پہنتے ہیں پس واجب ہے کہ ان کے مکعب مثل ہمارے مکعب کے نہ ہوں بلکہ اس کے خلاف ہوں اور چاہیے کہ کچھ کھر کھر نے موٹے بدرنگ ہوں اور زنیب وار نہ ہوں۔ نیز چاہیے کہ وہ تنگ پکڑے جائیں تاکہ ان میں سے ہر شخص موٹے ڈورے کے مثل بنا کر اپنی کمر میں باندھے رہے اور چاہیے کہ یہ لیٹھ یا صوف سے ہو اور ابریشم سے نہ ہو اور چاہیے کہ گندہ غلیظ ہو ایسا رقیق نہ ہو کہ بدون نگاہ گڑونے کے اس پر نظر نہ پڑے اور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ چاہیے کہ اس کو اپنی کمر میں گرہ دے کر باندھے اور اس کے حلقہ نہ بنائے جیسے مسلمان پٹی باندھتا ہے بلکہ دائیں بائیں اس کے چھوڑ لٹکائے رہے۔ نیز موزہ ہائے زنیب دار نہ پہننے پائیں گے اور چاہیے کہ ان کے موزے کھر جھرے موٹے بدرنگ ہوں اور اسی طرح وہ لوگ قباہائے زنیب دار و قمیص ہائے زنیب دار پہننے پائیں بلکہ کرباس کی موٹی قبا میں جن کے تکمے لائبے اور دامن کوتاہ ہوں پہنیں اور اسی طرح کرباس کی موٹی قمیص جن کے گلے کے چاک سینہ پر ہوں مثل عورتوں کے ایسی قمیصیں پہننے پائیں گے اور یہ سب اس وقت ہے کہ جب مسلمانوں نے ان پر بروز شمشیر غلبہ پایا ہوئے اور اگر ان کے ساتھ بعض ان چیزوں پر صلح واقع ہوئی ہو تو وہ لوگ موافق صلح کے رکھے جائیں پھر مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ ایسی صورت میں ہمارے اور ان کے درمیان مخالفت وضع فقط ایک علامت کے ساتھ شرط ہے یا دو علامتوں یا تین علامتوں سے اور حاکم امام ابو محمد فرماتے تھے کہ اگر امام نے ان کے ساتھ صلح کی اور ایک علامت پر ان کو ذمہ دے دیا ہے تو اس علامت پر اور نہ بڑھائی جائیں گی اور اگر کسی ملک کو بروز شمشیر غلبہ سے فتح کیا تو امام کو اختیار ہوگا کہ ان پر بہت سی علامات مذکورہ لازم کر دے یہی صحیح ہے یہ محیط میں ہے۔

اگر کسی ذمی نے کسی مسلمان سے بیعہ کا راستہ پوچھا تو مسلمان کو نہ چاہیے کہ اس کو بیعہ کی راہ بتائے اس واسطے کہ یہ معصیت پر راہ بتلانی ہوگی:

واجب ہے کہ ان کی عورتوں سے بھی مسلمان عورتوں سے تمیز کر دی جائے راہ چلنے کی حالت اور جماعوں میں داخل ہونے کی حالت میں چنانچہ اس غرض سے ان کی عورتوں کی گردنوں میں لوہے کے طوق ڈلوائے جائیں اور مسلمان عورتوں کی ازار سے ان کی ازار مخالف رہے اور ان کے گھروں کے دروازوں پر ایسے علامات مقرر کر دیئے جائیں جن سے مسلمانوں کے گھروں سے تمیز ہو جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کے دروازوں پر سائل کھڑا ہو کر ان کے واسطے مغفرت کی دعا کرے پس حاصل یہ ہے کہ ایسے امور سے ان کی تمیز کر دینی واجب ہے کہ وہاں کے لوگوں میں یہ امور بحسب رواج و زمانہ کے ذلت و حقارت و مقہوریت پر دلالت کریں نہ ان کے ذلیل و حقیر و مقہور ہونے پر اشعار ہو جائے یہ اختیار شرح مختار میں ہے۔ اگر کسی ذمی نے کسی مسلمان سے بیعہ کا راستہ پوچھا تو مسلمان کو نہ چاہیے کہ اس کو بیعہ کی راہ بتائے اس واسطے کہ یہ معصیت پر راہ بتلانی ہوگی۔ اگر کسی مسلمان کا باپ یا ماں ذمی ہو تو

۱۔ قبروں کو زین پر جو سامنے کی جانب کس قدر اونچا ہوتا ہے ۱۲۔ مثلاً کہا کہ بدین شرط تم ہماری ذمہ داری میں ہو کہ ایسا ایسا کرو اور مسلمانوں سے خلاف وضع اس طرح کرھو کہ اپنی کمر میں زنا مار باندھو تو بس یہی ایک رہے گی ۱۲

مسلمان کونہ چاہیے کہ اس کو گھر سے بیعہ کو پہنچادے اور یہ روا ہے کہ اس کو بیعہ سے ہاتھ پکڑ کر گھر پہنچادے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور ذمی لوگ ہتھیار نہ اٹھانے پائیں گے اور جب راستہ میں چلیں تو مسلمان لوگ متفق ہو کر اس طرح چلیں کہ ذمی راستہ میں دیکر چلیں اور کوئی مسلمان ان سے سلام کرنے میں پہل نہ کرے ہاں اگر وہ لوگ پہلے سلام کریں تو جواب میں فقط علیکم کہے یہ فتح القدیر میں ہے۔ ذمیوں کے غلام اس واسطے تنگ نہ پکڑے جائیں گے کہ زنا ر باندھیں اور یہی مختار ہے یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔

نصرانی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے گھر میں مسلمانوں کے شہر میں ناقوس بجائے اور اختیار نہیں ہے کہ نصرانیوں کو اپنے گھر میں نماز کے واسطے جمع کرے ہاں اس کو یہ اختیار ہے کہ خود تنہا نماز پڑھے اور نصرانیوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے کنیوں سے صلیبیں وغیرہ نکالیں اور اگر انہوں نے زبور یا انجیل پڑھنے میں اپنی آواز بلند کی پس مگر اس میں اظہار شرک ہو تو اس سے منع کیے جائیں گے اور اگر اس سے اظہار شرک واقع نہ ہو تو ممانعت نہ کی جائے گی اور مسلمانوں کی بازاروں میں اس کے پڑھنے سے منع کر دیئے جائیں گے اور اسی طرح اسلام کے شہر و فنائے شہر میں شراب و سور کے فروخت کرنے اور شراب و سور ظاہر کرنے سے منع کیے جائیں گے اور اگر فنائے شہر سے دور ہو گئے تو وہاں صلیب نکالنے و ناقوس بجانے میں مضائقہ نہیں ہے اور ہر وہ موضع میں جو شہر ہائے اسلام سے نہ ہو وہاں ایسے امور سے منع نہ کیے جائیں گے اگرچہ اس مقام میں گنتی کے چند مسلمان رہا کرتے ہوں ایسا ہی امام محمد نے سیر کبیر میں فرمایا ہے اور بہت سے ائمہ بلخ نے فرمایا کہ یہ قول امام محمد نے نظر بخصوص دیہات کو فرمایا ہے اس واسطے کہ وہاں ان دیہات کے تمام رہنے والے ذمی دروائض ہیں اور ہمارے دیار کے دیہاتوں میں بھی اہل ذمہ ایسے امور سے منع کیے جائیں گے جیسے شہروں میں منع کیے جاتے ہیں اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دیہات میں ایسے امور کے اظہار و احداث سے کسی حال میں منع نہ کیے جائیں گے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

تختیس خواہر زادہ میں فرمایا کہ اگر اہل ذمہ نے مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں یا مسلمانوں کے گاؤں میں سے کسی گاؤں میں ایسا کوئی امر کیا جس پر صلح نہیں کی ہے یعنی داخل صلح نہیں ہے مثل زنا و فواحش و مزا میر و طبل و راگ و امور اور نوحہ سے رونا اور کبوتر بازی وغیرہ تو اس سے منع کیے جائیں گے جیسے مسلمان منع کیے جاتے ہیں اور تجرید میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ ان کے یہاں ان کے مکانوں میں اتریں اور نہ چاہیے کہ ان کے گھروں و اراضی میں سے کوئی چیز لیں الا انکی جانب سے تملیک کے ساتھ یعنی جب وہ لوگ بخوشی اجازت دیں و مالک کر دیں تو لے سکتا ہے یہ تا تاریخانیہ میں ہے۔ اگر مسلمانوں نے اراضی موات میں جس کا کوئی مالک نہیں ہے کسی شہر کی بنیاد ڈالی اور اس اراضی کے قریب میں اہل ذمہ کے گاؤں ہیں پھر مذکور بہت بڑھ گیا یعنی آبادی بہت بڑھی یہاں تک کہ ان گاؤں تک پہنچ کے یا ان سے متجاوز ہو گئی تو یہ دیہات اس شہر میں سے ہو جائیں گے کیونکہ شہر نے ان کے اطراف سے ان کو گھیر لیا ہے۔ پھر اگر ان ذمیوں کے قدیمی بیعے و کناس ان دیہاتوں میں ہوں تو وہ اپنے حال پر چھوڑ دیئے جائیں گے اور اگر مسلمانوں کے شہر ہو جانے کے بعد انہوں نے ان دیہاتوں میں جو شہر میں سے ہو گئے ہیں کوئی بیعہ یا کنیہ یا آتش خانہ جدید بنانا چاہا تو اس سے منع کر دیئے جائیں گے شہر ہائے اسلام میں سے جو شہر ایسا ہو کہ اس میں نماز جمعہ ہوتی ہو اور حد و شرعی قائم ہوں وہاں کسی مسلمان یا ذمی کو نہ چاہیے کہ علانیہ شراب یا سور داخل کرے اور اگر کسی مسلمان نے ایسے شہر میں شراب یا سور داخل کی اور کہا کہ میں اس شہر سے ہو کر جاتا تھا اور شراب کو میں سرکہ بنانے کو لیے جاتا ہوں یا کہا کہ یہ میری نہیں ہے بلکہ دوسرے کی ہے اور یہ نہ بتلایا کہ کس کی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر یہ شخص مرد متدی ہو کہ اس پر شراب خواری کا شبہ و اتہام نہ ہو تو اس کی راہ چھوڑ دی

جائے گی۔

حکم دیا جائے گا کہ اس کو سرکہ کر دے اور اگر مرد مذکور شراب خواری میں متہم ہو یعنی اس پر شعبہ ہو تو اس کی شراب بہادی جائے گی اور اس کے سوزنخ کر کے آگ سے جلا دیئے جائیں گے اور اگر امام نے دیکھا کہ بغیر تغیر کے باز نہ آئے گا اور قصد کیا کہ اس کو کوڑے مار کر قید کر کے تغیر پر دے جائے یہاں تک کہ اس کی توبہ ظاہر ہو تو ایسا کر سکتا ہے اور اگر اس نے فقط کوڑے مارنے یا قید کرنے پر اقتصاء کیا تو یہ بھی کر سکتا ہے مگر اس کو یہ نہ چاہیے کہ جس مشک یا کپتے یا ظرف دیگر میں شراب تھی اس کو پھاڑ ڈالے یا توڑ ڈالے اور اگر اس مشک وغیرہ کو پھاڑ ڈالا یا ظرف کو توڑ ڈالا تو اس کا ضامن ہوگا ہاں اگر امام نے مصلحت دیکھی کہ یہ بات اس شخص کے حق میں عقوب کے طور پر کرے پس خود کیا یا کسی دوسرے کو ایسا کرنے کا حکم دیا پس اس نے کیا تو ضمان لازم نہ ہوگی اور اگر امام نے شراب کی مشک یا برتن اور وہ جانور جس پر یہ لدے تھے پکڑ کر اس سب کو فروخت کر دیا تو بیع باطل ہے۔ اگر شہر ہائے اسلام سے کسی شہر کے اندر شراب لانے والا کوئی ذمی ہو پس اگر یہ شخص جاہل ہو تو امام اس کی متاع اس کو واپس کر کے اس کو شہر سے نکال دے گا اور اس کو آگاہ کر دے گا کہ اگر پھر ایسی حرکت کی تو تجھ کو سزا دوں گا اور جاہل ہونے سے یہ مراد ہے کہ ذمی مذکور یہ نہ جانتا ہو کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے ہے یعنی شراب ایسے شہر کے اندر نہیں لانا چاہیے ہے۔ اگر ذمی مذکور نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو امام موصوف اس کی شراب نہیں بہاد دے گا اور نہ اس کے سوروں کو قتل کرے گا لیکن اگر یہ مصلحت معلوم ہو کہ اس کو تادیب سزا دے خواہ کوڑے مارنے یا قید کرنے سے تو ایسا کر سکتا ہے اور اگر کسی مسلمان نے اس کو تلف کر دیا تو وہ ضامن ہوگا لیکن جو شخص امام ہے اگر اس کا مذہب یہ ہو کہ ایسے بے ادب ذمی کے ساتھ بطریق عقوبت ایسا کرنا جائز ہے پس اس نے خود کیا یا دوسرے کو ایسا کرنے کا حکم دے دیا تو ایسی صورت میں اس پر ضمان نہ ہوگی۔

اگر ذمیوں نے اپنے گاؤں میں سے کسی گاؤں یا اپنے شہروں میں سے کسی شہر میں فسق و فجور کی ایسی باتوں میں سے جس پر صلح واقع نہیں ہوئی ہے کوئی بات اظہار کرنی اور علانیہ کرنی چاہی:

اگر ذمیوں میں سے کوئی شخص کشتی میں شراب لا کر مثل دجلہ و بغداد وغیرہ دریا میں روانہ ہو اور دریا کی راہ میں اس کو لیے ہوئے بغداد یا مدائن یا واسط کے اندر ہو کر گزرا تو اس سے منع نہ کیا جائے گا اور اس طرح اگر شہر اسلام کے اندر راہ سے شراب لے کر گزرنا چاہا اور حال یہ ہے کہ سوائے اس راہ کے دوسرا راستہ نہیں ہے تو بھی ممانعت نہ کی جائے گی امام کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی مردا میں بھیج دے تاکہ مسلمان میں سے کوئی ان سے تعرض نہ کرے اور تاکہ یہ لوگ مسلمانوں کے مسکنوں میں سے کسی مسکن میں جہاں کے مسلمان شراب خواری سے متہم ہیں دخل نہ کرنے پائیں۔ اگر ذمیوں نے اپنے گاؤں میں سے کسی گاؤں یا اپنے شہروں میں سے کسی شہر میں فسق و فجور کی ایسی باتوں میں سے جس پر صلح واقع نہیں ہوئی ہے کوئی بات اظہار کرنی اور علانیہ کرنی چاہی مثل زنا وغیرہ فواحش کے جن کو اپنے اپنے دین کے موافق حرام جانتے ہیں تو وہ لوگ اس سے منع کیے جائیں گے جیسے مسلمان منع کیے جاتے ہیں اور اسی طرح سکر سے بھی منع کیے جائیں گے اس واسطے کہ وہ اس کو حلال نہیں جانتے بلکہ اصل شراب خواری کو حلال جانتے ہیں اور اسی طرح علانیہ اظہار سے مزامیر و طنبورہ لہو وغیرہ فروخت کرنے سے منع کیے جائیں گے اور جس نے ان میں سے کوئی چیز توڑ ڈالی تو اس پر ضمان نہ ہوگی جیسے مسلمان کی ایسی کوئی چیز توڑ ڈالنے سے ضمان نہیں ہوتی ہے اور یہ بنا پر قول صاحبین کے ہے اور بنا پر قول امام اعظم کے توڑنے والا اس کی قیمت کا بدین حساب کہ یہ تراشیدہ و خراشیدہ لکڑی ہے ضامن ہوگا اور لہو کے واسطے ہونے

کے حساب سے جو قیمت ہے اس کا ضامن نہ ہوگا جیسے مسلمان کی ایسی چیز توڑ ڈالنے کی صورت میں حکم ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔
فتاویٰ قاضی خان کے کتاب العشر والخراج سے ایک مسئلہ کا استنباط:

اگر کسی مسلمان کی بیوی ذمیہ عورت ہو تو اس کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کو شراب پینے سے منع کرے اس واسطے کہ یہ اس کے نزدیک حلال ہے ہاں اس کو یہ اختیار ہے کہ اپنے مکان میں اس کو شراب لانے سے منع کرے اور اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ عورت مذکورہ پر غسل جنایت کے واسطے جبر کرے اس واسطے کہ یہ اس پر واجب نہیں ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور کتاب العشر والخراج میں فرمایا کہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا جائے گا کہ مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں کوئی گھریا حویلی خریدے اور نیز کسی کو یہ بھی اختیار نہ دیا جائے گا کہ شہر اسلام میں رہنے پائے اور اسی روایت کو حسن بن زیاد نے اختیار کیا ہے اور بنا بر عامہ کتب کی روایات کے ان کو دارالاسلام میں رہنے کی گنجائش دی جائے گی سوائے زمین عرب کے کہ اگر کوئی شہر یا صوبہ عرب ہو مثل حجاز وغیرہ کے تو وہاں ان کو رہنے کا قابو نہ دیا جائے گا کذافی المحیط اور شیخ شمس الائمہ حلوانی فرماتے تھے کہ بنا بر روایت عامہ کتب کے ان کے رہنے پانے کا حکم جب ہی ہے کہ جب یہ لوگ تھوڑے ہوں کہ ان کے یہاں رہنے کی وجہ سے تعطل لازم نہ آئے اور مسلمانوں کی کوئی جماعت بمقابلہ ان کے قلیل نہ سمجھی جائے اور اگر کثرت سے ذمیوں نے سکونت بشر اسلام چاہی کہ جس سے تعطل لازم آتا ہے اور مصالح خراج میں خلل پڑتا ہے یا ان کی وجہ سے مسلمانوں کی کوئی جماعت قلیل سمجھی جاتی ہے تو ان کو منع کیا جائے گا کہ مسلمانوں کے درمیان نہ رہیں اور کہا جائے گا کہ ایسی طرف جا کر رہو جہاں مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو اور یہ حکم امام ابو یوسفؒ سے امالی میں محفوظ ہے اور اگر ایسے شہروں میں سے کسی شہر میں ان لوگوں نے گھر خریدے پھر چاہا کہ ان گھروں میں سے کسی کو بیعہ یا کنیہ^۱ یا آتش خانہ بنادیں کہ اپنی عبادت کے واسطے وہاں جمع ہوا کریں تو ان کو اس سے ممانعت کی جائے گی۔ اگر انہوں نے مسلمانوں سے اس کام کے واسطے کوئی گھریا کوٹھری اجارہ پر لی تو مسلمان کے حق میں مکروہ ہے کہ ان کو اجارہ پر دے دے۔ اگر مسلمانوں نے ان کو گھریا حویلی اجارہ پر دی تاکہ اس میں اتریں پھر انہوں نے اس مکان میں ایسی کوئی بات ظاہر کی کہ جو ہم نے ذکر کی ہے تو مالک مکان اور غیر مالک مکان سب کو اختیار ہے کہ ان کو اس سے منع کریں اور عقد اجارہ فسخ نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر ذمیوں میں سے کسی نے ادائے جزیہ سے انکار کیا یا کسی مسلمان کو قتل کیا یا کسی مسلمان عورت سے زنا کیا یا آنحضرت ﷺ کو بدگوئی سے یاد کیا تو ایسے ذمی کا عہد ذمہ^۲ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر قبول جزیہ سے انکار کیا تو اس نے اپنا عہد توڑا۔ ذمی کا عہد جب ہی ٹوٹے گا کہ جب وہ دارالحرب میں جا ملے یا کسی گاؤں میں کسی مقام پر یا کسی قلعہ یا گڈھی میں یہ لوگ غلبہ کر کے مسلمانوں سے قتال کریں چنانچہ جب ایسا کریں گے تو بالکل عہد ذمہ ٹوٹ جائے گا اور جب عہد ٹوٹ گیا تو اس کا حکم مثل مرتد کے ہے یعنی جو اسلام سے پھر گیا اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ دارالحرب میں جا ملا تو جانے کا حکم ہونے سے اس کی موت کا حکم ہوگا یعنی گویا وہ حکماً مر گیا اور اگر اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اس کا عہد ذمہ پھر عود کرے گا اور ذمی کے عہد توڑنے سے اس کی ذریات کی امان باطل نہ ہوگی مگر اس کی ذمی بیوی جس کو وہ دارالاسلام میں چھوڑ گیا ہے اس سے وہ بائنتہ ہو جائے گی اور اس پر اجماع ہے اور اس کا مال اس کے وارثوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا اور نیز ذمی مذکور عہد توڑ کر جو مال اپنے ساتھ

۱۔ بیعہ و کنیہ: یہود و نصاریٰ آتش خانہ مجوس کا وہ آگ کا کند جس میں وہ آگ کو روشن کرتے اور اس کی پرش کرتے ہیں ۱۲۔ ۲۔ قال المترجم ولیکن آنحضرت ﷺ کی بدگوئی کی صورت میں اگر اس کو سننے والے نے قتل کر ڈالا تو اس پر کچھ نہیں ہے اور اگر یہ نہ ہو تو امام پر واجب ہے کہ ایسے مردود کو سخت تعزیر

دارالحرب میں لے گیا ہے اس میں بھی اس کا حکم مثل مرتد کے ہے اور اگر اس دارالحرب پر مسلمانوں نے غلبہ پایا تو ذمی تمام مسلمانوں کے واسطے فنی ہوگا اور اگر وہ دارالحرب میں جا ملا پھر دارالاسلام میں واپس آ کر یہاں سے اپنا مال لے کر اس کو دارالحرب میں لے گیا پھر اس دارالحرب پر اسلام غالب آیا تو اس ذمی مذکور کے وارث اس مال کے جس کو ذمی مذکور لوٹ کر لے گیا ہے غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے مفت حقدار ہیں اور بعد تقسیم کے قیمت دے کر لے سکتے ہیں اور اگر ذمی مذکور قید کیا گیا تو وہ رقیق بنایا جائے گا بخلاف مرتد کے کہ اگر اسلام سے پھر کر دارالحرب میں جا ملا پھر دار مذکور پر مسلمانوں نے غلبہ پایا اور مرتد مذکور کو قید کیا گیا تو قتل کر دیا جائے گا بشرطیکہ مسلمان نہ ہو جائے اور اسی طرح اگر ذمی مذکور بعد عہد توڑنے کے واپس آیا یا قبل اس کے تو اس پر جزیہ مقرر کرنا روا ہے بخلاف مرتد کے کہ اس سے سوائے اسلام کے کچھ قبول نہ کیا جائے گا کذا فی فتح القدر۔

باب : ۹

مرتدوں کے احکام کے بیان میں

مرتد کی تعریف و حکم:

مرتد عرف میں اسی کو کہتے ہیں جو دین اسلام سے پھرنے والا ہو یہ نہر الفائق میں ہے اور مرتد ہونے کا حکم یہ ہے کہ بعد وجود ایمان کے کلمہ کفر اپنی زبان پر جاری کرے اور ردت صحیح ہونے کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ عاقل ہو پس مجنوں کا مرتد ہونا نہیں صحیح ہے اور نہ ایسے طفل کا جو عقل نہیں رکھتا ہے مگر جو مجنوں ایسا ہو کہ کبھی صحیح ہو جاتا ہو اور کبھی مجنوں تو دیکھا جائے کہ اگر اس نے حالت افاقہ میں ارتداد کیا ہے تو صحیح ہے اور اگر حالت جنوں میں مرتد ہوا ہے تو نہیں صحیح ہے۔ اسی طرح جو شخص نشہ میں ایسا چور ہے کہ اس کی عقل جاتی رہی ہے تو اس کا ارتداد بھی نہیں صحیح ہے اور بالغ ہونا صحت ارتداد کے واسطے شرط نہیں ہے اور نیز مذکور ہونا بھی صحت ارتداد کے واسطے شرط نہیں ہے اور طوع صحت ارتداد کے واسطے شرط ہے یعنی خوشی خاطر سے پس جو شخص باکراہ مرتد ہونے پر مجبور کیا گیا اس کا ارتداد نہیں صحیح ہے یہ بحر الرائق میں ہے۔ جو طفل کہ سمجھدار ہے وہ ہر ایسا لڑکا جو یہ جانتا ہو کہ اسلام سبب نجات دوزخ ہے اور حرام و ناپاک کو پاک حلال سے تمیز کرتا ہو اور شیریں کو تلخ سے تمیز کرتا ہو یہ سراج و ہاج میں ہے۔

جب مسلمان اسلام سے پھر گیا نعوذ باللہ منہ تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا:

فتاویٰ قاضی اور ہدایہ میں اس کی تقدیر کہ جب ایسا سمجھدار ہو جائے یہ بیان کی ہے کہ سات برس کا ہو جائے یہ نہر الفائق میں ہے اور جس کو مرض برسام لاحق ہو یا ایسی کوئی چیز کھلا دی گئی کہ عقل جاتی رہی اور ہذیان کے لگا پس مرتد ہو گیا تو یہ ارتداد نہ ہوگا اور اسی طرح اگر معتوہ ہو یا موسوس یا کسی وجہ سے اس کی عقل مغلوب ہو گئی ہو تو اس کا بھی یہی حال ہے یہ سراج و ہاج میں ہے۔ جب مسلمان اسلام سے پھر گیا نعوذ باللہ منہ تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا پس اگر اس کو کوئی شبہ پیش ہو تو اس کو اس نے ظاہر کیا تو وہ شبہ صاف صاف کھول کر دور کیا جائے لیکن بنا بر قول مشائخ کے یہ جاننا چاہئے کہ اس پر اسلام پیش کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے یہ فتح القدر میں ہے اور وہ تین روز تک قید خانہ میں محبوس رکھا جائے گا پس اگر اس میں مسلمان ہو گیا تو خیر ورنہ قتل کر دیا جائے گا اور یہ بھی اس وقت ہے کہ اس نے کچھ مہلت مانگی ہو اور اگر اس نے مہلت طلب نہ کی تو اسی وقت قتل کر دیا جائے گا اور اس حکم میں غلام

و آزاد کے درمیان کچھ فرق نہیں ہے یہ سراج و باج میں ہے۔ اس کے مسلمان ہونے کی یہ صورت ہے کہ کلمہ شہادت ادا کرے اور سوائے اسلام کے باقی تمام دینوں سے بیزاری کرے اگر اس دین سے جس کی طرف منتقل ہوا ہے بیزاری کی تو بھی کافی ہے یہ محیط میں ہے اور نا طقی نے حسن کی کتاب لار تدا سے اجناس میں نقل کیا ہے کہ اگر مرتد نے توبہ کی اور اسلام کی طرف عود کیا پھر کافر ہو گیا یہاں تک کہ اس نے تین مرتبہ ایسا ہی کیا اور ہر بار امام سے مہلت مانگی تو امام اس کو تین روز کی مہلت دے گا پھر اگر چوتھی بار اس نے کفر کی طرف عود کیا پھر مہلت کی درخواست کی تو امام اس کو مہلت نہ دے گا چنانچہ اگر مسلمان ہو گیا تو خیر ورنہ اس کو قتل کر دے گا اور شیخ کرنی نے اپنے مختصر بیان میں فرمایا کہ اگر تیسری بار کے بعد بھی اسلام سے پھر گیا اور امام کے پاس لایا گیا تو بھی اس سے توبہ کرنے کو کہے گا پس اگر اس نے توبہ نہ کی تو اس کو قتل کر دے گا اور اس کو مہلت نہ دے گا۔ اگر توبہ کی تو اس کو تکلیف وہ مار مارے گا مگر اس قدر نہ ہوگی کہ حد شرعی کے درجہ تک پہنچ جائے پھر اس کو قید کرے گا اور قید خانہ سے نہیں نکالے گا یہاں تک کہ اس پر توبہ کی عاجزی کے آثار ظاہر ہوں اور اس کے ظاہر حال سے ایسے شخص کا سا حال ظاہر ہو کہ جو اخلاص سے کام کرتا ہے پھر جب اس نے ایسا کیا تو اسکی راہ چھوڑ دی جائے گی پھر جب رہا کیا گیا پھر اس نے ارتداد کیا تو ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اسلام کی طرف رجوع کرے اور قتل نہ کیا جائے گا الا یہ کہ اسلام لانے سے انکار کرے اور شیخ ابوالحسن کرنی نے فرمایا کہ یہ ہمارے سب اصحاب کا قول ہے کہ مرتد سے ہمیشہ توبہ کرنے کو کہا جائے گا یہ غایۃ البیان میں ہے۔

اگر قبل اس کے کہ اس پر اسلام پیش کیا جائے کسی نے اس کو قتل کر دیا یا اس کا کوئی عضو کاٹ ڈالا تو یہ مکروہ بہ کراہت تنزیہی ہے یہ فتح القدیر میں ہے۔ چونکہ کراہت تنزیہی ہے پس اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قاتل یا قاطع پر ضامن واجب نہ ہوگی لیکن اگر اس نے بغیر اجازت امام کے ایسا کیا ہے تو اس کے اس فعل پر اس کو تادیب دی جائے گی۔ یہ غایۃ البیان میں ہے۔ اگر طفل مرتد ہوا حالانکہ وہ سمجھدار ہے تو اس کا مرتد ہونا امام اعظم و امام محمد کے نزدیک ارتداد ہے یعنی معتبر و صحیح ہے کہ اس پر اسلام لانے کے واسطے جبر کیا جائے گا مگر وہ قتل نہ کیا جائے گا۔ یہ سراج و باج میں ہے۔ اگر طفل قریب بہ بلوغ جس کو مرہق کہتے ہیں مرتد ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اور مرتدہ عورت قتل نہ کی جائے گی بلکہ قید خانہ میں محبوس رکھی جائے گی اور ہر تین روز میں ایک بار اس پر مار پڑے گی تاکہ اسلام لائے لیکن اگر کسی نے اس کو قتل کر دیا تو قاتل پر کچھ نہ ہوگا اس واسطے کہ اس میں شبہ ہے کہ قاتل پر بالیقین قصاص وغیرہ واجب ہوگا کہ نہیں یا مرتدہ عدم قتل میں مشتبہ ہے۔ باندی مرتدہ پر اسلام کے واسطے جبر کرنے کا کام اس کے مولیٰ کو دیا جائے گا کیونکہ اس میں دونوں حق جمع ہوئے جاتے ہیں بایں طور کہ مولیٰ کا مکان اس مرتدہ کے واسطے قید خانہ کر دیا جائے اور اسلام لانے کے واسطے اس کو تادیباً مار دینا اس کے مولیٰ کو سونپ دیا جائے اور باوجود اس کے مولیٰ مذکور اس سے اپنی خدمت بھی لیا کرے گا اور اصل میں ذکر فرمایا کہ باندی مرتدہ اس طرح پر اپنے مولیٰ کو جب سپرد کی جائے گی کہ مولیٰ کو اس کی خدمت وغیرہ کی حاجت ہو اور صحیح یہ ہے کہ مرتدہ مذکور اس کے مولیٰ کو سپرد کی جائے گی خواہ مولیٰ کو حاجت ہو یا نہ ہو خواہ وہ درخواست کرے یا نہ کرے یہ تبیین میں ہے۔ مگر واضح رہے کہ اس کا مولیٰ اس سے وطنی نہ کرے گا اور عورت صغیرہ جو سمجھدار ہو وہ مثل بالغہ کے ہے اور خنثی^۱ مشکل مثل عورت کے ہے۔ یہ نہر الفائق میں ہے۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق جو کچھ اس نے حالت ارتداد میں کمایا ہے وہ اس کی ردت کا قرضہ

۱۔ وہ شخص جس میں مرد و عورت ہونے کی علامات دونوں برابر ہوں اور کسی علامت کو غلبہ نہ ہو۔ ۱۲۰۔

دینے کے بعد فنی ہوگا:

حرہ مرتدہ جب تک دارالاسلام میں موجود ہے تب تک گرفتار کر کے رقیقہ نہیں بنائی جائے گی اور اگر وہ دارالحرب میں جا
 ٹی پھر وہاں سے گرفتار کر کے لائی گئی تو رقیقہ بنائی جائے گی اور امام اعظم سے نوادر میں یہ روایت بھی ہے کہ وہ دارالاسلام میں بھی
 رقیقہ بنائی جائے گی۔ بعضے مشائخ نے کہا کہ اگر اس روایت کے موافق ایسی مرتدہ باندی کے حق میں فتویٰ دے دیا جائے جس کا
 شوہر موجود ہے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے اور چاہئے کہ اس کا شوہر اس کو امام سے رقیق بنوالے یا امام اس مرتدہ مذکور کو اس کے شوہر کو
 ہبہ کر دے بشرطیکہ وہ مصرف ہو یعنی ایسا ہو کہ اس کو بیت المال سے مل سکتا ہو پس وہ اس باندی مرتدہ کا مالک ہو جائے گا اور ایسی
 حالت میں وہی اس کے قید کرنے اور مارنے کا متولی ہوگا تا کہ اسلام لائے یہ فتح القدر میں ہے۔ بشر بن الولید نے امام ابو یوسفؒ
 سے روایت کی ہے کہ اگر مرتد نے ردت سے یعنی مرتد ہو جانے سے انکار کیا کہ میں مرتد نہیں ہوا ہوں اور تو حید باری عز اسمہ کا اور
 شناخت حضرت سنیؒ کی رسالت کا اور دین اسلام کی حقیقت کا اقرار کیا تو یہ امر اس کی جانب سے تو بہ قرار دیا جائے گا۔ یہ محیط میں
 ہے۔ مرتد کی ارتداد سے اس کی ملک اس کے مال سے بزوال موقوف زائل ہو جاتی ہے یعنی اگر وہ پھر مسلمان ہو گیا تو اس کی ملکیت
 کا حکم عود کرے گا اور اگر مر گیا یا حالت ردت میں قتل کیا گیا تو اس کی حالت اسلام کی کمائی کا اس کا وارث بعد ادائیگی اس کے قرضہ
 اسلام کے میراث پائے گا اور جو کچھ اس نے حالت ارتداد میں کمایا ہے وہ اس کی ردت کا قرضہ دینے کے بعد فنی ہوگا اور یہ امام اعظم
 کے نزدیک ہے اور صاحبین کے نزدیک مرتد کی ملک اس کے مال سے زائل نہیں ہوتی ہے پھر اس شخص کے حق میں جو مرتد کا وارث
 ہوگا امام اعظم سے روایات مختلفہ آئی ہیں چنانچہ امام محمد نے امام اعظم سے روایت کی کہ مرتد کی موت یا قتل کئے جانے کے وقت یا اس
 کے دارالحرب میں جانے کا حکم دیئے جانے کے وقت وہ وارث ہو یعنی اس کے وارث ہونے میں یہ امر معتبر ہے اور یہی اصح ہے اور
 اگر مرتد مر گیا یا قتل کیا گیا یا اس کے دارالحرب میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس کی مسلمان بیوی اس وقت تک کہ عورت مذکورہ عدت
 میں ہو وارث ہوگی اس واسطے کہ وہ ردت کے حکم فارغ میں ہو گیا اس واسطے کہ ردت منزلہ مرض کے ہے اور مرتدہ کا وارث اس کا شوہر
 نہ ہوگا الا آنکہ عورت مریضہ ہو تو وارث ہوگا اور اس عورت کے تمام اقارب مستحقین اس کے تمام مال کے وارث ہوں گے یہاں
 تک کہ اس کی حالت ردت کی کمائی کے بھی وارث ہوں گے یہ تبیین میں ہے۔

اگر دارالحرب میں لاحق ہوا بحالت ارتداد یا حاکم نے اس کی لحاق کا حکم دیا تو اس کے مملوک مدبر و ام ولد سب آزاد ہو
 جائیں گے اور اس کے تمام قرضے جو معیادی تھے فی الحال واجب الادا ہو جائیں گے اور جو مال اس نے حالت اسلام میں کمایا ہے وہ
 اس کے مسلمان وارثوں کو دیا جائے گا اس میں ہمارے علماء ثلاثہ کا اتفاق ہے اور حالت اسلام میں جو اس نے وصیت کی ہے اس کی
 نسبت مبسوط وغیرہ میں مذکور ہے کہ ظاہر الروایت کے موافق یہ وصیت مطلقاً باطل ہو جائے گی خواہ وصیت ایسی ہو کہ وصیت قربت ہے
 یعنی طاعت و عبادت ہے یا ایسی ہو کہ قربت نہ ہو کچھ فرق نہیں ہے اور اس میں کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ فتح القدر میں ہے۔
 جب تک کہ مرتد دارالاسلام میں پریشان پھرتا ہو تب تک قاضی ان احکام مذکورہ میں سے کوئی حکم نہ دے گا۔ یہ محیط میں ہے۔ مرتد
 نے حالت ردت میں آکر کچھ تصرف کیا تو اس کے تصرف میں چار وجوہات ہیں اول وہ تصرف جو بالاتفاق اماموں کے نزدیک نافذ

۱۔ صورت آنکہ مرتد طلاق دے کر مر گیا یا قتل کیا گیا یا دارالحرب میں چلا گیا اور اس کے چلے جانے کا حکم ایسی حالت میں ہو کہ عورت مذکورہ عدت میں تھی تو
 وارث ہوگی اور اگر عدت گزر جانے کے بعد یہ امور واقع ہوئے تو کسی صورت میں وارث نہ ہوگی ۱۲۔ مثل اس شخص کے اس کا بھی حکم ہوگا جو انہی
 بیوی کو مرض الموت میں طلاق دے گیا کہ وہ اس عورت کے میراث میں شریک ہونے سے گریز کرنے والا ہے ۱۲۔

ہوگا جیسے قبول ہبہ واستیلا دچنانچہ اگر اس کی باندی کے بچہ پیدا ہوا اور اس نے بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو بچہ کا نسب اس سے ثابت ہو گا اور یہ بچہ بھی اس کے وارثوں کے ساتھ میراث پائے گا اور یہ باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور اگر مرتد نے شفعہ مشتری کو سپرد کر دیا تو صحیح ہے و نافذ ہوگا اور اگر اس نے اپنے غلام ماذون کو مجبور کر دیا تو نافذ ہوگا دوم آنکہ بالاتفاق وہ تصرف باطل ہے جیسے نکاح چنانچہ مرتد کے واسطے جائز نہیں ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرے نہ مسلمان عورت سے نہ مرتدہ سے نہ ذمیہ عورت سے خواہ آزاد ہو یا مملوک ہو اور اگر نکاح کیا تو باطل ہوگا اور مرتد کا ذبیحہ اور اس کا تیریا کتے و باز سے شکار کیا ہوا حرام ہے۔ سوم وہ تصرف جو سب کے نزدیک بالاتفاق موقوف رہے گا جیسے شرکت معاوضہ چنانچہ اگر اس نے کسی مسلمان سے شرکت معاوضہ کی تو بالاتفاق ابھی یہ شرکت موقوف رہے گی پس اگر وہ مسلمان ہو گیا تو یہ شرکت معاوضہ نافذ ہو جائے گی اور اگر مر گیا یا حالت ردت پر قتل کیا گیا یا دارالحرب میں چلا گیا اور قاضی نے اس کے چلے جانے کا حکم دے دیا تو شرکت مذکورہ باطل ہو جائے گی اور جڑ سے معاوضہ باطل ہو کر شرکت عنان ہو جائے گی۔ یہ صاحبین کا قول ہے اور امام اعظم کے نزدیک جڑ سے باطل نہ ہوگی۔ چہارم ایسا تصرف جس کے موقوف رہنے یا نہ رہنے میں اختلاف ہے جیسے خرید و فروخت۔ اجارہ۔ عتاق۔ تدبیر۔ کتابت وصیت قبضہ دیں (جمع دین پر قرضہ ادھار وغیرہ)۔ چنانچہ امام اعظم کے نزدیک یہ تصرفات موقوف رہیں گے کہ اگر مسلمان ہوگا تو نافذ ہو جائیں گے اور اگر مر گیا یا قتل کیا گیا یا دارالحرب میں چلنے کا حکم دیا گیا تو باطل ہو جائیں گے۔ اگر مکاتب نے اپنی ردت کی حالت میں تصرف کیا تو بالاتفاق اس کا تصرف نافذ ہوگا۔ یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر مرتد نے نصرانیہ باندی سے وطی کی کہ جو حالت اسلام میں اس کی ملک تھی:

اگر کسی شخص نے اپنے مرتد غلام یا مرتدہ باندی کو فروخت کیا تو بیع جائز ہے یہ مبسوط میں ہے۔ اگر مرتد توبہ کر کے دارالاسلام میں عود کر کے آیا پس اگر قاضی نے ہنوز اس کے دارالحرب میں چلنے کا حکم نہیں دیا یعنی ایسا حکم دیئے جانے سے پہلے وہ تائب ہو کر عود کر آیا ہے تو اس کے مال سے حکم ردت باطل ہو جائے گا پس ایسا ہوگا کہ گویا وہ برابر مسلمان ہی رہا ہے اور اس کے مملوک مدبر دام ولدوں میں سے کوئی خود اس کی طرف سے آزاد شدہ نہ ہوگا اور اگر قاضی کے حکم مذکور دینے کے بعد وہ تائب ہو کر واپس آیا ہے جو کچھ مال وہ اپنے وارثوں کے ہاتھ میں پائے اس کو لے لے اور جو کچھ وارث نے اپنی ملک سے زائل کر دیا ہو خواہ ایسے سبب سے زائل کیا ہے جو قابل فسخ ہوتا ہے جیسے بیع و ہبہ وغیرہ یا ایسے سبب سے جو قابل فسخ نہیں ہوتا ہے جیسے عتاق و تدبیر و استیلا تو اس مال کو مرتد کسی طرح نہیں پاسکتا ہے اور وارث کا تصرف مذکور بجائے خود صحیح رہے گا اور وارث پر تاوان بھی لازم نہ ہوگا یہ غایۃ البیان میں ہے۔

اگر مرتد مذکور مر گیا یا قتل کیا گیا تو اس کا فرزند اس کا وارث نہ ہوگا:

اگر مرتد نے نصرانیہ باندی سے وطی کی کہ جو حالت اسلام میں اس کی ملک تھی پھر اس کے مرتد ہونے کے وقت سے چھ مہینے سے زیادہ کے بعد وہ بچہ جنی اور مرتد مذکور نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو یہ باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور بچہ مذکور آزاد ہو گا اور اس کا فرزند ہوگا یہ ہدایہ میں ہے۔ پھر اگر مرتد مذکور مر گیا یا قتل کیا گیا تو اس کا فرزند اس کا وارث نہ ہوگا اور اگر مسئلہ مذکور میں بجائے نصرانیہ کے مسلمہ باندی ہو تو یہ فرزند اس کا وارث ہوگا خواہ مرتد مذکور مر گیا یا قتل کیا گیا یا دارالحرب میں چلا گیا ہو۔ اگر کوئی مرتد اپنا مال لے کر دارالحرب میں چلا گیا پھر غلبہ پا کر یہ مال لے لیا گیا تو وہ فنی ہوگا اور مرتد مذکور کے وارثوں کو اس مال کی طرف کوئی راہ نہ ہوگی اور اگر مرتد دارالحرب میں جا ملا پھر لوٹ کر دارالاسلام میں آ کر یہاں سے اپنا مال لے گیا اور اس کو دارالحرب میں

داخل کر لیا پھر یہ مال غلبہ یا کر لے لیا گیا تو یہ مال اس کے وارثوں کو جو دارالاسلام میں ہیں واپس دیا جائے گا لیکن اس میں دو صورتیں ہیں کہ قبل تقسیم کے ان کو مفت دے دیا جائے گا اور بعد تقسیم ہو جائے کے بقیمت واپس دیا جاسکتا ہے۔ اگر مرتد دارالحرب میں ملے گا اور یہاں اس کا ایک غلام ہے پس اس کے بیٹے کے واسطے اس غلام کا حکم دیا گیا پس اس کے بیٹے نے اس غلام کو مکاتب کر لیا پھر مرتد مذکور تائب ہو کر مسلمان واپس نہ آیا تو کتابت مذکور اپنے حال پر درست رہے گی اور مال کتابت اور ولاء اسی شخص کی ہوگی جو مسلمان ہو کر واپس آیا ہے یہ کافی میں ہے اور یہ اس وقت ہے کہ ہنوز مکاتب مذکور مال ادا کر کے آزاد نہیں ہوا ہے اور اگر مکاتب مذکور کے مال ادا کر کے آزاد ہو جانے کے بعد وہ واپس آیا تو اس آزاد شدہ کی ولاء اس کے بیٹے کی ہوگی یہ نہایت میں ہے۔

امام محمدؒ نے جامع صغیر میں فرمایا کہ اگر مرتد نے کسی کو خطا سے قتل کیا پھر دارالحرب میں جا ملا یا مر گیا یا حالت ارتداد پر قتل کیا گیا وہ دارالاسلام میں زندہ موجود ہے بہر حال بالاتفاق اس مقتول کی دیت اس مرتد کے مال سے ہوگی پس اگر اس کی کمائی فقط حالت اسلام کی یا فقط حالت ردت کی ہو تو اسی سے پوری دیت دے دی جائے گی اور اگر حالت اسلام و ردت کی کمائیاں ہوں تو بقول صاحبین دیت دونوں سے دی جائے گی اور دونوں کی کمائیاں ہوں تو بنا بر قول امام اعظمؒ پہلے اس کی اسلام کی کمائی سے ادا کی جائے گی پھر اگر کچھ کمی رہی اور پوری ادا نہ ہوئی تو باقی اس کی ردت کی کمائی سے پوری کر دی جائے گی یہ محیط میں ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ مرتد مذکور قبل مسلمان ہو جانے کے قتل کیا گیا یا مر گیا ہو اور اگر وہ بعد مرتد ہونے کے پھر مسلمان ہو کر مر یا نہیں مر یا تو بالاتفاق دیت مذکورہ اس کی دونوں کمائیوں سے دی جائے گی یہ تمین میں ہے۔ اگر مرتد نے کچھ مال غصب کر لیا یا کوئی چیز تھ کر دی تو بالاتفاق اس کی ضمان اس مرتد کے مال سے دی جائے گی اور یہ حکم اس وقت ہے کہ غصب کرنا یا مال تلف کر دینا یا بالمعائنہ (گویان سے) ثابت ہو اور اگر فقط مرتد کے اقرار سے ثابت ہو تو صاحبین کے نزدیک یہ مال تاوان اس کی دونوں حالتوں کی کمائیوں سے دیا جائے گا اور امام اعظمؒ کے نزدیک اس کی ارتداد کی کمائی سے دیا جائے گا ایسا ہی شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے۔ یہ سب یہ صورت ہے کہ خطا کار خود مرتد ہو اور اگر یہ صورت ہو کہ مرتد پر کسی نے جنایت کی یا بیطور کہ اس کے مرتد ہو جانے کے بعد کسی نے اس کا ہاتھ یا پاؤں عمداً کاٹ ڈالا تو امام محمدؒ نے اصل میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جنایت کرنے والا کچھ ضامن نہ ہوگا خواہ مرتد مذکور اس قطع کی وجہ سے حالت ردت پر مر گیا یا مسلمان ہو کر مر ہو۔ یہ حکم جب ہے کہ اس کے مرتد ہونے کی حالت میں قطع کیا ہو اور اگر اس طرح ہو کہ اس کے مسلمان ہونے کی حالت میں کسی مسلمان نے اس کا ہاتھ کاٹا خواہ عمداً یا خطا سے پھر جس کا ہاتھ کاٹا ہے وہ مرتد ہو گیا اور اسی زخم قطع کی وجہ سے حالت ردت پر مر گیا تو کاٹنے والے پر اس عضو کی دیت واجب ہوگی خواہ خطا سے کاٹا ہو یا عمداً کاٹا ہو اور وہ جان تلف شدہ کا ضامن نہ ہوگا پس اگر کاٹنے والے نے عمداً کاٹا ہے تو ضمان مذکور اس کے مال سے واجب ہوگی اور اگر خطا سے کاٹا ہے تو اس کی مددگار برادری پر واجب ہوگی۔

اگر ہاتھ کاٹنے والا مرتد ہو گیا اور جس کا ہاتھ کاٹا ہے وہ مسلمان باقی رہا اور ہاتھ کاٹنے والا اپنی ردت پر قتل کیا گیا پھر مقطوع الید یعنی جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے وہ بھی مر گیا.....:

یہ حکم اس وقت ہے کہ جس کا عضو قطع کیا وہ اس قطع کی وجہ سے حالت ردت پر مر ہو اور اگر وہ مسلمان ہو گیا پھر حالت اسلام پر اس قطع کی وجہ سے مر گیا پس اگر وہ شخص دارالحرب میں نہیں گیا ہے یا جا ملا مگر حکم لحاق سے پہلے مسلمان ہو کر عود کر آیا ہے تو خواہ لشکر اسلام نے فتح پا کر لوٹ لیا یا چورہاں سے چورایا قاتل فیہ ۱۲۔ ۲۔ لاحق ہونا اور مل جانا یعنی جب تک اس پر حکم لاحق ہونے اہل دارالکفر کے ساتھ نہیں دیا گیا ۱۲۔

استحساناً اس کی جان دیت پوری پوری واجب ہوگی خواہ عمداً کاٹا ہو یا خطا سے قطع کیا ہو مگر فرق اس قدر ہے کہ خطا سے قطع کرنے کی صورت میں دیت مذکور اس قطع کرنے والے کی مددگار برادری پر واجب ہوگی اور عمداً کی صورت میں خاص اسی کے مال پر واجب ہوگی اور عمداً قطع کی صورت میں قطع کرنے والے پر قصاص واجب نہ ہوگا اور یہی امام اعظم و امام ابو یوسف نے اختیار کیا ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر وہ دارالہرب میں جا ملا اور قاضی نے اس کے لحاق کا حکم دے دیا پھر تائب ہو کر مسلمان واپس آیا پھر بسبب قطع مذکور کے مرگیا تو قاطع پر نصف دیت واجب ہوگی یہ غایۃ البیان میں ہے۔ اگر ہاتھ کاٹنے والا مرتد ہو گیا اور جس کا ہاتھ کاٹا ہے وہ مسلمان باقی رہا اور ہاتھ کاٹنے والا اپنی روت پر قتل کیا گیا پھر مقطوع الید یعنی جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے وہ بھی مرگیا تو اصل میں مذکور ہے کہ اگر اس نے عمداً قطع کیا ہو تو اس کے واسطے کچھ نہ ہوگا اور اگر خطا سے قطع کیا ہو پس اگر اس زخم سے اچھا ہو گیا ہو تو اس کی مددگار برادری پر اس مقطوع کے ہاتھ کی ضمان واجب ہوگی اور اگر مرگیا ہو تو قاطع کی مددگار برادری پر جان کی دیت کاملہ واجب ہوگی اور اگر مدبرہ باندی یا ام ولد مرتد ہو گئی اور دارالہرب میں چلی گئی پھر اس کا مولیٰ دارالاسلام میں مرگیا پھر وہ گرفتار ہو کر پکڑ آئی تو فہمی ہوگی بخلاف اس کے اگر ایسی باندی مولیٰ کے قبضہ سے حربیوں کی رقیت میں آگئی ہو پھر وہ اسیر ہو کر آئی تو مولیٰ کو واپس کر دی جائے گی یہ محیط میں ہے۔

اگر مکاتب مرتد ہو گیا اور دارالہرب میں جا ملا اور اس نے کچھ مال کمایا پھر وہ مع اس مال کے گرفتار کیا گیا اور اس نے اسلام لانے سے انکار کیا پس قتل کیا گیا تو اس مال سے اس کے مولیٰ کو مال کتابت ادا کر دیا جائے گا اور جو باقی رہا وہ وارثان مکاتب کا ہوگا یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر ایسا ہو کہ جو کچھ مکاتب مذکور کا مال رہا ہے وہ اس کی ادائے کتابت کے واسطے کافی نہ ہو تو جو کچھ ہے وہ اس کے مولیٰ کا ہوگا یہ کافی میں ہے۔ ایک غلام مع اپنے مولیٰ کے مرتد ہو کر دونوں دارالہرب میں جا ملے پھر مولیٰ وہیں مرگیا اور غلام مذکور اسیر ہو کر دارالہرب سے دارالاسلام میں لایا گیا تو وہ فہمی ہوگا پھر اگر مسلمان نہ ہو تو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر غلام مرتد ہو کر مولیٰ کا مال لے کر دارالہرب میں چلا گیا پھر مع اس مال کے گرفتار ہو کر آیا تو وہ فہمی نہ ہوگا بلکہ اس کے مولیٰ کو واپس کر دیا جائے گا ایک قوم اسلام سے مرتد ہو کر مسلمانوں سے لڑے اور اپنے شہروں میں سے کسی شہر پر غالب ہوئے جو ان کی زمین تہرب میں ہے اور ان کے ساتھ ان کی عورتیں و بچے ہیں پھر مسلمان لوگ ان پر غالب آئے تو ان کے مرد قتل کئے جائیں گے اور عورتیں و بچے اسیر کر کے رقیق بنائے جائیں گے یہ مبسوط میں ہے اور اگر بیوی و مرد دونوں مرتد ہو کر دارالاسلام سے دارالہرب میں چلے گئے پس عورت وہاں حاملہ ہوئی اور اس کے بچہ پیدا ہوا اور یہ بچہ بالغ ہوا تو اس کے بھی فرزند ہوا پھر مسلمان لوگ ان پر غالب ہوئے تو ہر دو فرزند فہمی ہوں گے مگر ان میں سے فرزند اول پر اسلام لانے کے واسطے جبر کیا جائے گا اور دوسرے فرزند پر اسلام کے واسطے جبر نہ کیا جائے گا۔ اگر عورت مذکورہ دارالاسلام میں حاملہ ہو گئی ہو تو بھی یہی حکم ہے۔ یہ کافی میں ہے۔

جس نے اپنے ایمان میں شک کیا اور کہا کہ میں ایماندار ہوں انشاء اللہ تعالیٰ تو وہ کافر ہے:

اور نوادر میں مذکور ہے کہ اگر بیوی و مرد دونوں مرتد ہو کر مع اپنے فرزند صغیر کے دارالاسلام سے دارالہرب میں چلے گئے پھر اس فرزند کے بالغ ہونے پر اس کے بھی فرزند پیدا ہوا پھر اس دوسرے فرزند کو مسلمانوں نے فتح پا کر گرفتار کیا تو امام اعظم و امام محمد کے نزدیک اس پر اسلام کے واسطے جبر کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔ جس شخص کا اسلام بہ تبعیت اس کے والدین کے قرار پایا ہے اگر وہ مرتد بالغ ہو تو در صورت انکار اسلام کے قیاساً قتل کیا جائے گا اور استحساناً قتل نہیں کیا جائے گا اور اگر صغیر سنی میں مسلمان ہوا

اور مرتد بالغ ہو تو قیاساً قتل نہ کیا جائے گا اور استحساناً قتل نہ کیا جائے گا۔ جو شخص کہ باکراہ اسلام لایا ہے اگر مرتد ہو گیا تو استحساناً قتل نہ کیا جائے گا مگر واضح رہے کہ ان تینوں صورتوں میں اس پر اسلام لانے کے واسطے جبر کیا جائے گا اور اگر اسلام لانے سے پہلے کسی نے اس کو قتل کیا تو قاتل پر کچھ لازم نہ ہوگا اور جو کہ دارالاسلام میں لقیط پایا گیا ہے وہ محکوم باسلام ہوگا یعنی اس کے مسلمان ہونے کا حکم بہ تبعیت دارالاسلام دیا جائے گا پھر اگر وہ کافر بالغ ہو تو اس پر اسلام لانے کے واسطے جبر کیا جائے گا اور قتل نہ کیا جائے گا یہ فتح القدیر میں ہے۔ موجبات کفر چند انواع ہیں ازاجملہ وہ ہیں جو متعلق بایمان و اسلام ہیں چنانچہ اگر کسی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا ایمان صحیح ہے یا نہیں تو یہ خطائے عظیم ہے لیکن اگر اس کی یہ مراد ہے کہ میرے دل سے شک رفع ہے یا نہیں تو خیر اور جس نے اپنے ایمان میں شک کیا اور کہا کہ میں ایماندار ہوں انشاء اللہ تعالیٰ تو وہ کافر ہے لیکن اگر اس نے یہ مراد بیان کی کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ دنیا سے ایمان کے ساتھ نکلوں گا تو ایسی صورت میں اس کے کافر ہونے کا حکم نہ دیا جائے گا جس شخص نے قرآن یعنی کلام اللہ تعالیٰ کی نسبت کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق ہے تو وہ کافر ہے اور جس نے ایمان مخلوق ہونے کو کہا وہ بھی کافر ہے اور جس نے اعتقاد کیا کہ ایمان و کفر ایک ہے تو وہ کافر ہے اور جو ایمان سے راضی نہ ہو وہ کافر ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

جو شخص اپنی ذات کے کفر پر راضی ہو وہ کافر ہے اور جو دوسرے شخص کے کفر پر راضی ہو اس کے حق میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور کتاب التخییر میں کلمات کفر کے بیان میں لکھا ہے کہ جو دوسرے کے کفر پر راضی ہوتا کہ وہ ہمیشہ عذاب دیا جائے تو اس کے کفر کا حکم نہ دیا جائے گا اور اگر دوسرے کے کفر پر راضی ہوتا کہ اللہ جل شانہ کے حق میں وہ بات کہے جو اس کی صفات کے لائق نہیں ہے تو اس کے کافر ہونے کا حکم دیا جائے گا اور اسی پر فتویٰ ہے کہ تاتار خانیہ میں ہے۔ جس نے کہا کہ میں صفت اسلام نہیں جانتا ہوں تو وہ کافر ہے اور شمس الائمہ حلوانی نے یہ مسئلہ بہت مبالغہ کے ساتھ ذکر فرمایا اور کہا ہے کہ ایسے شخص کا نہ کچھ دین ہے اور نہ نماز اور نہ روزہ اور نہ کوئی طاعت اور نہ نکاح اور اس کی اولاد سب زنا ہوگی۔ جامع میں مذکور ہے کہ اگر کسی مسلمان نے صغیرہ نصرانیہ سے نکاح کیا اور اس دختر کے والدین نصرانی ہیں پھر وہ بالغ ہوئی درحالیکہ وہ دینوں میں سے کسی دین کو نہیں سمجھتی اور نہ اس کو وصف کر سکتی ہے کہ کیونکر ہے حالانکہ یہ عورت معتوبہ نہیں ہے تو وہ اپنے شوہر سے بائنا ہوگی۔ امام محمد کے اس قول کی کہ کس دین کو نہیں سمجھتی ہے۔ یہ معنی ہیں کہ اپنے دل سے نہیں جانتی پہچانتی ہے اور اس قول کی کہ نہ اس کو وصف کر سکتی ہے یہ معنی ہیں کہ زبان سے اس کو بیان نہیں کر سکتی ہے قال المترجم یعنی مثلاً اسلام کو بیان نہیں کر سکتا ہے کہ کیا ہے اور نہ دل سے جانتا ہے تو وہ کافر (تنبیہ) ہے اور اگر یوں بیان کیا کہ اسلام یہ ہے کہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ کے رسول و بندے ہیں اور قیامت و حشر و جزا وغیرہ سب حق ہے تو یہ اسلام کے واسطے کافی ہے۔ فافہم اسی طرح اگر صغیرہ مسلمہ سے نکاح کیا پھر جب وہ بالغ ہوئی تو وہ اسلام کو نہیں سمجھتی ہے اور نہ وصف کر سکتی ہے حالانکہ وہ معتوبہ نہیں ہے تو وہ بھی اپنے شوہر سے بائنا ہو جائے گی اور فتاویٰ نسفی میں لکھا ہے کہ شیخ سے دریافت کیا گیا کہ اگر ایک عورت سے کہا گیا کہ تو حید میدانی یعنی تو تو حید کو جانتی ہے اس نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اس کی مراد یہ ہے کہ جس بیان سے مکتب میں لڑکے کہتے ہیں وہ مجھے یاد نہیں ہے تو یہ اس کے حق میں مضر نہیں ہے اور اگر اس کی یہ مراد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتی ہی نہیں ہوں تو ایسی عورت مؤمنہ نہیں ہے اور اس کا نکاح صحیح نہ ہو اور حماد بن ابی حنیفہ سے روایت ہے کہ جو شخص مر گیا اور اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق اور اللہ عز و جل نے

۱۔ قول نہیں جانتا یعنی اسلام کیا ہے اور اس کا کیا اعتقاد اور کیونکر ہے ۱۲۔ ۲۔ پیدائشی بیوقوف سفید بمنزل پاگل کے ۱۲۔

۳۔ (تنبیہ) قولہ کافر ہے یعنی اس میں ایمان نہیں اور تکفیر کیا جائے گا بحکم ظاہر شرع کافر کہلائے گا ۱۲۔

کوئی اور گھر سوائے اس گھر کے رکھا ہے اور ظلم حرام ہے تو وہ مسلمان نہیں مرا یہ محیط میں ہے۔

ایک نصرانی کسی مسلمان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ پر اسلام پیش کرتا کہ میں تیرے پاس مسلمان ہوں
پس اس نے کہا کہ تو فلاں عالم کے پاس جاتا کہ وہ تجھ پر اسلام پیش کرے پس تو اسکے پاس مسلمان ہو:

ایک شخص گناہ کر رہا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ مسلمانی ظاہر کرنا چاہئے تو اس کے کفر کا حکم دیا جائے گا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی میں مسلمان ہوں اس نے کہا کہ تجھ پر تیری مسلمانی پر لعنت ہے تو ایسا کہنے والا کافر کہا جائے گا یہ خلاصہ میں ہے۔ ایک نصرانی مسلمان ہو گیا پھر اس کا مالدار باپ مر گیا پس اس نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک مسلمان نہ ہوا ہوتا کہ اس کا مال میراث لیتا تو اس کے کافر ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ فصول عموماً یہ ہیں۔ ایک نصرانی کسی مسلمان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ پر اسلام پیش کرتا کہ میں تیرے پاس مسلمان ہوں پس اس نے کہا کہ تو فلاں عالم کے پاس جاتا کہ وہ تجھ پر اسلام پیش کرے پس تو اس کے پاس مسلمان ہو تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور شیخ ابو جعفر نے فرمایا کہ اس طرح دزدنگ کرنے والا کافر نہ ہو جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ ایک کافر مسلمان ہو گیا پس اس سے ایک شخص نے کہا کہ تجھے اپنے دین کی طرف سے کیا بلا پیش آئی تھی تو یہ کہنے والا کافر ہو گا یہ خلاصہ میں ہے۔ یہاں تک کہ تو بیان ایسی صورتوں کا ہو جو متعلق بایمان و اسلام ہیں اور قسم دیگر وہ کلمات کفر ہیں جو ذات اللہ تعالیٰ و اس کی صفات وغیرہ سے متعلق ہیں۔ چنانچہ اگر کسی نے وصف کیا اللہ تعالیٰ کو ایسے وصف سے جو لائق شان الہی نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام سے تمسخر کیا یا اس کے اوامر میں سے کسی امر یعنی حکم سے تمسخر کیا یا اس کے وعدہ ثواب یا عقاب کا انکار کیا یا اس کا کوئی شریک گردانا یا فرزند یا بیوی قرار دی یا اللہ تعالیٰ کو جہالت یا عاجزی ناقص کی طرف منسوب کیا تو وہ کافر ہو گا یعنی حکم دیا جائے گا کہ وہ کافر ہے اور اگر کسی نے کہا کہ رو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا فعل کرے جس میں کچھ حکمت نہیں ہے تو کافر کہا جائے گا اور اگر یہ اعتقاد کیا کہ اللہ تعالیٰ کفر سے راضی ہوتا ہے تو کافر ہے یہ بحر الرائق میں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں میری آنکھ و نگاہ میں ایسا ہے جیسے یہودی:

اگر کسی نے کہا کہ اگر خدا مجھے اس کا حکم کرے گا یا اگر خدا بھی اس کا حکم کرے گا تو نہ کروں گا تو اس نے کفر کیا یہ محیط میں ہے اور تجیز میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جو یہود و جبہ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے واسطے آیا ہے حالانکہ وہاں ہرگز یہ جوں جو ظاہر میں سمجھتے ہیں مراد نہیں ہیں پس آیا فارسی میں یا اردو میں اللہ تعالیٰ شانہ پر ان الفاظ کا اطلاق جائز ہے یا نہیں۔ پس بعضے مشائخ نے فرمایا کہ جائز ہے بشرطیکہ اس نے اس لفظ سے عضو کے معنی نہ سمجھ لئے ہوں اور اکثر مشائخ نے فرمایا کہ نہیں صحیح ہے اور اسی پر اعتماد ہے یہ تاتار خانہ میں ہے۔ قال المترجم جن بعض مشائخ نے یہ اطلاق جائز کیا ہے ان کے قول کے یہ معنی ہیں کہ ہم بالیقین جانتے ہیں کہ بحکم آیہ لیس کمثلہ شنی اس کے مثل کوئی چیز کسی طرح کبھی نہیں ہے بالضرور ہاتھ و چہرہ سے ایسا عضو مراد نہیں ہے پس کوئی کیفیت نہیں معلوم ہے کہ وجہ الہی یا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیا اور کیونکر ہے جیسے خود ذات الہی جل شانہ بالکل مجبول الکفایت ہے پس ہم ایمان لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بمعنی صفت ہے جس کی کیفیت ہم کو بالکل نہیں معلوم ہے اور یقین سے معلوم ہے کہ ایسے ہاتھ جو عضو معروف ہے ہرگز نہیں ہے اور یہ امام اعظم و دیگر ائمہ و علمائے متقدمین میں سے منقول ہے واللہ اعلم اور اگر کہا کہ فلاں نے عینی کا لیبودنی عین اللہ یعنی فلاں میری آنکھ و نگاہ میں ایسا ہے جیسے یہودی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں تو کافر کہا جائے گا اور اسی پر جمہور مشائخ

ہیں اور بعض نے کہا کہ اگر اس سے مراد اس شخص کے فعل کو زیادہ قبیح جانتا ہو تو کفر نہ ہوگا یہ فصول عمادہ میں ہے۔ اگر کوئی آدمی مر گیا پس ایک نے کہا کہ خدا کو وہ چاہیے تھا تو تکفیر کیا جائے گا۔ یہ خلاصہ میں ہے۔

اگر یوں کہا کہ ایں کار ایست خدای را افتا وہ است یعنی یہ کام ہے کہ خدا کو کرنا پڑ گیا ہے تو تکفیر نہ کی جائے گی لیکن یہ کلمہ زشت ہے یہ خزانہ المقتنین میں ہے اور اگر کسی نے اپنے ساتھ جھگڑا کرنے والے سے کہا کہ میں تیرے ساتھ خدا کے حکم کے موافق کام کرتا ہوں پس اس کے مخالف نے کہا کہ میں حکم خدا کو نہیں جانتا ہوں یا کہا کہ یہاں حکم نہیں چلتا ہے یا کہا کہ یہاں نہیں حکم ہے یا کہا کہ خدائے حاکمی و انشاید یا کہا کہ یہاں شیطان ہے کہ حکم کرتا ہے تو یہ سب کفر ہے۔ اور شیخ حاکم عبدالرحمن سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے کہا کہ برسم کارکم بحکم نے یعنی رسم پر کام کرتا ہوں حکم پر نہیں پس آیا یہ کفر ہے تو فرمایا کہ اگر اس کی مراد فساد حق و ترک شرع و اتباع رسم ہے نہ رد حکم تو تکفیر نہ کی جائے گی یہ محیط میں ہے۔ ایک نے اپنے کپڑے ایک مقام پر رکھے اور کہا کہ میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا پس دوسرے نے کہا کہ تو نے ان کو ایسے کے سپرد کیا جو چور کو منع نہیں کرتا ہے اگر چہ چرائے تو شیخ امام ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور وہ کافر (اگر کلمہ برا کہے) نہ ہو جائے گا۔ ایک نے کہا کہ اگر مادروغ می گویم خدا دروغ می گوید تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ ایک نے اپنی بیوی سے غصہ میں کہا کہ آن روپسی کہ ترا زادو آن بھی کہ ترا کشت و آن خدائے کہ ترا آفرید تو بعض نے فرمایا کہ کفر ہوگا۔ شیخ ابونصر و بوسی سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا پس انہوں نے چند روز اس میں غور و فکر کی اور کچھ جو اس نے دیا اور مولف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ کفر ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی شخص کی نسبت کہا کہ یہ شخص مریض نہیں ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بھولا ہوا ہے یا کہا کہ یہ اس چیز سے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے تو یہ بعض کے نزدیک کفر ہے اور یہی اصح ہے۔ اگر کہا کہ خدائے بازیاں تو بس نیاید من چگو نہ بس آیم تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اگر اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے نزدیک دوست حر ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ یہ خلاصہ میں ہے۔

قال المترجم وفيه نظر اور اگر کہا کہ فلاں کو قضائے بد پہنچی تو خطائے عظیم ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر کسی سے کہا کہ البتہ خدا تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے پس تو بھی لوگوں سے احسان کر جیسے خدا نے تیرے ساتھ کیا اس نے کہا کہ جا خدا سے لڑائی کر کہ تو نے اس کو یہ ثروت کیوں دی ہے تو اصح قول کے موافق اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ یہ خزانہ المقتنین میں ہے۔ دو مردوں کے درمیان خصومت ہے پس ایک نے ان میں سے کہا کہ جا اور سیڑھی لگا اور آسمان پر جا کر خدا سے لڑائی کر تو اکثر مشائخ نے کہا کہ یہ کفر نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ صاحب جامع اصغر نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک یہی صحیح ہے اور خانہ میں لکھا ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے یہ تاتار خانہ میں ہے۔ اگر کہا کہ شوبہا خدائے جنگ کن تو بعضوں نے کہا کہ یہ کفر ہوگا اور اسی طرح شیخ ابو بکر محمد بن الفضل نے میانان یا ہے اور شیخ امام نے فرمایا کہ احوط یہ ہے کہ نکاح کی تجدید کر لے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے واسطے مکان ثابت کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی چنانچہ اگر کہا کہ خدا سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے پس اگر اس قول سے یہ قصد کیا جو ظاہر اخبار میں وارد ہے اس کی حکایت ہے و تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر مراد مکان ثابت کرنا ہے تو تکفیر کی جائے گی اور اگر اس کی کچھ نیت نہ ہو تو اکثر کے نزدیک تکفیر کی جائے گی اور یہی اصح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اگر کہا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے واسطے بیٹھا ہے یا انصاف کے واسطے کھڑا ہوا ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو فوق و تحت سے موصوف کیا یہ بحر الرائق میں ہے۔ اگر کہا کہ میرا آسمان پر خدا ہے اور زمین پر فلاں تو اس کی تکفیر کی جائے گی یہ فتاویٰ

قاضی خان میں ہے۔

جس نے اللہ تعالیٰ کو منسوب بجور کیا مثلاً کہا کہ ظالم ہے تو وہ کفر کا مرتکب ہوا:

اگر کہا کہ خدا فرموی نگر داز آسمان یا کہا کہ می بیند یا کہا کہ از عرش تو یہ اکثر کے نزدیک کفر ہے الا آنکہ عربی میں کہے کہ یطلع تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کہا کہ خدائے از بر عرش می داند تو یہ کفر نہیں ہے۔ اگر کہا کہ از زیر عرش می داند تو یہ کفر ہے اور اگر کہا کہ اری اللہ تعالیٰ فی الجنة (دیکھتا ہوں میں خدا کو جنت میں) تو یہ کفر ہے اور اگر کہا کہ من الجنة تو یہ کفر نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔ شیخ ابو حفص نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو منسوب بجور کیا یعنی مثلاً کہا کہ ظالم ہے تو وہ البتہ کافر ہوا۔ یہ فصول عماد یہ میں ہے۔ ایک نے کہا کہ یا رب این ستم پسند یعنی اے پروردگار (اس پر ایسا سختی کرنا پسند نہ کر) یہ ظلم پسند نہ کر تو بعض نے فرمایا کہ تکفیر کیا جائے گا اور اسح یہ ہے کہ تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر کہا کہ خدائے عزوجل بر تو ستم کناد چنا کہ تو بر من ستم کردیتو اسح یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر کسی نے کہا کہ کاش اگر اللہ تعالیٰ نے دن قیامت کے انصاف کیا تو میں تجھ سے اپنی داد پاؤں گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اگر بجائے کاش اگر کے یوں کہا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے الی آخرتہ تو تکفیر نہ کی جائے گی۔ یہ ظہیر یہ میں ہے۔ اگر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز حق و انصاف سے فیصلہ کیا تو میں تجھے اپنے حق کے لئے ماخوذ کروں گا تو یہ کفر ہے یہ محیط میں ہے۔ شیخ سے دریافت کیا گیا کہ بولتے ہیں کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ نہ یہاں اللہ ہے اور نہ رسول تو فرمایا کہ اس محاورہ سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس جگہ حکم خدا و حکم رسول کے موافق کام نہیں کیا جاتا ہے پھر پوچھا گیا کہ اگر ایسی جگہ کے واسطے یہ کہا گیا جہاں کے لوگ زاہد متقی ہیں تو فرمایا کہ اگر وہاں بحکم خدا و رسول کا بند ہوتے ہیں تو اس نے ان کاموں کے دین ہونے سے انکار کیا مثل نماز ہائے پنجگانہ کے پس اس کی تکفیر کی جائے گی یہ تیمیہ میں ہے۔ اگر ظالم کے ظلم کرتے وقت کہا یا رب اس سے یہ ظلم پسند نہ کر اور اگر تو پسند کرے گا تو میں پسند نہ کروں گا۔ تو یہ کفر ہے گویا اس نے یوں کہا کہ اگر تو راضی ہو تو میں راضی نہ ہوں گا۔ یہ خلاصہ میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ اے خدا روزی مجھ پر کشادہ کر دے یا میری تجارت چلتی کر دے یا مجھ پر ظلم نہ کر تو شیخ ابو نصر دہوسی نے فرمایا کہ یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

کسی سے کہا اگر تو دونوں جہان کا خدا ہو جائے گا تو بھی تجھ سے اپنا حق لے لوں گا تو اسکی تکفیر کی جائے گی:

ایک نے دوسرے سے کہا کہ جھوٹ مت بول اس نے کہا کہ جھوٹ ہے کس واسطے۔ اسی واسطے کہ اس کو بولیں تو فی الحال کافر ہو جائے گا اور اگر کسی سے کہا گیا کہ رضائے خدا طلب کر اس نے کہا کہ مجھے نہیں چاہئے ہے یا کہا کہ اگر خدا مجھے بہشت میں کر دے تو اس کو غارت کر دوں گا یا کسی سے کہا گیا کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی مت کر کہ تجھے دوزخ میں ڈال دے گا پس اس نے کہا کہ میں دوزخ سے نہیں ڈرتا ہوں یا اس سے کہا گیا کہ بہت نہ کھایا کر خدا تجھے دوست نہ رکھے گا پس اس نے کہا کہ میں تو کھاؤں گا خواہ مجھے دوست رکھے یا دشمن تو ان سب سے تکفیر کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کہا گیا کہ بہت مت ہنس یا بہت مت سو یا بہت مت کھا پس اس نے کہا کہ اتنا کھاؤں گا اور اتنا سوؤں گا اور اتنا ہنسوں گا جتنا میرا جی چاہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ ایک شخص سے کہا گیا کہ گناہ مت کر کہ خدا کا عذاب سخت ہے پس اس نے کہا کہ میں عذاب کو ایک ہاتھ سے اٹھا لوں گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اگر اس سے کہا گیا کہ ماں و باپ کو آزار مت دے پس اس نے کہا کہ ان دونوں کا مجھ پر کچھ حق نہیں ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی لیکن گنہگار ہو

گا۔ ایک نے کہا کہ اے شیطان میرا کام کر دے تاکہ جو تو کہے کروں گا۔ ماں و باپ کو آزاد کروں گا اور جو کچھ تو نہ کہے گا نہ کروں گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی یہ تخیر سے تا تاریخانیہ میں منقول ہے۔ اگر کسی سے کہا کہ اگر تو دونوں جہان کا خدا ہو جائے گا تو بھی تجھ سے اپنا حق لے لوں گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی یہ خلاصہ میں ہے۔ ایک نے جھوٹ بات کہی جس کو کسی نے سن کر کہا کہ میرا خدا اس تیرے جھوٹ کو سچ کر دے یا کہا کہ میرا خدا تیرے اس دروغ میں برکت کرے تو بعض نے فرمایا کہ یہ قریب بہ کفر ہے اور مصباح میں لکھا ہے کہ ایک نے جھوٹ کہا پس دوسرے نے کہا کہ اللہ تیرے جھوٹ میں برکت دے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ شیخ نجم الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے کہا فلاں تیرے ساتھ سیدھا نہیں چلتا ہے پس اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ سیدھا نہ چلے تو شیخ نے فرمایا کہ اس کی تکفیر کی جائے گی۔ قال المترجم وفيه نظر اور تخيير میں لکھا ہے کہ میں نے صدر الاسلام جمال الدین سے دریافت کیا کہ ایک نے کہا کہ خدا تعالیٰ زر کو دوست رکھتا ہے کہ مجھے نہیں دیا ہے تو فرمایا کہ اگر اس کلام سے اس کا قصد یہ ہے کہ خدائے عزوجل کی طرف نسبت بخل کی کہ جو تکفیر کیا جائے مگر مجرد اس قول سے زر کو دوست رکھتا ہے تکفیر نہ کی جائے گی۔ یہ تا تاریخانیہ میں ہے۔

اگر کہا کہ انشاء اللہ تو یہ کام کرے گا پس اس نے کہا کہ میں بغیر انشاء اللہ تعالیٰ یہ کام کروں گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی یہ خزائن المفتین میں ہے۔ ظالم نے کسی پر ظلم کیا پس مظلوم نے کہا کہ یہ بتقدیر الہی ہے پس ظالم نے کہا کہ میں بغیر تقدیر الہی کرتا ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی یہ فصول عماد یہ میں ہے اور اگر کہا کہ اے خدا اپنی رحمت مجھ سے دریغ مت کر تو یہ الفاظ کفر میں سے ہے۔ یہ سراجیہ میں ہے۔ اگر بیوی و محصم کے درمیان جھگڑا طول کھینچا اور دیر تک باہم جھگڑے و سخت کلامی کے ساتھ باتیں رہیں پس مرد نے بیوی سے کہا کہ خدا سے ڈر اور اپنے آپ کو اس کی نافرمانی سے بچا۔ پس عورت نے اس کو جواب دی کہ میں نہیں اس سے ڈرتی تو شیخ ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ اگر شوہر نے اس کو معصیت ظاہرہ پر عتاب کر کے اس کو اللہ تعالیٰ سے خوف دلایا ہے پس اس نے یہ جواب دیا تو اس سے مرتدہ ہو جائے گی اور اپنے شوہر سے بائندہ ہو جائے گی اور اگر شوہر نے اس کو ایسے امر پر عتاب کیا ہے جس میں خدا کی طرف سے خوف کا مقام نہیں ہے تو وہ کافر نہ ہوگی لیکن اگر اس نے اپنے اس کلام سے استخفاف کیا ہے تو اپنے شوہر سے بائندہ ہو جائے گی ایک نے دوسرے کو مارنا چاہا پس اس سے اس بیچارہ نے کہا کہ آیا تو خدائے تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے اس نے کہا کہ نہیں تو امام محمد سے مروی ہے کہ ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا تھا پس جواب میں فرمایا کہ تکفیر نہ کیا جائے گا اس واسطے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ تقویٰ اسی میں ہے جو میں کرتا ہوں اور اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہو ادیکھا گیا پس دوسرے نے اس سے کہا کہ آیا تو خدا سے نہیں ڈرتا ہے پس اس نے کہا کہ نہیں تو کافر ہو جائے گا اس واسطے کہ اس کی تاویل ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے کہا گیا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا ہے پس اس نے حالت غصہ میں کہا کہ نہیں تو کافر ہو جائے گا۔ یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ تا امی شویم بدتر خدائے بامامیشو بدتر تا امی شویم نیکو تر خدائے بامامیشو دنیکو تر یعنی جتنا میں بدتر ہوتا جاتا ہوں خدا میرے ساتھ بدتر ہوتا جاتا ہے اور جتنا میں نیک تر ہوتا ہوں اتنا خدا میرے ساتھ نیک تر ہوتا ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی یہ خلاصہ میں ہے۔

اگر کسی نے کہا: از خدائے می بنینم و از تو یا کہا: از خدائے امید میدارم و تبو:

قال المترجم و هذا اصح اور عتابیہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی حکم خدا یا شریعت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کرے مثلاً کسی سے

کہا گیا کہ خدا تعالیٰ نے چار عورتیں حلال کر دی ہیں پس وہ کہے کہ میں اس حکم کو پسند نہیں کرتا ہوں تو یہ کفر ہے۔ یہ تاتار خانہ میں ہے۔ اگر عورت نے اپنے پسر سے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا پس پسر نے کہا کہ واللہ میں نے نہیں کیا پس اس عورت نے غصہ میں کہا کہ مرنومہ واللہ تو مشائخ نے اس عورت کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے یہ محیط میں ہے۔ جس نے کہا کہ خدائے عزوجل ہو اور کوئی چیز نہ ہو تو اس کی تکفیر کی جائے گی یہ ظہیر یہ میں ہے وفیہ نظر۔ اگر کسی نے کہا کہ خدائے عزوجل نے میرے حق میں سب نیکی کی ہے بدی میری طرف سے ہے تو اس نے کفر کیا یہ محیط میں ہے وفیہ نظر اور ایک شخص سے کہا گیا کہ باری بازن بس نیامدی بس اس نے کہا کہ خدائے بازنان بس نیامدن چگونہ بس آئم تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ یہ غیاثیہ میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ از خدائے می بینم و از ثویا کہا کہ از خدائے امید میدارم و تو تو اسی طرح کہنا قبیح ہے اور اگر یوں کہتا کہ از خدائے می بینم و سبب تر امید انم تو یہ اچھا ہے یہ خزائن المقتبین میں ہے۔ اگر نالاش میں اپنے خصم سے قسم طلب کی پس خصم نے شروع کیا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پس اس طالب نے کہا کہ میں اللہ کی قسم نہیں چاہتا ہوں بلکہ چاہتا ہوں کہ تو طلاق یا عتاق کی قسم کھاتا ہمارے بعض اصحاب کے نزدیک کافر ہو گیا اور عامہ مشائخ کے نزدیک کافر نہ ہوگا اور تجنیس ناصری میں لکھا ہے کہ یہی اصح ہے۔ اگر کسی سے کہا کہ سوگند تو ہمان ست و کیر خر ہمان یعنی ہر دو یکساں ہے۔ تو اس نے کفر کیا۔ اگر کسی سے کہا کہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں تجھ کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھتا ہوں تو مشائخ نے اس کے کفر میں اختلاف کیا ہے۔ قال المترجم اثبت اکثر کے نزدیک یہ ہے کہ اگر دروغ پر شاہد کیا یا دانا گردانا ہے تو کافر کہا جائے گا واللہ اعلم اور اگر بطریق مزاح کے کہا کہ من خدا ایم^۱ یعنی خود آیم تو اس نے کفر کیا یہ تاتار خانہ میں ہے۔ ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ ترا حق ہمسایہ نمی باید یعنی تجھے حق ہمسایہ نہیں چاہئے اس نے کہا کہ نہیں پس کہا کہ ترا حق شوے نمی (شوہر) باید اس نے کہا کہ نہیں پس کہا کہ ترا حق خدائی باید پس اس نے کہا کہ نہیں تو عورت مذکورہ نے کفر کیا۔ کسی شخص نے اپنی بیماری و ضیق عیش میں کہا کہ باری بدائی کہ خدا ایصالی مرا چرا آفریدہ اس چوں از لذتہائے دنیا مرا بیچ نیست یعنی مجھے معلوم ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے جبکہ دنیا کی لذتوں سے میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ لیکن ایسا کلام کرنا خطائے عظیم ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے گناہوں پر ضرور عذاب کرے گا پس اس نے کہا کہ خدائے رانساندہ کہ تا خدائے ہمہ آن کند کہ تو میگوئی یعنی تو نے خدا کو بٹھا دیا ہے تا کہ جو تو کہے وہی سب خدا کرے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ یہ محیط میں ہے۔

تخیر میں مذکور ہے کہ کسی نے کہا کہ خدائے چہ تو اند کرد چیزے دیگر نتواند بجز دوزخ یعنی خدا کیا کر سکتا ہے کچھ اور نہیں کر سکتا سوائے دوزخ کے تو اس نے کفر کیا اور اسی کے مثل یہ ہے کہ کسی نے ایک حیوان قبیح کو دیکھ کر کہا کہ پیش کار نما ندہ است خدائے کہ چنین آفریدہ یعنی اے خدا کوئی اور کام نہیں رہ گیا تھا کہ تو نے اس کو پیدا کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ ایک فقیر نے اپنی محتاجی کی تکلیف میں کہا کہ فلاں ہم بندہ است با چندے نعمت و من ہم بندہ رچنین رنج بارے اس چنین عدل باشد یعنی اے خدا فلاں بھی بندہ ہے کہ اس قدر نعمت کے ساتھ ہے اور میں بھی بندہ ہوں کہ اپنے رنج و مشقت میں گرفتار ہوں بھلا یہ بھی کچھ عدل ہے تو اس نے کفر کیا۔ کسی نے دوسرے سے کہا کہ خدا سے ڈر اس نے کہا کہ خدا کہاں ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کہا پیغمبر قبر میں نہیں

۱۔ جیسے بولتے ہیں کہ تو اپنی عورت سے نہ جتنا ۱۲۔ ۲۔ وہی تیری قسم ہے اور وہی گدھے کا عضو تناسل یعنی دونوں یکساں ہیں ۱۲۔ ۳۔ مترجم کہتا ہے کہ اگر اس نے اس طرح کہ کفر میں اور اس کے لفظ میں صریح التباس ہو تو اس پر کفر کا حکم دیا جائے گا اور اگر اس نے اس کے ساتھ اس کی توضیح بھی کی مثلاً یوں کہا کہ خدایم اور ظاہر کیا کہ اس سے میری مراد یہ ہے کہ خود آیم تو اس کے کفر میں تامل ہے واللہ اعلم ۱۲۔

ہے یا کہا کہ خدا کا علم قدیم نہیں ہے یا کہا کہ جو معدوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی یہ تا تاریخانیہ میں ہے۔ اگر عبد اللہ نامی کسی آدمی کو پکارنے میں لفظ اللہ کے آخر کاف تصغیر لاحق کیا پس اگر یہ پکارنے والا عالم ہو تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور خدا خالق کی تصغیر کی خویق کیا تو بھی اگر عالم ہے تو تکفیر نہ کی جائے گی یہ بحر الرائق میں ہے۔ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ خدا تیرے دل پر رحمت کرے میرے دل پر نہیں۔ پس اگر اس نے رحمت سے بے پروائی کا قصد کیا ہے تو کافر ہو اور اگر یہ قصد کیا کہ میرا دل اثبات الہی سے ثابت ہے اس میں کوئی اضطراب نہیں ہے تو تکفیر نہ کی جائے گی۔ ایک طفل اپنے باپ کو پکارتا ہے حالانکہ اس کا باپ نماز پڑھ رہا ہے پس ایک شخص نے اس طفل سے کہا کہ ٹھہر بے لوندے کہ تیرا باپ اللہ اللہ کرتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے اس لئے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدمت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ محیط میں ہے۔ ایک شخص نے کسی اندھے یا مریض کو دیکھ کر کہا کہ خدا نے تجھے دیکھا اور مجھے دیکھا اور تجھ کو ایسا پیدا کیا پھر میرا کیا گناہ ہے تو صحیح یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے گی یہ خلاصہ میں ہے۔ اگر کہا کہ بخدائے و بخاک پائے تو یعنی قسم خدا و قسم تیرے پاؤں کی خاک کی کہ میں ایسا نہ کروں گا تو یہ شخص کافر ہو اور فارسی زبان کے محاورہ کے موافق قسم بخدا و بخاک پائے تو کو لکھا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر کہا کہ بخدائے و بجان و سر تو یعنی قسم خدا کی و قسم تیری جان و سر کی تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ یہ ذخیرہ میں ہے۔

قال المترجم مگر اول سے بہت قریب ہے اگرچہ استخفاف صریح نہیں نکلتا ہے فافہم۔ اب ان الفاظ کفر کا بیان ہے جو متعلق بانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ واضح ہو کہ جس نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں سے بعض کا اقرار نہ کیا یا سنن مرسلین میں سے کسی سنت کو ناپسند کیا تو وہ کافر ہوا۔ اور شیخ بن مقاتل سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا تو شیخ نے فرمایا کہ جس بزرگ کے نبی ہونے کی تمام امت بالاتفاق قائل نہیں ہے اس کی نبوت سے انکار کرنے والا ایسا ضرر نہ پائے گا اور اگر یوں کہا کہ اگر فلاں نبی ہوتا تو میں اس پر ایمان نہ لاتا تو اس نے کفر کیا یہ محیط میں ہے۔ شیخ جعفر لے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے کہا کہ میں تمام انبیاء اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ آدم علیہ السلام نبی تھے یا نہ تھے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ یہ عتابیہ میں ہے۔ شیخ سے دریافت کیا گیا کہ جو شخص فواحش کی جانب مثل زنا کا قصد کرنے وغیرہ کی جانب انبیاء علیہم السلام کو منسوب کرتا ہے کہ جیسے حشو یہ فرقہ کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت جکتے ہیں تو فرمایا کہ ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی اس واسطے کہ ایسا قول ان حضرات علیہم السلام کی نسبت ان کے حق میں شتم ہے اور استخفاف ہے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ جو قائل ہے کہ ہر گناہ کفر ہے اور باوجودیکہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے گناہ کیا ہے تو وہ کافر ہے اس لئے کہ اس نے شتم کہا۔ اگر اس نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام نے عصیان نہیں کیا ہے نہ درحالت نبوت کے اور نہ قبل اس کے تو اس کی تکفیر کی جائے گی اس واسطے کہ یہ نصوص قرآنی کا رد ہے اور میں نے بعض مشائخ سے سنا کہ اگر کوئی شخص یہ نہ جانے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء یعنی خاتم النبیین ہیں کہ سب سے آخر میں ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تیمیہ میں ہے۔ قال المترجم بعض مشائخ کی قید بایں معنی ہے کہ سنا انہیں بعض سے ہے ورنہ بالاتفاق جو شخص اس کا قائل نہ ہو وہ کافر ہے اور جو نہ جانتا ہو اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے تو وہ ناقص ہے فافہم۔ شیخ ابو حفص کبیر نے فرمایا کہ جس کسی نے خواہ کوئی ہو اگر اپنے دل میں کسی نبی کا بغض رکھا تو وہ کافر ہے اور اسی طرح اگر یوں کہا کہ اگر فلاں نبی ہوتا تو میں اس کو پسند نہ کرتا اور اس سے راضی نہ ہوتا تو بھی کفر ہے۔ اگر کہا کہ فلاں پیغامبر ہوتا تو میں اس کی طرف نہ گردیدہ ہوتا پس اگر پیغامبر سے اس کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا تو

اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی جیسے اس کہنے میں کہ داگر خدائے تعالیٰ مجھے کسی کام کا حکم دیتا تو میں نہ کرتا تکفیر کی جاتی ہے۔
گر کسی نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آنحضرت ﷺ آدمی تھے یا جنی تو اس کی تکفیر کی جائے گی:

جامع صغیر میں مذکور ہے کہ اگر ایک شخص اور اس کے سر کے درمیان جھکڑا اور گفتگو پیش آئی پس داماد نے کہا کہ اگر رسول اللہ ﷺ بھی مجھے بشارت دیں گے تو میں تیرے حکم کی پابندی نہ کروں گا تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ اگر کسی نے کہا کہ جو انبیاء علیہم السلام نے فرمایا ہے اگر وہ راست و عدل ہو تو ہم نے نجات پائی تو یہ کافر ہوا۔ اسی طرح اگر کہا کہ انا رسول اللہ یا فارسی میں کہا کہ من پیغمبرم یا اردو میں کہا کہ میں پیغمبر ہوں اور مراد یہ ہے کہ میں پیغام لے جاتا ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اگر ایسا ہوا کہ جس وقت اس نے یہ کلام کیا ہے اس وقت ایک شخص دیگر نے اس سے معجزہ طلب کیا تو یہ دوسرا بھی بنا بر قول بعض کے تکفیر کیا جائے گا اور متاخرین مشائخ نے فرمایا کہ اگر دوسرے کی غرض معجزہ طلب کرنے سے اس کو عاجز و فضیحت کرنا ہے تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور اگر آنحضرت ﷺ کے موئے مبارک کو بلفظ تصغیر کہا مثلاً عربی میں شعر کہا تو بعضوں کے نزدیک تکفیر کیا جائے گا اور مطلقاً اور دوسروں کے نزدیک مطلقاً نہیں بلکہ جب اس کی نیت میں اہانت ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آنحضرت ﷺ آدمی تھے یا جنی تو اس کی تکفیر کی جائے گی یہ فصول عماد یہ میں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں پیغمبر است حق خویش از ولجنا نم یعنی اگر فلاں پیغمبر ہے تو بھی اس سے اپنا حق لے لوں گا تو یہ کفر نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اگر محمد درویشک بو حریا (محمد ﷺ حقیر درویش تھے) کہا کہ جامہ پیغمبر ریمناک بود (پیغمبر ﷺ کا کپڑا پیپ بھرا تھا) یا کہا کہ ان کے ناخن بڑے بڑے تھے تو بعض نے فرمایا کہ مطلقاً اس کی تکفیر کی جائے گی قال المتر جم موافق زبان اردو کے یہی اصح ہے اور بعض نے کہا کہ اگر اس نے بطریق اہانت کے کہا تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر آنحضرت ﷺ کی نسبت کہا کہ اس مرد نے ایسا ویسا کہا ہے تو بعض نے فرمایا کہ تکفیر کیا جائے گا قال المتر جم یہی اصح ہے ہمارے نزدیک واللہ اعلم اور اگر ایسے شخص کو بدزبانی سے یاد کیا جس کا نام محمد یا احمد یا اس کی کنیت ابو القاسم ہے چنانچہ اس کو کہا کہ اے چھنال کے بچے تو اور جو اور کہ خدا کا اس نام یا اس کنیت کا بندہ ہے تو بعض مقام پر ذکر فرمایا کہ اگر وہ آنحضرت ﷺ کو اس وقت یاد رکھتا تھا پھر بھی اس نے ایسا کہا تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ یہ محیط میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ ہر معصیت گناہ کبیرہ الامعاصی انبیاء علیہم السلام کہ ان کے معاصی سب صغیرہ ہیں تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر کہا کہ ہر عصیان جو عدا ہو وہ کبیرہ ہے اور اس کا کرنے والا فاسق ہے اور ساتھ اس کے یہ بھی کہا کہ انبیاء علیہم السلام کے معاصی عدا تھے تو اس نے کفر کیا اس واسطے کہ یہ شتم ہے اور اگر کہا کہ معاصی انبیاء علیہم السلام کے عدا نہ تھے تو یہ کفر نہ ہوگا یہ تیمیہ میں ہے اور رافضی اگر حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو گالی دیتا ہو یا مثل اس کے بدزبانی سے یاد کرتا ہو اور ان کو لعنت کرتا ہو نعوذ باللہ منہ تو وہ کافر ہے اور اگر فقط اتنی بات ہو کہ حضرت علی کرم اللہ کو حضرت ابوبکر پر فضیلت دیتا ہو تو وہ کافر نہ ہوگا بلکہ مبتدع ہے اور معتزلی مبتدع ہوتا ہے لیکن اگر اس نے دیدار الہی کا محال ہوتا کہا تو اب کافر ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تہمت زنا لگائی تو وہ کافر ہوا اور اگر آنحضرت ﷺ کی باقی بیویوں رضی اللہ عنہن کو ایسی تہمت لگائی نعوذ باللہ منہ تو کافر نہ کہا جائے گا لیکن مستحق لعنت ہوگا اور اگر کہا کہ عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اصحاب نہ تھے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی لیکن مستحق لعنت ہوگا

۱۔ احتمال ہے کہ ضمیر راجع ہو بجانب حضرت رسالت پناہ ﷺ یعنی ان کے حکم کی پابندی نہ کروں گا والا اول اظہر ۱۲۔ ۲۔ اس معنی پر کہ اس نے اس کی تصدیق کر کے اس سے معجزہ طلب کیا حالانکہ پیغمبری ختم ہو چکی ۱۲۔

یہ خزانۃ الفقہ میں ہے۔ جس نے امانت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے انکار کیا تو وہ بعض کے نزدیک کافر ہے اور بعض نے کہا کہ مبتدع ہے کافر نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ وہ کافر ہے اور اسی طرح جس نے خلافت عمر رضی اللہ عنہ سے انکار کیا وہ بھی اس قول کے موافق کافر ہے اگرچہ اس میں اقوال اختلافی کئی ہیں کذا فی الظہیر یہ اور جو لوگ حضرت عثمان و حضرت علی و طلحہ و زبیر و عائشہ رضی اللہ عنہم کی تکفیر کرتے ہیں ان کی تکفیر کرنا واجب ہے یعنی کافر کہنا واجب ہے۔ سب زیدیوں کو کافر کہنا واجب ہے ان کے اس اعتقاد پر کہ وہ عجم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے اس ناپاک اعتقاد کے موافق وہ ہمارے حضرت رسول اللہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک کو منسوخ کرے گا یہ جبیزہ کردری میں ہے اور و انفس کو کافر کہنا واجب ہے ان کے اس قول پر کہ مردے لوٹ کر دنیا میں آئیں گے اور ارواح میں تخاصم ہوتا ہے یعنی او اگوں ہوتا ہے اور اسد کی روح اماموں میں منتقل ہوئی اور اس قول پر کہ المہ اطہار میں سے ایک امام پوشیدہ ہو گئے ہیں وہ آخر میں نکلیں گے اور اس قول پر کہ شرعی امر و نہی جب تک امام موصوف نکلے معطل ہے اور اس قول پر کہ جبرائیل علیہ السلام نے غلطی سے وحی آئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اور ایسے سب لوگ ملت اسلام سے خارج ہیں اور ان کے احکام وہی ہیں جو مرتدوں کے احکام ہیں۔ یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ کاش اگر آدم گیہوں نہ کھاتے تو ہم لوگ شقی نہ ہوتے تو اس کی تکفیر کی جائے گی:

اکراہ الاصل میں مذکور ہے کہ اگر کسی پر اکراہ کیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شتم کرے پس اس نے کہا حالانکہ تو اس میں تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں کچھ نہیں گذرا میں نے محمد کا شتم کیا جسے اکراہ کرنے والوں نے مجھ سے چاہا تھا حالانکہ میں اس پر راضی نہیں ہوں تو ایسی صورت میں اس کی تکفیر نہ کی جائے گی جیسے کوئی شخص کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا پس اس نے کہا حالانکہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے تو وہ کافر نہ ہو اور دوم یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرے نیت اس وقت ایک نصرانی محمد نام تھا پس میں نے اس کو شتم کیا تو اس صورت میں بھی اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور وجہ سوم یہ کہ اُس نے کہا کہ میرے دل میں ایک شخص نصرانی محمد نام کا خیال آیا مگر میں نے اس کو شتم نہیں کیا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شتم کیا تو اس صورت میں وہ قضاء و دیانتاً تکفیر کیا جائے گا اور جس نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجنوں ہو گئے تھے تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور جس نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیہوشی طاری کی گئی تھی اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی یہ محیط میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ کاش اگر آدم گیہوں نہ کھاتے تو ہم لوگ شقی نہ ہوتے تو اس کی تکفیر کی جائے گی یہ خلاصہ میں ہے اور جس نے غیر متواتر کا انکار کیا تو وہ کافر ہوا یعنی جو حدیث یا جو امر شرعی اس طور پر روایت کیا گیا اور چلا آتا ہے کہ عقل میں نہیں آتا کہ غلطی و سہو یا دروغ ہو تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہے جیسے پنجگانہ نمازوں کی تعداد رکعات مثلاً جو شخص خبر مشہور کا انکار کرے بعض کے نزدیک اس کی بھی تکفیر کی جائے گی اور عیسیٰ بن ابان نے فرمایا کہ کہا جائے گا کہ گمراہ ہو گیا ہے اور تکفیر نہ کی جائے گی اور یہی صحیح ہے اور جس نے خبر واحد سے انکار کیا تو اس کے انکار کرنے والے کی تکفیر نہ کی جائے گی مگر ایسا شخص اس کے قبول نہ کرنے سے گنہگار ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی نبی کی نسبت یہ تمنا کی کہ کاش یہ نبی نہ ہوتا تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر یہ مراد ہے کہ اگر وہ مبعوث نہ ہوتا تو حکمت سے خارج نہ تھا تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر اس نے اس بزرگ نبی کی نسبت استخفاف و عداوت دل میں رکھی ہے تو کافر ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ قال المتزجم میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس روایت کے ٹھیک کیا معنی ہیں اور نہ اس کی وجہ معنی معلوم ہوتی ہے بالجملہ اگر کسی نبی کے لفظ سے عام مراد ہے یعنی ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی

۱۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر معتزلی دیدار الہی ممکن ہونے کا قائل نہیں ہے تو وہ مبتدع ہے اور اگر دیدار الہی محال ہونے کا قائل ہے تو کافر ہے ۱۲۔ ۲۔ جسی

حالات بدلتی رہتی ہے اور روح لوٹ لوٹ اسی جہاں میں دوسرے قابلوں میں رہتی ہے ۱۲۔ ۳۔ شتم گالی دینا اور برا کہنا ۱۲۔

شامل ہے تو میرا اعتقاد ہے کہ ایسا شخص کافر ہے اور عجب کہ اگر کوئی کہے کہ اگر خدا فلاں پیغمبر کو نہ بھیجتا تو خارج از حکمت نہ تھا تو علی الاختلاف اس کی تکفیر کی جائے گی کہ نسبت بعثت ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلك علو اکبیر افلیتامل فیہ۔ اگر کسی نے کہا کہ مجھے پیغمبر ﷺ مردک کہیں تو مواخذہ نہ چھوڑوں تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر کہا کہ میں بھی کہوں تو تکفیر کی جائے گی یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ اس چیز کو پسند کرتے تھے مثلاً کہا کہ کدوے (لوی) دراز کو پسند فرماتے تھے پس اس دوسرے نے کہا کہ میں اس کو نہیں پسند کرتا ہوں تو یہ کفر ہے۔ ایسا ہی امام ابو یوسف سے بھی مروی ہے اور بعضے متاخرین نے کہا کہ اگر اس نے یہ قول بطور ابانت کے کہا ہے تو کفر ہے اور بدون اس کے کفر نہیں ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کپڑا بنا ہے پس ہم سب جو لاہد کی اولاد ہوئے تو یہ کفر ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ آنحضرت ﷺ جب کھانا کھاتے تھے تو اپنی تین انگلیاں چاٹتے تھے (اس امر کی مراد یہ ہے کہ یہ فعل تہذیب کے خلاف ہے) پس دوسرے نے کہا کہ یہ بے ادبی ہے تو یہ کفر ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ دہقانوں کی کیا پاکیزہ رسم ہے کہ کھانا کھاتے ہیں اور ہاتھ نہیں دھوتے ہیں تو شیخ نے فرمایا کہ اگر یہ قول طریقہ مسنون کی ابانت کے طور پر کہا ہے تو کافر کہا جائے گا۔ اگر کسی نے کہا کہ یہ کیا رسم ہے کہ مونچھیں کتروا کر یا منڈوا کر پست کر دینا اور دستار زریگولانا پس اگر اس نے قول مذکور سنت رسول اللہ ﷺ میں طعن کرنے کے طور پر کہا ہے تو اس نے کفر کیا یہ محیط میں ہے۔ اگر عاشوراء کے روز کسی سے کہا کہ سرمہ لگا کر سرمہ لگانا اس روز سنت ہے اس نے کہا کہ عورتوں و مختوشوں کا کام ہے تو کافر ہو جائے گا اور تخیر میں لکھا ہے کہ ایک نے کوئی بات کہی پس دوسرے نے کہا کہ دروغ می گوید اگر ہمہ پیغمبر است یعنی جھوٹ کہتا ہے اگر بالکل پیغمبر ہے تو اس پر کفر لازم ہوگا اور اسی طرح اگر کہا کہ اس کی بات پر گرویدہ نہ ہوگا اگر بالکل پیغمبر ہے تو بھی یہی حکم ہے اور اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ گران خوی ست اگر ہمہ پیغمبر است یعنی بدخلق ہے اگر بالکل پیغمبر ہے یا کہ اگر رسل یا ہمہ فرشتہ مقرب است یا کہا کہ اگر مرسل ست یا ہمہ فرشتہ مقرب است گران جان ست تو فی الحال کافر ہوگا۔

ایک نے چاہا کہ اپنے غلام کو مارے پس دوسرے نے اس سے کہا کہ اس کو مت مار پس اس نے جواب دیا کہ اگر محمد مصطفیٰ ﷺ فرما دے کہ مت مار تو بھی نہ چھوڑوں گا یا کہا کہ اگر آسمان سے آواز دے کہ مت مار تو بھی ماروں گا تو اس پر کفر لازم ہو گا شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے صدر الاسلام جمال الدین سے دریافت کیا کہ اگر کسی نے احادیث نبی ﷺ میں سے کوئی حدیث پڑھی پس دوسرے نے اس سے کہا کہ ہمہ روز خلشہا خواند تو شیخ نے فرمایا کہ اگر کہنے والے نے اس کی اضافت پڑھنے والے کی طرف کی نہ نبی ﷺ کی طرف تو دیکھا جائے گا کہ اگر ایسی حدیث ہے جو متعلق بدین و احکام شرعی ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر ایسی حدیث ہے جو اس سے متعلق نہیں ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اس کی گفتگو اس امر پر محمول کی جائے گی کہ اس کی مراد یہ ہے کہ اس کے سوائے دوسری چیز کا پڑھنا اولیٰ ہے۔ قال المترجم ینبغی ان یضرب بالضرب الموضع۔ اگر کسی نے کہا کہ بحرمت جو ان عربی تو یعنی نبی ﷺ تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر کسی نے کہا کہ پیغمبر ﷺ ایک وقت پیغمبر تھے اور ایک وقت ایسا تھا کہ پیغمبر نہ تھے یا کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ نبی ﷺ قبر میں مؤمن ہیں یا کافر ہیں تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ غر المعانی میں مذکور ہے کہ ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ خلاف مت کہہ اس نے کہا کہ پیغمبران خلاف گھنڈہ یعنی پیغمبروں نے خلاف کہا ہے کہ ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ خلاف مت کہہ اس نے کہا کہ پیغمبران خلاف گھنڈہ یعنی پیغمبروں نے خلاف کہا ہے تو شیخ نے فرمایا کہ یہ کلمہ کفر ہے چاہیے

کہ عورت توبہ کرے اور نکاح کی تجدید کر کے یہ تارخانیہ میں ہے۔
 اگر کسی نے کہا میں فلاں کی گواہی کی سماعت نہ کروں گا اگرچہ جبرائیل علیہ السلام ہو تو اس کی
 تکفیر کی جائے گی:

اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے تیرا دیکھنا جیسے ملک الموت کا دیکھنا ہے تو یہ خطائے عظیم ہے اور اس کی تکفیر میں مشائخ
 کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس کی تکفیر کی جائے اور اکثروں نے فرمایا کہ نہیں تکفیر کی جائے گی یہ محیط میں ہے اور خانیہ میں لکھا
 ہے کہ بعض نے فرمایا کہ اگر اس نے یہ قول بسبب عداوت ملک الموت کے کہا ہے تو کافر ہو جائے گا اور اگر اس نے یہ لفظ بسبب
 کراہت موت کے کہا ہے تو کافر نہ ہو جائے گا اور اگر کہا کہ روئے فلاں دشمن میدارم چون روئے ملک الموت تو اکثر مشائخ کے
 نزدیک اس کی تکفیر کی جائے گی اور تخیر میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں فلاں کی گواہی کی سماعت نہ کروں گا اگرچہ جبرائیل و
 میکائیل ہو تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر کسی نے فرشتوں میں سے کسی کو عیب لگایا تو تکفیر کی جائے گی۔ ایک نے کہا کہ مجھے ہزار
 درہم دے تاکہ میں ملک الموت کو بھیجوں کہ وہ روح فلاں کو رفع کرے تاکہ اس کو قتل کرے پس آیا ایسے قائل کی تکفیر کی جائے گی یا
 نہیں تو شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شیخ ابو ذر رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ استخفاف کرنا ہے۔ ایک نے دوسرے سے
 کہا کہ میں تیرا فرشتہ ہوں فلاں مقام میں تیرے کام میں مدد کروں گا تو بعض نے فرمایا کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اسی طرح اگر
 مطلقاً کہا کہ میں فرشتہ ہوں تو بھی یہی حکم ہے بخلاف اس کے اگر کہا کہ میں بنی ہوں یا تیرا بنی ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی یہ
 تارخانیہ میں ہے۔

ایک نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اگر گواہ حاضر نہ ہوئے پس اس نے کہا کہ خدا اور رسول کو میں نے گواہ کیا یا کہا کہ
 خدا و فرشتوں کو گواہ کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر اس نے کہا کہ دائیں ہاتھ کے فرشتہ اور بائیں طرف کے فرشتہ کو گواہ کیا تو
 تکفیر (اگرچہ نکاح درست ہے) نہ کی جائے گی یہ فصول عماد یہ میں ہے۔ اب ان الفاظ کا بیان ہے جو متعلق بہ قرآن ہیں۔ جو شخص قرآن
 کے مخلوق ہونے کا قائل ہے وہ کافر ہے یہ فصول عماد یہ میں ہے اور جس نے آیت قرآن میں سے کسی آیت کا انکار کیا یا اس سے تمسخر
 کیا اور خزانہ میں لکھا ہے کہ یا عیب لگایا تو کافر ہو یا تارخانیہ میں ہے۔ اگر ﴿قل اعوذ برب الفلق﴾ اور ﴿قل اعوذ برب
 الناس﴾ کے قرآن کا جزو ہونے سے انکار کیا تو اس کی تکفیر نہ کیا جائے گی اور بعض متاخرین نے فرمایا کہ تکفیر کی جائے گی کیونکہ بعد
 صدر اول کے اس امر پر اجماع ہو گیا ہے کہ یہ دونوں سورتیں قرآن میں نے ہیں اور صحیح وہی قول اول ہے اس واسطے کہ اجماع
 متاخر اختلاف متقدم کو رفع نہیں کرتا ہے یہ ظہیر یہ میں ہے۔ اگر دف بجانے پر یا بانسری بجانے پر قرآن کو پڑھا تو ان سے کفر کیا۔
 ایک نے قرآن پڑھا پس کسی نے کہا کہ اچھے مانگ طوفان است (یہ کیا آواز طوفان ہے) تو یہ کفر ہے یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ قرآن تو
 نے بہت پڑھا مگر ہم سے جنایت کو دور نہ کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی یہ خلاصہ میں ہے۔

اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ قل هو اللہ احد اہوست باز کردی یعنی تو نے قل هو اللہ احد کی کھال کھینچ دی یا کہا
 کہ الم نشرح اگر بیان گرفتہ یعنی الم نشرح کا تو نے گریبان پکڑا ہے یا جو شخص مریض کے پاس یسن پڑھتا تھا اس سے کہا کہ
 یسن مردہ کے منہ میں مت رکھ یا کسی سے کہا کہ اسی کوتاہ ترا زنا اعطیناک یعنی ادانا اعطیناک سے بھی زیادہ کوتاہ یا جو شخص قرآن

پڑھتا تھا اور کوئی کلمہ اس کو یاد نہیں آتا تھا اس سے کہا کہ والتفت الساق بالساق یا کسی کے پاس قدم بھر کے لایا اور کہا کہ کا سا و با قایا کسی سے بطریق مزاج کے کہا کہ فکانت سرابا یا ناپ وقول کے وقت بطریق مزاج کے کہا کہ وازاکالو اووزنوہم یخسرون یا کسی سے کہا کہ تو نے الم نشرح کی پگڑی باندھی ہے اور اس کی مراد یہ ہے کہ تو نے علم کو ظاہر کیا ہے یا کسی موضع کے لوگوں کو جمع (یعنی کسی جگہ کے) کیا اور کہا فجمعنا ہم جمعاً یا کہا وحشرنا ہم فلم نغادر منهم احد یا کسی سے کہا کہ تو و افازعات نزاعاً کیوں کر پڑھتا ہے لوں کے پیش سے یا زیر سے اور اس کی مراد طنز ہے یا کسی شخص نے کہا کہ اقراء اشتمک قال اللہ تعالیٰ کلابل دان یعنی تو پڑھ تا کہ میں تجھے بدگوئی کروں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلابل دان تو یہ بھی سخت گستاخی و کفر ہے یا کسی نے دوسرے کو جماعت سے نماز ادا کرنے میں بلایا یا اس نے کہا کہ میں تنہا نماز پڑھتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلوٰۃ تنہی یا کسی دوسرے سے کہا کہ تفسیلہ بحوزفان التفشیل مذہب بالریح قال اللہ تعالیٰ ولاتنارعو افتفشلو انو مذہب ریحکم یعنی تفسیلہ جائز ہے کیونکہ وہ بائی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولاتنارعو افتفشلو او مذہب^۱ رکھتم تو ان سب صورتوں میں اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر دوسرے سے کہا کہ گھر تو نے ایسا پاک کیا ہے جیسے والسماء والطارق تو بعض نے فرمایا تکفیر کیا جائے گا اور شیخ ابو بکر بن اسحاق نے فرمایا کہ اگر کہنے والا جاہل ہو تو تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر عالم ہو تو تکفیر کی جائے گی اور اگر کہا کہ قا عاصفصفا شدہ است تو اس میں خطر عظیم ہے یعنی شاید تکفیر تک پہنچنے اور اس طرح اگر ہانڈی کی کھر چن یا بقیہ کی نسبت کہا کہ والباقیات الصالحات تو اس میں بھی خطر عظیم ہے اور اگر کہا کہ قرآن انجمنی ہے تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر کہا کہ قرآن میں کلمہ عجیبی ہے تو اس کے حق میں تامل ہے ایسا ہی شیخ ابو القاسم مفسر نے ذکر کیا ہے یہ فضول عمادیہ میں ہے۔

اگر کسی نے قرآن کو فارسی میں نغلم کیا تو قتل کیا جائے گا اس واسطے کہ وہ کافر ہے:

خزانۃ الفقہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی سے کہا گیا کہ تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا ہے اس نے کہا کہ قرآن سے میں بیزار ہو تو تکفیر کیا جائے گا اور رسالہ صدر الصدور رسالہ قاضی انقضاۃ کمال الدین میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف سے کوئی سورہ یاد رکھتا ہے اور وہی سورہ بہت پڑھتا ہے پس دوسرا کہے کہ این سورہ راز بون گرفتہ یعنی اس سورہ کو تو نے کمزور دیا پایا ہے تو کافر ہو جائے گا اور تخیر میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے قرآن کو فارسی میں نغلم کیا تو قتل کیا جائے گا اس واسطے کہ وہ کافر ہے یہ تا تاریخانیہ میں ہے۔ اب ان الفاظ کفر کا بیان ہے جو نماز وہ روزہ و زکوہ سے متعلق ہیں۔ کسی نے ایک بیمار سے کہا کہ نماز پڑھ لے اس نے جواب دیا کہ کبھی نہیں پڑھوں گا پھر اس نے نہ پڑھی یہاں تک کہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ وہ کافر مرا ہے اور اگر کسی نے کہا میں نہیں پڑھوں گا تو اس میں احتمال چار صورتوں کا ہے اول یہ کہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں پڑھ چکا ہوں دوم یہ کہ تیرے حکم سے نہیں پڑھوں گا کیونکہ ایسے بزرگ نے حکم کیا ہے جو تجھ سے بہتر ہے سوئم یہ کہ نہیں پڑھوں گا ازراہ فسق و مجانت (دلیری و بیباکی اور نڈر پن) کے تو یہ تینوں صورتیں کفر نہیں ہیں اور چہارم یہ کہ نہیں پڑھوں گا اس واسطے کہ نماز مجھ پر نہیں واجب ہے اور میں اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی پس اگر کسی نے اسی قدر کہا کہ نہیں پڑھوں گا تو اس سے اس کی تکفیر نہیں کی جاسکتی ہے اس واسطے کہ اس میں انہیں چاروں کا احتمال ہے اور اگر کسی سے کہا گیا کہ نماز پڑھ پس اس نے کہا کہ بھڑوا ہو جو نماز پڑھے اور اپنے اوپر مفت کام بڑھائے یا یوں کہا کہ مدت ہوئی جب سے میں نے بیگا نہیں کی ہے یا کہا کہ یہ کام کون آخر تک پورا کر سکتا ہے یا کہا کہ عقلمند کو ایسے کام میں نہ پڑنا چاہیے جس کو آخر تک نباہ نہ سکے یا کہا کہ اور لوگ میرے واسطے کر لیتے ہیں یا کہا کہ نماز پڑھتا ہوں تو کچھ سرفرازی مجھے نہیں مل جاتی

ہے یا کہا کہ تو نے نماز پڑھی تو کیا سرفرازی پائی یا کہا کہ نماز کس کی پڑھوں میرے ماں و باپ تو مر چکے ہیں یا کہا کہ نماز پڑھی نہ پڑھی دونوں یکساں ہیں یا کہا کہ اتنی نماز پڑھی کہ میرا دل کہا گیا یا کہا کہ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ رہے گی تو سڑ جائے گی تو یہ سب کفر ہے یہ خزانۃ المفتیین میں ہے۔

ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس حاجت کے واسطے آؤ نماز پڑھیں پس اس نے کہا کہ میں نے بہت نماز پڑھی میری کوئی حاجت نہیں برآئی اور یہ بطور استخفاف و ظن کے کہا تو کافر ہو جائے گا یہ تاتار خانہ میں ہے۔ اگر نمازیوں سے ایک فاسق نے کہا کہ آؤ اور مسلمانی دیکھو اور اپنی مجلس فسق و فجور کی طرف اشارہ کیا تو کافر ہو جائے گا۔ اگر کہا کہ بے نمازی کیا اچھا کام ہے تو یہ کفر ہے۔ اگر کسی شخص سے کہا کہ نماز پڑھتا اطاعت کا مزہ تجھ کو حاصل ہو یا فارسی میں کہا کہ نماز کن تاحلاوت نماز کردن بیانی پس اس شخص نے کہا کہ تو نماز نہ پڑھتا بے نمازی کا مزہ تجھ کو حاصل ہو تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر کسی غلام سے کہا گیا کہ تو نماز پڑھ اس نے کہا کہ نہیں پڑھوں گا اس واسطے کہ تو اب میرے مولیٰ کا ہوگا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر کسی شخص سے کہا گیا کہ نماز پڑھ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں نقصان کر دیا ہے پس میں اس کے حق میں نقصان کروں گا تو یہ کفر ہے ایک شخص فقط رمضان بھر پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی بہت ہے یا کہتا ہے کہ اسی قدر بڑھ جاتی ہے اس واسطے کہ رمضان کی ہر نماز مساوی ستر نمازوں کے ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اگر کسی نے عمد قبلہ رخ کے سوائے دوسرے رخ ہو کر نماز پڑھی مگر اتفاقاً یہی رخ قبلہ کا نکلا تو امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ کافر ہے اور اسی کو فقیہ ابواللیث نے اختیار کیا ہے اور اس طرح اگر بغیر طہارت کے پڑھی یا نجس کپڑے سے پڑھی تو بھی یہی حکم ہے اور اگر عمد بغیر وضو پڑھی تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔

صدر الشہید نے فرمایا کہ ہم اسی کو لیتے ہیں اور کتاب التحری میں مذکور ہے کہ اگر کسی نے قبلہ رخ کے واسطے اپنا ولی قصد کیا پس اس کی تحری کسی جانب پر واقع ہوئی کہ یہ رخ ہے پھر اس نے اس جہت کو چھوڑ کر دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو امام اعظم سے مروی ہے کہ میں ایسے شخص کے حق میں کفر کا خوف کرتا ہوں کہ اس نے قبلہ سے روگردانی کی ہے اور مشائخ نے اس کے کفر میں اختلاف کیا ہے اور شمس الائمہ حلوانی نے فرمایا کہ اظہر یہ ہے کہ اگر اس نے قبلہ رخ کے سوائے دوسری طرف بطور استہزاء و استخفاف کے نماز پڑھی تو کافر ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص ایسی صورت میں کسی وجہ سے مبتلا ہو گیا مثلاً چند لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور درمیان میں اس کو حدث ہو گیا یعنی بانی نکل گئی یا قطرہ آ گیا اور ظاہر کرنے سے اس کو شرم مانع ہوئی پس اس نے چھپایا اور اس طرح نماز پڑھ لی یا دشمن کے نزدیک تھا پس کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھی حالانکہ اس کو طہارت نہ تھی تو ہماری بعض مشائخ نے کہا کہ کافر نہ ہو جائے گا اس واسطے کہ اس نے بطور استہزاء ایسا نہیں کیا ہے لیکن جو شخص بسبب ضرورت یا حیاء کے اس میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ قیام سے قیام نماز کا قصد نہ کرے اور قرأت میں کچھ نہ پڑھے اور جب جھکے تو رکوع کا قصد نہ کرے اور رکوع کی تسبیح نہ پڑھے تا کہ بالا جماع کسی کے نزدیک کافر نہ ہوئے اور اگر نجس کپڑے پر نماز پڑھی تو بعض نے فرمایا کہ کافر نہ ہو جائے اور اگر کسی طفل کا مقتدی بنا یعنی کسی طفل کے پیچھے نماز پڑھی یا کسی مجنون یا عورت یا اجنبی یا جس کو حدث ہوا ہے اور اس نے طہارت نہیں کی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھی یا وقتیہ نماز پڑھی حالانکہ اس پر فائتہ یعنی قضا نماز کا ادا کرنا واجب ہے اور وہ اس کو یاد بھی ہے تو بالاتفاق ایسا شخص کافر نہ ہو جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ نملذ فریضہ ہے مگر اس کا رکوع و سجود نہیں تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اس واسطے کہ وہ تاویل کرتا ہے اور اگر اس نے مطلقاً فرضیت رکوع و سجود سے انکار کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی حتیٰ کہ اگر اسے دوسرے سجدہ کی فرضیت سے بھی انکار کیا تو بھی اس کی تکفیر کی جائے گی اس واسطے کہ وہ اجماع و تواتر کو رد کرتا ہے اور اگر کسی نے کہا کہ اگر کعبہ قبلہ نہ ہوتا اور بیت المقدس قبلہ ہوتا تو میں نماز کعبہ کی جانب پڑھتا اور بیت المقدس کی جانب نہ پڑھتا یا جیسی صورت بختمیں ملقط میں مذکور ہے ویسے کہے کہ اگر فلاں شخص قبلہ ہو جائے تو میں اس کی طرف منہ نہ کروں یا کہا کہ اگر فلاں جانب قبلہ ہو جائے تو میں اس کی طرف منہ نہ کروں یا جیسی صورت تخییر میں مذکور ہے ویسے کہا کہ قبلہ نماز دو ہیں ایک کعبہ و دوسرا بیت المقدس تو کہنے والے کی تکفیر کی جائے گی یہ نیا بیج میں ہے۔ شیخ ابراہیم بن یوسف نے فرمایا کہ اگر کسی نے ریاء سے یعنی لوگوں کے دکھلانے کو نماز پڑھی تو اس کے واسطے کچھ ثواب نہیں ہے بلکہ اس پر عذاب ہے اور بعضوں نے فرمایا کہ اس کی تکفیر کی جائے گی اور معضون نے کہا کہ نہ اس پر عذاب ہے اور نہ اس کو کچھ ثواب ہے اور وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے نہیں نماز پڑھی اور مصباح الدین میں مذکور ہے کہ شیخ ابو حفص کبیر سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص مشرکوں کے پاس آیا حالانکہ وہاں اس نے ایک یا دو نمازیں ترک کر دیں پس اگر تعظیم سے ترک کر دیں تو کافر ہوگا اور اس پر اس نماز کی قضا واجب نہ ہوگی اور اگر اس نے یہ امر بطور فسق کے کیا ہے تو تکفیر نہ کیا جائے گا بلکہ فاسق کبیر ہے اور جو نماز ترک کی ہے اس کو قضا کرے۔

ایک مؤذن نے اذان دی پس اس وقت اس سے ایک نے کہا کہ تو نے جھوٹ کہا تو کافر ہوگا:

تیمیہ میں مذکور ہے کہ شیخ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص مسلمان ہو حالانکہ وہ دارالاسلام میں ہے پھر ایک مہینہ کے بعد اس سے نماز ہائے پنجگانہ کو دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ وہ مجھ پر فرض ہوئی ہیں تو فرمایا کہ کہا جائے گا کہ ہنوز وہ کافر ہے الا آنکہ وہ نو مسلموں میں کم مدت کا مسلمان ہوئے یہ تاتار خانہ میں ہے۔ ایک مؤذن نے اذان دی پس اس وقت اس سے ایک نے کہا کہ تو نے جھوٹ کہا تو کافر ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور تخییر میں ہے کہ کسی مؤذن نے اذان دی پس ایک شخص نے کہا کہ یہ آواز غوغا ہے تو تکفیر کیا جائے بشرطیکہ اس نے بطریق انکار کے کہا ہوئے اور فصول میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اذان سن کر کہا کہ یہ جس کی آواز ہے تو تکفیر کیا جائے گا یہ تاتار خانہ میں ہے۔ کسی شخص سے کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کر پس اس نے کہا کہ میں نہیں ادا کروں گا تو تکفیر کیا جائے گا مگر بعض نے کہا کہ مطلقاً اور بعض نے کہا کہ اموال باطنہ جن کی زکوٰۃ وہ خود پوشیدہ ادا کرتا ہے ان میں نہیں تکفیر کیا جائے گا اور اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ کہ جن کو سلطان یا والی وصول کرتا ہے ان میں ایسا کلمہ کہنے سے تکفیر کیا جائے گا اور چاہیے کہ زکوٰۃ کی صورت بھی اسی تفصیل سے ہو جو نماز میں گذری ہے یہ فصول عمادہ میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ کاش رمضان کے روزے فرض نہ ہوتے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور صحیح وہی ہے جو شیخ ابو بکر محمد بن الفضل سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ اسکی منت پر ہے چنانچہ اگر اس کی نیت یہ تھی کہ اس نے ایسا لفظ اس وجہ سے کہا کہ وہ حقوق رمضان ادا نہیں کر سکتا ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر ماہ رمضان آنے کے وقت اس نے کہا کہ آمدان ماہ گران یعنی وہ بھاری مہینہ آیا یا کہا کہ آمدان ضیف تفصیل یعنی وہ مہمان آیا ہے جو خاطر پر گراں ہو جاتا ہے تو تکفیر کیا جائے گا۔ اگر ماہ رجب آنے کے وقت اس نے کہا کہ بظہا اندر افتادیم یعنی میں عذابوں میں پڑ گیا پس اگر اس نے فضیلت دیے ہونے مہینوں کی اہانت کے واسطے ایسا کہا تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر اس نے اپنے نفس کی مشقت کے خیال سے ایسا کہا تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور چاہیے کہ مسئلہ اولیٰ میں بھی جواب اسی تفصیل سے ہوئے اور اگر کسی نے کہا کہ روزہ ماہ رمضان زد دیگر آمد تو بعض نے کہا کہ تکفیر کیا جائے گا اور حاکم عبد الرحمن نے فرمایا کہ تکفیر نہیں کیا جائے گا اور اگر کہا

کہ ایسے روزے کب تک کہ میرا دل اکتا گیا تو یہ کفر ہے اور اگر کہا کہ ایسی طاعات اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب کر دی ہیں پس اگر اس نے اس کی تاویل کی تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ کاش اگر اللہ تعالیٰ ایسی طاعات کو ہم پر فرض نہ فرماتا تو ہمارے واسطے بہتر ہوتا پس اگر اس نے اس کی تاویل کی تو تکفیر نہ کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر کہا کہ نماز مجھے موافق نہیں آتی ہے یعنی راست نہیں آتی ہے یا حلال نہیں کرتی ہے یا نماز کے واسطے پڑھوں کہ بیوی نہیں رکھتا و بچہ نہیں رکھتا ہوں یا کہا کہ نماز گو میں نے طاق پر رکھ دیا ہے تو ان سب صورتوں میں تکفیر کیا جائے گا یہ خزانہ المفتیین میں ہے۔ اب ان الفاظ کفر کا بیان ہے جو علم و عالموں سے متعلق ہیں نصاب میں مذکور ہے جو کسی عالم سے بغیر کسی سبب ظاہر کے بعض رکھے تو اس پر کفر کا خوف ہے اور اگر کسی شخص مصلح کے حق میں کہا کہ اس کا دیکھنا میرے نزدیک ایسا ہے جیسے سور کا دیکھنا تو اس پر کفر کا خوف ہے یہ خلاصہ میں ہے اور اگر بغیر سبب کسی عالم یا فقیہ تم کیا یعنی بدگوئی سے یاد کیا تو اس پر کفر کا خوف ہے اور اگر کسی عالم سے کہا کہ تیرے علم کی دم میں گدھے کا خالیہ مال بجائے دم کے کون و مقعد وغیرہ الفاظ فحش استعمال کیے اور علم سے علم دین مراد لی تو اس کی تکفیر کی جائے گی یہ بحر الرائق میں ہے۔ کسی جاہل نے کہا کہ جو لوگ علم سیکھتے ہیں وہ داستانیں ہیں کہ ان کو سیکھ لیتے ہیں یا کہا کہ بادست انچہ میگویند یعنی جو کچھ کہتے ہیں بیہودہ ہے یا کہا تر ویرست یعنی فریب دہی ہے یا کہا کہ میں علم حیلہ سے منکر ہوں تو سب کفر ہے یہ محیط میں ہے۔ ایک شخص ایک اونچی جگہ بیٹھ جاتا ہے و دیگر جگہ والے اس سے بطور استہزا ہٹھول کے مسئلہ پوچھتے ہیں پھر اس کو تکیوں سے مارتے ہیں اور یہ سب ہنتے ہیں تو یہ سب کافر کہے جائیں گے اور اس طرح اگر وہ مقام بلند پر نہ بیٹھا اور یہ صورت واقع ہوئی تو بھی یہی حکم ہے۔ ایک شخص مجلس علم سے آتا تھا اس سے کسی نے کہا کہ توبت خانہ سے آتا ہے تو تکفیر کیا جائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ مجھے مجلس علم سے کیا کام ہے یا کہا کہ جو کچھ وہ لوگ کہتے ہیں اس کو کون ادا کر سکتا ہے تو تکفیر کیا جائے گا یہ خلاصہ میں ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ عالموں کے افعال ایسے ہیں جیسے کافروں کے افعال تو اس کی تکفیر کی جائے گی:

اگر کہا کہ علم کو کاسہ و کیسہ میں نہیں رکھ سکتے ہیں یعنی پیالہ طعام و کیسہ زرین رکھنے کے قابل نہیں ہے حالانکہ غرض انہیں دونوں سے ہے یا کہا کہ مجھے جیب میں روپیہ چاہیے ہے میں علم کو کیا کروں تو تکفیر کیا جائے گا یہ عتابیہ میں ہے۔ اگر کہا کہ مجھے اپنی بیوی و بچوں میں ایسی مشغولی ہے کہ مجلس علم میں نہیں پہنچتا ہوں پس اگر اس نے اس کلام سے علم کی اہانت کا قصد کیا تو مخاطبہ عظیم ہے اور مجموع النوازل میں مذکور ہے کہ اگر کسی عالم سے کہا جا اور علم کو پیالہ میں رکھ کر اپنے کھانے میں لا تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر فقیہ علم کی کوئی بات یا کوئی حدیث صحیح بیان کرتا ہو پس دوسرے نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے اور اس کو رد کر دیا یا کہا کہ یہ بات کس کام آئے گی روپیہ چاہیے کہ آج کل لوگوں کی آبرو ہی علم کسی کے کام آتا ہے تو یہ کفر ہے اور اگر کسی نے کہا کہ رند بنتا و خلاف شرع کرنا عالم بننے سے اچھا ہے تو یہ کفر ہے اگر کسی عورت نے اپنے خاوند عالم کی نسبت کہا کہ ات شہر عالم پر ہو تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اگر کسی نے کہا کہ عالموں کے افعال جیسے کافروں کے افعال تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور یہ اس وقت ہے کہ اس نے تمام افعال مراد لیے ہوں کہ اس صورت میں اس کے قول سے حق و باطل میں مساوات ہو جائے گی اور یہ کفر ہے۔ اگر کسی عالم سے کسی واقعہ میں جھگڑا کیا اور عالم نے اس کو کوئی وجہ شرعی بتلائی پس اس نے کہا کہ یہ دانش مندی یعنی عالم پنا نہ کرو کہ پیش نہیں جائے گا تو اس پر کفر کا خوف ہے۔ اگر کسی فقیہ سے کہا کہ امی دانش مندک! یا کہا کہ امی علویک تو تکفیر نہ کی جائے گی بشرطیکہ اس کا قصد استخفاف دین نہ ہو۔ حکایت کی گئی ہے کہ ایک فقیہ نے اپنی کتاب ایک شخص کی دکان میں رکھ دی اور چلا گیا پھر اس دکان کی طرف سے گذرا پس دکاندار مذکور

نے اس سے کہا کہ دسترہ فراموش کر دی یعنی دسترہ اپنا بھول گئے پس فقیہ نے کہا کہ میری کتاب تمہاری دوکان میں ہے دسترہ تو نہیں ہے پس دوکاندار مذکور نے کہا کہ بڑھئی دسترہ سے لکڑی کاٹا ہے اور تم کتاب سے لوگوں کی گردن کاٹتے ہو پس فقیہ موصوف نے اس امر کی شکایت بجزو شیخ محمد بن الفضل پیش کی پس شیخ موصوف نے اس دوکاندار کے قتل کا حکم دیا ہو یہ محیط میں ہے۔

شیخ عبدالکریم^۱ و شیخ ابوعلی سعدی^۲ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر خفا ہوا کرتا تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کو کہا کرتا تھا اور خدائے تعالیٰ کی معصیت سے منع کیا کرتا تھا پس عورت نے اس سے کہا کہ میں خدا کو کچھ نہیں جانتی اور علم کو کچھ نہیں سمجھتی میں نے اپنے تین دوزخ میں رکھ دیا ہے پس ہر دو شیخ نے فرمایا کہ اس عورت نے کفر کیا یہ فصول عماد یہ میں ہے۔ ایک شخص سے کہا گیا کہ طالب علم لوگ فرشتوں کے پروں پر چلتے ہیں پس اس نے کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے تو تکفیر کیا جائے گا قال المتر جم ظاہر یہ محمول اس صورت پر ہے کہ قائل مذکور جو بعض احادیث مرویہ میں ہے اور وہی کہ فرشتے طالب علم دین کے واسطے بازو بچھاتے ہیں چکا ہو اور نیز اس نے علم دین کے طالب علوں کے واسطے ایسا کہا ورنہ اگر طالب علم فضول مثل منطق و فلسفہ وغیرہ سیکھتا پھرتا ہے تو تکفیر نہیں کی جائے گی یا قائل مذکور اس خبر سے واقف نہ تھا پس اس نے اس طرح کہا تو امید ہے کہ وہ لائق تکفیر نہ ہوگا واللہ اعلم۔ اگر کسی نے کہا کہ قیاس امام اعظم کا حق نہیں ہے تو تکفیر کیا جائے گا یہ تا تاریخانیہ میں ہے قال المتر جم ظاہر اس نے مطلقاً قیاس کی نسبت کہا تو خلیجان سے خالی نہیں ہے ورنہ تامل ہے واللہ اعلم۔ اگر کسی نے کہا کہ ایک پیالہ پلاؤ کا اللہ سے بہتر ہے تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر کہا کہ ایک پیالہ پلاؤ کا اللہ سے بہتر ہے تو تکفیر نہ کیا جائے گا یہ فصول عماد یہ میں ہے۔ قال المتر جم۔ ظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے بہتر کہنے کی صورت میں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک پیالہ پلاؤ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر و نعمت ہے بخلاف وجہ اول کے کہ اس میں یہ احتمال نہیں ہو سکتا اور نہ معنی اولیٰ کی وجہ وجہ یہ بخلاف صورت دوم کے کہ نظر بخیر و گمان نیک بہ مستبعد رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی بہ نسبت بہتر تصور کرے کیونکہ کوئی احمق بھی ایسا نہیں سمجھ سکتا ہے اور نیز مشائخ متاخرین نے اس کے معنی میں اور وجہ میں بیان کی ہیں مگر بے تکلف و راست یہی وجہ جو فقیر نے اپنی وسعت پر بیان کی ہے اگرچہ کسی بزرگ سے نہیں پائی ہے لہذا اگر میرا سہو ہے تو اللہ تعالیٰ عفو فرمائے واللہ غفور رحیم۔

کسی نے اپنے مخاصم سے کہا کہ اذہب معی الی الشرع^۳ یا فارسی میں کہا کہ ما من بشرع رو یعنی میرے ساتھ شرع کی طرف چل پس اس کے مخاصم نے کہا کہ کوئی پیادہ لے آتا کہ چلوں بے جبر نہیں جاؤں گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اس واسطے کہ اس نے شرع سے عناد کیا اور اگر اس نے کہا کہ میرے ساتھ قاضی کے مضور میں چل پس اس نے ایسا جواب دیا تو تکفیر نہ کیا جائے گا کیونکہ قاضی کے عناد سے تکفیر نہ ہوگی اور اگر کسی نے کہا کہ میرے ساتھ شریعت وجہ حیلے فائدہ نہ دیں گے یا کہا کہ میرے واسطے دیوس ہے شریعت کو کیا کروں تو یہ سب کفر ہے اور اگر کسی نے کہا کہ جس وقت روپیہ لیا تھا اس وقت شریعت و قاضی کہاں تھا تو بھی تکفیر کیا جائے گا اور بعض متاخرین نے فرمایا کہ اگر قاضی (لفظ قاضی کہاں تھا کہنے کی صورت میں) سے مراد اس شہر کا قاضی لیا ہے تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ اس واقعہ میں حکم شرع یوں ہے پس دوسرے نے کہا کہ میں رسم پر چلتا ہوں نہ شرع پر تو بعض مشائخ کے نزدیک تکفیر کیا جائے گا اور مجموع النوازل میں مذکور ہے کہ ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو کیا کہتی ہے کہ حکم شرع کیا چیز ہے پس

۱ دسترہ بمعنی آری جس سے تبار لکڑی چیرتا ہے ۱۲۔ ۲ قال المتر جم یہ مسئلہ کلمہ کفر یہ متعلق بذات و صفات الہی کے بیان میں ہونا بہ نسبت یہاں کے بہتر تھا اگرچہ متعلق بہ صفات نہیں ہے اور اس سے اولیٰ یہ ہے کہ متعلق بایمان اسلام میں بیان ہوتا فافہم واللہ اعلم ۱۲۔ ۳ اقوال شاید یہ مراد ہے کہ میرے ساتھ شرع کے موافق چل اگرچہ ظاہر لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ قاضی کے یہاں شرعی فیصلہ کے واسطے چل بقریہ حق ۱۲۔

عورت نے ایک بڑی سی ذکار لی اور کہا کہ ایک شرع را یعنی اس شرع کو تو وہ کافر ہوگئی اور اپنے شوہر سے بائند ہوگئی یہ محیط میں ہے۔
اگر مدعی و مدعا علیہ میں سے یعنی جن دونوں میں باہم جھگڑا ہے ان میں سے ایک شخص عالموں سے حکم شرع کا فتویٰ لکھا کر اپنے مخالف کے پاس آیا:

ایک شخص کے سامنے کسی نے اماموں کا فتویٰ پیش کیا پس اس نے رد کر دیا اور کہا کہ یہ کیا کھرا انہا فتویٰ لیا ہے تو بعض نے فرمایا کہ تکفیر کیا جائے گا اس وجہ سے کہ اس نے حکم شرع کو رد کر دیا اور اسی طرح اگر اس نے کچھ نہ کہا فقط فتویٰ زمین پر ڈال دیا اور کہا کہ یہ کیا شرع ہے تو بھی یہی حکم ہے ایک شخص نے کسی عالم کے پاس ایک صورت پیش کی کہ اس سے میری بیوی پر طلاق ہوئی یا نہیں پس عالم موصوف نے فتویٰ دیا کہ واقع ہوگئی پس فتویٰ پوچھنے والے نے کہا کہ میں طلاق و لاق کیا جانوں بچوں کی ماں میرے گھر میں رہنا چاہیے تو قاضی امام علی سعدی نے اس کے کفر پر فتویٰ دیا ہے یہ فضول عماد یہ میں ہے۔ اگر مدعی و مدعا علیہ میں سے یعنی جن دونوں میں باہم جھگڑا ہے ان میں سے ایک شخص عالموں سے حکم شرع کا فتویٰ لکھا کر اپنے مخالف کے پاس آیا اور کہا کہ یہ فتویٰ ہے پس اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے یا کہا کہ میں اس پر عمل نہ کروں گا تو اس پر تعزیر واجب ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے۔ اب ان کلمات کفر کا بیان ہے جو حلال و حرام فاسقون و فاجروں وغیرہ کے کلام سے متعلق ہیں۔ اگر کسی نے حرام کو حلال یا حلال کو حرام اعتقاد کر لیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی لیکن اگر اس نے کسی حرام کو بدین غرض کہ اس چیز کی ترویج (رواج دینا و رونق پکڑنا) ہو یعنی اچھی فروخت ہو جائے حلال کہا یا جہالت سے اس کو حلال کہا کہ خود جانتا نہ تھا تو یہ کفر نہ ہوگا اور اعتقاد کرنے کی صورت میں اہم نے جو حکم ذکر کیا ہے وہ ایسی چیزوں کے ساتھ ہے جو بعینہ حرام ہوں اور ان سے اس بعینہ حرام کو حلال اعتقاد کر لیا حتیٰ کہ کفر ہو گیا اور اگر یہ چیز حرام تغیر ہو تو اس کے اعتقاد حلت سے کافر نہ ہوگا اور نیز حرام بعینہ کی صورت میں بھی جب ہی تکفیر کی جائے گی کہ جب اس کا حرام ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہو اور اگر اخبار آحاد سے ثابت ہو تو تکفیر نہ کی جائے گی یہ خلاصہ میں ہے۔

قال المتر جم حرام چیزیں بنظر اپنی ذات کے دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ جو بعینہ حرام یا میں جیسے سوراکتا وغیرہ اور دیگر وہ ہیں کہ بغیر و حرام ہیں پھر بنظر حرمت بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو قطعی دلیل سے ان کا حرام ہونا ثابت ہے جیسے شراب انگوری وغیرہ اور درم وہ کہ ان کے حرام ہونے پر اخبار آحاد وغیرہ ظنی دلیلین ہیں اور نیز حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہنا دو طرح پر ہے ایک یہ جان بوجھ کر کہنا ہے دوم یہ ہے کہ جاہل ہے نہیں جانتا ہے پھر جان بوجھ کر بھی دو طرح پر ہے ایک یہ کہ اعتقاد سے کہے درم یہ کہ دل سے اعتقاد نہیں ہے منہ سے کسی اپنے مطلب کے واسطے کہتا ہے پس اگر بعینہ حرام کو جان بوجھ کر حلال اعتقاد کیا تو کافر ہے اور باقی صورتیں اوپر کی عبارت مذکورہ سے سمجھ لینا چاہیے۔ کسی شخص سے کہا گیا کہ تیرے نزدیک ایک حلال پسند ہے یا دو حرام پس اس نے کہا کہ دونوں میں سے جو جلد حاصل ہو جائے تو اس پر کفر کا خوف ہے اور اسی طرح اگر کہا کہ مال چاہے کہ خواہ حلال خواہ حرام تو بھی یہی حکم ہے۔ اگر کہا کہ جب تک حرام پاؤں حلال کے گرد نہ پھروں تو تکفیر نہ کیا جائے گا۔ اگر کسی فقیر کو مال حرام میں سے کچھ دے کر ثواب کی امید رکھی تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اگر فقیر نے یہ بات جان لی پھر دینے والے کو عادی اور دینے والے نے اس کی دعا پر آمین کہی تو کافر ہو اور ایک شخص سے کہا گیا کہ تو حلال سے کھایا کر پس اس نے کہا کہ میرے نزدیک حرام اس سے پسند ہے تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر اس کے جواب میں یوں کہا کہ تو اس جہاں میں ایک بھی حلال کھانے والا آتا کہ میں اس کو سجدہ کروں تو تکفیر کیا جائے گا۔ اگر کسی سے کہا گیا کہ حلال کھا پس اس نے کہا کہ مجھے حرام چاہیے ہے تو تکفیر کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر کسی نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی کرنے کو حلال اعتقاد کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی:

کسی فاسق شراب خوار کے لڑکے نے شراب پی پس اس کے اقارب نے آکر اس پر درہم نثار کیے تو سب کافر ہو جائیں گے اور اگر اس کو بشارت نہ دی لیکن کہا کہ مبارک باد تو بھی کافر ہو جائیں گے اور اگر کسی نے کہا کہ خمر یعنی شراب حرام کی حرمت قرآن سے نہیں ثابت ہوئی ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اگر کسی نے کہا کہ شراب کی حرمت قرآن شریف سے ثابت ہے اور باوجود اس کے وہ شراب پیتا ہے پس اس سے کہا گیا کہ تو کیوں تو بہ نہیں کرتا ہے اس نے کہا کہ ماں کے دودھ سے کوئی صبر کر سکتا ہے تو تکفیر نہ کی جائے گی اس لیے کہ یہ استفہام ہے یا یہ ہے کہ اس نے دودھ و شراب کو یکساں پسند کیا اور کتاب الحیض مصنفہ امام سرخسی میں مذکور ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی کرنے کو حلال اعتقاد کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اس طرح اگر اپنی عورت سے لواطت یعنی کون میں جماع کرنے کو حلال اعتقاد کیا تو بھی یہی حکم ہے اور نوادر میں امام محمد سے روایت ہے کہ ان دونوں مسئلوں میں تکفیر نہ کی جائے گی اور یہی صحیح ہے۔ ایک نے شراب پی اور کہا کہ خوشی اسی کو ہے جو میری خوشی کے ساتھ خوش ہے اور نقصان و نوتا اس کو ہے کہ میری خوشی کے ساتھ خوش نہیں ہے تو یہ کفر ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر کسی نے افعال خلاف شرع مثل شراب خواری و قمار بازی وغیرہ شروع کرنے کے وقت اپنے دوستوں سے کہا کہ آؤ تو کچھ دیر اچھی زندگی کر لیں تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اسی طرح اگر شراب میں مشغول ہو اور کہا کہ مسلمان آشکارا کرتا ہوں یا کہا کہ مسلمان آشکارا ہوتی تو تکفیر کی جائے گی اور اگر فاسقون میں سے ایک نے کہا کہ اگر اس شراب میں سے کچھ گر پڑے تو جبرئیل علیہ السلام اپنے پروں پر اس کو اٹھالیں تو تکفیر کیا جائے گا اگر کسی فاسق سے کہا گیا کہ تو ہر روز صبح اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ و خلق خدا کو ایذا دیتا ہے پس اس نے کہا کہ اچھا کرتا ہوں تو تکفیر کیا جائے گا۔ اگر کسی نے خلاف شرع گناہوں پر چلنے کو کہا کہ یہ بھی ایک راہ مذہب ہے تو تکفیر کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔ جنین ناطقی میں مذکور ہے کہ اصح یہ ہے کہ تکفیر نہ کیا جائے گا یہ تا تاریخانیہ میں ہے۔ کوئی شخص کسی صغیرہ گناہ کا مرتکب ہوا پس اس سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر پس اس نے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے جو مجھے توبہ کرنی چاہیے تو تکفیر کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔ اگر طعام حرام کھانے کے وقت کہا کہ بسم اللہ تو امام خواہر زادہ نے ذکر کیا کہ تکفیر کیا جائے گا اور اگر بعد فراغت کے الحمد للہ کہا تو بعض متاخرین نے کہا کہ تکفیر نہ کیا جائے گا۔ اگر شراب کا پیالہ ہاتھ میں لے کر بسم اللہ کہہ کر پی جائے تو بالاتفاق کافر ہو جائے گا اور اسی طرح اگر زنا کرنے کے وقت یا چوسنے کے وقت کعبین ہاتھ میں لے کر بسم اللہ کہہ کر شروع کرے تو کافر ہو جائے گا یہ فضول عماد یہ میں ہے۔

اگر دو آدمیوں میں باہم سخت کلامی ہوئی پس ایک نے ان میں سے کہا کہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ پس دوسرے نے کہا کہ لاحول کچھ کار آمد نہیں ہے یا کہا کہ لاحول کو کیا کروں یا کہا کہ لاحول لایغنی من جوعاً یا کہا کہ لاحول کو تریڈ کے پیالہ میں نہیں چور کر سکتے ہیں یا کہا کہ بجائے روٹی کے لاحول کچھ فائدہ نہیں دیتی ہے تو ان سب صورتوں میں اس کی تکفیر کی جائے گی۔ یہ ظہیر یہ میں ہے۔ اس طرح اگر سچ و تہلیل کے وقت کسی نے ایسی باتیں کہیں یعنی کسی نے تہلیل یا تسبیح کہی اور دوسرے نے اس کی نسبت ایسے کلمات کہے تو بھی یہی حکم ہے اور اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ سبحان اللہ پس دوسرے نے کہا کہ تو نے سبحان اللہ کی آبرو کھوئی یا کھا کہ کھال کھینچ ڈالی تو یہ کفر ہے اور اگر کسی سے کہا کہ تو کہ لا الہ الا اللہ پس اس نے کہا میں نہیں کہوں گا تو بعض مشائخ نے کہا کہ یہ کفر ہے اور بعض نے کہا کہ اگر اس سے اس کی یہ مراد ہے کہ تیرے حکم سے نہیں کہوں گا تو تکفیر کی جائے گی اور بعض نے کہا

کہ مطلقاً تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر کہا کہ اس کلمہ کے کہنے سے تو نہ کیا سرفرازی پائی تاکہ میں بھی کہوں تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ ایک شخص نے چند مرتبہ چھینک لی پس حاضرین میں سے ایک شخص نے ہر بار جب اس نے چھینک لی تو یرحمک اللہ کہا پھر اس نے ایک چھینک لی پس اس نے کہا کہ اس پر حمک اللہ کہنے سے میرا ناک میں دم آگیا یا کہا کہ میرا جی اکتا گیا یا کہا کہ میں ملول ہو گیا تو بعض نے کہا کہ جواب صحیح کے موافق اس کی تکفیر نہ کی جائے گی یہ محیط میں ہے۔

سلطان کو چھینک آئی پس ایک نے کہا کہ یرحمک اللہ پس کسی دوسرے نے کہا کہ سلطان کے واسطے ایسا مت کہ تو یہ دوسرا تکفیر کیا جائے گا یہ فصول عماد یہ میں ہے۔

روز قیامت سے متعلقہ احوال کفریہ کا بیان

اب ان کلمات کفر کا بیان ہے جو احوال قیامت و روز قیامت سے متعلق ہیں اور جس نے انکار کیا روز قیامت کا یا جنت کا یا دوزخ کا یا میزان کا یا پل صراط کا یا انصافیوں کا جس میں بندوں کے اعمال لکھے ہیں تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر قبروں وغیرہ سے مردے اٹھائے جانے یعنی بعثت کا انکار کیا تو بھی تکفیر کیا جائے گا اور اگر کسی شخص نے بعثت کا اقرار کیا مگر اس سے انکار کیا کہ بعینہ فلاں شخص نہیں اٹھایا جائے گا تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی ایسا ہی شیخ زاہد ابوالحق کلابادی نے ذکر کیا ہے یہ ظہیر یہ میں ہے۔ ابن سلام سے مروی ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہود نصاریٰ جب اٹھائے جائیں گے تو عذاب درزخ میں ڈالے جائیں گے تو ہمارے سب مشائخ و مشائخ بلخ نے فتویٰ دیا کہ اس کی تکفیر کی جائے یہ عتابیہ میں ہے۔ اگر جنت میں داخل ہو کر دیدار الہی کے ہونے سے انکار کیا تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر عذاب القبر سے انکار کیا تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر نبی آدم کے حشر ہونے سے انکار کیا تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر سوائے نبی آدم کے اور دن کے حشر ہونے سے انکار کیا تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور اسی طرح اگر کہا کہ جو اب و عقاب فقط روح کو دیا جائے گا تو اس سے بھی تکفیر نہ کی جائے گی یہ بحر الرائق میں ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ گناہ مت کر کہ دوسرا جہاں بھی ہے پس اس نے کہا کہ اس جہاں کی کس نے خبر دی تو تکفیر کیا جائے گا۔ ایک شخص کا دوسرے پر قرضہ آتا ہے پس قرضخواہ نے کہا کہ اگر نہ دے گا تو قیامت میں لے لوں گا پس اس نے کہا کہ قیامت برمی تا بد پس اگر اس نے روز قیامت کی اہانت کی نیت سے کہا تو تکفیر کیا جائے گا۔ ایک نے دوسرے پر ظلم کیا پس مظلوم نے کہا کہ آخر قیامت ہست پس ظالم نے کہا کہ فلاں خرب قیامت اندر یعنی قیامت میں گدھے کا خایہ تو اس کی تکفیر کی جائے گی یہ تارخانہ میں ہے۔

اگر کسی نے اپنے مخاصم سے کہا کہ میں تجھ سے اپنا حق قیامت میں لے لوں گا پس خصم نے کہا کہ تو

اس انبوه میں مجھے کہاں پاؤں گا تو مشائخ نے اس کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے:

ایک نے اپنے قرض دار سے کہا کہ میرے درہم میں دے دے کہ قیامت میں درہم نہیں ہوں گے پس قرض دار نے کہا کہ لا اور مجھے دے دے اور اس جہاں میں لے لینا یا کہا کہ میں دے دوں گا تو شیخ فضلی نے جواب دیا کہ اس کی تکفیر کی جائے گی اور ہمارے اکثر مشائخ کا بھی یہی قول ہے اور یہی اصح ہے اور اگر کسی نے کہا کہ مجھے محشر سے کیا کام ہے یا کہا کہ میں قیامت سے نہیں ڈرتا ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی یہ خلاصہ میں ہے۔ اگر کسی نے اپنے مخاصم سے کہا کہ میں تجھ سے اپنا حق قیامت میں لے لوں گا پس خصم نے کہا کہ تو اس انبوه میں مجھے کہاں پاؤں گا تو مشائخ نے اس کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے اور فتاویٰ ابوالیث میں مذکور ہے

کہ تکفیر نہ کیا جائے گا یہ محیط میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ ہم نے کوئی بدین جہاں باید بدان جہان ہر چہ خواہی باش یعنی تمام بھلائی اس جہاں میں چاہیے اور وہاں اس جہاں میں جو چاہیے ہو تو تکفیر کی جائے گی یہ فضول عماد یہ میں ہے۔ ایک نے کسی زاہد سے کہا کہ نبشین تا از بہشت از او سوئیفتی یعنی بیٹھتا کہ تو بہشت سے اس طرف نہ جا پڑے تو اکثر اہل علم نے کہا کہ تکفیر کیا جائے گا۔ اگر ایک شخص سے کہا گیا کہ دنیا کو آخرت کی غرض سے چھوڑ دے اس نے کہا کہ میں نقد کو ادھار کے واسطے نہیں چھوڑتا تو تکفیر کیا جائے گا تجوانے کے نسخہ میں موجود ہے کہ کسی نے کہا کہ ہر کہ درین جہاں بخیر و بود بان جہان چون کیسہ ریدہ بود یعنی جو شخص اس جہاں میں بخیر دہوگا وہ اس جہاں میں ایسا ہوگا جیسے کسی کی ہمیانی کٹ گئی ہو تو شیخ ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ یہ امر آخرت پر طنز اور اس کا ٹھٹھول ہے پس کہنے والے کے حق میں موجب کفر ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر کہا کہ تیرے ساتھ دوزخ کو جاؤں گا مگر اندر نہ جاؤں گا تو تکفیر کیا جائے گا یہ خلاصہ میں ہے۔ اگر کہا کہ قیامت میں جب تک رضوان کے سامنے کچھ رشوت نہ لی جائے گا وہ بہشت کا دروازہ نہ کھولے گا تو کافر ہو جائے گا یہ عتابیہ میں ہے۔

جو امور شرع میں کرنے چاہیے ہیں اگر ایسے امور کے حکم دینے والے کی نسبت کہا کہ چہ غوغا آمد پس اگر اس نے یہ طریق رد و انکار کے کہا تو اس پر کفر کا خوف ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو فلاں شخص کے گھر جا کر اس کو امر معروف کر یعنی امور شرعی کرنے کا حکم کر اور منہیات سے منع کر پس اس نے جواب دیا کہ اس نے میرا کیا کیا ہے یا کہا کہ مجھے اس سے آزاد کی کیا وجہ ہے یا کہا کہ میں نے عافیت اختیار کر لی ہے مجھے اس فضول حرکت سے کیا کام ہے تو یہ سب الفاظ کفر ہیں یہ فضول عماد یہ میں ہے۔ اگر کسی سے کہا کہ فلاں کو مصیبت پہنچی یا جس کا کوئی مر گیا ہے اس سے کہا کہ تجھے بڑی مصیبت پہنچی تو بعض مشائخ بلخ نے فرمایا کہ کہنے والے کی تکفیر کی جائے گی اور بعض مشائخ نے کہا کہ تکفیر نہ کی جائے گی لیکن یہ خطائے عظیم ہے اور بعضوں نے فرمایا کہ نہ کفر ہے اور نہ خطا ہے اور اس طرح حاکم عبدالرحمن اور قاضی ابو علی سعدی نے میل کیا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے قال المترجم یہی اصح ہے وقد ررونی اصح الاسترجماع یعنی مثل طفو السراج فکیف فیمن مات له میت وقد قال تعالیٰ: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۹﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱۶۰﴾﴾ نعم لو لم یسترجع لم لستحییق تعد الثواب من قوله تعالیٰ اولیک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ فما قالوا انما یعمل علی ما انا قال ذلک زعمانہ الظلم فیما وقع ولكن هذا کفر صریح لا یتبغی ان یختلف فیہ ۱۵۹ تا ۱۶۰۔ اگر غرادر سے کہا کہ ہر چہ از جان دی بکاست بر جان تو زیادت باو جو کچھ اس کی جان سے گھٹا ہے تیری جان پر بڑھ جائے تو کہنے والے کے کفر کا خوف ہے یا کہا کہ زیادت کناد تیری جان پر زیادتی کرے تو یہ خطا و جہل ہے۔ اس طرح اگر کہا از جان فلان بکاست و بجان تو پوست یعنی فلاں کی جان سے گھٹی و تیری جان کو ملی تو بھی یہی حکم ہے اور اگر کہا کہ وہ مرا اور جان تجھے سپرد کردی تو تکفیر کیا جائے گا۔ ایک شخص اپنے مرض سے صحت یاب ہو گیا پس دوسرے نے کہا کہ فلاں خرابا فرستاد تو یہ کفر ہے اور اگر کوئی بیمار ہو

۱۔ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱۶۰﴾﴾ کہنا ایسی صورت میں صحیح میں دار ہوا ہے جو مثل چراغ گل ہو جانے کے ہو تو اس شخص کے حق میں کیونکر نہ ہوگا ۱۶۰۔

☆ مترجم کا اشارہ اس حدیث مبارکہ کی طرف ہے جس میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت نبی کریم ﷺ چراغ کی روشنی میں تشریف فرما تھے کہ یکدم ہوا سے چراغ بجھ گیا تو نبی کریم ﷺ نے بے ساختہ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱۶۰﴾﴾ ارشاد فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی متعجب ہوئی اور فرمایا نبی کریم ﷺ اتنی سی بات پر آپ ﷺ نے ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱۶۰﴾﴾ پڑھا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ عائشہ (رضی اللہ عنہا) مسلمان کو ہلکی سی تکلیف بھی پہنچے اور وہ یہ پڑھے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

اور اس کا مرض سخت ہو گیا اور برابر بیمار دائمی ہو ا پس اس نے خدائے تعالیٰ سے کہا کہ اگر چاہیے تو مجھے مسلمان وفات دے اور چاہے تو مجھے کافر وفات دے تو اللہ تعالیٰ سے کافر اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا قال المتر جم عبارت اصل یہ ہے فقال المرض ان شئت توفنی مسلم او ان شئت توفنی کافرًا یصیر کافرًا باللہ مرتد اعن دینہ و اقول هذا کانه یصحیح و اصل العبارة هکذا کہ اے خدا تو مجھے وفات دے چاہیے مسلمان و چاہیے کافر اے توفنی ان شئت مسلماً و ان شئت کافرًا اس واسطے کہ صورت اول میں احتمال ہے کہ خاتمہ علی مشیت اللہ تعالیٰ ہے خواہ اسلام یا کفر اگر چہ اللہ تعالیٰ کی رضا بر کفر نہیں ہے۔ و هذا کما قالوا الی قوله تعالیٰ ولو شاء الله لجمعهم علی الهدی و نحوه و اما الثانی فانہ محکوم بهذا الحکم جدًّا فافهم۔ اسی طرح اگر کوئی شخص طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو ا پس اس نے کہا کہ تو نے میرا مال لیا اور میری اولاد لی اور چینی و چناں لیا پس وہ کیا ہے کہ اس کو کرے گا یا وہ کیا باقی رہا ہے کہ تو نے اس کے نہیں کیا یا مثل اس کے اور الفاظ کہے تو وہ کافر ہو ا یہ محیط میں ہے۔

اب ان الفاظ کفر کا بیان ہے جو متعلق بہ تلقین کفر و حکم یا بار تداو و تعلیم تہبہ کفارہ وغیرہ از اقرار صریح و کنا یہ ہیں۔ اگر کسی نے دوسرے کو کلمہ کفر تلقین کیا تو مرد مذکور کافر ہو جائے گا اگر چہ بطور تعجب کے ہو اور اس طرح اگر کسی نے دوسرے کی عورت کو حکم دیا کہ مرتد ہو کر اپنے شوہر سے بائند ہو جا تو یہ حکم دینے والا کافر ہو جائے گا ایسا ہے امام ابو یوسف سے مروی ہے اور امام اعظم سے مروی ہے کہ جس نے دوسرے کو کافر ہونے کا حکم کیا تو خود کافر ہو جائے گا فواہ مامور نے کفر کیا یا نہ کیا۔ فقیہ ابواللیث نے کہا کہ اگر کسی نے دوسرے کو کلمہ کفر سکھایا تو جب کہ اس کو کلمہ کفر سکھایا اور تداو کا حکم کیا تو کافر ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کسی عورت کو کلمہ کفر سکھایا تو جب ہے کافر ہو گا کہ جب اس کو مرتد ہو جانے کا حکم کیا ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ امام محمد نے فرمایا کہ اگر کسی دوسرے پر مانند اس کے عضو یا جان وغیرہ تلف کرنے کی تخویف کے ساتھ اکراہ کیا کہ کلمہ کفر زبان سے کہے پس اس نے کلمہ زبان سے نکالا تو اس میں کئی صورتیں ہیں اول آنکہ اس نے زبان سے کلمہ کفر کہا حالانکہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے اور اس کی خاطر میں کوئی شی سوائے اس چیز کے جس پر اکراہ کیا ہے نہیں گذری یعنی زبان سے کلمہ کفر کہے تو اس صورت میں اس کے کفر کا حکم نہ کیا جائے گا نہ قضاء اور نہ فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اور وجہ درم یہ کہ اس شخص نے بیان کیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں اس کو گذشتہ زمانہ میں اپنے کفر سے دروغ خبر دوں پس میں نے اسی ارادہ سے زبان سے کلمہ کفر نکالا اور اس کے جواب تہدید سے بارادہ کفر مستقبل کے زبان سے کلمہ کفر نہیں نکالا تو ایسی صورت میں قاضی قضاء اس کے کفر کا حکم دے گا حتیٰ کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کر دے گا اور درجہ سوم یہ کہ اس نے کہا کہ میرے دل میں گذرا تھا کہ دروغ اس کو اپنے زمانہ گذشتہ کے کفر سے خبر دوں لیکن میں نے زبان سے نکالنے میں زمانہ ماضی کے اپنے کفر کی بہ طور دروغ خبر دینے کی نیت نہیں کی بلکہ اسکے جواب کلام پر کفر مستقبل کی نیت کی تو ایسی صورت میں یہ شخص قضاء اور فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ دونوں طرح کافر ہو جائے گا۔

اگر کہا کہ میرے دل میں گذرا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز پڑھوں مگر میں نے اس کو ترک کیا اور

صلیب کے واسطے نماز پڑھی تو اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی:

اگر کسی پر اکراہ کیا کہ اس صلیب کی طرف نماز پڑھے پس اس نے صلیب کے رخ نماز پڑھی تو اس میں تین صورتیں

۱۔ مشابہت کرنا یعنی کسی کی روش کسی امر میں اختیار کرنا ۱۲۔ ۲۔ قال المتر جم اکراہ سے مراد وہی اکراہ ہے جو تلف جان یا عضو کے مانند ہو ورنہ اکراہ قید وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ۱۲۔

ہیں۔ اول آنکہ اس نے کہا کہ میری خاطر میں کچھ نہیں گذرا مگر میں نے صلیب کی طرف اکراہ کی وجہ سے مجبور ہو کر نماز پڑھی تو اس صورت میں قضاء و فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر اس نے کہا کہ میرے دل میں گذرا کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز پڑھتا ہوں اور میں نے صلیب کے واسطے نماز نہیں پڑھی تو اس صورت میں بھی نہ قضاء اونہ فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ صورت سے تکفیر نہ کیا جائے گا اور اگر اس نے کہا کہ میرے دل میں گذرا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز پڑھوں مگر میں نے اس کو ترک کیا اور صلیب کے واسطے نماز پڑھی تو اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی قضاء اور فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ یعنی دونوں طرح سے تکفیر کی جائے گی یہ محیط میں ہے۔ اگر کسی سیبا گیا کہ بادشاہ کو سجدہ کر ورنہ ہم تجھ کو قتل کریں گے تو افضل یہ ہے کہ قتل ہو جائے اور سجدہ نہ کرے یہ فصول عماد یہ میں ہے اگر عمداً کوئی شخص کلمہ کفر بولا لیکن اس نے کفر کا اعتقاد نہیں کیا تو بعض نے فرمایا کہ تکفیر نہ کیا جائے گا اور بعض نے فرمایا کہ تکفیر کیا جائے گا اور میرے نزدیک یہی صحیح ہے یہ بحر الرائق میں ہے۔ جو شخص کلمہ کفر بولا حالانکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے مگر اس نے اپنے اختیار سے یہ لفظ کہا ہے تو یہ عامہ علماء نے کہا کہ اس کی تکفیر کی جائے گی اور نادانستگی کا عذر مقبول نہ ہوگا مگر بعض علماء نے اس کی تکفیر کیے جانے میں اختلاف کیا ہے یہ خلاصہ میں ہے۔

ہزل کرنے والے اور استہزاء کرنے والے نے اگر ازراہ استخفاف و استہزاء و مزاح کے کلمہ کفر کہا تو سب کے نزدیک کفر ہوگا اگرچہ اس کا اعتقاد اسکے خلاف ہو اور اگر کوئی شخص خطا سے کلمہ کفر بولا مثلاً اس کا ارادہ تھا کہ ایسا لفظ بولے جو کفر نہیں ہے پھر اس کی زبان خطا کر گئی اور اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو سب کے نزدیک یہ کفر نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر مجوس کی ٹوپی اپنے سر پر رکھی تو صحیح قول کے موافق اس کی تکفیر کی جائے گی الا آنکہ بہ ضرورت بغرض گرمی یا سردی دفع کرنے کے ایسا کیا ہو تو تکفیر نہ ہوگی۔ اگر اپنی کمر میں زنا باندھی تو بھی تکفیر کیا جائے گا لیکن اگر لڑائی میں مسلمانوں کے واسطے بھیدلانے گیا اور باندھ گیا تاکہ کافر لوگ دھوکا کھاہیں تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور اگر کسی نے کہا کہ مجوس بہتر ہیں اس چیز سے جس میں ہم ہیں یعنی ہمارے فعل سے فعل مجوس اچھا ہے یا کہا کہ مجوسیت سے نصرانیت بہتر ہے تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر کہا کہ نصرانیت سے مجوسیت بدتر ہے تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور اگر کہا کہ یہ یہودیت سے نصرانیت بہتر ہے تو تکفیر کیا جائے گا یا کسی عامل سے کہا کہ جو تو کرتا ہے اس سے کفر بہتر ہے تو بعض کے نزدیک مطلقاً تکفیر کیا جائے گا اور فقیہ ابواللیث نے کہا کہ جب ہی تکفیر کیا جائے گا کہ اس نے تحسین کفر کا قصد کیا ہو اور اگر اس شخص کے فعل کی تصحیح بیان کرنی منظور ہو تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور اگر مجوسیوں کے نوروز میں نکاتا کہ جو وہ لوگ اس روز کرتے ہیں اس میں ان کے ساتھ موافقت کرے تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر نوروز کے دن کوئی چیز ایسی خریدی جس کو عادت کے موافق اور دنوں میں نہیں خریدتا تھا آج بغرض تعظیم نوروز کے نہ بغرض کھانے پینے کے اس کو خریدتا تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر کسی نے نوروز کے مشرکوں کو بغرض تعظیم نوروز کچھ ہدیہ بھیجا اگرچہ ایک انڈا ہو تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر ایسے مجوسی کی دعوت قبول کی جس نے اپنے لڑکے کا سر منڈایا ہے تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور اگر امر کفار کی تحسین کرتا ہے تو بالاتفاق تکفیر کیا جائے گا حتیٰ کہ مشائخ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ کھانے کے وقت مجوس کا خاموش رہنا کلام ترک کرنا اچھا ہے یا حالت حیض میں مجوسیوں کا عورت کے ساتھ نہ لیٹنا اچھا ہے تو وہ کافر ہے یہ بحر الرائق میں ہے۔

اگر کسی سے کہا گیا تو مسلمان نہیں ہے اس نے کہا کہ نہیں تو یہ کفر ہے:

اگر کسی انسان کے واسطے تعظیماً بروقت خلعت جانور ذبح کیا یا حلو وغیرہ بنایا تو شیخ الاسلام ابو بکر نے فرمایا کہ یہ کفر ہے اور ذبح کیا ہو جانور مردار ہے کہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے اور شیخ اسمعیل زاہد نے فرمایا کہ اگر گائے یا اونٹ جو زاب میں حاجیوں یا

نمازیوں کی آمد کے واسطے ذبح کیا تو علماء کی ایک جماعت نے فرمایا کہ یہ کفر ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک عورت نے اپنی کمر میں ڈورا باندھا اور کہا کہ یہ زنا ہے تو تکفیر کی جائے گی یہ خلاصہ میں ہے۔ ایک نے دوسرے سے فارسی میں کہا کہ گہرگی بہ ازیں کار کہ تو می کنی یعنی کافر ہونا اس کام سے جو تو کرتا ہے بہتر ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر اس شخص کے فعل کی تصحیح کا قصد کیا ہے تو کفر نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ ایک نے کہا کافر ہے کروں بہ از خیانت کروں یعنی چوری کرنے سے کافر بنا بہتر ہے تو کثر علماء کے نزدیک اس کی تکفیر کی جائے گی کذافی المحیط اور شیخ ابوالقاسم صفار نے بھی اسی پر فتویٰ دیا ہے یہ خلاصہ میں ہے۔ ایک نے اپنی بیوی کو مارا پس بیوی نے کہا کہ تو مسلمان نہیں ہے پس مرد نے کہا کہ ہب انی نست بمسلم یعنی مانا کہ میں مسلمان نہ ہی تو شیخ ابوبکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ اس سے کافر نہ ہو جائے گا اور ہمارے بعض نے اصحاب سے منقول ہے کہ اگر کسی سے کہا گیا تو مسلمان نہیں ہے اس نے کہا کہ نہیں تو یہ کفر ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ تجھے کچھ حمیت نہیں ہے اور نہ دین اسلام ہے کہ تو اجنبیوں کے ساتھ مجھے خلوت میں چھوڑنے پر راضی ہوتا ہے پس شوہر نے کہا کہ مجھے حمیت نہیں ہے اور نہ دین اسلام ہے تو بعض نے فرمایا کہ اس کی تکفیر کی جائے گی۔

ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ او کافرہ اور یہودیہ او مجوسیہ پس عورت نے کہا کہ میں ایسی ہی ہوں یا کہا کہ میں ایسی ہی ہوں مجھے طلاق دے دی یا کہا کہ اگر میں ایسی نہ ہوتی تو تیرے ساتھ کیوں رہتی یا کہا کہ اگر میں ایسی نہ ہوتی تو تیرے ساتھ صحبت نہ رکھتی یا کہا کہ تو مجھے نہ رکھتا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر یوں کہا کہ اگر میں ایسی ہوں تو مجھے مت رکھ تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور بعضوں نے کہا کہ اس صورت میں بھی تکفیر کی جائے گی مگر اول اصح ہے اور اسی پر شیخ جمال الدین نے فتویٰ دیا ہے اور علی ہذا اگر عورت نے شوہر کو کہا کہ اے کافر اے یہودی اے مجوسی پس شوہر نے کہا کہ میں ایسا ہے ہوں تو مجھ سے الگ ہو یا کہا اگر میں ایسا نہ ہوتا تو تجھے نہ رکھتا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر یوں کہا کہ اگر میں ایسا ہوں تو تو میرے ساتھ مت رہ تو اس میں اختلاف ہے اور اصح یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر یوں کہا کہ یک راہ کہ چنم یا من مباحش تو اظہر یہ ہے کہ اس کی تکفیر کی جائے گی اور بعض نے فرمایا کہ نہیں تکفیر کی جائے گی اور اگر کسی اجنبی سے کہا کہ اے کافر اے یہودی پس اس نے کہا کہ ایسا ہی ہوں میرے ساتھ صحبت نہ رکھ یا کہا کہ اگر میں ایسا نہ ہوتا تو تیرے ساتھ صحبت نہ رکھتا۔ خلاصہ آنکہ آخر تک وہی الفاظ بیان کیے جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں تو ان کا حکم بھی اسی طرح ہوگا جیسا ہم نے جو رو مرد کے درمیان ایسے الفاظ جاری ہونے کی صورت میں بیان کیا ہے یہ محیط میں ہے۔ ایک شخص نے کسی فعل کا ارادہ کیا پس اس کی بیوی نے کہا کہ تو کافر ہے اگر ایسا فعل کرے مگر مرد نے نہ مانا اور وہ فعل کیا تو تکفیر نہ ہوگی اور اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اے کافرہ پس عورت نے کہا کہ نہیں بلکہ تو ہے یا عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ او کافر پس شوہر نے کہا کہ نہیں بلکہ تو ہے تو ان دونوں میں تفریق واقع^(۱) نہ ہوگی ایسا ہے فقیہ ابواللیث نے اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے۔

ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ چون منع نخت آگندہ شدہ پس شوہر نے کہا کہ تو اب تک اتنی مدت آتش پرست کے ساتھ رہی یا کہا کہ تو اتنی مدت آتش پرست کے ساتھ کیوں رہی تو یہ شوہر کی طرف سے کفر ہے اور اگر شوہر سے کہا کہ او مغرانہ پس عورت نے کہا کہ ہر تو نے اتنی مدت مغرانہ کو رکھا ہے یا کہا کہ مغرانہ کو کیوں رکھا ہے تو یہ عورت کی طرف سے کفر ہے اور اجنبیہ عورت سے یا کافرہ یا اجنبی مرد سے کہا کہ او کافر اور جس سے کہا ہے اس نے کچھ نہ کہا یا اپنی بیوی سے کہا کہ او کافرہ اور عورت نے کچھ نہ کہا یا

۱۔ عیب و برائی ظاہر کرنا ۱۲۔

(۱) کفر نہ ہوگا تفریق ہو جائے ۱۲۔

بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اوکا فر شوہر نے کچھ نہ کہا تو فقیہ ابو بکر اعمش بلخی فرماتے تھے کہ کہنے والا تکفیر کیا جائے گا اور دیگر مشائخ نے فرمایا کہ تکفیر نہ کیا جائے گا اور فتویٰ کے واسطے اس جنس کے مسائل میں مختار یہ ہے کہ ایسے کلمات کے کہنے والے نے اگر اس کو برا کہنے کی نیت کی اور در واقع اس کو کافر اعتقاد نہیں کیا ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر در واقع اس کو کافر اعتقاد کر کے اپنے اعتقاد کے موافق اس کو ان کلمات سے مخاطب کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی یہ ذخیرہ میں ہے ایک عورت نے اپنے فرزند سے کہا کہ اے مغ بچہ یا اے کافر بچہ یا اے یہود بچہ تو اکثر علماء نے فرمایا کہ یہ کفر نہ ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ کفر ہوگا اور اگر مرد نے اپنے فرزند کے واسطے ایسے الفاظ کہے تو اس میں بھی اختلاف ہے اور اصح یہ ہے کہ اگر مرد مذکور نے اپنے نفس کا ارادہ نہیں کیا ہے تو تکفیر نہ کی جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک نے کہا کہ یہ زمانہ مسلمانی اختیار کرنے کا نہیں ہے زمانہ کافر ہے:

اگر اپنے جانور کی نسبت کہا کہ اے کافر خداوند تو بالاتفاق تکفیر نہ کیا جائے گا اور اگر کسی دوسرے سے کہا کہ اے کافر اے یہودی اے مجوسی پس اس نے کہا کہ لبیک یعنی جی ہاں تو وہ تکفیر کیا جائے گا اور اسی طرح اگر کہا کہ آ رہے چمنین گیر یعنی ہاں ایسا بیجان لے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اگر اس دوسرے نے کہا کہ خود تو ہی ہے یا کچھ نہ کہا بلکہ خاموش رہا تو تکفیر نہ کیا جائے گا۔ اگر کسی سے کہا کہ مجھے اپنے کافر ہو جانے کا خوف تھا تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور اگر یوں کہا کہ تو نے مجھے یہاں تک رنج پہنچایا کہ میں نے چاہا کہ کافر ہو جاؤں تو تکفیر کیا جائے گا۔ ایک نے کہا کہ یہ زمانہ مسلمانی اختیار کرنے کا نہیں ہے زمانہ کافر ہے تو بعض نے فرمایا کہ تکفیر کیا جائے گا اور صاحب محیط نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ حکم ٹھیک نہیں ہے قال المترجم ہمارے زمانہ میں اگر کسی نے ایسا کہا تو اس پر کفر کا خوف ہے جیسے ہمارے زمانہ میں جو شخص اپنے دل و اعتقاد راست سے اسلام و رصہائے حق عزوجل کے موافق زندگی بسر کر جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بخیر کرے تو امید ہے کہ مستحق ثواب جمیل و جزائے جزیل ہوگا ثبتنا اللہ تعالیٰ ایانا اهل الاسلام برحمة ورافتہ منہ تعالیٰ علی الصراط القویم تبوفیق الخیر و هو علی کل شیء قدیر اور واقعات ناطفی میں لکھا ہے کہ مسلم و مجوسی دونوں کسی مقام پر یکجا جمع تھے پس کسی نے مجوسی کو پکارا کہ اے مجوسی پس مسلمان نے اس کو جواب دیا تو شیخ نے فرمایا کہ اگر اس پکارنے والے کے کسی ایک ہی کام میں دونوں لگے ہوئے ہوں پس مسلمان نے یہ گمان کر کے کہ وہ اس کام کے واسطے پکارتا ہے جواب دیا ہو تو مسلمان مذکور پر کفر لازم نہ آئے گا اور اگر دونوں ایک ہی کام میں لگے نہ ہوں تو اس پر کفر کا خوف ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کہا کہ میں ملحد ہوں تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر اس نے عذر کیا کہ میں نہ جانتا تھا کہ یہ کفر ہے تو اس کا یہ عذر قبول نہ ہوگا۔ ایک نے کوئی بات کہی کہ قوم نے یہ زعم کیا کہ یہ کفر ہے حالانکہ درحقیقت وہ کفر نہیں ہے پس اس سے کہا گیا کہ تو کافر ہو اور تیری بیوی پر طلاق واقع ہوگی پس اس نے کہا کہ کافر شدہ گیر و زن طلاق شدہ گیر یعنی کافر ہو اسکی سمجھ لے تو کافر ہو جائے گا اور اس کی بیوی اس سے بائنے ہو جائے گی۔ یہ فصول عماد یہ میں ہے۔

یتیمیہ میں ہے کہ میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں فرعون ہوں یا ابلیس ہوں تو فرمایا کہ ایسی صورت میں کافر کہا جائے گا یہ تا تاریخانیہ میں ہے۔ ایک شخص نصیحت کنندہ نے کسی فاسق کو نصیحت کی اور اس کو توبہ کی طرف رجوع کرنے کو چاہا پس اس فاسق نے کہا کہ از پس ایتھمہ کلاہ معان برسرتھم یعنی ان سب کے بعد آتش برستوں کی ٹوپی اپنے سر پر

۱۔ قولہ مرد مذکور یا عورت مذکورہ یعنی یہ نہیں ارادہ کیا کہ مغ کا یا یہودی یا مجوسی کا بچہ ۱۲۔ ع اللہ تعالیٰ ہم اہل اسلام کو اپنی رحمت ورافت کے ساتھ راہ راست پر مع توفیق خیر ثابت رکھے وہ ہر شے پر قادر ہے ۱۲۔

رکھوں گا تو تکفیر کیا جائے گا۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ تیرے ساتھ رہنے سے کافر ہونا بہتر ہے تو اس عورت کی تکفیر کی جائے گی اگر کسی نے کہا کہ ہرچہ مسلمانی کردہ ام ہمہ بکافران دادہ یعنی جو کچھ میں نے مسلمانی کی ہے وہ سب کافروں کو دے دی بشرطیکہ فلاں کام کروں پھر اس شخص نے فلاں کام کیا تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اس پر کفارہ قسم کبھی لازم نہ آئے گا۔ ایک عورت نے کہا کہ میں کافر ہوں اگر ایسا کام کروں تو شیخ امام ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ فی الحال کافر ہو کر اپنے شوہر سے بائند ہو جائے گی اور شیخ علی سعیدی نے فرمایا کہ یہ تعلق و یمین ہے اور کفر نہیں ہے قال المتر جم قول شیخ علی سعیدی اصح ہے اور اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تو نے اس کے بعد تجھ پر جفا کی یا ایذا دی یا کہا کہ اگر تو نے میرے واسطے فلاں چیز نہ خریدی تو میں کافر ہو جاؤں گی تو فی الحال کافر ہو جائے گی یہ فصول عماد یہ میں ہے۔

جو چیز کس وقت میں حلال تھی پھر وہ حرام ہو گئی ہے پس اس کی نسبت تمنا کی کہ کاش حرام نہ ہوتی تو تکفیر نہ کیا جائے گا:

ایک نے کہا کہ کنت مجوسياً الا ان اسلمت اور یہ اس نے برسبیل تمثیل کہا اور اس کا اعتقاد نہیں کیا تو اس کے کفر کا حکم دے دیا جائے گا اور شمس الائمہ حلوانی نے فرمایا کہ اگر کسی کے واسطے تجیہ کا سجدہ کیا یعنی عبادت کا سجدہ نہیں کیا تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی قال المتر جم یعنی قریب بکفر ہے اگرچہ تکفیر نہ کی جائے گی۔ یہ سراجیہ میں ہے اور خزانہ میں لکھا ہے اگر زید نے عمرو سے کہا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل تجھ سے مسلمانی الگ کر لے اور بکرنے کہا کہ آمین تو یہ دونوں کافر ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے دوسرے کو اذیت دی پس اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں مجھے مت رنج دے پس اس ایذا دینے والے نے کہا کہ چاہے مسلمان رہ چاہے کافر تو تکفیر کیا جائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ اگر کافر ہوگا تو میرا کیا نقصان ہے تو بھی اس پر کفر لازم ہوگا یہ تا تاریخانیہ میں ہے۔ کوئی کافر مسلمان ہو اور مسلمانوں نے اس کو چیزیں اور مال و متاع دیا پس کسی مسلمان نے کہا کہ کاش میں کافر ہوتا تا کہ مسلمان ہو جاتا اور لوگ مجھے بھی چیزیں دیتے یا فقط دل سے اس امر کی تمنا کی تو وہ کافر ہو جائے گا ایسا ہے بعض مشائخ سے منقول ہے۔ اگر کسی نے تمنا کی کہ کاش اللہ تعالیٰ نے شراب حرام نہ کی ہوتی تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر یہ تمنا کی کہ کاش اللہ تعالیٰ نے حرام نہ کیا ہوتا ظلم یا زنا کاری یا ناحق قتل کر دینا تو کافر ہو جائے گا اس واسطے کہ یہ چیزیں کسی وقت میں حلال نہیں تھیں پس اول صورت میں اس نے ایسی چیز کی تمنا کی جو مستحیل نہیں ہے اور دوسری صورت میں ایسی چیز کی تمنا کی جو مستحیل ہے اور علی ہذا اگر یہ تمنا کی کہ بھائی بہن کا نکاح حرام نہ ہوتا تو تکفیر نہ کیا جائے گا اس واسطے کہ ابتداء میں یہ حلال تھا مستحیل نہیں ہے اور حاصل یہ ہے کہ جو چیز کس وقت میں حلال تھی پھر وہ حرام ہو گئی ہے پس اس کی نسبت تمنا کی کہ کاش حرام نہ ہوتی تو تکفیر نہ کیا جائے گا۔

اگر کسی مسلمان نے کوئی نصرانیہ خوبصورت دیکھ کر تمنا کی کہ کاش میں نصرانی ہوتا تا کہ اس سے نکاح کر لیتا تو اس کی تکفیر کی جائے گی یہ محیط میں ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ حق کے ساتھ میری مددگاری کر پس اس دوسرے نے کہا کہ حق کے ساتھ تو ہر کوئی مددگاری کرتا ہے میں ناحق کے ساتھ تیری مددگاری کروں گا تو تکفیر کیا جائے گا یہ فصول عماد یہ میں ہے قال المتر جم اصل عبادت یہ ہے کہ مرا حق یاری وہ فقال ذلك الغیر بحق ہر کس یاری دھد من ترابنا حق یاری دھم تکفیر کذا فی الفصول مگر میں اس کی وجہ نہیں سمجھتا ہوں الا آنکہ مراد بواسطہ حق پایا قسم مراد ہو واللہ اعلم۔ ایک شخص نے دوسرے سے جس سے جھگڑا کر رہا ہے کہا کہ تو ہر روز اپنے مثل اور دس مٹی کے بنا لے یا مٹی کے نہ کہا پس اگر اس کی مراد مثل سے مثل من حیث الخلق ہے تو تکفیر کیا

جائے گا اور اگر یہ مراد ہے کہ اپنے سے کئی گونہ جمع کر لے مجھے کچھ ڈر نہیں ہے مثلاً تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور ہمارے زمانہ میں اسی جنس کا ایک واقعہ ہوا کہ کسی کسان یا مانی نے کہا کہ میں نے یہ درخت پیدا کیا ہے پس بالاتفاق سب مفتیوں نے جواب دیا کہ اس کی تکفیر نہ کیا جائے گی اس واسطے کہ پیدا کرنے سے اس مقام پر عادت کے موافق پڑ لگانا مراد ہے حتیٰ کہ اگر اس نے حقیقت پیدائش مراد لی ہو تو تکفیر کیا جائے گا قال المترجم ہمارے عرف کے خلاف ہے ہاں اگر یہ کہا کہ میرا جمایا ہوا ہے یا اگایا ہوا ہے تو البتہ یہ جواب ہو سکتا ہے کیونکہ پیدا کیا ہوا بمعنی میں نے لگایا ہوا ہمارے عرف میں نہیں ہے فانہم واللہ اعلم۔

ایک شخص ایک قوم سے جھگڑا کرتا تھا پس کہا کہ میں دس آتش پرستوں سے بڑھ کر ستم گار ہوں:

اگر کسی نے کہا کہ رہے وارکارکنیم و آزاد از بخوریم یعنی مسافروں کی طرح کارکروں گا اور آزادوں کی طرف کھاؤں گا تو بعض نے فرمایا کہ یہ خطائے کلام ہے اور وہی ایسا کلام بولتا ہے جو اپنا رزق اپنی کمائی سے جانتا ہے قال المترجم ہمارے نزدیک اس میں کم خوف ہے ہاں اگر اس کی یہ نیت ہو کہ روزی میری کمائی سے ہے تو تکفیر کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کہا جب تک فلاں بجائے خود موجود ہے یا جب تک کہ میرا یہ روپیہ کا بازو سلامت ہے مجھے روزی کی کچھ کمی نہیں ہے تو بعض مشائخ نے فرمایا کہ تکفیر کیا جائے گا اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس پر کفر کا خوف ہے اور اگر کسی نے کہا کہ درویشی بدبختی ہے تو یہ خطائے عظیم ہے۔ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ ایک سجدہ خدا کو کر اور ایک سجدہ مجھ کو تو بعض نے کہا کہ اس کی تکفیر کی جائے گی قال المترجم یعنی کمال سخت قریب بہ کفر ہے لیکن تکفیر نہ کی جائے گی اور شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص شطرنج کھیلتا ہے پس اس کی بیوی نے کہا کہ تو شطرنج نہ کھیلا کر اس واسطے کہ میں نے عالموں سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو شطرنج کھیلے وہ دشمنانِ خدائے تعالیٰ سے ہے پس شوہر نے فارسی میں کہا کہ ایڈون کہ من دشمن خدایم بشکیم و ینارمہ پس شیخ نے دریافت کرنے والے سے کہا کہ یہ سخت لفظ ہے ہمارے علماء کے قول پر چاہیے کہ اپنی بیوی سے نکاح کی تجدید کرے اور اس کی بیوی بائنا ہوگئی اور دیگر مشائخ نے فرمایا کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور شیخ عبدالکریم سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص ایک قوم سے جھگڑا کرتا تھا پس کہا کہ میں دس آتش پرستوں سے بڑھ کر ستم گار ہوں یا کہا کہ میں دس مجوسیوں سے بڑھ کر بد ہوں تو فرمایا کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اس پر لازم ہے کہ توبہ استغفار کرے اور شیخ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص سے کہا گیا کہ یا ایک درہم دے تاکہ مسجد کی عمارت میں صرف کیا جائے یا مسجد میں نماز کے واسطے حاضر ہو پس اس نے کہا کہ میں نہ مسجد میں آؤں گا اور نہ درہم دوں گا مجھے مسجد سے کیا کام ہے اور وہ اسی پر مصر ہے یعنی عداوت ایسا ہی کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے گی لیکن اس کو تعزیر دی جائے گی یہ محیط میں ہے۔

اگر کسی نے چاند کے گرد ہالہ دیکھ کر دعویٰ کیا کہ پانی بر سے گا تو دعویٰ علم غیب سے تکفیر کیا جائے گا یہ بحر الرائق میں ہے اور اگر نجومی نے کہا کہ تیری بیوی کے پیٹ رہا ہے پس اس نے اس کے قول کا اعتقاد کیا تو کافر ہوا یہ فصول عمادہ میں ہے اور اگر بہامہ نے آواز کی پس کہا کہ مریض مر جائے گا یا کہا کہ بارگراں ہونے والا ہے یا عقیق نے آواز کی پس سفر سے لوٹ پڑا تو مشائخ نے ایسے شخص کے کفر میں اختلاف کیا ہے یہ خلاصہ میں ہے امام فضلی سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ یا احمر یعنی اسے سرخ پس اس شخص نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کے گودے سے پیدا کیا ہے اور تجھ کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی ایسی نہیں ہوتی ہے پس آیا تکفیر کیا جائے گا تو فرمایا کہ ہاں اور نیز دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے ایسا قول کہا جو شرع میں ممنوع ہے پس اس سے ایک نے کہا کہ تو کیا کرتا ہے تجھ پر کفر لازم آ گیا اس نے کہا کہ میں کیا کروں گا جب مجھ پر کفر لازم آ گیا پس آیا تکفیر کیا جائے گا تو

فرمایا کہ ہاں اور نیز دریافت کیا گیا کہ ایک شخص ضاد کی جگہ زاد پڑھتا ہے اور اصحاب النار کی جگہ اصحاب الجنہ پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اُس کی امامت نہیں جائز ہے اور اگر عمداً اُس نے ایسا کیا تو تکفیر کیا جائے گا اور جامع اصغر میں مذکور ہے کہ شیخ علی رازی فرماتے تھے کہ جو شخص اس طرح قسم کھایا کرتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی قسم یا تیری زندگی کی قسم یا تیری جان یا سر وغیرہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے میں اُس کے حق میں کفر کا خوف کرتا ہوں اور اگر کہا کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے مگر بندہ کی طرف سے جنبش چاہتا ہے تو بعض نے کہا کہ یہ شرک ہے ایک نے کہا کہ میں ثواب و عذاب سے بری ہوں تو بعض نے فرمایا کہ اُس کی تکفیر کی جائے گی اور نوازل میں مذکور ہے کہ ایک نے کہا کہ فلاں کہے گا وہی کروں گا اگرچہ سراسر کفر کہے تو اُس کی تکفیر کی جائے گی ایک نے فارسی میں کہا کہ از مسلمانی بیزارم یا مثلاً اُردو میں کہا کہ میں مسلمانیت سے بیزار ہوں تو بعض نے فرمایا کہ اُس کی تکفیر کی جائے گی اور نقل ہے کہ مامون رشید بادشاہ کے وقت میں ایک فقیہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک جولاہے کو قتل کر ڈالا اس پر کیا واجب ہے اُس نے جواب دیا کہ تغاریت (دیت دلانا) واجب ہے پس مامون رشید نے حکم دیا کہ اس فقیہ کو مارو چنانچہ اُسکے حکم سے یہاں تک مارا گیا کہ مر گیا اور مامون نے کہا کہ یہ حکم شرع کے ساتھ استہزاء ہے اور احکام شرعی سے استہزاء کرنا کفر ہے یہ محیط میں ہے۔

شہنشاہ بدون وصف اعظم کے خصائص اسماء اللہ تعالیٰ سے ہے اور کسی بندہ کا وصف اس لفظ سے جائز نہیں:

اگر درویشی را کوید بد ثرو سیاہ گلیم (کمل پوش و بد بخت) شدہ است تو یہ کفر ہے یہ عتابیہ میں ہے اور اگر کسی نے ہمارے زمانہ کے سلطان کو کہا کہ عادل ہے تو اُس نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا چنانچہ امام علم الہدیٰ ابو منصور ماتریدی نے ایسا ہی فرمایا ہے اور بعض نے کہا کہ تکفیر نہ کیا جائے گا قال المترجم اگر ہمارے زمانہ کے بادشاہ کو بمعنی شرعی عادل قرار دیا تو بدرجہ اولیٰ تکفیر کیا جائے وہو الاصح اور اگر جابروں میں سے کسی کو فارسی میں کہہ کہ اے خدائے تو تکفیر کیا جائے اور اگر کہا کہ اے بار خدائے تو تکفیر نہ کیا جائے بنا بر قول اکثر مشائخ کے اور یہی مختار ہے کذانی الخلاصہ قال المترجم ہماری زبان میں ان دونوں سے تکفیر کیا جائے گا واللہ اعلم ولم اجد فیہ النص اصول الصغار میں مذکور ہے کہ شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا گیا کہ جمعہ کے روز منبروں پر خطیب جو الفاظ نسبت بادشاہ وقت کے پڑھا کرتے ہیں مثلاً العادل الاعظم شہنشاہ اعظم مالک رقاب امم سلطان ارض اللہ مالک بلاد اللہ معین خلیفۃ اللہ پس آیا یہ الفاظ علی الاطلاق و التحقیق جائز ہے یا نہیں تو فرمایا کہ نہیں جائز اس واسطے کہ ان میں سے بعض الفاظ کفر اور بعض معصیت و دروغ ہیں چنانچہ شہنشاہ کہ بدون وصف اعظم کے خصائص اسماء اللہ تعالیٰ سے ہے اور کسی بندہ کا وصف اس لفظ سے جائز نہیں ہے اور مالک رقاب امم یہ محض دروغ ہے اور سلطان ارض اللہ و دیگر اس کے امثال سو یہ علی الاطلاق محض دروغ ہیں یہ تا تاریخانیہ میں ہے۔

امام ابو منصور نے فرمایا کہ اگر کسی نے دوسرے کے روبرو زمین کو بوسہ دیا یا اس کے واسطے مثل رکوع کے پشت خم کر کے جھک گیا یا صرف اپنا سر آگے ڈال دیا تو اُس کی تکفیر نہ کی جائے گی اس واسطے کہ اُس کی غرض اُس کی عبادت نہیں ہے بلکہ تعظیم ہے اور دیگر مشائخ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ان ظالموں میں سے کسی کے واسطے سجدہ کیا تو یہ کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے اور آیا اُس کی تکفیر کی جائے گی تو بعض نے فرمایا کہ مطلقاً تکفیر کی جائے گی اور اکثروں نے فرمایا کہ اس میں چند صورتیں ہیں اول آنکہ اگر اُس نے عبادت کا قصد کیا تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر تجحیت کا قصد کیا تو تکفیر نہ کیا جائے گا بلکہ اس پر ایسا کرنا حرام ہے بشرطیکہ اُس کا ارادہ کفر کا نہ ہو یہ اکثر عالموں کے نزدیک ہے اور رہا زمین کا بوسہ دینا تو یہ قریب سجدہ ہے فرق اتنا ہے کہ زمین کو بوسہ دینے میں اس قدر رخ و پشانی کا زمین پر رکھنا نہیں ہوتا ہے جیسے سجدہ میں ہے بلکہ کم ہے یہ ظہیر یہ میں ہے قال المترجم اصح یہ ہے کہ جو افعال کمال

تعظیم کے واسطے موضوع ہیں اور وہ وہی ہیں جو مخصوص بہ عبادت الہی ہیں اگر ان کو کسی بندہ کے ساتھ برتے تو کفر کا حکم دیا جائے گا
واللہ تعالیٰ اعلم اور اگر کسی نے اعتقاد کیا کہ خراج سلطان کی ملک ہے تو کافر کہا جائے گا یہ بحر الرائق میں ہے۔

اگر کوئی کہے کہ اس زمانہ میں جب تک خیانت نہ کروں اور جھوٹ نہ بولوں تب تک دن نہیں گذرتا، وہ
کہے کہ یہ بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بھی زیادہ سچی ہے تو کافر ہو جائے گا:

رسالہ صدر شہید میں ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے بدی کی پس اس نے کہا کہ میں یہ بدی تیری طرف سے جانتا ہوں نہ
بحکم خدائے تو کافر ہو جائے گا اور نیز اس رسالہ میں مذکور ہے کہ مجموع النوازل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شاہی خلعت پہنے واس کی
تہنیت کے وقت بغرض رضا مندی بادشاہ کے اس کی قربانی کرے تو کافر ہو جائے گا اور یہ قربانی مردار ہوگی اور اس کا کھانا راونہ ہو
گا اور ہمارے زمانہ میں ایک بات بہت شائع ہو گئی اور بہت سے مسلمانوں کی عورتیں اس میں مبتلا ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب بچوں
کے چیچک نکلتی ہے تو اس چیچک کے نام پر دہی یا بھوانی مانا ایک مورت مقرر کی ہے کہ اس کو پوجتے ہیں اور بچوں کے اچھے ہو جانے کی
اس سے دعا کرتے ہیں اور اعتقاد کرے ہیں کہ یہ پتھر ان کو اچھا کر دیتا ہے تو یہ عورتیں اس فعل واس اعتقاد سے کافر ہو جاتی ہیں اور
ان کے شوہر جو ان کے فعل سے رضامند ہیں وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں قال اور جو نہیں رضامند ہیں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور
دوسرے اسی جنس سے یہ ہے کہ پانی کے کنارے جاتی ہیں اور اس پانی کو پوجتی ہیں اور جو نیت رکھتی ہیں اس کے موافق اس پانی کے
کنارے بکرے کو ذبح کرتی ہیں یہ پانی کے پوجنے والی اور بکرے کے ذبح کرنے والی سب کافر ہیں اور یہ بکری مردار ہو جاتی ہے
اس کا کھانا راونہ نہیں ہے اور اسی طرح جو گھروں میں ایک صورت بنا لیتی ہیں جیسے بت پرستوں کے پوجا کا معمول ہے کہ اس کی
پرستش کرتی ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے وقت شکرگرف سے نقش کرتی ہیں اور روغن ڈالتی ہیں اور اس کو بنام بھوانی کہتی ہیں اور پوجتی ہیں
اور مثل اس کے جو باتیں کرتی ہیں ان سب سے کافر ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہروں سے ماٹن ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی کہے کہ اس زمانہ
میں جب تک خیانت نہ کروں اور جھوٹ نہ بولوں تب تک دن نہیں گذرتا ہے یا کہے کہ جب تک تو خرید و فروخت میں جھوٹ نہ
بولے تب تک کھانے کو روٹی نہ پائے گا یا کسی سے کہے کہ تو کیوں خیانت کرتا ہے، کیوں جھوٹ بولتا ہے وہ کہے کہ بغیر اس کے چارہ
نہیں ہے تو ایسے تمام الفاظ سے کافر ہو جاتا ہے اور اگر کسی سے کہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے اور وہ کہے کہ یہ بات لا الہ الا اللہ و
محمد رسول اللہ سے بھی زیادہ سچی ہے تو کافر ہو جائے گا اور اگر کوئی غصہ میں ہو جائے اور دوسرا کہے کہ کافر ہونا اس سے بہتر ہے تو
کافر ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص ایسی بات کہے جو شرع میں ممنوع ہے اور دوسرا کہے کہ تو کیا کہتا ہے کہ تجھ پر کفر لازم ہوتا ہے وہ کہے
کہ تو کیا کرے گا اگر مجھ پر کفر لازم آئے گا تو کافر ہو جائے گا یہ تا تاریخانیہ میں ہے۔

اور جس شخص کے دل میں ایسے امر کا خطرہ گذرا جو موجب کفر ہے پس اگر اس امر کو اس نے زبان سے کہا حالانکہ وہ اس
سے بہت کراہیت کر رہا ہے تو یہ محض ایمان ہے اور اگر کسی نے کفر کا مصمم ارادہ کیا اگرچہ سو برس کے بعد کفر کرنے کا ارادہ کیا ہو تو فی
الحال کافر ہو جائے گا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر کسی نے بطوع خود اپنی زبان سے کفر کہا حالانکہ اس کا دل ایمان پر ہے تو کافر ہو جائے
گا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے قال المترجم جن صورتوں میں بالاتفاق تکفیر کی جاتی ہے وہاں
واجب ہے کہ توبہ کر کے رجوع کر لے اور از سر نو نکاح کرے اور واضح ہو کہ جن صورتوں میں کفر ہونے میں اختلاف ہے ان میں
اس کے مرتکب کو حکم کیا جائے گا کہ وہ تجدید نکاح کرے اور توبہ کرے اور اس سے رجوع کرے اور یہ بطریق احتیاط کے کہا جائے گا

اور جن الفاظ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ خطا میں اور موجب کفر نہیں ہے تو اس کے کہنے والے کو تجدید نکاح اور اُس سے پھر جانے کا حکم نہ کیا جائے گا اگرچہ یہ کہا جائے گا کہ پھر ایسا نہ کہے کیوں کہ گنہگار ہوگا یہ محیط میں ہے اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش آئے کہ اس میں کئی وجہیں ایسی ہیں کہ ان کے لحاظ سے یہ حکم ہوتا ہے کہ تکفیر کی جائے اور ایک وجہ ایسی بھی نکلتی ہے کہ تکفیر نہ کی جائے یعنی شرعاً اس وجہ سے تکفیر سے بچ سکتا ہے تو مفتی کو لازم ہے کہ اسی وجہ کی طرف میل کرے جس سے تکفیر پختی ہے یہ خلاصہ میں ہے اور بزاز یہ میں لکھا ہے کہ صورت تاویلی کی طرف جس سے تکفیر سے بچ سکتا ہے جب ہی میل کرے گا کہ جب تصریح نہ کی ہو اور اگر کہنے والے نے تصریح کر دی اور تصریح ایسا ارادہ بیان کر دیا جو موجب کفر ہے تو ایسی صورت میں تاویل کچھ فائدہ نہ دے گی یہ بحر الرائق میں ہے۔

پھر اگر کہنے والے کی نیت بھی وہی صورت تاویلی ہو جس سے تکفیر سے بچتا ہے تو وہ مسلمان رہا اور اگر کہنے والے کی نیت ایسی وجہ ہو کہ وہ موجب تکفیر ہے تو اُس کو اس مفتی کا فتویٰ کچھ مفید نہ ہوگا بلکہ اُس کو اپنی ذات کی راہ سے لازم ہوگا کہ ایمان کی راہ ڈھونڈے اور وہ یہ ہے کہ اس کو حکم کیا جائے گا کہ تو بہ کر کے اُس سے رجوع کرے اور اپنی بیوی سے از سر نو اپنا نکاح کرے یہ محیط میں ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ ہر صبح و شام اس دعا کے پڑھ کر وظیفہ کرے کہ یہ ایسے ورطوں میں پڑنے سے بچاؤ کا سبب ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ہر صبح و شام اُس کا ورد رکھے وہ محفوظ رہے گا اور دعا ہے اللہم ان اعوذ بک من ان اشرك بک شینا وانا اعلم واستغفرک لالا اعلم یہ خلاصہ میں ہے۔

باب: ۱۰

باغیوں کے بیان میں

باغی کی تعریف و احکام:

اہل بغی ہر ایسے فرقہ کو کہتے ہیں جو قوت منعت رکھتے ہیں کہ تغلب کر لیں اور مجتمع ہو جائیں اور تاویل کے ساتھ اہل عدل کے ساتھ قتال کریں اور کہیں کہ حق ہمارے ساتھ ہے اور اپنے والی ہونے کا دعویٰ کریں پس اگر چوروں میں سے کوئی قوم کسی شہر پر غالب ہوگئی اور انہوں نے مال لے لیا تو یہ لوگ باغی نہ کہلائیں گے یہ خزانۃ المفتیین میں ہے اور جب کوئی قوم اطاعت امام المسلمین سے منحرف ہوگئی اور وہ کسی شہر پر غلبہ کر کے قابض ہوگئی تو امام موصوف پہلے ان کو جماعت میں مل جانے اور بغاوت سے باز آنے کی جانب بلائے گا اور اُن کا شہر رفع کر دے گا اور اُن سے کہے گا کہ تو بہ کر لو یہ کافی میں ہے مگر واضح رہے کہ اس طرح بلانا ان کو واجب نہیں ہے اور جب امام المسلمین کو خبر پہنچے کہ وہ لوگ ہتھیار خریدتے ہیں اور قتال کے واسطے سامان کرتے ہیں تو چاہیے کہ ان کو گرفتار کر کے قید کرے یہاں تک کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز آئیں اور از سر نو تو بہ کر کے حقوق اسلام کی رعایت کے ساتھ جماعت میں شامل رہیں اور یہ بدین غرض کرے کہ بقدر امکان شروع ہوئے یہ ہدایہ میں ہے۔

امام اہل عدل کو روا ہے کہ اُن سے قتال شروع کر دے اگرچہ انہوں نے قتال میں پہل نہ کی ہو اور یہ ہمارا مذہب ہے اور جب یہ ثابت ہو کہ ایسے گروہ باغی کا قتل کرنا جس کو منعت حاصل ہے مباح ہے اگرچہ ہقیقتہً ان کی جانب سے قتال نہ پایا جائے تو

۱۔ وہی جہت اختیار کرے جس سے حکم کفر نہ ہوتا ہو ۱۲۔ ۲۔ اے میرے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک کروں اور حالیہ میں جانتا ہوں اور تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اس سے کہ جس کو میں نہیں جانتا ہوں ۱۲۔

ایسے شخص کا بھی قتل مباح ہوگا جو ان کی قوت بازو ہونا چاہتا ہے اور ان کی طرف جاتا ہے اور اگر امام المسلمین نے اسی گروہ کو ہزیمت دی تو پھر مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ ان بھاگے ہوئے باغیوں کا پیچھا کریں یعنی قتل کرتے جائیں بشرطیکہ ان کے واسطے کوئی ایسا گروہ صاحب منعت نہ رہا ہو کہ اس کی طرف جائیں اور اگر بھاگے ہوئے باغیوں کے واسطے کوئی ایسا گروہ ہو کہ جن سے جائیں گے تو اہل عدل کو روا ہوگا کہ ان بھاگے ہوئے باغیوں کا پیچھا کریں اور جو شخص ان باغیوں میں سے اسیر ہو گیا ہے تو امام المسلمین کو یہ روا نہیں ہے کہ اُس کو قتل کرے بشرطیکہ یہ معلوم ہو کہ اگر قتل نہ کیا جائے گا تو ایسے گروہ کو نہیں مل جائے گا جن کو قوت منعت حاصل ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ اگر نہ قتل کیا گیا تو ایسے باغیوں کے گروہ سے مل جائے گا جن کو قوت منعت حاصل ہے تو امام اُس کو قتل کر سکتا ہے کذا فی المحیط اور چاہے اُس کو قید میں رکھے یہ ہدایہ میں ہے اور جب باغیوں کی کوئی جماعت باقی نہ رہی ہو اور قتال میں باغیوں میں سے بعض مجروح ہیں تو اہل عدل کو روا نہیں لے کہ باغی مجروح کو اجہاز کر میں یعنی اس کے بدن پر اور زخم ایسا لگا دیں کہ وہ مردہ ہو جائے اور اگر باغیوں کے واسطے کوئی اور جماعت باقی رہ گئی ہو تو ان کا اجہاز کر دے اور باغیوں کی عورتیں و بچے گرفتار کر کے رقیق نہ بنائے جائیں گے اور ان کے اموال جو ہاتھ آئے ہیں وہ ملک میں نہ آئیں گے اور اہل عدل نے باغیوں کے لشکر میں جو کراہ و ہتھیار وغیرہ پائے وہ فی الحال ان کو واپس نہ دیئے جائیں گے لیکن اگر اہل عدل کو ان سے قتال کرنے میں ان کے ان ہتھیاروں و کراہ کی حاجت ہو تو ان سے نفع حاصل کریں پس ہتھیار اپنے موقع پر رکھے جائے گئے جیسے دیگر اموال کا حکم ہے اور کراہ فروخت کیے جائیں اور ان کا ثمن رکھ چھوڑا جائے گا کیوں کہ کراہ کو دانہ چارہ دینے کی ضرورت پڑے گی اور بیت المال سے امام ان کو دانہ چارہ نہ دے گا اس وجہ سے کہ اس میں باغیوں پر احسان ہے اور اگر امام نے بیت المال سے ان کو دانہ چارہ دیا تو جس باغی کا جانور ہے اُس پر یہ مال قرضہ ہوگا پھر جب لڑائی میں ہتھیار رکھ دیئے اور باغیوں کی منعت زائل تو یہ اموال ان باغیوں کو واپس کر دے گا اور حالت بغاوت و لڑائی میں باغیوں نے جو ہمارے لوگوں کی جانیں کالیں تلف کی ہیں تو جب ان کی منعت زائل ہو جائے تو وہ کہیں تو ضامن نہ ہوں گے اور اسی طرح مرتدوں نے جو ہماری جانیں و مال حالت لڑائی میں تلف کیے ہوں اس کے ضامن نہ ہوں گے جب کہ مسلمان ہو جائیں اور قبل قتال کے جو ہمارے مال و جانیں انھوں نے تلف کی ہیں اُس کے ضامن نہ ہوں گے جب کہ ان کو قوت منعت حاصل ہو لیکن جو مال ان کے پاس قائم و موجود ہوگا وہ اس کے مالک کو واپس کر دیا جائے گا جب کہ انھوں نے توبہ کر لی اگرچہ ان لوگوں نے ان اموال کی نسبت اپنی تاویل فاسد کے موافق مالک ہو جانے کا اعتقاد کیا تھا اور اس تاویل فاسد کے ساتھ منعت بھی موجود تھی اور اسی طرح اہل عدل نے بھی جو ان کی جانیں و مال تلف کیے ہیں ان کے مسلمان ہو جانے کے سبب سے ان کے لیے اُس کے ضامن نہ ہوں گے کذا فی الذخیرہ اور جو انھوں نے قبل اس کے لیا ہے وہ ان کے ضامن ہوں گے یہ نہایہ میں ہے۔

اگر باغیوں میں سے کسی کا غلام جو اپنے مولیٰ کے ساتھ لڑتا تھا گرفتار کیا گیا تو وہ قتل کر دیا جائے گا:

اگر کسی ایسی جماعت نے جو خانہ کعبہ کے رخ پر خدائے تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں کوئی رائے ظاہر کی اور لوگوں کو اس رائے کی جانب بلایا اور اس رائے پر قتال کیا اور ان کے واسطے منعت و قوت و شوکت حاصل ہو گئی پس اگر یہ امر اس وجہ سے ہو کہ

سلطان نے ان کے حق میں ظلم کیا ہے تو سلطان کو چاہیے کہ ان پر ظلم نہ کرے اور اگر سلطان ان کے حق میں ظلم کرنے سے باز نہ آیا اور اس گروہ نے سلطان سے قتال کرنا شروع کیا تو لوگوں کو ان کی مدد نہ کرنی چاہیے اور نہ یہ چاہیے کہ سلطان کی مدد کریں اور اگر یہ امر اس سبب سے نہ ہو کہ سلطان نے ان پر حکم کیا ہے بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حق ہمارے ساتھ ہے اور اپنے واسطے ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سلطان کو روا ہے کہ ان سے قتال کرے اور لوگوں کو روا ہے کہ سلطان کی مددگاری کریں یہ سراجیہ میں ہے اور ان کے ساتھ قتال کرنا ہر ایسے طریقہ و ہتھیار سے روا ہے جس سے اہل حرب کے ساتھ قتل کرنا روا ہے مثل تیروں سے مارنے اور منجیق لگانے اور پانی پہنچا کر غرق کر دینے یا آگ لگا دینے اور شخبوں مارنے وغیرہ کے یہ نہایہ میں ہے اور تجرید میں لکھا ہے کہ باغیوں کے ساتھ عورتوں و بچوں و بوڑھوں و اندھوں میں سے جو کوئی ہوئے قتل نہ کیا جائے گا اور اگر باغیوں میں سے کسی کا غلام جو اپنے مولیٰ کے ساتھ لڑتا تھا گرفتار کیا گیا تو وہ قتل کر دیا جائے گا اور اگر اس کی خدمت کیا کرتا تھا قتال نہیں کرتا تھا تو قتل نہیں کیا جائے گا مگر قید رکھا جائے گا یہاں تک کہ بغاوت زائل ہو جائے اور اگر باغیوں کی عورتیں بھی قتال کرتی ہوں تو وہ بھی قتل کی جائے گی یہ تاتار خانہ میں ہے۔

اگر معرکہ قتال میں کوئی باغی کسی اہل عدل کا قریب ایسا ہو کہ اس کا ذی رحم محرم ہو تو اہل عدل میں یہ شخص خود اس کے قتل کا مرتکب نہ ہو لیکن اگر وہ اس شخص عادل کو ضرر قتل وغیرہ پہنچانا چاہتا ہو تو اپنی جان سے ضرر دور کرنے کے واسطے اس کو قتل کر سکتا ہے ہاں عادل کو یہ روا ہے کہ اس ذی رحم محرم باغی کا جانور سواری قتل کر دے تاکہ باغی مذکور منزجر ہو جائے پس کوئی دوسرا اس کو قتل کر دے یہ سراجیہ میں ہے۔ اگر باغیوں نے اہل عدل کے ساتھ لڑائی کے واسطے ذمیوں کے کسی گروہ سے مدد مانگی پس ذمیوں نے ان باغیوں کے ساتھ ہو کر اہل عدل سے قتال کیا تو یہ امر ذمیوں کے طرف سے نقض عہد نہ ہوگا اور ذمیوں نے اس قتال میں جو کچھ ہمارا مال لے کر تلف کیا یا جان تلف کی یا زخمی کیا یا ہم نے ان کے ساتھ کیا تو کسی پر اس کی ضمان واجب نہ ہوگی جیسے باغیوں کے حق میں حکم ہے اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ اگر باغی لوگ اپنے لشکر میں ہوں اور وہاں ان میں سے کسی نے دوسرے کو قتل کیا تو قاتل پر قصاص لازم نہ ہوگا اور امام محمدؒ نے جامع صغیر میں فرمایا کہ اگر باغی لوگ اہل عدل کے کسی شہر پر غالب ہوئے پھر باغیوں میں سے کسی شخص نے اہل شہر میں سے کسی شخص کو عداً قتل کر ڈالا پھر اہل عدل اس شہر پر غالب ہوئے تو قاتل سے قصاص لیا جائے گا اور اس مسئلہ کے معنی یہ ہیں کہ باغی لوگ کسی اہل عدل کے شہر پر غالب ہوئے اور ہنوز باغیوں کا حکم اس شہر میں جاری نہیں ہوا تھا کہ امام اہل شہر نے ان باغیوں کو پسپا کر لیا تو یہ حکم مذکور ہوگا۔ اگر اس شہر میں باغیوں کا حکم جاری ہو گیا تو اہل عدل کی ولایت و منعت وہاں سے منقطع ہو گئی پس شہر والوں میں سے کسی کے قتل کرنے سے قاتل پر کچھ واجب نہ ہوگا اور نیز امام محمدؒ نے جامع صغیر میں ذکر فرمایا کہ اگر اہل عدل میں سے کسی نے باغی کو قتل کیا حالانکہ قاتل اس کا وارث ہے تو وارث رہے گا اور اگر باغی نے اس کو قتل کیا حالانکہ اس کا وارث ہے پھر باغی نے کہا کہ جب میں نے اس کو قتل کیا میں حق پر تھا اور میں اب تک حق پر ہوں تو مقتول کا وارث ہوگا۔ اگر باغی مذکور نے کہا کہ جس وقت میں نے اس کو قتل کیا ہے میں جانتا تھا کہ باطل پر ہوں تو امام اعظمؒ و امام محمدؒ کے نزدیک اس کا وارث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر باغیوں نے مسلمانوں سے عشر و خراج وصول کر لیا تو دوبارہ نہ لیا جائے گا:

باغیوں میں سے جو شخص قتل کیا جائے نہ اس کو غسل دیا جائے گا اور نہ اس پر نماز پڑھی جائے گی اور اہل عدل میں سے جو

شخص قتل کیا گیا تو اس کے وہی معاملہ کیا جائے گا جو شہیدوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس کا حکم بھی وہی ہے جو شہید کا ہے یہ شرح
 طحاوی میں ہے اگر باغیوں نے عشر و خراج وصول کر لیا تو دوبارہ نہ لیا جائے گا پھر جو کچھ باغیوں نے وصول کیا ہے اگر اس کو جس
 طرح صرف کرنا چاہیے اور جہاں صرف کرنا چاہیے ہے صرف کیا ہوئے تو جس سے وصول کیا ہے اس پر قضاء اعادہ لازم نہیں ہے
 لیکن جس سے وصول کیا ہے یعنی مالکان اموال کو فتویٰ دیا جائے گا کہ دیانتہ یعنی فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ کی اس کا اعادہ کر دیں یعنی
 خود فقیروں کو دے دیں لیکن ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ خراج میں ان پر دیانت کہ راہ سے بھی اعادہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح
 عشر میں بھی اگر اہل بغاوت فقیر لوگ ہوں تو اعادہ واجب نہیں ہے یہ غایتہ البیان میں لکھا ہے اور اہل فتنہ کے ہاتھ ان کے لشکر میں
 ہتھیار فروخت کرنا مکروہ ہے اور اگر ان کے لشکر میں نہیں بلکہ مثلاً کوفہ میں کسی کے ہاتھ ہتھیار فروخت کیے پس اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ
 یہ اہل فتنہ میں سے ہے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے اور یہ حکم نفس سلاح میں ہے یعنی جو ہتھیار بنے بنائے عرف میں ہتھیار کہلاتے ہیں ان
 کے فروخت کرنے میں یہ حکم ہے اور جو چیز ایسی ہے کہ ابھی اس سے قتال نہیں کیا جاسکتا ہے الا بعد ساخت کے یعنی جو چیز ایسی ہے کہ
 بدون اس سے بنانے و ڈھالنے کے قتال نہیں کر سکتے ہیں جیسے محض لوہا وغیرہ تو اس کے فروخت کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے یہ کافی
 میں ہے۔ قال المتر جم یہ ظاہر یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ محض لوہا وغیرہ مطلقاً ان کے لشکر میں لے جا کر فروخت کرنا بھی مکروہ نہیں ہے
 حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

کتاب اللقیط

لقیط کی شرعی تعریف و احکام:

لقیط شرع میں ایسے زندہ بچہ کو بولتے ہیں جس کو اس کے اہل نے درویشی کے خوف سے یا تہمت زنا سے بھاگ بچنے کی غرض سے پھینک دیا ہو پھر اُس کا اس طرح ضائع پھینک دینے والا بڑا گنہگار ہے اور اس کا حفاظت میں لے لینے والا بڑے ثواب سے مالدار ہے اور جس نے اُس کو اس طرح پڑا دیکھا اس کو اٹھالینا مندوب ہے لیکن اگر اس کے غالب گمان میں یہ ہو کہ ضائع ہو جائے گا جیسے پانی میں پڑا دیکھا یا درندہ کے سامنے تو اٹھالینا واجب ہے اور لقیط آزاد ہوتا ہے یعنی اٹھانے والے کا مملوک نہیں ہوتا ہے اٹھانے والے کو ملتقط کہتے ہیں اور اس کا ولی سلطان ہے نہ ملتقط وغیرہ چنانچہ اگر ملتقط نے کسی عورت سے اُس کا نکاح کر دیا یا لقیط لڑکی تھی کہ کسی مرد سے بیاہ دی تو روانہ نہیں ہے یہ خزانہ مفتین میں ہے مگر ملتقط کے ہاتھ سے اُس کو کوئی لے نہیں سکتا ہے اور اگر ملتقط نے خود کسی کی پرورش میں دیدیا تو اُس سے واپس نہیں لے سکتا ہے یہ تبیین میں ہے اور اُس کا نفقہ اور اُسکے جرم کا جرمانہ بیت المال پر ہے یعنی گویا وہی اس کی مددگار برادری ہے یہ محیط میں ہے اور لقیط کے تن پر بندھا ہوا مال پایا گیا تو وہ لقیط کا ہوگا اور اسی طرح اگر کسی جانور پر پایا گیا اور اس جانور پر مال بندھا ہوا ہے تو بھی یہی حکم ہے اور اگر لقیط کے قریب مال رکھا ہو املا تو لقیط کے واسطے اُس کا حکم نہ دیا جائیگا کہ یہ اس کا ہے بلکہ یہ مال لقطہ کے حکم میں ہوگا اور اگر لقیط کسی جانور پر سوار پایا گیا تو یہ جانور اسی کا ہوگا یہ جوہرہ نیرہ میں ہے۔

اگر کوئی ایک لقیط اٹھالایا اور اُسکے ہاتھ سے دوسرے نے چھین لیا اور دونوں نالاش میں قاضی کے حضور میں پیش ہوئے:

لقیط کا نفقہ اس مال سے جنحسب ہوگا کہ قاضی نے حکم دیدیا کہ ملتقط اس میں سے اس پر خرچ کرے اور بعض نے فرمایا کہ بغیر حکم قاضی بھی خرچ کر سکتا ہے اور نفقہ مثل تک ملتقط کے قول کی تصدیق کی جائے گی یہ محیط میں ہے اور اس کی ولاء بیت المال کے واسطے ہوگی چنانچہ اگر وہ بدون کسی وارث چھوڑنے کے مر گیا اور اُس کا کوئی مولیٰ الموالیات بھی نہیں ہے تو اُس کا ترکہ بیت المال میں داخل ہوگا یہ خزانہ مفتین میں ہے اور اگر لقیط کو ملتقط اٹھا کر قاضی کے پاس لایا اور قاضی سے درخواست کی کہ مجھ سے اس کو لے لے تو قاضی کو اختیار ہے کہ بدون گواہی کے اس کی تصدیق نہ کرے اس واسطے کہ مسلمانوں کے بیت المال سے اُسکے نفقہ و خرچہ دلانے کا دعویٰ کرتا ہے اور جب اُسے گواہ قائم کر دیئے تو قاضی اُسکے گواہوں کو بدون کسی خصم حاضر کے قبول کر لے گا اور جب

۱۔ قال المتزجم اس کو میل بھی کہتے ہیں ۱۲۔ ۲۔ ظاہر مراد ہے کہ تقریب درندہ وہاں آئے گا آنکہ درندہ موجود ہے پس بشرط قدرت اٹھانے والا علم ۱۲۔ ۳۔ بیت المال سے اس کا نفقہ ملے گا اور اگر جرم کیا تو بھی بیت المال اس کا عاملہ ہوگا ۱۲۔ ۴۔ جتنا ایسے بچہ کا خرچہ پڑتا ہو موافق رسم ملک کے ۱۲۔ ۵۔ مشائخ روپیہ مینا ایسے بچہ پر خرچ ہوتا ہے اور ملتقط نے کہا میں نے اس سال سے اس پر تین روپیہ خرچ کر دیئے ہیں تو علی قول بعض اس کی تصدیق ہی جائے گی اگر زیادہ کہا تو بقدر زیادتی کے ضامن ہوگا ۱۲۔

قاضی نے اس کے گواہ قبول کیے تو بعد اس کے چاہے لقیظ کو اُس سے اپنے قبضہ میں لے لے اور چاہے نہ لے لیکن یہ ضرور کرے گا کہ اُس کا کوئی متولی مقرر کر دے گا جو متولی ہونا قبول کرے اور اس متولی سے کہہ دے گا کہ تو نے اس کی حفاظت اپنے اوپر لازم کی ہے پس تو اُس کی حفاظت میں ہر طرح سے مستعد رہ اور یہ اس وقت ہے کہ قاضی کے علم میں ملتقط کا عاجز ہونا اُس کی حفاظت سے اور اس پر خرچ کرنے سے ثابت نہ ہو اور اگر قاضی اس کو جانتا ہو تو اولیٰ یہ ہے کہ ملتقط سے لے کر کسی ایسے کے پاس رکھے کہ اُس کی حفاظت کر سکتا ہے تاکہ اس کی حفاظت کرے پھر اگر ملتقط آیا اور قاضی سے درخاست کی کہ مجھے واپس دیا جائے تو قاضی کو اختیار ہے چاہے اُس کو واپس سے اور چاہے نہ دے بخلاف اس کے اگر کوئی ایک لقیظ اٹھالایا اور اُسکے ہاتھ سے دوسرے نے چھین لیا اور دونوں نالش میں قاضی کے حضور میں پیش ہوئے تو قاضی لقیظ اول کو دے گا اور اگر غلام نے کوئی لقیظ پایا اور یہ امر فقط اس غلام کے قول سے معلوم ہوتا ہے اور مولیٰ کہتا ہے تو جھوٹا ہے یہ لقیظ نہیں بلکہ میرا غلام ہے پس اگر یہ غلام ملتقط مجبور ہو تو مولیٰ کا قول قبول ہوگا اور اگر ماذون ہو تو قول غلام کا قبول ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر لقیظ نے اقرار کیا کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور فلاں مذکور اُس کی تکذیب کرتا ہے تو لقیظ آزاد ہے اور اگر اُس نے تصدیق کی پس اگر لقیظ مذکور پر آزادوں کے احکام نہ جاری ہوئے ہوں جیسے اُس کی گواہی قبول نہ کی گئی ہو یا اُسکے قاذف کو حد نہ ماری گئی ہو وغیر ذلک تو اُس کا اقرار صحیح ہوگا ورنہ نہیں یہ سراجیہ میں ہے اور اگر ملتقط نے ہنوز اُسکے نسب کا دعوے نہیں کیا ہے کہ کسی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو مدعی سے اُس کا نسب ثابت ہو جائے گا اور بعض نے کہا کہ نسب کے حق میں دعویٰ صحیح ہے ولیکن ملتقط کا قبضہ باطل کرنے کے حق میں صحیح نہ ہوگا مگر قول اول اصح ہے اور اگر ملتقط اور کسی اور دونوں نے دعویٰ نسب کیا تو ملتقط کا دعویٰ نسب اولیٰ ہوگا اگر چہ وہ ذمی ہو اور دوسرا مسلمان ہو یہ تمین میں ہے (یعنی ساتھ ہی ۱۲) پس اگر ایسا ہو کہ مدعی نسب ذمی ہو تو لقیظ اس کا بیٹا قرار دیا جائے گا مگر وہ مسلمان ہوگا اور اگر مسلمان و ذمی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو مسلمان کے واسطے حکم دیا جائے گا اور اگر دونوں مسلمان ہوں تو جس کے گواہ قائم ہوں اس کے واسطے حکم دیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو دونوں کا فرزند قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں میں سے کسی نے گواہ قائم نہ کیے لیکن ایک نے اس کے بدن کے علامات ٹھیک ٹھیک بیان کیے اور دوسرے نے نہ بیان کیے تو علامات بیان کرنے والے کے واسطے حکم دیا جائے گا یہ سراجیہ میں ہے اور اگر دونوں میں سے کسی نے علامات بیان نہ کیں تو دونوں کا فرزند قرار دیا جائے گا یہ غایۃ البیان میں ہے اور اگر ایک ہی نے علامات بیان کیے مگر بعض ٹھیک کہے اور بعض میں خطا کی تو بھی دونوں کا فرزند قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں نے علامات بیان کیے مگر ایک نے ٹھیک کیے اور دوسرے نے غلط تو ٹھیک والے کے واسطے حکم ہوگا اور اسی طرح اگر ایک نے کہا کہ لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا لڑکی ہے تو جس کا قول مطابق ہو اسی کے نام حکم ہوگا اور اگر تنہا ایک ہی مدعی نسب ہو اور اُس نے کہا کہ لڑکا ہے حالانکہ وہ لڑکی ہے یا کہا کہ وہ لڑکی ہے حالانکہ وہ لڑکا ہے تو اس کے واسطے بالکل حکم فرزند ہی نہ ہوگا اگر لقیظ کا دو آدمیوں نے دعویٰ کیا ایک نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور دوسرے نے کہا کہ وہ میری بیٹی ہے پھر وہ خشتی مشکل ہو تو دونوں کے واسطے اس کے فرزند کا حکم دیا جائے گا اور اگر مشکل نہ ہو بلکہ حکم دیا گیا کہ یہ لڑکا ہے تو اس کے نام حکم ہوگا جو اپنا لڑکا ہونے کا مدعی ہے یہ تاتار خانہ میں ہے۔

ایک سے زائد نے دعویٰ نسب کیا تو؟

اگر نسب کے دعویٰ کرنے والے دو آدمیوں سے زیادہ ہوں تو امام اعظم سے مروی ہے کہ انہوں نے پانچ مدعیوں تک

۱۔ قال المصنف جم ظاہر دونوں مرد اپنے مدعیہ عورت کی تصدیق کرتے ہیں ولیکن گواہ قائم ہونے کی صورت میں اس کی چھ ضرورت بنا۔ قول امام اعظم نہیں ہے نافہم ۱۲۔ ۲۔ وہ شخص جس میں عورت اور مرد دونوں کی علامت ہو ۱۲۔ ۳۔ اگر چہ علامت لڑکی کی بھی موجود ہے ۱۲۔

جواز کا حکم دیا ہے یہ سراجیہ میں ہے ایک عورت نے لقیط کی نسبت دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے پس اگر اُسکے شوہر نے اس کی تصدیق کی یا قابلہ نے اس کی گواہی دی یا گواہ قائم ہوئے تو عورت کا دعویٰ صحیح ہوگا ورنہ نہیں اور فقط قابلہ کی گواہی پر جب ہی اکتفا کیا جائے گا جب عورت مذکورہ کا شوہر موجود ہو ولادت سے منکر ہو اور اگر عورت کا شوہر ہی نہ ہو تو دو مردوں کی گواہی ضروری ہے یہ بحر الرائق میں ہے اور اگر عورت نے یوں دعویٰ کیا کہ یہ زنا سے میرا بیٹا ہے تو اس کے نام حکم دیا جائے گا یہ سراجیہ میں ہے اور اگر دو عورتوں نے لقیط کا دعویٰ کیا تو بنا بر قول صاحبین کے دونوں میں سے کسی سے اُس کا نسب ثابت نہ ہوگا اور بنا بر قول امام اعظم کے ہر دو عورت سے اُس کا نسب ثابت ہوگا لیکن تعارض و تنازع کے وقت کسی حجت کا ہونا ضروری ہے پس بنا بر روایت ابو حفص کے حجت ایک عورت کی گواہی ہے اور بنا بر روایت ابو سلیمان کے دو مردوں یا ایک مرد و دو عورتوں کی گواہی ہے پس اگر دونوں نے ایسی حجت قائم کی تو دونوں سے اُس کا نسب ثابت ہوگا ورنہ نہیں اور خانیہ میں لکھا ہے کہ اگر ایک نے دو مرد اور دوسری نے دو عورتیں گواہ دیئے تو جسکے دو مرد گواہ ہیں اُس کا فرزند قرار دیا جائے گا اور شرح طحاوی میں ہے کہ اگر ایک نے گواہ دیئے اور دوسری نے نہیں تو گواہ والی کا فرزند قرار دیا جائے گا اور اگر دو عورتوں نے لقیط کا دعویٰ کیا اور ہر ایک عورت علیحدہ علیحدہ ایک مرد معین سے اس کو چہنے پر گواہ لاتی ہے تو امام اعظم نے فرمایا کہ لقیط مذکور ان دونوں عورتوں کا دونوں مردوں سے فرزند قرار دیا جائے گا اور صاحبین نے فرمایا کہ نہ دونوں کا اور نہ دونوں مردوں کا کسی کا فرزند نہ ہوگا یہ تاتار خانیہ میں ہے اور اگر ایک مرد نے دعویٰ کیا کہ یہ لقیط میرا بیٹا اس آزاد عورت سے ہے اور دوسرے مرد نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا غلام ہے اور دونوں نے گواہ قائم کیے تو جو اُسکے فرزند کا مدعی ہے اُسکے واسطے حکم دیا جائے گا اور اگر ایک نے دعویٰ کیا یہ میرا بیٹا اس آزاد عورت سے ہے اور دوسرے نے کہا کہ یہ میرا بیٹا باندی عورت سے ہے تو آزاد عورت والے مدعی کے واسطے حکم ہوگا اور اگر دونوں نے علیحدہ علیحدہ ایک ایک آزاد عورت معینہ سے اپنا بیٹا ہونے کا لقیط کی نسبت دعویٰ کیا تو دونوں کا بیٹا قرار دیا جائے گا اور آیا ہر دو عورت سے اُس کا نسب ثابت ہوگا یا نہیں پس بنا بر قول امام اعظم کے ثابت ہوگا اور بنا بر قول صاحبین کے نہیں یہ محیط میں ہے۔

اگر قابضہ کے واسطے ایک عورت نے گواہی دی اور خارجہ کے واسطے دو مردوں نے گواہی دی تو خارجہ کے واسطے حکم دیا جائے گا:

دو مردوں نے ایک لقیط کے نسب کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ قائم کیے اور ہر ایک کے فریق گواہوں نے تاریخ بیان کی ہے تو جس کی تاریخ کا لقیط کا سن شاید ہو اس کے نام حکم دیا جائے گا اور اگر لقیط کا سن مشتبہ ہو کہ ہر دو تاریخ میں سے کسی کے ساتھ متوافق نہ ہو تو بنا بر قول صاحبین کے موافق تمام روایتوں کے تاریخ کا اعتبار ساقط اور دونوں کا فرزند ہونے کا حکم دیا جائے گا اور بنا بر قول امام اعظم کے شیخ الاسلام خواہر زادہ نے ذکر کیا کہ روایت ابو حفص میں دونوں کا فرزند ہونے کا حکم دیا جائے گا اور روایت ابو سلیمان میں جس کی تاریخ مقدم ہے اُس کے نام حکم دیا جائے گا اور تاتار خانیہ میں ہے کہ عامہ روایات کے موافق دونوں کا مشترک فرزند ہونے کا حکم دیا جائے گا اور یہی صحیح ہے یہ بحر الرائق و محیط میں ہے اور اگر کسی شخص کے قبضہ میں ایک طفل ہو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس پر گواہ قائم کرتا ہے تو قابضہ کے واسطے حکم ہوگا ایک عورت کے ہاتھ میں ایک طفل ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس پر گواہ پیش کرتی ہے اور دوسری عورت دعویٰ کرتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس پر گواہ لاتی ہے تو جس کے ہاتھ میں ہے اسی کے واسطے حکم دیا جائے گا اور اگر قابضہ

کے واسطے ایک عورت نے گواہی دی اور خارجہ کے واسطے دو مردوں نے گواہی دی تو خارجہ کے واسطے حکم دیا جائے گا ایک طفل (نقطہ) ایک شخص کے ہاتھ میں ہے (غیر قابضہ) اور دوسرے مرد کے تحت میں ایک آزاد عورت ہے اس نے دعویٰ کیا کہ یہ طفل مذکور میرا بیٹا اس عورت مذکورہ سے ہے اور اس پر گواہ قائم کیے اور قابض نے گواہ قائم کیے کہ یہ میرا بیٹا ہے مگر اُس نے کسی عورت کی طرف نسبت نہ کی تو مدعی کے نام حکم دیا جائے گا اور اگر ذمی نے لقیط کے نسب کا دعویٰ کیا تو اس سے لقیط کا نسب ثابت ہوگا اور لقیط خود مسلمان ہوگا بشرطیکہ ذمیوں کے مقام میں نہ پایا گیا ہو اور یہ استحسان ہے یہ تمین میں ہے اور جس لقیط کی نسبت ذمی نے اپنے پسر ہونے کا دعویٰ کیا حتیٰ کہ اس سے نسب ثابت کر دیا گیا کہ وہ لقیط اس کا پسر ہو تو یہ پسر جب ہی مسلمان قرار دیا جائے گا کہ ذمی مذکور نے گواہ قائم کر کے اپنا نسب ثابت نہ کیا ہو اور اگر اُس نے دو مسلمان گواہ قائم کر کے اپنا نسب ثابت کیا ہو تو لقیط کا اُس کے نام حکم ہوگا اور وہ ذمی مذکور کا دین میں تابع ہوگا لیکن اگر اُس نے ذمی گواہ دیئے ہوں تو اُس کی تبعیت میں ذمی نہ ہوگا یہ بحر الرائق میں ہے اور معتبر مکان ہی ہے اور اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ مسئلہ میں چار صورتیں پیدا ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس کو کوئی مسلمان مسلمانوں کے مقام مثل مسجد یا مسلمانوں کے گاؤں یا مسلمانوں کے شہر میں پائے پس اس صورت میں لقیط مسلمان ہوگا اور دوئم یہ کہ کافر اس کو اہل کفر کے مقام مثل بیعہ و کئیہ و اہل کفر کے کسی گاؤں میں پائے پس وہ کافر ہوگا سوئم آنکہ کافر اُس کو مسلمانوں کے مقام میں پائے اور چہارم آنکہ مسلمان اس کو کافروں کے مقام میں پائے پس ان دونوں صورتوں میں اختلاف روایت ہے چنانچہ کتاب اللقیط کی روایت میں مذکور ہے کہ پانے والے کا اعتبار نہیں بلکہ مقام کا اعتبار کیا جائے گا کذا فی التہمین اور قدوری میں اسی پر اعتماد کر کے احکام کو جاری کیا اور یہی ظاہر الروایہ ہے یہ نہر الفائق میں ہے اور اگر لقیط کو کسی کافر نے پایا پس اگر مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں پایا تو وہ تبعاً مسلمان قرار دیا گیا پس اگر اس نے اس حکم کے برخلاف کفر ظاہر کیا تو قید کیا جائے گا اور اس پر اسلام کے واسطے جبر کیا جائے گا کذا فی خزائن المفتین لینی جس لقیط کی نسبت تبعاً مسلمان ہونے کا حکم دیا گیا اگر وہ بالغ ہو کر کافر ہوا تو اس پر اسلام کے واسطے جبر کیا جائے گا جیسے مرتد میں ہے لیکن لقیط مذکور استحساناً قتل نہ کیا جائے گا یہ محیط میں ہے اور اگر کسی غلام نے لقیط کے نسب کا دعویٰ کیا تو اُس سے نسب ثابت ہوگا مگر لقیط مذکور آزاد قرار دیا جائے گا اور اگر غلام نے کہا کہ یہ لقیط میرا بیٹا میری بیوی سے ہے حالانکہ وہ باندی ہے پس غلام کے مولیٰ نے اس غلام کی تصدیق کی تو لقیط کا نسب اس غلام سے ثابت ہوگا اور امام محمد کے نزدیک لقیط آزاد ہی ہوگا اور اگر مسلمان و ذمی نے لقیط کے نسب میں تنازع کیا تو مسلمان اولیٰ ہے بشرطیکہ آزاد ہو اور اگر غلام ہوگا تو ذمی اولیٰ ہے اور لقیط رقیق نہ قرار دیا جائے گا الا گواہوں کی گواہی پر مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان ہوں الا آنکہ ذمیوں کے مقام میں پائے جانے کی وجہ سے وہ ذمی قرار دیا گیا ہو تو یہ شرط نہیں ہے اور اسی طرح اگر لقیط نے قبل بلوغ کے مدعی رقیق کی تصدیق کی تو لقیط کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی بخلاف اُس کے اگر صغیر کسی کے قبضہ میں ہو اور اس شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا غلام ہے اور صغیر مذکور نے اُس کی تصدیق کی تو وہ اُس کا غلام ہوگا اگرچہ ہنوز بالغ نہیں ہوا ہے اور اگر اُس نے بعد بلوغ ہونے کے تصدیق کی تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس پر احکام احرار میں سے کوئی حکم جاری ہو چکا ہے یعنی بعد بلوغ کے مثلاً اُس کی گواہی قبول کی گئی یا اُس کے قاذف کو حد ماری گئی پھر اُس نے رقیق کا اقرار کیا تو اس کا ایسا اقرار صحیح نہ ہوگا یہ تمین میں ہے۔

۱۔ اس جہد لفظ بالغ زیادہ کرنے سے وہ وہم رفع ہو گیا جو تصدیق غیر مد رک کے بارہ میں پیدا ہوتا تھا اور یہ مراد نہیں ہے کہ اس سے ادراک سے غیر ادراک کی جانب ترقی ہے فتاویٰ ۱۲۔

اگر ملتقط نے دعویٰ کیا کہ یہ لقیط میرا غلام ہے حالانکہ اُس سے پہلے اُس کا لقیط ہونا پہچان لیا گیا ہے تو بدون حجت کے ملتقط کا قول قبول نہ ہوگا:

اگر لقیط عورت ہو کہ اُس نے کسی شخص کی رقیقہ ہونے کا اقرار کیا اور شخص مذکور نے اس کی تصدیق کی تو وہ اس کی باندی ہو جائے گی لیکن اگر یہ عورت کسی شوہر کے تحت میں ہو تو شخص مذکور کا قول (تصدیق کرنے والا) اس شوہر کے نکاح کے ابطال میں قبول نہ ہوگا۔ بخلاف اس کے اگر اس عورت لقیط نے اقرار کیا کہ میں شوہر کے باپ کی بیٹی ہوں اور شوہر کے باپ نے اس کی تصدیق کی تو اُس سے اُس کا نسب ثابت ہوگا اور نکاح باطل ہو جائے گا اور مقرر نے اس کو آزاد کر دیا (جس کے واسطے باندی ہونے کا اقرار کرتی ہے) حالانکہ یہ کسی شوہر کے تحت میں ہے تو جیسے کھلی بند یوں کو اختیار حق حاصل ہوتا ہے ویسے اس کو ضیاء رقیقہ حاصل نہ ہوگا اور اگر شوہر نے اس کو ایک طلاق دیدی پھر اُس نے اپنے رقیقہ ہونے کا اقرار کیا تو اُس کی طلاق دو ہو جائے گی جیسے باندی کی ہوتی ہیں کہ اُس کا شوہر اس پر ایک طلاق کا مالک ہوگا اور اگر وہ اس کو دو طلاق دے چکا ہے پھر اس نے رقیقہ کا اقرار کیا تو بھی شوہر اس پر ایک طلاق کا مالک ہے کہ اس کو اختیار ہے چاہے اُس سے رجوع کر لے اور ایسا ہی عدت میں حکم ہے کہ اگر دو حیض گزر جانے کے بعد اُس نے اپنے رقیقہ ہونے کا اقرار کیا تو اس کے شوہر کو اختیار رہے گا چاہے تیسرے حیض گزرنے سے پہلے اُس سے رجوع کر لے اور اگر ملتقط نے دعویٰ کیا کہ یہ لقیط میرا غلام ہے حالانکہ اُس سے پہلے اُس کا لقیط ہونا پہچان لیا گیا ہے تو بدون حجت کے ملتقط کا قول قبول نہ ہوگا اور اگر لقیط مر گیا خواہ اُس نے مال چھوڑا یا نہ چھوڑا پھر کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا تھا تو بدون حجت پیش کرنے کے اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی (اگرچہ لقیط تصدیق کرے) یہ فتویٰ قاضی خان میں ہے اور ذخیرہ میں لکھا ہے کہ ایک طفل لقیط ایک شخص مسمیٰ زید کے قبضہ میں ہے کہ وہ اس کی نسبت دعویٰ نہیں کرتا ہے پس ایک عورت ہندہ نے دعویٰ کیا اور گواہ دیئے کہ میں اس طفل کو جنی ہوں مگر باپ کا نام نہیں بیان کیا اور ایک مرد مسمیٰ عمرو نے دعویٰ کیا اور گواہ دیئے کہ یہ میری فراش سے پیدا ہوا ہے مگر اس کی ماں کا نام نہیں لیا تو لقیط مذکور اس مرد مدعی کا اس عورت مدعیہ سے بیٹا قرار دیا جائے گا گویا کہ یہ عورت اُس کو اس مرد کے فراش سے جنی ہے ایسا اقرار دیا جائے گا اور اسی طرح اگر طفل مذکور اسی مرد مدعی یا اسی عورت مدعیہ کے قبضہ میں ہو اور باقی مسئلہ بحالہ واقع ہو تو بھی یہی حکم ہوگا اور قبضہ کی وجہ سے کچھ ترجیح نہ ہوگی۔ ایک لقیط ایک ذمی کے قبضہ میں ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے پس ایک مرد مسلمان آیا اور اُس نے مسلمان گواہ پیش کیے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا ذمی گواہ قائم کیے اور ذمی قابض نے مسلمان گواہ پیش کیے کہ یہ اُس کا بیٹا ہے تو قبضہ کی وجہ سے ذمی کو مسلمان پر ترجیح دی جائے گی یہ تاتار خانہ میں ہے اور اگر لقیط نے بالغ ہو کر کسی سے موالات کر لی تو اس کی دلاء جائز ہے اور اگر اس سے پہلے اس نے کوئی جنایت کی ہو کہ بیت المال سے اس کا جرمانہ ادا کیا گیا ہو تو اس کی دلاء جائز نہ ہوگی اور ملتقط کو لقیط پر خواہ مذکور ہو یا مؤنث ہو کسی طرح کے تصرف کا مثل بیع و خرید و نکاح کر دینے وغیرہ کا اختیار نہیں ہوتا ہے اُس کو فقط اُس کی حفاظت کرنے کا اختیار ہے اور ملتقط کو اُس کے ختنہ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے چنانچہ اگر اس کا ختنہ کر دیا اور وہ اُس سے مر گیا تو ملتقط ضامن ہوگا اور ملتقط کو یہ اختیار ہے کہ لقیط جہاں چاہے لے جائے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ملتقط نے لقیط پر اپنا ذانی مال بدون حکم قاضی کے خرچ کیا تو وہ اس امر میں احسان کرنے والا ہوگا:

ملتقط کو جائز نہیں ہے کہ اُس کو اجارہ چرد سے چنانچہ یہ کتاب تکرہت میں ذکر فرمایا ہے اور یہی اصح ہے یہ تاتار خانہ میں ہے اور اگر لقیط کے ساتھ کچھ مال پایا گیا اور قاضی نے ملتقط کو حکم کیا کہ اس مال سے اس پر خرچ کرے پس ملتقط نے اس کے واسطے

کھانا کپڑا خرید تو یہ جائز ہے اور اگر لقیط خطا سے قتل کیا گیا تو اس کی دیت قاتل کی مددگار برادری پر واجب ہوگی اور دیت بیت المال میں داخل ہوگی اور اگر وہ عمداً قتل کیا گیا پس امام المسلمین نے قاتل سے مال پر صلح کر لی تو یہ جائز ہے لیکن اگر امام نے قاتل کو خون عنفو کیا تو نہیں جائز ہے اور اگر امام نے قاتل سے قصاص لینا چاہا تو اس کو اختیار ہے یہ امام اعظم و امام محمد کا قول ہے اور ملتقط نے لقیط پر اپنا ذاتی مال خرچ کیا پس اگر بدون حکم قاضی کے خرچ کیا ہے تو وہ اس امر میں احسان کرنے ہوا لا ہوگا اور اگر اُس نے بحکم قاضی خرچ کیا پس اگر قاضی نے اُس کو یوں حکم دیا کہ اس پر اس شرط سے خرچ کر کہ یہ تیرا خرچہ اُس پر فرض ہوگا پھر اگر لقیط کا باپ ظاہر ہو تو ملتقط مذکور کو اختیار ہوگا کہ اُس سے اپنا خرچہ واپس لے اور اگر اُس کا باپ ظاہر نہ ہو تو ملتقط کو اُسکے بالغ ہونے کے بعد اس سے واپس لینے کا اختیار حاصل ہوگا اور اگر قاضی نے ملتقط کو یہی حکم کیا کہ اس پر خرچ کرے اور یہ نہ کہا کہ تیرا خرچہ اس پر قرضہ ہوگا تو شمس الائمہ سرخسی نے ذکر کیا کہ ظاہر الروایہ کے موافق اس کو واپس لینے کا اختیار نہ ہوگا اور جو ظاہر الروایہ میں مذکور ہے یہی اصح ہے یہ محیط میں ہے اور جب لقیط بالغ ہو اور اُس نے کسی عورت سے نکاح کیا پھر اقرار کیا کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور اس پر اس کی بیوی کا مہر باقی ہے تو وہ اپنی بیوی کے مہر باطل کرنے میں سچا نہ سمجھا جائے گا اس کی بیوی کا مہر اس پر لازم رہے گا اور اسی طرح اگر کچھ قرضہ کر لیا یا کسی آدمی سے مباحثت کی یا کسی کی کفالت کی یا کسی کو ہبہ یا صدقہ دے کر سپرد کیا یا اپنے غلام کو مکاتب کیا یا مدبر یا آزاد کیا پھر اقرار کیا کہ میں فلاں کا غلام ہوں تو ان میں سے کسی چیز کے باطل کرنے میں اُس کے قول کی تصدیق یہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

کتاب اللقطہ

[اللقطہ کو لقیط کے بعد لانے میں مصنفؒ نے یقیناً یہ افضلیت پیش نظر رکھی ہوگی کہ انسان کا بچہ لقطہ (گری پڑی چیز) سے ہر حال میں افضل ہے]

ملتقط لقطہ کی شناخت بطور مذکور بازاروں و راستوں پر اتنی مدت تک کرادے کہ اس کے غالب گمان میں آجائے کہ اُس کا مالک اب اس کے بعد جستجو نہیں کرے گا:

قال المترجم لقیط و لقطہ میں یہی فرق ہے کہ لقیط آدمی کا بچہ پڑا ہوا اٹھایا گیا اور لقطہ مال پڑا ہوا ہے قال فی الكتاب لقطہ وہ مال ہے کہ راستہ میں بے مالک پایا جائے کہ اُس کا مالک بعیۃ^۱ معلوم نہ ہو یہ کافی میں ہے۔ لقطہ کا اٹھالینا دونوع پر ہے ایک نوع میں اٹھالینا فرض ہے وہ یہ ہے کہ اس مال کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو اور دیگر نوع یہ ہے کہ فرض نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس مال کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو لیکن اس پر علماء کا اجماع ہے کہ اُس کا اٹھالینا مباح ہے ہاں باہم اختلاف اس میں ہے کہ افضل اٹھالینا ہے یا نہ اٹھالینا سو ہمارے اصحاب کا ظاہر مذہب یہ ہے کہ اٹھالینا افضل ہے کذانی الحیظ خواہ مال مذکور درہم و دینار ہوں یا اسباب یا بکری گدھا کچر گھوڑا اونٹ ہو اور یہ حکم اس وقت ہے کہ یہ جنگل میں پایا جائے اور اگر آبادی میں ہو تو چوپایہ کا ویسا ہی چھوڑ دینا نہ لینا افضل ہے اور جب لقطہ کہ اٹھالیا تو اُس کی شناخت کرادے یعنی یوں کہے کہ میں نے لقطہ اٹھایا ہے یا گم شدہ ٹھہر کا پایا ہے یا میرے پاس کچھ چیز ہے جس کو تم ڈھونڈتے سنو اُس کو میری طرف راہ بتا دینا کہ فلاں کے پاس جاؤ یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور ملتقط لقطہ کی شناخت بطور مذکور بازاروں و راستوں پر اتنی مدت تک کرادے کہ اس کے غالب گمان میں آجائے کہ اُس کا مالک اب اس کے بعد جستجو نہیں کرے گا اور یہی صحیح ہے یہ مجمع البحرین میں ہے اور صل و حرم (ز میں داخل ہے) کے لقطہ کا ایک ہی حکم ہے یہ خزانۃ المفتیین میں ہے پھر اس مدت مذکورہ تک شناخت کرانے کے بعد ملتقط کو اختیار ہے چاہے اُس کو جنتہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اور چاہے مسکینوں کو صدقہ دیدے پھر اگر اس کے بعد اُس کا مالک آیا اور اُس نے صدقہ مذکورہ کو برقرار رکھا تو اُس کو اُس کا ثواب رہے گا اور اگر برقرار نہ رکھا تو اُس کو اختیار ہے چاہے ملتقط^۲ سے تاوان لے اور چاہے مسکین سے بشرطیکہ مسکین کے ہاتھ سے وہ مال تلف ہو چکا ہو پس اگر اُس نے ملتقط سے تاوان لیا تو ملتقط مال تاوان کو مسکین سے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر اُس نے مسکین سے تاوان لیا تو وہ ہو اس تاوان کو ملتقط سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر مال لقطہ ملتقط یا مسکین کے ہاتھ میں قائم ہو یعنی ویسا ہی موجود ہو تو اپنا مال جس کے پاس ہے اُس سے لے لے یہ شرح مجمع البحرین میں ہے اور جس لقطہ کی نسبت یہ معلوم ہو کہ کسی^۳ ذمی کا تھا اُس کا صدقہ کر دینا نہیں چاہیے بلکہ وہ بیت المال میں دیدیا جائے تاکہ مسلمانوں کی حاجات میں صرف ہو یہ سراجیہ میں ہے پھر جس کو بطور لقطہ پائے وہ

۱۔ ماتن نے کہا کہ ہم نے اسی قدر پر کفایت کی اور فیل و قال فلسفیہ کو ترک کیا جو کہ اس مقام پر ہے کہ کیونکہ اصل مراد ہمارے اس قول سے ظاہر ہوگئی تو فضول اقوال کے ساتھ تطویل کی ضرورت نہیں ہے کہ مرد کی خوبی اسلام سے یہ ہے کہ امور لایعنی کو چھوڑے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ۱۲۔

۲۔ لقطہ پانے والا یعنی کسی کی چیز پڑی پانے والا ۱۳۱۱۔ ۳۔ مثلاً سونے کی صلیب جو گلے میں ذمی پہنتے ہیں پائی ہو ۱۲۔

و نوع کا ہوگا ایک نوع وہ کہ جسکی نسبت یہ معلوم ہو کہ اُس کا مالک طلب نہ کرے گا جیسے جا بجا چھٹکی ہوئی خرما کی گٹھلیاں پائیں یا اتار کے چھلکے جا بجا چھٹکے پائے اور اس قسم کے لقطہ کو ملتقط کو لے لینا اور اپنی حاجت میں صرف کرنا روا ہے لیکن بعد اس کے جمع کر لینے کے اگر مالک نے اس کے ہاتھ میں اس کو دیکھا تو اس کو اختیار ہے کہ لے لے اور وہ جمع کر لینے سے لے لینے والے کی ملک نہ ہو جائے گا ایسا ہی شیخ الاسلام خواہر اور زائمش الائمہ سرخسی نے شرح کتاب اللقطہ میں ذکر کیا ہے اور ایسا ہی قدوری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے و نوع دیگر آنکہ اُس کی نسبت معلوم ہو کہ اُس کا مالک اُس کو طلب کرے گا جیسے چاندی سونا و اسباب وغیرہ اور ایسے لقطہ کی نسبت یہ حکم ہے کہ اس کو روا ہے کہ اٹھالے اور اُس کی حفاظت کرے اور شناخت کرادے یہاں تک کہ اُس کے مالک کو پہنچا دے اور اتار کے چھلکے یا خرما کی گٹھلیاں اگر یکجا جمع کی ہوئی ہوں تو وہ بھی اس دوسری نوع میں سے ہوں گی اور غضب النوازل میں مذکور ہے کہ اگر ایک اخروٹ پایا پھر دوسرا پایا اسی طرح پاتا گیا یہاں تک کہ دس عدد ہوئے یعنی اس کی کچھ قیمت ہو گئی پھر اگر اُس نے یہ اخروٹ ایک ہی مقام پر پائے ہوں تو وہ بلا خلاف دوسری نوع میں سے ہیں اور اگر اُس نے مواضع متفرقہ میں پائے ہوں تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور صدر شہید نے فرمایا کہ مختار یہ ہے کہ نوع ثانی میں سے ہوں گے اور فتاواے اہل سمرقند میں لکھا ہے کہ جو لکڑی پانی میں پائی جائے اس کے لے لینے اور اُس سے نفع اٹھانے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اگر چہ اُسکی کچھ قیمت ہو قال المترجم ظاہر امراد یہ ہے کہ جھر کس لکڑیاں جلانے کے کام کی تالاب و ندی وغیرہ میں ٹوٹ گری ہیں اور واللہ اعلم اسی طرح سیب و امرود اگر نہر جاری میں پائے تو ان کو لے کر اپنے کام میں لانے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اگر چہ بہت ہوں اور اگر گرمی کے ایام میں درختوں کی طرف گذر اور درختوں کے نیچے پھل گرے ہوئے پائے تو اس مسئلہ میں کئی صورتیں ہیں چنانچہ اگر یہ امر شہروں میں واقع ہو تو اس کو ان میں سے تناول کرنا روا نہیں ہے الا اس صورت میں کہ یہ بات معلوم ہو کہ اس کے مالک نے اس کو مباح کر دیا ہے خواہ صریحاً یا دلالتاً بحسب عادت اور اگر چار دیواری کے باغ میں اس طرح پایا اور پھل ایسے ہیں کہ باقی رہتے ہیں جیسے اخروٹ وغیرہ تو اس کو ان میں سے لینا روا نہیں ہے تا وقتیکہ یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے مالک نے مباح کر دیئے ہیں اور بعض مشائخ نے کہا کہ جب تک ممانعت کرنا صریحاً یا دلالتاً معلوم نہ ہو تب تک لے لینے میں مضائقہ نہیں ہے اور یہی مختار ہے اور اگر رساتیق میں جس کو فارسی میں بیراستہ کہتے ہیں ایسا واقعہ ہو اور یہ پھل باقی رہنے والوں میں سے ہیں تو لے لینا روا نہیں ہے الا آنکہ مباح کر دینا معلوم ہو اور اگر یہ پھل ایسے ہیں کہ باقی نہیں رہتے ہیں تو بلا خلاف اس کو لے لینا روا ہے جب تک کہ ممانعت معلوم نہ ہو اور یہ سب جو ہم نے ذکر کیا ہے اس صورت میں ہے کہ پھل درخت کے نیچے گرے ہوئے پائے اور اگر اُس نے درختوں پر لگے ہوئے پائے تو افضل یہ ہے کہ کسی پر کیوں نہ ہو بدون اجازت مالک کے نہ لے الا آنکہ یہ مقام ایسا ہو کہ یہاں ایسی کثرت سے پھل پیدا ہوتے ہوں کہ مالکوں پر لے لینا شاق نہ گذرتا معلوم ہو پس ایسی صورت میں اس کو کھالینا روا ہوگا مگر باندھ لانا روا نہیں ہے یہ محیط میں ہے اور اگر لقطہ ایسی چیز ہو کہ ایک دو روز گذرنے سے وہ خراب ہو جائے گی جیسے دانہاے انار وغیرہ پس اگر قلیل ہوں تو اُن کو اسی وقت کھالے خواہ فقیر ہو یا غنی ہو اور اگر بہت ہو تو قاضی کی اجازت لے کر اُس کو فروخت کر کے اُس کا ثمن رکھ چھوڑے اور اگر لقطہ ایسی چیز ہو کہ اُس کے واسطے نفقہ و خرچہ کی ضرورت ہے پس اگر اس کو اجارہ پر دینا ممکن ہو تو قاضی کے حکم سے اس کو اجارہ پر دے کر اس کی اجرت سے اُس کو نفقہ دے۔ کذانی فتاویٰ قاضی خان اور اگر وہ کسی کام کی چیز نہ ہو یا اُس نے کوئی کرایہ پر لینے والا نہ پایا اور قاضی کو خوف ہو کہ اُس کو نفقہ بطور ضمان دلیا جاتا ہے تو اُسکی قیمت کو مستغرق ہو جائے گا تو اُس کو فروخت کر دے اور ملتقط کو حکم دے کہ

اس کا ثمن حفاظت سے رکھے یہ فتح القدر میں ہے پھر جب اُس کا مالک آئے اور مانگے حالانکہ اُس نے بحکم قاضی اُس کو نفقہ دیا ہے تو اُس کو اختیار ہے کہ اُس کو نہ دے یہاں تک کہ اپنا سب نفقہ وصول کر لے یہ تمہین میں ہے اور جو کچھ نفقہ لقطہ کو ملتقط نے بغیر حکم قاضی دیا ہے اس میں وہ احسان کرنے والا قرار دیا جائے گا کذا فی الکافی اور اگر بحکم قاضی دیا ہے تو اس چیز پر قرضہ ہوگا اور حکم قاضی کی یہ صورت ہے کہ اُس نے ملتقط سے کہا کہ اُس کو نفقہ دے بدین شرط کہ تو واپس لے اور اگر یہ نہ کہا کہ بدین شرط کہ تو واپس لے تو نفقہ اس پر قرضہ نہ ہوگا ہورہی اسح ہے یہ بحر الرائق میں ہے اور قاضی اُس کو نفقہ دینے کا حکم نہ دے جب تک کہ وہ گواہ قائم نہ کرے کہ یہ لقطہ ہے۔

اگر قاضی نے یا قاضی کے حکم سے ملتقط نے لقطہ کو فروخت کیا پھر اُس کا مالک آیا تو اسکو یہی ثمن ملے گا:

یہی صحیح ہے اور اگر ملتقط نے گواہ نہ پائے تو قاضی اُس کو یوں حکم کرے کہ ثقہ لوگوں کی جماعت کے سامنے کہے کہ یہ ملتقط یوں کہتا ہے کہ یہ لقطہ ہے مگر میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے اور اُس نے مجھ سے درخواست کی میں اس کو حکم دوں کہ تو اُس کو بطور ضمان نفقہ دے پس تم لوگ گواہ رہو کہ میں اس کو اس شرط سے نفقہ دینے کا حکم دیتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہی ہو کہ جیسی یہ کہتا ہے اور ملتقط کو یہی دو تین روز تک لقطہ کو نفقہ دینے کا حکم کرے گا جتنے روز تک کے واسطے اس کے دل میں یہ آئے کہ اگر اُس کا مالک حاضر ہوگا تو ظاہر ہوگا یہ تمہین میں ہے پھر اگر اتنے روز میں ظاہر نہ ہو تو اس کے فروخت کرنے کا حکم دے گا اور اُس کے ثمن سے ملتقط کو دو تین روز جتنے دن تک اُس نے نفقہ دیا ہے دیدے گا یہ فتح القدر میں ہے اور اگر قاضی نے یا قاضی کے حکم سے ملتقط نے لقطہ کو فروخت کیا پھر اُس کا مالک حاضر آیا تو اس کو یہی ثمن ملے گا اور اگر ملتقط نے بدون حکم قاضی اس کو فروخت کر ڈالا ہے پھر مالک آیا اور وہ مشتری کے ہاتھ میں موجود ہے تو اس کے مالک کو اختیار ہے چاہے بیع کی اجازت دے کر ثمن لے لے اور چاہے بیع باطل کر کے اپنی چیز واپس کرے اور اگر وہ مشتری کے پاس تلف ہو چکی ہو تو مالک کو اختیار ہے چاہے بائع سے ضمان لے اور اس صورت میں بیع مذکور نافذ ہو جائے گی از جانب بائع بنا بر ظاہر روایت کے اور اسی کو عامہ مشائخ نے لیا ہے کذا فی المحیط لیکن بائع یعنی ملتقط پر لازم ہوگا کہ مال تاوان یعنی اُس کی قیمت سے جس قدر زائد حصہ ثمن اس کو ملا ہو وہ صدقہ کر دے کذا فی فتح القدر اور چاہے اس کا مالک اس کے مشتری سے اپنی چیز کی قیمت تاوان لے پھر مشتری اپنا ثمن بائع سے واپس لے گا یہ محیط میں ہے ایک شخص نے ایک بھری یا اونٹ پکڑا اور قاضی نے اس کو حکم کیا کہ اس کو نفقہ دے پھر یہ چوپایا مر گیا پھر اُس کا مالک ظاہر ہوا تو ملتقط کو اختیار ہوگا کہ جس قدر اُس نے نفقہ دیا ہے وہ مالک سے واپس لے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور جب لقطہ کی شناخت کرانے کے بعد یہ وقت آیا کہ اب وہ صدقہ کر دیا جائے پس اگر ملتقط خود محتاج ہو تو اس کو روا ہے کہ لقطہ کو اپنی ذات پر خرچ کر ڈالے یہ محیط میں ہے اور اگر ملتقط معنی ہو تو اپنی ذات پر صرف نہ کرے بلکہ کسی اجنبی کو یا اپنے والدین کو یا فرزند یا زوجہ کو بشرطیکہ فقیر ہوں صدقہ دے دے یہ کافی میں ہے اور بعد مدت مذکورہ کے ملتقط غنی کو بھی اپنی ذات پر مال لقطہ امام المسلمین کی اجازت سے بایں وجہ کہ اس پر قرضہ ہوگا صرف کر لینا جائز ہے یہ غایۃ البیان میں ہے۔

اگر کسی نے لقطہ اسباب وغیرہ کے مانند پایا اور باوجود شناخت کرانے کے مالک کو نہ پایا اور وہ محتاج ہوا کہ اُس سے منتفع ہو پس اس کو فروخت کر کے اس کا ثمن اپنی ذات پر صرف کیا پھر اس نے کچھ مال پایا تو اُس پر یہ واجب نہ ہوگا کہ جس قدر اُس نے خرچ کیا ہے اُسکے مثل فقیروں کو صدقہ دے دے یہی مختار ہے یہ ظہیر یہ میں ہے اور لقطہ امانت ہوتا ہے جبکہ ملتقط نے گواہ کر لیے

کہ میں اس کو اس واسطے لیتا ہوں کہ حفاظت کر کے اس کے مالک کو واپس دوں پس اگر بدون اُس کے فعل کے مال لقطہ تلف ہو گیا تو وہ ضامن نہ ہوگا اور اسی طرح اگر مالک مال نے اس کے قول کی کہ میں نے اُس کو اس واسطے لیا تھا کہ مالک کو واپس کر دوں تصدیق کی تو بھی یہی حکم ہے اور اگر اُس نے اقرار کیا کہ میں نے اس کو اپنے واسطے لیا تھا تو بالاجماع ضامن ہوگا اور اگر اُس نے لینے کے گواہ نہیں کر لیے تھے پھر اُس نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو اس کے مالک کو واپس دینے کے واسطے لے لیا تھا اور مالک نے اس کے قول کی تکذیب کی تو امام اعظم و امام محمد کے نزدیک ضامن ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر اس وجہ سے اُس نے گواہ نہیں کیے تھے کہ اُس نے اٹھانے کے وقت کوئی گواہ نہیں پایا اُسکو خوف ہوا کہ گواہ کرانے سے اُس سے کوئی ظالم لے لے گا پس اُس نے گواہ کرانا چھوڑ دیا تو وہ ضامن نہ ہوگا اور اگر اُس نے گواہ کو پایا پھر گواہ نہ کیا یہاں تک کہ وہاں سے تجاوز کر گیا تو ضامن ہو گیا اس لیے کہ اُس نے باوجود قدرت کے گواہ کر لینا ترک کیا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر گواہ کر لیے کہ میں نے لقطہ اٹھایا ہے یا گم شدہ جانور پایا ہے یا کہا کہ میرے پاس لقطہ ہے تو جسکو تم لقطہ ڈھونڈھتا پاؤ اس کو میری طرف راہ بتلانا پھر جب اُس کا مالک اُس کے پاس آیا تو اُس نے کہا کہ تلف ہو گیا تو اُس کے قول کی تصدیق کی جائے گی اور اس پر ضمان واجب نہ ہوگی اور اُس نے دو یا تین لقطہ پائے اور شناخت کرانے میں اسی قدر کہا کہ جس کو لقطہ ڈھونڈھتا دیکھو اُس کو میری طرف راہ بتلانا تو یہ سب کے واسطے شناخت کرانا ہو جائے گا اور اگر سب اُس کے پاس تلف ہو گئے تو اُس پر کسی کی ضمان واجب نہ ہوگی اور فتاویٰ اہل سمرقند میں لکھا ہے کہ اگر لقطہ کسی راستہ یا جنگل میں پایا اور لیتے وقت کسی ایسے کونہ پایا کہ گواہ کرے تو فرمایا کہ جب کسی ایسے کو پائے جو گواہ ہو تو اُس کو گواہ کرے پس ایسا کر لینے سے ضامن نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور ملتقط ضامن یہ ہوگا الا اُس صورت میں کہ بے جا اُس کو تلف کرے یعنی باقی نہ رکھا ہو یا مالک کی درخواست کے وقت نہ دے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر لقطہ کو کسی قوم کے دار میں یا ان کی دہلیز میں یا خالی دار میں پایا ہو تو ضامن ہوگا:

اگر کسی نے کہا کہ میں نے لقطہ پایا تھا وہ میرے قبضہ میں تلف ہو گیا حالانکہ میں نے اس کو اس واسطے لیا تھا کہ اس کے مالک کو واپس کر دوں اور میں نے اس پر گواہ کر لیے تھے اور اُس کا مالک کہتا ہے کہ وہ لقطہ نہ تھا میں نے خود اس کو وہاں رکھ دیا تھا کہ لوٹ کر لے لوں گا پس اگر ہو جگہ جہاں سے پایا ہے ایسی جگہ ہو کہ اُس کے قرب میں کوئی نہ ہو یا راسیہ ہو تو قول ملتقط کا قبول ہوگا بشرطیکہ وہ قسم کھا جائے کہ میرے پاس تلف ہو گیا ہے اور اگر معلوم نہ ہو کہ اُس کا اصل قصہ کیا ہے تو ملتقط ضامن ہوگا اور اگر ملتقط نے کہا ہو کہ میں نے اس کو راستہ پر سے لے لیا تھا اور مالک نے کہا کہ تو نے اس کو میرے گھر سے لے لیا ہے تو ملتقط ضامن ہوگا یہ خزانہ المفتیین میں ہے اور اگر اُس نے لقطہ کو کسی قوم کے دار میں یا ان کی دہلیز میں یا خالی دار میں پایا ہو تو ضامن ہوگا جب کہ اُس کا مالک یوں کہے کہ میں نے اُس کو وہاں رکھ دیا تھا کہ لوٹ کر لے لوں گا اور اصل میں مذکور ہے کہ اگر مالک نے کہا کہ تو نے اس کو مجھ سے غصب کر کے لیا ہے اور ملتقط نے کہا کہ وہ لقطہ تھا اور میں نے اس کو تیرے واسطے لیا ہے تو ملتقط ضامن ہے اور اس میں کوئی تفصیل نہیں فرمائی ہے اور اگر کسی مسلمان کے قبضہ میں لقطہ ہو اور اس کا کسی نے دعویٰ کیا اور اس پر گواہ قائم کیے اور ملتقط نے اُس کا اقرار کیا یا نہیں اقرار کیا لیکن یہ کہا کہ میں تجھے اس کو واپس نہ دوں گا الا قاضی کے حضور میں تو اس کو ایسا اختیار ہے اور اگر ایسی حالت

۱۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ نہ معلوم ہوا کہ ان کا حال دونوں وقتوں میں کونسا ہے آیا وہ ہے کہ جب وہ صما من ہونے کے ساتھ منصف ہوگا اور ظاہر یہ کہ نہ ہوگا اور اس وقت تک کہ وہ کسی شخص کو پائے اور اس پر گواہ کرے اس کا حکم موقوف رہے گا پس گویا وہ دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے ۱۲۔ ۲۔ شرعاً جواز نہ ہو پس وارد نہ ہوگا بحکم قاضی اس کو فروخت کر دیا وغیرہ قول وقت طلب مالک کو نہ دے یعنی بیوجہ شرعی پس وارد نہ ہوگا نفقہ کے واسطے روک لینا وغیرہ ۱۲۔

میں اس کے پاس وہ تلف ہو گیا تو اس پر ضمان واجب نہ ہوگی اور اگر کسی مسلمان کے قبضہ میں لفظ ہو اور کسی نے اُس کا دعویٰ کر کے دو کافر گواہ قائم کیے تو ایسی گواہی قبول نہ ہوگی اور اگر لفظ کسی کافر کے قبضہ میں ہو اور باقی مسئلہ بحالہا رہے تو بھی قیاساً یہی حکم ہے اور استحساناً گواہی قبول ہوگی اور اگر کافر و مسلمان کے قبضہ میں ہو تو دونوں کافروں کی گواہی قیاساً ان میں سے کسی پر جائز نہ ہوگی اور استحساناً کافر پر جائز ہو جائے گی اور جو کچھ کافر کے قبضہ میں ہے اُس کی نسبت مدعی کے واسطے حکم دے دیا جائے گا یہ محیط میں ہے اور اگر زید نے لفظ کا اقرار عمرو کے واسطے کیا پھر خالد نے گواہ قائم کیے کہ یہ میرا ہے تو اس لفظ کی ڈگری خالد کے نام ہو جائے گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کسی نے لفظ کا دعویٰ کیا اور اُس کے علامات ٹھیک بیان کر دیئے تو ملتقط کو اختیار ہو چاہے اس کو دے کر اُس سے کفیل لے لے اور چاہے اُس سے گواہ طلب کرے یہ سراجیہ میں ہے اور اگر علامات بیان کرنے پر ملتقط نے اُس کو کی دے دیا پھر دوسرے نے آکر گواہ قائم کیے کہ ہو میرا مال ہے پس اگر وہ لفظ شخص اول کے ہاتھ میں ویسا ہی موجود ہو تو مدعی یعنی گواہ قائم کرنے والا جو اُس کا مالک ہے اول سے اُس کو لے لے گا اگر قادر ہو اور کسی پر ضمان نہ ہوگی اور اگر وہ اول کے پاس تلف ہو گیا ہے یا مالک کو اُس سے لے لینے کی قدرت نہ ہوئی تو مالک کو اختیار ہے چاہے ملتقط سے تاوان لے لے یا اُس لینے والے سے ضمان لے اور کتاب میں مذکور ہے کہ اگر ملتقط نے بحکم قاضی شخص اول کو دیا ہو تو اس پر ضمان نہ ہوگی اور اگر بغیر حکم قاضی دیا ہے تو ضامن ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر ملتقط نے کسی کے واسطے نفقہ کا اقرار کیا اور بغیر حکم قاضی اس کو دے دیا پھر دوسرے نے گواہ قائم کئے کہ وہ میرا ہے تو اُس کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے جس سے چاہے تاوان لے اور اگر بحکم قاضی دیا ہو تو ایک روایت کے موافق ضامن نہ ہوگا اور بعض نے کہا ہے کہ یہ امام ابو یوسف کا قول ہے اور اسی پر فتویٰ ہے کہ سراجیہ میں ہے ایک نے شناخت کرانے کے واسطے لفظ اٹھایا پھر اس کو جہاں سے اٹھایا تھا وہیں ڈال دیا تو کتاب میں مذکور ہے وہ ضمان سے بری ہو جائے گا اور یہ تفصیل نہیں ہے کہ وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ لے گیا پھر وہیں لاکر ڈال دیا وہیں اٹھایا اور بدون اس جگہ سے تحویل کے وہیں ڈال دیا اور فقیہ ابو جعفر نے فرمایا کہ تاوان سے بری جب ہی ہوگا کہ بدون اس جگہ سے تحویل کے وہیں ڈال دیا ہو اور اگر بعد اس کے جگہ سے تحویل کرنے کے وہیں لاکر ڈال دیا ہو تو ضامن ہوگا اور حاکم شہید نے بھی مختصر میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

اگر لفظ کوئی کپڑا ہو کہ اُس کو پہنا پھر اُس کو اتار کر جہاں سے لیا ہے وہیں رکھ دیا تو اختلاف ہے:

یہ حکم اس وقت ہے کہ اُس نے شناخت کرانے کے واسطے اٹھایا ہو یعنی مالک کو دینے کے واسطے لیا ہو اور اگر اپنے کھانے جانے کے واسطے لیا تو ضمان سے بری نہ ہوگا تا وقتیکہ اُسکے مالک کو نہ دے دے اور یہ ایسا ہے جیسے وہ لفظ کوئی گھوڑا تھا کہ اس پر سوار ہو پھر اُس سے اتر کر اس کی جگہ اس کو چھوڑ دیا تو بنا بر قول (یعنی اختلاف ہے) امام ابو یوسف کے ضامن ہوگا اور اسی طرح اگر لفظ کوئی کپڑا ہو کہ اُس کو پہنا پھر اُس کو اتار کر جہاں سے لیا ہے وہیں رکھ دیا تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور یہ اس وقت ہے کہ کپڑے کو اس طرح پہنا ہو کہ جیسے عادت کے موافق پہنا کرتے ہیں اور اگر ایسا نہ کیا مثلاً قمیص تھی کہ اس کو اپنے کندھے پر ڈال لیا پھر اُس کو جہاں سے لیا ہے وہیں ڈال دیا تو ضامن نہ ہوگا اور اسی طرح اگر انگوٹھی مہر ہو کہ اُس کو خواہ دائیں ہاتھ کی یا بائیں ہاتھ کی چھنگلیا میں پہنا پھر اتار کر وہیں ڈال دی تو ایسا ہی اختلاف ہے اور اگر اس کو سوائے چھنگلیا کے کسی اور انگلی میں پہن کر اتار کر وہیں ڈال دیا تو بالاتفاق ضامن نہ ہوگا اور اگر اپنی مہر کی انگوٹھی مہر کی پہنی اور چھنگلیا پر یہ انگوٹھی ہی میں پہنی پس اگر یہ شخص معروف ہو کہ دو خاتم سے ختم کرتا ہے اور تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور اگر ایسا نہ ہو در صورت یہ کہ بدون تحویل کے وہیں اتار کر ڈال دی ہے تو بالاتفاق ضامن نہ ہوگا اور

اسی طرح اگر پر تلے کے ساتھ گردن میں تلواریں جیسے تلوار بدن پر لگانے کا دستور ہے پھر اتار کر وہیں ڈال دی تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور اسی طرح اگر وہ ایک تلوار لگائے ہو پھر اس نے یہ تلوار بھی جیسے لگائی جاتی ہے اپنے بدن پر سج لی تو یہ بھی استعمال قرار دیا جائے گا اور وہی اختلاف مذکور جاری ہوگا اور اگر وہ دو تلوار ڈالے ہو پھر اس نے یہ تیسری تلوار لقطہ کی بھی سج لی پھر اتار کر وہیں ڈال دی تو بالاتفاق ضامن (اس واسطے کہ تین تلوار باندھنے کا دستور نہیں ہے) نہ ہوگا یہ فتویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر مقبرہ میں جلانے کی لکڑیاں پڑی ہوں تو آدمی کو روا ہے کہ وہاں سے اٹھالائے اور یہ اس وقت ہے کہ خشک ہوں اور اگر گیلی ہوں تو مکروہ ہے اور جن دنوں کرم پیلہ (ریشم کے کیزے) سے قز تیار کی جاتی ہے اگر ان دنوں راہ میں شہوت کے درخت کے پتے پڑے ہوں تو اس کو لے لینا روا نہیں ہے اگر لے گا تو ضامن ہوگا۔ اس واسطے کہ یہ چیز ملک نفع ہے اور اگر ایسے درخت کے پتے راہ میں گر پڑے ہوں کہ اس کے پتوں سے انتفاع حاصل نہیں کیا جاتا ہے تو ان کو لے سکتا ہے۔ ایک نے اپنی مردار بکری راہ میں ڈال دی پھر کسی نے آکر اس پشم نوح لی تو اس کو روا ہے کہ اس سے انتفاع حاصل کرے لیکن اگر اس کے بعد اس بکری کا مالک آیا تو اس کو اختیار ہوگا کہ اپنی بکری کا یہ صوف جو اس کے پاس ہے لے لے اور اگر اس نے اس مردار بکری کی کھال کھینچ کر اس کی دباغت کر لی ہو پھر اس کے بعد بکری کا مالک آیا تو اس کو اختیار ہوگا کہ کھال لے لے اور جو کچھ دباغت سے زیادتی ہوئی ہے اس قدر دے دے یہ خزانہ مفتنین میں ہے۔

ایک شخص نے اپنا اونٹ ذبح کر کے اس کے لوٹ لینے کی اجازت دے دی تو یہ جائز ہے:

خر بوزوں کی فالیزہ اُجاڑ ہو چکی ہے اس میں خر بوزے جھڑو تارہ گئے ہیں پس ان کو لوگوں نے جس نے پایا لے لیا تو فقیہ ابو بکر نے فرمایا کہ اگر فالیزہ والوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ جس کا جی چاہے لے لے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے یہ تاتار خانہ میں ہے۔ ایک شخص نشہ میں ایسا چور ہے کہ اس کی عقل جاتی رہی ہے راستہ میں سو گیا پس اس کا کپڑا راہ میں گر پڑا پس کسی نے آکر وہ کپڑا اٹھا لیا تاکہ حفاظت کرے تو اس پر ضمان نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ کپڑا نمبر لہ لقطہ کے ہے اور اگر اس کے سر کے نیچے سے کپڑا نکال لیا یا اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی یا اس کی کمر سے ہمیانی کھول لی یا اس کی آستین سے درہم نکال لیے در حالیکہ وہ اس چیز کے ضائع ہو جانے کا گمان کرتا تھا پس بدین خیال اس نے اس غرض سے لے لیے کہ اس کی حفاظت کرے تو ضامن ہوگا اور اگر چکی گھر میں چکی کی اُزان کا آنا جمع ہو گیا یعنی پسینے میں جیسے ہوا سے درود یوار پر مثل گرد کے جم جاتا ہے تو بعض نے فرمایا کہ یہ آنا چکی گھر کا مالک کا ہوگا اور بعض نے فرمایا اس کو اپنے واسطے لے لینے کا اختیار نہیں ہے یہ اس کا ہوگا جس نے پیش دستی کر کے سب سے پہلے اس کو چھڑا لیا ہے اور تیل والوں کے یہاں جو ناپ کے کپے سے قطرہ قطرہ ٹپک کر جمع ہو جاتا ہے اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ناپ کے کپے سے اوپر سے ٹپک کر جمع ہوا ہے تو یہ تیل والے کا ہوگا اس واسطے کہ وہ بیج میں داخل نہیں ہوا تھا اور دوسرے یہ کہ کپے مذکور کے اندر سے یا اندر و باہر دونوں سے ٹپک کر جمع ہوا ہے یا نہیں معلوم کہ کیونکر جمع ہوا ہے تو اس میں یہ حکم ہے کہ اگر تیل والے نے ہر مشتری کے لیے کچھ قدر قلیل بڑھا دیا ہو تو جو کچھ ٹپک کر جمع ہوا ہے یہ تیلی کا ہوگا اور اگر کچھ نہیں بڑھایا ہے تو یہ مجموعہ اس تیلی کو حلال نہ ہوگا اس کو صدقہ کر دے اور اس سے نفع حاصل نہ کرے الا آنکہ محتاج ہوئے۔ ایک قوم نے جنگل کے راستہ میں ایک اونٹ ذبح کیا ہوا پایا پس اگر ان کے گمان میں یہ بات آئی کہ اس کے مالک نے اس کو لوگوں کے واسطے مباح کر دیا ہے تو اس کے لینے اور کھانے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ ایک شخص نے اپنا اونٹ ذبح کر کے اس کے لوٹ لینے کی اجازت دے دی تو یہ جائز ہے ایک نے شکر لٹائی

اور وہ دوسرے کی گود میں گرمی اور اُس کی گود سے ایک نے لے لی تو اُس کو لینا روا ہے جبکہ اس شخص نے اپنی گود اس واسطے نہ پھیلائی ہو کہ اس میں شکر آگرے اور اگر اُس نے اپنی گود اس غرض سے پھیلائی ہو کہ اس میں شکر آگرے تو دوسرا اس کے لے لینے سے اُس کا مالک نہ ہوگا۔ ایک نے دوسرے کو درہم دیئے کہ عروسی شادی وغیرہ میں لٹادے پس اُس نے لٹائے تو لٹانے والے کو روانہ نہیں ہے کہ خود بھی لوٹے اور اگر مامور نے دوسرے کو دے دے کہ تو لٹادے تو مامور دوم کو نہیں روا ہے کہ تیسرے کو دے اور نہ یہ روا ہے کہ اپنے واسطے کچھ رکھے اور شکر کی صورت میں مامور کو روا ہے کہ لٹانے کے واسطے دوسرے کو دے اور یہ بھی روا ہے کہ اپنے واسطے کچھ رکھ لے اور جب مامور دوم نے اس کو لٹایا تو مامور اول کو روا ہے کہ خود لوٹے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص نے چھت پر ایک طشت رکھا اور اُس میں بارش کا پانی جمع ہو گیا اور دوسرے شخص نے آکر اُس پانی کو نکال لیا پھر دونوں نے جھگڑا کیا پس اگر مالک طشت نے اپنا طشت اسی واسطے رکھا تھا تو پانی اُسی کا ہوگا کیونکہ اُس کے حرز میں وہ محرز ہو گیا اور اگر اُس نے طشت اس واسطے نہیں رکھا تھا تو پانی اُس کے لینے والے کا ہوگا اس واسطے کہ آب مذکور مباح غیر محرز تھا۔ زید و عمرو ہر ایک کے پاس مثلجہ (برف خانہ) ہے۔ پس زید نے عمرو کے مثلجہ سے برف لیکر اپنے مثلجہ میں داخل کیا پس اگر عمرو نے یہ جگہ برف جمع ہونے کے واسطے بنائی ہو بدوں اس کے کہ اس میں جمع کرنے کی حاجت ہو تو عمرو کو اختیار ہوگا کہ زید کے مثلجہ سے یہ برف واپس لے بشرطیکہ اُس نے دوسری برف سے خلط نہ کر دیا ہو یا اُس کی قیمت اس روز کی لے جس روز اُس نے دوسری برف میں خلط کیا ہے اور اگر عمرو نے یہ مقام برف جمع ہونے کے واسطے نہ بنایا ہو بلکہ یہ مقام ایسا ہو کہ اس میں خود برف جمع ہو جاتا ہو پس زید نے عمرو کے اس مقام سے نہ اس کے مثلجہ سے یہ برف لے لیا تو یہ برف زید کا ہو جائے گا اور اگر اس کو عمرو کے مثلجہ سے لیا ہو تو غاصب ہوگا پس عمرو اس کا برف بعینہ واپس کر دیا جائے گا بشرطیکہ زید نے اُس کو دوسری برف میں خلط نہ کیا ہو اور اگر دوسری برف میں خلط کر دیا ہو تو اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا (یعنی روز خلط کی قیمت کا) یہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے۔ زید ایک قوم کی اراضی میں داخل ہوا کہ وہاں سے گوبر و کانٹے جمع کرتا ہے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی زمین میں گھاس چھیل لینے کے واسطے داخل ہوا یا بالیاں چنے کے واسطے جن کو صاحب اراضی چھوڑ گیا ہے اور اُس کا چھوڑ دینا مثل اباحت کے ہو گیا تو بھی یہی حکم ہے اور بعض نے فرمایا کہ اگر یہ اراضی قیموں کی ہو اور حالت یہ ہو کہ اگر وہ اس کام کے واسطے اجرت پر مقرر کیا جاتا تو بعد اداے اجرت کے یتیم کے واسطے کچھ باقی رہتا ہو اور یہ ظاہر ہو تو ان بالیوں کا اس طرح چھوڑ دینا روا نہیں ہے اور اگر اس میں سے کچھ بچتا نہ ہو یا بہت کم بچت ہو کہ اس کے واسطے قصد نہیں کیا جاتا ہے تو اُس کے چھوڑ دینے میں مضائقہ نہیں ہے اور دوسرے کو ان کے چن لینے میں بھی مضائقہ نہیں ہے۔ تختہ زمین بلا زراعت و عمارت خالی پڑا ہے جس میں اہل کوچہ مٹی و گوبر و راکھ وغیرہ ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اُس کا ایک ڈھیر وہاں جمع ہو گیا پس اگر اصحاب کوچہ نے ان چیزوں کو بطور پھینک دینے کے ڈال دیا ہو اور اس زمین کے مالک نے یہ زمین اسی واسطے مقرر کر دی ہو تو یہ گھاس سب اسی کی ہوگی اور اگر مالک زمین نے اس واسطے مقرر نہ کی ہو تو جو شخص اُس کو پہلے اٹھالے اُسی کی ہو جائے گی۔ جنگلی کبوتر ایک شخص کے دار میں رہنے لگا اور وہاں اُس نے بچے دیئے اور ایک شخص دیگر نے آکر یہ بچے لے لیے پس اگر مالک دار نے دروازہ بند کر دیا اور سوراخ دیوار چھوپ دیا ہو تو یہ بچہ مالک مکان کے ہونگے اور اگر مالک مکان نے ایسا نہ کیا ہو تو جس نے لے لئے اُسی کے ہونگے اور اگر کسی کے پاس کبوتر ہوں اور ان میں ایک کبوتر آیا اور بچے ہوئے تو یہ بچے اُس کے ہوں گے جس کی مادہ یعنی کبوتری ہے اور کبوتروں کا رکھنا مکروہ ہے اگر لوگوں کو مضرت پہنچاتے ہوں اور جس نے کسی آبادی میں برج کبوتران بنائے یعنی

خانوں میں پالے ہوں تو چاہیے کہ ان کی حفاظت کرے اور ان کو دانہ دیئے جائے اور بغیر دانہ نہ چھوڑے حتیٰ کہ وہ لوگوں کو ضرر نہ پہنچانے پائیں اور اگر ان میں کسی دوسرے کے پالو کبوتر مل گئے تو اس کو نہ چاہیے کہ ان کو پکڑے اور اگر پکڑ لیا تو اس کے مالک کو تلاش کرے اور اگر اس نے نہ پکڑے ولیکن یہ اس کے یہاں رہنے اور بچے دیئے پس اگر غیر کی کبوتری ہو تو ان بچوں سے تعرض نہ کرے اس واسطے کہ یہ غیر کے ہیں اور اگر کبوتری اسی کی ہو اور زغیر کا ہو تو بچہ اسی کے ہوں گے اس واسطے کہ انڈے و بچے اس کے ہوتے ہیں جس کی کبوتری ہو اور اگر اس نے نہ جانا کہ میرے کبوتروں کے برج میں کوئی اجنبی کبوتر ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ خزانہ المقتنین میں ہے اور جس نے باز یا جڑہ وغیرہ کے مانند کسی پرند کو زشہر یا سواد شہر میں پکڑا اور اس کے پاؤں میں چھلے یا گھنگرو وغیرہ ایسی چیز ہے اور وہ پہچانا جاتا ہے کہ پالتو ہے تو چاہیے کہ اس کی شناخت کرادے تاکہ اس کے مالک کو واپس کر دے اور اسی طرح اگر ہرن پکڑا جس کی گردن میں پٹہ پڑا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے یہ محیط میں ہے۔ ایک نے ایک دار چند سال معلومہ کے واسطے مقاطعہ پر لیا اور اس میں سکونت اختیار کی اور اس میں بہت سا گوبر جمع ہو گیا اور اس کو مقاطعہ نے جمع کیا ہے تو شیخ امام ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ گوبر اس کا ہوگا جس نے مکان مذکور اسی واسطے رکھا ہے اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا ہے تو جس نے پہلے اس کو لے لیا اسی کا ہوگا۔

کوئی مسافر کسی شخص کے مکان میں مر گیا اور اس کا کوئی وارث معروف نہیں:

امام ابو علی سعدی نے فرمایا کہ یہ اسی کا ہوگا جس نے پہلے اس کو لے لیا اگر چہ اس نے یہ مقام اپنے واسطے اس لئے نہ مہیا کیا ہو حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کسی نے ایک چار دیواری بنا دی اور ایک ایسی جگہ مقرر کر دی کہ جہاں جانور جمع ہوا کریں تو اس کا گوبر اسی شخص کا ہوگا جو پہلے لے لے۔ ایک شخص کا ایک دار ہے کہ اس کو اجارہ پر دیا کرتا ہے پھر کوئی آدمی آیا اور اس دار میں اپنا اونٹ باندھ دیا اور وہاں اس کی لید کثرت سے جمع ہوئی تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر مالک دار نے بوجہ اباحت اس کو چھوڑ دیا ہے اور یہ اس کی رائے نہیں تھی کہ یہاں گوبر میرے واسطے جمع ہو تو جس نے اس کو لے لیا وہی اس کا مستحق ہوگا اس واسطے کہ وہ مباح ہے اور اگر مالک دار کی رائے یہ تھی کہ گوبر ولید جمع کرے تو اس کا مستحق وہی مالک دار ہے۔ ایک عورت نے اپنی چادر ایک مقام پر رکھ دی پھر دوسری عورت آئی اور اس نے بھی چادر وہاں رکھی پھر پہلی عورت آئی اور دوسری کی چادر اٹھائے لے چلی گئی تو دوسری عورت کو روا نہیں ہے کہ پہلی عورت کی چادر سے جو بجائے اس کی چادر کے وہاں یہی انتفاع حاصل کرے اس واسطے کہ یہ انتفاع بملک غیر ہے اور اگر اس کو منظور ہوا کہ اس سے انتفاع حاصل کرے تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت مذکورہ اس چادر کو اپنی دختر کو بشرطیکہ فقیرہ ہو اس نیت سے صدقہ دے دے کہ اس کا ثواب اس کی مالکہ عورت کو ہوئے بشرطیکہ وہ اس صدقہ پر راضی ہو جائے پھر دختر مذکورہ اس چادر کو اپنی اس ماں کو ہبہ کر دے پھر اس سے انتفاع حاصل کر سکتی ہے اور اگر دختر مذکورہ تو نگر ہو تو اس کو انتفاع حاصل کرنا حلال نہ ہوگا اور اسی طرح اگر کسی کا جو تا اس طرح بدل گیا اور بجائے اس کے دھیرا چھوڑ گیا تو اس میں بھی ایسا ہی حکم ہے۔ کسی شخص نے پڑی چیز یعنی لقطہ پایا پھر وہ اس کے پاس سے بھی ضائع ہو گیا پھر اس نے کسی دوسرے کے پاس اس کو پایا تو اس کو اس دوسرے کے ساتھ کسی خصوصیت کا اختیار نہیں ہے۔ کوئی مسافر کسی شخص کے مکان میں مر گیا اور اس کا کوئی وارث معروف نہیں ہے اور مرنے پر اس نے اپنا اس قدر مال چھوڑا کہ پانچ درہم کے مساعی ہے اور مالک مکان مر و فقیر ہے تو مالک مکان کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس مال کو اپنی ذات پر صدقہ کر دے اس واسطے کہ یہ مال بمنزلہ لقطہ کے نہیں ہے ایک شخص کہیں چلا گیا حالانکہ وہ اپنا مکان کسی شخص کے قبضہ میں اس غرض سے دے گیا کہ اس کی تعمیر کرے اور اس کو مال دے گیا کہ اس کو حفاظت سے رکھے پھر یہ شخص جو

دے گیا ہے مفقود^۱ ہو گیا تو جس کو دے گیا ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ اس مال کو حفاظت سے رکھے اور یہ اختیار نہیں ہے کہ مکان مذکور کی تعمیر کرے الا باجارت^۲ حاکم یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ فقیہ ابوللیث نے عیون میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپنا جانور بطور سائڈ کے چھوڑ دیا پس اس کو کسی شخص نے پکڑ لیا اور اس کی اچھی طرح اصلاح کی پھر چھوڑنے والا آیا اور اس کو لینا چاہا تو دیکھا جائے کہ اگر اس نے چھوڑنے کے وقت یوں کہا کہ یہ جانور میں نے اس شخص کا کر دیا جو اس کو پکڑ لے تو یہ شخص اس کو اب نہیں لے سکتا ہے اور اگر اس نے یہ نہیں کہا تھا یعنی ایسا لفظ نہیں کہا تھا جس سے پکڑنے کی ملک اس کی طرف سے ثابت ہو جائے تو اس کو یہ اختیار ہوگا کہ اس سے لے لے اور اسی طرح اگر کسی نے اپنا شکار چھوڑ دیا تو بھی یہی حکم ہے ایسا ہی بعضے مشائخ نے ذکر فرمایا ہے اور اگر دونوں نے اختلاف کیا یعنی چھوڑنے والے نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا تھا اور پکڑنے والے نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ جو پکڑے میں نے اسی کا کر دیا تو اس صورت میں قسم کے ساتھ قول مالک (اور گواہ دوسرے کے) کا قبول ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

۱ مفقود جس کا پتہ نہ معلوم ہو کہ کہاں ہی مر گیا ہے یا زندہ ہے ۱۲۔ ۲ چنانچہ اگر حاکم نے اجازت دے دی تو ضامن نہ ہوگا ۱۲۔

کتاب الالباق

جو شخص غلام آبق (بھگوڑے) کو پائے اور مالک کو واپس کر دے تو مستحسن عمل کیا:

قال المترجم ابا بق غلام کا مولیٰ کے پاس سے بھاگ جانا ایسا غلام آبق کہلاتا ہے اور جو شخص اس غلام کو پکڑ لائے بدین کہ اس کے مالک کو واپس کر دے اس کا یہ فعل اچھا ہے اور نیز مولیٰ پر لازم ہے کہ ایسے لانے والے کو مال معلوم دیدے۔ جس کو جعل کہتے ہیں اور تفصیل آگے آتی ہے فانتظر۔ جو شخص غلام آبق کو پائے اگر اس کو پکڑ سکے پکڑ لینا اولے و افضل ہے کذانی السراجیہ۔ پھر پکڑنے والے کو اختیار ہے چاہے اس کو اپنی حفاظت میں رکھے بشرطیکہ اسپر قادر ہو اور چاہے اس کو امام کو دیدے پس اگر اس نے امام کو دینا چاہا تو امام اس غلام کو اس سے قبول نہ کرے گا مگر جبکہ وہ گواہ قائم کرے اور جب اس نے گواہ قائم کر دیے اور امام نے قبول کر لیا تو امام اس غلام کو بغرض تعزیر کے قید خانہ میں رکھے گا اور بیت المال سے اس کو نفقہ دیں گا یہ تمیین میں ہے اور اگر پکڑنے والے نے اس کو بسبب اختیار حاصل کے موافق قول بعض مشائخ کے اپنے پاس رکھا اور سلطان کو نہ دیا اور اپنے پاس سے اس کو نفقہ دیا تو جب اس کا مالک حاضر آئے تو اس سے اپنا نفقہ واپس لے گا بشرطیکہ قاضی کے حکم سے اس کو نفقہ دیا ہو ورنہ واپس نہیں لے سکتا ہے اور یہی مختار ہے یہ غیاثیہ میں ہے اور بھٹکے ہوئے میں لینے جو راہ بھول گیا ہو اور بھٹکتا پھرتا ہو اس میں اختلاف ہے چنانچہ بعض نے کہا کہ اس کا پکڑ لینا بھی افضل ہے اور بعض نے کہا کہ اس کا نہ پکڑنا افضل ہے اور اگر وہ امام کے پاس لایا جائے تو امام اس کو قید نہ رکھے گا اور اگر اس کی ذات سے کوئی منفعت ہو تو اس کو اجارہ پر دیدے اور اس کی اجرت میں سے اس کی ذات پر خرچ کرے کذانی التمیمین اور اس کو فروخت نہ کرے گا یہ خزائنہ المفتیین میں ہے۔

حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کافی میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک غلام آبق کو پکڑ لایا اور سلطان نے اس کو لے کر قید رکھا پھر کسی نے دعویٰ کیا اور گواہ قائم کئے کہ یہ غلام اس مدعی کا ہے تو فرمایا کہ سلطان اس سے یہ قسم لے کر کہ میں نے اس کو فروخت نہیں کیا ہے اور نہ بہ کیا ہے اس کو دیدے اور میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ اس سے کفیل مانگے لیکن اگر قاضی نے اس سے کفیل لے لیا تو قاضی اس فعل سے بد کردار بھی نہ ہوگا یہ غایہ البیان میں ہے اور یہ امر امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا کہ آیا قاضی اس مدعی کے مقابلہ میں کوئی خصم قائم کرے گا یا نہیں اور شمس الائمہ حلوانی نے ذکر کیا ہے کہ مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ قاضی اس کے مقابلہ میں ایک خصم قائم کرے اس کے روبرو گواہوں کی سماعت کرے گا اور بعضوں نے کہا کہ بدون اس کے کہ قاضی اس کے مقابلہ میں ایک خصم قائم کرے اس گواہی کی سماعت کرے گا یہ تا تاریخانیہ میں ہے اور اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو اور غلام نے خود اقرار کیا کہ میں اس کا غلام ہوں تو فرمایا کہ قاضی اس مدعی کو دے کر اس سے کفیل لے لے گا اور اگر غلام مذکور کا کوئی خواستگار نہ آیا تو فرمایا کہ اگر زمانہ دراز گزر جائے تو امام اس کو فروخت کر دے اور اس کا ثمن رکھ چھوڑے یہاں تک کہ اس کا خواست گار آئے اور گواہ قائم کرے کہ یہ میرا غلام ہے پس امام اس ثمن کو اس کو دیدے گا اور امام نے جو بیع کر دی ہے وہ نہ ٹوٹے گی اور جب

☆ اس کو گریزا پاتے ہیں اور ہمارے عرف میں بھگوڑا کہتے ہیں۔ (حافظ)

تک امام اس کو قید رکھے تو بیت المام سے اس کا نفقہ دے پھر جب اس کا مالک آئے تو اس سے لے لے یا اگر فروخت کر دے تو اس کے ثمن سے نکال لے یہ غایۃ البیان میں ہے اور بھاگنے والا غلام بسبب خوف ابا بق کے اجارہ پر نہ دیا جائے یہ خزائن المفتین میں ہے اور اگر غلام آبق بغیر حکم قاضی کے بوجہ اقرار غلام کے یا بسبب بیان علامات کے کسی خواستگار کو دید یا گیا پھر کوئی دوسرا اس کا مستحق ثابت ہو تو مستحق مذکور دیدنے والے سے تاوان لے گا پھر دینے والے نے جس کو دیا ہے اس سے واپس لے گا یہ تا تاریخانیہ میں ہے اور آبق کا پھیر لانے والا ہمارے نزدیک استحساناً جعل^۱ کا مستحق ہوتا ہے کذا فی الکافی پس جو شخص کے آبق غلام کو مدت سفر یعنی تین روز کی راہ سے پھیر لایا وہ چالیس درہم جعل کا مستحق ہے اگر چہ غلام کی قیمت چالیس درہم سے کم ہو اور یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ و امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے یہ تین میں ہے اور اگر کوئی شخص شہر میں یا شہر سے باہر سے مدت سفر سے کم مسافت آبق کو پکڑ لایا تو بقدر مشقت و مقام کے جعل کا مستحق ہوگا اور صحیح یہ ہے کہ رضح واجب ہوگا یہ فتاویٰ عثمانیہ میں ہے۔ پھر جب کہ رضح واجب ہو واپس اگر پھیر لانے والا اور جس کے پاس پھیر لایا ہے دونوں نے کسی قدر پر باہم رضامندی سے قرار داد کر لی تو پھیر لانے والے کو اسی قدر لے گا اور اگر دونوں نے قاضی کے پاس جھگڑا پیش کیا تو قاضی بقدر دوری مقام کے رضح کی مقدار مقرر کرے گا ایسا ہی ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا ہے اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ تین روز کی راہ سے پھیر لانے والے کے واسطے چالیس درہم واجب ہوتے ہیں۔ پس بمقابلہ ہر روز مسافت کے تیرہ درہم ایک تہائی درہم ہو واپس اگر ایک روز کی راہ سے لایا ہے تو اسی قدر واجب ہوگے اور کتاب میں اسی طرف اشارہ ہے۔

اگر آبق دو شخصوں میں مشترک ہو تو اس کا جعل ان دونوں پر بقدر ہر ایک کے حصہ کے ہوگا:

نیایع میں مذکور ہے کہ ہم اسی کو لیتے ہیں اور بعض نے فرمایا کہ یہ امام کی رائے پر ہے اور یہ آسان ہے بحسب اعتبار و اہانت میں مذکور ہے کہ یہی صحیح ہے اور عثمانیہ میں ہے کہ اسی پر فتوے ہے یہ تا تاریخانیہ میں ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اصل میں فرمایا کہ غلام صغیر کے واپس لانے کا حکم مثل غلام بالغ کے واپس لانے کے ہے کہ اگر صغیر کو سفر کی دوری سے واپس لایا تو چالیس درہم واجب ہوں گے اور اگر سفر سے کم دوری سے لایا تو رضح واجب ہوگا لیکن اگر غلام بالغ کے لانے میں مشقت زیادہ ہو تو بالغ کا رضح بہ نسبت صغیر کے زیادہ ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ جو حکم صغیر میں مذکور ہے یہ ایسی صورت پر محمول ہے کہ جب صغیر ایسا ہو کہ ابا بق کو سمجھتا ہو اور اگر ایسا صغیر ہو کہ ابا بق کو نہیں سمجھتا ہے تو راہ بھولا ہوگا اور راہ بھولے ہوئے کا واپس لانے والا مستحق جعل نہیں ہوتا ہے اور اگر ایسی باندی واپس لایا جس کے ساتھ صغیر بچہ ہے تو وہ اپنی مان کے تابع قرار دیا جائے گا پس جعل میں کچھ بڑھایا نہ جائے گا اور اگر یہ بچہ قریب بہ بلوغ ہو وے تو اسی (۸۰) درہم واجب ہوں گے۔ یہ تمیز میں ہے اور اگر آبق دو شخصوں میں مشترک ہو تو اس کا جعل ان دونوں پر بقدر ہر ایک کے حصہ کے ہوگا پس اگر دونوں مالکوں میں سے ایک حاضر ہو اور دوسرا غائب ہو تو جو حاضر ہے جب تک وہ پورا جعل داخل نہ کرے تب تک غلام مذکور نہیں لے سکتا ہے اور جب حاضر نے پورا جعل دیدیا تو اپنے شریک کے حصہ میں متطوع نہ ہوگا بلکہ اس سے واپس لے گا اور اگر غلام آبق^۲ ایک ہی شخص کا ہو مگر پھیر لانے والے دو آدمی ہوں تو اس کا جعل ان دونوں میں تقسیم ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر مالک ایک ہو اور غلام دو ہوں تو اس پر دو جعل واجب ہونگے یہ شرح طحاوی میں ہے۔

اگر غلام آبق کسی شخص کے پاس رہن تھا تو جعل مرتہن پر واجب ہوگا خواہ راہن کی حیات میں واپس لایا گیا ہو یا اس کی موت کے بعد پکڑ آیا ہو اور یہ حکم اس وقت ہے کہ غلام مذکور کی قیمت قرضہ کے برابر ہو یا اس سے کم ہو اور اگر اس کی قیمت بہ نسبت قرضہ کے زیادہ ہو تو بقدر قرضہ کے مرتہن پر اور باقی راہن پر ہوگا۔ یہ ہدایہ میں ہے اور اگر غاصب نے جو غلام غصب کر لیا ہے اس

۱ احسان کنندہ ۱۲۔ ۲ جس کو گریز پاپا کہتے ہیں اور ہمارے عرف میں بھگوزا بولتے ہیں ۱۲۔

کے پاس سے بھاگ گیا اور کوئی اس کو پکڑ کر واپس لایا تو اس کا جعل غاصب پر ہوگا اور اگر آبق ایسا غلام ہو کہ اس کی خدمت کا استحقاق ایک شخص کے واسطے اور رقبہ کی ملکیت دوسرے کے واسطے ہو تو اس کا جعل اسی پر ہوگا جو مستحق خدمت ہے پھر جب مدت خدمت گزر جائے تو مستحق خدمت اس جعل کو اس شخص سے جو رقبہ غلام مذکور کا مالک ہے واپس لے گا یا غلام مذکور اس مال جعل کے واسطے فروخت کیا جائے گا اور جو شخص آبق کو پکڑ کر واپس لایا ہے اس کو اختیار ہے کہ غلام مذکور کو روک رکھے یہاں تک کہ تمام جعل کو وصول کرے اور اگر غلام مذکور اس پھیر لانے والے کے پاس بعد از نیکہ قاضی نے اس کو جعل حاصل کرنے تک روک رکھنے کا حکم دیدیا ہے یا قاضی تک مرافعہ کرنے کے قبل ہلاک ہو گیا تو اس پر ضمان واجب نہ ہوگی اور اس کا جعل بھی واجب نہ ہوگا اور اگر آبق کے پھیر لانے والے نے مولائے غلام سے بیس درہم پر جعل صلح کر لی تو جائز ہے اور اگر پچاس درہم پر صلح کی حالانکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ جعل چالیس درہم ہے تو بقدر چالیس کے جائز اور بڑھتی باطل ہوگی یہ محیط میں ہے۔ اگر کسی نے ایک غلام اپنا کسی دوسرے کو مطلقاً ہبہ کیا پھر وہ موہوب لہ کے پاس سے بھاگ گیا پھر کوئی شخص اس کو گرفتار کر کے واپس لایا تو اس کا جعل موہوب لہ پر ہوگا اگر چہ ہبہ کرنے والا بعد از انکہ پھیر لانے والے نے غلام مذکور موہوب لہ کو واپس دیا ہے اپنے ہبہ سے رجوع کر لے یہ کافی ہے۔ اور اگر کوئی شخص مدبر یا ام ولد کو گرفتار کر کے واپس لایا تو جعل واجب ہوگا بشرطیکہ مولیٰ کی حیات میں واپس لایا ہو اور اگر پہنچنے سے پہلے مولیٰ مر گیا تو واپس لانے والے کے واسطے کچھ نہ ہوگا اور غلام مازون کے واپس لانے میں بھی جعل واجب ہوگا اور اگر مکاتب بھاگ گیا اور کوئی شخص اس کو مولیٰ پاس واپس لایا تو اس کو کچھ نہ ملے گا۔ یہ جوہرہ نیرہ میں ہے۔

ایک غلام بھاگ گیا پھر اس نے عموماً کسی کو قتل کیا یا اس پر کچھ قرضہ چڑھ گیا پھر اس کو کوئی شخص گرفتار کر لایا اور اسی کے پاس غلام مذکور قتل کیا گیا تو وہ جعل کا مستحق نہ ہوگا:

جامع الفصولین میں مذکور ہے کہ دو شخص ایک غلام کو واپس لائے پس ایک نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کو تین روز کی راہ سے گرفتار کیا ہے اور دوسرے نے گواہ دے کہ میں نے اس کو دو روز کی راہ سے گرفتار کیا ہے تو مولیٰ پر واجب ہوگا کہ روز اول و دوم کا جعل پورا کر دے جو دونوں میں مساوی تقسیم ہوگا اور نیا بیع میں مذکور ہے کہ اگر ایسا غلام کوئی جنایت کر کے بھاگا ہو تو انتظار کر کے دیکھا جائے گا کہ مولیٰ کیا اختیار کرتا ہے پس اگر مولیٰ نے فدیہ دینا اختیار کیا تو اس کا جعل مولیٰ پر واجب ہوگا اور اگر مولیٰ نے تاوان جنایت میں ہے غلام اس ولی جنایت کو دیدیا تو جعل مذکور ولی جنایت پر ہوگا اور اگر غلام آبق ایسا ہو کہ مولیٰ نے اس کو تجارت دی ہے حالانکہ حالت اجازت کے تجارتی قرضہ میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کا جعل اس کے مولیٰ پر واجب ہوگا لیکن اگر مولیٰ نے اس سے انکار کیا تو جعل کے واسطے غلام مذکور فروخت کیا جائے گا پھر جو کچھ جعل سے بچے وہ قرض خواہ ہوں کو ملے گا اور جامع میں مذکور ہے کہ اگر زید نے اپنا غلام عمر د کے پاس ودیعت رکھا اور اس کے پاس سے بھاگ گیا پھر کوئی گرفتار کر کے لایا اور عمر د نے اس کا جعل ادا کر دیا تو احسان کنندہ ہوگا یعنی زید سے واپس نہیں لے سکتا ہے اور نیز جامع میں ہے کہ ایک غلام بھاگ گیا پھر اس نے عمداً کسی کو قتل کیا یا اس پر کچھ قرضہ چڑھ گیا پھر اس کو کوئی شخص گرفتار کر لے لایا اور اسی کے پاس غلام مذکور قتل کیا گیا تو وہ جعل کا مستحق

۱۔ مترجم کہتا ہے کہ اگر قتل نہ کیا گیا یہاں تک کہ مولیٰ کے پاس پہنچ گیا پس جس صورت میں کہ اس پر قصاص واجب ہوگا اور اس کے قتل کا حکم دیا گیا تو لانے والے کے واسطے کچھ حق نہ ہوگا اور وجب دین کی صورت میں مولیٰ پر مزدوری واجب ہوگی اور قرض خواہوں کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ بعوض دیں مولیٰ کے یا اس غلام کے دامن گیر ہوں یہاں تک کہ وہ غلام آزاد ہو واللہ اعلم۔

نہ ہوگا اور نیز جامع میں مذکور ہے کہ اگر آبق نے گرفتار کرنے والے کے قبضہ میں جنایت کی یا کسی کا مال تلف کر دیا پس اگر غلام مذکور قتل کیا گیا یا دلی جنایت کو دے دیا گیا یا مال تلف کرنے میں فروخت کیا گیا تو گرفتار کرنے والا کچھ مستحق جعل نہ ہوگا اور نیز جامع میں ہے کہ اگر گرفتار کرنے والے کے پاس آبق نے جنایت کی مگر خطا سے یا کسی کا مال تلف کر دیا پھر مولیٰ نے گرفتار کرنے والے کو بغیر اس امر سے آگاہی کے جعل دے دیا یا پھر غلام مذکور کو جنایت کے عوض دے دیا پس اگر ارش جنایت اس غلام کی قیمت کے مساوی ہو تو پورا جعل واپس لے گا اور اگر ارش جنایت سے قیمت زیادہ ہو تو جعل میں سے بقدر حصہ جنایت کے واپس لے گا خواہ ادا کیا اس کے ثمن یا دین یا جنایت سے یہ تارخانیہ میں ہے اور اگر کوئی شخص اپنے باپ یا بھائی یا اور اقربا میں سے کسی کا غلام واپس لایا تو اس کے واسطے جعل واجب نہ ہوگا جب کہ وہ مولائے غلام کے عیال میں سے ہو اور اگر مولائے غلام کے عیال میں سے نہ ہو تو جعل واجب ہوگا سوا اس کے کہ اگر بیٹا اپنے باپ کا غلام واپس لایا یا بیوی و مرد میں سے کوئی دوسرے کا غلام واپس لایا تو اس کے واسطے مطلقاً جعل واجب نہ ہوگا اور اس طرح اگر یتیم کا غلام آبق اس کا وصی واپس لایا تو مستحق جعل نہ ہوگا یہ تبیین میں ہے اور سلطان نے اگر غلام آبق کو گرفتار کر کے تین روز کی راہ سے اس کے مولیٰ کو واپس دیا تو اس کے واسطے جعل نہ ہوگا اور فقیہ نے فرمایا کہ ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں اور اسی طرح اگر راہدار و شحت (کو تو ال) و کاروان نے راہزنوں سے مال چھین لیا اور مالک کو واپس کر دیا تو بھی یہی حکم ہے یہ عتابیہ میں ہے۔

اگر کسی کے غلام آبق کو اس کا وارث تین روز کی راہ سے لایا تو وارث تین خال سے خالی نہیں اول آنکہ اس کا فرزند ہوگا دوم آن کہ فرزند نہیں مگر اس کے عیال میں سے ہوگا سوم آنکہ اس کا فرزند نہ ہوگا اور نہ اس کے عیال میں ہوگا پس اگر تیسری صورت ہو تو اجماع ہے کہ اگر ایسے وارث نے آبق کو گرفتار کر کے مورث کی حیات میں اس کو واپس پہنچا دیا تو اس کے لیے جعل واجب ہوگا اور اجماع ہے کہ اگر اس نے بعد وفات مورث کے اس کو گرفتار کر کے پہنچا تو مستحق جعل نہ ہوگا اور اگر اس نے مورث کی حیات میں اس کو گرفتار کیا اور اس کے حیات ہی میں اس کو شہر میں لایا مگر مورث کی وفات کے بعد سپرد کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و امام محمد نے فرمایا کہ اس کے واسطے دیگر وارثان شریک کے حصہ میں جعل واجب ہوگا اور صورت اول و دوم میں کسی حال میں جعل کا مستحق نہ ہوگا یہ ظہیر یہ میں ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ میرا غلام بھاگ گیا ہے اگر تجھ کو کہیں ملے تو اس کو پکڑ لینا پس مامور نے کہا کہ اچھا پس مامور نے اس کو تین روز کی راہ سے گرفتار کیا اور اس کے مولیٰ کے پاس لایا تو جعل کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کسی آبق کو تین روز کی راہ سے پکڑ کر اس کے مولیٰ کو واپس کرنے کے واسطے لایا یہاں تک کہ جب اس شہر میں پہنچا تو ہنوز اس کے مولیٰ تک نہیں پہنچانے پایا تھا کہ غلام مذکور اس کے پاس سے بھاگ گیا پھر کسی اور شخص نے اس کو اسی شہر میں سے گرفتار کیا اور اس کے مولیٰ کو واپس دیا تو اول کے واسطے کچھ جعل نہ ہوگا اور دوسرا بقدر اپنی مشقت کے رخص کا مستحق ہوگا اور منقہی میں مذکور ہے۔

اگر کوئی شخص ایک آبق غلام کو تین روز کی راہ سے پکڑ لایا کہ اس مولیٰ کو واپس کر کے پھر اس سے کسی غاصب نے چھین لیا اور لا کر اس کے مولیٰ کو واپس دے کر جعل لے لیا پھر اول گرفتار کرنے والے نے آکر گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کو تین روز کی راہ سے گرفتار کیا ہے تو مولائے غلام سے دوبارہ جعل لے لے گا پھر مولائے مذکور غاصب سے جو کچھ اس کو دیا ہے واپس لے گا اور نیز منقہی میں مذکور ہے کہ اگر کسی نے آبق کو تین روز کی راہ سے گرفتار کیا اور اس کے مولیٰ کو واپس کرنے کے واسطے لے کر ایک روز چلا تھا کہ غلام مذکور اس کے پاس سے بھاگا اور اسی شہر کی راہ جس میں اس کا مولیٰ موجود ہے چلا مگر اس کی نیت میں یہ نہیں ہے کہ اپنے مولیٰ کے پاس لوٹ جاؤں حتیٰ کہ ایک روز تک اس راہ پر چلا آیا پھر وہ دوبارہ اس کو پہلے گرفتار کرنے والے نے گرفتار کیا اور تیسرے روز راہ چل کر اس کے مولیٰ تک لا کر مولیٰ کو سپرد کیا تو لانے والا روز اول اور روز سوم کے جعل کا مستحق ہوگا یعنی تمام جعل

میں سے دو تہائی حصہ کا مستحق ہوگا اور اگر ایسا ہوا کہ غلام مذکور گرفتار کرنے والے کے ہاتھ سے بھاگ گیا پھر اس کے مولیٰ نے گرفتار کر لیا یا غلام مذکور کی راہ میں خود ہی آیا کہ اپنے مولیٰ کے پاس واپس آیا تو گرفتار کرنے والے کو کچھ جعل نہ ملے گا اور اگر غلام مذکور گرفتار کرنے والے سے جدا ہو گیا اور اپنے مولیٰ کی طرف رخ کر کے آیا کہ اس کا ارادہ ایاق^۱ کا نہ تھا تو اول گرفتار کرنے والے کو ایک روز کا جعل ملے گا اور نیز منقہی میں ہے کہ اگر کسی نے غلام آبق کو گرفتار کر کے ایک شخص کو دیا اور حکم کیا کہ اس کو لے جا کر اس کے مولیٰ کو واپس دے کر اس سے جعل وصول کر لینا تو یہ جعل اس گرفتار کرنے والے کا ہوگا اور اصل میں مذکور ہے کہ اگر کوئی غلام کسی شہر کو بھاگ گیا اور کسی نے اس کو گرفتار کیا پھر اس سے کسی شخص نے خریدار اور اس کے مولیٰ کے پاس لایا تو کچھ جعل کا مستحق نہ ہوگا۔ لیکن اگر اس نے خرید کے وقت گواہ کر لیے ہوں کہ میں اس کو اس واسطے خریدتا ہوں کہ اس کے مولیٰ کو واپس دے دوں تو وہ جعل کا مستحق ہوگا لیکن جو کچھ اس نے ثمن دیا ہے خواہ قلیل یا کثیر اس کو مولیٰ سے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر گرفتار کنندہ نے اس کو ہبہ کر دیا ہو یا اس کے واسطے اس غلام کی وصیت کر دی ہو یا اس نے میراث میں پایا ہو پھر اس کے مولیٰ کے پاس واپس کرنے لایا تو اس میں وہی حکم ہے جو صورت خرید میں مذکور ہوا ہے یعنی مستحق جعل نہ ہوگا۔

مسئلہ ذیل میں گواہ کر لینے میں یہ شرط نہیں کہ مکرر کئی بار اشہاد کرے بلکہ ایک مرتبہ اگر ایسا کر دیا تو کافی ہے:

اگر کسی نے ایک غلام آبق گرفتار کیا اور اس کے مولیٰ کو واپس کرنے لایا پھر جب ہی مولیٰ کی نظر اس پر پڑی تو مولیٰ نے اس کو آزاد کر دیا پھر وہ لانے والے کے ہاتھ سے بھاگ گیا تو لانے والا اس کے جعل کا مستحق ہوگا اور اگر اس مسئلہ میں مولیٰ نے اس کو مدبر کر دیا ہو تو لانے والا مستحق جعل نہ ہوگا اور اگر گرفتار کرنے والا اس کو تین روز راہ قطع کر کے لایا اور ہنوز مولیٰ کے پاس نہ پہنچا تھا کہ غلام مذکور اس کے پاس سے بھاگ گیا پھر مولیٰ نے اس غلام کو آزاد کر دیا تو گرفتار کرنے والے کے ہاتھ سے اپنے قبضہ میں لانے والا نہ ہو جائے گا اور اگر گرفتار کرنے والا اس کو اس کے پاس لایا اور مولیٰ نے اس پر قبضہ کر کے پھر گرفتار کرنے والے کو ہبہ کر دیا تو مولیٰ پر جعل واجب رہے گا اور اگر قبل قبضہ کرنے کے اس کو ہبہ کر دیا ہو تو گرفتار کرنے والے کے واسطے جعل نہ ہوگا۔ اور اگر قبل قبضہ کرنے کے لانے والے کے ہاتھ فروخت کر دیا تو مولیٰ پر جعل واجب ہوگا۔ شیخ شمس الائمہ حلوائی نے بیان فرمایا ہے کہ واپس لانے والا جب ہی جعل کا مستحق ہوتا ہے کہ جب گرفتار کرنے کے وقت اس نے گواہ کر لیے ہوں کہ میں اس کو اس واسطے گرفتار کرتا ہوں کہ اس کے مولیٰ کو واپس کر دوں اور اگر اس نے اس طرح گواہ کر لینا ترک کیا ہو تو جعل کا مستحق نہ ہوگا اگرچہ اس کے مالک کو لا کر واپس دے یہ محیط میں ہے۔ اگر غلام آبق گرفتار کرنے والے کے پاس قبل اس کے کہ مولیٰ کو واپس کرے مر گیا یا بھاگ گیا پس اگر گرفتار کرنے والے نے گرفتار کرنے کے وقت گواہ کر لیے ہوں کہ میں اس کو اس کے مولیٰ کو واپس دینے کے واسطے گرفتار کرتا ہوں تو گرفتار کنندہ پر ضمان نہ ہوگی اور اسی طرح اگر یوں کہا ہو کہ یہ بھاگا ہو غلام ہے میں اس کو گرفتار کرتا ہوں پس جس شخص کو تم اپنا بھاگا ہو غلام جستجو کرتا ہو اپاؤ اس کے میرے پاس راہ بتا دینا تو بھی گواہ کر لینا ہے اور وہ ضامن نہ ہوگا اور شمس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ گواہ کر لینے میں یہ شرط نہیں ہے کہ مکرر کئی بار اشہاد کرے بلکہ ایک مرتبہ اگر ایسا کر دیا تو کافی ہے اگر اس طرح ہو کہ جب دریافت کی جائے تو اس کے پوشیدہ کرنے پر قادر نہ ہو اور یہی حکم نقطہ میں ہے اور اگر اس نے اشہاد کیا تھا باوجودیکہ گواہ کر

کینا ممکن تھا تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اسپر ضامن واجب ہوگی اور یہ اس وقت ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ یہ آبق تھا اور اگر یہ معلوم نہ ہو اور مولیٰ نے اپنے غلام کے آبق ہونے سے انکار کیا تو قول مولیٰ کا قبول ہوگا اور گرفتار کرنے والا بالاجماع ضامن ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔

بھگوڑے غلام کو گرفتار کیا ہی تھا کہ اصل مالک نے آ کر حق جتایا:

اور اگر کسی نے غلام آبق گرفتار کیا پھر کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا غلام ہے اور غلام نے اس کا اقرار کیا اور گرفتار کرنے والے نے بغیر حکم قاضی کے اس کو دے دیا پس اس کے پاس ہلاک ہو گیا پھر کوئی دوسرا شخص بذریعہ گواہوں کے اس کا مستحق ثابت ہوا یعنی اس نے دعویٰ کی اور گواہ دیے اور مستحق ثابت ہوا تو اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے جس سے چاہے تاوان لے یعنی چاہے اس شخص سے تاوان لے جس نے گرفتار کیا تھا اور چاہے اس شخص سے جس کو غلام کے اقرار پر دے دیا ہے پس اگر اس نے گرفتار کرنے والے سے تاوان لیا تو وہ لے لینے والے سے واپس لے گا اور اگر پکڑنے والے نے اول کو نہ دیا یہاں تک کہ دو گواہوں نے اس کے پاس گواہی دی کہ یہ اسی کا غلام ہے پس اس نے بغیر حکم قاضی کے طلبگار کو دے دیا پھر دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ یہ میرا غلام ہے تو دوسرے کا غلام ہونے کا حکم دے دیا جائے گا پھر اگر اول نے اپنے گواہوں کا اعادہ کیا تو حکم قضا رو نہ ہوگا۔ اگر کوئی غلام آبق گرفتار کیا اور بغیر حکم قاضی کے اس کو فروخت کر دیا حتیٰ کہ بیع صحیح نہ ہوئی اور مشتری کے پاس غلام مذکور مر گیا پھر ایک شخص نے آ کر اس کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کر کے ثابت کیا کہ یہ میرا غلام ہے تو مستحق کو اختیار ہے چاہے مشتری سے تاوان لے پس مشتری اپنا ثمن بائع سے واپس لے گا اور چاہے بائع سے قیمت تاوان لے اور اس صورت میں بائع کی طرف سے بیع نافذ ہو جائے گی اور ثمن اس کا ہو جائے گا لیکن اگر ثمن میں قیمت کی بہ نسبت زیادتی ہو تو زیادتی پھر صدقہ کر دے اور اگر مولیٰ نے انکار کیا کہ میرا غلام بھاگانہ تھا تو واپس لانے والا مستحق جعل نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ گواہ گواہی دیں کہ اس کا غلام بھاگا ہے یا یہ گواہی دیں کہ مولیٰ نے اقرار کیا کہ میرا یہ غلام بھاگا ہے

اگر مولیٰ نے اپنے فرزندِ صغیر کو ہبہ کیا پس اگر غلام مذکور دارالاسلام ہی میں ہنوز سرگرداں ہو تو جائز

ہے اور اگر دارالحرب میں پہنچ گیا ہو تو اس میں مشائخ رضی اللہ عنہم نے اختلاف کیا ہے:

کوئی غلام بھاگا اور اپنے ساتھ مولیٰ کا مال لے گیا پھر اس کو کوئی شخص پکڑ لیا اور کہا کہ میں نے اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں پائی ہے تو قول اسی کا قبول ہوگا اور اس پر کچھ واجب نہ ہوگا۔ غلام آبق کا فروخت کرنا اجنبی کے ہاتھ یا اپنے فرزندِ صغیر کے ہاتھ نہیں جائز ہے اور جس کے قبضہ میں ہے اس کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے اور اجنبی کے واسطے اس کا ہبہ کر دینا نہیں جائز ہے اور اجنبی سے مراد شخص ہے جس کے پاس یہ بھاگا ہو غلام نہ ہو و ہذا من المتروجمہ اور اگر مولیٰ نے اپنے فرزندِ صغیر کو ہبہ کیا پس اگر غلام مذکور دارالاسلام ہی میں ہنوز سرگرداں ہو تو جائز ہے اور اگر دارالحرب میں پہنچ گیا ہو تو اس میں مشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کیا ہے اور قاضی الحرمین نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ نہیں جائز ہے اور اپنے کفارہ ظہار سے اس کا

آزاد کر دینا روا ہے اور اگر مولیٰ نے کسی کو غلام آبق کی جستجو کر کے پکڑ لینے کے واسطے وکیل کیا اور وکیل اس کو پکڑ پایا پھر مولیٰ نے اس کو کسی شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا حالانکہ بائع و مشتری دونوں میں سے کوئی یہ نہیں جانتا ہے کہ وکیل نے اس کو پایا ہے تو بیع باطل ہے یہاں تک کہ معلوم ہو کہ وکیل نے اس کو پایا ہے اور اگر غلام آبق کو کسی نے گرفتار کیا اور اس کو اجارہ پردے دیا تو اجرت اسی گرفتار کنندہ کی ہوگی مگر اس کو صدقہ^۱ کر دے اور اگر اس نے رکھ چھوڑی اور غلام کے ساتھ یہ اجرت بھی اس کے مولیٰ کو واپس کر دی اور کہا کہ یہ تیرے غلام کی کمائی ہے اور میں نے تجھے سپرد کر دی تو وہ مولیٰ کی ہوگی مگر مولیٰ کو قیاساً اس کا کھانا روا نہیں ہے اور استھانا کھانا حلال ہے۔ یہ محیط میں لکھا ہے۔

کتاب المفقود

مفقود اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے اہل یا شہر سے غائب ہو گیا یا اس کو دشمنوں یعنی حربی کافروں نے گرفتار کر لیا پھر یہ نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے اور نہ اس کا ٹھکانا معلوم ہے اور اس پر ایک زمانہ گذرا پس وہ اس اعتبار سے معدوم ہے اور ایسے شخص کا حکم یہ ہے کہ اپنی ذات کے حق میں زندہ ہے اور حق غیر میں مردہ ہے چنانچہ اپنی ذات کے حق میں زندہ قرار دیئے جانے کی وجہ سے اس کی بیوی کسی سے نکاح نہیں کر سکتی ہے اور اس کا مال تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے اور اس کا اجارہ فسخ نہ ہوگا اور حق غیر میں میت قرار دیئے جانے سے جو شخص اس کے مورثوں میں سے اس کے پیچھے مر اس کی میراث نہ پائے گا یہ خزانۃ المقتنین میں ہے۔

جس شخص کو قاضی نے وکیل مقرر کیا ہے اگر اس کے معاملہ و عقد سے کوئی قرضہ کسی پر واجب ہوا تو بلا خوف اس کے واسطے مخصوصہ کرے گا:

قاضی اس کی طرف سے ایسا شخص مقرر کر دے گا جو اس کے مال کی حفاظت کرے گا اور اس کی پرداخت کرے گا اور اس کی حاصلات وصول کرے گا اور اس کے ایسے قرضے وصول کرے گا جن کا قرضدار خود اقرار کریں مگر جن کا اقرار نہ کریں اس کی بابت کسی سے مخصوصہ نہیں کر سکتا ہے اور نہ اس کے ایسے عروض یا عقار^۱ کی نسبت جو دوسرے کے قبضہ میں ہے مخصوصہ کر سکتا ہے یعنی یہ بھی نہیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ یہ شخص نہ خود مالک ہے اور نہ مالک کا نائب ہے بلکہ فقط وکیل بالقبض از جانب قاضی مقرر ہے اور ایسا وکیل بالا اتفاق نالش و خصوصت کا اختیار نہیں رکھتا ہے کیونکہ یہ متضمن ہے کہ غائب پر حکم ہو پس جب غائب پر حکم ہونے کو متضمن ہے تو ہمارے نزدیک نہیں جائز ہے ہاں اگر کسی قاضی نے جو غائب پر حکم کو جائز رکھتا ہے ایسا حکم دے دیا تو جائز ہو جائے گا اس واسطے کہ یہ صورت مجتہد فیہ ہے پس مجتہد فیہ میں اس کی قضا بالا اتفاق نافذ ہو جائیگی۔ پھر واضح ہو کہ جس شخص کو قاضی نے وکیل مقرر کیا ہے اگر اس کے معاملہ و عقد سے کوئی قرضہ کسی پر واجب ہوا تو بلا خوف اس کے واسطے مخصوصہ کرے گا اور مفقود کے مال سے جس چیز کے خراب و فاسد ہو جانے کا خوف ہوگا اس کو فروخت کر سکتا ہے یہ تمین میں ہے۔

ہر ایسی چیز جو جلد بگڑتی نہیں ہے اس کو فروخت نہ کرے گا نہ نفقہ میں اور غیر نفقہ میں خواہ یہ منقول مال ہو یا غیر منقول عقار ہو یہ غایت البیان میں ہے اور اس کے مال سے اس کے ایسے لوگوں کو جن کا نفقہ اس کی موجودگی میں بغیر حکم قاضی کے اس پر واجب تھا ان کو نفقہ دے دیا جائے جیسے اس کی زوجہ و اس کی اولاد و اس کے والدین اور جو لوگ اس کی موجودگی میں اس سے اپنے نفقہ کے بغیر حکم قاضی کے مستحق نہ تھے تو ان پر اس کا مال خرچ نہ کیا جائے گا جیسے بھائی و بہن وغیرہ اور مال سے ہماری مراد مال نقد ہے یہ خزانۃ المقتنین میں ہے اور پیر چاندی و سونے کے یعنی بغیر سکہ کے اس حکم میں بمنزلہ نقد درہم و دینار کے ہیں اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ مال مذکور قاضی کے قبضہ میں ہو اور اگر وریعت یا قرضہ ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک سے ان لوگوں پر خرچ کیا جائے گا جبکہ وریعت رکھنے والا اور قرضدار دونوں وریعت و قرضہ و نسب و نکاح کا اقرار کریں اور یہ جب ہی ہے کہ یہ ہر دو امر قاضی کے نزدیک ظاہر نہ ہوں اور اگر دونوں ظاہر ہوں

۱ عروض سامان و اسباب و عقار زمین و اراضی ۱۲۔ ☆ مفقود۔ (ع۔ صف) کھویا ہوا۔ غائب۔ ناپید۔ ندارد۔ (فیروز اللغات) (حافظ)

تو ان دونوں کے اقرار کی ضرورت نہیں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک ظاہر ہو اور دوسرا ظاہر نہ ہو تو صحیح قول کے موافق جو ظاہر نہیں ہے اس کے اقرار کی ضرورت ہے اور اگر مستودع نے بطور خود دیا قرضدار نے بطور خود بغیر حکم قاضی کے ان لوگوں کو دیا تو مستودع ضامن ہوگا اور قرضدار بری نہ ہوگا اور اگر مستودع یا قرضدار کرنے سرے سے اپنے مستودع و مقروض ہونے سے انکار کیا یا فقط نسب نکاح سے انکار کیا تو اس کے اثبات میں کوئی جو مستحق نفقہ ہے ان کے مقابلہ میں خصم نہ قرار دیا جائے گا اور مفقود اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق نہ کی جائے گی اور جب نوے برس گزر جائیں تو اس کی موت کا حکم دیا جائے گا اور اسی پر فتویٰ ہے اور ظاہر الروایہ کے موافق جب اس کے ہجولی مر جائیں اور کوئی اس کے ہجولیوں میں سے زندہ نہ رہے تو اس کی موت کا حکم دیا جائے گا اور واضح ہو کہ اس کے شہر کے اس کے ہجولیوں کی موت کا اعتبار ہے یہ کافی میں ہے اور مختار یہ ہے کہ یہ امر امام کی رائے کے سپرد ہے یہ تبیین میں ہے۔ پھر جب اس کی موت کا حکم دیا جائے تو اس وقت سے اس کی بیوی وفات کی مدت میں بیٹھے اور اس وقت میں جو لوگ اس کے وارثوں میں موجود ہوں ان کے درمیان اس کا مال تقسیم کیا جائے اور اس سے پہلے مر گیا وہ اس کا وارث نہ ہوگا یہ ہدایہ میں ہے پھر اگر اس مدت کے گزر جانے کے بعد اس عورت کا شوہر یعنی مفقود واپس آیا تو اس عورت کا حقدار ہے لیکن اگر اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہو تو اس کو اس کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی۔ مدت تمام ہونے کے روز وہ اپنے مال کے حق میں مردہ قرار دیا جائے گا اور مال غیر کے حق میں وہ اسی روز سے مردہ قرار دیا گیا جب سے (پچھلے نوے سال کے اختلاف) مفقود ہونا قرار دیا گیا ہے یہ تاتار خانہ میں ہے اور جو شخص مفقود کے غائب و مفقود ہونے کی حالت میں مرا ہے مفقود اس کا وارث نہ ہوگا اور یہ جو ہم نے کہا کہ مفقود کسی کا وارث نہ ہوگا اس کے یہ معنی ہیں کہ مفقود کا حصہ میراث اس مفقود کی ملک میں شامل نہ کیا جائے گا اور رہا یہ حصہ تو موقوف رکھا جائے گا پھر اگر مفقود مذکور زندہ ظاہر ہوا تو وہ اس کا مستحق ہوگا اور اگر زندہ ظاہر نہ ہوا یہاں تک کہ نوے برس پورے ہو گئے تو جو حصہ اس مفقود کے واسطے رکھا گیا تھا وہ جس میت کی میراث میں سے تھا اس کی موت کے روز کے وارثوں کو واپس دیا جائے گا یعنی قرار دیا جائے گا کہ اس میں سے فلاں کو جو اس وقت زندہ تھا اتنا اور فلاں کو اتنا چاہیے کہ اگرچہ بعض ان میں سے مر چکے ہوں یہ کافی میں ہے۔ اور اگر کسی میت نے وقت وفات کے مفقود کے واسطے کسی چیز کی وصیت کر دی ہو تو یہ چیز بھی متوقف رکھی جائے گی یہاں تک کہ مفقود کی موت کا حکم دیا جائے گا تو یہ چیز اس وصیت کنندہ کی اس وقت کے وارثوں کو حصہ رسد دے دیا جائے گی یہ تبیین میں ہے اور اگر کوئی مرتد مفقود ہو گیا کہ یہ معلوم نہ ہوگا کہ وہ دار الحرب میں پہنچ گیا ہے یا نہیں تو اس کی میراث بھی موقوف رکھی جائے گی یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے کہ وہ دار الحرب میں پہنچ گیا اور اگر مرتد کی اولاد میں سے کوئی مر گیا تو اس کی میراث اس کے وارثوں میں تقسیم کر دی جائے گی اور مرتد کے واسطے کچھ بھی موقوف نہ رکھا جائے گا یہ ظہیر یہ میں ہے۔

اگر کوئی ایسا وارث ہو جو مفقود کے ہوتے ہوئے بالکل محروم ہو تو اس وقت اسکو بالکل نہ دیا جائے گا:

اگر مفقود کے ساتھ کوئی ایسا وارث ہو کہ ایسا وہ مفقود کے ہوتے ہوئے بالکل محروم تو نہیں ہوتا مگر اس کے حصہ میں نقصان ہوتا ہے تو ایسے شخص کو ہر دو حصہ میں سے کم حصہ دیا جائے گا یعنی حجب حرمان جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ دیا جائے گا اور بلا نقصان حصہ کی مقدار

۱۔ مثلاً مفقود نے آکر انکار کیا تو ایسا ہوگا ۱۲۔ ۲۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ قول ہمارا ہے اس بناء پر یہ حکم اشارۃ ظاہر کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اس لیے کہ حصص میراث کا ملک میں داخل ہوتا متوقف نہیں ہوتا اور اس پر ملک کا ثبوت کے بناء پر حکم ادخال و اثبات کے ہے کیونکہ یہ حکم وارث کے واسطے من جانب اللہ تعالیٰ متعلق ہوتا ہے بغیر منع اس وارث اور کسی دوسرے کے بلکہ باوجود اس کے رد کرتے اور کل کے انکار کرنے کے بھی یہی حکم ہے ۱۲۔ ۳۔ حجب حرمان یہ ہے کہ ایک وارث کے ہوتے ہوئے دوسرا شخص مجبوب ہوگا ۱۲۔

تک جس قدر اور ہے وہ متوقف رکھا جائے گا اور اگر کوئی ایسا وارث ہو جو مفقود دے ہوتے ہوئے بالکل محروم ہوتا ہو تو اس وقت اس کو بالکل نہ دیا جائے گا۔ اس مسئلہ کی صورت یہ زید مراد و دختر و ایک پسر کا پسر و ایک پسر کی دختر وارث چھوڑے اور مال ترکہ کسی اجنبی کے پاس ہے اور سب نے بالاتفاق اقرار کیا کہ زید کا پسر مفقود ہے اور ہر دو دختر نے اپنا حصہ میراث طلب کیا تو در صورت پسر نہ ہوں گے ان کا حصہ میراث دو تہائی مال ہے اور ہونے کی صورت میں ہر ایک کا چہارم چہارم یعنی نصف کل مال ہے کہ نقصان کے ساتھ ہے پس ہر دو حصہ میں سے کمتر حصہ یعنی نصف ان کو اس وقت دیا جائے گا اور پسر کے پسر یعنی پوتے کو جو پسر کے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے کچھ نہ دیا جائے گا بلکہ باقی سب مال رکھ چھوڑا جائے گا اور جس کے پاس ہے اس کے قبضہ سے بھی نہ نکالا جائے گا آلاںکہ اس سے خیانت ظاہر ہو کہ اس کی طرف سے مامون نہ ہوں تو وہ امانت دار نہ رکھا جائے گا پھر جب مدت مذکور گذر جائے اور مفقود کی موت کا حکم دیا جاوے تو باقی میں سے ایک چھٹا حصہ کل مال کا بھی ہر دو دختر کو دے دیا جائے گا تاکہ ان کی دو تہائی پوری ہو جائے اور اگر وہ زندہ نہ ہوں تو ان کے وارث بحسب فرائض مستحق ہوں گے اور جو کچھ مال باقی رہا ہو پسر کے پسر کا ہے اور اس کی نظیر حمل ہے یعنی مفقود کی نظیر میت کا وہ بچہ ہے جو ہنوز پیٹ میں ہو اور پیدا نہیں ہوا ہے کہ اس کے واسطے ایک پسر کا حصہ رکھ چھوڑا جائے گا چنانچہ یہی فتوے کے واسطے مختار ہے اور اگر اس کے ساتھ ایسا دوسرا وارث ہو کہ وہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا ہے اور حمل کی وجہ سے اس کا حصہ متغیر بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کا حصہ اس کو پورا دے دیا جائے گا اور اگر ایسا وارث ہو کہ حمل کے ہوتے ہوئے اس کا حصہ متغیر ہوا جاتا ہے تو اس کو ہر دو حصہ میں سے کم حصہ دیا جائے گا یہ کافی میں ہے اور اگر مفقود جنگل میں مر گیا تو اس کے ساتھی کو اختیار ہے کہ اس کا جانور سواری و اسباب فروخت کر دے اور درمون کو اس کے لوگوں کو پہنچا دے اور اگر کسی شخص نے مفقود پر قرضہ یا ودیعت یا شرکت و رعقار یا طلاق یا عتاق یا نکاح یا رد و لعیب یا مطالبہ باستحقاق میں سے کسی حق کا دعویٰ کیا تو اس کے دعویٰ پر التفات نہ کیا جائے گا اور اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے اور جس کو قاضی نے وکیل مقرر کر دیا ہے یعنی وکیل بالقبض یا کوئی اس کے وارثوں میں سے مدعی کے مقابلہ میں خصم قرار نہ دیا جائے گا لیکن اگر قاضی کے نزدیک جائز ہو یعنی قضاء علی الغائب کو جائز جانتا ہو پس اس نے گواہوں کی سماعت کر کے حکم دے دیا تو بالا جماع اس کا حکم نافذ ہو جائے گا یہ تاتار خانہ میں ہے۔